

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔

الحمد لله والمنة کہ یہ کتاب مستطاب

مسمی بہ

فضل الباری

ض

یعنی اردو ترجمہ و حواشی

صحیح بخاری

جلد دوم

از افادات مفسر قرآن حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور

مصنف بیان القرآن، انگریزی ترجمہ القرآن، مقام حدیث، جمع قرآن، النبوة فی الاسلام وغیرہ

جسے

احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور

نے

پرائنٹنگ کو آپریٹوینٹیل سٹیم پریس لاہور میں بابتہام شیخ ظہور الدین صاحب مینجر طبع کرایا

تعداد طبع ۱۰۰۰

بار اول

فهرست ابواب فضل الباری رزقہ صیح البخاری جلد دوم

نمبر صفحہ	خلاصہ ابواب	نمبر ابواب	نمبر صفحہ	خلاصہ ابواب	نمبر ابواب	نمبر صفحہ	خلاصہ ابواب
				۱- کتاب المناقب از ۸۰۹-۸۲۶			
۸۲۹	باب	۱۹	۸۲۱	باب وفات النبی صلعم	۱۹	۸۲۶	باب قول اللہ تعالیٰ یا ایہا الناس الخ
۸۵۶	باب مناقب عمر بن الخطاب	۶	۸۲۲	باب کنیۃ النبی صلعم	۲۰		باب مناقب قریش
۸۵۹	باب مناقب عثمان رضی	۷	»	باب خاتم النبوة	۲۱	۸۰۹	باب مناقب قریش
	باب قصۃ البیعة والافتاد	۸	»	باب صفة النبی صلعم	۲۲	۸۱۱	باب نزول القرآن بلسان قریش
۸۶۲	باب مناقب علی بن ابی طالب	۹	»	باب کان النبی صلعم تنام	۲۳	۸۱۲	باب نسبة الیمین الی اسماعیل الخ
۸۶۶	باب مناقب جعفر بن ابی طالب الخ	۱۰	۸۲۶	باب علامات النبوة فی الاسلام	۲۴	۸۱۳	باب ابن اخت القوم ومولی القوم منهم
۸۶۸	باب مناقب جعفر بن ابی طالب الخ	۱۱	»	باب سؤال مشکوٰئین النبی صلعم	۲۵	۸۱۴	باب قصہ زہرم ونبیہ اسلام
۸۶۸	باب مناقب جعفر بن ابی طالب الخ	۱۲	»	باب سؤال مشکوٰئین النبی صلعم	۲۶	»	باب ذکر قطان الخ
۸۶۹	باب مناقب الزبیر بن العوام الخ	۱۳	۸۲۷	باب سؤال مشکوٰئین النبی صلعم	۲۷	۸۱۵	باب ما ینفی من دعوة الجاہلیۃ
۸۶۹	باب مناقب الزبیر بن العوام الخ	۱۴	۸۲۸	باب فضائل اصحاب النبی صلعم الخ	۲۸	»	باب قصۃ خزاعة الخ
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۱۵	۸۲۹	باب مناقب المهاجرین وفضلہم منهم ابوبکر الخ	۲۹	»	باب قصۃ زہرم وجمل العرب
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۱۶	۸۳۰	باب قول النبی صلعم سدا الابواب الا باب ابی بکر الخ	۳۰	۸۱۸	باب من انتسب الی ابائہ فی الاسلام الخ
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۱۷	۸۳۱	باب فضل ابی بکر بعد النبی صلعم	۳۱	»	باب قصة الحبش
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۱۸	۸۳۲	باب قول النبی صلعم لو كنت متخذاً اخیلاً الخ	۳۲	۸۱۹	باب من احب ان لا یست شمیہ
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۱۹	۸۳۳	باب مناقب الحسن الخ	۳۳	»	باب ما جاء فی اسماء رسول رسول اللہ صلعم الخ
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۲۰	۸۳۴	باب مناقب الحسن الخ	۳۴	»	باب خاتم النبیین صلعم
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۲۱	۸۳۵	باب مناقب الحسن الخ	۳۵	»	
۸۷۱	باب مناقب سعد بن ابی وقاص الخ	۲۲	۸۳۶	باب مناقب الحسن الخ	۳۶	»	

٢٣	باب مناقب بلال بن رباح	٨٤٨	٨٨٨	٣٤	باب ذكر الحبشة الخ	٩٠٤
٢٤	باب ذكر ابن عباس ر	٨٤٩	٨٨٨	٣٥	باب موت الخاشي	٩٠٨
٢٥	باب مناقب خالد بن الوليد	٨٥٠	٨٨٨	٣٦	باب تقاسم المشركين	٩١٠
٢٦	باب مناقب سالم مولى ابي	٨٥١	٨٨٩	٣٧	باب قصة ابي طالب	٩١٠
٢٧	حسن يفتة ر	٨٥٢	٨٨٩	٣٨	باب حديث الاسراء الخ	٩٠٩
٢٨	باب مناقب عبد الله بن مسعود	٨٥٣	٨٨٩	٣٩	باب المعراج	٩١٠
٢٩	باب ذكر معاوية ر	٨٥٤	٨٨٩	٤٠	باب وفود الانصار الى النبي صلعم	٩١٣
٣٠	باب مناقب فاطمة عليها	٨٥٥	٨٨٩	٤١	باب تزويج النبي صلعم عائشة	٩١٣
٣١	السلام الخ	٨٥٦	٨٨٩	٤٢	وقدومه المدينة وبنائه بها	٩١٣
٣٢	باب فضل عائشة ر	٨٥٧	٨٨٩	٤٣	باب هجر النبي صلعم واصحابه	٩١٣
٤٣ - كتاب مناقب الانصار				٤٤	الى المدينة	٩١٤
از ٨٨٣ - ٩٣٣				٤٥	باب مقدم النبي صلعم و	٩١٤
١	باب مناقب الانصار الخ	٨٨٣	٨٩٣	٤٦	اصحابه الى المدينة	٩٢٨
٢	باب قول النبي صلعم لو لا		٨٩٣	٤٧	باب اقامة المهاجرين مكة بعد	٩٢٨
	الحج لكنت من الانصار ر	٨٨٣	٨٩٣	٤٨	قضاء نسكه	٩٣٠
٣	باب اخاء النبي صلعم بين		٨٩٣	٤٩	باب التاريخ	٩٣٠
	المهاجرين والانصار	٨٨٥	٨٩٣	٥٠	باب قول النبي صلعم اللهم	٩٣١
٤	باب حب الانصار		٨٩٣	٥١	امض الخ	٩٣١
٥	باب قول النبي صلعم		٨٩٣	٥٢	باب كيف اخي النبي صلعم	٩٣١
	ولا تصاوانتم احب الناس لي	٨٨٥	٨٩٣	٥٣	بين اصحابه الخ	٩٣١
٦	باب اتباع الانصار	٨٨٥	٨٩٣	٥٤	باب	٩٣١
٧	باب فضل دور الانصار		٨٩٣	٥٥	باب اتيان اليهود النبي صلعم	٩٣١
٨	باب قول النبي صلعم للاتصاف		٨٩٣	٥٦	حين قدم المدينة	٩٣١
	اصيروا الخ	٨٨٥	٨٩٣	٥٧	باب اسلام سلمان الفارسي	٩٣١
٩	باب دعاء النبي صلعم		٨٩٣	٥٨		٩٣١
	الانصار والمهاجرة	٨٨٥	٨٩٣	٥٩		٩٣١
١٠	باب يوثقون على انفسهم		٨٩٣	٦٠		٩٣١
	ولو كان بهم خصاصة	٨٨٥	٨٩٣	٦١		٩٣١
١١	باب قول النبي صلعم اقبلوا من		٨٩٣	٦٢		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٣		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٤		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٥		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٦		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٧		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٨		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٦٩		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٠		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧١		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٢		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٣		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٤		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٥		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٦		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٧		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٨		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٧٩		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٠		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨١		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٢		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٣		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٤		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٥		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٦		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٧		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٨		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٨٩		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٠		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩١		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٢		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٣		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٤		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٥		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٦		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٧		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٨		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	٩٩		٩٣١
		٨٨٥	٨٩٣	١٠٠		٩٣١

٤٣ - كتاب المغاز

١	باب غزوة العشيرة الخ	٩٣٣	٩٣٣	١	باب غزوة العشيرة الخ	٩٣٣
٢	باب ذكر النبي صلعم من بقتل بدر الخ	٩٣٣	٩٣٣	٢	باب ذكر النبي صلعم من بقتل بدر الخ	٩٣٣
٣	باب قصة غزوة بدر الخ	٩٣٣	٩٣٣	٣	باب قصة غزوة بدر الخ	٩٣٣
٤	باب قول الله تعالى اذ استغفروا	٩٣٥	٩٣٥	٤	باب قول الله تعالى اذ استغفروا	٩٣٥
	ربكم الخ				ربكم الخ	

١٠٠٢	باب غزوة الفجة الخ	٢٨	باب الذين استجابوا لله و	٢٤	٩٣٤	باب	٥
١٠٠٣	باب غزوة الفتح في رمضان	٢٩	الرسول الخ	٢٥	٩٣٥	باب عدة اصحاب بدر	٦
١٠٠٤	باب ابن ركن النبي صلعم	٥٠	باب من قتل من المسلمين	٢٨	٩٣٦	باب دعاء النبي صلعم على	٧
١٠٠٥	الرأية	٩٢٤	يوم احد	٢٩	٩٣٧	كفار قريش	٨
١٠٠٦	باب دخول النبي صلعم من	٥١	باب احد مجتبا الخ	٢٩	٩٣٨	باب قتل ابي جهل	٩
١٠٠٧	اعلام مكة	٩٢٨	باب غزوة الرجيم ودعل الخ	٣٠	٩٣٩	باب فضل من شهد بدرًا	١٠
١٠٠٨	باب منزل النبي صلعم يوم الفتح	٥٢	باب غزوة الخندق وهي	٣١	٩٤٠	باب	١١
١٠٠٩	باب	٥٣	الاحزاب	٣٢	٩٤١	باب شهود الملائكة بدرًا	١٢
١٠١٠	باب مقام النبي صلعم بمكة	٥٤	باب مرجع النبي صلعم من	٣٢	٩٤٢	باب	١٣
١٠١١	زمن الفتح	٩٤٢	الاحزاب وخرجه الخ	٣٣	٩٤٣	باب تسمية من سمي من	١٤
١٠١٢	باب	٥٥	باب غزوة ذات الرقاع	٣٣	٩٤٤	اهل بدر الخ	١٥
١٠١٣	باب قتل الله تعالى ويوم	٥٦	باب غزوة بقر المصطلق	٣٤	٩٤٥	باب حديث بقر النضير الخ	١٦
١٠١٤	حين اذا عجبتمكم كثيركم	٩٤٨	من خزاعة الى اخره	٣٥	٩٤٦	باب قتل كعب بن الاشرف	١٧
١٠١٥	باب غزوة او طاس	٥٧	باب غزوة اليمام	٣٥	٩٤٧	باب قتل ابي رافع عند الله	١٨
١٠١٦	باب غزوة الطائف الخ	٥٨	باب حديث الافق	٣٦	٩٤٨	بن ابي الحقيق الخ	١٩
١٠١٧	باب السوية التي قبل فتح الخ	٥٩	باب غزوة الحديبية الخ	٣٦	٩٤٩	باب غزوة احد الخ	٢٠
١٠١٨	باب بعث النبي صلعم خالدا	٦٠	باب تصدق حنظل وعريضة	٣٨	٩٥٠	باب اذ جهمت طائفتان	٢١
١٠١٩	بن الوليد الخ	٩٥٠	باب غزوة ذات القرد الخ	٣٩	٩٥١	مكهم ان تفشلا الخ	٢٢
١٠٢٠	باب سورة عبد الله بن	٦١	باب غزوة خيبر	٤٠	٩٥٢	باب قول الله تعالى ان	٢٣
١٠٢١	حنيفة الخ	٩٥٢	باب استعمال النبي صلعم	٤١	٩٥٣	الذين قولوا انكم يوم النحر	٢٤
١٠٢٢	باب بعث ابي موسى معاذ الخ	٦٢	اهل خيبر	٤٢	٩٥٤	الجمعان الخ	٢٥
١٠٢٣	باب بعث علي بن ابي طالب	٦٣	باب معاملة النبي صلعم	٤٢	٩٥٥	باب اذ تصعد من لا تلون	٢٦
١٠٢٤	وخالدا بن الوليد الى اليمن	٩٥٤	اهل خيبر	٤٣	٩٥٦	باب ثم انزل عليكم من بعد	٢٧
١٠٢٥	قبل حجة الوداع	٩٥٤	باب لثافة التي سميت للنبي	٤٣	٩٥٧	الغم امانة نفاثا الخ	٢٨
١٠٢٦	باب غزوة ذي الخلصة	٦٤	باب غزوة زيد بن حارثة	٤٤	٩٥٨	باب ليس لك من الامشي	٢٩
١٠٢٧	باب غزوة ذات السلاسل	٦٥	باب عمرة القضاء الخ	٤٥	٩٥٩	باب ذكر ارام سليط	٣٠
١٠٢٨	باب ذهاب جبريل الى اليمن	٦٦	باب غزوة مروة من ارض	٤٥	٩٦٠	باب قتل حمزة بن	٣١
١٠٢٩	باب غزوة سيف البحر الخ	٦٦	الشام	٤٦	٩٦١	باب ما اصاب النبي صلعم	٣٢
١٠٣٠	باب حج ابي بكر بالناس في	٦٨	باب بعث النبي صلعم اسامة	٤٦	٩٦٢	من الجراح يوم احد	٣٣
١٠٣١	سنة سبع	١٠٠	ابن زيد الى الحرات من حنين	٤٦	٩٦٣	باب	٣٤

١٥	١٥٢١	١٥٢١	باب وقد بنى تميم	باب قوله قد نرى تقلب وجهك
١٦	١٥٢٢	١٥٢٢	باب وقد بنى حذيفة	باب قوله ولئن اتيت الذين
١٧	١٥٢٣	١٥٢٣	باب وقد بنى حذيفة	او قوا الكتب بكل آية الخ
١٨	١٥٢٤	١٥٢٤	باب قصة الاسود العنسي	باب قوله الذين اتينهم
١٩	١٥٢٥	١٥٢٥	باب قصة اهل خيران	اب كتاب يعرفونه الخ
٢٠	١٥٢٦	١٥٢٦	باب قصة عمان والبحرين	باب قوله ولكل وجهة الخ
٢١	١٥٢٧	١٥٢٧	باب قنوم الاشعرين	باب قوله ومن حيث خرجت
٢٢	١٥٢٨	١٥٢٨	واهل اليمن الخ	قول وجهك الخ
٢٣	١٥٢٩	١٥٢٩	باب قصة دوس والطفيل	باب قوله ومن حيث خرجت
٢٤	١٥٣٠	١٥٣٠	ابن عمر والروسي	قول وجهك شطر الحجر الخ
٢٥	١٥٣١	١٥٣١	باب قصة وقد طوى وحده	باب قوله ان الصفا والبروة
٢٦	١٥٣٢	١٥٣٢	عدى ابن حاتم	من شعأ نزل الله
٢٧	١٥٣٣	١٥٣٣	باب حجة الوداع	باب قوله ومن الناس من يتخذ
٢٨	١٥٣٤	١٥٣٤	باب غزوة تبوك	من دون الله ائدا الخ
٢٩	١٥٣٥	١٥٣٥	باب حديث كعب بن مالك	باب قوله يا ايها الذين امنوا
٣٠	١٥٣٦	١٥٣٦	باب نزول النبي صلعم الحجر	كتب عليكم القصاص الخ
٣١	١٥٣٧	١٥٣٧	بابك	باب قوله يا ايها الذين كتب
٣٢	١٥٣٨	١٥٣٨	باب كتاب النبي صلعم الى	عليكم الصيام الخ
٣٣	١٥٣٩	١٥٣٩	كسرى وقيصر	باب قوله يا ايها اعداؤنا الخ
٣٤	١٥٤٠	١٥٤٠	باب مرض النبي صلعم الخ	باب قوله فمن شهد منكم الشهر الخ
٣٥	١٥٤١	١٥٤١	باب اخر ما تكلم النبي صلعم	باب قوله احل لكم بيوت الصيا
٣٦	١٥٤٢	١٥٤٢	باب وفاة النبي صلعم	الرفق الخ
٣٧	١٥٤٣	١٥٤٣	بابك	باب قوله وكلوا واشربوا الخ
٣٨	١٥٤٤	١٥٤٤	باب بعث النبي صلعم اسامة	باب قوله وليس ابرياتا
٣٩	١٥٤٥	١٥٤٥	ابن زيد الخ	البيوت الخ
٤٠	١٥٤٦	١٥٤٦	بابك	باب قوله وقا تلوهم حتى
٤١	١٥٤٧	١٥٤٧	بابك كغز النبي صلعم	لا تكون فتنة الخ
				باب قوله وانفقوا في سبيل
				الله الخ

سورة البقرة

٦٥- كتاب لتفسير از ١٠٢٧-١٣١٤

١ باب ماجاء في فاتحة الكتاب الخ ١٠٢٤
٢ باب غير الغضوب عليهم الخ

١ باب قوله وعلم آدم الاسماء كلها - - - - - ١٠٢٤

٢ باب قال مجاهد الى شياطينهم ١٠٢٨

٣ باب قوله فلا تجعلوا لله اندادا ١٠٢٨

٤ باب قوله تعالى وظلمات عليكم الغمام الخ - - - - -

٥ باب قوله واذ قلنا ادخلوا هذه القرية الخ - - - - - ١٠٢٩

٦ باب قوله من كان عدوا لجبريل الخ - - - - - ١٠٥٠

٧ باب قوله ما ننسخ من آية الخ ١٠٣٠

٨ باب قوله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه - - - - -

٩ باب قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الخ

١٠ باب قوله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ١٠٣١

١١ باب قوله قولوا امن بالله وما انزل اليينا - - - - - ١٠٥١

١٢ باب قوله سيقول السفهاء من الناس الخ - - - - -

١٣ باب قوله وكانك جعلتكم امة وسطا لتكونوا شهداء بالحق وما جعلنا القليلة التي كنت عليها الخ - - - - -

٣٢ باب قوله فمن كان منكم مريضاً الخ ١٥٤

٣٣ باب قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج الخ

٣٤ باب قوله ليس عليكم جناح ان تبغوا نفلاً من ربكم . . .

٣٥ باب قوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس

٣٦ باب قوله منهم من يعقل ربنا انا انما كنا لنبياتنا احسنه الخ ١٥٨

٣٧ باب قوله وهو الداء الخصاص

٣٨ باب قوله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة الخ

٣٩ باب قوله نساءكم حرث لكم الخ ١٥٩

٤٠ باب قوله واذا طلقتم النساء

٤١ باب قوله والذين يتوفون منكم وينذرون ازواجاً الخ

٤٢ باب قوله حافظوا على الصلوات الخ ١٦١

٤٣ باب قوله وقوم الله قانتين الخ

٤٤ باب قوله عز وجل فان خفتن فوجاك الخ

٤٥ باب قوله والذين يتوفون منكم وينذرون ازواجاً

٤٦ باب قوله واذا قال ابراهيم ارنى كيف تقي الموتى ١٦٢

٤٧ باب قوله ايود احدكم ان تكون له جنة الخ

٤٨ باب قوله لا يسألون الناس الخافاً الخ

٤٩ باب قوله وحل الله البيع الخ

٥٠ باب قوله يحيى الله الربا الخ - ١٦٣

٥١ باب قوله فاذا ذبحوا قرب الخ

٥٢ باب قوله وان كان ذو عقر الخ

٥٣ باب قوله وانقوا يومئذ وجوه فيه الى الله

٥٤ باب قوله وان تبدوا ما في انفسكم الخ

٥٥ باب قوله امن الرسول بما انزل اليه الخ

س - سورة آل عمران

١ باب قوله تقاة و تقية واحرة الخ ١٦٣

٢ باب قوله منه آيات محكمات الخ ١٦٤

٣ باب قوله وانى اعينها بك من الشيطان الرجيم

٤ باب قوله ان الذين يشركون بعهد الله وايمانهم شمئناً قليلاً الخ

٥ باب قوله يا اهل الكتاب لولا الخ ١٦٥

٦ باب قوله لن تناووا البر الخ ١٦٦

٧ باب قوله قل فاذا بالقرابة الخ

٨ باب قوله كنتم خير امة اخرجت للناس

٩ باب قوله اذ همت طائفتان منكم ان تغشوا ١٦٧

١٠ باب قوله ليس لك من الامور شئ

١١ باب قوله والرسول بين يديكم في اخركم الخ

١٢ باب قوله امننة ناعساً

١٣ باب قوله الذين استجابوا لله والرسول الخ ١٦٤

١٤ باب قوله ان الناس قد جمعوا لكم

١٥ باب قوله لا يحسبن الذين يخجلون بما اثمهم الله من فضله

١٦ باب قوله ولستم عن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . . ١٦٨

١٧ باب قوله لا تحسبن الذين يفرون بما اوتوا ١٦٩

١٨ باب قوله ان في خلق السموات والارض ١٧٠

١٩ باب قوله الذين يذكرون الله قياماً الخ

٢٠ باب قوله ربنا انك من تدخل النار الخ

٢١ باب قوله ربنا انا سمعنا منكادياً ينادى للايمان الخ ١٧١

س - سورة النساء

١ باب قوله وان خفتن ان لا تقسطوا في اليتامى . . . ١٧١

٢ باب قوله ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف الخ . .

٣ باب قوله واذا حضر القسمة اولى القربى الخ

٤ باب قوله يوصيكم الله

٥ باب قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ١٧٢

٦ باب قوله لعلكم ترحموا النساء

باب قوله ولكل جعلنا أموالى	٤	باب قوله ولا جناح عليكم	٢٣	ابنوا واعلموا الصلوات جناح الخ	١٠٨٢
مما ترك الولدان الاقربون الخ	١٠٠٢	ان كان بكم اذى الخ	١٠٤٤	باب قوله لا تسالوا عن اشياء	١١
باب قوله ان الله لا يظلم	٨	باب قوله ويستفتونك فى	٢٢	ان تبدلوا بكم تسؤكم ..	١٠
مثقال ذرة الخ ..	١٠	النساء الخ ..	١٢	باب قوله ما جعل الله من	١٢
باب قوله فكيف اذاجئنا	٩	باب قوله ان امرأة خافت	٢٥	هجرة ولا سانية الخ ..	١١
من كل امة بشهيد الخ	١٠٤٣	من بعلمها نشوزا الخ	١٣	باب قوله وكنت عليهم شهيدا	١٣
باب قوله وان كنتم مرضى	١٠	باب قوله ان المنافقين	٢٦	ما دمت فيهم الخ ..	١٠٨٣
او على سفر الخ	١٠٤٢	فى درك الا سفل من النار	١٢	باب قوله ان تعذبهم فانهم	١٢
باب قوله اولى الامر منكم	١١	باب قوله انا ارضينا اليك الخ	١٠٤٨	عبادك الخ ..	١٢
ذوى الا امر ..	١١	باب قوله يستفتونك قل الله	٢٨		
باب قوله فلا وربك لا	١٢	يفتيكم فى الكلاله الخ ..	١٠		
يؤمنون الخ ..	١٢				
باب قوله فاولئك مع الذين	١٣				
انعم الله عليهم الخ ..	١٣				
باب قوله وما لكم لا تفانلون	١٢				
فى سبيل الله الخ ..	١٠٤٥				
باب قوله فيما نكر فى المناقير الخ	١٥				
باب قوله واذا جاءهم امر	١٤				
من الامن او الخوف الخ	١٤				
باب قوله ومن يقتل مؤمنا	١٤				
متعمدا الخ ..	١٠٤٦				
باب قوله ولا تقولوا المن	١٨				
الغنى اليك السلام لست مؤمنا	١٨				
باب لا يستوى القاعدون الخ	١٩				
باب قوله ان الذين توفاهم	٢٠				
الملائكة الخ ..	٢٠				
باب قوله الا المستهجنين	٢١				
من الرجال الخ ..	٢١				
باب قوله نحسب الله ان	٢٢				
يعقوبو عثمهم الخ ..	٢٢				

٤- سورة الانعام

٥- سورة المائدة

٦- سورة الاحزاب

١ باب قوله وعندنا مفاتيح
الغيب الخ .. ١٠٨٧

٢ باب قوله قل هو القادر على
ان يبعث عليكم عدوا كما الخ

٣ باب قوله ولم لا يبسوا ايهاهم
بظلم .. ١٠٨٥

٤ باب قوله ويونس ولو طأ
وكلا فضلت على العالمين ..

٥ باب قوله اولئك الذين
هدى الله فبهذا هم اقرب

٦ باب قوله وعلى الذين هادى
حرمنا الخ ..

٧ باب قوله ولا تقولوا القوا حشرنا
باب قوله هلم شهداءكم

١ باب قوله اليوم اكملت لكم
دينكم الخ .. ١٠٤٨

٢ باب قوله فلم يجدوا ماء
فدعوا الخ .. ١٠٤٩

٣ باب قوله فاذهب انت وربك
باب قوله انما جزاء الذين
يجادون الله ورسوله الخ

٤ باب قوله والجرح قصاص
باب قوله يا ايها الرسول
بلغ ما انزل اليك الخ ..

٥ باب قوله لا ياخذكم الله
باللغو فى ايها نكم ..

١ باب قوله عز وجل قل انما احرم
ربى الفواحش الخ .. ١٠٨٩

٢ باب قوله ولما جاء موسى لميقاتنا

٨ باب قوله لا تحموا طويبات
ما احل الله لكم .. ١٠٨١

٩ باب قوله انما الحمر والميسر
والانصاب الخ ..

١٠ باب قوله ليس على الذين

١١٠١	باب قوله وعرشه على الماء	٣	١٠٩٧	باب قوله يوم نحشي عليهم الخ	٤	١٠٨٨	باب قوله السن والسوى		
	باب قوله ويقول لاشهاد	٣		باب قوله ان عدة الشهر الخ	٨		باب قوله قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الخ		
١١٠٢	هؤلاء الذين كانوا على ايمانهم الخ	٧		باب قوله ثاني انشيد اذها	٩		باب قوله وقولوا سطة		
	باب قوله وكان لك اخذ ربك	٧		في الغار الخ			باب قوله خذ العفو		
	اذا اخذ القرى الخ		١٠٩٥	باب قوله والمؤلفة قلوبهم الخ	١٠				
	باب قوله واقم الصلاة	٥	١٠٩٦	باب قوله الذين يلزمون الخ	١١	٨- سُورَةُ الْاَنْفَالِ			
	طرفي لنهار وذلقاتم الليل الخ			باب قوله استغفر لهم الخ	١٢				
١٣- سُورَةُ يُوسُفَ				باب قوله ولا تصل على احد	١٣	١٠٨٩	باب قوله يسألونك عن الانفال الخ		
	باب قوله ويتم نعمته عليك الخ	١		منهم الخ		١٠٩٠	باب ان شوالد ا ب الخ		
	باب قوله لقد كان في يوسف	٢		باب قوله سيحلفون بالله	١٣		باب قوله يا ايها الذين امنوا		
	واخوته آيات للسائلين			لكم الخ			استجيبوا الخ		
	باب قوله قال بل سولتكم	٣		باب قوله واخرون اعترفوا	١٥		باب قوله واذا قالوا اللهم ان		
	انفسكم امرا الخ	١١٠٣		بذن فوبهم الخ			كان هذا الحق الخ		
	باب قوله ورادته التي هو	٧		باب قوله ما كان للنبى د	١٦	١٠٩١	باب قوله وما كان الله ليقرنكم		
	في بيتها الخ		١٠٩٤	الذين امنوا ان يستغفروا الخ			باب قوله وقاتلوهم حتى لا		
	باب قوله فلما جاءه الرسول	٥		باب قوله لقد تاب الله على	١٤		تكون فتنه		
	قال ارجع الخ	١١٠٥		النبي والمهاجرين الخ			باب قوله يا ايها النبي حرض		
	باب قوله حتى اذا استياس	٦		باب قوله وعلى الثلاثة الذين	١٨		المؤمنين الخ		
	الرسول			خلفوا الخ			باب قوله الان خفف		
١٤- سُورَةُ الرَّعْدِ				باب قوله يا ايها الذين امنوا	١٩	١٠٩٢	الله عنكم الخ		
	باب قوله الله يعلم ما تحمل	١	١٠٩٨	اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الخ					
	كل انثى الخ	١١٠٦		باب قوله لقد جاءكم رسول	٢٠				
١٧- سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ				من انفسكم الخ					
	باب قوله كشيوة طيبة	١	١٥- سُورَةُ يُونُسَ					١	باب قوله براء من الله و
	اصلها ثابت الخ	١١٠٤		باب قوله واذان من الله		١٠٩٢	رسوله الخ		
	باب قوله ثبت الله الذين	٢	١٠٩٩	باب وقالوا اتخذنا الله ولدا الخ	١	١٠٩٣	باب قوله فيجوفى الارض الخ		
	امنوا بالقول الثابت			باب قوله وجاهدنا بنى	٢		باب قوله واذان من الله		
			١١٠٠	اسرائيل البعس الخ			نورسوله الخ		
١١- سُورَةُ هُودٍ				باب قوله لا الذين عاهدتم الخ			باب قوله لا الذين عاهدتم الخ		
			١١٠٠	باب الا انهم يتنون صدورهم الخ	١	١٠٩٧	باب قوله فقاتلوا ائمة الكفر الخ		
							باب قوله الذين يكذبون الذهب		

٢	باب قوله والخامسة اغضبه
١١٢٤	الله عليها ان كان من الصالحين
٥	باب قوله ان الذين جاءوا
»	بالافك عصبه منك الخ
٦	باب قوله ولو لا اذ سمعتموه
١١٢٨	قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا
٤	باب قوله ولو لا فضل الله
»	عليكم ورحمته في الدنيا و
»	الآخرة الخ
٨	باب قوله اذ تلقونه بالسكوت
٩	باب قوله ولو لا اذ سمعتموه
١٠	باب قوله يعظكم الله ان
١١٢٩	تعودوا المشه ابدا
١١	باب قوله ويمين الله اكبر الايات
١٢	باب قوله ان الذين يحبون
»	ان تشيع الفاحشة الخ
١٣	باب قوله ولا ياتلوا القرآن
»	منكروا السورة الخ
١٤	باب قوله وليضربن بجهنم الخ
٢٥ - سورة الفرقان	
١	باب قوله الذين يفتنون على
١١٣٢	وجوههم الخ
٢	باب قوله والذين لا يدعون
»	مع الله الها اخر الخ
٣	باب قوله ايضا عت له العذاب
»	يوم القيامة
٤	باب قوله الا من تاب وامن
»	وعمل عملا صالحا الخ
٥	باب قوله فسوف يكون المرء الخ

٢٤ - الشعراء	
١	باب قوله لا تخزونى يوم يعثون
١١٣٧	»
٢	باب قوله وانذر عشيرتک
»	الاقربین الخ
٢٤ - التمل	
٢٨ - القصص	
١	باب قوله انك لا تهدي
١١٣٥	من احببت الخ
٢	باب قوله ان الذى فوضك
١١٣٦	عليك القرآن الخ
٢٩ - العنكبوت	
٣٠ - غلبت الروم	
١	باب قوله لا تبديل لخلق
١١٣٤	الله الخ
٣١ - لقمان	
١	باب قوله لا تتوكل بالله
١١٣٤	ان الشرك نظلم عظيم
٢	باب قوله ان الله عنده
»	علم الساعة
٣٣ - تنزيل السجدة	
١	باب قوله فلا تعلم نفس ما
١١٣٨	اخفى لهم
٣٤ - الاحزاب	
١	باب قوله النبي اولى
١١٣٨	بالمؤمنين من انفسهم

١١٣٨	باب قوله ادعوهم لياتهم
٣	باب قوله فمنهم من قضى
»	نفيه الخ
٢٧	باب قوله قل لا زواجك ان
»	كنتن الخ
٥	باب قوله وان كنتن تزون
١١٣٩	الله ورسوله الخ
٦	باب قوله وتخطف في نفسك الخ
٤	باب قوله ترجع من تشاينهن الخ
٨	باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي الخ
٩	باب قوله ان تبدوا شيئا
١١٣٧	او تخفوه الخ
١٠	باب قوله ان الله وملائكته
١١٣٣	يصلون على النبي الخ
١١	باب قوله لا تكونوا كالذين
»	اذوا موسى
٣٣ - سبا	
١	باب قوله حتى اذ افرغ عن
١١٣٧	قلوبهم الخ
٢	باب قوله ان هو الا نذير لكم الخ
٣٥ - الملكة (فالم)	
٣٤ - سورة يس	
١	باب قوله الشمس تقوى لمستقرها
١١٣٥	»
٣٤ - والصفات	
١	باب قوله ان يونس لم المرسلين
١١٣٧	»
٣٨ - ص	
١	باب قوله هب لي فلان لا يلبث لاحم
١١٣٧	»

<p>٢٩- الحجرات</p>	<p>٣ باب قوله ربنا اكشف عنا العذاب انا موقنون ١١٥٢</p>	<p>٢ باب قوله وما انا من المتكفين ١١٢٦</p>
<p>١ باب قوله لا ترفعوا اصواتكم ذوق صوت النبي الخ .. . ١١٦٠</p> <p>٢ باب قوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات الخ .. .</p> <p>٣ باب قوله ولو انهم صبروا لحق تخريج اليهم الخ .. . ١١٦٠</p>	<p>٤ باب قوله انى لهم الذكوة الخ ..</p> <p>٥ باب قوله ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون .. . ١١٥٥</p> <p>٦ باب قوله يوم نبطش لبطشة الكبرى .. .</p>	<p>٣٩- الزمر</p> <p>١ باب قوله يا عبادى الذين اسرفوا الخ .. . ١١٢٤</p> <p>٢ باب قوله وما تدروا لله حق قدره .. .</p> <p>٣ باب قوله والارض جميعا قيضته الخ .. . ١١٢٨</p> <p>٤ باب قوله ونفخ في الصور الخ ..</p>
<p>٥٠- سورة هـ</p>	<p>٢٥- الجاثية</p>	<p>٤- المؤمن</p>
<p>١ باب قوله نقول هل من مزيد باب قوله وسيجى محمد ريك قبل طلوع الشمس الخ .. . ١١٦٣</p>	<p>١ باب وما علمكن الا الدهر ٢٥٥</p> <p>٢٤- الاحقاف</p> <p>١ باب قوله والذى قال لوالده اتى لكما الخ ١١٥٢</p> <p>٢ باب قوله فلنارا واه عارضا الخ ..</p> <p>٣ باب .. .</p>	<p>٥- حم السجدة</p> <p>١ باب قوله وما كنتم تستوفون ان يشهد عليكم سمعكم الخ ١١٥١</p> <p>٢ باب قوله وذلك ظنكم الخ ١١٥٢</p> <p>٣ باب قوله فان يصبروا فالنار مثنوى لهم .. .</p>
<p>٥- والذاريات</p>	<p>٢٦- الذين كفروا محمد</p>	<p>٤٢- حم عسق</p>
<p>٥٢- الطور</p>	<p>٢٨- سورة الفتح</p>	<p>١ باب قوله الا المودة في القربى ١١٥٢</p>
<p>٥٣- والجنم</p>	<p>١ باب ان افئنا لك فتحا مبينا باب قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تاخر .. .</p> <p>٢ باب قوله افقرتم اللات والعزى باب قوله اذ مناة الثالثة الاخرى باب قوله انما يحسد الله واعبدا ..</p>	<p>٣٤- حم الزخرف</p> <p>١ باب قوله ونادوا يا مالك ليعقب علينا ريك الخ .. . ١١٥٣</p>
<p>١ باب قوله قاب قوسين او ادنى الخ .. . ١١٦٣</p> <p>٢ باب قوله فادخلى الى عبيده ما اودى .. .</p> <p>٣ باب ان قدر اى من آيات ربه الكبرى .. .</p> <p>٤ باب قوله افقرتم اللات والعزى باب قوله اذ مناة الثالثة الاخرى باب قوله انما يحسد الله واعبدا ..</p>	<p>٢٧- سورة الفتح</p> <p>١ باب ان افئنا لك فتحا مبينا باب قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تاخر .. .</p> <p>٢ باب قوله افقرتم اللات والعزى باب قوله اذ مناة الثالثة الاخرى باب قوله انما يحسد الله واعبدا ..</p> <p>٣ باب قوله هو الذى انزل السكينة .. .</p> <p>٤ باب قوله اذ يبايعونك تحت الشجرة ١١٥٩</p>	<p>٤٢- حم الزخرف</p> <p>١ باب قوله ونادوا يا مالك ليعقب علينا ريك الخ .. . ١١٥٣</p> <p>٤٢- الدخان</p> <p>١ باب قوله تالى السماء يدخان مبين .. . ١١٥٧</p> <p>٢ باب قوله اضحى الناس ههنا عذاب السر .. .</p>
<p>٥٧- اقرب الساعة</p> <p>١ باب قوله وانشق القمر الخ ١١٦٥</p>	<p>٢٨- سورة الفتح</p> <p>١ باب ان افئنا لك فتحا مبينا باب قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تاخر .. .</p> <p>٢ باب قوله افقرتم اللات والعزى باب قوله اذ مناة الثالثة الاخرى باب قوله انما يحسد الله واعبدا ..</p>	<p>٤٢- حم الزخرف</p> <p>١ باب قوله ونادوا يا مالك ليعقب علينا ريك الخ .. . ١١٥٣</p> <p>٤٢- الدخان</p> <p>١ باب قوله تالى السماء يدخان مبين .. . ١١٥٧</p> <p>٢ باب قوله اضحى الناس ههنا عذاب السر .. .</p>

٢	باب قوله تجزي باعيننا الخ	١١٦٦
٣	باب قوله ولقد يتسنا القرآن	
	فهل من مذكور	
٤	باب قوله اعجاز نخل منقعه الخ	
٥	باب قوله فكانوا كهشيم الخ	
٦	باب قوله ولقد صبرهم بكرة	
	عذاب مستقر الخ	
٧	باب قوله سيهزم الجمع و	
	يولون الدبر	
٨	باب قوله بل الساعة معهم	
	والساعة ادهى وامر	

٥	باب قوله ويوشرون على	
	انفسهم الخ	١١٤٢
٤٠- المتحنة		
١	باب لا تتخذوا عدوى و	
	عدوكم اولياء	١١٤٦
٢	باب قوله اذ جاءكم المؤمنات	
	مهجرات	
٣	باب قوله اذ اجادك المؤمنات	
	يبايعنك	١١٤٣

٦	باب قوله سوا عليهم	
	استخفرت لهم الخ	١١٤١
٧	باب قوله هم الذين يقولون	
	لا تنفقوا على من عند	
	رسول الله الخ	
٨	باب قوله يقولون لنرجعنا	
	الى المدينة الخ	

٤١- سورة التغاب والظالم

١	باب قوله واولات الاحمال الخ	١١٤٤
---	-----------------------------	------

٥٥- سورة الرحمن

١	باب قوله من دونهم اجناتان	١١٦٨
٢	باب حور مقصورات في	
	الخيام الخ	١١٦٩

٤١- سورة الصف

١	باب قوله تعالى من بعدى	
	اسمه احمد	١١٤٣

٤٢- سورة الاحقاف

١	باب يا ايها النبي لم تحرم	
	ما احل الله لك الخ	١١٤٨
٢	باب يتبغض مرضات ازوليك الخ	١١٤٩
٣	باب قوله واذا سوا النبي	
	الى بعض ازواجه الخ	١١٥٠
٤	باب قوله ان تتوبا الى الله الخ	
٥	باب قوله على ربه ان	
	طلقن ان يريد له الخ	

٤٢- الجمعة

١	باب قوله والآخرين منهم لما	
	يلحقوا بهم الخ	١١٤٣
٢	باب قوله واذا اول الخ	
	الخ	

٥٦- الواقعة

١	باب قوله وظل محدود	١١٤٠
---	--------------------	------

٤٣- سورة المنافقون

١	باب قوله اذا جاءك المنافقون	
	قالوا نشهد الخ	١١٤٥
٢	باب قوله اتخذوا اليمانهم حجة	
٣	باب قوله ذلك يا نهم امنوا	
	ثم كفروا الخ	
٤	باب قوله واذا رايتمهم	
	تجسسك اجسامهم الخ	
٥	باب قوله واذا قيل لهم	
	تعالوا الخ	١١٤٦

٥٧- الحديد

٥٨- المجادلة

٥٩- الحشر

١	باب قوله ما قطعتم من لينة الخ	١١٤١
٢	باب قوله ما افار الله على رسوله	
٣	باب قوله وما اتاكم الرسول	
	فخذوه	
٤	باب قوله والذين تبوءوا	
	الدار والايمان	١١٤٢

٤٤- تبارك الذي بيده الملك

٤٨- بن والقلم

١	باب قوله عتيل بوزة الك زعيم	١١٨١
٢	باب قوله يوم يكشف عن ساق	

٤٩- الحاقة

٥٠- سوال سائل والمعارج

٥١- انا ارسلنا نوح

٩٧- الم نشرح	٨٤- ويل للمطففين (تلفيف)	١- باب ودّ ولا سواهما الخ ١١٨٣
٩٥- والتين	٨٧- اذ السماء انشقت	٢- قتل وحى الى الرحمن
٩٦- اقرأ باسم ربك الذي خلق (العنق)	١- باب فسويها سجايا يسيرا ١١٨٩ ٢- باب لتربن طبعا عن طبق ١١٩٠	٣- سورة البرمّل
١- باب ١١٩٣	٨٥- البروج	٤- المدثر
٢- باب قوله خلق الانسان من علق ١١٩٥	٨٦- الطارق	١- باب قوله قدم وانذر ١١٨٣ ٢- باب قوله وربك فكبر ١١٨٤
٣- باب قوله اقرأ وربك الاكرم	٨٤- سبح اسم ربك الاعلى	٣- باب قوله وشياك فطمه ١١٨٥ ٤- باب قوله والرحمن فاهج الخ
٤- باب قوله الذي علم بالقلم	٨٨- هل تاتك حيد الغاشية	٥- سورة القيامة
٥- باب قوله كلالين لم ينته الخ	٨٩- والفجر ١١٩١	١- باب انا علينا جميعه وقرانه ١١٨٥
٩٤- انا انزلناه (القدر)	٩٠- لا اقسام (البلد)	٢- باب قوله فاذا قرأنا فاتح قرانه الخ
٩٨- لم يكن (البيتيم)	٩١- الشمس وضحاها (الشمس)	٤٤- الدهر والمرسل
٩٩- اذا زلزلت الارض زلزالها (الزلزال)	٩٢- والليل اذا يغشاها (الليل)	١- باب قوله انها ترى بشري كالعصو ١١٨٦
١- باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا	١- باب والنهار اذا اجتمع ١١٩١	٢- باب قوله كانه بجمال صفر ١١٨٧
٢- باب قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره	٢- باب وما خلق الذكر والا انثى ١١٩٢	٣- باب قوله هذا يوم لا ينطقون ١١٨٤
١٠٠- والعاديات	٣- باب له فاما من اعطوا النطق ١١٩١	٤٨- عجم يتساءلون
١٠١- القارعة	٤- باب قوله وصدق بالحسنى ١١٩٢	١- باب قوله يوم ينفتح في الصور ١١٨٤
١٠٢- الهاكم (الكاشف) ١١٩٤	٥- باب قوله فستيسره لليسر ١١٩٣	٤٩- والتازعات
١٠٣- والعصر	٦- باب قوله واما من جعل استغنى ١١٩٤	٨٠- عيسى
١٠٤- ويل لكل همزة (الهمزة)	٧- باب قوله وكذب بالحسنى ١١٩٥	٨١- اذا الشمس كورت (تكوير)
١٠٥- المتر فيل	٨- باب قوله فستيسره للعسرى ١١٩٦	٨٢- اذا السماء انفطرت (النفط)
١٠٦- لا يلاف قريش (قريش)	٩- والضحى	١١٨٩

١٢١٧	باب في تم نقرأ القرآن الخ	١٢٠٤	باب القراءة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم	٨	١٠٤- ارايت المادون
١٢١٨	باب البكار عند قولة القرآن	١٢٠٩	باب فاتحة الكتاب	٩	١٠٨- انا اعطيناك الكوثر الكوثر
١٢١٩	باب من را يقرأه القرآن الخ	١٢١٠	باب فضل البقرة	١٠	١٠٩- قل يا ايها الكفرون (الكافرون)
١٢٢٠	باب اقرأ القرآن الخ	١٢١١	باب فضل النكهة	١١	١١٠- اذ اجاز نصي الله (النصر)
١٢١٤- كتاب النكاح ١٢٥٥			١٢١٢	باب فضل سورة الفتح	
١٢١٤	باب الترغيب بالنكاح	١٢١٣	باب فضل قل هو الله احد	١٢	
	باب قول النبي صلعم من استطع	١٢١٤	باب فضل المعوذات	١٣	١ باب قوله ورايت الناس يدخلون
١٢١٨	منكر الباءة فليتزوج الخ	١٢١٥	باب نزول السكينة الخ	١٤	في دين الله افواجاً . . . ١١٩٩
	باب من لم يستطع الباءة فليعلم	١٢١٦	باب من قال لم يترك النبي صلعم الاماد فنتين	١٥	٢ باب قوله فيسبحون ربك الخ . . .
	باب كثرة النساء	١٢١٧	باب فضل القرآن	١٦	
	باب من هاجر او عمل خيراً الخ	١٢١٨	باب الوصاية بالقرآن	١٧	١١١- ثبت يدل ابي لهب (اللمب)
	باب تزويج المعسر الذي	١٢١٩	باب من لم يتغن بالقرآن	١٨	١ باب قوله تبا اغنى عنه الخ ١٢٠٠
١٢١٩	معه القرآن الخ	١٢٢٠	باب اعتباط صاحب القرآن	١٩	٢ باب قوله سيصل نارا اذا لم
	باب قول الرجل لاخيه انظر	١٢٢١	باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه	٢٠	
١٢٢٠	اي زوجتي شئت الخ	١٢٢٢	باب القراءة عن ظهر القلب	٢١	١١٢- قل هو الله احد (الافلام)
	باب ما يكره من التبطل	١٢٢٣	باب استنكار القرآن وتعاها	٢٢	١ باب قوله الله الصمد الخ ١٢٠٠
	والنحصاء	١٢٢٤	باب القراءة على الذابئة	٢٣	١١٣- قل عذوب رب الفلق (الفلق)
	باب نكاح الابكار الخ	١٢٢٥	باب تعليم الصبيان القرآن	٢٤	١١٤- قل عذوب رب الناس (الناس)
	باب الشيبات الخ	١٢٢٦	باب نسيان القرآن الخ	٢٥	١٢٠٤- كتاب فضائل القرآن ١٢١٤
	باب تزويج الصغار من	١٢٢٧	باب من لم يرب بأسات	٢٦	١ باب كيف نزل الوحي الخ ١٢٠١
١٢٢١	الكبار	١٢٢٨	يقول سورة البقرة الخ	٢٧	٢ باب نزل القرآن بلسان قرين ١٢٠٢
	باب الى من يتكلم واهى	١٢٢٩	باب ترتيب القرآن	٢٨	٣ باب سمع القرآن . . . ١٢٠٣
	النساء خير الخ	١٢٣٠	باب من القراءة	٢٩	٤ باب كاتب النبي صلعم . . . ١٢٠٥
١٢٢٢	باب اتخاذ السراوي الخ	١٢٣١	باب الترجيح	٣٠	٥ باب انزل القرآن على سبعة
	باب من جعل عتق الامة	١٢٣٢	باب حسن الصوت بالقراءة	٣١	احرف
	صدراً قها	١٢٣٣	باب من احب ان يسمع	٣٢	٦ باب تأليف القرآن . . . ١٢٠٦
	باب تزويج المعسور الخ	١٢٣٤	القرآن من غيره	٣٣	٧ باب كان جبريل يعرض القرآن
	باب الاكفاء في الدين الخ	١٢٣٥	باب قول المقرئ حسبك	٣٤	٨ على النبي صلعم الخ . . . ١٢٠٤
١٢٢٣	باب لا كفاد في المال الخ				

١٢٣٨	يهدين العروس إلى	٣٩	باب النكاح الرجل ولده	١٢٢٢	باب ما يتبع من شتم المرأة الخ
٥٩	باب من أحب لبناء قبل الغزو	١٢٣٣	الصدقات الخ	١٢٢٥	باب الحرة تحت العبد
٦٠	باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين	٣٣٣	باب تزويج الأب ابنته	٣٠	باب لا يتزوج أكثر من أربع الخ
٦١	باب البناد في السفر	٣٣٣	من الامام الخ	٣١	باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
٦٢	باب البندل بالنهار يتغير مركب ولا يفران	٣١	باب السلطان وتلى الخ	١٢٢٦	باب ما قال لأرضاء بعد حولين
٦٣	باب لا غمط وهوها للنساء	٣٢	باب لا يتكلم الأب غير الأبكر	٣٣	باب لبن فحل
٦٤	باب لسوة اللاتي يهدين	٣٣	والشيب الأبرضاها	٣٤	باب شهادة المرضعة
١٢٣٩	المرأة إلى زوجها	٣٣	باب إذا زوج ابنته وهي كارهة الخ	١٢٣٤	باب ما جهل من النساء الخ
٦٥	باب الهدية للعروس	٣٤	باب تزويج البتيمة الخ	١٢٣٩	باب ما ذكر من نسائك الخ
٦٦	باب استجارة الشياطين والعروسة وغيرها	٣٥	باب إذا قال الخاطب للولي زوجي فلانة الخ	٣٤	باب وان جمعوا بين الاختيارين
٦٧	باب ما يقول الرجل إذا اتى أهله	٣٦	باب لا يخطب على خطبة أخيه الخ	٣٨	باب لا تنكح المرأة على عمتها
١٢٣٩	باب الوليمة حق الخ	٣٧	باب تفسير ترك الخطبة	١٢٢٩	باب الشغار
١٢٣٩	باب الوليمة ولو شاة	٣٨	باب الخطبة	٣٠	باب هل للمرأة ان تتكلم بنفسها لاحد
٦٨	باب من أولم على البعض شأنه أكثر من بعض	٣٩	باب ضوب اللث في النكاح والوليمة	٣١	باب نكاح المحرم
٦٩	باب من أولم بأقل من شاة	٤٠	باب تزويج على القرآن وبقير صدق	٣٢	باب نهي رسول الله صلعم عن نكاح المتعة آخر
٧٠	باب من أجابة الوليمة والدعوة الخ	٤١	باب المهر بالعروض خاتم من حديد	٣٣	باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
٧١	باب من أجاب إلى كراجه العروس وغيرها	٤٢	باب الشروط في النكاح الخ	١٢٣٠	باب عرض لاشان ابنته أو اخته على أهل الخاير
٧٢	باب ذهاب النساء إلى الصبيان إلى العرس	٤٣	باب الشروط التي لا تصل في النكاح الخ	٥٢	باب قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح الخ
٧٣	باب هل يرجع إذا رأى	٤٤	باب الشروط التي لا تصل في النكاح الخ	٥٣	باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
		٤٥	باب كيف يدعى للمتزوج	٥٤	باب من قال لا نكاح إلا بولي الخ
		٤٦	باب الدعاء للنساء اللاتي	٥٥	باب إذا كان الولي هو الخا

١٣٥٣	باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة	١٣٣٤	نشور الرجل	١٢٧١	متكرراً في الدعوة الخ
»	باب نظر المرأة الى الحبشي	»	باب العزل	١٢٧٢	باب قيام المرأة على الرجال في العرس
»	باب خروج النساء نحو الجهنم	١١٤	باب القرعة بين النساء	٩٨	باب النقيع والشوايبي
»	باب اشئيد ان المرأة زوجها	١٣٣٨	اذا اراد سفرها	»	لا يسكن في العرس
»	باب الخروج الى المسجد	»	باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها الخ	٩٩	باب المداراة مع النساء الخ
»	باب ما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرضاع	»	باب العدل بين النساء الخ	١٠٠	باب الوصاة بالنساء
١٣٥٢	باب لا تباشر المرأة المرأة فتنسخها لزوجها	»	باب اذا تزوج البكر على الشيب	١٠١	باب قوا انفسكم واهليكم ناراً
»	باب قول الرجل لا طوفن الليلة على نسائه	»	باب اذا تزوج الشيب على البكر	١٠٢	باب حسن المعاشرة مع الاهل
»	باب لا يطرق اهله ليلاً	»	باب من طلق على نسائه في غسل واحد	١٠٣	باب موعظة الرجل ابنته لئلا زوجها
»	باب طال الخيبة الخ	١٣٢٩	باب دخول الرجل على نسائه في اليوم	١٠٤	باب اذا باتت المرأة مهاجراً فراش زوجها
»	باب طلب الولد	»	باب اذا استاذن الرجل نسائه في ان يعرض في بيت بعضهم الخ	١٠٥	باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاجد الخ
»	باب تسخف المغيبة وتمتنط	»	باب حب الرجل بعض نسائه	١٠٦	باب
»	باب لا يبدين زينتهن الا لبعولهن الخ	١٣٢٧	باب المتشبه بهالم يتل الخ	١٠٧	باب كفران العشير الخ
»	باب الذين لم يبلغوا الحلم	»	باب الغيرة الخ	١٠٨	باب لزوجك عليك حتى الخ
»	باب قول الرجل نصاحبه هل اعرضتم الليلة الخ	١٣٢٨	باب غيرة النساء ووجوهن	١٠٩	باب المرأة راعية في بيت زوجها
٢٥٥ - كتاب الطلاق ١٢٤٤		١	باب قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا ان طلقتم النساء الخ	١١٠	باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء الخ
١	باب قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا ان طلقتم النساء الخ	»	باب يقول الرجال يكذب النساء الخ	١١١	باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه في غير بيوتهن الخ
٢	باب اذا اطلقت الحائض بعد ذلك الطلاق	»	باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس	١١٢	باب ما يكره من ضرر النساء الخ
٣	باب من طلق وهل يراجع امراته بالطلاق	»	»	١١٣	باب لا تطيح المرأة زوجها في معصية
٤	باب من اجاز طلاق الثلثة الخ	١٣٥٣	»	»	»

١٢٤٣	باب مراجعة الحائض	٢٥	١٢٢٤	باب الظهار والخ	٢٣	١٢٥٨	باب من خير نساء الخ
	باب تعد المتوفى عنها زوجها	٢٦		باب الاشارة في الطلاق	٢٢		باب اذا قال فازقتك او
١٢٤٥	باب الكحل للمادة	٢٤		والامور الخ			سرحتك الخ
	باب القسط للمادة عند الطهر	٢٨		باب اللعان الخ	٢٥		باب من قال لامرأته انت
	باب تلبس للمادة ثياب العصب	٢٩	١٢٢٩	باب اذا عرض بنفي الولد	٢٦	١٢٥٩	على حرام الخ
	باب والذين يتوفرون منكم	٥٠	١٢٤٠	باب احداث الملاهي	٢٤		باب لم يفرم ما احل الله لك
	ويذرون ازواج الخ			باب يبيد الرجل بالتلاعن	٢٨	١٢٦٠	باب لا هلاق قبل لكاح الخ
١٢٤٦	باب المتعة والكاح الغاسق	٥١		باب اللعان ومن طلق بعد	٢٩		باب اذا قال لامرأته وهو
	باب المهر للمدخل عليها الخ	٥٢		اللعان			مكره هذا الخ
	باب المتعة للتم لم يقرض	٥٣		باب التلاعن في المسجن	٣٠		باب الطلاق في الاغلاق
	لها الخ			باب قول النبي صلح لو كنت	٣١	١٢٦١	والكره الخ
				راجمًا بغير بينة			باب الخلع وكيف الطلاق
٤٩- كتاب النفقة (١٢٤٦-١٢٣٨)				باب صداق الملاعنة	٣٢	١٢٦٣	فيه الخ
	باب فضل النفقة على			باب قول الامام للمتلاعنين	٣٣		باب لا نشفاق وهل يشير
١٢٤٧	الاهل الخ			ان احدكما كاف في الخ			بالخلع عند الضرورة الخ
	باب وجوب النفقة على			باب التفريق بين المتلاعنين	٣٤	١٢٦٤	باب لا يكون بيع الامة طلاقًا
١٢٤٨	الاهل والعيال			باب يلحق الولد بالملاعنة	٣٥		باب خيار الامة
	باب حبس نفقة الرجل			باب قول الامام اللهم بين	٣٦		باب شفاعت النبي صلح في
١٢٤٨	الى سنف على اهله الخ		١٢٤٢	باب اذا اطلقها ثلاثا الخ	٣٤		زوج بريرة
	باب وقال الله تعالى والوالد			باب واللائي يئسن من المحضرة	٣٨		باب
	يرضعن اولادهن حولين الخ			باب ما ولات الاحمال	٣٩		باب قول الله تعالى ولا تتكلموا
	باب نفقة المرأة اذا اغاب			اجلهن الخ			المشوكات حتى يؤمن الخ
١٢٤٩	عنها زوجها ونفقة الولد			باب قول الله تعالى والمطلقا	٢٠		باب نكاح من اسم من
	باب المرأة في بيت زوجها			يتربصن الخ		١٢٦٥	المشوكات عمتان
	باب خادم المرأة			باب قصة فاطمة بنت	٢١		باب اذا اسلمت المشركة الخ
	باب خذمة الرجل في اهله			قيس الخ			باب قول الله تعالى للذي
	باب اذا المتبغ الرجل فله المرأة			باب المطلقة اذا احتشى عليها	٢٢		يؤلون من نساءهم تربص
	ان تاخذ بغير علمه		١٢٤٣	باب قول الله تعالى ولا يهل	٢٣	١٢٦٦	اربعة اشهر الخ
	باب حفظ المرأة زوجها			لهن ان يكفن ما احل الله			باب حكم المفقود في اهله
	في ذات يده والنفقة		١٢٤٤	باب قول النبي من اقرضني			وماله
١٢٥٠	باب كسوة المرأة بالمعروف			من اقرضني حتى يرجع الي			

١٢٩٠	باب	١٢٨٥	باب الشواء الخ	١٢	باب خون المرأة زوجها
»	باب الرطب والتمر	»	باب الخزيرة الخ	١٣	باب نفقة المصر على اهله
١٢٩١	باب اكل الجمار	»	باب الاقطار	١٤	باب وعلى الوارث مثل الكفا
»	باب العجوة	»	باب السقي والشعير	١٥	باب قول النبي صلعم من ترك
»	باب القران في التمر	١٢٨٦	باب النهس والنتال اللحم	»	كل الاوصياء فاني
»	باب القثاء	»	باب تعرق العضد	١٦	باب المرض من المواليات
»	باب بركة النخل	»	باب قطع اللحم بالسكين	»	وعلاهن
»	باب جهر النونين والطوايين	»	باب ما عالج النبي صلعم طعاما	كتاب الاطعمة ١٢٨٠-١٢٩٢	
»	ببرق	»	باب التفريح في الشعير		
»	باب من ادخل الضيفان	١٢٨٧	باب ما كان النبي صلعم	١	باب قول الله تعالى كلوا من
١٢٩٢	عشيرة عشيرة الخ	»	واصحابه ياكلون	٢	طيبات ما رزقناكم الخ
»	باب ما يكره من الشوم الخ	١٢٨٨	باب التلبينة	٣	باب التسمية على الطعام
»	باب الكبات وهو ثمر الراك	»	باب الزيتون	٤	والاكل باليمين
»	باب المضمضة بعد الطعام	»	باب ما كان السلف يمشون	٥	باب الاكل مما يليه الخ
»	باب لعق الاصابه ومضمها	»	في بيوتهم الخ	٦	باب من شبع حوالى القصة
»	باب المتديل	»	باب الحيس	»	هم صاحب الخ
»	باب ما يقول اذا فرغ من	»	باب الاكل في اناة شخص	٧	باب التيمون في الاكل وغيره
»	طعام	١٢٨٩	باب ذكر الطعام	٨	باب من اكل حتى يشبع
١٢٩٣	باب الاكل مع الخادم	»	باب الادم	٩	باب ليس على الاكل حرج
»	باب الطعام الشاكر مثل	»	باب الحلواء والعسل	١٠	باب الخبز المرقق والاكل
»	الصائم الصابر	»	باب الدباء	١١	على الخوان والسفرة
»	باب الرجل يمشى الى الطعام	»	باب الرجل يتكلمنا الطعام	١٢	باب السويق
»	باب اذا حضوا العشاء	١٢٩٠	لا شوائبه	١٣	باب ما كان النبي صلعم لا
»	فلا يعجل عن عشاءه	»	باب من هضاف رجلا الى	»	ياكل حتى يسمى له الخ
»	باب قول الله تعالى فاذا	»	طعام الخ	١٤	باب طعام الواحد ياكله
»	طعام فان شئوا الخ	»	باب المرق	١٥	الاثنين
كتاب العقبة ١٢٩٤-١٢٩٥		»	باب القديد	١٦	باب المؤمن ياكل في معي
		»	باب من ناول او قدم الى	»	واحد
»	باب تسمية المولد دفاعة يولد	»	صاحبه على المائدة شيئا	١٧	باب الاكل متكئا
١٢٩٤	لمن لم يبع وتحذيكه	»	باب الرطب بالقشاة	١٨	

١٣٠٨	بين الناس	١٩	باب ذبيحة المرأة والامة	٢	باب اماطة الاذى عن
٣	باب الاضحية للمسافر والنساء	٢٠	باب لا يذبح بالسن والعظم	١٢٩٥	الصبي بالعقيقة
٤	باب ما يشتهي من اللحم يوم النحر	١٣٠٢	والظفر	٣	باب الفروع
٥	باب من قال لا ضحى يوم النحر	٥	باب ذبيحة الاعراب و	٤	باب العتيرة
٦	باب الاضحية والنحر بالمصل	٦	نحوهم	٢٠٠ كتاب الذبائح والصيد ١٢٩٥	
٧	باب في اضحية النبي صلعم	٧	باب ذبائح اهل الكتاب		
٨	بابكسعين اقرنين الخ	٨	باب ما نذ من البهايم فهو	١	باب القسمة على الصيد الخ ١٢٩٥
٩	باب قول النبي صلعم لا ي	٩	ببمنزلة الوحش الخ	٢	باب صيد المعراض
١٠	بردة ضحى بالجزء من المعز الخ	١٠	باب النحر والذبح الخ	٣	باب ما اصاب المعراض بعوض
١١	باب من ذبح الاضحية بينه	١٣٠٣	باب ما يكره من المثلة الخ	٤	باب صيد القوس
١٢	باب من ذبح ضحية غيره	١٣٠٤	باب لحم الدجاج	٥	باب الخنزير والبتدقة
١٣٠٩	واعان الخ	١٣	باب لحوم الخيل	٦	باب من اقتنض كلبا ليس
١٤	باب الذبح بعد الصلوة	١٤	باب لحوم الحمرا لاشية الخ	٧	يلكب صيدا وما شية
١٥	باب من ذبح قبل الصلاة اعاد	١٥	باب اكل كل ذي ناب من	٨	باب اذا اكل الكلب
١٦	باب وضع القدم على صفي	١٣٠٥	السياب	٨	باب الصيد اذا غاب
١٧	الذبيحة	١٦	باب جلود الميتة	٩	عنه يومين الخ
١٨	بابك اذا بعث يهديه ليدبح	١٧	باب المسك	٩	بابك اذا وجد مع الصيد
١٩	لم يحرم الخ	١٨	باب الارنب	١٠	كلها اخر
٢٠	باب ما يؤكل من لحوم الاضحية	١٩	باب الضب	١٠	باب ما جاء في التصيد
٢٠٠ كتاب الاشربة ١٣١٢		٢٠	باب اذا وقعت الفارة	١١	باب التصيد على الجبال
١	باب الخمر من العنب	٢١	في السممن الجوامد الخ	١٢	باب قول الله تعالى احل
٢	بابك نزل تحريم الخمر وهي	٢٢	باب الوسم والعلم والصدقة	١٣	لكم صيد البحر الخ
٣	النسوة والخمر	٢٣	باب اذا اصاب قوم غليمة	١٤	باب اكل الجراد
٤	باب الخمر من العسل وهو	٢٤	فذب الخ	١٥	باب اتية الجوس الميتة
٥	البتة الخ	٢٥	باب اذا نذ بعير لقوم الخ	١٥	باب التسمية على الذبيحة الخ
٦	باب ما جاء في ان الخمر من	٢٦	باب اكل المضطر الخ	١٦	باب ما ذبح على النصب
٧	خامر العقل من الشراب	٢٠٠ كتاب الاضاحي ١٣١٢		١٧	والاصنام
٨	باب ما جاء فيمن يستحل الخمر الخ	١	باب سنة الاضحية الخ	١٧	باب قول النبي صلعم فليذبح
٩	باب الانتباه في الاضحية والتذبح	٢	باب قسمة الامام الاضاحي	١٨	على اسم الله
					باب ما انهر الدم من القصب الخ

باب ترخيص النبي صلعم في

الاوعية والظروف بعد النهي ١٣١٧

باب نقيع التمر ما لم يسكر ١٣١٥

باب الباذق ومن نهى عن كل

مسكر الخ

باب من دأى ان لا يخلط

اليسو والتمر الخ ١٣١٦

باب شرب اللبن الخ

باب استعذاب الماء ١٣١٤

باب شرب اللبن بالماء

باب شرب الحلواء والعسل الخ ١٣١٨

باب الشرب قائماً

باب من شرب دهوراً وقع

بلب الايمن فالايمن في الشرب

باب هل يتاذن الرجل

من عن يمينه في الشرب الخ

باب اكرع في الحوض ١٣١٥

باب خدمة الصغار الكبار

باب تعطية الاناء

باب اختناث الاسقية

باب الشرب من فم السقاء

باب التنفس في الاناء

باب الشرب بنفسين وثلاثة

باب الشرب في انية الذهب ١٣٢٠

باب انية الفضة

باب الشرب في الاقداح

باب الشرب من فم النبي صلعم

والنبيته الخ

باب شرب البركة والماء

المبارك ١٣٢١

٥٥- كتاب المرض ١٣٢١

باب ما جاء في كفارة المرض الخ ١٣٢١

باب شدة المرض ١٣٢٢

باب اشد الناس بلاء

الا نبياء الخ ١٣٢٣

باب وجوب عيادة المريض

باب عيادة المغتسل حليد

باب فضل من يصوم من الرجح

باب فضل من ذهب بصوماً

باب عيادة النساء الرجال ١٣٢٧

باب عيادة الصبيان

باب عيادة الاعراب

باب عيادة المشرك

باب اذا عاد مريضاً فحضر

الصلوة الخ

باب ما يقال للمريض ١٣٢٥

باب عيادة المريض كثيراً

وما مشياً

باب قول المريض ائى وجه الخ

باب المريض قوم اعنى ١٣٢٧

باب من ذهب بالصبي المريض

ليدعى له

باب تمنى المريض الموت

باب دعا لعائد للمريض ١٣٢٤

باب وضوء العائد للمريض

باب من تعارفتم الوباء والحجى

٥٤- كتاب الطب ١٣٢٤

باب ما انزل الله داء الا انزل

له شفاء ١٣٢٤

باب هل يداوى الرجل المرأة

او المرأة الرجل ١٣٢٨

باب المشفاء في ثلاث

باب الدواء بالعسل الخ

باب الدوايا لمبان الابل ١٣٢٩

باب الدواء بابول الابل

باب الحبة السوداء

باب المتلبينة للمريض

باب السعوط ١٣٣٠

باب السعوط الهندى البحرى الخ

باب اى ساعة يحجم الخ

باب الحجم فى السفرو الاحرام الخ

باب الحجامة من الدواء

باب الحجامة على الرأس

باب الحجم من الشقيقة والصداع

باب الحلق من الاذنى

باب من ائتوى اذنى غيره الخ ١٣٣١

باب الاثمد والكل من الورد

باب الجذام ١٣٣٢

باب المن شفاء للعين

باب اللدود

باب الخنزير الخ

باب العذرة

باب دواء المبطون ١٣٣٣

باب الاصفر وهو داء يأخذ

البطن

باب ذات الجنب

باب حرق الحصيد ليسد به

الدم

١٣٤٧	باب لا تردت ان على الدابة	٩٨	١٣٥٥	باب الذوائب	٤١	١٣٥٣	باب خاتم الغضنة	٧٤
٩٩	باب الثلاثة على الدابة	٩٩	١٣٥٦	باب القزع	٤٢	١٣٥٤	باب	٧٥
١٠٠	باب حمل صاحب الدابة	١٠٠	١٣٥٧	باب تطيب المرأة زوجها	٤٣	١٣٥٥	باب فقس الخاتم	٧٨
١٣٤٨	غيره بين يديه الخ	١٠١	١٣٥٨	باب الطيب في الرأس الخ	٤٤	١٣٥٦	باب خاتم الحديد	٧٩
١٠١	باب ارداف الرجل خلف الرجل	١٠٢	١٣٥٩	باب الامتشاط	٤٥	١٣٥٧	باب نقش الخاتم	٥٠
١٠٢	باب ارداف المرأة خلف الرجل	١٠٣	١٣٦٠	باب الترحيل الخاض زوجها	٤٦	١٣٥٨	باب الخاتم في الخنصر	٥١
١٠٣	باب الاستلقاء ووضع الرجل على الاخرى	١٠٤	١٣٦١	باب الترحيل	٤٧	١٣٥٩	باب اتخاذ الخاتم ليختم به	٥٢
١٣٤٩	باب قول النبي صلعم لا ينقض على نقش خاتمه	١٠٥	١٣٦٢	باب ما يذكر في المسك	٤٨	١٣٦٠	باب من جعل فقس الخاتم في بطن كفه	٥٣
١٣٥٠	باب المتفليات للحسن	١٠٦	١٣٦٣	باب ما يستحب من الطيب	٤٩	١٣٦١	باب قول النبي صلعم لا ينقض على نقش خاتمه	٥٤
١٣٥١	باب الوصل في الشعر	١٠٧	١٣٦٤	باب ما يرد الطيب	٥٠	١٣٦٢	باب هل يجعل نقش الخاتم	٥٥
١٣٥٢	باب المتنتصات	١٠٨	١٣٦٥	باب الذريرة	٥١	١٣٦٣	ثلاثة اسطر	٥٦
١٣٥٣	باب الموصلة	١٠٩	١٣٦٦	باب المتفليات للحسن	٥٢	١٣٦٤	باب الخاتم للنساء الخ	٥٧
١٣٥٤	باب الواشمة	١١٠	١٣٦٧	باب الوصل في الشعر	٥٣	١٣٦٥	باب القلائد والسيف للنساء	٥٨
١٣٥٥	باب المشوشمة	١١١	١٣٦٨	باب المتنتصات	٥٤	١٣٦٦	باب استتارة القلائد	٥٩
١٣٥٦	باب التصاوير	١١٢	١٣٦٩	باب الموصلة	٥٥	١٣٦٧	باب القوط للنساء	٦٠
١٣٥٧	باب عذاب المصورين الخ	١١٣	١٣٧٠	باب الواشمة	٥٦	١٣٦٨	باب السحاب للمصبيان	٦١
١٣٥٨	باب نقض الصور	١١٤	١٣٧١	باب المشوشمة	٥٧	١٣٦٩	باب المشبهون بالنساء الخ	٦٢
١٣٥٩	باب ما وطي من التصاوير	١١٥	١٣٧٢	باب المشوشمة	٥٨	١٣٧٠	باب اخراج المشبهين بالنساء من البيوت	٦٣
١٣٦٠	باب من كره القعود على الصورة	١١٦	١٣٧٣	باب التصاوير	٥٩	١٣٧١	باب قص النشارب الخ	٦٤
١٣٦١	باب كراهية الصلاة في التصاوير	١١٧	١٣٧٤	باب لا تدخل الملائكة بيوتا فيه صورة	٦٠	١٣٧٢	باب تقليم الاظفار	٦٥
١٣٦٢	باب صلة الوالد المشرك	١١٨	١٣٧٥	باب ما يدخل بيتا فيه صورة	٦١	١٣٧٣	باب اعفاء العلقى	٦٦
١٣٦٣	باب صلة المرأة اهلها زوجها	١١٩	١٣٧٦	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٢	١٣٧٤	باب ما يذكر في الشيب	٦٧
١٣٦٤	باب صلة الاخ المشرك	١٢٠	١٣٧٧	باب كراهية الصلاة في التصاوير	٦٣	١٣٧٥	باب الحضاب	٦٨
١٣٦٥	باب فضل صلة الرحم	١٢١	١٣٧٨	باب لا تدخل الملائكة بيوتا فيه صورة	٦٤	١٣٧٦	باب الجعد	٦٩
١٣٦٦	باب اثم القاطع	١٢٢	١٣٧٩	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٥	١٣٧٧	باب التسليد	٧٠
١٣٦٧	باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم	١٢٣	١٣٨٠	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٦	١٣٧٨	باب الغرق	٧١
١٣٦٨	باب من وصل وصله الله	١٢٤	١٣٨١	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٧	١٣٧٩		٧٢
١٣٦٩	باب يبلى الرحم ببلها	١٢٥	١٣٨٢	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٨	١٣٨٠		٧٣
١٣٧٠	باب لبس الواصل بالمكافئ	١٢٦	١٣٨٣	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٦٩	١٣٨١		٧٤
١٣٧١	باب من وصل رحمه في الشرك ثم اسلم	١٢٧	١٣٨٤	باب من لم يدخل بيتا فيه صورة	٧٠	١٣٨٢		٧٥

١٤	باب من ترك صبية غيره	٣٩	باب حسن الخلق والسخاء الخ	١٣٤٣	٦٠	باب ستر المؤمن على نفسه	١٣٤٨
١٥	حتى تلعب به الخ	٣٩	باب كيف يكون الرجل فاهل	١٣٤٥	٦١	باب الكبر الخ	١٣٤٩
١٨	باب رحمة الولد وتقبيله الخ	٤١	باب المقة من الله تعالى	٤٢	٦٢	باب الهجرة الخ	٤٣
١٩	باب جعل لله الرحمة ما نجز	٤١	باب الحب في الله	٤٣	٦٣	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٠	باب قتل الولد خشية ان	٤٣	باب قول الله تعالى يا ايها	٤٣	٦٤	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	ياكل معه	٤٣	الذين امنوا لا يصرفونهم يوم	٤٣	٦٥	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢١	باب وضع الصبي في الحجر	٤٣	باب ما ينهي عن السباب للعن	٤٣	٦٦	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٢	باب وضع الصبي على الفخذ	٤٣	باب ما يجوز من ذكر الناس الخ	٤٣	٦٧	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٣	باب حسن العهد من الايمان	٤٣	باب الغيبة الخ	٤٣	٦٨	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٤	باب فضل من يعول يتيماً	٤٣	باب قول النبي صلعم خير	٤٣	٦٩	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٥	باب الساعي على الارملة	٤٣	دورا لانصار	٤٣	٧٠	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٦	باب الساعي على المسكين	٤٣	باب ما يجوز من اغتياب	٤٣	٧١	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٧	باب رحمة الناس والبهايم	٤٣	اهل الفساد والريب	٤٣	٧٢	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٨	باب الوصاة بالخيار الخ	٤٣	باب النميمة من الكباش	٤٣	٧٣	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٢٩	باب اثم من لا يامن جاره	٤٣	باب ما يكره من النميمة الخ	٤٣	٧٤	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	بوايقة الخ	٤٣	باب قول الله تعالى واجتنبوا	٤٣	٧٥	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٠	باب لا تحقرن جارة جارتها	٤٣	قول الزور	٤٣	٧٦	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣١	باب من كان يومه بالله و	٤٣	باب ما قيل في ذي الوجهين	٤٣	٧٧	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	واليوم الاخر فلا يؤذ جاره	٤٣	باب من اخبر صاحبه بسلما	٤٣	٧٨	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٢	باب حق الجوار في قرب	٤٣	يقال فيه	٤٣	٧٩	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	الابواب	٤٣	باب ما يكره من التمايح	٤٣	٨٠	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٣	باب كل معروف صدقة	٤٣	باب من اتى على اخيه	٤٣	٨١	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٤	باب طيب الكلام الخ	٤٣	بما يعلم الخ	٤٣	٨٢	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٥	باب الرفق في الامركه	٤٣	باب قول الله تعالى ان الله	٤٣	٨٣	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٦	باب تعاون المؤمنين بعضهم	٤٣	يامر بالعدل والاحسان الخ	٤٣	٨٤	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	بعضاً	٤٣	باب ما ينهي عن التجاسد	٤٣	٨٥	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٧	باب قول الله تعالى من يشفع	٤٣	والتدابير	٤٣	٨٦	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	شفاعه حسنة الخ	٤٣	باب يا ايها الذين امنوا	٤٣	٨٧	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
٣٨	باب لم يكن النبي صلعم	٤٣	اجتنبوا من الظن الخ	٤٣	٨٨	باب ما يجوز من الهجران	٤٣
	نحشاً متفحشاً	٤٣	باب ما يكون من الظن	٤٣	٨٩	باب ما يجوز من الهجران	٤٣

١٣٩٨	باب النهي عن الخنزير	١٢٢	باب قول الرجل فذاك	١٠٣	باب السمن اوراقه مع	٨٣
»	باب الحمد للعاطس	١٢٣	ابى واهى الخ	١٣٨٦	الناس الخ	»
»	باب تسميت العاطس اذا	١٢٤	باب قول الرجل جعلني الله	١٠٤	باب لا يلدن غالمون من	٨٣
»	حمد الله	»	فذاك الخ	١٣٨٤	محررتين	»
»	باب ما يستحب من العطاس	١٢٥	باب احب الاسماء الى الله	١٠٥	باب حق الضيف	٨٧
»	باب اذا عطس كيف يشمت	١٢٦	عز وجل	١٣٩٧	باب اكرام الضيف الخ	٨٥
»	باب لا يشمت العاطس اذا	١٢٧	باب قول النبي صلعم سموا	١٠٦	باب صنع الطعام والتكلف	٨٦
١٣٩٩	لم يحمد الله	»	باسمى ولا تكتنوا بكنيته	»	للضيف	»
»	باب اذا تناوب فليضع	١٢٨	باب اسم الخزن	١٠٧	باب ما يكره من الغضب	٨٤
»	يد على فيه	»	باب تحويل الاسم الى اسم	١٠٨	والجزع الخ	»
		»	احسن منه	»	باب قول الضيف لصاحبه	٨٨
٩٣ - كتاب الاستئذان ١٣٩٩		١٣٩٥	باب من سمي باسمه الا نبيا	١٠٩	لا اكل الخ	٣٨٨
١٣٩٩	باب بنو السلام	١	باب تسمية الوليد	١١٠	باب اكرام الكبير الخ	٨٩
»	باب قول الله تعالى يا ايها الذين	٢	باب من دعا صاحبه ففقو	١١١	باب ما يجوز من الشعرا الخ	٩٠
»	امنوا لا تدخلوا بيوتا الخ	»	من اسمه حرفا الخ	١٣٩٧	باب هجاء الشركين	٩١
»	باب السلام اسم من اسماء	٣	باب الكنية للصبى	١١٢	باب ما يكره ان يكون الغالب	٩٢
١٤٠٠	الله تعالى	»	باب التكنى بابي تراب الخ	١١٣	على الانسان الشعرا الخ	٣٩٠
»	باب تسليم القليل على الكثير	٤	باب بغض الاسماء الى الله	١١٤	باب قول النبي صلعم تربت	٩٣
»	باب تسليم الركب على الماشي	٥	باب كنية المشرك الخ	١١٥	يميتك الخ	»
»	باب تسليم الماشي على القاعد	٦	باب المعارض من دوحه	١١٦	باب ما جاز في زعموا	٩٤
١٤٠١	باب تسليم الصفة على الكبير	٧	عن الكذب الخ	١٣٩٤	باب ما جاز في قول الرجل	٩٥
»	باب افشاء السلام	٨	باب قول الرجل للشئ	١١٧	ويك	»
»	باب لسلام للمعرفة وغير	٩	ليس بشئ	١٣٩١	باب علامة حب الله الخ	٩٦
»	المعرفة	»	باب رفع البصر الى السماء الخ	١١٨	باب قول الرجل للرجل اخاه	٣٩٢
»	باب آية الحجاب	١٠	باب نكت العود في الماء	١١٩	باب قول الرجل مرحبا الخ	٩٨
»	باب الاستئذان من اجل	١١	والطين	»	باب ما يدعى الناس بابا الخ	٩٩
»	المبصر	»	باب الرجل ينكت الشئ	١٢٠	باب لا يقل خبثت نفسي	٣٩٣
»	باب زنا الجوارح دون الفروج	١٢	بيده في الارض	١٣٩٨	باب لا تسبوا الدهر	١٠١
»	باب التسليم للاستئذان	١٣	باب التكبير والتسبيح	١٢١	باب قول النبي صلعم انما	١٠٢
١٤٠٢	ثلاثا	»	عند التعجب	»	الكرم قلب المؤمن الخ	»

كتاب الدعوات ١٤١٠

١٤١٠	باب قوله تعالى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم	٣٣	باب من قام من مجلسه	١٤٠	باب اذا ادعى الرجل فجاهد
١٤١١	استجب لكره الخ	٣٤	باب الاحتياط باليمين الخ	١٤٠	هل يستأذن
١٤١٢	باب افضل الاستغفار الخ	٣٥	باب من أتى بين يدي	١٤٠	باب التسليم على الصبيان
١٤١٣	باب التوبة الخ	٣٦	اصحابه الخ	١٤٠	باب تسليم الرجال على النساء
١٤١٤	باب الضمير على الشق الايمن	٣٧	باب من أسوع في مشيه	١٤٠	باب اذا اتى من ذاق انا
١٤١٥	باب اذا بات طاهرا	٣٨	لحاجة او قصد	١٤٠	باب من رد فقال عليك السلام
١٤١٦	باب ما يقول اذا نام	٣٩	باب السور	١٤٠	باب اذا قال فلان يقرئك
١٤١٧	باب وضع اليمين اليمنى تحت	٤٠	باب القائل بعد الجمعة	١٤٠	السلام
١٤١٨	الايمن	٤١	باب القائل في المسجد	١٤٠	باب التسليم في مجلس فيه
١٤١٩	باب اذا دعا اذا اتى بالليل	٤٢	باب من زار قوما فقال	١٤٠	اخلاط الخ
١٤٢٠	باب النوم على الشق الايمن	٤٣	عندهم	١٤٠	باب من لم يعلم على من
١٤٢١	باب التكبير والتسليم عند	٤٤	باب الحياض كيف يتيسر	١٤٠	اقرت ذنبا الخ
١٤٢٢	المنام	٤٥	باب من ناجى بين يدي	١٤٠	باب كيف يدور على اهل الذمة
١٤٢٣	باب التعوذ والقراءة عند	٤٦	الناس الخ	١٤٠	الصلوات
١٤٢٤	المنام	٤٧	باب الاستلقاء	١٤٠	باب من نظر في كتاب من
١٤٢٥	باب الدعاء نصرت الليل	٤٨	باب لا تدع احدى اثنان دون	١٤٠	يحدث على المسلمين ليستبين الخ
١٤٢٦	باب الدعاء عند الخلاء	٤٩	الثالث الخ	١٤٠	باب كيف يكتب الكتاب
١٤٢٧	باب ما يقول اذا اصبح	٥٠	باب حفظ السور	١٤٠	الى اهل الكتاب
١٤٢٨	باب الدعاء في الصلوة	٥١	باب اذا كانوا اكثر من ثلاثة	١٤٠	باب بمن بين افي الكتاب
١٤٢٩	باب الدعاء بعد الصلوة	٥٢	قلوباس بالمساراة والمناجاة	١٤٠	باب قول النبي صلعم قوهوا
١٤٣٠	باب قول الله تعالى وصل	٥٣	باب طول التجوى الخ	١٤٠	الى سيدكم
١٤٣١	عليهم الخ	٥٤	باب لا تترك النار في البيت	١٤٠	باب المصافحة
١٤٣٢	باب ما يكره من التمجيد	٥٥	عند النوم	١٤٠	باب الاحتياط باليمين الخ
١٤٣٣	في الدعاء	٥٦	باب اغلاق الابواب بالليل	١٤٠	باب المعاينة الخ
١٤٣٤	باب يعزم المسئلة الخ	٥٧	باب الختان بعد الكبيرة	١٤٠	باب من احيا بلبيك و
١٤٣٥	باب يستحب العبد ان لم يجبل	٥٨	تفت الايط	١٤٠	سعديك الخ
		٥٩	باب كل لهو باطل الخ	١٤٠	باب لا يعقيم الرجل الرجل
		٦٠	باب ما جاء في العشاء الخ	١٤٠	من مجلسه
				١٤٠	باب اذا قيل لكر تقسحوا
				١٤٠	في المجلس الخ

٢٣ باب رفع الايدي في
 الدعاء الخ ١٢١٧
 ٢٢ باب الدعاء غير مستقبلة
 القبلة
 ٢٥ باب الدعاء مستقبل القبلة
 ٢٦ باب دعوة النبي صلعم لآدمه
 ٢٤ باب الدعاء عند الكرب
 ٢٨ باب التعوذ من جهد البلاد ١٢١٤
 ٢٩ باب دعاء النبي صلعم الرقيق
 الاعلى
 ٣٠ باب الدعاء عند الموت
 والحياة
 ٣١ باب الدعاء للصبيات
 بالبركة الخ
 ٣٢ باب الصلوة على النبي صلعم ١٢١٨
 ٣٣ باب هل يصلى على غير النبي
 صلعم الخ
 ٣٢ باب قول النبي صلعم من
 اذيته فاجعله له زكاة و
 رحمة
 ٣٥ باب التعوذ من الفقر
 ٣٦ باب التعوذ من غلبة
 الرجال
 ٣٤ باب التعوذ من عذاب القبر ١٢١٩
 ٣٨ باب التعوذ من فتنة الحيا
 والسمات
 ٣٩ باب التعوذ من الهم والمغرم
 ٤٠ باب الاستعاذة من الجحيم
 والبخل
 ٤١ باب التعوذ من البخل الخ

باب التعوذ من ازال الحمر ١٢١٩
 ٢٣ باب الدعاء برفع اليدين والوجع
 ٢٢ باب الاستعاذة من ازال
 العور من فتنة الدنيا الخ ١٢٢٠
 ٢٥ باب الاستعاذة من فتنة
 الغنى
 ٢٦ باب التعوذ من فتنة الفقر
 ٢٤ باب الدعاء بكثر السمال
 مع البركة
 ٢٨ باب الدعاء بكثر الوفا
 مع البركة
 ٢٩ باب الدعاء عند الاستعاذة
 ٥٠ باب الدعاء عند الوضوء
 ٥١ باب الدعاء اذا اذاع عقبه
 ٥٢ باب الدعاء اذا هبط واديا
 ٥٣ باب الدعاء اذا اراد سقلا
 او رجح
 ٥٧ باب الدعاء للمتزوج ١٢٢١
 ٥٥ باب ما يقول اذا اتى اهله
 ٥٦ باب قول النبي صلعم ربنا
 ٢ تنافى الدنيا حسنة
 ٥٤ باب التعوذ من فتنة الدنيا
 ٥٨ باب تكبير الدعاء
 ٥٩ باب الدعاء على المشركين الخ
 ٦٠ باب الدعاء للمشركين ١٢٢٢
 ٤١ باب قول النبي صلعم اللهم
 اعف عني ما قدمت ما اخرت
 ٤٢ باب الدعاء في الساعة
 التي في يوم الجمعة
 ٤٣ باب قول النبي صلعم يستجاب

لنأفي اليهود الخ ١٢٢٢
 ٤٧ باب التأمين ١٢٢٣
 ٤٥ باب فضل التهليل
 ٤٦ باب فضل التسبيح
 ٤٤ باب ذكر الله عز وجل
 ٤٨ باب قول لاجول ولا قوة
 الا بالله ١٢٢٤
 ٤٩ باب لله مائة اسم غير واحد
 ٤٠ باب الموعدة ساعة بعد ساعة

٨١- كتاب الرقاق ١٢٢٥

١ باب قول النبي صلعم لا عيش
 الا عيش الآخرة ١٢٢٥
 ٢ باب مثل الدنيا في الآخرة الخ
 ٣ باب قول النبي صلعم كن في
 الدنيا كأنك غريب الخ
 ٤ باب في الاصل وطوله الخ
 ٥ باب من بلغ ستين سنة فقد
 اعدره الله اليه في العراة ١٢٢٦
 ٦ باب العمل الذي يبتغى به
 وجه الله الخ ١٢٢٤
 ٤ باب ما يخذ من زهرة
 الدنيا الخ
 ٨ باب قول الله تعالى يا ايها
 الناس ان وعد الله حق الخ
 ٩ باب ذهاب الصالحين ١٢٢٨
 ١٠ باب ما يتقى من فتنة المال
 بالحق قول النبي صلعم هن السمال
 خضرة حنوة الخ ١٢٢٥
 ١٢ باب ما قدم من مال فهو له

١٣٥٣	باب في الله اعلم بما كانوا عاملين	٣٣	باب الاعمال بالخواتيم الخ	١٣٥	باب المكثرون هم المقلون الخ
	باب وكان امر الله قدرا	٣٤	باب العزلة راحة من	١٣٦	باب قول النبي صلعم ما احب
	مقدورا		من خلاط السور	١٣٧	ان لي مثل اجد هيبا
١٣٥٤	باب العمل بالخواتيم	٣٥	باب رقع الامانة	١٣٨	باب الخفي يخفي النفس الخ
	باب انقاء الشرا والعباد	٣٦	باب الرياء والسمعة	١٣٩	باب فضل العقر
	الى القدر	٣٧	باب من جاهد نفسه في	١٤٠	باب كيف كان عيش النبي
	باب لا حول ولا قوة الا	٣٨	طاعة الله		صلعم الخ
١٣٥٥	بالله	٣٩	باب التواضع	١٤١	باب القصد والمداومة
	باب المعصوم من علم الله الخ	٤٠	باب قول النبي صلعم بعثت	١٤٢	على العمل
	باب وحرام على قرية الخ	٤١	انا والساعة كما تدين الخ	١٤٣	باب الرجاء مع الخوف الخ
	باب وجعلنا الرؤيا التي	٤٢	باب طلوع الشمس من مغربها	١٤٤	باب الصبر عن محرم الله الخ
	اريناك الخ	٤٣	باب من احب لقاء الله الخ	١٤٥	باب من يتوكل على الله فهو
	باب تحاجر ادم ومرسى	٤٤	باب سكوات اليهود	١٤٦	حسبه الخ
١٣٥٦	عند الله	٤٥	باب نفي الصور	١٤٧	باب ما يكره من قيل وقال
	باب لا ما نعلمنا اعطى الله	٤٦	باب يقبض الله الارض	١٤٨	باب حفظ اللسان ومن
	باب من تعود من ذلك	٤٧	باب كيف الحشر	١٤٩	كان يومه بالله فسليل
	الشقاء الخ	٤٨	باب قوله تعالى عز وجل ان	١٥٠	خييرا الخ
	باب يحول بين المرء وقلبه	٤٩	زلزلة الساعة شئ عظيم الخ	١٥١	باب البكاء من خشية الله
	باب ان يصيبنا الاما كتب	٥٠	باب قوله تعالى الا ليظن	١٥٢	باب الخوف من الله
	الله لنا الخ	٥١	اولئك انهم مبعوثون الخ	١٥٣	باب الا نهتوا عن المعاصي
	باب وما كنا نعتدي لولا	٥٢	باب القصاص يوم القيامة	١٥٤	باب قول النبي صلعم ولتكونوا
	هدانا الله	٥٣	باب من نوقس الحاسي عديب	١٥٥	ما اعلم لضحكتم قليلا الخ
		٥٤	باب يدخل الجنة سبعون	١٥٦	باب محبت النار بالشهوات
		٥٥	القبا بغير حساب	١٥٧	باب الجنة اقرب احكامهم من
		٥٦	باب صفة الجنة والنار الخ	١٥٨	شواك نعله الخ
		٥٧	باب الصواب جسدتهم	١٥٩	باب ليمنظر الى من هو اسفل
		٥٨	باب في الخوض الخ	١٦٠	منه الخ
		٥٩		١٦١	باب من هم بحسنة او سيئة
		٦٠		١٦٢	باب ما يتقى من محقرات
				١٦٣	الذنوب
كتاب الايمان والنور ١٣٥٤ ١٣٧٤					
	باب قول الله تعالى لا يؤخذكم	١			
١٣٥٤	الله باللغو في ايمانكم	١			
١٣٥٥	باب قول النبي صلعم دايما الله	٢			
	باب كيف كانت ميمية النبي	٣			
	صلعم الخ				
	باب لا تحفوا يا بائسكم	٤			
١٣٥٦		١	باب جف لقم على علم الله الخ		

١٢٤٠	باب الاستثناء في الايمان	٩	باب اذ اهدى الله ماله على وجه	٢٢	باب لا يجعل باللات والعزى	٥
	باب الكفارة قبل الحنث	١٠	التذر والتوبة	٢٣	الح	١
	وغيره		باب اذ احرم طعامه الخ	٢٤	باب من حلف على الشيء	٦
٨٥- كتاب الفرائض ١٢٤١			باب الوفا بالتذر الخ	٢٥	وان لم يجلف	٧
	باب تعليم الفرائض الخ	١	باب اشتم من لا يظف بالتذر	٢٦	باب من حلف بملء سؤر	٨
	باب قول النبي صلعم كما	٢	باب التذر في الطاعة الخ	٢٧	ملة الا سلام الخ	٩
١٢٤٢	نورث وما تركنا صدقة		باب اذ انذرا وحلف ان	٢٨	باب لا يعقل ما شاء الله و	١٠
	باب قول النبي صلعم من ترك	٣	لا يتكلم انسانا الخ	٢٩	شئت الخ	١١
	ما لا فلاهله		باب من مات وعليه ذر الخ	٣٠	باب قول الله تعالى واقسموا	١٢
	باب ميراث الولد من	٤	باب التذر فيما لا يملك	٣١	يا الله الخ	١٣
	ابيه وامه الخ		في محصية	٣٢	باب اذ اقال اشهد بالله الخ	١٤
١٢٤٣	باب ميراث البنات	٥	باب من تذر ان يصوم	٣٣	باب عهد الله عز وجل	١٥
	باب ميراث ابن الابن	٦	اياماً الخ	٣٤	باب الحلف بعزة الله و	١٦
	اذ لم يكن ابن الخ		باب هل يدخل في الايمان	٣٥	صفاته الخ	١٧
	باب ميراث ابنة ابن	٧	والنذر والارض الخ		باب قول الرجل لعمر الله الخ	١٨
	مع ابنة		٨٦- كتاب كفارات الايمان ١٢٤٨			١٩
	باب ميراث الجد مع الاب	٨	باب كفارات الايمان الخ	١	باب اذا حثت ناسياً في الايمان	٢٠
١٢٤٤	والاخوة		باب قوله تعالى قدر فرض الله	٢	باب اليمين الغموس الخ	٢١
	باب ميراث الزوج مع الولد	٩	لكم تحلة ايها كفو الخ	٣	باب قول الله تعالى ان الذين	٢٢
	وغیره		باب من اعان السعير	٤	يشركون بعهد الله واجامتهم	٢٣
	باب ميراث المرأة و	١٠	في الكفارة	٥	باب اليمين في ما لا يملك الخ	٢٤
	الزوج مع الولد وغيره		باب يعطى في الكفارة	٦	باب اذ اقال والله لا اتكلم	٢٥
	باب ميراث الاخوات	١١	عشرة مساكين الخ	٧	اليوم	٢٦
	مع البنات عصية		باب صلح الصدقة ومن	٨	باب من حلف ان لا يدخل	٢٧
	باب ميراث الاخوات	١٢	النبي صلعم	٩	على اهله شهراً الخ	٢٨
	والاخوة		باب قول الله تعالى او تظن	١٠	باب ان حلف ان لا يشرب	٢٩
	باب يستفتونك الخ	١٣	رقبة الخ	١١	نبيداً الخ	٣٠
	باب ابني عم سعد هما اخر	١٤	باب عتق المدبر واهل الولد	١٢	باب اذ حلف ان لا يات	٣١
١٢٤٥	للأم والآخر زوج		باب اذا احس في الكفارة	١٣	باب التوبة في الايمان الخ	٣٢

١٣٨٥	باب ذوى الارحام	١٥	١٣٨٩	شارب الخمر الخ	٨	باب للعاهر المحرم	١٣٨٥
١٣٨٥	ميراث الملاعنة	١٦	١٣٩٠	باب السارق حين يسوق	٩	باب الرجم فى البلاط	١٣٨٥
١٣٨٥	باب الولد للغراش حرة	١٧	١٣٩١	باب لعن المسارق اذ الم	١٠	باب الرجم بالمصلى	١٣٨٥
١٣٨٥	كانت اقامة	١٨	١٣٩٢	يسم	١١	باب من اصاب ذنبا دون	١٣٨٥
١٣٨٥	باب الولاء لمن اعترف	١٩	١٣٩٣	باب الحدود وكفارة	١٢	الحد الخ	١٣٨٥
١٣٨٥	ميراث اللقيط الخ	٢٠	١٣٩٤	باب ظهر المومن حتى الا	١٣	باب اذا اقر بالحد الخ	١٣٨٥
١٣٨٥	باب ميراث السائبة	٢١	١٣٩٥	فى حد او حق	١٤	باب هل يقول الامام	١٣٨٥
١٣٨٥	باب اثم من تبرأ من	٢٢	١٣٩٦	باب اقامة الحد والانتقام	١٥	للمقرتست او غمزت	١٣٨٥
١٣٨٥	مواليه	٢٣	١٣٩٧	لحرقات الله	١٦	باب سؤال الامام المقرب	١٣٨٥
١٣٨٥	باب اذا اسلم على يد يديه الخ	٢٤	١٣٩٨	باب اقامة الحدود على	١٧	هل احصنت	١٣٨٥
١٣٨٥	باب ما يرث النساء من	٢٥	١٣٩٩	الشريع والوضيع	١٨	باب الاعتراف بالزنا	١٣٨٥
١٣٨٥	الولاء	٢٦	١٤٠٠	باب كراهية الشفاعة	١٩	باب رجم الحبلى من الزنا الخ	١٣٨٥
١٣٨٥	باب مولى لقوم من انفسهم	٢٧	١٤٠١	فى الحد	٢٠	باب البكران يجلدان	١٣٨٥
١٣٨٥	باب ميراث الاسير الخ	٢٨	١٤٠٢	باب قول الله تعالى والسارق	٢١	ينفغان الخ	١٣٩٠
١٣٨٥	باب لا يرث المسلم الكافر	٢٩	١٤٠٣	والسارقة الخ	٢٢	باب نكح اهل المعاصى	١٣٩٠
١٣٨٥	باب ميراث العبد النصولى	٣٠	١٤٠٤	باب توبة السارق	٢٣	والخنثيين	١٣٩٠
١٣٨٥	باب من ادعى اخاه وابن	٣١	١٤٠٥	كتاب المحاربين من	٢٤	باب من امر غير الامام	١٣٩٠
١٣٨٥	ايخ	٣٢	١٤٠٦	اهل الكفر والردة	٢٥	باب اقامة الحد الخ	١٣٩٠
١٣٨٥	باب من ادعى الى غير ابيه	٣٣	١٤٠٧	باب لم يحرم النبي صلعم	٢٦	باب قول الله تعالى ومن	١٣٩٠
١٣٨٥	باب والقائف	٣٤	١٤٠٨	من المحاربين	٢٧	لم يستطع منكرا طول الخ	١٣٩٠
١٣٨٥	كتاب الحدود	٣٥	١٤٠٩	باب لم يسق المرتدون	٢٨	باب اذا اذنت الامة	١٣٩٠
١٣٨٥	باب لا يشرب الخمر الخ	٣٦	١٤١٠	المجادبون الخ	٢٩	باب لا يثرب على الامة	١٣٩٠
١٣٨٥	باب ما جاء فى ضرب	٣٧	١٤١١	باب سمر النبي صلعم اعين	٣٠	اذا اذنت الخ	١٣٩٠
١٣٨٥	شارب الخمر	٣٨	١٤١٢	المحاربين	٣١	باب احكام اهل الذمة	١٣٩٠
١٣٨٥	باب من امر يضرب بالحق	٣٩	١٤١٣	باب قتل من ترك الفواحش	٣٢	واحصانهم اذا ذنوا الخ	١٣٩٠
١٣٨٥	فى البيت	٤٠	١٤١٤	باب اثم الزناة الخ	٣٣	باب اذا رمت امرأته او	١٣٩٠
١٣٨٥	باب الثوب بالجويد	٤١	١٤١٥	باب رجم الحصن	٣٤	امراء وغيره بالزنا عند الحاكم	١٣٩٠
١٣٨٥	والتحال	٤٢	١٤١٦	باب لا يرحم الجنون	٣٥	باب من ادعى اهله لموضي	١٣٩٠
١٣٨٥	باب ما يكره من طعن	٤٣	١٤١٧	المجنونة الخ	٣٦	ودون السلطان الخ	١٣٩٠
١٣٨٥			١٤١٨		٣٧	باب من ادعى امرأته جلافتها	١٣٩٠

٣٢	باب إذا ظم المسلم يهودياً	١٢	باب إذا قتل بالقتل مرة	٢٤	باب ما جاء في التعريض
١٥٠٣	عند الغضب الخ	١٣	قتل به	٢٨	باب كم التعريض والغزاة
٨٩ - كتاب استنابة المرتدين		١٤	باب قتل الرجل بالمرأة	٢٩	باب من أظهر الفاحشة
والمعادين وقتالهم ١٥٠٣		١٥	باب انقصاص بيد الرجل	٣٠	واللطم الخ
١٥٠٩		١٥	والنساء في الجراحات الخ	٣١	باب اى المحصنات الخ
١	باب اشم من اشرك بالله و	١٥	باب من اخذ حقة او اقصر	٣١	باب قتل العبد
١٥٠٣	عقوبته الخ	١٦	دون السلطان	٣٢	باب هل يامر الامام جلاً
٢	باب حكم المرتد والمرتدة الخ	١٦	باب اذا مات في الزحام	٣٢	فيضرب الحد
١٥٠٥	باب قتل من ابي قبول الغزاة الخ	١٧	او قتل	١٢٩٣	
٣	باب اذا اعترض الذي وغير	١٨	باب اذا قتل نفسه خطأ	كتاب الزيادات ١٥٠٣	
١٥٠٤	بسب النبي صلعم الخ	١٨	باب اذا اغض رجلاً وقت	١	باب قول الله تعالى ومن
٤	باب عقوقه الخ	١٩	ثنيته الخ		يقتل مومناً متعمداً الخ
٥	باب قتل الخوارج والمخزومين	١٩	باب السرم بالسرق	٢	باب قول الله تعالى ومن اجهالها
١٥٠٨	باب من ترك قتال الخوارج الخ	٢٠	باب دية الاصابه	٣	باب قول الله تعالى يا ايها
٦	باب قول النبي صلعم لا تقوم	٢١	باب اذا اصاب قوم من		الذين امنوا كتب عليكم
٧	الساعة حتى يقتل فتنان الخ	٢١	رجل هل يعاقب الخ	١٢٩٥	القصاص الخ
٨	باب ما جاء في المتأولين	٢٢	باب القسامة الخ	٣	باب سؤال العاتل حتى
٩		٢٣	باب من اطلع في بيت قوم	٣	يقرب الخ
٩٠ - كتاب الاكراه ١٥٠٩		١٥٠١	فقتلوا عينه فلا دية له	٥	باب اذا قتل حجراً وبعضاً
١٥١٢		٢٣	باب العاقلة	٤	باب قول الله تعالى ان
١	باب قول الله تعالى الا من اكره	٢٣	باب جنين المرأة	٥	النفس بالنفس الخ
١٥٠٩	وقديه مطمئن بالامان الخ	٢٤	باب جنين المرأة وان انفصل	٤	باب من اقاد بالحجر
٢	باب من اختار الضرب والقتل	٢٤	على اللولمة الخ	٨	باب من قتل له قتيل الخ
١٥١٠	والهوان على الكفر	٢٤	باب من استعلن عبداً	٩	باب من طلب دم امرئ
٣	باب في بيع المكره ونحوه	٢٤	او صبياً	١٠	باب العفو في الخطا بعد
١٥١١	في الحق وغيره	٢٥	باب المدبر جباراً الخ		التموت
٤	باب لا يجوز تكلم المكره الخ	٢٥	باب العمد جباراً الخ	١١	باب قول الله تعالى ما كان
٥	باب اذا اكره حتى وهب	٢٥	باب اشم من قتل ذمياً		لعم من ارم يقتل مومناً
٦	عبد الخ	٢٥	بغير حريم	١٢	الاخطأ الخ
٧	باب من اكره الخ	٢٥	باب لا يقتل المسلم بالكافرة		
١٥١٢	باب اذا استكرهت المرأة على				
	الزنا				

١٥٢٤	في المنام	١٥٢٠	باب رؤيا الصالحين الخ	٢	باب يمين الرجل لصاحبه	
»	باب القيد في المنام	١٥٢١	باب الرؤيا من الله	٣	انه اخوة الخ ١٥١٢	
١٥٢٥	باب العين الجارية	»	باب الرؤيا الصالحين وهم	٤	١٥١٣ ١٥١٨	
»	باب نزاع الماء من البئر الخ	»	سنة دارين حررة من النيرة	٥	٩١- كتاب الحيل	
»	باب نزاع الذئب او	١٥٢٢	باب البشوات	٥	١	باب في ترك الحيل ١٥١٣
»	الذئبين	»	باب رؤيا يوسف الخ	٦	٢	باب في الصلوة ١٥١٧
»	باب الاستراحة في المنام	١٥٢٣	باب رؤيا ابراهيم عليه السلام	٧	٣	باب في الزكوة وان لا يعرف
»	باب القصص في المنام	»	باب التوطأ على الرؤيا	٨	»	بين محتم الخ
١٥٢٨	باب الوضوء في المنام	»	باب رؤيا اهل السجون	٩	٤	باب الحيلة في النكاح ١٥١٥
»	باب الطواف بالكعبة في	»	والفساد الشوك	١٠	٥	باب ما يكره من الاحتيال
١٥٢٩	المنام	»	باب من رأى النبي صلعم	١١	»	في البيوع الخ
»	باب اذا اعطى فضله غيره	١٥٢٥	في المنام	١٢	٦	باب ما يكره من التناضح
»	في النوم	»	باب رؤيا الليل الخ	١٣	٧	باب ما ينهى من الخداع
»	باب الامم ذهاب الروم	»	باب الرؤيا بالانهار	١٤	»	في البيوع
»	في المنام	»	باب رؤيا النساء	١٥	٨	باب ما ينهى من الاحتيال
»	باب الاختراع على اليمين	١٥٢٦	باب الحلم من الشيطان الخ	١٦	»	للولي في اليتيمة المرغوبة
»	باب القدس في النوم	»	باب اللين	١٧	٩	باب اذا اغضب جارية
»	باب اذكار الشئ في المنام	»	باب اذ اجرى اللبن في	١٨	١٠	فزعم انها ماتت الخ ١٥١٧
»	باب اذا ارى بقرا تنحى	»	اطرافه	١٩	»	باب
١٥٣٠	باب النقر في المنام	»	باب القميص في المنام	٢٠	١١	باب في النكاح
»	باب اذا ارى انه اخروج	»	باب حجر القميص في المنام	٢١	١٢	باب ما يكره من احتيال
»	الشئ من كورة الخ	»	باب الخضوف في المنام	٢٢	»	المرأة مع الزوج والمضرة الخ ١٥١٤
»	باب المرأة السوداء	»	باب كسحت المرأة في المنام	٢٣	١٣	باب ما يكره من الاحتيال
»	باب المرأة المشائرة	»	باب شباب الحرب في المنام	٢٤	»	في القرار من الطاعون
»	الرائس	»	باب الهرقايم في الدين	٢٥	١٤	باب في الهبة والشغفة الخ
»	باب اذا اهز سيفا في المنام	»	باب التخلية بالعرصة	٢٦	١٥	باب احتيال العامل بقوله ١٥١٨
»	باب من كذب في حلمه	١٥٢٤	والحلقة	٢٧	١٥١٩ ١٥٣١	
١٥٣١	باب اذا ارى ما يكره الخ	»	باب عمود الغسطة تحت	٢٨	٩٢- كتاب التعبير	
»	باب من لم ير الرؤيا لاول	»	وسادته	٢٩	١	باب انك فاعلى رسول الله صلعم
»	عاب الخ	»	باب الاستبوق ودخول الجنة	٣٠	»	من الوحي الرؤيا الصالحة ١٥١٩

٢٨	باب تبديل الرؤيا بعد صلاة الصم ١٥٣٢	١٦	باب قول النبي صلعم الفتنة من قبل المشرق ١٥٣٨	٤	باب ما يكره من العرص على الامارة ١٥٣٤
٩٣- كتاب الفتن ١٥٣٣					
١	باب ما جاز في قول الله تعالى وان تعوا فتنة الخ ١٥٣٣	١٨	باب عدا ابا ١٥٣٠	٨	باب من استرعى رعية فلم يتصم ١٥٣٨
٢	باب قول النبي صلعم سترون بعد امور تنكر ونها الخ ١٥٣٢	١٩	باب عدا ١٥٣٠	٩	باب من شاق شق الله عليه
٣	باب قول النبي صلعم هلاك امتي علي يدى اعلية سفها	٢٠	باب اذ انزل الله يقوم	١٠	باب القضاء والفتيا في الطريق الخ
٤	باب قول النبي صلعم ويل للعرب من شئ الخ ١٥٣٥	٢١	باب قول النبي صلعم الحسن بن علي الخ ١٥٣١	١١	باب ما ذكر ان النبي صلعم لم يكن له بواب
٥	باب ظهور الفتن	٢٢	باب اذ اقال عند قوم شيئا ثم خرج فقال جهلاؤهم	١٢	باب الحاكم يحكم بالقتل الخ
٦	باب لا ياتي زمان الا انزل بعدة شهر منه	٢٣	باب لا تقوم الساعة حتى يغيظ اهل القبور ١٥٣٢	١٣	باب هل يقضى الحاكم او يعيق وهو غضبان ١٥٣٩
٧	باب قول النبي صلعم من حمل علينا السلام فليس منا ١٥٣٦	٢٤	باب تغير الزمان الخ	١٤	باب من رأى للقاضي ان يحكم بعلمه الخ
٨	باب قول النبي صلعم لا ترجعوا بعدى كفاؤا الخ	٢٥	باب خروج النار الخ ١٥٣٣	١٥	باب الشهادة على الخطا المختوم الخ ١٥٥٠
٩	باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ١٥٣٤	٢٦	باب عدا	١٦	باب من يستوجب الرجل القضاء الخ ١٥٥١
١٠	باب اذ اتفق المسلمان بسيفيهما	٢٧	باب ذكر الدجال ١٥٣٣	١٧	باب في رزق الحكام الخ ١٥٥٢
١١	باب كيف الامراء لم تكن جماعة	٢٨	باب لا يدخل الدجال المدينة ١٥٣٥	١٨	باب من قطن ولا يحسن في المسجد الخ
١٢	باب من كره ان يكثر سواد الفتن والظلم	٢٩	باب يا جرح وما جرح ١٥٣٧	١٩	باب من حكم في المسجد الخ
١٣	باب اذ اتفق فحالة من التفت	٩٤- كتاب الاحكام ١٥٣٤		٢٠	باب مرعظة الامام المخصى
١٤	باب التعرب في الفتنة ١٥٣٤	١	باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول الخ ١٥٣٧	٢١	باب الشهادة تكون عند الحاكم الخ ١٥٥٣
١٥	باب التعوذ من الفتن ١٥٣٨	٢	باب الامراء من قرين	٢٢	باب امر السوال اذ اوجه اميرين الخ ١٥٥٢
		٣	باب اجر من قضى بالحكمة	٢٣	باب اجابة الحاكم الدعوة الخ
		٤	باب السمح والطاعة الخ	٢٤	باب هدايا العمان
		٥	باب من لم يسأل الامارة اعانه الله	٢٥	باب استقتضا الموالى استعجاله
		٦	باب من سأل الامارة وكل اليها		

٢٤	باب العرفاء للناس	١٥٥٢
٢٤	باب ما يكره من ثناء السلطان	١٥٥٣
٢٨	باب الغضار على الغائب	١٥٥٥
٢٩	باب من قضى له بحق أخيه	١٥٥٥
٣٠	باب الحكم في البذر وشوها	١٥٥٥
٣١	باب القضاء في كثير المال	١٥٥٦
	وقليله	١٥٥٦
٣٢	باب بيع الامام على الناس	١٥٥٦
	اموالهم	١٥٥٦
٣٣	باب من لم يكثر بطعن	١٥٥٦
	من لا يعلم في الامراء	١٥٥٦
٣٦	باب المد الخضم	١٥٥٦
٣٥	باب اذا قضى الحاكم بحجوري	١٥٥٦
٣٦	باب الامام ياتي قوما فيصلم	١٥٥٦
	بينهم	١٥٥٦
٣٤	باب يستحب للكتاب ان	١٥٥٦
	يكون امينا	١٥٥٦
٣٨	باب كتاب الحاكم الى عماله	١٥٥٦
٣٩	باب هل يجوز للحاكم ان	١٥٥٦
	يبعث رجلا وحده	١٥٥٦
٤٠	باب ترجمة الحكام	١٥٥٦
٤١	باب محاسبة الامام عماله	١٥٥٦
٤٢	باب بطانة الامام واهل	١٥٥٦
	مشورته	١٥٥٦
٤٣	باب كيف يبايع الامام	١٥٥٨
٤٤	باب من يبايع مرتين	١٥٥٩
٤٥	باب بيعة الاعراب	١٥٥٩
٤٦	باب بيعة الصغير	١٥٥٩
٤٤	باب من يبايع ثم استقال	١٥٥٩
	البيعة	١٥٥٩

٤٨	باب من يبايع رجلا لا يبايعه	١٥٥٢
٤٩	الا للدينيا	١٥٥٢
٤٩	باب بيعة النساء	١٥٥٢
٥٠	باب من نكث بيعة الخ	١٥٥٢
٥١	باب الاستخلاف	١٥٥٢
٥٢	باب	١٥٥٢
٥٣	باب اخراج الخصوم	١٥٥٢
٥٤	باب هل تلامام ان يمتنع	١٥٥٢
	المجرمين	١٥٥٢

١٥٦٦	بيوت النبي الخ	١٥٦٦
	باب ما كان يبعث النبي	١٥٦٦
	صلعم من الامراء الخ	١٥٦٦
	باب وصاة النبي صلعم	١٥٦٦
	وفود العرب الخ	١٥٦٦
	باب خبر المرأة الواحدة	١٥٦٦

٤٤- كتاب الاعتصام
بالتنبيه السنة ١٥٦٤
١٥٨١

٤٥- كتاب التمني		١٥٦٢
١	باب ما جاء في التمني الخ	١٥٦٢
٢	باب تمنى الخ	١٥٦٢
٣	باب قول النبي صلعم لو	١٥٦٢
	استقبلت من امرى الخ	١٥٦٢
٤	باب قوله ليت كذا وكذا	١٥٦٣
٥	باب التمني القرآن والعلم	١٥٦٣
٦	باب ما يكره من التمني الخ	١٥٦٣
٧	باب قول الرجل لولا الله ما	١٥٦٣
	اهتدينا	١٥٦٣
٨	باب كراهية التمني لقاء	١٥٦٣
	العدو	١٥٦٣
٩	باب ما يجوز من اللوا	١٥٦٣

١	باب قول النبي صلعم بعثت	١٥٦٨
	بجوامع الكلم	١٥٦٨
٢	باب الاقتدار بسنة	١٥٦٨
	رسول الله صلعم الخ	١٥٦٨
٣	باب ما يكره من كثرة السؤال	١٥٦٨
	وتكلفت ما لا يغنيه الخ	١٥٦٨
٤	باب الاقتدار بافعال النبي	١٥٦٨
٥	باب ما يكره من التمتع و	١٥٦٨
	التنازع والغلو في الدين الخ	١٥٦٨
٦	باب انهم من ادنى محدثا	١٥٦٨
٧	باب ما يذكر من ذم الراى	١٥٦٨
	وتكلفت القياس الخ	١٥٦٨
٨	باب ما كان النبي صلعم	١٥٦٨
	يسأل مما لم ينزل عليه	١٥٦٨
	الوسعي الخ	١٥٦٨
٩	باب تعليم النبي صلعم امته	١٥٦٨
	من الرجال الخ	١٥٦٨
١٠	باب قول النبي صلعم لا تزال	١٥٦٨
	طائفة من امتي ظاهرين	١٥٦٨
	على الحق الخ	١٥٦٨
١١	باب قوله تعالى ادلهنكم شيئا	١٥٦٨

٤٦- كتاب اخبار الاحاد		١٥٦٢
١	باب ما جاء في اجازة خبير	١٥٦٢
	الواحد الصدوق الخ	١٥٦٢
٢	باب بعث النبي صلعم الزبير	١٥٦٢
	طليفة واحدة	١٥٦٢
٣	باب قول الله تعالى لا تدخلوا	١٥٦٢

١٠	باب قول النبي صلعم لا تزال	١٥٦٨
	طائفة من امتي ظاهرين	١٥٦٨
	على الحق الخ	١٥٦٨
١١	باب قوله تعالى ادلهنكم شيئا	١٥٦٨

١٢	باب من شبه اصلا معلوماً	٢٢	باب الاحكام التي تعرف	الذي خلق السموات و
١٥٤٣	بأصل مبين	٢٥	باب قول النبي صلعم لا	الارض الخ ... ١٥٨٢
١٣	باب ما جاد في اجتهاد	٢٥	تسالوا اهل الكتاب	باب قول الله تعالى كان
١٥٤٣	القضاة الخ ...	٢٦	عن شئ	الله سبحانه بصيرة الخ
١٤	باب قول النبي صلعم	٢٦	باب كراهية الخلاف	باب قول الله تعالى قل
١٥٤٣	لتتبعن سنن من	٢٦	باب نهى النبي صلعم عن	هو القادر
١٥	كان قبلكم	٢٦	الحريم الاما تعرف	باب مقلب القلوب الخ
١٥٤٣	باب اثم من دعا الى	٢٨	اباحت	باب ان لله مائة اسم الا
١٥	ضلالة الخ	٢٨	باب قوله تعالى واهرم	واحد الخ ...
١٤	باب ما ذكر النبي صلعم	٢٩	شورى بينهم الخ	باب السؤال باسماء الله
١٥٤٣	وحض على اتفاق	٢٩	باب	تعالى الخ ...
١٥	اهل العلم الخ	١٥٨١	١٥٨١	باب ما يذكر في الذات
١٤	باب قول الله تعالى ليس	٩٨- كتاب التوحيد ١٥٨٢		
١٥٤٣	لك من الا مرشئ	١	باب ما جاد في دعاء النبي	والنحو الخ ... ١٥٨٢
١٨	باب قوله تعالى وكان	١	صلعم الى توحيد الله	باب قول الله تعالى و
١٥٨٢	الانسان اكثر شئ جيداً	٢	تبارك الخ	عذر كم الله نفسه الخ
١٩	باب قوله تعالى وكذلك	٢	باب قوله تبارك وتعالى	باب قول الله تعالى كل شئ
١٥٤٤	جعلناكم امة وسطاً الخ	٣	قل دعوا الله ودعوا الرحمن	هالك الا وجهه ... ١٥٨٢
٢٠	باب اذا اجتهد العامل	٣	باب قول الله تعالى الزواق	باب قول الله تعالى ولتصنع
١٥٨٢	او الحاكم فاخطا خلافت	٤	ذوالقوة المتين	على عيني الخ ...
٢١	الرسول الخ	٤	باب قول الله تعالى عالم	باب قول الله هو الله
٢١	باب اجر الحاكم اذا اجتهد	٥	الغيب الخ	الخائق البارئ المصور
١٥٨٣	فاصاب او اخطأ	٥	باب قول الله تعالى التلام	باب قول الله تعالى لسا
٢٢	باب الحججة على من قال	٥	المؤمن	خلقت بيدي
١٥٨٩	ان احكام النبي صلعم	٦	باب قول الله تعالى ملك	باب قول النبي صلعم لا
٢٣	كانت ظاهرة الخ	٦	الناس الخ	شخص اغير من الله تعالى
٢٣	باب من راي متوك	٦	باب قول الله تعالى وهو	باب قل اي شئ اكبر
١٥٤٨	التكبير من النبي صلعم	٦	العزير الحكيد الخ	شهادة الخ ...
١٥٤٨	سجدة الخ	٨	باب قول الله تعالى وهو	باب كان عرشه على الماء
				باب قول الله تعالى تعرج
				الملائكة والروح اليه الخ ١٥٩٠

١٤٠٤	الرسول بلغ ما انزل اليك	٣٥	باب قول الله تعالى يريون	٢٢	باب قول الله تعالى وحجوه
٣٤	باب قول الله تعالى قل فاوقا	٣٦	باب كلام الرب عز وجل	٢٥	باب ما جاء في قول الله تعالى
١٤٠٨	بالتوراة	٣٧	يوم القيامة مع الانبياء	٢٥	ان رحمة الله قسيمة المحسنين
٣٨	باب وسمى النبي صلعم الصلوة	٣٨	وغيرهم	٢٦	باب قول الله ان الله يمسك
٣٩	عملا الخ	٣٩	باب قوله وكللم الله موسى	٢٨	السموات والارض ان
١٤٠٩	الانسان خلقه هلوبا الخ	٣٩	تكلما	٢٨	تروكا
٥٠	باب كوالنبي صلعم وروايته عن	٣٨	باب كلام الرب مع اهل	٢٤	باب ما جاء في تخليق السموات
٥١	باب ما يجوز من تفسير	٣٩	الجنة	٢٤	والارض وغيرها الخ
٥٢	التوراة وغيرها الخ	٣٩	باب ذكر الله بالامر ذكر	٢٨	باب ولقد سبقت كلمتنا
٥٣	باب قول النبي صلعم الماهر	٣٩	العباد بالدعاء الخ	٢٨	لعبادنا المرسلين
١٤١٠	بالقران مع انكرام البروقا	٣٩	باب قول الله تعالى فلا	٢٩	باب قول الله تعالى انما
٥٣	باب قول الله تعالى فاقرؤا	٣٩	تجعلوا الله ان ادا الخ	٢٩	قولنا لنشى
٥٤	ما يتيسر من القران	٣٩	باب قول الله تعالى ما كنتم	٣٠	باب قول الله تعالى قل لو
٥٤	باب قول الله تعالى ولقد	٣٩	تسترون ان يشهد عليكم سمعكم	٣٠	كان البحر مردا الخ
٥٥	يسونا القران للذكر الخ	٣٩	باب قول الله تعالى كل يوم	٣١	باب في المشيئة وقول الله
١٤١١	قران مجيد في لوح محفوظ	٣٩	هو شان	٣١	تعالى توأى الملك من تشا الخ
٥٤	باب قول الله تعالى والله	٣٩	باب قول الله تعالى لا تحرك	٣٢	باب قول الله تعالى ولا
٥٤	خلقكم الخ	٣٩	به لسانك الخ	٣٢	متفع الشفاعة عند الله الا
٥٤	باب قراءة الفاجر والمنافق	٣٩	باب قول الله تعالى واسوا	٣٣	لمن ارتضى الخ
١٤١٢	الخ	٣٩	قولكم او اجهدوا به الخ	٣٣	باب كلام الرب مع جديلا
٥٨	باب قول الله تعالى ونضع	٣٩	باب قول النبي صلعم رجل	٣٣	الخ
٥٨	الموازين القسط الخ	٣٩	اتاه الله القران فهو يوم	٣٣	قول الله تعالى اسرله
		٣٩	باب قول الله تعالى يا ايها	٣٣	بعلمه والملائكة شهدون الخ

تمت الخبير



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے

۶۱- کتاب المناقب

۶۱ - فضائل کی کتاب علی

۱) باب قول اللہ تعالیٰ یا ایہا النّاس انّا خلقناکم ذکراً وَاُنثٰی وَ

جعلناکم شعوباً وَاَقبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقرولہ
 باب اللہ تعالیٰ کا قول اسے لوگو ہم نے نہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور
 تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اللہ کے نزدیک تم میں سے برہکرموزدہ ہی جو سب سے برہکرم

صباح بخاری جو دعواں پارہ ۱۳۳۵ھ

علم مناقب منقبة کی جمع ہے اور نقب اصل میں کسی چیز میں داخل ہونا ہے جیسے یواریں نقب اور استعارہ نقب دوسرے لوگوں کے حالات میں داخل ہونا اور انکی نقبتیں کرنا ہے اسلئے نقیب قوم کا سردار جو انکے احوال کی نقبتیں کرتا اور ان کا بہتنگنا ہے اور منقبة جس کی جمع مناقب ہے رستے کو بھی کہتے ہیں اور فعل کریم یعنی کسی بزرگانہ یا بڑے کام کو بھی گویا کہ وہ نبی صفت کے لحاظ سے دوسرے سلیئے ایک ستر سے اسلئے مناقب بیان فضائل کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کتاب میں رسول اللہ کے فضائل کا ذکر ہے اور آپ کے فضائل کو کتاب الانبیاء سے الگ کر کے ایک علیحدہ کتاب میں ذکر کیا ہے اسلئے کہ آپ کو باکل انبیاء کے قائم مقام ہیں مختلف انبیاء مختلف قوموں کی طرف مختلف زمانوں میں آئے اور آپ تمام قوموں کی طرف تمام زمانوں میں آئے اور اس کتاب کے بعد کتاب فضائل صحاب النبی ہے کیونکہ صحابہ کے فضائل بھی درحقیقت آپ کے ہی فضائل کا حصہ ہیں جو آپ کی قوت قدسی سے ظہور میں آئے ہر سلسلہ اس آیت قرآنی کو کتاب مناقب کے عنوان میں لاکر نام بخاری نے یہ کیا ہے کہ اہل نضیت انسان کی پوجا اسکے کاموں کے جو نہ جو رہ اپنے نسب کے ہاں بعض وقت بلند خاندانوں میں بھی بعض اخلاق فاضلہ پائے جاتے ہیں جو ایک طرح کو یا خون کے ساتھ چلتے ہیں اور جو شخص اس بلند خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ عموماً ان اخلاق فاضلہ سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق حمد لیتا ہے اس طرح پر خاندانی شرف بھی انسان کو بلند مقام پر پہنچانے میں معاون ہوتا ہے اسی لئے انبیاء و اشراف خاندانوں سے ہیں مگر خاندان پر یا نسب پر فخر کرنا منع کیا ہی اسلئے کہ اس سے انسان اخلاق فاضلہ کے حامل کہیے محروم ہو جاتا ہے عرب پر خاندانی شرف اور نسب پر فخر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس خیال کو دور کر کے اسکی جگہ پر خیاں پر یا کیا کہ کسی انسان کی عورت صرف اسکی خوبیوں سے ہے پھر اور آپ کریم میں انسانی اخوت اور مساوات کا ایک نہایت بلند اصول قائم کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمام انسان درحقیقت ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور انکی شاخیں اور قبیلے باہمی تعارف کیلئے ہیں ان پر فخر کرنا سب نہیں ہ

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا وَمَا يُهْتَمُّ عَنْ دَعْوَى

اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحم کے حقوق کی بجا نگاہت کرو (النساء-۱) اور جاہلیت کے دعویٰ

الْجَاهِلِيَّةِ الشُّعُوبِ لِلنَّبِّ وَالْبُعِيدِ وَالْقَبَائِلِ دُونَ ذَلِكَ (۱۵۶۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

نسب فق کرنے کی مانعت علم شعوب سے (جو اوپر آیت قرآنی میں ہے) دور کا نسب مراد ہے اور قبائل اس سے قریب یعنی قبائل شہوب کی قبائل

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْقَبَائِلَ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلَ الْبَطُونَ

ہیں علم ابن عباس سے روایت ہے وجعلناکم شعوبا و قبائل لکما کہ شعوب بڑے قبیلے ہیں اور قبائل چھوٹے قبیلے

۱۶۲۷ (۱۵۶۴) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مَتَكَرَّرًا) (۱۵۶۴) (۱۶۲۷) عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ

دیکھو حدیث ۱۵۶۴

أَبِي سَلْمَةَ (مَتَكَرَّرًا) (۱۵۶۴) (۱۵۶۴) عَنْ كَيْبِ حَدَّثَنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کیسے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ نے حدیث سنائی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَظْنَمَهَا زَيْنَبُ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبَابِ

اور میں رسولی راوی سمجھتا ہوں کہ وہ زینب بنت ابی سلمہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے تونے اور سبز تیزان اور

وَالْحَنَمِ وَالْمَقْبَرِ وَالْمَرْفِقِ وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

کہہ دے ہوتے کڑوی کے برتن اور دھنی برتن سے روکا ہے ملا اور میں رکھیں سنے ان سے کہا کہ مجھے تھلاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ مِنْ مَضْرُوكَانَ قَالَتْ فَمَنْ كَانَ الْأَمْرُ مَضْرُوكَانَ مِنْ وَلَدِ النَّصْرَانِ كُنَانَةَ

کس (قبیلے) سے تھے کیا قبیلہ مضر سے تھے انہوں نے کہا تو مضر کے سوا اور کس قبیلہ سے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ کی ولاد میں سے تھے

(۱۵۶۵) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَادُّنَ النَّاسَ مَعَادِنَ

ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے

علم و ما یفتی عن
دعویٰ جاہلیہ
عنوان با یک ایک
حصر جو اور مراد
جاہلیت کے دعویٰ
سے نسب ابو خاندان
پرخیز کرنا ہے جو عرب
میں پھیلا ہوا تھا
اور اس جھوٹے
فخر نے آج توہمیت
کا رنگ اختیار کیا ہوا ہے
اور یہی حالت
کا دعویٰ ہے جو جس
نبی صلواتی جملہ اولاد
کے شہوب خطیبیہ یہ
کہ منع فرمایا عیسا
کہ اس حدیث میں
ہے۔ یا ہا الناس
ان ایک واحد و
ان ایک واحد لہذا
لا فضل لعربی علی

عجمی ولا سود علی الاحمر الا بالانقیاد خیر کہ عدنا اللہ اتفاقاً کہ گویا توہمیت اور رنگ و نونوں شہم کے فخر کو ناجائز قرار دیا ہے علم شعوب (واحد شعوب) یہ سب پہلی
تقسیم ہے۔ شعوب پھر قبیلے بنتے ہیں۔ گویا ایک شہب کے اندر مختلف قبیلے داخل ہوتے ہیں۔ اور نہایت میں ہے کہ الشعب ما تشعب منه قبائل العرب والجم یعنی
شعب وہ ہے جس سے قبیلے بنتے ہیں خواہ عربی ہوں یا عجمی کے یعنی نے اسکی تشریح یوں کی ہے کہ عرب ایک شعب ہیں اور ایرانی ایک شعب اور روم ایک
شعب اور ترک ایک شعب ہے اور مختلف قومیں اور قبائل سے اور انکی اندر و فی تقسیم ہے۔ علم جیسا کہ اوپر کی تشریح میں گزر چکا القبائل العظام سے
مراد بڑی بڑی قومیں ہیں جیسے عرب، ایرانی، رومی وغیرہ۔ علم یہاں ۱۵۶۴ کا ابتدائی حصہ دوہرایا گیا ہے۔ قیل یأید رسول اللہ من اکرم الناس قال اتفاقاً
قالوا لیس عن هذا نسألك قال فیوسف نبی اللہ اور باقی حصہ میں آتا ہے قالوا لیس عن هذا نسألك قال فنون معادن العرب تسألون خیار دم فی الجاہلیۃ
خیار دم فی الاسلام اذا فقہوا چھوڑ دیا ہے حالانکہ یہاں ذکر فیوسف علیہ السلام کا مراد نہیں غالباً ایک حکمران کے کو لا کر اس حدیث کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے
جس میں خاندانی شرف کا ذکر ہے یعنی اول آپ اکرم الناس کے متعلق فرمایا اتفاقاً اور یہی اصول اور سب سے گھر صحابہ نے پھیر لیا تھا جس سے امکان شاہ خاندانی
شرف کا تھا تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ کیونکہ وہ نبی ابن نبی ابن نبی تھے تو پھر کہ گویا کہ ہمارا سوال اسکے متعلق ہے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا سوال عرب کے
خاندانوں کے متعلق ہے یعنی عرب کے خاندانوں میں سے سب سے افضل کون ہے تو پھر بھی آپ نے کسی ایک خاندان کو مخصوص کر سکی بجائے یہ فرمایا کہ جو جو خاندان جاہلیت
میں افضل سمجھے جاتے تھے وہی اب بھی افضل ہیں بشرطیکہ صلہ حال کریں۔ اذا فقہوا گویا خاندانی شرف اسلام میں صرف اس شرط کے ساتھ مسلم ہے کہ صحیح علم اس
کے ساتھ ہو تو چونکہ قریش کی فضیلت عرب میں قبل از اسلام مسلم تھی اسلئے اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا اور اسکا امام بخاری نے حدیث ۱۵۶۵ کی تکرر روایت
۱۶۲۸ میں واضح کیا ہے۔ ۱۵۶۵ کا پہلا حصہ والمرقت تک بیان نہیں ہے باقی انفاذ تقریباً وہی ہیں۔ علم یہ حصہ ۱۵۶۵ میں گزر چکا ہے یہ برتن شراب
بنانے کے لئے استعمال ہوتے تھے درنہ ان برتنوں کی حرمت کوئی نہیں۔ اور نہ آج انکے استعمال میں کوئی ہرج ہو۔ علم میں ہرگز کہ آپ نے چار باتوں حکم دیا جن میں
نماز روزہ زکوٰۃ ہیں اور چار باتوں سو منع کیا اور وہ انہی چار برتنوں کا استعمال تھا حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ ان چار باتوں کو نہ صرف ایک ہی نبی صلواتی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بلکہ اسوقت
ان میں شراب بنانی حیاتی تھی۔ علم کے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبد اللہ علیہ وسلم، بن عبد شمس بن عبد مناف بن عبد شمس بن عبد
المطلب (بن ہاشم)، بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر و قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدکرہ بن عمرو بن ایاس بن مضر بن نزار بن
معد بن عدنان۔ قبائل قریش کا جد اعلیٰ نضر ہے سعد بن عدنان تک حضرت کے نسب نامہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس حضرت اسمعیل تک سلسلہ نسب میں اختلاف ہے۔

خَيْرَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَعَقُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي

جاہلیت میں جو ان میں سے اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں جب وہ ہمہ حال کریں علیہ اور امارت کیلئے لوگوں میں سے

هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِينَ الَّذِي يَأْتِي

بہترین اسی کو پاؤ گے جو اُسے سب سے برا دیکھنا پسند کرتا ہو علیہ اور لوگوں میں سب سے برا دیکھ کر شریہ اسکو پاؤ گے جو دوسرے ہوان کے پاس آتا

هُوَ كَأَنَّ بَوَّجَهُ وَيَأْتِي هُوَ كَأَنَّ بَوَّجَهُ (م- ۱۶۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۱۵۶۵)

ہے تو ایک رنگ ہوتا ہے ان کے پاس جاتا ہے تو دوسرا رنگ ہوتا ہے علیہ دیکھو حدیث ۱۵۶۵ علیہ

رَأَى بَاب (م- ۱۵۶۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأُمُودَةَ فِي الْقُرْبَى قَالَ فَقَالَ

باب ابن عباس سے روایت ہے الا امودة في القرابي القرابي را الثوري ۲۳ کے متعلق سعید بن جبیر نے

سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ قَرَّبَنِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار (مراؤں میں) تو انہوں نے کہا کہ قریش کی کوئی شاخ ذی قبلیہ سے آئے تھے صلعم

يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ كَأَنَّ لَهُ ذِيَّةٌ قَرَابَةٌ فَانْزَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ بَيْدِي وَبَيْنَكُمْ

کی رشتہ داری اس میں بھی تو یہ آیت اتنی رہی تم سے کچھ نہیں چاہتا، مولائے اس کے کہ جبر اور تمہارے درمیان جو قرابت ہو اس کی لحاظ کرو علیہ

(م- ۱۶۷۹) عَنْ أَبِي سَعُودٍ (متكر- ۱۶۹۳) (م- ۱۶۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۱۶۹۳)

دیکھو حدیث ۱۶۹۳ علیہ دیکھو حدیث ۱۶۹۳ علیہ

علیہا میں نسب کو ایک کان کی طرح قرار دیا ہے یعنی جس طرح کان میں خاص حالات پیدا ہو جائیں وہی وجہ سے خاص خاص قسم کی وصاتیں بن جاتی ہیں اسی طرح خاندانوں میں بھی خاص حالات کی وجہ سے خاص قسم کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں مگر یہاں بھی شرط لگانا دی کہ خاندانی اخلاق، شجاعت، مہمان نوازی، قوت

۱۶۷۸
۱۵۶۵
۱۶۷۹
۱۶۵۰
۱۶۹۳

فیصد وغیرہ کافی نہیں جب تک کہ علم دین حاصل نہ کریں کیونکہ اصل مرتبتہ اخلاق کا اب اسلام ہے۔ علیہ جو شخص حکومت کے قبول کرنے سے گھبراتا ہے وہ اسی لئے گھبراتا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور چونکہ حکومت کی ذمہ داریاں بڑی بھاری ہیں اس لئے وہ اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کو ناپسند کرتا ہے کہ شاید ان کو پورا کر سکے یا نہ کر سکے ایسے ہی شخص کے دل میں درحقیقت حکومت کی ذمہ داری کا پورا احساس ہوتا ہے اور اسی لئے وہ سب سے بڑھ کر حکومت کا اہل بھی ہے۔ علیہ ذوالوجہین کا مفصل ذکر کتاب الادب میں ہے۔ علیہ مکرر روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ قال الناس تبع لقریش فی هذا الشأن مسلّمهم تبع لمسلّمهم وکافرهم تبع لکافرهم والناس معادن خیارهم فی الجاهلیة خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا اتحاد من خیر الناس اشد الناس کراهیة لهذا الشأن حتی یقع فیہ۔ ابتدائی حصہ میں قریش کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ الناس تبع لقریش یعنی عرب کے دوسرے لوگ قریش کے اتباع کی طرح ہیں اور قریش کی سرداری کو تسلیم کرنے میں۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ عرب میں قریش کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ اور وہی خاصہ کے جو کل عرب کا سرچہ تھا قیامی فظ بھی تھے۔ خود نبی صلی اللہ کے ظہور پر عرب کی دوسری قومیں قریش کی طرف دیکھتی تھیں۔ چنانچہ جب تک قریش کفر پر اڑے تھے دوسرے لوگ بھی کفر پر قائم تھے اور جب قریش مسلمان ہوئے تو دوسری قومیں بھی فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے لیکن اور حالت اسلام میں بھی قریش کی سرداری قائم رہی۔ چنانچہ آنحضرت صلعم کی خلافت قریش میں ہی رہی۔ اس ذکر سے آنحضرت صلعم کی خاندانی شرافت اور عظمت کو ثابت کیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کی اولاد میں سے کائنات کو چن لیا اور کائنات میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ پس آپ کا خاندانی شرف کل عرب میں مسلم تھا۔ دوسرے حصہ کے الفاظ ۱۵۶۵ کے ہیں اور اس میں بتایا ہے کہ سرداری کے لائق وہی شخص ہے جو اس کی خواہش نہ رکھتا ہو بلکہ اس کی ذمہ داریوں سے ڈرتا ہو۔ علیہ اہل بیت نبوی کی محبت سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن ان الفاظ الا امودة فی القرابی پر اس کی بنیاد رکھنا درست نہیں امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے ان الفاظ کے معنی اس حدیث میں یوں بیان کئے ہیں کہ آنحضرت صلعم کی قریش کے بطن میں قرابت تھی تو یہ آیت اتنی رہی اور اس کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے الا انصلوا قرابة بیئہ و بینکھ یعنی میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت کا کچھ لحاظ کرو جو مجھ میں اور تم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں قرابت سے مراد اہل بیت نہیں بلکہ یہ اس قرابت کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے مختلف بطنوں میں آنحضرت صلعم کو حاصل تھی۔ خود الفاظ آیت پر غور کیا جائے تو اڈل تو اس میں خطاب کفار سے ہے۔ مسلمانوں کو نہیں بلکہ کفار کو کہ ہے کہ میں تم سے موت فی القرابی چاہتا ہوں۔ یعنی میری جو تم سے قرابت ہے اس کا لحاظ کرو اور الفاظ آیت یوں ہیں۔ لا استلکھ علیہ اجر الا امودة فی القرابی۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مولائے اس کے کہ یہ چاہتا ہوں کہ موت فی القرابی کرو۔ اب غلام ہے کہ نبی اپنی تبلیغ کے لئے کسی سے بھی کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا۔ ہر نبی کے ذکر میں یہ لفظ ہے کہ لا استلکھ علیہ اجر۔ تو پس یہاں الا امودة قطعاً ہے یعنی تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری محبت میں کچھ اس قرابت کا ہی لحاظ کرو جو مجھے تم سے حاصل ہے۔ علیہ یہاں لفظ یہ میں ہونا جا چکا کہ الفتن نحو المشوق والجفاء و غلظ القلوب فی الفدا وین اهل الوبر عند اصول اذ ناب الابل والبقر فی ربیعة و مضویہ یہاں مضور اور بیوع کے (یاقی بر علیہ)

(۲) بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ ۱۵۶۲ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ

باب قریش کے فضائل ۱۵۶۲ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ

بَلَغَ مَعُوبَةَ وَهُوَ عِنْدَكَ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَابْنَ الْعَاصِ مَجِيئًا

حضرت معاویہ کو خبر پہنچی جبکہ وہ ان کے پاس قریش کے ایک وفد میں شامل تھے کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں

أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكًا مِنْ قَطَانَ فَغَضِبَ مَعُوبَةُ فَقَامَ فَاشْتَمَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ

کہنبد قحطان میں سے غضیب ایک بادشاہ ہوگا تو حضرت معاویہ ناراض ہوئے اور کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی میں تعریف

أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا لَكُمْ يَخْدُ ثَوْبًا أَحَادِيثَ

اللہ کی بوسکتی ہے پھر کہا، اے معاویہ خبر نہ لینی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں

كَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تَوْشُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُولَئِكَ جَاهِلَةٌ

کہ نہ تو وہ اللہ کی کتاب میں ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں یہ تم میں سے جاہل ہیں

فَأَيُّكُمْ وَالْأَمَانِيُّ الَّتِي تَضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قریبیہ خیالات سے بچ جو ان کے رکھنے والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبْتَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا

آپ فرماتے تھے کہ یہ حکومت قریش میں ہی رہے گی کوئی بھی ان سے مقابلہ نہ کرے گا مگر اللہ اسے منہ کے بل گرا دے گا یہ اس وقت

أَقَامُوا الدِّينَ ۱۵۶۲ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَا

بمکہ نماز جب تک وہ قریش، دین کو قائم رکھیں گے اسے ابن عمر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ

يُنْزَلُ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَثَرًا ۱۵۶۱ عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ

یہ حکومت برابر قریش میں رہے گی جب تک کہ وہ آدمی بھی ان میں سے باقی ہوں ۱۵۶۱

(متکرم۔ ۱۴۲۴) ۱۵۶۲ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَتَكْرَمًا ۱۵۶۹ ۱۵۶۸ (۱۵۶۸) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۴۲۴ ۱۵۶۲ دیکھو حدیث ۱۵۶۹ ۱۵۶۸

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَرَجْهَيْنَا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اور انصار اور ہجینہ

رقبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بہت مالدار اور زراعت میں تھے اگر ان کی سخت ولی کا ہونا بیان فرمایا ہے۔

عند اصول ذناب۔ الابل والبقیر اور نمٹیں اور گایوں کی دم کپڑے چلاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مضر کے قبیلے میں سختیوں لوگ موجود تھے۔

عک بیان الفاظ یہ ہیں متال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفخر والخیال اور فی الفدا اور باہل اور الوبر والسیکینۃ فی اہل الغنم والایمان یمان والحکمة یمانۃ سمیت الیمن لانہا عن یمین

الکعبۃ والشام عن یسار الکعبۃ والمیشقۃ والید الیسوی الثعلبی والیاب الایسوی الاشام آخری حصہ والایمان یمان سے لیکر اصل حدیث میں نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یمن والے مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کما اهل الیمن ہم الین قلوبا وادق افئدة الایمان یمان والحکمة یمانۃ۔ تمہارے پاس یمن والے آتے جن کے دل بہت نرم اور رحم والے ہیں ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں حدیث میں بھی خاص لوگ مراد ہیں اور اس میں اشارہ ان کی قوت ایمانی اور نرم و فراست کی طرف سے یمن کے سارے لوگ مراد نہیں اور امام بخاری نے بتایا کہ یمن کو اس لئے یمن کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے آئیں ہے اور شام کو اس لئے شام کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے بائیں ہے اور شام سے ہی مشقہ یعنی میسرہ دیا یاں دکھائے اور اس لئے یمنی یا یمنی تھو کہ الید الیسوی یا شوعی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو ایسوی اور اشام کہتے ہیں۔

رحا شقیہ صفحہ ۱۵۶۱ علی ایسے گزر چکا کہ قریش فرمن مالک کی اولاد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ لفظ قریش کے متعلق بہت اختلاف ہے کہ اس کا ماخذ اور ماوہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تقایش شیع کے معنی میں ہے اور جب قبضی نے قبیلہ نضر اور کرم سے نکالا تو قریش ان کے پاس جمع ہوئے اس لئے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقایش کے معنی میں ہیں رسول اخلاق سے پاک ہونا اور قریش بلند اخلاق کے مالک تھے۔ ۱۵۶۹ حضرت معاویہ کا استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جو حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے اس کے آخر میں حکومت قریش کے ساتھ یہ شرط موجود ہے انا قوام الدین جب قریش نے قیام دین کو چھوڑ دیا تو حکومت بھی انکے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ۱۵۶۸ اور یہی حدیث کی شرطاً انا قوام الدین یہاں بھی سمجھنی چاہئے۔ ۱۵۶۸ مکر روایت میں قال اللہ تک تقریباً انہی الفاظ میں ۱۴۲۴ انہی الفاظ میں ۱۴۲۴ مکر روایت صرف اس قدر ہے ذہب عبد اللہ بن الزبیر صحاح اناس من بنی زہرۃ الخی عائشۃ وکانت ارق شیء علیہم لقرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث چھوڑ کر آگے یہ روایت تفصیل سے آتی ہے۔

وَمَزِينَةٌ وَأَسْمَاءُ شَجْعَمٌ وَخَفَارَةٌ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (۱۵۶۹)

اور مزینہ اور اسم اور شجعم اور خفاریہ میرے مددگار ہیں ان کا مددگار ان کے رسول کے سوا کوئی نہیں ہے

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عائشہ سب لوگوں سے زیادہ عبد اللہ

بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْنَى بَيْتِي وَكَانَ أَبْرَأَ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لَا تَمْسِكُهُ

بن زبیر سے محبت رکھتی تھیں اور وہ ربیع بن عبد اللہ بن زبیر، حضرت عائشہ سے سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرتے تھے اور حضرت

شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِي لِيَصِدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْفِيْنِي أَنْ يُؤْخَذَ

عائشہ کے پاس جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے آتی ہے مجھ پر رکھیں بلکہ صدقہ کرو دیتیں تو ابن زبیر نے کہا کہ میں سب سے

عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَى نَذْرٍ أَوْ كَلِمَةٍ فَاسْتَشْفَعُوا إِلَيْهَا

کہ ان کے ہاتھ رکے جائیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا میرے ہاتھ رکے جائیں گے مجھ پر نذر ہوگی اگر میں ان سے بات کروں

بِرَجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَأْخُذُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَا مَنَعَتْ

تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس قریش کے آدمیوں اور خاکسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہال والوں کی سفارش کرانی مگر وہ

فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَيْخُوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ

نہ مائیں تو نبی زبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہال والوں نے جن میں عبد الرحمن بن اسود

ابن عبد يغوث والمسور بن محرز إذا استأذنا فافتحم الحجاب ففعل فادرس

بن عبد یغوث اور مسور بن محرز تھے عبد اللہ کو جب ہم (حضرت عائشہ سے) اجازت لے لیں تو تم نے بڑے میں

إِلَيْهَا بَعْشَرٍ رِقَابٍ فَا عْتَقْتَهُمْ ثُمَّ نَزَلَ نِعْتَهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَقَالَتْ دَرَدَتْ

گھس آنا انہوں نے ایسا ہی کہ پھر عبد اللہ نے ان کے پاس دس غلام بھیجے تو حضرت عائشہ نے انکو آزاد کر دیا پھر وہ برابر آزاد

أَنِّي جَعَلْتُ حَلْفًا حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَا فَرَعَمْنَهُ (س) بَابُ نَزْلِ الْقُرْآنِ

کرتی رہیں یہاں تک کہ تعداد چالیس تک پہنچتی زمانے نگہیں کہ شام میں نے سوچتے قسم کھائی تھی تو ایک نام مقرر کرتی تھی کہ کے فارغ ہو جائی یا

بِلِسَانِ قُرَيْشٍ (۱۵۷۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ دَعَا زَيْدَ بْنَ قَابِطٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ

قرآن کریم قریش کی زبان میں اترا اس سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت اور عبد اللہ بن الزبیر

وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَسَخَّوْهُمَا فِي الْمَصْحَفِ وَقَالَ

اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو بلایا انہوں نے قرآن کو مصحف میں لکھا اور عثمان

عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةَ إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ قَابِطٍ فِي شَيْءٍ مِنْ

نے قریشیوں کی جماعت کے تین آدمیوں سے کہا کہ جب تمہارا اور زید بن ثابت کا اختلاف ہو

الْقُرْآنِ فَالْكِتَابُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ (۲) بَابُ

تو قرآن کو قریش کی لہجہ پر لکھو کیونکہ وہ انہی کی زبان میں اترا ہے تو انہوں نے ایسا ہی کیا

نَسَبِ الْيَمَنِ أَوْ أَسْمَاءِ مِنْهُمْ أَسْمَاءُ بْنُ قُصْدٍ بَرِّحَارِثَةَ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خِرَازَةَ

یمن (والوں) کی حضرت اسمعیل کی طرف نسبت۔ انہی میں سے اسم بن اصف بن حارث بن عمرو بن عامر بن عمرو بن خیرازہ بن

۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

کو اس قدر سخاوت سے روکا جا جا جس پر آپ ناراض ہو گئیں تو عبد اللہ نے آنحضرت کے نہال کی سفارش کرانی، علی نذر سے مراد یہ ہے کہ کسی بیک نام کا کرنا یا خیرات کا کرنا مجھ پر واجب کا گویا یہ ایک حلفت تھی جس کا کفارہ کچھ دکان تھا۔ اس سے بھی قریش کی فضیلت پر استدلال کیا ہے اس کے یہی معلوم ہوا کہ قرآن کریم صرف ایک ہی طرح پر نازل ہوا۔ سب سے احرف سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ ربيع اور مضر کا حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے ہونا متفق علیہ ہوا اور بن کے باشندوں کے سارے قبیلوں کا زبیر بن عبد اللہ کا بیٹا ہے اور قحطان نسب میں اختلاف ہے بعض نے زبیر کے والد سے ہونے کو دیکھا نہیں۔ حدیث باب پہلے قبیل کی توثیق ہے۔

رم- ۱۶۵۳ عَنْ سَلْمَةَ (متکرم- ۱۳۳۶، ۵) بَابُ (۱۵۷۱) عَنْ ابْنِ ذَرِيْمَةَ اَنَّهُ

دیکھو حدیث ۱۳۳۶ باب ابوزر سے روایت ہے کہ

سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ دَعِيَ لِغَيْرِ اَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُكَ

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے جو یہی شخص اپنے آپ کو باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کرے

اَلَا كَفْرٌ وَمَنْ اَدْعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوْهُمْ اَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ (۱۵۷۲) عَنْ

اور وہ اپنے باپ کو جانے ہو تو اس نے کفر کیا اور جو اپنے آپ کو ایسی قوم کی طرف منسوب کرے کہ وہ ان میں سے نہیں تو وہ اپنا ٹھکانا ان میں بنا لے گا

وَ اِثْلُهُ بَنُو اَلْاَسْقَعِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ

واشدہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے بتوں میں سے یہ ہے

الْفِرَاقِيْ اَنْ يَدْعِيَ الرَّجُلُ اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ يَرِي عَيْنَةً مَا لَمْ تَرَ اَوْ يَقُوْلُ عَلَيَّ سُوْدٌ

کہ انسان اپنے باپ کے سوا اور کو باپ بنائے یا ایسا خوب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ (رم- ۱۶۵۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۱۴۸)

علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی

رم- ۱۶۵۵ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (متکرم- ۱۴۰۳، ۴) بَابُ ذِكْرِ اَسْمِ وَعِفْاَرِ

دیکھو حدیث ۱۴۰۳ باب اسلم اور عفار

وَمَزِيْنَةَ وَجْهِيْنَةَ وَاشْجَعُ (رم- ۱۶۵۶) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۵۶۸)

اور مزینہ اور جبینہ اور اشجع کا ذکر دیکھو حدیث ۱۵۶۸

(۱۵۷۳) عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ

عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا

عِفْاَرُ عَفْرِ اللهِ لَهَا وَاَسْلَمُ سَأَلَهَا اللهُ وَعَصِيْبَةُ عَصَبِ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

عفار کی اللہ نے مغفرت فرمائی اور اسلم کو اللہ نے سلامت رکھا اور عصبیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی

عالم مضمون اور الفاظ قریش ایک ہی میں سے کہ نبی اس کے لوگوں کو انحضرت صلعم نے یوں خطاب کیا اور وہ اپنی تمغیل گویا انہیں نبی اسلم قرار دیا اور نبی اسلم کو عنزان باب میں میں والوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اسے نسب تبدیل کرنے سے انسان ناجائز طور سے ایسے حقوق اور اغراض حاصل کرنا چاہتا ہے جن کو وہ عقدا نہیں بتاتا جیسے بہت لوگوں کو سید بننے کا شوق ہے اس کو کفر قرار دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ کفر و نون کفر ہے یعنی اسلام کا انکار نہیں بلکہ احکام

اسلام میں سے ایک حکم کی نافرمانی ہے اسی کو اگلی حدیث میں بتان کما ہے۔ اس فرق کو نظر نہ رکھنے سے علمائے اسلام نے تکفیر کی گرم بازاری کر کے یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ اگر ان شخص کو تماش کرنا ہو جسے کسی نے کافر نہ کہا ہو تو وہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی سے کوئی فعل کفر سرزد بھی ہوا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا فعل کفر و نون کفر میں آتا ہے۔ اس میں تین باتوں کو سب سے بڑا بتان قرار دیا ہے ایک اپنے نسب کو تبدیل کرنا اسی کو اوپر کفر کہا ہے۔ دوسرا جھوٹا خوب بیان کرنا حالانکہ اس کا تعلق واقعات سے کوئی نہیں مگر چونکہ رویائے صادقہ نبوت کا چھبیا لیساں حصہ ہے۔ اس لئے گویا جھوٹا خوب اختر اعلیٰ اللہ ہے۔ تیسرا آنحضرت صلعم کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرنا۔ اسے مکرر روایت میں شروع کا حصہ فاقنت معد شہرین تک نہیں ہے اور باقی مضمون اختصار سے دہرایا گیا ہے۔ الفاظ یوں ہیں :- يقول قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ اننا من ہذا النہی من ذمیۃ قد حالت بیننا و بینک کفار مضی فلسنا نخلص الیک الا فی کل شہر حرام فلوا امرتنا بان نأخذہ عنک ونبلفہ من وذرنا قال امرکم ہاریرہ وانہما کورن اربع الایمان باللہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلوۃ و ایتاء الزکاۃ وان تؤذوا الی اللہ خمس ما غنمتم وانہما کورن الدباء و الحنتم و النعیر و المعزق۔ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ صرف لا الہ الا اللہ پر رکھا گیا ہے۔ گویا اقرار نبوت میں تیسرا رسالت کو شامل کیا ہے۔ اس روایت کو کہاں یہ دکھانے کے لئے لایا گیا ہے کہ عبد القیس کی قوم ربیعہ میں سے تھی۔ مکرر روایت کے نفاذ یہ ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و هو علی المنبر الا ان الغنۃ ہینا یشیر الی المشرق من حیث یرطع قرن الشیطان اس کی بعض روایتوں میں ربیعہ اور عفر کا ذکر آتا ہے اسی سے عنوان ہے۔ اس میں لفظ ۱۵۶۸ کی ہی ہیں۔ اس کے قبیلہ عفار جاہلیت کے زمانہ میں حاجیوں کو بلاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسلام سے ان کی اصلاح کر دی اور ان کا یہ دلغ و عہدہ لگیا۔ عصبیہ بنی سیم کی ایک شاخ ہے جنہوں نے دھوکا دے کر معاہدہ کے خلاف بیعتوں والوں کو شہید کیا اس کا ذکر کتاب المغازی میں آتا ہے۔

(م- ۱۶۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر- ۱۵۷۳) (م- ۱۶۵۸) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متکثر- ۱۵۷۴) دیکھو حدیث ۱۵۷۳

(۱۵۷۴) (۱۵۷۴) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۵۷۴ ابوبکر سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

وَسَلَّمَ إِلَيْنَا يَا بَعْدَكَ سُرَاقُ الْحَجِيحِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ وَمَزِينَةَ وَأَحْسِبَةَ وَجَهْمِينَةَ ابْنِ

۱۵۷۴ کہ اسلم اور غفار اور مزینہ میں سے اور میرا خیال ہے اور جہینہ بھی کہا ابن

أَبِي يَعْقُوبَ شَكَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمٌ وَغِفَارٌ وَمَزِينَةُ

۱۵۷۴ ابی یعقوب کو شک ہے ان لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے جو حاجیوں کا مال چراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلم اور غفار اور مزینہ

وَأَحْسِبَةَ وَجَهْمِينَةَ خَيْرٌ أَمْ مِنْ بَنِي نُبَيْمٍ وَبَنِي حَامِرٍ وَأَسِيدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا

۱۵۷۴ اور میں سمجھتا ہوں اور جہینہ بھی فرمایا جو تمہیں اور بنو عامر اور اسلم اور غطفان سے بہتر ہوں رجوتماہ اور ربابا ہو گئے

قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ (۱۵۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

۱۵۷۴ اقرع نے کہا بیک آجے فرمایا اس ذات کی قسم جس کا ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان سے اچھے ہیں ابوبکر سے روایت ہے کہ

قَالَ أَسْلَمٌ وَغِفَارٌ وَشَيْءٌ مِنْ مَزِينَةَ وَجَهْمِينَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جَهْمِينَةَ أَوْ مَزِينَةَ خَيْرٌ عِنْدَ

۱۵۷۴ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسلم اور غفار اور مزینہ کے کچھ لوگ اور جہینہ یا فرمایا کہ جہینہ کے کچھ لوگ یا مزینہ کے اللہ کے نزدیک

اللَّهُ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسْلَمٍ وَبَنِي نُبَيْمٍ وَهُوَ أَرْزَنٌ وَغَطَفَانَ رَأَى بَابَ ابْنِ خَشْتِ الْقَوْمِ

۱۵۷۴ یا فرمایا قیامت کے دن اسلم اور بنو نایم اور بنو غطفان سے بہتر ہیں بابت قوم کی بہن کی اولاد اور قوم

مَوَالِقِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ (۱۵۷۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ

۱۵۷۴ کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہیں انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا

هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ خَشْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۵۷۴ کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری قوم کے قبیلے کا آدمی انہوں نے عرض کیا کہ نہیں سوائے ہماری بہن کی ایک بیٹے کے رسول اللہ

ابْنِ خَشْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ (۹) بَابُ قِصَّةِ زَمْرٍ وَفِي رَسُولِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۱۵۷۴ صلعم نے فرمایا قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہے بیک بابت زمرہ کا بیان اور اس میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا ذکر ہے

صعصعة

اور مزینہ اور جہینہ

جیسا کہ حدیث میں

صعصعة

اسلم اور غفار

عصت اللہ کے

لفظ بیان میں ہیں

باقی وہی لفظ ہیں۔

اس کے الفاظ

یوں ہیں۔ قال

النبي صلى الله عليه

وسلم ارأيت ان كان

جهمينة ومزينة

واسلم وخفاس

خيرا من بني تميم

وبني اسد ومن

بني عبد الله بن

غطفان ومن بني

عامر بن صعصعة

فقال رجل خابوا

وخسروا فقال لهم

خير من بني تميم

ومن بني اسد و

من بني عبد الله

بن غطفان ومن

بني عامر بن

صعصعة

اسلم وغفار

اور مزینہ اور جہینہ

جیسا کہ حدیث میں

صعصعة

اسلم اور غفار

اور مزینہ اور جہینہ

جیسا کہ حدیث میں

صعصعة

۱۵۷

۱۵۷۷ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلَامِ أَبِي دَرْدَاءٍ قَالَ

ابو جمرہ سے روایت ہے کہا ہم سے ابن عباس نے کہا کیا تمہیں ابو ذر کے اسلام کا ذکر نہ سناؤں

قُلْنَا بَلَىٰ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ لَنْتُ رَجُلًا مِنْ عِفَّاكَ فَبَلَّغْنَا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَلَكَةٍ يَزْعَمُ

ہاں سنا ہے کہا ابو ذر نے کہا میں قبیلہ عففا کا ایک شخص تھا ہمیں خبر ہوئی کہ کہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے

أَنَّهُ يَنْبَغِي فَقُلْتُ لِأَخِي نَطْلُقُ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ كَلِمَةً وَأَتَيْتَنِي بِخَيْرَةٍ فَأَنْطَلِقُ فَلْيَقْبِهِ

کہ میں نبی ہوں تو میں نے اپنے بھائی سے کہا اس شخص کے پاس جا اور ان سے بات چیت کر اور مجھے ان کی خبر لائے وہ گیا اور آپ نے

ثُمَّ رَجِعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ

پھر لوٹ آیا میں نے اس سے پوچھا کیا خبر لائے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نیک کام کا حکم دیتا ہے اور برے

فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَشْفِينِي مِنَ الْخَبْرِ فَأَخَذَتْ جِرَابًا وَعَصَا ثُمَّ أَقْبَلَتْ إِلَىٰ مَلَكَةٍ فَجَعَلَتْ

کام سے روکتے ہیں نے اس سے کہا اس خبر سے میری تسلی نہیں ہوتی تو میں نے ایک سترخان اور چھڑی لی اور کہہ کر آج گیا میں آپ کو پتا چکا

لَا أَعْرِفُهُ وَالرَّكَاةُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ

نہ تھا اور نہ یہ پسند کرتا تھا کہ آپ کے متعلق راز اور لوگوں سے پوچھوں زوم کا پانی پیتا تھا اور مسجد میں رہتا تھا

قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌُّّ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَنْطَلِقُ إِلَىٰ

میرے پاس سے حضرت علیؑ گذرے تو کہنے لگے یہ شخص تو سا فرما معلوم ہوتا ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے کہا تو گھر چلو

الْمَنْزِلِ قَالَ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ لَيْسَ لِي سَأَلُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا أُخْبِرُهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ

کہا میں ان کے ساتھ چلا انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور میں نے انہیں کچھ بتایا جب صبح ہوئی

غَدَرْتُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ لَأَسْأَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بَشَيْءٍ قَالَ فَمَرَّ بِي عَلِيٌُّّ

تو سویرے مسجد میں آیا کہ آپ کے متعلق کچھ دریافت کروں اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جو آپ کا کچھ پتہ مجھے بتائے کہا پھر میرے پاس

فَقَالَ أَمَا نَأَىٰ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ نَطْلُقُ مَعِيَ قَالَ فَقَالَ

سے حضرت علیؑ گذرے اور کہا کیا ابھی تک اس شخص نے اپنا ٹھکانا نہیں پتہ کیا ابو ذر نے کہا میں نے کہا نہیں حضرت علیؑ نے کہا میرے ساتھ

مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلَدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ كَثَمَتْ عَلِيٌّ أَخْبَرْتُكَ قَالَ

چلو کہا حضرت علیؑ نے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور کون سا کام تمہیں اس شہر میں لایا ہے کہا تو میں نے ان سے کہا اگر تم میری بات کو چھوڑو

فَأِنِّي أَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَّغْنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَهُنَا رَجُلٌ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَرْسَلْتُ

تو میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے کہا میں یہاں ہی رہوں گا ابو ذر نے کہا میں نے ان سے کہا کہ تم کو خبر پہنچی ہے کہ یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو

أَخِي لِي كَلِمَةً فَرَجِعَ وَلَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمَا لَكَ قَدْ

کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ ان سے بات چیت کرے وہ واپس آیا اور کوئی تسلی بخش خبر نہ لایا تو میں نے ارادہ

رَشِدْتُ هَذَا أَوْ جِئْتَنِي إِلَيْهِ فَأَتَيْتَنِي أَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا

کیا کہ خود ان سے ملوں حضرت علیؑ نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم نے رستہ پلایا میں بھی انہی کے پاس جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے آؤ جہاں

أَخَافُكَ عَلَيْكَ قَمْتُ إِلَىٰ كَأَنَّ كَأَنَّ أَصْلِي لَعْلٌ وَأَمْضَيْتُ نَتِ فَضْطٌ وَمَصِيَّتٌ مَعَهُ

میں نکل جوں جوں تم بھی نہیں ہو جانا اگر میں رستہ میں کسی کو دیکھوں جس کے متعلق مجھے خبر ہو تو میں وہاں کی طرف کھڑا ہوجاؤں گا کہ میں اپنے جوتے

حَتَّىٰ دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْرِضْ عَلَيَّ

کو ٹھیک کر رہا ہوں اور تم نے نکل جانا حضرت علیؑ نے چلا اور میں بھی ساتھ ہی چلا یہاں تک کہ وہ اندر چلے گئے اور میں بھی ساتھ ہی سلم کے پاس اندر گیا میں نے آپؐ عرض

الْإِسْلَامَ فَعَرْضَهُ فَأَسَلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَمْ تَهَذَا الْأَمْرَ وَارْجِعْ

کیا کہ مجھ پر اسلام پیش کریں اپنے پیش کیا تو میں نے مسلمان ہو گیا آپ نے مجھ سے فرمایا ابو ذر اس بات کو چھوڑنا رکھو اور اپنے ملک میں لوٹ جاؤ

إِلَى بَيْدِكَ فَإِذَا بَلَغَكَ ظَهْرُنَا فَأَقْبِلْ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصْرَحَنَّ

جب تم کو ہمارے غلبہ کی خبر پہنچے تو پھر آجانا میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس

بہا بین اظہرہم فجاء الی السید قریش فقیل یا معشر قریش انی اشدہم ان

کا ذکر ان کے سامنے پہنچ کر دوسرے کا سوہ را بوزر مسجد کو آیا اور قریش ہی وہیں تھے کمالے قریش کے لوگوں کو اپنی جیتا ہوں

لا المرأ الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا الی هذا الصراط

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہی انہوں نے کہا اس میں بدین کی سرکوبی

فقالوا فاضربت لأموت فادركني لعنات فالكب على ثم اقبل عليهم فقال

کہیئے اٹھو ہٹے اور مجھے راستہ چھوڑنا چاہیے کہ میں رجاؤں تک عباس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ پر جھک گئے پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے

ويكفركم تقتلون رجلا من غفار ومبصر كرم مسركم على غفار فاقبلوا اعني فلما

اور کہا تم میرا فوس غفار کے آدمی کو قتل کر رہے ہو حالانکہ تم میری تجارت اور تمہارے گزرنے کا راستہ غفار پر سے ہے تو وہ مجھ سے ہٹ

ان اصبت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس فقالوا قوموا الی هذا

گئے جب وہ رات کی صبح ہوئی تو میں پھر مسجد میں لوٹ کر آیا اور اسی طرح کہ جس طرح کل کہا تھا تو انہوں نے کہا اس میں بدین کی سرکوبی

الصراط فصنيع لي مثل ما صنيع بالامس ادر كني لعنات فالكب على وقال مثل

کے لئے اٹھو تو مجھ سے انہوں نے ویسا ہی ساوک کیا جس طرح کل کیا تھا پھر عباس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ پر جھک گئے اور اپنی کل

مقاتلته بالامس قال فكان هذا اول اسلام لابي ذر رضى الله عنه باب

کی گفتگو کی طرح گفتگو کی بن عباس نے کہا کہ یہ ابو ذر کے اسلام لانے کی ابتدا تھی اشان پر رحم کرے

ذكر فخطان (۸، ۱۵) عن ابي هريرة رضى الله عنه قال لا تقوم

خطان کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رسولوں کی

الساعة حتى يخرج رجل من فخطان يسوق الناس بعصاه را باب ما ينه

نہیں آنے کی یہاں تک کہ خطان میں سے ایک شخص نکلے جو لوگوں کو اپنی راہی سے ہانکے

من دعوة الجاهلية (۹، ۱۵) عن جابر بن عبد الله قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

جابر سے روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت

وقد شاب معناه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب

جنگ کیا ایک پچیس برس ہا جو لوگ جمع ہوئے گئے یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہو گئے مہاجرین میں سے ایک شخص (مختصیوں میں سے) بڑا کھیل

فكسع انصاريا فغضب الانصارى غضبا شديدا حتى تدارعوا وقال الانصار

کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے سر میں پرفزب لگائی انصاری کو بہت غصہ آیا یہاں تک کہ انہوں نے داپے اپنے ساتھیوں کو بیکار

يا الانصار وقال المهاجرون يا لله جرمي يا لله جرمي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال

انصاری نے کہا اے انصار آؤ اور مہاجر نے کہا اے مہاجر آؤ

ما بال دعوى اهل الجاهلية ثم قال فاشا لهم فاخذ بكسرة المهاجري الانصار

جاہلیت والوں کی باتیں کیسی ہیں پھر یہ جھان کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ مہاجر نے انصاری کے سر میں پرفزب لگائی

قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فاشا خبيثة وقال عبد الله بن ابي ازيق

کہا تو آپ نے فرمایا یہ راجاہیت ہے چھوڑ دو یہ ناپاک ہے اے اور عبد اللہ بن ابی ازیق نے کہا

سئل اقد مثل اعوا علينا لئن رجعتا الی المدينة ليجرحنا لا عن منها الا ذل

کیا انہوں نے ہمارے خلاف اپنے جھگڑے کو کہا ہے کہ ہم مدینے لوٹ گئے تو عزت دار اس سے ذلیل کو نکال دے گا

علی خطان ابن امیر
کا صاحب اعلیٰ ہے
یہ میں سے کسی کے
نکلنے کی پیشگوئی ہے
راہی سے ہانکنے
کا مطلب ان پر
حکومت کرنا ہے
یعنی میں ہر کہ نعم
بن حاکم کی روایت
میں اس شخص کا
تطور مدنی کے بعد
ہوگا مگر یہ قابل
اعتماد نہیں ہے
علی جاہلیت میں
وزار سا جھگڑا اوو
تو مجھے دو شخصوں
میں ہوجانا تو وہ
اپنی اپنی قوم کو
بیکار کرنے اور اس طرح
دو قومیں باہم لڑ
پڑیں اور ہر قسم کی
باتوں پر کشت و
خون ہوجانا بلکہ
بعض وقت ظالمی
برطاول بڑھ جاتی
تو آپ نے فرمایا
کہ آپس کے ایک
سعمولی جھگڑے پر
تو مولیٰ باہم لڑاونا
جاہلیت کی بات ہے
اور ناپاک بات ہے
کیونکہ اس کا نتیجہ
ہر اسے ان باتوں
کو چھوڑ دو

۱۵۷
۱۵۸

عبداللہ بن ابی
 راس رشتہ نفعین
 تھا۔ اور اس کی
 خفیہ کوشش ہی
 تھی کہ اسلام کو تباہ
 کرنے کا چوکھٹا
 میں مسلمان تھا
 اور کلمہ پڑھتا تھا
 گو جنگوں میں شریک
 ہونے سے انکار
 ہی کر دیتا تھا جیسا
 احد میں کیا کہ اپنے
 تین سو آدمیوں
 کو دیکھ رہا تھا
 اس لئے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 اس سے مسلمانوں
 کا اسلوک کرتے
 تھے اور اس کی
 شرارتوں سے
 بھی درگزر فرماتے
 تھے۔
 عطا لفظ وہی ہیں
 صرف لطم الخلق
 کی جگہ صوب الخلق
 ہے۔
 عطا خزا عکہ
 اور اس کے اس
 پاس وہ قبیلہ تھا
 جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا حلیف

فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا النَّحِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

حضرت عمر نے عرض کیا کیا اس نحیث کو ہم مار نہ ڈالیں مراد عبد اللہ تھا جنہی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلِمَ لَا يَتَخَذُ النَّاسُ نَهْكَ كَانَ يُقْتَلُ أَصْحَابَهُ (م- ۱۶۵۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَمَتْكَ

نہیں لوگ بائیں کریں گے کہ وہ اپنے اصحاب کو قتل کرتے تھے عکہ

۱۶۹۴ (۱۲۲) بَابُ قِصَّةِ خِرَاعَةَ (۱۵۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۶۹۴ عطا خزا عکہ ذکر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِنْتِ قَمَيْعَةَ بِنْتِ خَدِيفِ بْنِ خَدِيفِ أَبُو خِرَاعَةَ (۱۵۸۱) عَنْ سَعِيدِ

نے فرمایا کہ عمرو بن کئی بن قمو بن خدیف بن خدیف بن خدیف عکہ کا باب تھا عکہ سعید بن سعید

ابْنِ الْمُسَيْقِ قَالَ لِبُحَيْرَةَ النَّبِيِّ لَيْسَ بِكَ دَرَاهِمُ لَطَوَّاعِيَةٍ وَلَا يَجْلِبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

روایت ہے گما کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ ہتھوں کے نام پر روک دیا جاتا تھا اور لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں

وَالسَّائِبَةُ النَّبِيِّ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِاللَّحْمِ فَلَا يَجْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

کا دودھ نہ دوہ سکتا تھا اور سائبہ وہ ہے جسے وہ اپنے ہتھوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو اس پر کوئی بوجھ نہ لاد جاتا تھا اور

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُمْ عَمْرُؤَ بْنَ عَامِرِ بْنِ مِحْجِ الْخَزَاعِيِّ يَجْرُ قِصْبَةَ فِي

ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن محجی خزا عکہ کو دیکھا وہ اپنی انتریاں دوزخ

النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَّكَ لِسَوَائِبِ (۱۲۳) بَابُ قِصَّةِ زَمْرَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ

میں کھینچ رہا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ رسا نہ چھوڑنے کی رسم نکالی یا عکہ زمرم کا قصہ اور عرب کی جہالت

(۱۵۸۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَتَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَأَقْرَأْ مَا فَوَّقَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تمہیں یہ بات اچھی لگے کہ تم عرب کی جہالت معلوم کرو تو سورہ انعام کی

الثَّلَاثِينَ وَمَا تَفِي سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى

ایک سو تیس آیتوں سے آگے پڑھ لو قذحسوا لہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نا اچھی سے بغیر علم

قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (۱۲۴) بَابُ مِمَّنْ أَنْتَسَبُ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ

کے بارگاہ اللہ کے قول قذضلو وما کانا موہتدین تک با سبیلہ جو اپنے آپ کو باپ دادوں کی طرف منسوب کرے خواہ اسلام

وَالْبَاهِلِيُّ وَقَالَ بِنْتُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَرِيمَ

میں ہوں یا جاہلیت میں اور ابن عمر اور ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ کریم

ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يَوْسَعُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَقَ ابْنِ

ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحق بن

تھا اور نبی پر فریض اور نبی کا نام کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اور انکی حمایت کیے آنحضرت صلعم نے کہ پر پڑھائی کی اور وہ صحیح ہوا کہی کہتے ہیں کہ جب سب کا منڈ لوٹ گیا اور
 زور سے سیلاب آیا تو اہل اس طوفان کی وجہ سے منتشر ہو گئے۔ جو ما زن غسان کے پانی پر آکر پھیرے اور خزا عکہ اور انکا درگاہ آ کر پہنچ گئے ان سب کا نسب جیسا کہ
 اس حدیث میں ہے عمر بن محجی تک پہنچتا ہے۔ عمرو بن محجی وہ پہلا شخص جو جس نے عربوں میں توحید کے خلاف بت پرستی کی ناپاک رسم پیدا کی۔ اور اس نے ہر رسم شام کی عکہ
 قوم سے لی اور پہل بت انہی سے لاکر مکہ کے پاس رکھا اور یہ ظہور اسلام سے تین سو برس پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت تک عربوں میں دین توحید یعنی انیسویں دین
 جاری تھا اور جیسا کہ انکی حدیث میں مذکور ہو سائبہ وغیرہ کی رسم عمرو بن عامر بن محجی نے ہی ڈالی۔ عکہ عرب کی جہالت کا ذکر کرنے سے یہ مقصود ہے کہ یہ قوم
 کیسی گری ہوئی حالت میں تھی اور کس قدر جہالت اور توہم پرستی ان کے اندر آگئی تھی جس سے آنحضرت صلعم نے اُسے باہر نکالا اور علم اور ہر رسم کی توحیدوں اُلاستہ کیا
 حدیث باب میں جن آیات کی طرف حضرت ابن عباس نے توجہ دلائی ہے ان میں عربوں کی بت پرستی اور دیگر رسوم قبیحہ کا ذکر ہے اور پھر آخر میں آیت ۱۵۳
 میں یہ ذکر ہے کہ اسلام ان تمام جہالتوں اور تاریکیوں سے باہر نکالتا ہے اور اخلاق فاضلہ پر قائم کرتا ہے۔ یوں اس کا تعلق مناقب سے ہے۔

ابراہیم خلیل اللہ وقال لبرائء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطلب

(م- ۱۶۲۰) عن ابن عباس (متکرم- ۱۹۳۸) (م- ۱۶۲۱) عن ابی ہریرۃ (متکرم- ۱۹۳۸) اور برائے بنی مسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

(م- ۱۶۲۱) (۱۵) باب قصة الحبش وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی

ارفدہ (م- ۱۶۲۲) عن عائشۃ (متکرم- ۱۵۵۷) (۱۶) باب من أحب

ان لا یسب نسبہ (۱۵۸۲) عن عائشۃ (متکرم- ۱۵۵۷) (۱۶) باب من أحب

اللہ علیہ وسلم فی ہجاء المشرکین قال کیف یسبئ فقال حسن قال حسن

منہم کما تسئل الشعرة من العجین (۱۵۸۳) عن عروۃ قال ذہبت أسب حسن

عند عائشۃ (متکرم- ۱۵۵۷) (۱۶) باب ما جاء فی اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۶) باب ما جاء فی اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول

ابراہیم خلیل اللہ وقال لبرائء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطلب

یعنی جب حضرت
ہو تو صرف مسلمان
باب وادوں کی
طرف ہی نہیں بلکہ
کافر یا پادوں
کی طرف اپنے آپ
کو منسوب کرنا بھی
جائز ہے جیسے حضرت
صلعم نے فرمایا۔
انا ابن عبد المطلب
اور یہ لفظ اپنے
اس موقع پر فرماتے
جب جنگ تبوک میں
مسلمان پیچھے ہٹ
لے تھے اور آپ
اکیلے یہ کہتے ہوئے
آگے بڑھ رہے تھے
انا النبی واکتاب
انا ابن عبد المطلب
گویا اس میں نبی اور
دنوی دونوں پہلوؤں

سے آپ کی شجاعت کا ذکر ہے نہ نبی بیٹھ دکھا سکتا ہے نہ عبد المطلب کا بیٹھ دیکھا سکتا ہے۔ لہذا نزولت و اسرار عشرتک
الاقربین جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنادی یا بنی فھر یا بنی عدنی لبطون قریش۔ اس کے بعد دوسری روایت یوں دی ہے۔ لہذا نزولت و انزل
عشیرتک الا قرین جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجوہم قباثل قبائل یہ روایت پھر تفصیل سے سورہ الشعراء کی تفسیر میں آتی ہے۔ لہذا یہاں لفظ
یہ ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد منات اشدوا انفسکم من اللہ یا بنی عبد المطلب اشدوا انفسکم من اللہ یا امر الزبیر ابوت
العوام حجة رسول اللہ یا فاطمة بنت محمد اشدوا انفسکم من اللہ لا املك تکلم من اللہ شئنا سلائی من مالی ما شئنا۔ ان دونوں روایتوں میں حضرت
صلعم کی تلمیح کا اور تمیل احکام قرآنی کا ذکر ہے کہ کس طرح آپ اپنے خاندان کے سب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ خالی خاندانی
نسبت کوئی شے نہیں جتنی کہ خود اپنی بیٹی کا ذکر بھی انہی الفاظ میں آگئی حدیث میں کر دیا ہے۔ لہذا ارفدہ کہ جمعیوں کے جدا علی کا نام ہے۔ عنوان باب
میں حدیث باب کے اس حصہ کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق عنوان سے ہے یعنی لے بنی ارفدہ اور مطلب یہ ہے کہ جدا علی کی طرف نسبت لینا بھی ایک عزت پر
۱۶ یہاں لفظ یہ ہیں۔ ان ابا بکر دخل علیہا وعندہا جاریتان فی ایام منی تدفغان وتضریان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متعسف بشوبہ فاندھا
ابوبکر نکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ فقال لعلہما یا ابا بکر فانهما ایام عید وتلك الا ایام ایام منی وقالت عائشۃ رایت النبی صلی اللہ علیہ
وسلم یسترنی وانا انظر الی الحبشة وہم یلعون فی المسجد فرجہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہم امنا بنی ارفدہ یعنی من اکامن ہلما یہ
ہجرت کی اجازت حضرت حسان نے صرف قریش کی ہجو کا جواب دینے کے لئے مانگی تھی۔ ہجو کسی کی ہو اسلام اسکی اجازت نہیں دیتا مگر جو کہ طور بعض باتوں
کہنے کی ضرورت اسلئے پیش آتی کہ تاشمن کا منہ بند ہو۔ بعض وقت لوگوں کو عظیم اثنان انسانوں کی باتوں سے دھوکہ لگتا ہے اور وہ سمجھتے نہیں کہ یہ اپنے دشمن
کو برا کیوں کہتے ہیں حالانکہ یہ ایک جواب اور علاج کے طور پر ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کفار کی ہجو کی اجازت دی مگر پھر بھی اپنے فریاد
میں خود بھی تو اسی خاندان میں سے ہوں کیوں کہتے ہیں جو چیز ان میں بھی ہے اسکی ہجو نہ کر دے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بتان باندا گیا تھا انہیں کچھ
حصہ حسان نے بھی لیا۔ اور وہ حضرت عائشہ کا بھانجا سہار بنت ابی بکر کا بیٹا تھا انہوں نے اسی وجہ سے حسان کو برا کہنا شروع کیا تو حضرت عائشہ نے اس سے فرمایا اسلئے کہ
گو انہوں نے حضرت عائشہ کے معاملہ میں تا عاقبت اندیشی سے کام لیا مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ایک خدمت کی تھی کس قدر پاک نفسی حضرت عائشہ کی نظر تھی کہ اپنی ایزد سانی کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے مقابلہ میں ہجرت بھیج دینا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے کہ جو شخص اعدا کے مقابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا ہو اسکی ہجو کی نظر بھی ہو تو اس سے چشم پوشی کریں۔

اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ والذین معہ أشد اعداء کفار وقولہ من بعدہ	اللہ تعالیٰ کا قول محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں بڑے مشیطہ ہیں (بخاری ۲۹۹) اور ایشیاء
اسمہ أحمد (۱۵۸۴) عن جابر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	یہ قول میرے بعد جبرائیل نام ہے (صفت ۶) جابر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لی خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا المارحی الذمی یحیی اللہ فی الکفر وأنا	کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں وہ مارجی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا اور میں وہ
المارحی الذمی یحیی الناس علی قدحی وأنا العاقب (۱۵۸۵) عن ابو ہریرۃ	حاشا ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدحوں پر ہوگا اور میں عاقب ہوں ملے ابو ہریرہ سے روایت ہے
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکالتحیون کیف یصرف اللہ عنی	کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو تعجب نہیں آتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ
نشتہم قریش ولعنہم یشہمون مذمما ویلعنون مذمما وأنا محمد	قریش کی گالی اور ان کی لعنت کو مجھ سے پھیرے گا یہ وہ مذموم کو گالی دینے اور مذموم پر لعنت کرتے ہیں اور میں محمد ہوں ملے

۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

الرحمہ - الہادی - طہ - یس وغیرہ تو ان پانچ میں حصر مقصود نہیں بلکہ یہ سب زیادہ مشہور نام یا اہم ترین صفات کو ظاہر کر نیوالے ہیں۔ دو ستر سوال یہ ہے کہ المارحی، الحاشی، العاقب جن تین اسماء کا یہاں ذکر ہے وہ صفاتی نام ہیں تو ان کو محمد و احمد کے ساتھ جو آپ کے نام پیدائش کے وقت رکھے گئے ملا دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حدیث میں محمد و احمد کے ساتھ صفاتی ناموں کو جمع کیا گیا ہے۔ لیکن محمد و احمد اور باقی اسماء کے ذکر میں صاف امتیاز بھی نظر آتا ہے۔ انا محمد و احمد کو اکٹھا بیان کیا ہے اور صفاتی ناموں کے ساتھ ال لگا دیا ہے۔ اور ان کی تشریح بھی کر دی ہے حالانکہ محمد و احمد کے بھی معنی ہو سکتے تھے۔ مگر چونکہ یہ آپ کے اسم علم تھے جو آپ کی پیدائش کے وقت رکھے گئے اس لئے ان کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ اسم علم کے طور پر آپ کو آپ کی زندگی میں محمد و احمد دونوں ناموں سے خطاب کیا جاتا تھا جیسا کہ اشعار سے ظاہر ہے اور یہی دو نام پیدائش کے وقت رکھے جانے ثابت ہیں۔ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا اور احمد کے معنی ہیں بہت تعریف کرنے والا۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ آپ کے دونوں نام بھی گویا الہامی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کی والدہ اور آپ کے دادا کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ کے یہ اسماء رکھے جائیں جس قدر تعریف آنحضرت صلعم کی دنیا میں ہوئی ہے کسی انسان کی نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو گویا عیسائی خدا مانتے ہیں۔ مسیح واقعات کے رنگ میں دیکھا جائے تو خود عیسائیوں کو اعتراف ہے کہ نسل انسانی کی اصلاح کا جو کام آنحضرت صلعم نے کیا وہ اور کسی نبی نے نہیں کیا۔ اور آپ دنیا کے سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں۔ گویا عزیزوں نے بھی آپ کی حمد کی ہے اور آپ کو محمد یا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا انسان مانا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی امت نے جس قدر آپ کی حمد کی ہے وہ اور کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی نہیں کی۔ تمام مسلمان ہر نماز میں آپ پر ضرور دو مرتبہ سجدے کرتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو اور کسی نبی کو میسر نہیں آئی۔ ہر نماز میں پانچ نمازوں میں کم سے کم سترہ دفعہ اور عموماً اس سے زیادہ تعظیمات پڑھتا ہے اور تعظیمات میں آپ پر سلامتی اور رحمت اور برکت کی دعا کرتا ہے اور آپ کا احمد یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا انسان ہونا تو اس قدر تین ہر کر کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ الحمد للہ رب العالمین کی آواز اس طرح ہر لمحہ اور ہر آن کر دوڑوں انسانوں کے مومنوں سے نکلتی ہے تو یہ سب حمد اللہ تعالیٰ کی آپ کی وجہ سے ہوئی اور کسی نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد دنیا میں نہیں ہوئی پس واقعات نے آپ کو اسم ہاشمی محمد و احمد ثابت کیا۔ تینوں صفاتی ناموں کو دیکھا جائے تو آپ کی متاثر ترین خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ المارحی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا اور نہ صرف مسلمانوں کے نلوں میں خدا تعالیٰ کی ہستی اور توحید کو قائم کیا بلکہ تمام دنیا پر اس کا اثر پڑا اور آپ کی بدولت شرک و کفر روز بروز دنیا سے کم ہوتے چلے گئے ہیں۔ دو ستر آپ صفاتی نام المارحی بیان فرمایا کہ لوگ آپ کے قدموں پر اٹھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے اصول میں وہ قبولیت موجود ہے کہ لوگ ان کی طرف خود بخود کھینچے جاتے ہیں۔ اور تیسرا صفاتی نام آپ کا العاقب ہے جس کی تشریح یہاں تو موجود نہیں لیکن اسی حدیث کی دوسری روایتوں میں موجود ہے الذی لیس بعدہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو آپ کو جملہ انبیاء عالم میں متاثر کرتی ہے۔ مسلط یعنی گالی اور لعنت تو ذم ہے تو جس کو گالی دی جائے یا اس پر لعنت کی جائے وہ لازماً مذموم ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام ہی محمد رکھا اسلئے کسی کی گالی اور لعنت آپ پر نہیں پڑ سکتی۔ اور اس طرح پر خود ہی لوگ آخر اپنے ان افعال سے ناامد گئے کہ انہوں نے اس انسان کو جو سرتاپا خود بخود مٹا دیا۔ اور آج دنیا میں وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں جو عرب میں پیدا ہوئے۔

<p>عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۵۸۷) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَتَّى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وقت پائی جب آپ کی عمر تیرہ سال</p>	<p>۱۵۸۷</p> <p>۱۵۸۷</p>
<p>سِتِّينَ (۱۵۸۸) بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۱۶۲۴) عَنْ أَنَسِ رَمَتَكَرٍ</p> <p>کی سخی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت دیکھو حدیث</p>	<p>۱۵۸۸</p> <p>۱۵۸۸</p>
<p>۱۰۵۵ (م- ۱۶۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَتَكَرٍ (۱۲۱۱) (م- ۱۶۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَتَكَرٍ</p> <p>۱۰۵۵ دیکھو حدیث ۱۲۱۱ دیکھو حدیث ۱۶۲۶</p>	<p>۱۰۵۵</p> <p>۱۰۵۵</p>
<p>(۱۰۵۵) (م- ۱۶۲۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَتَكَرٍ (۱۲۱۱) (م- ۱۶۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَتَكَرٍ</p> <p>۱۰۵۵ دیکھو حدیث ۱۲۱۱ دیکھو حدیث ۱۶۲۸</p>	<p>۱۰۵۵</p> <p>۱۰۵۵</p>
<p>بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ (م- ۱۶۲۸) عَنْ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَمَتَكَرٍ (۱۵۶) (م- ۱۶۲۹)</p> <p>بابت نبوت کی خبر دیکھو حدیث ۱۵۶ دیکھو حدیث ۱۶۲۹</p>	<p>۱۶۲۸</p> <p>۱۶۲۸</p>
<p>صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۵۸۸) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ</p> <p>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلیہ عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے</p>	<p>۱۵۸۸</p> <p>۱۵۸۸</p>
<p>العصر ثم خرج يمشي فرأى أحسن يلبع مع الصبيان فحمد الله على عاقبته وقال</p> <p>عصر کی ناز پڑھی پھر نکل کر چلنے لگے تو امام حسن کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا</p>	<p>۱۵۸۸</p> <p>۱۵۸۸</p>
<p>يَا بِي شَيْبَةَ يَا لَيْبِي لَا شَيْبَةَ بَعْلِي وَعَلَى يَضْحَكُ (م- ۱۶۲۹) عَنْ ابْنِ جَعْفَرِ</p> <p>میرا باپ تجھ پر قربان ہوتی ہے شایبہ سے علی کے مشابہت میں اور حضرت علی نہیں سے تھے</p>	<p>۱۶۲۹</p> <p>۱۶۲۹</p>
<p>رَمَتَكَرٍ (۱۵۸۹) (م- ۱۶۳۰) عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۵۸۹ ابوجعفر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا</p>	<p>۱۵۸۹</p> <p>۱۵۸۹</p>
<p>وَكَانَ أَحْسَنَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَشَبُهَهُ قُلْتُ يَا بِي حَجِيْفَةُ صَفْهُ لِي قَالَ كَانَ</p> <p>اور حسن آپ کے مشابہت تھے میں نے ابوجحیفہ سے کہا مجھ سے آپ کا کھلیہ بیان کرو کیا آپ سفید</p>	<p>۱۵۸۹</p> <p>۱۵۸۹</p>
<p>أَبْيَضٌ قَدْ شَمَطَ وَأَمْرُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ قَلْوًا قَالَ فَفِيضٌ</p> <p>ذنگ تھے بالوں میں کچھ سفیدی آگئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تیرہ اونٹوں کا حکم دیا کہا تو نبی</p>	<p>۱۵۸۹</p> <p>۱۵۸۹</p>
<p>النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَقْبُضَهَا (م- ۱۵۹۰) عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ السَّوَالِي قَالَ</p> <p>صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانچنے اس سے پہلے کہ ہم اونٹ لیتے ہیں ابوجحیفہ سے روایت ہے کہ</p>	<p>۱۵۹۰</p> <p>۱۵۹۰</p>
<p>رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفْطِهِ السُّفْطَةِ الْعَنْقَفَةِ</p> <p>میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے لب زریں کے نیچے سفیدی دیکھی یعنی عنقہ پر</p>	<p>۱۵۹۰</p> <p>۱۵۹۰</p>

صاف کہہ دیا کہ تم سے خدا کی باو شاہت لیکو دوسری قوم کو دیکھی گئی اور وہ وہی نبی معلوم یا رکروہ قوم ہے۔ (صحیح ہذا) غلپاں لفظ وہی ہیں مگر اہل دعاوت
 ہذا کے لفظ انہیں ہیں، غلپاں صرف اس قدر ہے۔ شہماو باسعی ولا تکتفو ابکینیقی، کلسر روایت مختصر ہے۔ قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سموا باسم ولا
 تکتفو، کینیتی، غلپاں روایت کی پیشی سے آتی ہے روایت الساب بن یزید ابن اربع وسبعین جلد ۱ مغنلا الارضبوطا وراعتال کی حالت میں، فقال
 قد علمت ما متعت یعنی بصری لا یرعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتہاں نہیں ہے اور اگلحضرت ہاں زیادہ تفصیل سے ہے، ان خالقی ذہبت لی ایہ
 فقالت یا رسول اللہ ان ابن اسحق شاک فاودا اللہ قال فدعا علی، کلسر مکر روایت کے لفظ تقریباً وہی ہیں۔ آخر پر یہ راہت ہے قال بن عبید اللہ الحجلة من
 جمل الغنم الذلی بن عبیدہ یعنی جملہ جمل الغنم یعنی اس سفیدی سے ہے جو گھوڑے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہموہ ایک گول واثرہ یا بڑے کی طرح ہوتی
 ہر اور جو کھڑکی کی گنڈی ہی اس طرح ہوتی ہے۔ خاتم نبوت کیلئے دیکھو جلد ۱ پر نوٹ، غلپاں صرف اس قدر ہے روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان احسن یشہہ
 یک عنقہ صلی صحت اس قدر چھٹی تھی اور قوی اس قدر مضبوط تھے کہ تیرہ سال کی عمر میں بھی صرف عنقہ کے چند بال سفید تھے۔ اس کے علاوہ سر اور اطراف ہی

م کے سامنے بال سیاہ تھے، عہ عنقہ لب زریں اور ٹھوڑی کے درمیان کا حصہ ہے،

۱۵۹۰ | عَنْ حُرَيْرِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حزیر بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے صحابی سے پوچھا

وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ شَيْخًا قَالَ كَأَنَّ فِي عَنَقِهِ

کہا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑھے ہوئے تھے کہا آپ کے عنق پر کچھ سفید بال تھے

شَعْرَاتٌ بَيْضٌ | ۱۵۹۱ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تھے

كَانَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَزْهَرُ اللَّوْنِ لَيْسَ بِالْبَيْضِ وَهُوَ

آپ لوگوں میں زیادہ قد تھے نہ زیادہ لمبے تھے نہ چست قد

وَلَا أَدَمٌ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطُّ وَلَا سَبِيحٌ رَّجُلٌ نَزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَلَيْتَ بَعْدَهُ

سفید اور نہ زیادہ گندم گول نہ سخت گھونگریاے بال والے نہ بالکل سیدھے بال والے آپ پر وحی اتری جب آپ کی عمر

عَشْرٌ وَسِتِّينَ يَنْزَلُ عَلَيْهِ بِالْحَدِيدِ بِنْدَةِ عَشْرِ سِنِينَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَحَيْثُ عَشْرُونَ

چالیس برس کی تھی پھر دس برس مکہ میں رہے آپ پر وحی اتری رہی اور دس برس مدینے میں رہے اور آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں ہیں بال

شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ قَالَ رُبِعَةٌ فَرَأَيْتَ شَعْرًا مِّنْ شَعْرٍ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرٌ فَسَأَلْتُ فَيَقِيلُ أَحْمَرٌ

رہی سفید تھے رہتے رہتے ہیں کہیں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا میں نے دریافت کیا تو کہا کہ وہ خوشبو لگانے

مِنَ الطَّيِّبِ | ۱۶۰۰ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَمَتُكَ | ۱۵۹۱ | ۱۵۹۲ | عَنِ الْبَرَاءِ

سے سرخ ہو گیا حلیہ دیکھو حدیث ۱۵۹۱ سے روایت ہے

يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کی بناوٹ بھی بہت خوبصورت تھی

بِالطَّوِيلِ لَبَّاسًا وَلَا بِالْقَصِيرِ | ۱۵۹۳ | عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ هَلْ خَضِبَ النَّبِيُّ

نہ تو غیر موزوں لمبے اور نہ چست قد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِثْمًا كَانَ شَيْءٌ فِي صَدْرِيهِ | ۱۵۹۴ | عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزَابٍ

خضاب لگا یا تھا کہ نہیں آپ کی دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی حلیہ براہین غائب سے روایت ہے کہ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا بَوَاعِبِينَ كَأَنَّ بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ بَيْضٌ شَيْءٌ أَذْيَبٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے کہ ہوں میں کافی فاصلہ تھا یعنی سینہ جوڑا تھا، آپ کے بال تھے جو آپ کے کانوں کی ٹونگ

رَأَيْتَهُ فِي حَالِهِ حَمْرَاءُ لَوْ أَرَشَيْتَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ

پہنچتے تھے میں نے آپ کو سرخ (دھاری والے) جوڑے میں دیکھا میں نے آپ کو بڑھ کر خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا یوسف بن ابی اسحاق اپنے

رَأَى مِنْكَ يَوْمَئِذٍ | ۱۵۹۵ | عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سُرِّيَ لِبَرَاءِ أَكَانَ وَجْهَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

بہا روایت کرتے ہیں کہ بال کندھوں کے تھے حلیہ براہین غائب سے روایت ہے کہ براہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ

۱۵۹۰ | حلیہ چالیس سال

عمر ہوئی تھی یہ مراد

سے کہ آپ چالیس

سال کی عمر کو پہنچ

چکے تھے آپ کی

پیدائش ربیع الاول

۱۵۹۱ | میں ہوئی اور نزول

وحی رمضان شریف

میں شروع ہوا کہ

میں آپکے دس سال

بعد نزول وحی ہوا

صحیح نہیں بلکہ تیرہ

سال آپ مکہ میں

رہے یہ راوی کی

غلطی ہے +

حلیہ الفاظ میں

۱۵۹۲ | کان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم

لیس بالطویل البتہ

ولابالقصیر ولا

بالابيض لا مفتح

ولیس بالادم ف

لیس بالجد لفظ

ولابالاسبط بعشر

الله علی رأس

اربعین سنة فاقام

بمكة عشر سنین

وبالحدیث عشر

۱۵۹۰

۱۵۹۱

۱۵۹۲

۱۵۹۳

۱۵۹۴

۱۵۹۵

۱۵۹۶

۱۵۹۷

۱۵۹۸

۱۵۹۹

۱۶۰۰

۱۶۰۱

۱۶۰۲

۱۶۰۳

۱۶۰۴

۱۶۰۵

۱۶۰۶

۱۶۰۷

۱۶۰۸

۱۶۰۹

۱۶۱۰

۱۶۱۱

۱۶۱۲

۱۶۱۳

۱۶۱۴

۱۶۱۵

۱۶۱۶

۱۶۱۷

۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الشَّيْبِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الثَّعْبِ رَمَدُ - ۱۶۱ عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ رَمَتَكَ -

۱۵۵ (م- ۱۶۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَمَتَكَ - ۱۵۹۴ (م- ۱۶۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقًا وَأَسَارِمِيرًا وَجْهَهَا فَقَالَ أَلَمْ تَشْفِئِي مَا

قَالَ لَسْتُ بِمِثْلِ لَيْلِي وَأَسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا أَنْ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ مَرَّتَ بَعْضَ

۱۵۹۴ (م- ۱۶۲) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَحْدِثُ حِينَ تَخْلَعُ عَنْ تَبَوُّكَ قَالَ فَلَمَّا سَلِمْتَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهَا مِنَ الشَّرِّ وَرَدَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

۱۵۹۴ (م- ۱۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْثْتُ مِنْ خَلْقِي

قُرُونُ بَنِي آدَمَ قُرُونًا فَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ وَأَمَّا قُرُونُ الْقُرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ (۱۵۹۸) عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَكَ وَكَانَ الْمَشْرُكُونَ

يَقْرَأُونَ رُؤْيَاهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَسْدُلُونَ رُؤْيَاهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَهُ رُؤْيَا فَجَاءَكَ بِهَا فَكَلَّمْتَهُ بِهَا وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي مَا دُونِ مَوَاقِفِهِ يَشْعُرُ ثُمَّ فَرَّقَ رَسُولُ

اہل کتاب کی موافقت ان باتوں میں پسند کرتے تھے جن کے متعلق آپ کو کوئی حکم نہ ہوا اور نہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَسَهُ (۱۵۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ

اپنے سر میں ہانگ نکالنے کے عمل عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْسَأُ وَلَا مَتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ

نہ (طبعی) ہرزبان تھے نہ تکلف سے ہرزبانی اختیار کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سے

أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (۱۶۰۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں عمل حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ إِسْرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبَدًا

دو باتوں میں جس میں سے ایک دیکھا جاتا تو آپ ان میں سے اُسے لیتے جو آسان ہو بشرطیکہ (اس میں) گناہ نہ ہو اگر گناہ ہوتا تو سب سے

النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْتَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُتْهَكَ

بطور کہ آپ اس سے دوری اختیار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے کسی کو سزا نہیں دی ہاں اللہ کے حکم کی

حُرْمَةً اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا (۱۶۰۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا مَسَسَتْ حُرْبًا وَلَا دِيْبًا جَا

بغزتی ہوتی ہو تو اللہ کی سزا لیتے عمل اس سے روایت ہے کہا میں نے کسی ریشم اور نہ زریہ ساج کو چھوا

الَّذِينَ مَرَّكَتِ الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتَ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَمَّ قَاطِطٌ أَطِيبٌ

جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور نہ میں نے کوئی ریح یا عورت خوشبو بھی ایسی سونھی ہے جو

مِنْ زَيْبِجٍ أَوْ عَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۶۰۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ وَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریح یا عورت خوشبو سے بہتر ہو ملکہ ابو سعید خدری سے روایت ہے

۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

یہ صرف ابن عباس کی رائے اور اجتہاد ہے آنحضرت صلعم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ بعض باتوں میں ہے کہ اپنے فرمایا یا خالفوا لہود والنصارى اور خضاب وغیرہ کے متعلق فرمایا کہ وہ نہیں کرتے تم کرو۔ پس آنحضرت صلعم کا بال آگے لٹکانا یا مانگ نکالنا اہل کتاب کی موافقت اور مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آپ کی اپنی پسند پر منحصر تھا جس طرح سر کے بال بھی کدھوں تک رکھے کبھی کانوں تک کبھی درمیانہ۔ ان معاملات میں آپ نے جو بھی آزادی برتی اور دوسروں کو بھی آزادی دی کبھی بال اہل کتاب کی طرح رکھے اور کبھی اہل عرب کی طرح پس ایک مسلمان بھی جس طرح چاہے اپنے سر کے بال رکھے۔ عمل بعض لوگ طبعاً بزبان ہوتے ہیں اور بعض تکلف سے سخت کلامی اختیار کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالیں۔ آپ میں یہ دونوں باتیں نہ تھیں نہ فاحش تھے نہ متفحش۔ بہترین اخلاق کو انہی نیت کا سبب قرار دیا ہے۔ آپ کے اخلاق قبل نبوت بھی اس قدر بلند تھے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ملتے بیٹھتے تھے ان کے اخلاق بھی نہایت بلند ہو گئے تھے۔ عمل یہاں ذکر کا کوئی مراد ایسے دو کام ہیں جو آپ کے اپنے دنیوی امور سے تعلق رکھتے ہوں دینی امور میں اور دوسروں کی بھلائی کے لئے آپ نے اسقدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ جن کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ دوسرا امر جو اس کے ساتھ جمع کیلئے یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے متعلق کوئی جرم نہ کرنا اور اس کا بدلہ نہ لیتے تھے یعنی غفور کر دیتے تھے۔ ہاں سوسائٹی کے نظام اور تمدن کو قائم رکھنے کے لئے حد و شرعی کے اجراء میں کسی کی سفارش بھی نہ مانتے تھے اور نہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے کہ جرم کرنا تو بالاطراد ہی ہے یا چھوٹا کرے یا کساں سلوک کرتے تھے۔ ملکہ نزدیکی کی روایت میں ہے کہ آپ شرف المکین والفقہین تھے یعنی آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں غلطی تھی تو اس سے مراد ہڈی کا جوڑا ہونا ہے اور اس کے ساتھ چوڑے کی نرمی جمع ہو سکتی ہے۔ آپ کی ہتھیلی کا نرم ہونا یہ بھی بنانا ہے کہ آپ ایسے ملک میں ہر جاں نثرب روز جنگ ہوتی تھی لڑائیوں میں حصہ نہیں لیا تو ارکے چلانے کے لئے ہاتھ نرم نہیں رہ سکتے اور یہ ہونہ سکتا تھا جب تک طبعاً آپ جنگ سے متفرق نہ ہوتے۔ اگلی حدیث کہ آپ کو اسی لڑائی سے زیادہ جیادوار تھے اس بات کی تائید ہے کہ آپ جنگ وغیرہ میں حصہ نہ لیتے تھے مگر یہ عجیب بات ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کیلئے آپ کو تلوار چلانے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے فوجوں کی درنگی میں اور دشمن کے مقابلے میں صف آرائی کرنے میں کمزور جزیلیوس زیادہ قابلیت دکھائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے خدا داد جوہر آپ کے اندر موجود تھے اور بوقت ضرورت ہر ایک جوہر اپنی جگہ لکھا تھا۔ آپ کے جسم سے خوشبو آنا بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی شہادت کثرت سے ملتی ہے ایک گرم ملک میں بیٹھنے کی وجہ سے جسم میں اور کپڑوں میں لوکا پیدا ہوجانا ایک معمولی امر ہے اور دیکھیں آپ زیادہ وقت جموں میں گزارتا تھا۔ ایک طرف قدرت کوئی ایسی غیبی آپ کے اندر بھی تھی جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر مہر سے خوشبو آتی تھی دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ آپ نہایت صاف رہتے تھے۔ باوجود موٹے اور پوند گئے کپڑے پہننے کے انہیں نہایت صاف رکھتے تھے اور جسم کو بھی نہایت صاف رکھتے تھے اور خوشبو کا استعمال بھی فرماتے تھے +

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَدْرَاءِ فِي خُدْرِهِا وَزَادَ

کتابی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زاری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے جو اپنے پردہ میں رہتی ہے (اور ایک

فی روایت) وَذَاكَرَهُ شَيْخًا عَرَفَ فِي رَجُلِهِ (۱۶۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ

روایت میں یہ زیادہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو نابیند فرماتے تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطْرَانِ اِشْتِهَاءُ أَكَلَهُ وَارِثَةً (۱۶۰۴)

وسلم نے کبھی کسی کھانے کو نہیں کھا اگر آپ کو اسکی خواہش ہوتی تو اسے کھالیتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے تھے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ (متكبر - ۲۸۳) (م - ۱۶۰۶) عَنْ أَنَسٍ (متكبر - ۵۸۱)

دیکھو حدیث ۲۸۳ (متکبر - ۵۸۱) دیکھو حدیث ۱۶۰۶

(م - ۱۶۰۵) عَنْ أَبِي حَظِيْفَةَ (متكبر - ۱۵۵) (م - ۱۶۰۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

دیکھو حدیث ۱۵۵ (متکبر - ۱۵۵) دیکھو حدیث ۱۶۰۶

(۱۶۰۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ جَاءَ فِجْلَسَ رَأَى

حضرت عائشہ سے روایت ہو انہوں نے کہا (عروہ) تیرے فلاں کے باپ ابو ہریرہ پر بوجھ نہیں آتا آئے اور میرے

جَانِبِ مُحَمَّدٍ ابْنِ بِيضٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ

مجھے کے ایک کونے کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے لگے مجھ سے کہتے تھے اور میں نقل پر اٹھ رہی تھی

أَسْمُهُ فَقَامَ قَبْلِ أَنْ أَقْضَى سَجْدَتَهُ وَوَأَدْرَأَتْهُ لِرُدِّدَتْ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اس سے پیشتر کہ میں نقل ختم کروں وہ اٹھ کر چلے گئے اگر میں انہیں باقی تو ان پر بات لڑاتی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ لَسِيسِدُ الْحَدِيثِ كَسَرِ دِكْرُهُ (۲۴۲) بَابُ كَانَ النَّبِيُّ

جلدی جلدی باتیں نہ کرتے تھے جس طرح تم لوگ کرتے ہو (۲۴۲) باب کان النبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَيْمُونَةَ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ

کی آنکھ سو جاتی تھی مگر آپ کا دل نہیں سوتا تھا اسے سعید بن مینانہ جابر کے توسط سے

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م - ۱۶۰۷) (م - ۱۶۰۸) عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونَةَ (متكبر - ۶۳۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے (۱۶۰۷) دیکھو حدیث ۶۳۳

یعنی زبان سے انہما زبان پندیدگی نہ فرماتے تاکہ دوسرے کو گراں نہ لگے یہ بوجھ کے غلبہ کے تھا۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ فاتح بھی ہیں جزیل بھی ہیں سپاہی بھی ہیں فانوں بنا بنوائے بھی ہیں جھگڑوں کے لقمے بھی خود کرتے ہیں مگرایاں اس قدر حیا و اذیت جیسے کنواری لڑکی جو پرے میں بنتی ہے گویا وہ اخلاق جو ایک دوسرے کی ضدیں اپنے پونے کال کے ساتھ اپنی ذاتیں جمع تھے۔

۱۵۸۱ کے ہیں ۱۵۸۱ مکرر روایت کے لفظ اور ہیں عن ابی حذیفہ قال وُدعتُ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یالای بطم فی قبة کان بالہاجرة خرج بلال فنادی بالصلاة ثم دخل فاخرج نضل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوقف الناس علیہ یاخذون منه ثم دخل فاخرج العذرة وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الی وبيض ساقیه راسی سے عنوان ہے م فرکز الغزوة ثم صلی الظهر رکعتین والعصر رکعتین یمزبان یدینہ الحار والبرائة یہ حدیث کی جگہ آچکی ہے اس کتاب میں ۱۶۰۱ پر گذر چکی جو جاب سے ذکر ہے کہ لوگ فطحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے منہوں پر پڑھتے تھے مگر اصل حدیث ۱۵۸۱ میں اور یہاں یہاں وضو سے پہلے پانی کا ذکر ہے کہ اسے لینے کے لئے آگے بڑھتے تھے ممکن ہے یہ دونوں باتیں درست ہوں یعنی جن لوگوں کو پانی سے حصر نہ ملا ہو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہی منہ پر پھیرا ہو اور ممکن ہے کسی راوی کی غلطی ہو مگر یہ واقعہ حدیثی واقعہ کی طرح کوئی خاص واقعہ ہے عام طور پر کبھی بیان نہیں ہوا۔ لفظ مکرر روایت ۱۵۸۱ کا ایک ٹکڑا ہے مگر اس میں مذکور نہیں اور روایتوں میں یہ ٹکڑا ہی ہے اس کے لفظ یہ ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثاً لرواعہ العادلاً حصصاً ۱۵۸۱ اسماعیلی کی روایت میں بجائے الایحیہ ابو فلان یہ لفظ ہے الایحیہ ابو ہریرہ۔ اس طرح مسلم ابو داؤد اور احمد کی روایت میں بھی بجائے ابو فلان کے ابو ہریرہ کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوا کہ ابو فلان سے مراد ابو ہریرہ ہیں جو جلدی جلدی حدیث سن کر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس قدر آہستہ کرنے تھے کہ ایک شخص اچھی طرح سمجھے ۱۵۸۱ یہ لفظ ۱۵۹۱ و ۶۳۳ میں گذر چکے ہیں۔ دیکھو ان پر نوٹ۔ سعید کی روایت کتاب الاعتصام میں بھی ہے۔ مکرر روایت کے لفظ قرینا وہی ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا ذکر ہے کہ کس قدر آپ کی نمازیں کشش تھی اور اثر پر ہے، قال تنام عینی ولا ینام قلبی +

۶۰۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَحْدُثُ أَنَّ بَيْتَةَ أُسْرَى بِالْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكُعبَةِ جَاءَتْ ثَلَاثَةٌ لَيْلًا قَبْلَ أَنْ يُوحَىٰ رَأْيَهُ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ

الْحَرَامِ فَقَالَ أُولَئِهِمْ أَوَّلُهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ خَيْرُهُمْ

خَيْرُهُمْ وَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمَّا دَرَّوْهُمْ حَتَّىٰ جَاءَتْ وَالْبَيْتَةُ الْآخِرَىٰ فِيمَا يُرَىٰ قَلْبَهُ وَالْبَيْتِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا عَيْنَاهُ وَلَا يَتَمَّ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَمَّ أَعْيُنُهُمْ

وَلَا تَمَّ قُلُوبُهُمْ فَتَوَلَّىٰ جَبْرَيْلُ ثُمَّ عَمَّرَ بِرَأْيِهِ إِلَى السَّمَاءِ (۲۵) بَابُ عِلَاقَاتِ

النَّبِيِّ فِي (الْإِسْلَامِ) (۲۵-۱۶۷۸) عَنْ مَرَّانَ بْنِ حَصِينٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۵۰)

(۲۵-۱۶۷۹) عَنْ أَنَسِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۲-۱۶۸۰) عَنْ أَنَسِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۲)

وَيَكُونُ حَدِيثُ ۱۶۲ عَمَلٌ وَيَكُونُ حَدِيثُ ۱۶۲ عَمَلٌ

۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

وحي آئے کے بعد ہوا۔ اور ایلیۃ اخروی سے مراد دوسری رات نہیں بلکہ کوئی اور رات ہے۔ یا قبل ان یوحی الیہ سے مراد معراج کی وحی کا ہونا ہے اس روایت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ معراج اہل عاتق میں ہوا جب آپ سوئے تھے یعنی آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں اور دل بیدار تھا۔ قرآن شریف سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے وما جعلنا الرؤیا التي ادریک الا قننۃ للناس ربی اسرائیل - ۶۰ اس میں رؤیا سے مراد معراج ہے اور رؤیا لغت کے رو سے خواب کے مخصوص ہے۔ علامت النبوة سے مراد وہ نشان یا معجزات ہیں جن سے آنحضرت صلعم کے دعویٰ نبی نبی اللہ ہونے کی شہادت ملتی ہے یعنی ایسے امور کا آپ سے ہمارا ہونا جو خارق عادت اور انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہیں۔ کتب میں روایت کچھ اختلاف سے کچھ کمی بیشی سے اور کچھ تغیر لفظی سے آئی ہے۔ انہم کا نام مع النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فی مسیرنا فاجرا الیہم حتی اذا کان وجہ الصبر عرسوا فغلبتہم علیہم حتی ارتفعت الشمس فکان اول من استیقظ من انہا ابو بکر کان لا یوقظ رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم من منامہ حتی استیقظ فاستیقظ عمر فقد ابوبکر عند راسہ فجعل یلکب ویرفع صوتہ حتی استیقظ النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم یصل معنا فلما انصرف قال یا فلان ما یمنعک ان تصل معنا قال اصابتنی جنابة فامرہ ان یتیمم بالصعيد ثم صل وجعل ی رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم فی رکوعین بدیہ وقد عطشنا عطشا شديدا فبینما نحن نسیر اذا نحن یا امرأة سادۃ رجلیہا بین مزونین فقلنا لہا این الماء فقالت لا اہام فقلنا کہ بین اہلک وہین الماء قالت ہومریلیۃ فقلنا انطلق الی رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم قالت ومارسول اللہ فلم نمکبہا من امرہا حتی استقبلنا بہا النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فحدثتہ بشئ الذی حدثتنا غیر انہا حتی نته انہا مؤتمۃ وامر بترادیتہا فمسر فی العزلا وین شری بنا عطشا اربعین رجلا حتی روینا فملا ناکل قریۃ معنا وادواۃ غیر انہ لم یسقط بجرأ وہی تکاد تنض من الماء ثم قال ہا قاتما عندکم نجیم لہا من الکسر والتمرحی انت اہلہا قالت لقیبت اسمہ الناس او ہونجی کما دعوا فہذا اللہ ذاک الصوم بتلک المرأة فاسلمت واسلموا۔ ۲۵ میں یہ ذکر ہے کہ لوگوں نے پانی پیا اور پلا یا رہی اونٹوں کو اور جو حنابت والا تھا اسے غسل کے لئے پانی دیا اور وہاں پینے والوں کی تعداد کا ذکر نہیں۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ چالیس آدمیوں نے اس سے پانی پیا اور اپنے مشکیزے اور ڈول بھی بھر لئے لیکن اونٹوں کو پانی نہیں پلا یا۔ اور جنابت والے کو پانی دینے کا بھی ذکر نہیں مگر یہ ذکر ہے کہ اس عورت کے مشکیزوں میں پانی اسی طرح بھرا ہوا نظر آتا تھا یعنی باوجود اس قدر پانی لینے کے اس کا پانی کم نہیں ہوا اور یہ آپ کا مجزہ تھا اور اسی مجزہ کو دیکھ کر وہ اور اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئے۔ کتب میں لفظ یہ ہیں۔ انی النبی صلعم اللہ علیہ وسلم بانہ وہو یا زوراء فوضع یدہ فی الماء فجعل الماء ینبع من ہین اصابعہ فتوضأ القوم قال فتادۃ قلت لانی کہ کنت تم قال فلما اتممت اوزہاء ثلاثا ثم اذہا من کے لفظ تقریبا ملتا ہے۔

(۱۶۸۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم - ۱۴۲) (م - ۱۶۸۲) عَنْ أَنَسِ (متکرم - ۱۴۲)

دیکھو حدیث ۱۴۲ م ۱۶۸۲

(۱۶۸۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطَشَ لِنَاسٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعْنَاهُ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہما حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس تھی اور نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ يَدَيْهِ كُؤُوهٌ فَنَوَّضًا فَمَشَى لِنَاسٍ حَتَّى قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ

عسل اشتر علیہ وسلم کے سامنے پانی کا چھوٹا سا ٹوکھا آگے وضو کیا لوگ اس کی طرف دوڑے آگے فرمایا تم لوگوں کو بوا انہوں نے کہا

عِنْدَنَا نَاءٌ فَتَوَضَّؤْا وَلَا تَشْرَبُوا إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضِعَ يَدَهُ فِي الْوُكُوءِ فَجَعَلَ لِمَاءِ الْوُكُوءِ

ہلکے پاس پانی نہیں جس سے وضو کریں اور میں سوائے اس کے جو آپ کے سامنے ہے آپ نے اپنا ہاتھ اس لوٹے میں رکھا تو پانی

بَيْنَ أَصْبَاحِهِمْ كَمَا تَمَثَّلَ لَلْعَيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّؤْنَا قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ قَالَ بَوَكُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ

آپ کی انگلیوں میں سے اس طرح بھوٹ کر نکلنے کا جیسے چشمے ہوتے ہیں سو ہم نے پیا اور وضو کیا میں نے پوچھا تم کس قدر تھے کہا اگر ہم ایک

لَكُنَّا نَأْتِيهِمْ عَشْرَةَ مِائَةٍ (۱۶۸۵) عَنْ الْأَبْرَاءِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ

لاکھتے تو بھی وہ ہمارے لئے کافی ہوتا ہم پندرہ سو تھے۔ براء سے روایت ہے کہ ہم حدیبیہ کے دن

أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَّةِ يَدْرُفُ فَنَزَحْنَا حَتَّى لَمْ نَتْرِكْ فِيهَا قَطْرَةَ فَجَلَسَ

چودہ سو تھے اور حدیبیہ ایک کنواں تھا ہم نے اس پانی کو صبح ڈالا یہاں تک کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا تو

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ الْبِرِّ فَرَدَّ عَلَيْنَا فَمَضْمَضُ فَمَجْرِنِي الْبِرِّ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوئیں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور پانی منگوایا اور کھلی کی اور کھلی اسی کنوئیں میں ڈال دی

فَمَلْنَا غَيْرَ بَعِيدًا ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوَيْنَا وَرَوَتْ أَوْ صَدْرَتْ رَكَابُنَا

ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے پھر ہم نے پانی پیا اور یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور ہمارا اونٹ بھی سیر ہو گیا پانی پنی کر لوٹے

سبعین او نحو کا۔ حضرت انس کی روایت ۱۶۸۱ پر گزرتی ہے اور یہاں چار مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ اس بات میں سب روایات کا اتفاق ہے کہ آپ کے

پاس ایک برتن لایا گیا تو آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے اندر سے پانی پھوٹ نکلا اور لوگوں نے وضو کیا مگر بعض تفہیلات میں اختلاف ہے۔

م ۱۶۸۹ میں ہے کہ ہم زوراء میں تھے اور یہ مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے اور آدمیوں کی تعداد تین سو یا اس کے قریب بتائی گئی ہے۔ م ۱۶۸۰ میں زاور

۱۶۷۷ میں، مقام کا ذکر نہیں لیکن وقت کا ذکر ہے کہ نماز عصر کا وقت تھا اور تعداد کا ذکر بھی نہیں۔ م ۱۶۸۱ میں ذکر ہے کہ کسی سفر میں تھے اور یہ ذکر ہے کہ

آدمی ستر یا اس کے قریب تھے۔ اور م ۱۶۸۲ میں ذکر ہے کہ مدینہ میں ہی تھے تو جو لوگ مسجد کے قریب کے رہنے والے تھے وہ گھروں سے وضو کرتے اور پانی

نے اس طرح وضو کیا کہ نبی صلعم نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو پانی پھوٹ نکلا۔ اور آدمیوں کی تعداد اسٹی تھی۔ پانچوں روایتیں انس بن مالک کی ہیں تو ہم کہتا

ہے کہ یہ متعدد واقعات تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آدمیوں کی تعداد میں کسی راوی کی غلطی گئی ہے اور مقام مدینہ میں زوراء ہی تھا اور اسی کو فی بعض

مخارجہ کہنا ہے یعنی آپ گھر سے باہر تھے۔ م ۱۶۸۱ میں لفظ یہ ہیں حضرت الصلوٰۃ فقام من کان قریب الدار من المسجد يتوضأ وبقی توہ

فان لیسے صلوات اللہ علیہ وسلم بخضب من حجارة ذیہ ماء فوضع کفہ فصخر الخضب ان یسط فیہ کفہ فضم اصابعہ فوضعها فی الخضب فتوضأ

القوم کلہم جمیعاً قلت کہ کا و ا فال نسا ون رجلاہ م ۱۶۸۱ میں لفظ پانی کے انجازی رنگ میں بڑھ جانے کی روایتیں کئی صحابہ سے ہیں اور متعدد موقعوں پر یہ

موجوہ ظہور پذیر ہوا۔ عمران بن حصین کی روایت ۱۶۵۸ اور م ۱۶۷۸۔ انس بن مالک کی روایتیں ۱۶۷۷ اور م ۱۶۷۹۔ م ۱۶۸۰۔ م ۱۶۸۱۔ م ۱۶۸۲۔ اور م ۱۶۸۳۔

اور پر ۱۶۷۷۔ جابر بن عبد اللہ کی روایت گزری ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حدیبیہ میں اسی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ کر نکلا اور اب یہ روایت براہ

کی ہے کہ حدیبیہ کے کنوئیں میں پانی ختم ہونے کے بعد انجازی طور پر اس کثرت سے پیدا ہوا کہ چودہ سو آدمی اور ان کے اونٹوں کیلئے کافی ہو گیا۔ اور آگے ۱۶۷۷

پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آئی ہے۔ اس مفید صحابہ سے ان روایات کا مروی ہونا اس انجازی صِدَاقَتِ پر بین دلیل ہے۔ ان سب روایات میں

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہو کہ ہر حالت میں پہلے کچھ پانی موجود ہے آپ کے دست مبارک کی برکت سے وہ بڑھ جاتا ہے اور آخری موقع پر کنواں تو موجود

ہے مگر اس کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں اس میں زیادہ پانی جمع نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ اسے کچھ وقت تک بغیر پانی لینے کے چھوڑ دیا جاتا تو

آپ کی کئی برکت سے اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ چودہ سو آدمی اور ان کے جانور اس سے سیراب ہو گئے۔ م ۱۶۷۷۔ اب اور ۱۶۷۷۔ ایک دوسرے

کی نوید بھی ہیں۔ پہلے ایک انجازی ظاہر ہوا پھر دوسرا۔

۱۶۸۱ میں لفظ کچھ ہے
زیادہ ہیں خروج
النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فی بعض
مخارجہ ومعناہ
من اصحابہ یأظلموا
یسیرین فضرت
الصلوۃ فلم یجدوا
ماء یتوضون
فانطلق رجل
من القوم فناء
بقدم من ماء
یسیرنا خذنا النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
فتوضأ ثم من
اصابعہ الاربع
علی القدم ثم
قال تووضأ فتوضأ
فتوضأ القوم حتی
بلغوا فیما یرون
من الوضوء کما

۱۰۵

۱۰۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ

انسان بن مالک سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نے ام سلمہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز کو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا اعْتَرَفَ فِيهِ الْجُوعَ فَقُلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ

مٹا کہ مکرور ہے میں اس میں بھوک محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ رکھانے کو ہے

قَالَتْ لَعَنَ مَا فَخَرَجْتَ أَفْرَاصًا مِنْ شِعْرِي ثُمَّ أَحْرَجْتَ خَمَارًا أَلْهَمَ فَلَظْتُ الْخَبْزَ

کہاں اور جوگی چند روٹیاں نکالیں بھڑائی اور ذہنی نکالی اور اس کے ایک حصے میں روٹیاں بیٹھ

بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلَا تَذَنِّي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

دیں پھر اسے میرے ہاتھ کے نیچے دیا دیا اور اس کچھ حصہ میرے اوپر ڈال آیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَذَرْتُهُ بِهِ فَوَجِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ

پاس بھیج دیا کہ میں وہ روٹیاں لے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا اور آپ کے

النَّاسُ فَقَمِتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُكَ أَبُو طَلْحَةَ

پاس روگ تھے میں ان کے پاس کھڑا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے

فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ يَطْعَامٌ نَقَلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ

میں نے عرض کیا ہاں فرمایا کھانا دیکھ میں نے عرض کیا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے پاس تھے انہیں فرمایا

تَوْ مَوَاقِفًا نَطَّقُوا وَأَنْطَلَقَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ

اللہ آپ روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ ابو طلحہ کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی ابو طلحہ نے کہا

يَا أُمَّ سَلِيمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعَمُهُمْ

ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس آٹا کھانا نہیں ہے

فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَأَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انہیں کھلائیں تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ اور اسے رسول خوب جانتے ہیں ابو طلحہ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے

فَأَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابو طلحہ آپ کے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْبِي يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا عِنْدَكَ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْزِ فَأَمْرِي بِهِ رَسُولُ

ام سلمہ جو تھکے پاس ہے وہ لے آؤ تو ذی روٹیاں لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہیں پھر کر دیا گیا اور ام سلمہ نے بھی کچھ اور اس میں سے کھی نکالا اور اسے سامن بنایا پھر رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا نَشَاءُ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ثُدُنْ لِعَشْرَةِ فَاذِنْ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روٹیاں دے دیا کہ جو اللہ نے چاہا کہ دعا کریں پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلا لو انہوں نے بلا

لَهُمْ فَكَوْأَحْتِي شَبْعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ثُدُنْ لِعَشْرَةِ فَاذِنْ لَهُمْ فَكَوْأَحْتِي

یا تو انہوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے اور چلے گئے پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلا لو تو انہوں نے بلایا انہوں نے بھی کھانا کھایا

ثَبْعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ثُدُنْ لِعَشْرَةِ فَاذِنْ لَهُمْ فَكَوْأَحْتِي شَبْعُوا ثُمَّ خَرَجُوا

اور سیر ہو گئے اور چلے گئے پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلا لو تو انہوں نے بلایا انہوں نے بھی کھانا کھایا اور سیر ہو گئے

ثُمَّ قَالَ ثُدُنْ لِعَشْرَةِ فَكُلُوا الْقَوْمَ كَأَنَّهُمْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا

اور چلے گئے پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلا لو تو سبھی لوگوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے اور یہ ستر یا اسی آدمی تھے

علیہ حدیث مختصراً کے ساتھ ۱۰۵ پر گزرتی ہے مگر وہاں کھانے کے عجازی رنگ میں بڑھ جائیگا ذکر نہیں ہے اتنے جنگ خندق کا پیام کہے ہیں ایم میں حدیث مضمون تھا اور کھانے کی بہت قلت تھی۔ اسے جب حضرت صلح کے پاس کھانا لایا گیا تو جو کچھ آؤں آگے پاس موجود تھے چونکہ وہ بھی بھوکے تھے اسلئے آگے پندرہ تک کہ کیلئے کھائیں اور سب کو ساتھ لے کر ام سلمہ کے گھر چلے گئے یہ حضرت انس کی والدہ تھیں اور ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا تو آپ کی صحابی نے کھانا کھایا اور یہاں تک کہ ستر آدمی آدمی سیر ہو گئے

علا امین اشارہ
بنی اسرائیل ۵۹
کی طرف معلوم
ہوتا ہے۔ وما
نزول بالآیات
الا تخفیفا۔ تو
شاید بعض لوگوں نے
اس کا مطلب یہ
سمجھا کہ تمام نشانی
صرف دشمنوں کے
مقابلہ پر عطا کیے
دنگ میں آتے ہیں
تو حضرت عبداللہ
بن مسعود نے فرمایا
کہ ہم زیادہ نشانی
برکت اور رحمت کے
دنگ میں دیکھتے
تھے اور پھر پانی
کے عجیبی رنگ

(۱۶۸۶) عن عبد اللہ قال كنا نعد الأيآت بركة وانتم تعدونها خيفة قال سمع
عبداللہ را بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نشانہ ان کو برکت سمجھتے تھے اور تم انہیں جو بے خوف تھے ہوئے ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقل الماء فقال طلبوا فضلة من ماء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو پانی تھوڑا رہ گیا فرمایا پیرا ہوا پانی تلاش کرو
فجاءوا وإناء فيه ماء قلیل فادخل يدك في الإناء ثم قال حتى على الظهر
تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا۔ پھر فرمایا برکت والا پانی لینے کے لئے
المبارك والبركة من الله فقلد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول
آ جاؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے، میں نے پانی کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد كنا نسمع تسليع الطعام وهو يئوكل (م- ۱۶۸۶)
سے پیوٹ رہا تھا اور جب کھانا کھا جاتا تھا تو ہم اس کی تسبیح سنتے تھے
عن جابر بن عبد الرحمن بن أبي بكر (متكسر- ۱۰۵۹) (م- ۱۶۸۷) عن جابر بن عبد الرحمن بن أبي بكر (متكسر- ۱۰۵۹)
دیکھو حدیث ۱۰۵۹ المتصل دیکھو حدیث ۳۹۵ متکسر
(م- ۱۶۸۸) عن أنس بن مالك (متكسر- ۵۲۸) (م- ۱۶۸۹) عن ابن عمر (متكسر- ۵۴۲)
دیکھو حدیث ۵۲۸ متکسر دیکھو حدیث ۵۴۲ متکسر
(م- ۱۶۹۰) عن جابر بن عبد الله (متكسر- ۵۴۲)
دیکھو حدیث ۵۴۲ متکسر

میں بڑھ چکا ذرا جی سفر کا واقعہ ہے۔ لیکن ہے یہ انہی پہلے واقعات میں سے کوئی واقعہ ہوا الگ واقعہ ہوگا۔ مسئلہ کھانے کی تسبیح سنتے تھے
ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے گو وہ الگ الگ رنگ میں ہوں۔ ان من فضی الایسجہ جہا یا کھانے کی تسبیح سے مراد کھانا کھانے والوں کی تسبیح ہے۔ مسئلہ یہاں
روایت بہت مختصر ہے۔ ان ابابہ توفی وعلیہ بن فائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلت ان ابی توفی علیہ علیہ یئوکل ولس عدی الا ما یخرج غلہ ولا
یبلغ ما یخرج سنین ما علیہ فا نطلق معی لکی لا یفش علی لعزماء نمشی حول بیدر من بیادر التمدن عائذ اخر تدر جلس علیہ فقال
انزعوه فاذا هم الذی لهم دبی مثل ما اعطاهم۔ ۱۰۵۹ میں ہے کہ جابر کے قرضوں میں انہوں نے جابر کے کھجوروں کو قرض کی ادائیگی کے لئے ناکافی سمجھا
میاں ہے کہ جابر نے کہا کہ اگر میں کسی سال تک بھی کھجوروں کا پھل قرضوں میں ادائیگی کے لئے ناکافی سمجھا
تو پھر وہی پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اس قدر برکت دی کہ سارا قرض ادائیگی ہو کر بہت سی کھجوریں رکھ رہی تھیں۔ تو آنحضرت صلعم نے اس کے کھجور کے
گئی ہے اس میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلعم کے ارشاد پر کچھ ہما نوں کو گھڑے گئے تھے تو وہ کھانا جو صرف مہروالوں کے لئے تھا اس میں اس قدر برکت
ہوئی کہ ہما نوں کے کھانے کے بعد بھی بہت سا بڑھ رہا۔ تو یہ گویا حضرت ابو بکر کی کرامت تھی کہ یہاں حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی کو اخذ بنی خراہس مکہ خطاب
کیا ہے اس لئے کہ وہ اس قبیلے سے تھیں جن کے جد اعلیٰ کا نام فراس تھا۔ تو گویا کسی قبیلہ کی عورت کو محاورہ عرب میں اس کی ابن کہہ دیتے تھے۔ - اخذ
ہارون (مریم ۲۸) ای قسم کا محاورہ ہے جس پر بہت لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے۔ - کھایا یہاں روایت قدسے اختلاف اور معمولی لفظی اختلاف سے آئی ہے
اس میں ذکر ہے کہ مدینہ میں سخت قحط تھا تو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے بارش کے لئے
دعا کی درخواست کی تو اسی وقت آندھی آئی اور اس کے ساتھ بارش ہوئی اور پھر وہ بارش آٹھ دن تک ہوئی رہی۔ گویا آنحضرت صلعم
کی دعا کی قبولیت آپ کی صداقت کا نشان تھا۔ - ۶ مکرر روایت میں وہی مضمون صرف لفظی اختلاف کے ساتھ دوہرایا گیا ہے۔
البتہ بیبا سمعنا لجن ۶ مثل اصوات العشار کی جگہ ہے سخن الجذ ۶۔ مکرر روایت قدسے تفصیل سے آئی ہے۔ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم یوم الجمعة الی شجرة او نخلة فقالت امرأة من الانصار ادرجل یا رسول الله الا تجعل لك
منبر ا قال ان شئتم جعلوا له منبرا فلما کان یوم الجمعة دفع الی المنبر فصاحت النخلة صیاح الصبی ثم نزل العبی
صلی اللہ علیہ وسلم فضمنہ الیہ تنن انین الصبی الذی یسکن قال کانن تنبک علی ما کانن تنسمن من الذکا عندنا۔ م- ۱۶۸۹-۱۶۹۰
م- ۱۶۹۰-۱۶۹۱ میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے ایک کھجور کی لکڑی پر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر آپ کے لئے منبر
بنوایا گیا تو اس پر کھڑے ہونے لگے۔ تو کھجور کی لکڑی کے رکنے کی آواز سنیں گئی یہ بھی آپ کا عجز تھا۔

(م- ۱۶۹۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرم- ۵۴۲) (م- ۱۶۹۲) عَنْ حُذَيْفَةَ

دیکھو حدیث ۵۴۲

(متکرم- ۳۵۲) (۱۶۰۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۳۵۲

قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا تَوْمًا نَعَالَهُمُ الشَّعْرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا

الْتِرْكُ صَغَارًا لَا عَيْنَ حَمْرٍ أَوْ جَوْهَةً ذَلْفُ الْأَنْوَابِ كَانَتْ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ

اور لوگوں میں سے تم بہترین اسے پاؤ گے جو حکومت کو سخت ناپسند کرنا ہو یہاں تک کہ اس میں بیٹھیں جائے

أَمْطَرَةً وَيُجَادُونَ مِنْ خَلْدِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقِيعَ

فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ فِي الْبَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْأَسْلَامِ وَكَيْانَ زَيْنٍ

عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يُرَاتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ

وَمَا لَهُ (م- ۱۶۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۳۲۷) (م- ۱۶۹۴)

دیکھو حدیث ۱۳۲۷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۳۲۷) (م- ۱۶۹۵) عَنْ حَمْرٍ وَبِئْرِ ثَعْلَبٍ (متکرم- ۱۳۲۷)

دیکھو حدیث ۱۳۲۷

دیکھو حدیث ۱۳۲۷

علاوہ انی لفظی تغیر سے ۵۲۷ کا مضمون دہرایا گیا ہے + کلمہ کمر روایت میں ۳۵۲ کے شروع کے یہ لفظ کنا جلو ساعدنا عمر رضی اللہ عنہم ہیں باقی مضمون وہی ہے۔ البتہ تکفیر الصلوة کے بعد الصوم کا لفظ نہیں ہے اس میں ان فقہوں کا ذکر ہے جو سلمانوں میں پیدا ہونے والے تھے حضرت عمر نے حدیث سے اس فقہ کے متعلق دریا بت کیا متوج

کعبہ الجہی تو حدیث نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بعد پیدا ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں تھیں جو حدیث نے محفوظ رکھی تھیں۔ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ پیشگوئیاں آنحضرت صلعم کی صداقت کی دلیل ہیں۔ کلمہ اس حدیث میں چار حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا ہے جو متفرق طور سے آئی ہیں نزکوں سے لڑنے کی حدیث ۱۶۰۴ میں گذر چکی۔ اور و یجحدون من خیل الناس الخ کی حدیث اور الناس معادن کی حدیث ۵۶۵ میں اور م ۱۶۹۲ میں گذر چکی ہے یہ تمام آئندہ زمانے کے متعلق پیشگوئیاں تھیں جو پوری ہو کر نبی صلعم کی صداقت پر دلیل ہوئیں۔ کلمہ یہ روایت کچھ اختلاف سے آئی جو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا خوذا وکما مان من الاعاجم حمرا لوجوه فطصلا لانون صغارا لا عین وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر الخ الخ۔ یہاں خوذا اور کرمان سے جنگ کا ذکر ہے۔ یہ دونوں صوبے ایران کے جنوب کی طرف ہیں اور حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے مگر یہاں خوذا اور کرمان والوں کا حلیہ فریبنا وہی ہے جو ادب کی حدیث میں نزکوں کا حلیہ دیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہ کسی راوی کی غلط فہمی ہو اور مراد نزک ہی ہوں جن کا ذکر اکثر احادیث میں ہے اور جن کے ہاتھ سے سلطنت اسلامی پر بڑی بھاری تباہی آئی۔ یا کوئی قوم نزکوں سے ملتی جلتی ہو۔ یہاں کچھ کی بیش ہے لفظ یہ ہیں فقال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث سنین لولا ان فی سنی احرص علی ان اعلی الحدیث منی ذہبن سمعته یقول وقال هکذا ابیدہ بین یدئ الساعه تقاتلون وقتا نعالهم الشعر ووهولن البارز وقال سفین مره ودم اهل البادر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ تین سال نبی صلعم کی صحبت میں رہے۔ مگر واقع یہ ہے کہ ابو ہریرہ خبیر کی جنگ میں رسول اللہ صلعم کے پاس آئے یعنی مکہ ہجری کے شروع میں۔ اور اس طرح نبی کریم صلعم کی صحبت میں چار سال رہے۔ اس میں ذکر اسی قوم کی جنگ کا ہے جن کے متعلق کہا نعالہم الشعر۔ مگر اس کے ساتھ مزید یہ ہے ووهولن البارز۔ البارز بوز سے مشتق ہے جس کے معنی ظاہر ہونا ہیں اس لئے اس کے معنی لئے گئے ہیں وہ اہل اسلام کی جنگ کے لئے بولڈ ارض یعنی میدان میں نکلنے والے لوگ ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد اہل فارس ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد کہ وہ ہیں جو میدانوں میں رہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بارڈ سے مراد پہاڑ ہیں کیونکہ پہاڑوں کی سطح سے اوپر اٹھا ہوا اور ظاہر ہونا ہے اور دوسری روایت میں جو اہل البارز سے تو کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بارڈ ہے اور یہ راوی کی غلطی ہے۔ کلمہ یا ان اختصار ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین یدئ الساعه تقاتلون وقتا یبذلون المنعہ و تقاتلون تو ما کان وجوههم المجان المطرقة +

(م- ۱۶۹۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکثر- ۱۳۴۶) (م- ۱۶۹۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

دیکھو حدیث ۱۳۴۶

(متکثر- ۱۳۴۴) (م- ۱۶۹۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (متکثر- ۷۵۶) (م- ۱۶۹۹) عَنْ عُنُقَبَةَ

دیکھو حدیث ۱۳۴۴

دیکھو حدیث ۷۵۶

ابْنِ عَامِرٍ (متکثر- ۷۱۲) (م- ۱۷۰۰) عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکثر- ۹۵۰) (م- ۱۷۰۱)

دیکھو حدیث ۷۱۲

دیکھو حدیث ۹۵۰

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ (متکثر- ۱۵۱۲) (م- ۱۷۰۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

دیکھو حدیث ۱۵۱۲

(متکثر- ۱۸) (م- ۱۷۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَأْمُورِ

عقرب فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والا اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا

۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰

اس کی بجائے ہے تقانکم الیہود فتسلطون علیہم یہودی تم سے جنگ کریں گے تو تم ان پر غالب آؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشگوئی اس وقت کی ہو کہ ابھی مدینہ کے یہود کے ساتھ جنگ نہ ہوئی تھی اور نبی صلعم کے زمانے کی جنگوں کی طرف ہی بیاں اشارہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں پھر یہودی جو افسطین میں آباؤ ہوں گے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اہل بیت میں اختلاف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا قتی علی الناس زمان ینظرون فیما فیہم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتحه علیہم ثم یغزون فیقال لہم ہل فیکم من صحب من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتحه لہم۔ اس میں اس بات کو آپ کی صداقت کے نشانات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلعم کے صحابہ بکرا صحابہ کے صحابہ کی رکت سے بھی فتوحات حاصل ہوئیں گے۔ اہل بیت کا مضمون بہت زیادہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں:-
عن عدی بن حاتم قال بینا أنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتاه رجل فشکا الیہ الفاقة ثم آتاه اخر فشکا قطع السبیل فقال یا عدی ہل رأیت الحدیثة قلت لہم اریھا وقد نبئت عنہا قال فان طالت بک حیاة لترین الطعینة ترخل من الحدیثة حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف احدًا الا اللہ قلت فیما بیننا وبن نفسی فاین دعا رطی الذین قد سعروا الی بلادنا ولئن طالت بک حیاة لتفتحن کنوزکموسی قلت کوسی بن ہرمز قال کوسی بن ہرمز ولئن طالت بک حیاة لترین الرجل یخرج ملء کفہ من ذهب او فضة یطلب من یقبلہ منہ فلا یجد احدا ینقبلہ منہ ویلقین اللہ احدہ کہ یوم یلقاہ و لیس بیننا و بیننا تزیمان یتزحم لہ فیقولن الہ ابعث الیک رسولاً فینبذک فیقول بل ینقر الہ اعطاک ما لا افضل علیک فیقول بل ینظرن علی بنہ فلا ینزی الاجہم قال عنہ سمعت النبی صلعم یقول لقاوا النار ولو بشقۃ ثمرة فمن لم یجد شقۃ ثمرة فیکلمة طیبۃ قال عدی فرأیت الطعینة ترخل من الحدیثة حتی تطون بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ وکننت فیمن استخ کنوز کوسی بن ہرمز ولئن طالت بک حیاة لتزورن ما قال النبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ملء کفہ حیاة کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ایک الگ بادشاہت قائم تھی جو ایران کے زیر اثر تھی۔ تو کسی شخص نے نبی صلعم کے پاس یہ شکایت کی کہ ڈاکوؤں کی وجہ سے رستہ غیر محفوظ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھو گے کہ کبیل عورت جس سے حج کے لئے آئے گی اور کوئی اسے چھپانے کے گا۔ دعا رطی سے مراد ہے قبیڈے کے ڈاکو یا شہریر۔ یہ ایک پیشگوئی ہے، دوسری پیشگوئی یہ کہ تم ایران کو فتح کر دو گے وہ بھی صحابہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ مسلمانوں میں مال اس کثرت سے ہوگا کہ کوئی صدقہ قبول نہ کرے گا یہ بھی صحابہ کے زمانے میں ہی ہوا۔ اہل بیت کی روایت تقریباً اسی لفظوں میں ذہرائی گئی ہے اس میں اس پیشگوئی کا ذکر ہے۔ اعطیت خزائن معانی الارض۔ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک غلبہ روئے زمین پر ہوگا سو یہ غلبہ آپ کی امت کو عطا ہوا۔ اہل بیت کی روایت کے لفظ تقریباً ۱۹۵ کے ہیں۔ اس میں آیات و آیتوں کے لفظ تقریباً وہی ہیں۔ البتہ یہاں آخر میں دوسری سند سے ام سلمہ کی روایت سے یہ صحت زائد ہے۔ قالت استیقظت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سبحان اللہ ما ذا انزل من الخزائن وما ذا انزل من الخلق۔ اہل بیت کی روایت میں کچھ زیادت ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ قال ابو صعصعة قال (ابو سعید) لی ائی اراک تحب الغنم و تتخذهما فاصلیہما و اصلم رعایہما فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا قتی علی الناس زمان ینظرون فیما فیہم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتحه علیہم ثم یغزون فیقال لہم ہل فیکم من صحب من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتحه لہم۔ اس میں اس بات کو آپ کی صداقت کے نشانات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلعم کے صحابہ بکرا صحابہ کے صحابہ کی رکت سے بھی فتوحات حاصل ہوئیں گے۔ اہل بیت کا مضمون بہت زیادہ ہے۔ الفاظ یہ ہیں:-

الْخَيْرِ مَنْ شَرِكْتَ قَالَ نَعَمْ دَعَاةٌ إِلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَدْ فُورَ فِيهَا قُلْتُ

پوچھا تو کیا اس شیرے کے بعد شریک ہوگا فرمایا ہاں دوزخ کے دروازوں کی طرف بلائیے ہوں گے جس نے ان کی بات کو قبول کیا انہیں وہ دوزخ میں گرا دیئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفِّهِمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِلِسَانِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرَنِي

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے انکا حال بیان فرمائیے کیا فرمائیے سے ہی ہونگے یعنی ان ہی ہونگے ہماری ہی زبانوں سے

إِنْ أَدْرَكْنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ قُلْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي جَمَاعَةٌ

کلام کرے گا میں تو پوچھا اگر مجھے یہ زمانہ مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور انکا ہم کلمہ کہہ رہے ہوں تو پوچھا اگر نہ ہو تو

وَلَا إِمَامًا قَالَ فَأَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَتَوَانُ نَعْصُ بِأَصْلِ شَيْخَةٍ حَتَّىٰ يَلِدَ رُكُوكَ

کوئی جماعت ہو اور ذرا لگا لگا کر نام ہو فرمایا تو ان سب فرقوں سے الگ ہو کر گھومنے کے لئے تم کو سخت کیڑی لگانا پڑے گی یہاں تک کہ تم کو

الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ (۱۶۱۲) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُ أَصْحَابِي الْخَيْرَ وَنَعَلْتُ

موت آجائے تو تم اسی حالت پر ہو جاؤ گے حذیفہ سے روایت ہے کہ میرے رفیقوں نے خیر کا علم حاصل کیا اور میں نے

الشَّرَّ (۱۶۰۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم ۱۶۱۳) (۱۶۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

شر اور نبوی اصحاب کا علم حاصل کیا دیکھو حدیث ۱۶۱۳ ع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتُلَ ذَنْتَانِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ (موجودہ گھڑی نہیں آئے گی یہاں تک کہ دو گروہ آپس میں لڑیں ان کے

مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَاؤُهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ

درمیان جنگ عظیم ہوگی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا اور موجودہ گھڑی نہیں آئے گی یہاں تک کہ تیس کے قریب جھوٹے دجال ظاہر

قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كَلِمَةً يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (۱۶۱۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

ہو جائیں ہر ایک یہ کہتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے ع ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک

بَيْنَمَا هُوَ حَتَّىٰ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا آتَاهُ ذُو الْخُوَيْرِ

بارہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ ہال ٹینٹ) تقسیم کر رہے تھے آپ کے پاس ذوالخویرہ آیا

ملا خیر وشر کے اس
سلسلے میں اسلام
کی تاریخ کا نقشہ
کھینچا گیا ہے۔
اسلام میں پہلا شر
قاتلین عقاب سے
پیدا ہوا جنہوں نے
سلطنت اسلام کو
باکھل برباد کر دینے
کا ارادہ کیا تھا۔
اس شر کے بوجھ
جھلائی آئی گلاس
میں دھواں تھا
یعنی آہستہ آہستہ
مسلمانوں میں ہتھ
اٹتے پیدا ہوتے
گئے جن کا قدمت
نبوی پر پورا نہ رہا
اسی کو بعض احادیث
میں بیخ العوج کے
نام سے موسوم
کیا ہے ان کے
کچھ کام اچھے
معلوم ہونگے کچھ

بڑے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک خطرناک فتنہ کا ذکر کیا ہے۔ دوزخ کی طرف بلائیے والوں کا فتنہ ظاہر ہے کہ یہ وہابی فتنہ ہے کیونکہ دوسری احادیث میں نبی جالی
فتنہ کو مسلمانوں کے لئے بدترین فتنہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے متعلق لکھا بھی یہی ہے کہ جس نے ان کی بات کو قبول کیا وہ اسے دوزخ میں گرا دیں گے۔
جس سے معلوم ہوا کہ یہ باطل کی طرف بلائیے والوں کا گروہ ہے۔ اور آج تہذیب اور کفارہ کی طرف بلائیے والے گروہ کی فی الواقع یہی حالت ہے۔ اس عظیم فتنہ
فتنہ و قبالی میں مسلمانوں کو یہ راہ بتائی ہے کہ وہ امام کا ساتھ دیں۔ اس امام کا ساتھ دینے والوں کو جماعت کہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مجدد ہی اپنے
زمانے کا امام ہے تو گویا اس میں مجدد کا ساتھ دینے کی پدایت ہے۔ آج اس دجالی فتنہ سے بچنے کی راہ بھی ایک ہی ہے وہ ہے مجدد وقت کا ساتھ دینا جس
کی بدولت اسلام دنیا میں غالب آ رہا ہے اور یہی سچیت روز بروز پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ع میں ع لاکا کا ایک ٹکڑاہ میں الفاظ دوہرایا گیا ہے کہ لا تقوم
الساعة حتى يقتل ذنتان دعواهما واحدة ع اس سے عام طور پر اور حضرت علی اور معاویہ کی جنگوں کی طرف اشارہ لیا گیا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ یہ
اشارہ اس آخری زمانہ کی جنگ عظیم کی طرف ہو۔ اس میں بھی دونوں گروہوں کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم دنیا میں صلح اور امن قائم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی
تیس دجالوں کے ظہور کا ذکر بھی ہے اور گواہ حضرت صلح کے معا بعد بھی چار مدعیان نبوت پیدا ہوئے تھے جس کے ذکر میں انکی کثرت کی طرف اشارہ ہے اور کثرت
ایک لمبے زمانہ کو چاہتی ہے جو ہمارے اس زمانہ تک محدود ہے اس عرصہ میں بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے اور وہ سب کے سب
بالآخر تباہ ہو گئے۔ یہ بات بھی اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مجدد و چار مدعیان نبوت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نہ صرف دعویٰ نبوت نہیں کیا
بلکہ صاف الفاظ میں دعویٰ نبوت کر نیوالوں کو دجال لکڑاب دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے یہ الفاظ ہیں: اس بات پر حکم ایمان رکھنا ہوا
کہ ہمارے نبی صلح کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یا ہو یا پرانا ع جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اسے میدان اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا ہوں ع ہم
نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں ع میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا ہوں ع اور ان لوگوں نے مجھ پر
اقترا کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ع

وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي مِمْبَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ ذِيكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا

اور وہ بنو ممبر میں سے ایک شخص تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے آپ نے فرمایا پھر پرانوس ہے اگر میں انصاف

لَمْ اَعْدِلْ قَدْ خَبْتُ وَخَشِيتُ اِنْ لَمْ اَكُنْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْذِرْ

مذکورہ لوگوں انصاف کرے گا اگر میں انصاف نہ کروں تو میرے لئے تباہی اور برباری ہے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس

لِي فِيهِ فَاَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعَاهُ فَاَنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَخْفَرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُمْ صَلَاتِي

کے متعلق حکم ہے کہ اس کی گزین مار دوں فرمایا اسے چھوڑ دو اسکے بھرا لیسے) سامعین ہونگے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی نماز کو ان

وَصِيَابًا مَّعْرُوبِيًّا هَمُّهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لِأَجْلِهَا وَذُرَّتْ رِقَابُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا

کی نماز کے سامنے اور اپنے روزوں کو اسکے روزوں کے سامنے حقیر سمجھ کر وہ قرآن کو برہمیں لے کر (قرآن) انکے صلق سے نیچے نہیں پڑھا

يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّهْبِ يَنْظُرُ إِلَى النَّصْلِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصْفِهِ

وہ دیکھتا ہے جس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشا نہ دیکھتا ہے (شکار میں ہوتا ہوا پار ہو جائے) اسکے تیر کے لوہے کو دیکھتا ہے اس میں کچھ نہیں لے گا پھر

فَمَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيهِ وَهُوَ قَدْ حَزَّ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ يَنْظُرُ

اسکے تیر کے چھلے کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں لے گا پھر اسکے تیر کے بائیں کی طرف دیکھتا ہے اور (شکاری) اسکی بائیں طرف تو اس میں کچھ

إِلَى قَدْزِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْئًا قَدْ سَبَقَ لِقُرْتٍ وَالذَّمَّ اِيْتَمَهُمْ رَجُلٌ اسود رَجُلٌ اَحَدُ عَضُدِ

نہیں دیکھتا پھر اسکے تیر کے پڑوں کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں دیکھتا (شکار کے) لیمادونوں سے صاف نکل گیا ان کا

مِثْلُ شَدَى الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلُ لَبْصَعَةٍ تَرْدُدُ وَخِرْجُونٌ عَلَى حِينٍ فَرَقَّةٌ مِّنَ النَّاسِ

نشان ایک سیاہ رنگا آدمی جو جب ایک باز عورت کے پستان کی طرح ہے یا گوشت کے ٹوٹنے کی طرح جو لہ رہا ہو انکا ٹلو اسوقت ہوگا جب لوگوں

قَالَ ابُو سَعِيدٍ فَاَشْهَدُ اَنْي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں تفرق ہوگا ابوسعید نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی

وَسَلَّمَ وَاَشْهَدُ اَنْ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ تَكَلَّمَ وَاَنَّ مَاعِزَةَ قَامَ رِيذْلُكَ الرَّجُلُ فَالْتَمَسَ

اور یہی گویا دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب ان سے لڑے اور میں انکے ساتھ تھا تو انوں اس شخص کے متعلق حکم

فَاَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِي نَعْتُهُ (۱۶۱)

دیا اس کی تلاشی کی گئی وہ لایا گیا میں نے اسکی طرف دیکھا وہ اس صفت پر تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا وصف بیان کیا تھا

عَنْ عَلِيٍّ رَفِئًا اِذَا احَدٌ شَكَّ مِنْكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اَنْ اَخْرَجَ مِنَ الشَّيْءِ

حضرت علی سے روایت ہو کر جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو مجھے آسمان پر بڑا زیادہ پسند ہوگا نسبت

اَحَبُّ اِلَى مَنْ اَنْ اَلْكَذِبُ عَلَيْكَ وَاِذَا احَدٌ شَكَّ مِنْكُمْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَاَنْ اَحْرَبُ خَلْعًا

اسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانھوں اور جب تم سے ایسے معاملات کے متعلق بات کروں جو میرا اور تمہارے درمیان میں توڑا جائے تو دھوکا

۱۶۱

۱۶۱

۱۶۱

۱۶۱

۱۶۱

۱۶۱

۱۶۱

اس حدیث کے مضمون کا ایک حصہ ۱۵۱ میں گذر چکا۔ اس پیشگوئی میں فریج الحج کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نماز پڑھنے کے وقت قرآن خوانی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ مگر بتایا ہے کہ قرآن کا ان پر اثر نہیں ہوگا جس طرح تیر شکا میں سے ہو کر نکل جائے اور اس کے لوہے پھٹے بائیں پڑوں پر شکا کے نہ توں کا اثر ہو نہ لیدکا۔ اسی طرح قرآن انکے اندر سے نکل جائیگا اور قرآن کے الفاظ کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے جو انکے ساتھ جنگ کی تو انکے اعتقاد کی وجہ سے نہیں کی بلکہ انکی خواری اور انکی خواری کی بنیاد ان کا

۱۶۱

۱۶۱

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا نَبِيُّ إِخْرَا الزَّمَانَ تَوْمَ حُدَّ شَاءَ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ آخری زمانہ میں ہلکا کچھ لوگ ہوں گے

الْأَسْنَانُ سُمْرًا وَالْأَحْلَامُ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ لِرَبِّهِمْ يَوْمَ تَقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا

تو عمر بیوقوف بات ایسی کہیں گے جو جہان کی باتوں میں سے اچھی ہو مگر دین اسلام سے اس طرح نکلیں گے

يَمْرُقُ السَّلَامُ مِنَ الرَّمِيَةِ لَا يَجَاوِزُ لَهَا نَهْمُ حَنَا جَرَهُمْ فَأَيُّمَا لَقِيَهُمُ هُمُ قَاتِلُوهُمْ

جس طرح بڑا تڑپ سے باہر نکل جاتا ہے ان کا ایمان انکے حلق کے نیچے میں اترے گا جیسے جہاں تمہاری آنکھیں پھیرے اور انہیں قتل کر دینا کرنا

فَإِنْ قَاتَلَهُمْ أَجْرٌ لَمْ يَنْ تَقْتُلْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۶۶) عَنْ حَبَابِ بْنِ الْأَرْتِّ قَالَ شَكَّوْنَا

نقل کرتے ہیں قیامت کے دن انکو اجر دیا جائے جو انہیں قتل کرے گا مگر

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَتَوَسِّدٌ بَرْدَةٌ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَكَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے ہم نے آپ سے عرض کیا

أَلَا تَسْتَنْصِرُنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيهِمْ قَبْدَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ

کہ کیا آپ ہمارے لئے اللہ کی مدد نہیں مانگیں گے کیا آپ ہمارے لئے دعائیں مانگیں گے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص ہونا تھا

فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيْحَاءٌ مِثْلُ الْبَيْتِ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَسْقِي بِأَثْنَتَيْهِ وَمَا يَصْدُرُ ذَلِكَ

کہ زمین میں اس کیلئے گڑھا کھودا جاتا ہے اس میں گڑھ لایا جاتا ہے اور اسے سر پر رکھا جاتا ہے اور وہ دھو کر لے لیا جاتا ہے اور یہ دھو کر اسے

عَنْ دِينِهِ وَيَمِشُّ بِأَمْسِطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ رُجْحِهِ مِنْ عَظِيمِ أَوْ عَصَبِ مَا يَصْدُرُ

اپنے دین سے نروں اور اسے کی تکھیوں سے اسے تکھی کی جاتی ہو اسکی ہڈیوں اور چھوٹے ٹک بچھتی اور اسے یہ دیکھ اپنے دین سے باز

ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيَبْتِمَنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكْبُ مِنْ صُنْعَاءِ الْحَضَرِ صَوْتِ

نہ رکھتا اور اللہ کی قسم کہ اللہ اس امر کو کال کو پہنچا دے گا یہاں تک کہ ایک شخص سوار ہو کر صنعا سے حضور صوات تک جا چکا

لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذَّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَكَذَلِكَ سَتَسْتَعْجِلُونَ (۱۶۷) عَنْ أَنَسِ

اور اسے صرف اللہ کا خوف ہوگا یا اپنی بکریوں پر بھیرے گا مگر تم جلدی کرتے ہو گے

ابن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَقَدَّ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ

بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو موجود نہ پایا تو ایک شخص نے کہا

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَةً فَأَتَاكَ فَوَجَدَ جَارِسًا فِي بَيْتِهِ مِنْكَ سَارًّا فَقَالَ مَا

یا رسول اللہ میں آپ کے لئے ان کی خبر لانا ہوں وہ ثابت کے پاس آیا اور انہیں اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھا ہوا پایا ہوا تھا تمہارا کیا

شأنك فقال شئت كان يرفع صوته أو صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد جط عمله

حال ہے کہا اگر حال ہے وہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرتا تھا تو اس کا عمل مٹ گیا

منافق کو قتل نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو انہیں قتل کرنے سے منع کیا۔ قرآن کریم میں تصریح ہے جو من تسل نفسا دین نفسا وفساد فللارض قتل وہی صورتوں میں جائز ہے یا کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا خدا کی لارض ہونی جنگ شروع ہو تو قتل کرنے پر اجازت رکھی اسلئے ہے کہ وہ جو حکم مسلمانوں کو قتل کر کے اسلئے ان کا قتل کرنا مسلمانوں کو بچانا ہے اور اس میں جہت ہے۔ مگر ہذا الا کما ہر مردوں کو کھلا ہے۔ یہ آئے اس وقت فرمایا جب نہایت سبکی کی حالت تھی اور نظا ہر کوئی سامان اس غلبہ کیلئے نظر آتا تھا یہ خدا نے عالم الغیب کی آواز تھی جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی اور چند سال کے اندر اندر یہ پیشگوئی اپنی پوری شان کے ساتھ پوری ہوئی اور سالے جزیرہ العرب میں سلام پہنچ گیا اور اسلامی حکومت بڑی شان و شوکت سے قائم ہوئی صنعا زمین اور حضور صوات کے درمیان پانچ دن کا رستہ ہے اور ایک صنعا الشام ہے جو دمشق کے نزدیک ہے اور یہ برابر باب الفرس کے پاس ہے صنعا زمین کا کوئی آدمی وہاں پر اترا تھا اسی وجہ سے اس کا نام صنعا رکھا گیا اسلام پر مصیبتی سے قائم رہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں بحیثیت جمعی صحابہ نے برداشت کی ہیں وہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے بڑھ کر اور زیادہ ہیں جو اگلی امتوں نے برداشت کی تھیں تم صبری کرنے میں اس مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری تکلیفیں جلدی دور ہو جائیں

علی آخری زمانہ سے مراد یہاں خلافت راشدہ کے آخری ایام معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی ظاہر طور پر ان کی باتیں اچھی ہوئی جیسا بچھل حدیث میں ہے کہ قرآن کریم میں ہے مگر قرآن کا ان پر اثر کچھ نہ ہوگا۔ لفظ لقیتم کے معنی میں ملاقات کرنا غلط ہے۔ لقیات کے معنی سامنے آنا ہے اور دشمن کے سامنے آنے سے مراد جنگ میں سامنا ہی ہوگا۔ جیسے قرآن شریف میں ہے۔ فاذا لقیتم الذین کفرتم (الحج-۱۴) جب تمہاری قوتوں سے ٹکھڑے ہو۔ یہاں بھی خروج کی جنگ کا ہی ذکر ہے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت منافق کو قتل نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو انہیں قتل کرنے سے منع کیا۔ قرآن کریم میں تصریح ہے جو من تسل نفسا دین نفسا وفساد فللارض قتل وہی صورتوں میں جائز ہے یا کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا خدا کی لارض ہونی جنگ شروع ہو تو قتل کرنے پر اجازت رکھی اسلئے ہے کہ وہ جو حکم مسلمانوں کو قتل کر کے اسلئے ان کا قتل کرنا مسلمانوں کو بچانا ہے اور اس میں جہت ہے۔ مگر ہذا الا کما ہر مردوں کو کھلا ہے۔ یہ آئے اس وقت فرمایا جب نہایت سبکی کی حالت تھی اور نظا ہر کوئی سامان اس غلبہ کیلئے نظر آتا تھا یہ خدا نے عالم الغیب کی آواز تھی جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی اور چند سال کے اندر اندر یہ پیشگوئی اپنی پوری شان کے ساتھ پوری ہوئی اور سالے جزیرہ العرب میں سلام پہنچ گیا اور اسلامی حکومت بڑی شان و شوکت سے قائم ہوئی صنعا زمین اور حضور صوات کے درمیان پانچ دن کا رستہ ہے اور ایک صنعا الشام ہے جو دمشق کے نزدیک ہے اور یہ برابر باب الفرس کے پاس ہے صنعا زمین کا کوئی آدمی وہاں پر اترا تھا اسی وجہ سے اس کا نام صنعا رکھا گیا اسلام پر مصیبتی سے قائم رہنے کی وجہ سے جو مصیبتیں اور تکلیفیں بحیثیت جمعی صحابہ نے برداشت کی ہیں وہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے بڑھ کر اور زیادہ ہیں جو اگلی امتوں نے برداشت کی تھیں تم صبری کرنے میں اس مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری تکلیفیں جلدی دور ہو جائیں

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنِّي الرَّجُلُ فَاحْبِرْهُ أَنَّهُ قَالَ لَدَاؤُكَ إِفْقَالٌ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ

اور وہ دوزخ والوں میں سے ہو گیا وہ شخص آیا اور حضرت صلعم کو خبر دی کہ ثابت نے ایسا کیا کہا ہے موسیٰ بن انس کہتے ہیں

فَرَجَعَهُ الْمَرْءُ الْأَخْرَجَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ ذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَكَ لَسْتُ مِنْ أَهْلِ

کہ دوسری مرتبہ وہ ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا آپسے اس سے فرمایا ثابت کے پاس جاؤ اور اُسے کہو کہ تم دوزخ والوں میں سے

النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (۶۱۸) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَرَأَ رَجُلٌ الْكُفْهَ وَ

نہیں ہو بلکہ جنت والوں میں سے ہو گا۔

فِي لَدَارِ اللَّهِ أَيَّمَا فِجَعَلَتْ تَنْعُرُ سَلَمٌ فَادْأَابَاةٌ أَوْ سَابَاةٌ عَشْبِيْنَهُ فذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى

رہا تھا اور گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ گھر کے باہر جس گھر کو ڈھاک لیا ہے اس نے اس کا ذکر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَرَأَى فُلَانٌ فَارْتَمَى السَّكِينَةَ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپسے فرمایا پڑھتے رہنا تھا یہ سکون تھا جو قرآن کی

(۶۱۸) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنَازِلِهِ فَاشْتَرَكَا

برادر بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر میرے باپ کے پاس انکے مکان میں آئے اور ان سے

وَمِنْهُ رَحُلًا فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْنِكَ يَحْمِلُهُ مَعِيَ قَالَ فَحَمَلْتَهُ مَعَهُ وَخَرَجَ إِلَى

یا ان خریدی تو انہوں نے عازب (میرے باپ) سے کہا اپنے بیٹے کو بھجھیں کہ اسے میرے ساتھ اٹھا کر لے جے (برائے) کہا

يَتَقَدَّرُ ثَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَأَلْتِ مَعَ رَسُولِ

تو میں انکے ساتھ اٹھا کر چلا اور میرے والد اس کی قیمت پر کھولنے کے لئے میرے والد نے ان سے کہا کہ مجھ سے بیان کریں کہ آپ دونوں

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظُّهْرِ

نے کیا کیا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راجرت میں) چلے گئے انہوں نے کہا ہاں ہم رات بھر چلے اور اس سے نکلا

وَخَلَا الطَّرِيقَ زَيْمٌ فِيهِ أَحَدٌ فَرَفَعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ تَمَّتْ تَارَةً عَلَيْهِ الشَّمْسُ

دن بھی بیان تک کہ ٹھیکے و پیر ہو گئی اور رات خالی ہو گیا کوئی بھی اس میں نہیں گذرنا تھا اور ایک لمبی چٹان ہمارے سامنے بلند ہوئی اُنکا

فَإِزْلَمْنَا عِنْدَهَا وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانًا يَبْدِي بِنَاءِ عُلْيَاهُ وَبَسَطْتُ فِيهِ

سایہ تھا اس پر جو ہو نہیں آتی تھی ہم انکے پاس اترے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جگہ ہموار کر دی کہ آپ اس پر سوجائیں اور

فَرَوَةٌ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْقُضُ لَكَ وَمَا لَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْقُضُ لَكَ

اس میں لوئی پھجادی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کے ارادے کو نظر رکھوں گا آپ سو گئے اور میں نکلا آپ کے ارادے کو دیکھنے لگا

اس میں لوئی پھجادی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آپ کے ارادے کو نظر رکھوں گا آپ سو گئے اور میں نکلا آپ کے ارادے کو دیکھنے لگا

علا یہ گویا اس کے حق میں پیشگوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلعم نے اسے فرمایا اما ترضی ان تعیش سعيلا وتقتل شهيدا چنانچہ ثابت بن قیس جگ میام میں شہید ہوئے اور یہ پیشگوئی پوری ہوئی ثابت کی آواز قدرتی طور پر اوجھی تھی۔ جب یہ آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو انہیں نکر ہوا کہ میری آواز تو رولا اللہ صلعم سے بلند ہے تو اپنے ثابت کے اہل نار سے بڑھ کر ہے یہ سمجھا یا کہ بلند آواز سے مراد تو سو ادب آواز

۱۰۱۸

کا بلند کرنا ہے اور ثابت کی آواز کی بلندی کی وجہ سو ادب نہیں بلکہ سکینہ کے مفہوم میں بہت کچھ اختلاف ہے اور اس اختلاف قول کی بنا نہ لغت ہونے حدیث نہ قرآن کریم اس کی بنیاد اسلامی روایات میں یا صرف اپنی رائے۔ سکینہ سکون سے ہو اور سکون کے معنی آرام ہیں اور سکینہ قلب کی کیفیت ہے جو سکون قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے جس کو ایمان قلب کہتے ہیں۔ سورہ الفتح ۴۳ میں جو ہوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سکینہ کیفیت قلبی کا نام ہے اور آیت ۸ میں ہے فانزل السکینۃ علیہم۔ اس سے مراد کیفیت قلبی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ملائکہ بھی ہو سکتا ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فضائل القرآن باب نزول السکینۃ والملائکہ میں اسید بن حضیر کی روایت میں یہی مضمون آتا ہے جو یہاں ہے۔ وہاں جو کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا تلك الملائكة انت لصدوتك اور یہاں سے فاما السکینۃ لزلت للقرآن۔ چونکہ وہاں اس کو ملائکہ قرار دیا اسلئے یہاں سکینہ سے بھی مراد ملائکہ ہیں جو قاری کے دل میں سکینہ اور ایمان قلب پیدا کرتے ہیں اور قاری اسید بن حضیر نے اسے کشف کے رنگ میں دیکھا۔ گھوڑا بدکنے کے ذکر سے مراد نہیں کہ اسی نزول سکینہ کی وجہ سے گھوڑا ابد کا تھا بلکہ یہ ایک تفاق امر تھا کہ گھوڑا ابد کا تو اس شخص نے نماز کو جلد جمع کر کے سلام پھیرا نا کہ گھوڑے کو گھوڑا کر اور نماز سے جو تو جو بیٹھ تو اس نے کمر بیا برسکی ہی ایک کیفیت دیکھی اسی کو آنحضرت صلعم نے سکینہ کہا یعنی ظاہر میں بھی ایکنان تھا اور اس کا اصل تعین کیفیت قلبی سے تھا بلکہ صدیق اکبر کا ایسا اور قربانی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت قابل رشک ہے جو وہی بات صبر جگتے ہے نہ صرف مکان تھا لیکن ایکنان اور غلام کی طرح ایسا آرام و راحت قربان کر دیا۔ آنحضرت صلعم کے آرام کرنے کیلئے جگہ بنائی۔ آپ سو گئے اور خود چوکیں راک کی طرح پھرہ دیتے رہے۔

فَإِذَا نَأْتِ بِمَقْبِلِ بَعْمَةَ إِلَى الصَّخْرَةِ يَرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَعَلَتْ مِنْ أُنْتِ
 قَوْمِي نِيْ اِيْكَ جِرْوَا سِيْ كُوْ وَيَكِيْهُ جَوَابِيْ بَكْرِيْوِيْ كُوْ جِيْانِ كِيْ بَاسِ لَارَهَافَا اسِ كَا مَطْلَبِ سِيْ اِسِ رِيْجَانِ كِيْ طَرَفِ اُنْتِيْ سِيْ دِيْ نَحَا
 يَا عُلَامَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَةَ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَرَى عَمَلَكُمْ لَكِنْ قَالُوا نَعَمْ قُلْتُ
 جُوْ هَارِ مَطْلَبِ نَحَا رِيْعِيْ سَا يِيْ سِيْ نِيْ كَمَا لَرِيْ كِيْ سِيْ نِيْ كَمَا شِيْعِيْ دَاوِيْ يَا كَمَا دَاوِيْوِيْ سِيْ سِيْ كِيْ شَخْصِيْ سِيْ نِيْ كَمَا
 أَفْخَلْبِ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَعَلَتْ انْفِضَ الصَّرْعِ مِنَ الثَّرَابِ الشُّعْرُ وَالْقَدَمِيْ
 كِيْ تِيْرِيْ بَكْرِيْوِيْ سِيْ دُوْدِيْ هِيْ كَمَا بَا سِيْ نِيْ كَمَا دُوْشِيْ كَمَا بَا سِيْ نِيْ كَمَا دُوْشِيْ كَمَا بَا سِيْ نِيْ كَمَا دُوْشِيْ كَمَا بَا سِيْ نِيْ كَمَا
 قَالَ فَرَأَيْتَ الْبَرَاءَ يُصْرَبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يُنْفِضُ حَلْبِيْ فِيْ تَوْبِ كَثْبَةٍ مِنْ
 سِيْ صَا فِ كَرِيْ سَا رَا دِيْ نِيْ كَمَا سِيْ نِيْ بَرِيْ كُوْ وَيَكِيْهُ كَرِيْ بَانِيْ كُوْ رَا نِيْ سِيْ سِيْ رَا نِيْ سِيْ سِيْ رَا نِيْ سِيْ سِيْ رَا N
 لَكِنْ وَمَعِيْ إِدَاةٌ كَسَمْتَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَوِيْ مِنْهَا لِشَرِبٍ وَيَتَوَضَّأُ فَانْتِ
 سَا دُوْدِيْ دُوْ بَا سِيْ رَا سَا نِيْ كَمَا سِيْ نِيْ سِيْ نِيْ سِيْ نِيْ سِيْ نِيْ سِيْ نِيْ سِيْ نِيْ S
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِرِهْتُ أَنْ أَوْقِظَهُ فَوَاقِفَتُهُ حِينَ اسْتَبْقِظَ فَصَبَبْتُ مِنْ
 پُھریں جی علی مشعلیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے پسند کیا کہ آپ کو جگاؤں پھر میں اس وقت آپ کے پاس لایا جب آپ بیدار ہوئے
 الْمَاءِ عَلَى النَّبِيِّ حَتَّى يَرُدَّ أَسْفَلَهُ فَعَلْتُ اشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ
 میں نے ٹھوڑا سا پانی دودھ پر ڈالا یہاں تک کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا تو میں عرض کیا یا رسول اللہ جی میں کماؤں اپنے پیاسا ہوں کہ
 ثُمَّ قَالَ الْيَارْنَ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَرْتَحِلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا
 میں خوش ہو گیا پھر فرمایا کوچ کا وقت نہیں آیا میں نے عرض کیا ہاں را گیا ہے، کماؤں ہم نے سوچ ڈھیلے کے بعد کوچ کیا
 سِرَاقَةٌ بِنُفْلِكَ فَعَلْتُ أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فِدَا عَلِيٍّ
 اور سراقہ بن مالک نے ہمارا چھپایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (مومن) ہم پر اپنی فرمایا نعم ذکر اللہ ہمارے ساتھ ہے انحضرت صلی اللہ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْتَحِلْتُ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أَرْضِيْ فِيْ جَلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ
 علیہ وسلم نے سراقہ پر بدعا کی تو اسے گھوڑے کے پاؤں اس کے پیٹ تک دھسن گئے میرا خیال ہے کہ راوا اور نحتی نے کماؤں
 شَكَتْ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمْ أَقْدَسَ عَوْثًا عَلَى قَادِ عَوَالِيْ فَأَلْفَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ أَرْدَ
 زمین میں زہیر ہر گھوڑے کا ہوا سراقہ نے کماؤں جانتا ہوں کہ آپ دونوں نے مجھ پر بدعا کی ہے میرے لئے دعا مانگیں اللہ تم دونوں کا
 عَنْكُمْ الطَّلَبُ فِدَا عَالِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِنَا فَجَعَلَ لَا يَلْفُ أَحَدًا إِلَّا قَالَ
 مددگار ہو (میرا زمینیا ہوں) کہ جو آپ کی تلاش میں آئیگا اسے واہیں کر دوں گا جس قسم نے اس کیلئے دعا کی تو اس نے نجات پائی میں سراقہ نے
 كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَرَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا رَدَّكَ قَالَ وَوَدَى لَنَا (۱۶۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ
 اور جس سے بھی وہ ملتا تو سے واہیں کر دیتا کماؤں ہمارے ساتھ (وعدہ) پورا کیا علی ابن عباس سے روایت ہے
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَسْرَائِيْلَ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی کے پاس اس کی بہار پر ہی کے لئے تشریف لائے کماؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ہمارے
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَاسَ ظَهْرَانِ شَاءَ اللهُ فَقَالَ لَهُ
 پاس اسکی بہار پر ہی کیلئے جاتے تو فرمایا کہ کوئی فکر نہیں اللہ چاہے تو یہ بیماری گن سے، پاک کر نیوالی ہو تو آپچے اس رو بہانی، کوئی ہی کما

علی عثمان نوازی
 عرب کا عام دستور
 تھا اس لئے ٹوکنے
 بطور ضیافت دودھ
 دودھ دیا یا ممکن ہے
 حضرت ابو بکر نے
 اس کی قیمت ادا
 کر دی ہو +
 علی قنای - تذوقہ
 کی جمع ہے بیٹی یا
 تنکا یا میں جاکھ
 میں یا پانی میں گرسے
 اسے کما جاتے
 میں مراد کو وغیرہ
 کی میں نہیں معلوم
 ہوتی ہے جو جانور
 کے قصہ کو کہ جانی
 ہے حضرت ابو بکر
 آنحضرت صلی اللہ
 عادات نظافت
 وغیرہ سے واقف
 تھے اور خود بھی
 نظافت پسند تھے
 اسلئے دودھ دینے
 سے پیشتر تھنوں
 کا صاف کرنا
 ضروری سمجھا -
 دودھ دینے
 کا قصہ نمبر ۱۱۹
 میں بھی گند چکا
 علی
 عنوان یاب کا
 تعلق اس حصہ
 سے ہے کہ اس
 موقع پر اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی صدف

یہ روایت صحیح بخاری میں ہے

کی تائید کے لئے سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا اور پھر آپ کی دعا سے ہی اس نے اس حالت سے نجات بھی
 پائی۔ نا لہ لکھا کہ معنی اگر اللہ پر رنج ہو تو یوں ہوں گے کہ اللہ تم دونوں کے لئے جو سبھی تم دونوں کا مددگار ہو اور اگر غضب کے ساتھ ہو تو تم سے ہونگے
 کہ میں تمہارے لئے اللہ کو گواہ ٹھیراتا ہوں۔ اور جرن کے ساتھ بھی کما گیا ہے اور مراد کی گئی ہے۔ اقسام باللہ لکھا +

لَا يَأْسُ ظُهُورَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ ظُهُورٌ كَلَّابٌ هِيَ حُمَّى تَقُورُ أَوْ تَنْوَرُ عَلَى الشَّيْءِ

كَيْبَرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ فَقَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَعَمُ إِذَا رَوَى عَنْ أَبِي قَالَ

كَانَ رَجُلٌ لَصْرِي أَيْبَا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ لَصْرِي أَيْبَا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كُنْتُ لَهُ قَامَاتَهُ

اللَّهُ فَرَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفْظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَمَّا

هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَا لَقَوْهُ فَخَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفْظَتْهُ

الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَا لَقَوْهُ

فَخَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفْظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا

أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَا لَقَوْهُ (م- ۱۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكسر- ۱۳۸۲)

(م- ۱۰۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (متكسر- ۱۳۸۲) رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ

قَدِمَ مَسِيلَةَ الْكَنْدَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ ائْجَعَلْ

لِي مُحَمَّدًا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِّمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمْرَةَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَةٌ جَرِيدٍ حَتَّى قَفَّ عَلَى مَسِيلَتِي أَصْحَابِي فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي

هَذِهِ الْقَطْعَةَ مَا أُعْطَيْتُهَا وَلَنْ تُعَدَّ أَمْراً لَكَ فِيكَ وَلَنْ أَدْبُرَ لِي عَفْرَتَكَ اللَّهُ

اور وہیں دفن ہوا۔ پس دینہ میں ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے پھر مسلمان سے عیسائی ہوتا ہے یعنی ارتداد اختیار کرنا ہے پھر وہ اس قسم کی کجیوں سے بھی کرتا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ گو یا رسول اللہ صلعم کو فخری فراد دیتا ہے مگر اُسے قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث قطعی شہادت ہے کہ کسی شخص کو شخص ارتداد اور تبدیل مذہب کی وجہ سے قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اسے یہاں لفظ یہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلعم اذا هلك كسفت فلا كسفت بعدا واذا هلك فيصو فلا فيصو بعدا واللهم نفس محمدية لتتفقن كنوزها في سبيل الله۔ اس حدیث میں قیصر کسری کی تیاری اور ان کی سلطنتوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کی پیشگوئی ہے۔

علا طبرانی کی روایت میں یہ بڑھا گیا ہے فقہا امسی من الغد الاحتمالی یعنی اگلی شام سے پہلے مر گیا تو جو بوجھ نہی صلعم نے اس کے مشفق کر لیا تھا وہی پورا ہوا۔ علا اس شخص کی لاش کو زمین کا قبول نہ کرنا اور اسے بار بار پھینک دینا آنحضرت صلعم کا اعجاز تھا اس لئے کہ اس نے ایسی بھڑوٹ بات کہی جس سے لوگوں کو بے جا مان کرنا مقصود تھا۔ مدینہ میں کچھ لوگ عیسائی بھی ہو گئے تھے مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ شخص بنی نجاریں سے تھا۔ اس کا بقرہ اور آل عمران کو بڑھ لینا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا کہ اسکی لاش کو مسلمانوں نکال کر پھینکا ہے بتاتا ہے کہ یہ شخص مدینہ میں ہی مرا۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں صحیح بخاری نے صحیح مسلم سے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں صحیح بخاری نے صحیح مسلم سے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں صحیح بخاری نے صحیح مسلم سے روایت کی ہے۔

اور وہیں دفن ہوا۔ پس دینہ میں ایک عیسائی مسلمان ہوتا ہے پھر مسلمان سے عیسائی ہوتا ہے یعنی ارتداد اختیار کرنا ہے پھر وہ اس قسم کی کجیوں سے بھی کرتا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ گو یا رسول اللہ صلعم کو فخری فراد دیتا ہے مگر اُسے قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث قطعی شہادت ہے کہ کسی شخص کو شخص ارتداد اور تبدیل مذہب کی وجہ سے قتل نہ کیا جاتا تھا۔ اسے یہاں لفظ یہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلعم اذا هلك كسفت فلا كسفت بعدا واذا هلك فيصو فلا فيصو بعدا واللهم نفس محمدية لتتفقن كنوزها في سبيل الله۔ اس حدیث میں قیصر کسری کی تیاری اور ان کی سلطنتوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کی پیشگوئی ہے۔

وَرَأَى لَرَاكَ الَّذِي أُرِيَتْ فِيكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ زَأَبْتُ فِي يَدِي سِوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ هَمَّتِي شَأْمًا

فَأَوْجِي إِلَيَّ فِي لَمَنَاءِ رَأَيْتُ فِيهَا قَطْرًا قَطْرًا فَذَهَبٌ كَالَّذِي فِي بَيْتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

يَعْنِي نَكَانَ أَحَدَهُمَا الْعَسِي وَالْآخَرُ مَسِيلَةُ الْكَذَّابِ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ (۱۶۲۲)

جو میرے بعد فرج کرے گے ایک ان میں سے اسود عسلی جو اور دوسرا مسیلہ کذاب - یمامہ والا

عَنْ أَبِي مُوسَى رَأَى رَأَى عِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَيْتُ فِي لَمَنَاءِ أُنِي أَهْجُرُ

مِنْ مَنَّةٍ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبٌ وَهَلِي إِلَى أَتْمَا الْيَمَامَةِ أَوْ هَجْرِي إِذَا هِيَ لِمَدِينَةِ يَزِيدَ

وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أُنِي هَزَزْتُ سَيْفًا فَنَقَطَهُ صَدْرٌ كَأَنَّهُ قَدْ أَصِيبَ مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتَهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ

بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ

يَوْمَهُ حِدَادًا إِذَا الْخَيْرُ جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَوَّابُ الصِّدْقِ الَّذِي أَنَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

تَوَّابُ تَعْبِيرُهُ عَمَّا نَحْنُ جَمَاعَةٌ مِنْ سَمَاءٍ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَرَأَى لَرَأَى الَّذِي أُرِيَتْ فِيكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۔ آنحضرت صلعم نے جو خواب میں سونے کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو گویا مراد اس سے دو کذاب تھے اور آپ کو روایاں ہی ایسی تھیں کہ وہ دونوں تیار ہو جائیں گے چنانچہ مسیلہ کذاب جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے یہ بتا بھی دیا کہ خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم پر براہ ہو جائو گے مسیلہ کذاب اور اسود عسلی ہر دو نے دعویٰ نبوت آنحضرت صلعم کی زندگی میں ہی کیا تھا مگر آپ نے ان کے

خروج کو لینے بعد فرما دیا ہے تو مراد آپ کے دعویٰ نبوت کے بعد ہے یا اس لحاظ سے اپنے بعد کہا ہے کہ بڑا فتنہ مسیلہ کا فتنہ تھا اور اس کے دعویٰ اپنے سے تھا مگر اس کا خروج حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا۔ اور اسود عسلی کے مارا جانے کی خبر بھی آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد مدینہ پہنچی۔ ان دونوں کذابوں کے ظہور پر ان کی بربادی کی پیشگوئی اور پھر اس پیشگوئی کا پورا ہونا آنحضرت صلعم کی صداقت کی روشن ترین دلائل میں سے ہے۔ ۲۔ عسلی نے مختلف واقعات کی روایاں اور انکا ذکر الگ الگ بھی آیا جو راوی نے ایک جگہ جمع کر لیا جو آنحضرت صلعم نے کسی موقع پر خود ہی ان باتوں کو اٹھا کر کے بیان فرمایا۔ اول ہجرت کی پیشگوئی ہے ہجرت کے متعلق تو قرآن کریم میں بطور پیشگوئی بہت جگہ ذکر ہے مگر یہاں ہجرت کی زمین کا ذکر کیا خواب میں آپ کو اسی قدر دکھایا گیا کہ آپ کچھ دوسروں کی زمین کی طرف ہجرت کر لے رہے ہیں تو آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ ہجرت یا مہاجر ہے مگر واقعات نے اسے مدینہ ثابت کیا۔ مدینہ بھی کچھ دوسروں کی زمین ہے۔ یہ روایا آپ نے ہجرت سے پیشتر دی تھی۔ روایا تو صرف اس قدر تھی کہ کچھ دوسروں کی زمین میں آپ گئے ہیں۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے اسے ہجرت یا مہاجر سمجھا مگر آپ کے یہ خیال درست ثابت نہ ہوا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ پیشگوئی کے اجتہاد میں غلطی سمجھنے میں نہیں کیونکہ پیشگوئی محض موہبات میں سے ہے، اصول دین سے نہیں۔ ان امور میں جو شریعت سے متعلق رکھتے ہیں نبی کا اجتہاد مبرع الخفا ہوتا ہے۔ جنگ احد کے متعلق میں روایاں ہیں کا ذکر یہاں الگ الگ ہے۔ اول آپ کی تلوار کا صدر ٹوٹ جانا دوسرے کاٹیوں کا دیکھنا اور دوسری روایت میں ہے گا میاں زوج ہوئے دیکھیں ان دونوں کی تعبیر یوں فرمائی۔ مسیلوں کو احد کے دن دکھا اور تکلیف کا پہنچنا اور ان کا شہید ہونا اسی جنگ احد کے متعلق ہی یہ تیسری روایاں بھی ہے کہ آپ کی تلوار پھر ٹھیک ہو گئی اور اس کی تعبیر آپ نے فتح اور مومنوں کے اجتماع سے فرمائی۔ شامین نے غلطی سے اسے فتح کہہ کر چسپاں کیا ہے۔ حالانکہ اس سے صاف طور پر مراد احد ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اجتماع مومنین کا ذکر ہے۔ یہ مومنوں کو مصیبت پہنچی مگر یہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلعم کے گرد جمع ہو گئے اور یہ ان کی فتح تھی کیونکہ ان کے اجتماع کے سامنے دشمن ٹھہر نہ سکتا تھا اور ایسا ہی ہوا کہ کفار کے ٹوٹ کر حملہ کرنے کے وقت اس وقت تک مسلمان مصیبت کی حالت میں نہ تھے اور شہید بھی ہوئے اور رسول اللہ صلعم کو زخم بھی لگے جب تک نہ ہوا گندھے لیکن بھی کہ رسول اللہ صلعم نے آواز دی اَللّٰهُمَّ اِنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ (بانی برصغیر ۸۴۱)

۱۶۲۳ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَيْتُكَ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَأَنَّ مَشْيَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بیٹی ہوئی آئیں اور ان کا چلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْتَ صَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّحًا يَا بِنْتَنِي ثُمَّ اجْلَسَهَا عَنْ

عید و ستم کے چلنے کی طرح تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی مرحبا بھرا نہیں اپنے دایمیں یا بائیں

يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسْرَأَ إِلَيْهَا حِدِيثًا فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِينَ نَوْمًا أَسْرَأَ إِلَيْهَا

ہاتھ بٹھایا اور پھر جبکے سے ایک بات ان سے کہی وہ رشتے کہیں ہیں نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں۔

حَدِيثًا فَصَوَّكْتُ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُكَ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتَهَا عَمَّا قَالَتْ

پھر حضرت صلعم نے چیکے سے ان سے روایا کہ ہاتھ کی تو وہ ہنس پر ہنس میں نے کہا کہ میں نے آج کے دن کی طرح خوشی نہیں دیکھی جو رنج

فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لَا فَتَشَى سِرًّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَبِلْتُ لَيْتَ صَلَّيْتُ اللَّهُ

کے بعد استدر علیہ کے ہیں نے پھر ان سے پوچھا کہ آنحضرت نے کیا فرمایا انہوں نے کہا مجھے مناسب نہیں کہ میں رسول اللہ صلعم کے راز کو ظاہر کروں جب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتَهَا فَقَالَتْ أَسْرَأَ لِي رَأْيَ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي لِقْرَانِ كُلِّ سَنَةٍ

رسول اللہ صلعم نے وفات پائی تو میں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ آنحضرت صلعم نے چیکے سے مجھ سے یہ بات کہی کہ جبریل ہر سال قرآن کریم کا

مَرَّةً وَرَأَيْتُ عَارِضُنِي لِعَامٍ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا أَحْضِرُ أَجْلِي وَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي

ایک بار مجھ سے کہنے لگے تھے اور اس سال انہوں نے مجھ سے دو مرتبہ دور کیا اور میں سمجھا ہوں کہ میری فات کا وقت آ گیا جو اور میرے سب

لِحَاقًا لِي فَبِكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنِ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ نِسَاءِ

گھر والوں میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میں ڈر ہی پھرتی تھی فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی مزار بنو یا پھر فرمایا

الْمُؤْمِنِينَ فَصَحَّكَ لَذَلِكَ (۵-۱۰۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۱۶۲۳) (۱۶۲۴) عَنْ

مومنوں کی عورتوں کی تو اسلئے میں ہنسی علی دیکھو حدیث ۱۶۲۳ علی

ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب يدري بن عباس قال لعبد الرحمن

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے توجہ الرحمن

اتانا الله بعد يوم بدر تو ممکن سے یہاں راوی سے چوک ہو گئی ہو کہ بیکریاں اُحد کے مصائب ذکر ہے۔ اور قرین قیاس یہ ہے کہ آپ فرمایا ہو کہ اللہ نے ان مصائب

میں بھی مجھ سے لئے تو یہی تھی اور اُحد کے دن کے بعد وہ خیرم کو ملی بھی چنانچہ آپ نے لکھی ہی دن دشمن کا تقاب بھی کیا اور ممکن ہے بد کے بعد جو خیر و برکت کا دورا وہ

مسلمانوں کے لئے کھل گیا اس کی طرف اشارہ ہو (حاشیہ صفحہ ہذا) حضرت جبریل کا یہ دور قرآن آنحضرت صلعم کے ساتھ ماہ رمضان میں ہوتا تھا۔ اور

نزول قرآن بھی ماہ رمضان میں شروع ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کا تعلق خاص طور پر برکات سماوی سے تھا یا نئے نئے علوم کے انکشاف سے۔

اس کی مکرر روایت میں جو آگے مذکور ہے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو یہ بات آپ نے اپنی اس بیاری میں کہی تھی جس میں آپ نے وفات پائی۔ یہاں یہ ذکر ہے

کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلعم کی وفات کی خبر پر روئیں۔ اور رسول اللہ صلعم اور حضرت فاطمہ کی وفات کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے اور اس بات پر نہیں کہ آپ

جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور مکرر روایت میں ہے کہ سب سے آنحضرت صلعم نے اپنی وفات کی خبر دی تو حضرت فاطمہ رو پڑیں پھر یہ خبر دی کہ سب سے پہلے تم مجھ سے

ملو گی تو اس پر ہنس پڑیں۔ اور یہ درست معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا فضیلت کا سوال سواس بحث میں بڑا ناہیدو ہے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے! ابھی

حدیث گذر چکی جس میں حضرت عائشہ کی ساری عورتوں پر فضیلت کا بیان ہے۔ اور اس میں ہے کہ تکمیل صرف دو عورتوں کی ہوئی یعنی فرعون کی بیوی آسیہ اور

حضرت مریم اور کسی حدیث میں حضرت خدیجہ کی فضیلت کا ذکر ہے تو اس میں یہ فضیلت خاص خاص امور میں یا اپنے اپنے زمانے میں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے

جو حضرت نبی کریم صلعم کی کنیا اور جس طرح غم کی گھڑیوں میں آپ کی تسکین کا موجب ہوئیں وہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں کو میسر نہیں آیا۔ حضرت

عائشہ نے جس خدیجہ کو لپیٹنے کی خدمت کی وہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کو میسر نہیں آیا اور حضرت فاطمہ کو جو نسبت تھی مومنوں کی نبی صلعم سے تھی وہ اوروں کو

نہ تھی ماس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات بعد میں بھی ویسے ہی رہے جیسے آنحضرت صلعم کی زندگی میں حضرت فاطمہ نے آنحضرت

صلعم کے چھ ماہ بعد وفات پائی۔ مکرر روایت مختصر ہے یہاں نظریہ یہ ہے۔۔ دھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنتیہ فی شکوہ الذی قبض فیہ فسارھا بشی فیکت

تھا عاھا نساھا فصحكت قالت فسألنا عن فالك فقالت ساروا لئلا صلوا الله عليه وسلم ناخبرني انه يقبض في وجه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني ۳

بقیہ صفحہ ۸۴۱
سب یہاں جمع ہو جاؤں اور اصرار ہو تو مسلمان آگے ارد گرد جمع ہوئے اور ایک آہنی لہوا کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن نے اسی نقصان کو جو وہ مسلمانوں کو پہنچی جو کا نقصان سمجھ کر مکہ کی طرف توجہ مسلمانوں کی ہوئی جن کے ہاتھ میدان جنگ ہا نہ کفار کی۔ آخر میں آتا ہے واللہ خیر تو مراد اس سے یہ ہے کہ ان دکھوں اور تکلیفوں کے نیچے بھی بھلائی ہی تھی مگر یہاں حدیث میں جو لفظ آتے ہیں الذی

ابن عوف ان لنا ابناءً منته فقال انة من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن

ابن عوف ان سے کہہ جائے بیٹے بھی اس جیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اسکی وجہ آپ جان لیں گے تو حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا

هذه الآية اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم

اس آیت اذا جاء نصر الله والفتح کا کیا مطلب ہے تو ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو جبر کا علم اللہ نے

اخذله اياها قال ما اعلم منها الا ما تعلم (م-۱۰۹) عن ابن عباس في

آپ کو دیا ہے تو حضرت عمر نے کہا اس آیت سے میں بھی نہ جانتا ہوں جو تم سمجھتے ہو علی

متكلم (۵۲۶ م-۱۰۱) عن ابي بكر بن عبد الرحمن (م-۱۰۰) عن ابن

ابن مالك (م-۶۷۵) عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

هل لكم من انما طقلت واتي يكون لنا الانماط قال ما اراه سيبكون لكم الانماط فانا

کی تمہارے پاس قابلیں ہیں تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس قابلیں کہاں ہو سکتے ہیں فرمایا ہاں غریب تمہارے پاس قابلیں ہوں گے تو راج

اقول لها يعز امراتة اخرى عني انما طك فتقول لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم انما

میں اپنی بیوی سے کہا ہوں کہ اپنے قابلیں مجھ سے دور رکھو تو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ غریب تمہارا

ستكون لكم الانماط فادعها (۶۲۶) عن عبد الله بن مسعود قال اطلق سعد ابن

پاس قابلیں ہو گئے تو میں نے کہا نہیں کہتا ہے عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سعد بن مسعود نے کہا

معاذ معةمرا قال نزل على امية بن خلف ابى صفوان وكان امية اذا اطلق الى

لے گئے کہ تو امیہ بن خلف ابی صفوان کے پاس اترے اور امیہ جب شام کو جاتا

الشام فتمت بالمدينة نزل على سعد فقال امية لسعد انتظر حتى اذا انتصف النهار

اور مدینے سے گزرتا تو سعد کے پاس نہڑتا امیہ نے سعد سے کہا انتظار کرو جب دوپہر ہو جائے

وعقل الناس اطلقت وطقت فبينما سعد يطوف اذا ابو جهل فقال من هذا الذي

اور لوگ غافل ہو جائیں تو جا کر طوات کر لینا جب سعد طوات کر رہا تھا تو ابو جہل آیا تو اسکی

يطوف بالكعبة فقال سعد اناسعد فقال ابو جهل تطوف بالكعبة امانا وقد

کیجے گا طوات کر رہا ہے سعد نے کہا میں ہوں سعد تو ابو جہل نے کہا کیا تم اس کی حالت میں کیجے گا طوات کر رہے ہو اور تم

او ايتيم محمد او اصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال امية لسعد ان رفع صوتك

لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو پناہ دی ہے سعد نے کہا بیشک دونوں میں تکرار ہوئی امیہ نے سعد سے کہا کہ اپنی آواز ابوا حکم

على ابي الحكم فانه سيد اهل كواذى ثم قال سعد والله لئن لمعنته ان اطوف

پر بلند نہ کرو کیونکہ وہ اس وادی کے رہنے والوں کا سردار ہے سعد نے ابو جہل سے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے بیت اللہ کے طوات

عل ان لنا ابناء
منته سے مراد یہ ہے
کہ اور صحابہ کی بھی
بیٹے ہیں عبد الرحمن
بن عوف کا بیٹا
بیٹا بہت چھوٹا
تھا حضرت عمر نے
ابن عباس کو نزدیک
بٹھانے کی وجہ یہ
بتائی کہ وہ قرآن
کریم کو بہتر سمجھتے
ہیں اور اس میں
درحقیقت اشارہ
آحضرت صلعم کی اس
دعا کی طرف ہے
جو ابن عباس کے
لئے آپ نے فرمائی تھی
اللهم فقہہ فی
الدين کو پناہ دے
کیا کہ یہ آنحضرت
صلعم کی دعا کی
قبولیت ہے اسی
لئے اسکو علامات
النبوۃ میں لائے
ہیں
عظ من مضمونی ہی
ہے لفظی اختلاف
خفیف سا ہے
قال خرج رسول
الله صلی اللہ علیہ
وسلم فی مرضه فقلت
ما ت فیہ بلحفت
قد عصب بعضنا

وَمَا حَتَّى جِلس على المنبر محمد الله والله عليه ثم قال اما بعد فان الناس كلفون ويقبلون ولا انصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة العلم في الطعام فمن
ولي متكبر شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه اخرين فليقبل من محسنهم ويقبوا وزعم مسيئتهم فكان اخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم
اس میں بھی ایک پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی ہے مگر روایت مختصر ہے اخراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم احسن فصعد على المنبر فقال ادبي هذا سيد
ونقل الله ان يصلي به دين منتبين من المسلمين اس میں حضرت حسن کے متعلق پیشگوئی ہے جو پوری ہوئی حضرت حسن کا خلافت سے الگ ہونا اسق بارک تھو کہ
سلطنت اسلامی پھر ایک ہوگی ہے مگر روایت مختصر صرف اس قدر ہے ان النبي صلى الله عليه وسلم نوحى جبرئيل قبل ان يجي خبرهم وعيناك تدان فان كويلا الله تعالى نے
آپ کو حضرت جعفر اور زيد کی شہادت کی اطلاع بڑی جلدی ہے اس حدیث میں یہ پیشگوئی ہے کہ مسلمانوں کی حالت اسودگی کی ہو جائے گی سو ایسا ہی ہوا ہے

بِالْبَيْتِ لَا فَطَعَنَ مَجْرِكُكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ امِيَّةٌ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَّا تَرْفَعُ صَوْتَكَ

سے روکا تو میں تمہاری شام کی تخت کا رستہ روک دوں گا اور امیر بھی کہتا رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو۔

وَجَعَلَ يَمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَاِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا اَصْلَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ان کو روکنا تھا تو سعد غصے ہوئے اور کہا جولوہے سے بھی دو میں نے محمد صلعم کو سنا فرماتے تھے

يُرْسِمُ اَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ اَيُّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدًا اِذَا حَدَّثَ فَرَجِعْ اِلَى

کہ یہ راہ جو میں تمہیں مل کر آئے گا میرے کہا مجھے سعد نے کہا ہاں کہا اللہ کی قسم محمد صاحب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے امیر اپنی

اَمْرًا يَا فَعَالَ مَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي اِرْحَلْ لِبِئْرِي قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ اَنَّهُ سَمِعَ

بیوی کے پاس گیا اور کہا مجھے علم نہیں میرے بیڑی بھائی نے مجھے کہا کیا اس نے دریافت کیا کہ کیا اس نے کہا وہ کتاب سے کہ اس نے

مُحَمَّدًا يُرْسِمُ اَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدًا قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا اِلَى بَدْرٍ رَجَعَا

محمد صلعم کو سنا فرماتے تھے کہ وہ راہ جو میں تمہیں مل کر آئے گا میری نے کہا اللہ کی قسم محمد صلعم جھوٹ نہیں بولتے کہا جے وہ رفتاریں بدروں نکلتے

الصَّوْبِ قَالَتْ لَهَا اَمْرًا اَنَّهُ اَمَّا ذَكَرْتُ مَا قَالَ لَكَ اَسْوَأُكَ الْبِئْرِ قَالَتْ فَاَرَادَ اَنْ

منادی کو نواہا یا تو امیر سے اسکی بیوی نے کہا مجھے یاد نہیں جو بیڑی بھائی نے مجھے کہا تھا کہا تو امیر نے چاہا کہ

لَا يَخْرُجُ فَقَالَ لَهُ اَبُو جَهْلٍ اِنَّكَ مِنْ اَشْرَافِ الْوَادِي فَيَسِرْ يَوْمًا اَوْ يَوْمًا يَنْسَارُ مَعَهُمْ

نہ جائے ابو جہل نے اس سے کہا تم وادی کے سرداروں میں سے ہو تو ایک یا دو دن چلو سو وہ ان کے ساتھ گیا

فَقَتَلَهُ اللّٰهُ ر ۱۶۲ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ر ۱۶۲ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبَيْتُ

اور اللہ نے اسے قتل کیا علی عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب

النَّاسِ جُمُعَةٍ فِي صَعِيدٍ فَقَامَ اَبُو بَكْرٍ فَاَنزَعَهُ نُوْبًا اَوْ ذُوْبًا فِي بَعْضِ نُرُوجِهِ

میں لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھے ہونے کو دیکھا تو میرے ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے تاکہ انہیں دکھائے میں ایک حصے میں

ضَعَفَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اخَذَهَا عَمْرُوًّا سَخِيًّا لَمْ يَدْرِ بِاَنَّهَا فَاذْعَبَ رِجْلًا

بچھڑ کر وہی بھٹی اور اللہ اسکی حفاظت کر لیا پھر وہ ڈول عمر نے لے لیا اور وہ انکے ہاتھ میں ایک ڈول ہو گیا تو میں نے لوگوں میں ایسا پہلوان نہیں

فِي النَّاسِ يَغْفِرُ لِي فَرِيَةٌ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُنَ رُوْفِي رَوَيْتُ فَاَنزَعَهُ اَبُو بَكْرٍ

دیکھا جو اسکی طرح بانی نکالے یہاں تک کہ لوگ اونہوں کو پانی بلا بلا کر اپنی ٹانگوں پر رکھنے اور ایک بابت میں ہے کہ ابو بکر نے

ذُوْبِيْنَ ر ۱۶۲ عَنْ اَبِي عَثْمَانَ قَالَ اُنْبِئْتُ اَنْ جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِّي النَّبِيُّ

دو ڈول نکالے علی ابو عثمان سے روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آیا تھا

تمہاری تجارت کو روک سکتے ہیں ۶۱ مناقب ابو بکر میں اس روایت کے شروع میں یہ لفظ ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا انا على

انزع منها جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو واخذوا مني من قرب فرب لفظ مناقب عمر اور کتاب التبعير باب نزع الماء من آتے ہیں ان میں یہ ہے کہ جس ڈول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نکال کر لوگوں کو پلایا اسی ڈول کو حضرت ابو بکر آپ کے ہاتھ سے لے کر اس سے پانی نکال کر مخلوق خدا کو سیراب کرتے رہے جس میں بتایا ہے کہ یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک یا دو ڈولوں میں دوسری روایت میں بلاشبک ڈول کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر کی مدت خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ ضعف کے لفظ میں سلطنت اسلام کی نسبت کمزوری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت کے ہاتھ میں لینے ہی عظیم الشان فساد تھا اور سارے عرب میں بغاوت پھیل گئی۔ اور واللہ یغفر لہ میں اشارہ بغاوت کے فرماتے اور غیبت لوگوں کو صاف کرنے کی طرف ہے، حضرت عمر کے متعلق فرمایا کہ میں نے ایسا پہلوان لوگوں میں نہیں دیکھا سو یہ ایک امر واقع ہے کہ حضرت عمر کے برابر دوسرا کوئی عظیم الشان فاتح نظر نہیں آتا جس نے فتح کے ساتھ ممالک مغرب میں منظم بھی ایسا قائم رکھا ہو۔ پھر حضرت عمر کے وہ فتح کردہ ممالک آج تک مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ دوسرے فاتحین کو دیکھو تو ایک طرف ملک فتح کیا دوسری طرف وہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۶۱ اس میں آپ کی نبوت پر شہادتیں ہیں اول اشد ترین دشمن امیر اور اس کی بیوی کی شہادت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بولتے بلکہ آپ کی صداقت پر اس قدر یقین کامل ہے کہ آپ کی جھگڑی کو بھی وہ بچا مانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور سچ ہو کر ہے گا۔ اور دوسری آپ کی بیوی کی شہادت کے قتل کا باعث ابو جہل ہی ہو گا اور ایسا ہی ہوا۔

۶۱ سعد بن معاذ عہدینہ کی ڈوڑھی تو توں آویں اور خوارج میں سے اوس کے سردار تھے اسلئے جب ابو جہل نے انہیں طواف سے روکا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے ایسا سلوک کرتے ہو تو ہم بھی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَكَ أُمَّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَحْدُثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس ام سلمہ تھیں وہ بیان کرتے رہے پھر کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے

لَا أَمُّ سَلَمَةَ مِنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هَذَا دُحْيَةٌ قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَيْمَ اللَّهُ مَا حَسِبْتَهُ

سے فرمایا یہ کون ہیں یا جیسا فرمایا یا ام سلمہ نے عرض کیا کہ یہ دحبہ رکھتی ہیں ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں انہیں ہی دو جہیری

رَأَى أَيْمًا حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ

سمجھتی ہی ایمان تک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ سننا اور وہی باتیں، جبریل کی طرف سے بیان کرتے تھے یا جب کہا کہ میں

قَالَ فَقُلْتُ لَأَنْبِيٍّ مِمَّنْ سَمِعْتُ هَذَا قَالَ مِنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ (۲۶۷) بَابُ تَوَلَّى

راوی نے، کہا میں نے ابوعثمان سے پوچھا آپ نے یہ کس سے سنا کہا اسامہ بن زید سے

اللَّهُ تَعَالَى يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

کا قول وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ایک جماعت ان میں سے ہے جو کچھ چھپاتی ہے اور وہ جانتے ہیں

(۲۶۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ إِلَهُهُ دُجَاءٌ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے

وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَيْنًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور آپ سے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا

وَأَتَّخِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ قَوْلًا أَنْفَضَهُمْ وَيَجِدُونَ فَقَالَ

تم تورات میں سنگ مارنے کے متعلق کیا حکم پاتے ہو انہوں نے کہا ہم انکو سو کرتے ہیں اور انکو کوڑے لگاتے ہیں

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذِبًا فِيهَا الرَّجْمُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ

عبداللہ بن سلام نے کہا تم تھوٹ بولتے ہو تورات میں سنگ مارنے کا حکم ہے تورات لاؤ انہوں نے اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے

عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ازْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ

اپنا ہاتھ رجم کی آیت رکھا اور اسکے آگے پیچھے پڑھ کر شروع کیا عبداللہ بن سلام نے اسے کہا اپنا ہاتھ اٹھا و اس نے اپنا ہاتھ اٹھا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْعَلُ الْمَرْأَةَ يَبْقِيهَا الْحَجَارَةَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں سنگ مار گئے گئے عبداللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو دیکھا کہ خورتنہ جھکا رہا تھا اسے پتھر سے چھینا تھا اسل

علا کتاب بدو لوی
میں گزریکا احبانا
یتنشل لی الملک
رجلا حدیث ملا
یعنی کبھی فرشتہ
انسان کی صورت
میں آتا ہے اور
۴۷ میں بھی جبریل
کے انسان کی صورت
میں تنشل ہو کر آئے
کا ذکر ہے تو توش
کوئی کس کشفی نگاہ
پہنچتی ہے مگر بعض
وقت کشف ایسا
زبردست ہوتا ہے
کہ پاس بیٹھنے والے
بھی اس میں شامل
ہو جاتے ہیں اور
چونکہ کشف حالت
بیماری میں ہوتا
ہے اسلئے دیکھنے
والا ایسا بھی ہوتا
ہے کہ وہ سچ سچ
ان آنکھوں سے
ایکے واقعہ کو دیکھ
رہے ہوں
ام سلمہ نے اسے
دحبہ سمجھا اور دحبہ

باب التواریخ (۲۶۷-۲۶۸)

ابن حنیفہ کہتی ایک صحابی تھے جو بہت خوبصورت تھے، اس باب کو لانے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نہ صرف ان پیشگوئیوں اور نشانات کی وجہ سے ظاہر ہو چکی تھی جو آپ کے ہاتھ پر ہوا در ہونے بلکہ ان کتاب ان پیشگوئیوں کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں پائی جاتی تھیں آپ کو صادق اور مستب زبانتے تھے اور جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اسی طرح پہچانتے تھے مگر ان پیشگوئیوں کو جو ام انس سے چھپاتے تھے تاکہ جن ظاہر نہ ہو جائے، اسلئے یہ حدیث جملہ ۷۷ پر گزری ہے یہاں تفصیل سے آئی ہے۔ اور اوواؤ وین بروایت ابوہریرہ یہ حدیث یوں آئی ہے۔ زنی رجل من الیہود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذھوا بانالی هذا النبی فانہ یبعث بالتحفیف فان اثنانا بالغنا دون الیوم فقلناھا واحترجنا ہا عند اللہ قلنا فتیا نبی من انبیائک۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو یہ علم تھا کہ اسلام میں زمانہ سزاہکی ہے فانہ یبعث بالتحفیف غالباً سورہ نوکادہ حصہ تریکھا جس میں ہے الزانی والزانیة فاجلداوا کل واحدھما مائة جلدة۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سب قوموں کو پوری مذاہب آزاوی نے کھی تھی اس لئے یہود کے جھگڑوں کا فیصلہ انہی کی شریعت کے مطابق کرنے تھے اس لئے آپ نے ان سے توریث کا حکم پوچھا جسے انہوں نے پہلے چھپایا مگر بالاخر ان کے اور زانی اور زانیہ کو سزائے رجم کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ سزا توریث کے مطابق سنگاری بنانی حالانکہ یہود توریث میں سنگاری کی سزا نہیں دیتے مگر آپ کے مخالفین نے پرگاہ کیل سزوات پر حضرت عیسیٰ کے وقت میں بھی توریث میں زنا کی سزا سنگاری ہی چھینچ پوچھا، ہم وہ میں ہے۔ اے اسادیہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی موسیٰ نے توریث میں ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنگار کریں پرتو کیا تمنا ہے؟

(۲۷) بَابُ سُؤْلِ مُشْرِكِيْنَ اَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَةً
یا علیؑ مشرکوں کا مطالبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نشان دکھائیں

فَارَاهُمُ اشْتَقَاقُ الْقَمَرِ (۱۶۲۸) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اشْتَقَّ
تو اپنے انہیں شوق قرار کا معجزہ دکھایا عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْقَمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
عہدِ وسلم کے زمانہ میں چاند بھٹک کر دو ٹکڑے ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ اَشْهَدُ وَا (۱۶۲۹) عَنْ اَسِّ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ مَلْطَةَ سَأَلُوْهُ
گواہ رہو اُس بن مالک سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرِيَهُمْ اَيَةً فَاَرَاهُمْ اشْتَقَاقِ الْقَمَرِ (م-۱۶۱۳)
سے درخواست کی کہ ہمیں نشان دکھائیں تو آپ نے انکو اشتقاقی قمر کا نشان دکھایا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر) (۱۶۲۸) بَابُ (م-۱۶۱۳) عَنْ اَسِّ بْنِ
دیکھو حدیث ۱۶۲۸ باب ۱۶۱۳

(متكرر - ۱۶۲۷) (۱۶۳۰) عَنْ الْمَعِيْزَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
دیکھو حدیث ۱۶۲۷ مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

وَسَلَّمَ نَالَ كَايْزَالَ نَاسٍ مِنْ اُمَّتِهِ ظَاهِرِيْنَ بِحَنِّي يَأْتِيَهُمْ اَصْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
پس کہ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ برابر غالب ہیں گے بیان تک کہ اللہ کا امر جیتے اور اس وقت تک ہی غالب ہوں گے تاکہ

۱۶۱۳۸
۱۶۱۳۹
۱۶۱۴۰
۱۶۱۴۱
۱۶۱۴۲
۱۶۱۴۳
۱۶۱۴۴
۱۶۱۴۵
۱۶۱۴۶
۱۶۱۴۷
۱۶۱۴۸
۱۶۱۴۹
۱۶۱۵۰
۱۶۱۵۱
۱۶۱۵۲
۱۶۱۵۳
۱۶۱۵۴
۱۶۱۵۵
۱۶۱۵۶
۱۶۱۵۷
۱۶۱۵۸
۱۶۱۵۹
۱۶۱۶۰
۱۶۱۶۱
۱۶۱۶۲
۱۶۱۶۳
۱۶۱۶۴
۱۶۱۶۵
۱۶۱۶۶
۱۶۱۶۷
۱۶۱۶۸
۱۶۱۶۹
۱۶۱۷۰
۱۶۱۷۱
۱۶۱۷۲
۱۶۱۷۳
۱۶۱۷۴
۱۶۱۷۵
۱۶۱۷۶
۱۶۱۷۷
۱۶۱۷۸
۱۶۱۷۹
۱۶۱۸۰
۱۶۱۸۱
۱۶۱۸۲
۱۶۱۸۳
۱۶۱۸۴
۱۶۱۸۵
۱۶۱۸۶
۱۶۱۸۷
۱۶۱۸۸
۱۶۱۸۹
۱۶۱۹۰
۱۶۱۹۱
۱۶۱۹۲
۱۶۱۹۳
۱۶۱۹۴
۱۶۱۹۵
۱۶۱۹۶
۱۶۱۹۷
۱۶۱۹۸
۱۶۱۹۹
۱۶۲۰۰

معجزہ مشرکین کی درخواست پر کہ ہمیں کوئی نشان دکھائیے دکھایا گیا تھا۔ صرف اس کی روایت میں ہے۔ ابن اثیر اشتقاقی قمر کے متعلق لکھتے ہیں:۔
ورد في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة حديث يعني اس کا ذکر احادیث متواترہ میں صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں شک نہیں نقاب
میں کسی قدر اختلاف ہے باب اشتقاقی قمر کی اس کی روایت میں ہے فاراهم القمر شقتین یعنی دو چراغ بندھا۔ آنحضرت صلعم نے اُن کو چاند
دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جبل تراکوان دونوں کے درمیان دیکھا۔ اور ابن مسعود کی روایت میں ہے وذهب فرقة نحو الجبل
ایک ٹکڑہ پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اور سند احادیث کی ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑہ اس پہاڑ پر تھا اور ایک اُس پہاڑ پر یعنی صفحہ اور مروہ پر طبری میں ابن
عباس کی ایک روایت میں ہے کہ چاند کو رسول اللہ صلعم کے زمانے میں گرہن لگا تو کفار نے کہا چاند پر جا دو کر دیا ہے۔ اور کسی روایت میں ہے
کہ ایک ٹکڑہ پہاڑ کے پیچھے تھا۔ لیکن ان تمام روایات میں ایک امر مشترک یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اشتقاقی یعنی
چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا تھا۔ اور مشرکین نے جب باہر سے آیا تو اسے رات کو سفر کر گیا۔ اور باقیات سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔
قرآن کریم کے الفاظ صریح سے اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ اشتقاقی قمر وقوع میں آیا۔ اور یہ معجزہ ایسی زبردست شہادت سے ثابت ہے کہ اس کے
سوا اور کوئی معجزہ اس قدر زبردست شہادت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون پر کسی نے اعراض نہیں کیا۔ اس لئے یہ اعتراض کہ اشتقاق
قمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے کوئی وقعت نہیں رکھتا خاصاً حکم اس صورت میں کہ اس کے ثبوت کے لئے زبردست شہادت موجود ہے *
۱۶۱۸۰ مکرر روایت مختصر صرف اس قدر ہے وان القمر اشفق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ۱۶۱۸۱ مکرر روایات کے نظردہی ہیں۔ البتہ یہاں احمد
عباد بن بشر و احسب الفانی اسید بن حضیر کے لفظ نہیں ہیں۔ اس میں بتایا ہے کہ آپ کے صحابہ کے لئے بھی بعض نشان ظاہر ہوئے وہ معجزہ قمر ہی میں کتاب
خلق افعال العباد و کذا نك جعلناكم امة وسطا کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ امت وسط سے مراد وہی جماعت ہے جس کا ذکر حدیث لا تنزال طائفة من
امتی الخ میں ہے اور امام بخاری نے کتاب الامتنام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزال طائفة من امتي ظاهرين على الخ میں لکھا ہے
وهم اهل لعلم یعنی جس گروہ کا ذکر اس حدیث میں ہے اس سے اہل علم مراد ہیں اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں آتا ہے لا يضيهم من حالهم جو ان کی
مخالفت کرے گا وہ ان کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم نے قمر اور حدیث میں اُمتنا اور گروہ سے ایسے اہل علم مراد ہیں جن کا کام اور معرفت
اور نبی عن المنكر ہو سکتی تفسیر کنز خیر اُمتنا الخ رجعت للناس تامرون بالعرف و ان تنهون عن المنكر سے کی ہے۔ اس آیت میں ان کے متعلق فرمایا
ہے واولئك هم المفلحون اور اس حدیث میں فرمایا ہے وهم ظاهرون یعنی ایسے لوگوں کی مخالفت بھی ضرور ہوگی مگر اللہ تعالیٰ انہی کو غلبہ اور فتح دے گا
انفرادی طور سے بھی علماء ربانی اور بالمعروف اور نبی عن المنكر کرتے رہتے ہیں مگر جماعت کے رنگ میں جو زمین کی جماعت ہی اس کام میں لگی تھی اور نبی کریم

رقیبہ ۵۴
اور فتح و نصرت
بھی جماعت ہی کے
کام سے وابستہ
ہوتی ہے لہذا وہی
مکوششیں جنہاں
انہیں نہیں رکھیں۔
اس لئے قرآن و
حدیث میں اس امت
اور گروہ کی عظیم
کی جماعت ہی مراد
ہو سکتی ہے۔ حدیث
میں ہے کہ ایک
صدی کے سر پرچم
آتے رہتے ہیں اور
اس حدیث میں ہے
کہ ہمیشہ ایک جماعت
حق کی حمایت اور
انشاعت کرتے
ہوئے غالب رہیگی
دونوں کا مشافہ
ایک ہی ہے۔
اس حدیث میں
غلبہ کے ذکر کے بعد

۱۱۳۱

۱۱۳۲

۱۱۳۳

۱۱۳۴

۱۱۳۵

۱۱۳۶

۱۱۳۷

۱۱۳۸

۱۱۳۹

۱۱۴۰

۱۱۴۱

۱۱۴۲

۱۱۴۳

۱۱۴۴

۱۱۴۵

۱۱۴۶

۱۱۴۷

۱۱۴۸

۱۱۴۹

(۱۱۳۱-۱۱۳۲) عَنْ مُعْوِيَةَ (مُنْكَرٌ - ۶۵) (۱۱۳۱) عَنْ عَمْرُوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عزوه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاكَ دِينَارًا لِشَرِيٍّ لَهُ بِهِ شَاةٌ فَأَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ

ان کو ایک دینار دیا کہ اس سے ایک بکری خرید لائیں تو انہوں نے آپ کے لئے اس دینار سے دو بکریاں خریدیں

أَحَدًا مِمَّا يَدِينَارًا وَحَاءَهُ دِينَارًا وَشَاةٌ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ

اور ان میں ایک کو ایک دینار پر فروخت کر دیا اور ایک دینار اور ایک بکری آنحضرت صلعم کے پاس لے آئے تو آپ نے ان کے لئے ان کی

لِوَأَشْتَرِي لَثْرَابٍ لِرَجْمِ قَبِيئَةَ قَالَ سُعَيْبٌ كَانَ أَحْسَنُ بَنِ عَمَارَةَ جَاءَهُ نَابِلُهُ الْحَبَشِيُّ

تجارت میں برکت کی دعا کی اگر وہ مٹی ہی خرید لینے تو مجھے اس میں بڑا اٹھانے سفیان نے کہا کہ یہ حدیث حسن بن عمارہ نے ہمارے پاس سفیب سے

عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبِيبَ بْنِ عَمْرُوَةَ فَأَيْبُنُهُ فَقَالَ شَيْبِيبُ إِنِّي لَأَسْمَعُهُ مِنْ عَمْرُوَةَ

روایت کی کہ میں نے اسے سفیب کو عروہ سے روایت کرتے ہوئے سنا میں خود سفیب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عروہ سے

قَالَ سَمِعْتُ أُحْمَرَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَمْرُوَةَ وَكَانَ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نہیں سنی کہا میں نے اپنے قبیلہ والوں کو سنا وہ عروہ سے حدیث بیان کرتے تھے مگر اب انہیں نے عروہ سے سنا کہتے تھے کہ میں نے سفیب سے

يَقُولُ لَخَيْرٌ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي رَأْيِ سَبْعِينَ

کو سنا کرتے تھے کہ کھوڑوں کی پینٹا نیوں کے ساتھ قیامت تک بھلائی وابستہ ہے سفیب نے کہا اور میں نے عروہ کے گھر میں سنا کہ

فَرَسًا قَالَ سُعَيْبٌ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَانَتْهَا أَصْحَابَةُ (۱۱۳۵) عَنْ ابْنِ عَمْرٍوَةَ (مُنْكَرٌ - ۱۱۳۶)

دیکھے سفیان کہتے ہیں کہ یہ جو کہا کہ آپ سیکھنے بکری خرید لائے تو یہ قربانی کی بکری معلوم ہوئی ہے

(۱۱۳۶-۱۱۳۷) عَنْ أَنَسِ (مُنْكَرٌ - ۱۱۳۶) (۱۱۳۶) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُنْكَرٌ - ۱۱۳۹)

دیکھو حدیث ۱۱۳۶

(۱۱۳۸-۱۱۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُنْكَرٌ - ۱۱۳۸) (۱۱۳۸) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (مُنْكَرٌ - ۱۱۳۹)

دیکھو حدیث ۱۱۳۹

دیکھو حدیث ۱۱۴۰

دیکھو حدیث ۱۱۴۱

دیکھو حدیث ۱۱۴۲

دیکھو حدیث ۱۱۴۳

دیکھو حدیث ۱۱۴۴

دیکھو حدیث ۱۱۴۵

دیکھو حدیث ۱۱۴۶

دیکھو حدیث ۱۱۴۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۸

دیکھو حدیث ۱۱۴۹

دیکھو حدیث ۱۱۵۰

دیکھو حدیث ۱۱۵۱

دیکھو حدیث ۱۱۵۲

دیکھو حدیث ۱۱۵۳

ہے کہ امرائے اللہ جاتے ہیں سے مروی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی دنیوی طاقت کمزور ہو جائے مگر بااں فرمایا وہم ظاہر نہیں یعنی جب دنیوی طور پر مغلوب بھی ہو جائیں گے تو بھی روحانی رنگ میں وہ غالب ہی ہونگے پس یہ دوسرا غلبہ لائل کا غلبہ ہے اور واقعات کی رد بھی ایسی ہی نظر آتی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی دنیوی طاقت کم ہو جاتی ہے تو فوراً اسلام کا روحانی غلبہ نزع ہو جاتا ہے اور ان ممالک میں اسلام پھیلنے لگتا ہے جہاں اپنی ظاہری شوکت کے وقت بھی وہ نہ پہنچا تھا (حاشیہ صفحہ ۶۲) مگر روایت مفصل ہے اور اس کے الفاظ میں فرق ہے۔ لفظ یہ ہیں۔ کلابزال من امتی قائمۃ بامر اللہ لا یضوہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی ینبہم امر اللہ وہم علی ذلک قال عمر بن الخطاب قال ما لک بن یحییٰ مر قال معاذ وہم بالشارع فقال معویہ ہذا ما لک یترجم انہ سمع معاذًا یقول وہم بالشارع۔ چونکہ معاذ وہم بن شام میں تھے اس لئے وہ دو مخالف گروہ علی اور معاویہ میں سے اپنے گروہ کو حق پر سمجھتے تھے اور معاذ کے لفظ وہم بالشارع کو اپنی تائید میں سمجھتے تھے۔ معاذ کا مطلب صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ شام میں ہیں، مگر حسن بن عمارہ فقہاء کو فرمایا ہے اور حدیث کے بارہ میں بہت کمزور تھے سفیان نے پہلے یہ حدیث حسن بن عمارہ سے سنی اور حسن نے یہ بیان کیا کہ مجھے سفیب نے کہا کہ میں نے عروہ سے یہ حدیث سنی۔ سفیان نے کہا تو میں خود سفیب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ سے نہیں سنا اور لوگوں سے سنا وہ عروہ سے روایت کرتے تھے۔ البتہ عروہ سے الخیر معقود بنوا صی الخیل کی حدیث سنی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو کہ آنحضرت صلعم کی دعا سے عروہ کی تجارت میں برکت ہوئی، مگر مکرر روایت کے لفظ ۱۱۳۱ کے ہیں، مگر یہاں آخری لفظ الی یوم القیامۃ الاجر والمغتم نہیں ہیں، بلکہ مکرر روایت لفظی سے وہ دہرایا گیا ہے، مگر مکرر روایت مختصر ہے یہاں لفظ یہ ہیں۔ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ربیعہ وقد خرجوا بالشارع فلما رآه قالوا لعلنا والحمد لله احلوا الی الحسن یسعون فرقم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ وقال اللہ الکرخوبت خیرنا فاذا نزلنا بساحتہ قوم صبا المذنین۔ اس میں ہے کہ آپ نے بطور پیشگوئی خیبر کی فتح کی خبر دی، مگر مکرر روایت تقریباً انہی لفظوں میں دہرائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے ان کیلئے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت سے وہ پھر حدیث نہ بھولتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے

بار بار رحم

کرنے والے کے نام سے

۶۲۔ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۶۲) کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل

(۱) باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن وجب التمسک بصلی اللہ علیہ وسلم
باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور مسلمانوں میں سے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور اہل من المسلمین فہو من اصحابہ (م۔ ۱۷۲۰) عن جابر بن عبد اللہ (متکم۔
کی صحبت میں با با اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے صحابہ میں سے ہے

(۱۳۳۴) (م۔ ۱۷۲۰) عن عمران بن حصین (متکم۔ ۱۲۳۳) (م۔ ۱۷۲۱)
دیکھو حدیث ۱۲۳۳

عن عبد اللہ (متکم۔ ۱۲۳۳) (۲) باب مناقب المهاجرین وفضائل من ہاجر
باب مہاجرین کے نیک وصال اور ان کی فضیلت کے ان میں سے

عبد اللہ بن ابي بنی تمیمی اور اللہ تعالیٰ کا قول (وہ مال) مہاجرنا داروں کے لئے جو چاہئے لوگوں سے اور اپنے
حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ تعالیٰ کا قول (وہ مال) مہاجرنا داروں کے لئے جو چاہئے لوگوں سے اور اپنے

دیارہم واورالہم ینتغون فضلا من اللہ ورضوانا وبعین اللہ ورسولہ اولیک
مالوں سے لکے گئے اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں

ہم الصادقون وقال لا تنصروا اللہ الی قولہ ان اللہ معنا
سچے ہیں (الحشر۔ ۸) اور فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے تمہاری مدد کی ان اللہ معنا تک (التوبہ۔ ۴۰)

کتاب فضائل اصحاب النبی
میں سے کتاب
المناف کا حصہ
ہی قرار دیا گیا ہے
اور علیحدہ کتاب کی
عنوان نہیں۔ گو
اس لحاظ سے کہ
صحابہ کے فضائل
ایک متعلق اور علیحدہ
ذکر ہے یہ ایک
الگ کتاب ہے۔
لیکن فی حقیقت
صحابہ کے فضائل
رسول اللہ صلعم کے
مناف کا ہی حصہ
ہیں کیونکہ یہ سب
آپ کی قوت
قدسی کا نتیجہ ہیں
اس لئے آپ کے
مناف کا ذکر
فضائل صحابہ کے
بغیر ناممکن ہوتا
لیکن اس کتاب
میں سوائے باب
اول کے جس میں سب صحابی یعنی مہاجرین اور انصار وغیرہ شامل ہیں۔ صرف مہاجرین کا ذکر ہے جیسے باب کا عنوان ہے اور انصار کے مناف کی علیحدہ
کتاب قائم کی ہے جو اس کے بعد آتی ہے۔ لہذا اس باب میں اجمالی طور پر صحابہ کے فضائل کا ذکر ہے اس کے بعد تفصیلات آتی ہیں۔ لہذا صحابہ
دونوں لفظ جمع پر استعمال ہوتے ہیں اور ایک کو صاحب یا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صاحب اصل میں وہ ہے جو دوسرے سے تعلق رکھتا ہو۔ امام بخاری
نے دو قسم کے لوگوں کو صحابہ میں داخل کیا ہے۔ اول مسلمانوں میں سے ہر شخص جو نبی صلعم کی صحبت میں رہا۔ وہ صحبت تھوڑی ہو یا بہت۔ یہ تو ظاہر ہے
اور اہل من المسلمین جس کے دو طرح پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ وہ مسلمان جس نے آپ کو دیکھا یا وہ مسلمان جسے آپ نے دیکھا مگر یہاں دیکھنا وسیع معنی
میں ہے۔ ایک نایاب بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آپ کو دیکھ لیا۔ نابالغ بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا صحیف اختلاف لفظی ہے
حدیث کا جھل یہ ہے کہ صحابی یا صحابی کی صحبت میں رہنے والے یا ایسے آدمی کی صحبت میں رہنے والے جب تک مسلمانوں میں ہوں گے تو ان کی برکت
سے فتوحات ہوتی رہیں گی۔ لہذا مکرر روایت کے لفظ تقریباً وہی ہیں۔ البتہ یہاں خیر کہ قرنی کی جگہ خیر امتی قرنی ہے۔ اس حدیث میں خیر القریب
یا بہتر بن نسل صحابہ کو کہا گیا ہے۔ لہذا یہ حدیث بھی ۲۴۳۳ کی مکرر روایت ہے۔ لفظ ۳۳۱۴ میں صحابہ رض میں مہاجرین اور انصار دو گروہوں کا
ذکر خصوصیت سے آتا ہے۔ اور یوں صحابہ کو تین قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اول مہاجرین جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن چھوڑے اور سلسلہ فتح مکہ تک
جاری رہا۔ اور سب سے بڑی ہجرت مکہ سے مدینہ کو تھی اس سے پہلے بعض صحابہ کی حبش کی طرف ہجرت تھی۔ دوسرے انصار یعنی اہل مدینہ جنہوں نے مدینہ کی
نصرت کی۔ اور یہ اوس اور خزرج اور اس کے حلیف اور غلام ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ مہاجرین ہیں اور نہ انصار۔ لہذا حضرت ابو بکر کا نام عبد اللہ تھا اور
تلوچ میں ہے کہ اسلام سے پہلے کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اور آپ کا نام علقم بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیروا ان اللہ اعلم
المناد۔ جب کہ ترمذی میں بروایت حضرت عائشہ اور بزار اور صحیح ابی حنن میں بروایت عبد اللہ بن زبیر ذکر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ
کے ہاں بچے زندہ نہ رہتے تھے تو جب ابو بکر پیدا ہوئے تو وہ انہیں فاتحہ کہیں لے گئیں اور کہا اللہم هذا عقیقۃک من العوت فہبہ لی (باب فی ترجمہ ۸۴۸)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا نَحْمَةُ أَهْلِي وَأَمْرَانِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام اور دو عورتیں اور حضرت ابوبکر تھے۔

الذُّرْدُ أَوْ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذًا يُعْرَفُ

سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں حضرت ابوبکر آئے

ثَوْبٍ حَتَّى أَقْبَلَ حَتَّى رَكِبْتَهُ فَقَالَ لِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَأَصْلُكَ جَدُّ فَقَامَ فَرَسَمَ وَ

یہاں تک اٹھا ہوا تھا کہ اس کے گلے گلے کر کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دوست ابوبکر آئے ہیں انہوں نے تم کو

قَالَ رَأَيْتُكَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَاسْرَعْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَأْتُمْ فَسَأَلْتَهُ أَنْ يُعْفِيَكَ

اور عرض کیا کہ میرے لیے حضرت عمر کے درمیان مجھ جگڑا ہوا تو میں نے جلدی میں ان کو سخت سبوت کیا پھر تادم ہوا اور ان سے یہ چاہا

فَأَبَى عَلِيٌّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا ذَمَّ رَأَى عَمْرُؤُكُمْ فَأَتَى

کہ مجھے معاف کر دے تو انہوں نے انکار کیا آپ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کے بین مرتبہ فرمایا ہے ابوبکر تھے معاف کرے اسکے بعد

فَنَزَلَ ابْنِي بَكْرٍ فَسَأَلَ عَنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لَا فَا تَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ

حضرت عمر نام جو ہے اور حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور پوچھا کہ کیا ابوبکر میں تمہا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور

يُجْعَلُ فِيهِ نَجْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ حَتَّى اسْتَفْقَ أَبُو بَكْرٍ فَمَجَّاعًا عَلَيْهِ وَقَالَ يَا

صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے کا یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو اندیشہ ہوا اور وہ روز بچھے اور عرض کیا یا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمُ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعْزِمُ لِيكَ

رسول اللہ اللہ کی قسم میری ہی زیادتی تھی دو مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ تھے تمہارے پاس بیٹھا

فَقُلْتُمْ كَذِبًا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَأَسَالِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوهُ

تو تم لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور ابوبکر نے کہا کہ سچا ہے اور اپنی جان اور مال سے میری تمہاری کیا تم میرے رفیق کو میرے لئے چھوڑتے

صَاحِبِهِ مَرَّتَيْنِ فَمَا أَوْذَى بَعْدَهَا (۶۳) عَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

ہو یا نہیں وہ مرتبہ فرمایا اسکے بعد حضرت ابوبکر کو کوئی کچھ نہیں بگاڑا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ

انہیں ذات السلاسل کی راتانی ہیں فوج کا افسر مقرر کیا میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا لوگوں میں سے کون آپ کو زیادہ

قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُو هَاقِلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ

میرا ہے فرمایا عائشہ میں نے عرض کیا مردوں میں سے فرمایا عائشہ کا باپ میں نے عرض کیا پھر کون فرمایا پھر عمر بن خطاب

الخطاب فعد رجلا له - ۶۲۶ - عن ابی هريرة (محدث ۱۱۲۸)

دیکھو حدیث ۱۱۲۸

اور کوئی آدمیوں کا نام یا

حضرت ابوبکر کی زبان سے اگر ایسا کوئی کلمہ نکلا بھی جس سے حضرت عمر ناراض ہوتے تو ان کے علم و مقام کی وجہ سے حضرت عمر کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اور جب حضرت ابوبکر نے معافی بھی مانگی تب تو ابوبکر ہی حضرت عمر کا فرض تھا کہ ان کو معاف کر دیتے۔ لیکن جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو آنحضرت نے اس پر پابندی لگائی کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ ذات السلاسل کا ذکر کتاب المغازی میں آئے گا یہ آٹھویں سال ہجرت کا واقعہ ہے۔ سوال کی وجہ یہ تھی کہ جب عمر بن العاص کو فوج کا افسر مقرر کیا گیا اور فوج میں ابوبکر اور عمر بھی تھے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میں ان کی نسبت، آنحضرت کو زیادہ محبوب ہوں۔ کتاب المغازی میں آتا ہے کہ عمر کو کتے ہیں کہ جب میرا نام نہ آیا تو میں نے پھر سوال کرنا ہی چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ کوئی مجھ کو سب کے اخیر میں نہ رکھیں، بلکہ یہاں روایت یوں ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بیخرا داع فی غنمہ عدا علیہ الذئب فاحزن عنہا مشاة فظلمہ الراعی فالتفت الیہ الذئب فقال من لہا یوم السبع یوم لیس لہا واعر غیری وبعینا ووجل یسوق بقرة وقد حمل علیہا فالتفت الیہ فکلمتہ فقالت انی ... لم اخلق لہذا وکنی تخلقت للرب قال الناس سبحان اللہ قال لیسہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اومن بنی الذی و ابوبکر وعمر بن الخطاب

۱۔ پانچ غلاموں سے مراد ہیں۔
۲۔ بلال۔ زید بن عرقہ
۳۔ عامر بن نفیرہ۔
۴۔ ابوبکر کبیر اور عبید
۵۔ بن زید حبشی۔
۶۔ اور دو عورتوں سے مراد ہیں۔
۷۔ حضرت خدیجہ ابہ
۸۔ ام المین یا سیمہ
۹۔ حضرت علی کی والدہ۔ مروان
۱۰۔ میں سے ہے حضرت ابوبکر اسلام لائے تھے۔ اس میں حضرت ابوبکر کی سبقت الی اسلام کی فضیلت کا ذکر ہے۔
۱۱۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر کا مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا تھا کہ اس میں ابوبکر کی صحابہ شریک نہیں تھا۔ اور یہ کہ وہ سب صحابہ میں سے افضل ہیں۔
۱۲۔ حضرت ابوبکر کی

۱۲۷۷-۱۲۷۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترجمہ ۱۶۲۷-۱۶۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيرَةَ قَالَ

كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِزْرٍ ثَوْبًا مَخِيلاً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدًا شَقِيَ ثَوْبِي لَيْسَ رِجْلِي إِلَّا أَنْ أتعاهد ذلك منه فقال

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصْنَعِ ذَلِكَ خِيَلَاءَ قَالَ مُوسَى

فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ مِنَ جِزْرٍ أَرَاكَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرًا لِثَوْبَةٍ (مترجمہ ۱۶۲۸-۱۶۲۹)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مترجمہ ۹۴۲-۹۴۳) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ بِالسُّخَّرِ قَالَ السُّخَّرِيُّ يَعْزِي

بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ اللَّهُ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَقَالَ

عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلِيَبْعَثَهُ اللَّهُ فَلْيَقْطَعْ عُنُقِي وَرِجْلِي

وَأَرَجَلَهُمْ فَأَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ يَا بَنِي

أُمَّتِ وَأُمَّي طِبْتُ حَيًّا وَهَيَّيْتُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدِينُكَ اللَّهُ الْمَوْتَيْنِ ابْنِ

الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ

کی طرف سے جیسا کہ ۱۲۷۷ء کے نوٹ میں بیان ہو چکا ہے واللہ یغفر له ضعفه میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روہی کی حالت میں ان کی حفاظت فرمائے گا یعنی وہ مشکلات پر قاب آئیں گے۔ اس حدیث میں اوّل آنحضرت کے خود و دل کھینچنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے سخی میں اشارہ آنحضرت صلعم کے بعد آپ کی خلافت کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں۔ اور آنحضرت صلعم کا یہ فرمانا کہ میں نے ایسا پہلوان نہیں دیکھا بالکل واقعات کے مطابق ہے اس لئے کہ حضرت عمر کے عظیم الشان کارناموں کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں واقعی نہیں ملتا۔ جرتوب یا بجز آزار سے مراد یہ ہے کہ تہ بند کو اتنا نیچا چھوڑا جائے کہ وہ زمین پر گھسٹتا جائے یہ بڑا ہی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طرح لشکانے کی عرض دوسروں پر اپنی برائی کا اظہار تھا۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے فرمایا کہ تم نے کپڑے کا اس طرح ٹکڑے بٹکانے نہیں کرتے تو یا حضرت ابو بکر سے بکر کی نفی کی اور یہ امر بھی ان کے فضائل میں ہے۔ کھلم کھرا روایت تقریباً اپنی لفظوں میں دوہرائی گئی ہے۔ البتہ یہاں وہ من کان من اهل الصيام صحیح کے بعد من باب الصيام کا جملہ زائد ہے۔ میں حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کعبت کے ساتھ اور انہوں سے انہیں بلایا جائے گا۔ مسیح حوالیہ دین میں تزویج سے بنی حادثہ کے گھر میں حضرت ابو بکر کا گھر تھا جو مسجد نبوی سے ایک میل کے قریب ہے۔ یہ حدیث اختصار کے ساتھ لکھ کر رکھ لی ہے۔ دیکھو اس پر نوٹ ہے۔ ان کو خیال ہو کہ رسول اللہ صلعم کی موت کی خبر آنے والے دن منافق ہیں جو مسلمانوں میں بد امنی پھیلا نا چاہتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلعم زندہ ہو کر انہیں سزا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ چنانچہ اس کے آخر پر جو دو سری روایت آئی ہے اس میں یہ لفظ آئے ہیں لقد خوت عمر الناس وان فهم لتعاونا لعل لا يدینق الله الموتین ابنا الله علیک فقد تمناونول کا مطلب ایک ہو کر موت کے بعد انسان پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آتا اور دل سے پھر بار دوم موت کا مزہ کھینچتا ہوگا۔ یوں حضرت عمر کے اس خیال کی تردید کی کہ آپ دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آئیں گے اس سے بھی معلوم ہو کہ کوئی انسان منیکہ بعد اس دنیا میں زندہ ہو کر نہیں سکتا اور یہ بالکل قرآن

۱۲۷۷-۱۲۷۸
ابنہ صلعم بقول
بینا انا ناس
وایتنے علی قلب
علیہا وقتی صحت
منہا ما شاء اللہ
ثم اخذ ہا من
ابی قحافة فانزع
بہا ذو ثوب ای
ذوبین وفی
بضعہ ضعف
واللہ بغض لہ
ضعفہ ثم
استحالت غریبا
فانحوا ابن
الخطاب فلما ار
عبقرا من
الناس بیضع
نزعہ موحشی
ضوب الناس
بعضہ حضرت
ابوبکر کے قول کھینچنے
میں ضعف میں
اشارہ سلطنت
اسلامی کی کرہی

کی طرف سے جیسا کہ ۱۲۷۷ء کے نوٹ میں بیان ہو چکا ہے واللہ یغفر له ضعفه میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روہی کی حالت میں ان کی حفاظت فرمائے گا یعنی وہ مشکلات پر قاب آئیں گے۔ اس حدیث میں اوّل آنحضرت کے خود و دل کھینچنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے سخی میں اشارہ آنحضرت صلعم کے بعد آپ کی خلافت کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں۔ اور آنحضرت صلعم کا یہ فرمانا کہ میں نے ایسا پہلوان نہیں دیکھا بالکل واقعات کے مطابق ہے اس لئے کہ حضرت عمر کے عظیم الشان کارناموں کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں واقعی نہیں ملتا۔ جرتوب یا بجز آزار سے مراد یہ ہے کہ تہ بند کو اتنا نیچا چھوڑا جائے کہ وہ زمین پر گھسٹتا جائے یہ بڑا ہی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس طرح لشکانے کی عرض دوسروں پر اپنی برائی کا اظہار تھا۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے فرمایا کہ تم نے کپڑے کا اس طرح ٹکڑے بٹکانے نہیں کرتے تو یا حضرت ابو بکر سے بکر کی نفی کی اور یہ امر بھی ان کے فضائل میں ہے۔ کھلم کھرا روایت تقریباً اپنی لفظوں میں دوہرائی گئی ہے۔ البتہ یہاں وہ من کان من اهل الصيام صحیح کے بعد من باب الصيام کا جملہ زائد ہے۔ میں حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کعبت کے ساتھ اور انہوں سے انہیں بلایا جائے گا۔ مسیح حوالیہ دین میں تزویج سے بنی حادثہ کے گھر میں حضرت ابو بکر کا گھر تھا جو مسجد نبوی سے ایک میل کے قریب ہے۔ یہ حدیث اختصار کے ساتھ لکھ کر رکھ لی ہے۔ دیکھو اس پر نوٹ ہے۔ ان کو خیال ہو کہ رسول اللہ صلعم کی موت کی خبر آنے والے دن منافق ہیں جو مسلمانوں میں بد امنی پھیلا نا چاہتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلعم زندہ ہو کر انہیں سزا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ چنانچہ اس کے آخر پر جو دو سری روایت آئی ہے اس میں یہ لفظ آئے ہیں لقد خوت عمر الناس وان فهم لتعاونا لعل لا يدینق الله الموتین ابنا الله علیک فقد تمناونول کا مطلب ایک ہو کر موت کے بعد انسان پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آتا اور دل سے پھر بار دوم موت کا مزہ کھینچتا ہوگا۔ یوں حضرت عمر کے اس خیال کی تردید کی کہ آپ دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آئیں گے اس سے بھی معلوم ہو کہ کوئی انسان منیکہ بعد اس دنیا میں زندہ ہو کر نہیں سکتا اور یہ بالکل قرآن

ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَيَّ رَسُولُكَ فَلَمَّا نَكَمَهُ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ مُحَمَّدًا اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ

علا حضرت ابوبکر

پھر باہر نکلے اور کہا اے قسم کھانے والا میرا رسول ہے اور میں نے تم پر ایمان لیا ہے

کہ متعلق سب

وَآخِي عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ

صحابہ کا یہ خیال تھا کہ وہ سب

مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَلَنْ يَلِيَهُ اللَّهُ سِوَى لَا يَمُوتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ يَمُوتُونَ

رہے ہیں۔ ۱۱۔

اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تو زندہ ہے اس پر موت نہیں آئے گی بلکہ اور پڑھا انک مہیت وانهم ميوتن والوا

کان ابو بکر اولينا

وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْ قَاتَ أَوْ قِيلَ انْقَلِبْمْ عَلَيَّ

علا وہ عالم ہوئے

أَعْقَابَكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَيَّ عَقْبِي فَلَنْ يَصُورَهُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ قَالَ

حضرت ابوبکر نے اس موقع پر شجاعت

فَنَشِجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قَالَ أَجْتَمَعْتُ لِأَنْصَارِ آلِي سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي

بھی کمال دہری کی دکھائی کیونکہ اسی

سَاعِدَةَ فَقَالُوا مَتَى أَمِيرٌ وَمَتَى كَرِيمٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَسَمِعَ مِنْ الْخَطَّابِ وَأَبُو

وقت تو حضرت عمر کہہ چکے تھے کہ رسول اللہ صلعم فوت نہیں ہوئے

عَبِيدُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَاسْتَكْبَهُ أَبُو بَكْرٌ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ مَا أَرَدْتُ

اور لوگوں کا یہ خیال ہو گیا کہ آپ

يَذَلِكِ أَلَا أَرَى قَدْ هَيَّيْتُ كَلَامًا قَدْ أَجَلَيْتُ خَشْيَتِمْ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ

نی الواقع سے نہیں تو حضرت ابوبکر نے اس

فَتَكَلَّمَ ابْنُ بَلْعَةَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ خَيْرٌ الْكَلَامِ وَأَنْتُمْ الْوَزَرَاءُ فَقَالَ حَبَابُ

وقت لوگوں کے خیالات کی کچھ

ابْنِ الْمُنْذِرِ رَأَى اللَّهُ لَا تَفْعَلْ مِمَّا أَمِيرٌ وَمَتَى كَرِيمٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا لِكُنَّا الْأَمْرَاءُ

پر داعیوں کی با کلمہ حق کہہ دیا کہ اگر تم محمد کی پرستش کرتے تھے

وَأَنْتُمْ الْوَزَرَاءُ لَهُمْ أَوْ سَطَّ الْعَرَبُ دَارًا وَأَنْتُمْ حُصَاةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَبَا عَبِيدَةَ

تو محمد صلعم فوت نہ ہو گئے گویا بتایا کہ

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آپ تو صرف خدا تعالیٰ کی عبادت

خَرَجَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي مَيْتِ كَرِيمٍ كَمَا هُمْ أَحْسَبُ فِي مَيْتِ كَرِيمٍ كَمَا هُمْ أَحْسَبُ فِي مَيْتِ كَرِيمٍ كَمَا هُمْ أَحْسَبُ فِي مَيْتِ كَرِيمٍ

کی طرف بلا نیولے تھے اور معبود تو خدا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے پس رسول کی وفات پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلعم کی وفات پر بطور دلیل پیش کرنا صاف بتاتا ہے کہ آپ خود بھی اس بات کے قائل تھے کہ آنحضرت صلعم سے پہلے جس قدر رسول گذرے ہیں وہ سب

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فوت ہو چکے اور صحابہ نے بھی حضرت ابوبکر کے اس استدلال کی صحت کو تسلیم کیا جس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر صحابہ کا اجماع

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہے اگر ایک رسول بھی پہلے رسولوں میں سے زندہ ہوتا تو صحابہ میں سے کوئی ضرور اٹھتا اور کہا کرتا کہ نبی فلاں رسول مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور دوبارہ آجیں گے تو ہمارے رسول کیوں زلفہ نہیں یا کیوں دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ جیسا کہ حدیث کے آخر میں آتا ہے سب لوگ یہی آیت دیکھیں اگلا

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول قد خلت من قبله الرسل پڑھے ہوئے نکلے گئے کیونکہ وہ اس صداقت کا اقرار کر رہے تھے کہ آنحضرت صلعم سے پہلے کوئی رسول زندہ نہیں

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلطہ یہ تینوں اصحاب اس وقت گئے جب ان کو پھر پہنچ کر انصار کچھ مستعد کر رہے ہیں کہ ایسہ کون ہو تو اس وقت اسلام کی موت اور

فَقَالَ عُمَرُ مَيْلٌ نَبِيُّكَ أَنْتَ قَائِمٌ مَسِيدٌ وَأَخِي قَادٌ أَحْمَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زندگی کا سوال تھا اور یہی سوال سب باتوں پر مقدم تھا

فَاخذَ عُمَرُ بِيَدَيْهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ

حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بیعت کی اور لوگوں نے بھی بیعت کی تو کسی نے کہنے والے نے کہا آپ لوگوں نے سعد بن عبادہ کو

عَمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ رُوِيَ فِي رِوَايَةِ الْقِسْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ شَخْصٌ بَصُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

بارگاہ حضرت عمر نے کہا اللہ نے اسے مار ڈالا علی اور قاسم کی روایت روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّبِيعِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا قَضَى الْحَدِيثُ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهَا

کی نگاہ ایسے کہ اس میں مرتبہ فرمایا ربیع اعلیٰ میں اور حدیث بیان کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی خطبہ ان دونوں راویوں کو اور عمر کا میں

مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتَدُوا لِنَفَاثَةِ قَوْمِ اللَّهِ بِنِكَ

تھا مگر اللہ نے اس سے فائدہ دیا حضرت عمر نے لوگوں کو ڈرایا کہ ان میں نفاق تھا اور اللہ نے ان کا خیال اس سے حق کی طرف پھیر دیا اور

ثُمَّ لَقَدْ بَصُرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ لَهْدًا وَعَرَفَهُمُ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَجَّوْا بِهِ يَتَأَوْنُ وَمَا

حضرت ابو بکر نے لوگوں کو یہ آیت کی راہ دکھائی اور ان کو وہ ذمہ داری عموماً کرانی جو ان پر تھی اور وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے دھا

عَمَدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ (۱۶۳۹) الْحَمْدُ لِلَّهِ

محمد اور رسول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الشاکرین تک محمد بن حنفیہ سے روایت

الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ يَا لَيْ آيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

ہے کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا کیا لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہیں کہا

قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشَيْتُ أَنْ يَقُولَ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا الرَّجُلُ مِنَ

ابو بکر میں نے پوچھا پھر کون کہا عمر میں ڈر کر اب عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا پھر آپ ہیں تو فرمایا میں تو مسلمانوں میں سے صرف ایک

السَّلِيمِينَ (۱۶۳۹) عَنِ عَائِشَةَ (۲۲۷۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

شخص ہیں علی دیکھو حدیث ۲۲۷۴ ابو سعید خدری سے روایت ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَإِنِّي أَهْلُكُمْ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو تم میں سے اگر کوئی اہل کے برابر ہونا چاہی

أَنْتَقِ وَهَلْ أَحَدٌ ذَهَبًا قَابِلُهُ مَدَّ أَحَدُهُمْ وَلَا يَصْبِقُهُ (۱۶۳۹) عَنِ ابْنِ مَوْسَى الْكَلْبِيِّ

ترجیح کرنے تو وہ نہ ان سے ایک مدد غلام کے برابر ہو سکتا ہے نہ آدھے کے ملے ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے

۱۔ سعد بن عبادہ انصار میں سے قبیلہ خزرج کا اس وقت سردار تھا ان کا قبیلان کے منشا سے انہیں امیر بنا نا چاہتے تھے اور ان میں نے سیرت میں لکھا ہے کہ اسید بن حضیر بن عبد اششل کے سمیت جو قبیلہ اوس میں سے تھے حضرت ابو بکر کی طرف مائل ہو گئے ابن عباس کی روایت میں ہے کہ سائے انصار ہم سے الگ ہو چکے ہو سکتا ہے کا منشا ہے کہ سعد کو امیر بنائیں اور حضرت ابو بکر اور عمر کے جانے کے بعد قبیلہ اوس الگ

ہو گیا ہو۔ عرب سوائے قریش کے اور کسی کی خلافت اور امارت کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہ تھے اور اگر ایک امیر انصار کا ہو جاتا اور دوسرا ہاجرین میں سے تو اسلام کی ساری کامیابی وہیں ختم ہو جاتی۔ جماعت دو ٹکڑے ہو کر نہ ٹھن کا مقابلہ کر سکتی نہ ہی کوئی قدم ترقی کا اٹھا سکتی حضرت ابو بکر نے صرف اس ایک اصولی بات پر زور دیا کہ وہ امیر نہیں ہو سکتے اور ایک امیر ہو گا تو صرف قریش میں سے ہو سکتا ہے کیونکہ عرب کے ملک میں اگر کسی قوم کو دوسری اقوام پر کوئی برتری حاصل تھی جس سے وہ سلطنت کرنے کی اہل سمجھی جاتی تو وہ قریش کو حاصل تھی۔ قتلتہم سعد بن عبادہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سعد کو ناکام کر دیا۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا قتلتہ اللہ یعنی اللہ نے اسے ناکام کیا۔ علیؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کی انصافیت کی شہادت یہاں حضرت علی نے بھی دیکر صحابہ کی طرح وہی ہے۔ حضرت علیؑ خود بھی بہت اعلیٰ فضائل کے مالک تھے کس نفسی سے انہوں نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں ایک شخص ہوں یہ بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ علیؑ مکرر روایت تقریباً انہی الفاظ سے دوہرائی گئی ہے۔ باب تعلق حدیث کے ان الفاظ سے ہے ماہی بادل برکتہ یا آل ابی بکر اور یہ تم کی آیت کے نزول کے ذکر میں ہے۔ علیؑ نظار اس حدیث کا تعلق عنوان باب سے کچھ نہیں کیونکہ اس میں ذکر صحابہ کی فضیلت کا ان کے غیر پر ہے حضرت ابو بکر کے فضائل میں اس کا اسٹے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہی جن کے احسانات مسلمانوں پر اس قدر ہیں براگما جاتا ہے۔ اہل ہاتھ کے برابر ہونا ترجیح کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ ایک وقت مسلمانوں پر آنے والا تھا جب ان کے گھر سوتے سے بھر جانے لگتے تو اس وقت خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی آسان تھا۔ ابتدا میں جن لوگوں نے خرچ کیا وہ ایسی ضرورت کا وقت تھا کہ جب دین اسلام کی زندگی ہی معرض خطر میں تھی پھر ان لوگوں کے پاس مال بھی کچھ نہ تھا۔ بہت سے تھے جو بازار میں جا کر مزدوری کر کے ایک سیر غلام کر لاتے تو آدھا خدا کی راہ میں دیدیے اور باوجود اس تنگی کے خرچ کرتے ہیں۔ الشرح صدر اسقدر تھا کہ خدا کی راہ میں دیکر خوش ہوتے تھے یہ بات اس کیفیت کے ساتھ پھر صحیح ذہنی

أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَا تَزِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كَوْنَهُ

کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر نکلے اور ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوں گا اور آج سارا دن

مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فِجَاءَ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا خَرَجَ

آپ کے ساتھ رہوں گا کہ پھر وہ مسجد میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھا تو انہوں نے کہا باہر نکلے ہیں

وَوَجَّهَهُ هَهُنَا فَخَرَجَتْ عَلَيَّ أَثَرُهُ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَ أَدْرِيسَ فَجَلَسَتْ عِنْدَ

اور ادھر گئے میں سو میں آپ کے پیچھے نکلا اور آپ کے متعلق دریافت کرتا رہا پتہ لگا کہ آپ ادیس کے گھر سے گئے ہیں صلی

الْبَابِ يَا بَاهِمَنْ جَرِيدٌ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ

میں دروازہ پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ کھول کر کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے

فَقَمَّتِ الْبَيْتُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى بَيْتِ أَدْرِيسَ قَوَّضَتْ قَفَّهَا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ دُكُلَهَا

دھو گیا میں اللہ کے آپ کی طرف گیا آپ ادیس کے گھر پر اس کے منڈیر کے عین درمیان بیٹھے ہوئے تھے دو دن پنڈلیاں کھولی

فِي لَيْلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انصرفت فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا كَوْنَهُ بَوَّابٌ

ہوئی تھی اس دن کو میں میں نکلتی رہتی تھی میں نے آپ کو سلام کیا پھر لوٹ آیا اور دروازہ پر بیٹھ گیا اور ارادہ کیا کہ آج میں رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ فِجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو

صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا میں حضرت ابو بکر کے اور دروازہ کو دھکیلا میں نے پوچھا کہ میں کیا ابوبکر

بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ لَيْسَتْ إِذْنُ فَقَالَ

میں نے کہا تو اٹھ بیٹے پھر میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں فرمایا

إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لَابِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو میں آیا اور حضرت ابو بکر سے کہا اندر آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَدْ خَلَّ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسْتُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جنت کی خوشخبری دیتے ہیں حضرت ابو بکر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقَفِّ وَدَلِي رَجُلِيَّةٌ فِي الْبَيْتِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

گئے اور اپنے پاؤں کونے میں ٹکائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا

وَسَلَّمَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَرْضِي يَتَوَضَّأُ وَيُحْفَنُ فَقُلْتُ

اور اپنی پنڈلیاں بھی کھول دیں میں واپس جا کر بیٹھ گیا دیکھ سے آئے وقت میں اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے پوچھ

إِنَّ يَرُدُّ اللَّهُ بَعْلَانَ خَيْرًا يَرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَإِذَا الرَّسُلُ يَخْرُجُ الْبَابَ فَقُلْتُ

آیا تھا کہ وہ میرے پیچھے آئے ہیں نہ کہا اگر اللہ کو خواہ کی بھلائی منظور ہو مراد اپنا بھائی تھا تو اسے بھی یہاں لے آئے گا اتنے میں یک

مَنْ هَذَا فَقَالَ هُوَ بَنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

آئیے اور دروازہ لایا میں نے پوچھا کہ کون ہیں کامہر بن الخطاب میں کہا تو اٹھ بیٹے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَيْسَتْ إِذْنُ فَقَالَ إِذْنُ لَهُ وَ

آپ کو سلام کیا اور عرض کیا عمرا نے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں فرمایا انہیں اجازت دو اور

بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَدَخَلَ وَبَشِّرُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ

جنت کی خوشخبری دو میں لایا اور کہا اندر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں

ار میں کتا کتا
قباء کے قریب
تھا اسی میں حضرت
عثمان سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
کی انگوٹھی گر پڑی
تھی
کتا ب لادو ہیں
آتا ہے۔ وسلم
یا عرونی۔ یعنی
آنحضرت نے مجھے
کو دربان بننے
کا حکم نہیں دیا تھا
میں اونچو دربان
بننا۔ اور منقہ
عثمان میں آتا ہوں
وخل حانطاد
امروہ عیظ باب
الحانط آپ
بارغ میں گئے۔
اور ابو موسیٰ کو
یاغ کے دروازہ
کی حفاظت
کا حکم دیا۔
دونوں روایتوں
میں یوں تطبیق
ہو سکتی ہے۔
کہ میں ابو موسیٰ
کے دل میں
دربان بننے
کا خیال آیا اور
اور بعد میں
نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم
نے بھی ان کو
حکم دیا ہے

فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَفِّ عَنْ تِسَارَةَ وَوَدَى رَجُلِيهِ
وہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منڈیر پر آپ کے بائیں بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں توہیں

فِي الْبَيْتِ ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَلَسَتْ فَقُلْتُ إِنَّ يُرِدُ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا أَيَّامَ بَعْثَاءِ
میں لٹکا دیئے پھر علی لوٹ کر بیٹھ گیا اور کہا اگر فلان کی بھلائی اللہ کو منظور ہے تو اسے لے آئے گا

إِنْسَانٍ يُخْرِكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ كَيْلَ رَسَلِكَ
اتنے میں ایک آدمی نے آکر دروازہ کھولا یا میں نے پوچھا کہ کون ہیں کہا عثمان بن عفان میں نے کہا ذرا اٹھ بیٹھے

فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَسْذَنُ لَكَ وَبَشِيرَةٌ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی فرمایا انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری

بِالْجَنَّةِ عَلَى بِلْوَى تَصِيبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشِيرَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
دو مگر ایک مصیبت کے ساتھ جو ان کو پہنچے گی میں آیا اور ان سے کہا اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ عَلَى بِلْوَى تَصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مَلَأَ فِجْلَسَ
جنت کی خوشخبری دیتے ہیں ایک مصیبت کے ساتھ جو آپ کو پہنچے گی وہ اندر آئے اور منڈیر کو بھرا ہوا پایا تو آپ کے

وَجَاهَةٌ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرَجَ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فَأَوْلَتْهَا قَبُودَهُمْ
سامنے دوسری طرف بیٹھ گئے شریک نے کہا سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے اس کی تعجب ان کی قبروں سے کی ہے

۱۶۴۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحَدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَصَحْبُهُ
انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُحد پر چڑھے اور حضرت ابو بکر اور صحابہ

وَمَعَهُمْ فَرَجَعُوا بِهِمْ فَقَالَ ثَبْتُ أَحَدًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ
اور عثمان بھی چڑھے تو وہ بلا آپ نے فرمایا اُحد اٹھ بیٹھ کر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں

(۱۶۴۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْرُمٍ (رَهْتَكُو) (۱۶۴۴) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ
ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے

لَوِ اِقْتَفَى فِي قَوْمٍ فَدَعَا اللَّهُ لِعَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ وَضَعَهُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ كَأَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي قَوْمٍ
کچھ لوگوں میں کھڑا تھا تو انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعا کی اور ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اتنے میں میرے پیچھے سے ایک شخص

وَضَعَهُ مَوْفِقَهُ عَلَى مَكِّيَّةٍ يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ لَا رَجْوَا أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ
نے اپنی کتھی میرے کندھے پر رکھی اور کہنے لگا اللہ تم پر رحم کرے مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا

لَا فِي كِتَابٍ مَّا كُنْتَ أَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَحْبُهُ
کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا کہ فرماتے ہیں تھا اور ابو بکر اور عمر میں یہ کیا

وَأَبُو بَكْرٍ وَصَحْبُهُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَحْبُهُ فَرَأَيْتُ كُنْتَ لَا رَجْوَا أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ هَمَّا
اور ابو بکر اور عمر نے میں گیا اور ابو بکر اور عمر

فَأَلْتَقَيْتُ فَادَّاهُو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (۱۶۴۷) عَنْ عَمْرِو بْنِ سُرْدَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
میں نے بھر کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے

عمرہ بن زبیر سے روایت ہے کہ

کے لفظ قرینا ایک ہیں اور آخر رضویا الناس يعطن کے بعد یہ فرماتا ہے قال ذهب العطن بريك انما بل يقول حتى رويت الا بل فاذا خن حتى عطن کے معنی ہیں۔

اور انہوں نے سیرت بکر ہانی بی لیا پھر وہ اپنے بیٹھنے کی حرکت بیٹھ گئے ہندھ متاب عمر کی روایت میں یہ لفظ آتے ہیں۔

وضع عمرہ بن زبیرة فتكف الناس بين عيون ويميلون قبل ان يرضه حضرت عمر کا جوازہ چار پائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا لوگ دعا کرتے تھے

اور کھٹ بھیج رہے تھے۔ اٹھنے سے پہلے تک حضرت علی کے ان لفظ تائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اور ان کے اٹھانے کی طرف اشارہ

ہے اور اس معیت پر حضرت علی نے اس سے استدلال کیا کہ انھوں نے صدمہ ہر ایک کام میں لینے سا، حضرت ابو بکر اور عمر کو سٹھ کیا، بناتے تھے۔

۱۶۴۱ اس میں ان کے خلاف فتنہ برپا ہونے کی ہنگامی تھی۔ ۱۶۴۲ یعنی جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آنحضرت صلعم کے دائیں اور بائیں منڈیر پر بیٹھے اس طرح ان دونوں کی قبریں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اور حضرت عثمان کے لئے وہاں جگہ نہیں تھی اسی طرح ان کی قبر کے لئے بھی رسول اللہ صلعم کے روضہ مبارک میں جگہ رہی۔ ۱۶۴۳ ابوبکر اور دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان میں اس کے الفاظ ۱۶۴۴ سے ملتے ہیں۔ خواب میں دیکھنے کا ذکر نہیں۔ مگر ابتدا یوں ہوتی ہے۔ بینما انانظا یترانزعم منہا جائی ابو بکر وعمر فاخذا ابوبکر اللہ لو اس کے بعد

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں نے عبد اللہ بن عمرو سے سخت ترین دکھ کے متعلق دریافت کیا جو مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا

وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيضٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لِيَصِلُ

کما میں نے عقبہ بن ابی معیض کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ نماز پڑھ

فَوَضَعُ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَنَقَطَهُ بِأَخْصَقِ أَشْدِيدٍ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ دَفَعَتْ عَنْهُ فَقَالَ

رہے تھے تو اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈال دی اور زور سے آپ کا گھوٹا تو حضرت ابوبکر آئے اور اس کو آپ سے دھکیل دیا اور کہا

أَنْتُمْ تَوْنٌ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (۶۲) يَا بَنِي

تم ایسے ٹھنڈے کو تن کرتے ہو جو کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھینچے لاکھ لاکھ نیکو کاروں کی بات

مَنْ أَقْبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبِي حَفِصٍ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ (۶۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

حضرت عمر بن خطاب ابو حفص قریشی عدوی کے فضائل میں جابر بن عبد اللہ سے روایت

اللَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا يَا لِمِصَاءِ

میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور دیکھتا ہوں

امْرَأَةً ابْنِي حُلَيْةٍ وَسَمِعْتُ خَشْفَةَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا ابْنُ لَيْلَى وَدَائِتُ قَصْوَا

کہ مریماء ابوطحی کی بیوی جو جو رہے اور میں نے آہٹ سنی تو پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا یہ لیلالی ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا

يَفْتَانِيهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظَرَ إِلَيْهِ

جس کے ہمیں میں ایک لڑکی تھی میں نے پوچھا یہ کس کے لئے ہے کہ یہ حضرت عمر کے ہیں نے جا ہا کہ اس کے اندر جاؤں اور اسے دیکھوں

فَزَكَرْتُ عَيْدَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغْلَا

تو مجھے آپ کی غیرت یاد آئی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بن باپ آپ پر قرآن ہوں کیا میں آپ پر غیرت کر دوں گا

(۶۲-۱۱۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۶۹) (۶۲-۱۱۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۱۳۱

عُمَرَ (مُتَكَوِّرًا) (۶۲-۱۱۳۳) (۱۲۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۶۹)

دیکھو حدیث ۱۱۳۳

۱۱۳۱ حضرت صلعم نے کہا کہ ہاتھ سے اس سے بھی برا بھلا کر سکتے ہیں اٹھائیں مگر یہ گویا آپ کو مار ڈالنے کے ارادہ سے کیا گیا تھا تو حضرت ابوبکر بھی اس وقت آپ کی مدد کو پہنچے یہ عقبہ بن عدس مارا گیا ہے

۱۱۳۲ حضرت عمر کا سلسلہ نسب یہ ہے عمرو بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن دیاح بن عبد اللہ بن قریظ بن ازاہ بن عدس بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک عدی کے دو سر کے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں اس لحاظ سے

حضرت عمر کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلعم سے آٹھویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ عدی جو حضرت عمر کے جد اعلیٰ تھے قریش کے مختلف کاموں میں سے سفید سفارت کے افسر تھے یعنی قریش کو کسی قبیلہ کے ساتھ کوئی ملکی معاہدہ پیش آتا تو یہ سفیر میں کہ جایا کرتے تھے۔ ۱۱۳۱ اس حدیث کا آخری حصہ ۱۲۶۹ میں گذر چکا ہے اس کے لفظ ۱۱۳۱ کے ہیں جملہ قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا اور باقی حضرت عمر کو دے دیا اور اس کی تعبیر علم سے کی جملہ یہاں مگر روایت کے شروع میں یہ لفظ ہیں۔ ادیت فی المنام انی انزعہن لوبکوة علی قلبی فہا ابوبکر۔ مجھے خواب میں دکھا یا گیا کہ میں ایک کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں جس میں بکرہ بھی کا چرخ لگا ہوا ہے، بکرہ وہ گول لکڑی ہے جس سے ڈول لٹکا دیتے ہیں۔ آخر میں عقبی کی تشریح کی ہے۔ قال ابن جبیر العبقری عن ابن الزراری وقال حبیب الزراری الطنائف لہا حجل رقیق مینوثة مشہورہ وھو سید القوم اعنی العبدی۔ سورہ الرحمن۔ انہیں عقبی کا لفظ آیا ہے۔ منکثین علی رفوف خصوی وعبقری حسان۔ چونکہ میں حضرت عمر کے متعلق عقبی کا لفظ آیا ہے اسی مناسبت لفظ عبدی کی تفسیر کی ہے۔ جو الرحمن۔ انہیں میں آیا ہے۔ عنان الزراری۔ عنان جمع ہے عنیقہ کی اور عنیقہ کے معنی ہیں حسنہ یعنی خوبصورت، اور الزراری ذریعہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ابساط العریض لفاخر۔ جو اولاد میں قیمت قریش میں عنان الزراری کا معنی ہونے خوبصورت قریش۔ اور ابی بن زیاد فرماتے ذوالی کے معنی کئے ہیں۔ الطنائف لہا حجل رقیق یعنی آپ کے جن کے باریک باریک ہاشے ہوں اور مینوثة کے معنی کئے ہیں کثیرہ یعنی کثرت سے اور آخر میں لفظ برعائے ہیں۔ وھو سید القوم اعنی العبقری یعنی عقبی قوم کے سردار کو کہا جاتا ہے کہ عقبی۔ جو معنی یہاں حدیث میں مراد ہے وہ سید القوم ہیں۔ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے

(۱۶۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے
كَانَ فِيهَا مِنْكُمْ مِنْ الْأَمِيرِ مُحَمَّدٍ ثَوْنٌ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَادْرَأْهُ مِمَّا زَكَّرْتُمُوهُ

پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر سے
ابن ابی زایدہ عن سعید بن ابی سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلون من غير

تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے آدمی تھے جن سے مکالمہ لائیں ہوا کرتا تھا بغیر
أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَحَصْرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ

اس کے کہ وہ نبی ہوں تو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہے تو عمر ہے ابن عباس نے پڑھا من
بني دلا حدیث علی (متکرر۔ ۱۷۳۸) (متکرر۔ ۱۱۲۸) (م۔ ۱۷۳۸)

دیکھو حدیث ۱۱۲۸ علی
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متکرر۔ ۲۱) (۱۶۴۹) عَنْ السُّورِيِّ فَقَالَ لَنَا

دیکھو حدیث ۲۱ علی سوربن خرم سے روایت ہے کہ صاحب

نہی تو میں مگر اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے۔ گویا وہ اوّل اللہ میں جن کے مستحق قرآن شریف میں ہے لہم البشیر فی الحیوة الدنیارینس (۶۲۸) اکھونیا
کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں جس کی تصریح صحیح حدیث میں یوں ہے لہم من النبوة الا النبوات۔ گویا وہ نبوت کا ایک جزو ہیں۔ نبوت
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ہوگی۔ مگر مبشرات باقی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے انفرادی بندوں سے مہکلام ہوتا ہے گمانی کو اس حدیث میں محدث کہا ہے۔
اور دوسری جگہ فرمایا متعل علیہم اللہ انک لا تخرؤا الا تخرؤا..... مٹھن اولیا وکفری الحیوة الدنیارحم السجدہ (۳) یعنی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہی نبیا
کی زندگی میں ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی ذریعہ لاکر ہی ہوتی ہے۔ یہ تصریح صفائی سے ثابت کرتی ہے کہ محدث وہ غیر نبی ہے جو اللہ تعالیٰ
سے مہکلام ہوا اور باوجود ختم نبوت کے اس امت میں اللہ تعالیٰ کی ہمکلامی اور وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا پس اصطلاح شریعت میں محدث خدا سے مہکلام ہونے والا
ہے جو نبی نہ ہو۔ البتہ لغت میں محدث کے معنی اور کئے ہیں ہوا الرجل الصادق الظن دھوی الفی فی روعہ شقی من قبل ہلاک علیہ اور ابن اثیر لغت
حدیث میں کہتے ہیں جاء فی الحدیث تفسیر انہم ملہمون۔ محدث کی تفسیر حدیث میں ملہم ہے۔ مگر علم کے معنی کہے ہیں والملہم هو الذی یبلغ فی نفسه الشی
فیحدیثہ بعد ما فرستہ لگی کھلی ہمکلامی لغت کے معنی کے رو سے مسلم نہیں مگر حدیث سے اسے کلام قرار دیا گیا دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ فرمایا کہ پہلی امتوں میں
یہی محدث ہوتے تھے یعنی ایسے لوگ جس سے اللہ تعالیٰ ہمکلام ہوتا تھا مگر وہ نبی نہ ہوتے تھے حالانکہ پہلی امتوں میں انبیاء بھی برابر ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کی
مثال قرآن شریف میں موجود ہیں جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ سے واوحینا الی اہموسی (القصص۔ ۷) واذا وحیت الی الخوالین (المائدہ۔ ۱۱۱) حالانکہ حضرت نبوی
کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کے حواری نبی نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی توجہ پہلی امتوں میں ہاوجود نبیوں کی موجودگی کے لیے غیر نبی بھی ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ سے
ہمکلام ہوتے تھے یا جن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا تو اس امت میں ایسے لوگوں کا وجود اور بھی زیادہ ہونا چاہئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ایسے لوگوں میں
سے ہونا بیان فرمایا ہے اور حضرت مجدد الف ثانی اپنے کتبہ بات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ کثرت ہمکلام ہوتا ہے تو ایسا شخص
محدث کہلاتا ہے۔ چنانچہ مکتوب پناہ و کیم میں ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اعلم ایہا الاخر الصدید ان کلامہ سبحانہم البشود یكون شفاه ذالک الا فراد من
الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات۔ وقد یكون ذالک لبعض المکمل من صفات ہبہما التبجیة والبر اذ۔ ایضا واذا انش هذا القسم من الکلام مع واحد منہم
سعی محدثا کہا کہ ان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے معلوم ہوا کہ محدث وہ ہے جس کے ساتھ کثرت مکالمہ الہیہ ہو اور فی الحقیقت عرف
عام میں ایک نام جو محض ہونے کسی کا نام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں اس صفت کا کثیر حصہ موجود ہو۔ صرف ایک مرتبہ دوم مرتبہ اس کے معنی پائے جائیے کسی کا نام
نہیں ہو سکتا نیز محدث کی وحی دخل شیطانی سے اسی طرح پاک ہوتی ہے جس طرح انبیاء اور رسول کی وحی دخل شیطانی سے پاک ہوتی ہے ابن عباس کی قرأت من نبی
ولا محدث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ دخل شیطانی سے محفوظ ہونے میں۔ محدث کی وحی نبی اور رسول کی وحی کی طرح ہے۔ اور ماں حدیث کے لفظ رجال بکلون
من غیر ان بکونوا انبیاء میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بعض افراد امت سے کلام تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انبیاء سے ہوتا ہے اور ان کی وحی بھی انبیاء کی
وحی کی طرح پاک ہوتی ہے مگر وہ نبی نہیں ہوتے۔ پھر بعض محدثین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص نعمت دین کے لئے مامور اور مرسل ہوتے ہیں (باقی برص ۸۵۹)

علاحدث کے معنی ہے
تو خود آنحضرت صلی
نے فرمادیتے ہیں۔
ایک روایت کی رو
سے آپ نے فرمایا
کہ ان لوگوں میں جو
تم سے پہلے تھے
ہوتے تھے اور دوسری
میں فرمایا ان لوگوں
میں جو تم سے پہلے
تھے ایسے لوگ ہوتے
تھے کہ اللہ تعالیٰ
ان سے کلام کرتا
تھا مگر وہ نبی نہ
ہوتے تھے۔ تو
معلوم ہوا کہ محدث
وہ شخص ہے جو

طعن عمر جعل یا ام تقال لہ ابن عباس کاتہ یخزعه یا امیر المؤمنین ولکن کان ذاک

حضرت عمر خنیف سے زخمی کئے گئے تو انہیں کیف محسوس ہونے لگی بن عباس نے ان سے عرض کیا گویا انکو کتلی تھے یا امیر المؤمنین اگر واقعہ

لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ ثم فارقتہ وھو عنک راض ثم

ہو بھی جلتے تو کیا فکر ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کی صحبت کا اچھا حق ادا کیا پھر آپ آنحضرت صلعم

صحبت ابابکر فاحسنت صحبتہ ثم فارقتہ وھو عنک راض ثم صحبت صحبتہم واحسنت

سے جدا ہونے میں مخالفت میں کہ آنحضرت صلعم آپ سے خوش تھے پھر آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ سے تو انکی مخالفت کا حق بھی ادا کیا پھر

صحبتہم ولکن فارقتہم لتفارقہم وھم عنک راضون قال امام اذکرت من صحبتہ

ان سے جدا ہوئے اور وہ آپ کو خوش تھے پھر اور ابوبکر کی صحبت میں انکی صحبت کا بھی آپ نے اچھا حق ادا کیا ان کے ساتھ جو آپ نے ہاتھ دئے تو ایسی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاک فانما ذاک من من اللہ تعالیٰ من علی واما ما

حاصل ہوا ہونے کے لئے کہ وہ آپ کو خوش کرے تو فرمایا وہ جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کیا اور آنحضرت کے خوش ہونے کا تو یا شرکاحسان ہو جو

ذکرت من صحبتہ ابی بکر رضاک فانما ذاک من من اللہ جل جلالہ من علی واما ما تری

اس نے مجھ پر کیا ہر اور وہ جو آپ سے حضرت ابوبکر کی صحبت کا ذکر کیا اور انکے خوش ہونے کا تو یہ بھی شرکاحسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا اور وہ جو آپ

من جزعی ہو من اجلک واجل اصحابک واللہ لو ان فی طلاع الارض ہیا لا فندیت بہ من

میری بھاری کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے ہر اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے اس کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا تو وہ میرا

عذاب اللہ عزوجل قبل ان ارآہ (۳۹-۴۰) عن ابی موسیٰ (متکثر) (۱۶۴۱-۱۶۴۲)

اللہ کے عذاب سے بچنے کیلئے تم میں پڑتا ہے اس میں سے دیکھوں ملے دیکھو حدیث ۱۶۴۱ ملے

عن عبد اللہ بن ہشام قال کتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھو اخذ لہ من الخبث (۱۶۴۳)

عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پر لٹے ہوئے تھے

من اذکرت من صحبتہ ابی بکر رضاک فانما ذاک من من اللہ تعالیٰ من علی واما ما

حضرت عثمان بن عفان ابو عمرو قریشی کے فضائل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رو کر کانوں کھڑکے اس کیلئے

ذلک انما یحفظہا عنہم وقال من جلی جیش العسرة فلان الحجة فجزع عثمان

جنت ہو تو حضرت عثمان نے اسے کھڑا دیا اور فرمایا جو پیش العسرة یعنی جوک کی فوج کیلئے سالانہ کیا کرے اس کیلئے جنت ہی تو حضرت عثمان

کو تین حصوں تقسیم کر کے ابن عباس نے بتایا کہ ہر حالت میں وہ لوگ جن سے حضرت عمر کا تعلق رہا آپ سے خوش رہے اور چونکہ یہ بات حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے دروازے

گھبراہٹ کے وقت پھر بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بیقراری کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں اچھا کاجل اصحابک سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کا صورت پیش آئے گی

کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ خلافت کے باقی میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے مگر اس معاملہ میں آپ نے یہ ایشیام کہہ کر جھگڑا پیدا نہ ہوا اور آپ کی فراست کام کر گئی

ملے یہاں روایت مختصر ہے۔ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائل من حیطان المدینۃ فجاء رجل فاستفق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افخ لہ ویشیء بالجنۃ

فتحت لہ فاذا ابوبکر فیشیء ہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم لہم جہاد ثم جاء رجل فاستفق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افخ لہ ویشیء بالجنۃ فتحفت لہ فاذا ابو

عمرو فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر لہ اللہ ثم استفق رجل فقال فی الخیر ویشیء بالجنۃ علی ابوی تصیبہ فاذا عثمان فاخبرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر لہ اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں نیت عبادت میں جا ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے کھڑے ہو کر نبی اور اسلام کے بعد ابوعبداللہ اور آپ کے لقب ذوالنونین تھا اس

وجہ سے کہ آنحضرت صلعم نے اپنی دو صاحبزادیوں کی شادی کیے بعد دیگرے آپ کر دی تھی۔ خاندان قریش میں انکا قبیلہ بنو امیہ ایک مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ آنحضرت

(تفسیر صفحہ ۸۵۹)
اور وہ امام زمان کا مرتبہ رکھتے ہیں جیسے کہ مجددین
ملے مکر روایت مختصر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما راع فی غنمہ حذال الذئب فاخذ منها شاة فاصطبغہا حتی استنقذہا فانعتقت الید للناس فقال لمن لہا وہ السبع لیس لہا راع غیری فقال الناس سبحان اللہ فقال النبی صلعم فانی اذ من بہ و ابوبکر و عمر وہ آثم ابوبکر و عمر
ملے مکر روایت تقریباً انہی الفاظ میں آئی ہے
رحا شیء ہذا
ملے اس حدیث میں حضرت عمر کی زندگی

چرچا ہائی کر تھی تو حضرت عثمان نے ایک ہزار دینار نقد اور اٹھ سو اونس اوڑھنے کے لئے یہ حدیث مفصل سے ملائیں گدھی ہے یعنی کتاب باب میں ہے

(۱۶۷۰) عَنْ أَبِي مُوسَى (متکرم - ۱۲۴۱) (۱۶۵۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ جَدْرِ بْنِ الْحِجَارِ

وکیعہ حدیث ۱۶۴۱ عید اللہ بن عبدی بن حبیب سے روایت ہے

۱۶۷۰ کسی قدر اختلاف ہے
نقلی سے حدیث

کر رہی ہے ان

النبی صلی اللہ علیہ وسلم

داخل حاکم و

امری بنی حفظ باب

الصالحین ورجل

یتاذن فقال لک

لذی شہو یا بجنۃ

فاذا ابوک ثم جلد

آخر یتاذن فقال

ان من لہ وبعبرہ

باجنۃ فاذا اعبر

ثم جاز ابو یتاذن

فکت ہینہ قدر

قال لئن لہ و

بشیرہ بالجنۃ علی

بنوی مستصیبہ

فاذا عثمان بن

عفان و فی وایۃ

ان النبی صلعم کان

فاعدل فی مکان فیہ

فامد انکھت

عن کتیبہ وریکتہ

فلما دخل

عثمان غطھا

بکعبۃ اللہ فخرت

صلی اللہ علیہ وسلم

کما

کما

کما

کما

کما

کما

کما

کما

کما

کما

کما

أَنَّ السَّوْدِيَّ بْنَ خُرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعْقُوبَ قَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ

کر سور بن خرمہ اور عبدالرحمن بن اسود

تکلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه فقصدت بعن حتى خرجت إلى

تو حضرت عثمان سے اگے بھائی ولید کے متعلق گفتگو کرے کیونکہ لوگ اس کی بہت فحاشی کرتے ہیں لہذا میں نے حضرت عثمان سے ملنے کا قصد کیا

الصَّلَاةِ قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ وَهِيَ نَيْصِيَةٌ لَكَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْرُوفٌ

یہاں تک کہ وہ نماز کیلئے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے اردوہ آپ کی غیر خواہی کیلئے ہے انہوں نے فرمایا ہے غصہ ابوی کہتا ہے میں

أَرَأَيْتَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَأَصْرَفْتُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عَثْمَانَ

سمجھتا ہوں کہ میں تجھ سے اشد کی بنا یا مانگتا ہوں میں وہاں گیا اور ان کے پاس گیا اتنے میں حضرت عثمان کا قاصد آیا

فَأَيْتَهُ فَقَالَ مَا نَيْصِيَّتُكَ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ نَائِبَةَ بَعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں ان کے پاس گیا تو فرمایا کہ وہ تمہاری غیر خواہی کی بات کو کسی سے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے

وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِنْ أَسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

ساتھ معورت فرمایا اور ان پر کتاب اتاری اور آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انشاء اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَاجَرَتْ الْهَجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ

آج آپ نے وہ ہجرتیں کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کے طریق عمل کو دیکھا

هُدْيِيهِ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَدْرَكَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اور بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شہادت کرتے ہیں فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ بَخَلَّصَ إِلَيَّ مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي

میں نے عرض کیا نہیں لیکن آپ کے رلائے ہوئے علم سے مجھے وہ باتیں پہنچی ہیں جو ایک کنوارے کی ہجرت میں بھی پہنچ جاتی

سِرِّهَا قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ

ہیں فرمایا انا بعد اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں بھی

مِنْ أَسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَنْتُ بِمَا بَعَثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهَجْرَتَيْنِ كَمَا

ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے انشاء اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور جو کچھ آنحضرت کو دیکر بھیجا اس پر ایمان لائے وہ ہجرتیں بھی کرائیں

حیات میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی صحبت میں پائی وہ حضرت عثمان کی چچا زاد بہن ام قتال کے بیٹے تھے وہ گویا حضرت عثمان کے بھانجے ہوئے اور حضرت عثمان ماموں

اسلئے ہجرت جہشہ کی روایت میں ان تکلمہ عثمان کے بجائے ان تکلمہ خالد ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو عشر مشرف میں سے ایک ہیں اور اہل علم وفضل میں سے

ہیں حضرت عمر نے انکو کونے کا والی بنایا تھا لوگوں نے ان کے خلاف حضرت عمر کے پاس شکایتیں کیں جو تحقیق کے بعد مدب بھولی نکلیں لیکن پھر بھی حضرت عمر نے

کسی سختی سے انکو اس عہدہ سے الگ کر دیا لیکن حضرت عمر نے وعیت کی کہ میں نے سعد کو کسی خیانت یا کمزوری کی وجہ سے معزول نہیں کیا اور میرے بعد جو خلیفہ

اسے چاہے والی کو فرمائے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اس وصیت کے مطابق سعد کو پھر والی کو فرمایا۔ عبدالرحمن سعد کے درمیان جو خوجا بنی تھے اور سعد کے درمیان

بیت المال کے متعلق کوئی جھگڑا ہوا جب حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو وہ دونوں پر ناراض ہو گئے اور سعد کو پھر معزول کر دیا۔ اور ان کی جگہ ولید بن عقبہ کو

حضرت عثمان کے رضاعی بھائی تھے والی کو فرما کر دیا لیکن ولید کے خلاف گرسے ہوئے تھے اس کے چال چین کے متعلق بہت سی شکایتیں کی گئیں۔ شراب پینے کا

الزام بھی ان پر لگا بلکہ ثبوت تک پہنچ گیا حضرت عثمان نے انکو معزول تو کر دیا مگر شراب پینے کی عداوتی ان پر جاری نہیں کی تھی غالباً وہ مزید ثبوت چاہتے تھے لیکن اس تاخیر

کی وجہ سے لوگوں کے لال میں حضرت عثمان کے متعلق شبہات پیدا ہوئے اور لوگوں کو سعد کے بجائے جو ایک بلند شخصیت کے مالک تھے ولید کو مقرر کرنے کی وجہ سے جو عمومی

حیثیت کا انسان تھا اسے سے شکایت تھی۔ عید اللہ سے سور بن خرمہ اور عبدالرحمن بن الاسود نے یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حضرت عثمان کو توجہ دلائیں کہ

ولید کو شراب پینے کی عذرا کیوں نہیں دی جاتی اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں

قُلْتُ وَصَحَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَأَكْشَيْتُهُ

تم نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا اور آپ سے بیعت بھی کی تو اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کی نافرمانی نہ کی

حَتَّى تُوَفَّاكَ اللَّهُ ثُمَّ ابْوَكْبُرٍ مِثْلَهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفْتُ أَقْلَيْسَ بْنَ مَرْثَدَةَ

ذ آپ کی نسبت دل میں کھوٹ رکھا تاکہ ایک کر اللہ نے آپ کو وفات دیدی پھر حضرت ابوبکر سے پھر حضرت عمر سے بھی اسی طرح معاملہ ہا پھر مجھے خلیفہ

مِثْلُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ

بنا گیا تو کیا مجھے اسی حق میں نہیں جس طرح انکو حاصل تھا میں نے کہا بیکر فرمایا تو یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہیں اور وہ جو کہنے

مِنْ شَأْنِ الْوَالِدِ فَسَأَلَ خَدِيجَةَ بِنْتِ أَبِي عَفْوَانٍ أَنْ تَدْعَا عَلِيًّا فَأَمَرَ أَنْ

ولید کی نسبت ذکر کیے تو اللہ چاہے تو ہم حق کے ساتھ اس سے باز رہیں کریں گے پھر حضرت علی کو بلا یا اور انہیں حکم دیا کہ ولید

يُعَلِّمُهُ الْكُتُبَ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي عَمْرٍو مَتَكُونُوا مِثْلِي فِي الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ

کریں گے لگو تمہیں انہیں ایسی کوئی بات کہو گئے

عُمَرَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا

عثمان بن مویب سے روایت ہے کہا مصر والوں میں سے ایک غصن آیا اس نے حج کیا تو کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا

فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَالَ هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَائِسُ

جو پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ قریش ہیں پو پوچھا یہ بوڑھا شخص ان میں کون ہے انہوں نے کہا یہ عبد اللہ

عُمَرُ قَالَ يَا ابْنَ عَمْرٍو إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ فَخُذْ شَيْءًا مِنْ شَيْءِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَالِدِ

بن عمر میں اس نے کہا عثمان بن عمر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کیا حضرت عثمان امد کے دن بھاگ گئے تھے

قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ

کہا ہاں پھر پوچھا آپ کو یہ علمی علم ہے کہ وہ بدر سے غیر حاضر رہے کہا ہاں کیا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ بیعت رضوان سے

بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ

غیر حاضر تھے اور وہاں موجود نہ تھے کہا ہاں کہنے لگا اللہ اکبر ابن عمر نے کہا ایدھر آئیں ہمیں کھوں کرتا تھا

لَكَ أَمَّا فَرَارَةُ يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْهَدْنَا أَنَّ اللَّهَ عِنَّا وَعَقْرُ لَهْ وَأَمَّا تَغْيِبُهُ عَنْ بَدْرٍ

ہوں امد کے دن جو وہ بھاگے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اسی معذرت فرمائی اور بدر سے ان کا

فَرَارَةُ كَانَتْ لِحْتِ كَرْبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مَرْضِيَّةً فَقَالَ لَهُ

غیر حاضر رہنے سے تھا کہ ابھی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں تو رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ أَحْمَرَ جَلٍّ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَمَاءُ وَأَمَّا

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انہیں ایسے شخص کا ثواب ملے گا جو بدر میں حاضر ہوگا اور اس کا حقہ بھی اور بیعت

تَغْيِبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ لَوْ كَانَ أَحَدًا أَعْرَبَ بَطْنٍ مَكَانَ مَنْ لَبِئْتُهُ مَكَانَهُ

رضوان سے ان کو غیر حاضر رہنا تو یہ بات ہے کہ اگر کسی وادی میں حضرت عثمان سے زیادہ عزت والا اور کوئی ہوتا تو حضرت ہی کو ان کی

فَبَعَثَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْوَالِدِ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ

مگر بھیجتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور بیعت رضوان اسکے بعد ہوئی جب

علاء حضرت عثمان نے دو ہجرت میں یعنی اول ہجرت حبش اور پھر ہجرت مدینہ تو یہ امر کے فضا میں سے ہجرت ولید حضرت عثمان کا رضاعی بھائی تھا حضرت عثمان نے اپنے سعد بن ابی وقاص کو کوڑا مارا اور کیا گمان میں اور عبد اللہ ابن مسعود میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضرت عثمان نے سعد کو معذول کر کے ولید کو کوڑا مارا اور مقرر کیا اس پر لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف چرمیوں شروع کر دیں کہ اپنے رشتہ دار کو کوڑا مقرر کیا اسی پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب میں خلیفہ ہوں تو با اختیار ہوں باقی ہا ولید کے منازب بیٹے کا واقعہ تو اسکے سخت اس سے باز رہیں کی جائے گی چنانچہ جب ہجرت ثابت ہوا تو اسے سزا بھی دی یہاں ہے کہ ولید کو اسی کوڑے

جب

۱۲۳۳ھ میں یعنی ابوبکر عمر عثمان کے بعد ہم صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے تھے

عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الِئْمَنِي هَذِهِ يَدُ عَثْمَانَ

حضرت عثمان کو کھینچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے

فَضْرِبْ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَذْهَبَ بِهَا الْآنَ مَعَكَ

اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے ابن عمر نے اس شخص سے کہا اب اس جواب کو اپنے ساتھ لیکر جاؤ

(۵-۴۲۲) عَنْ أَبِي سُرَيْبٍ (مَنْكُرٌ - ۱۶۴۲) (۸) بَابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتِّفَاقِ عَلَى

دیکھو حدیث ۱۶۴۲ باب بیعت کا قصہ اور حضرت عثمان پر اتفاق

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ مَقْتُلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَأَى ۱۶۵۱

اور اس میں حضرت عمر بن خطاب کے قتل کا ذکر ہے

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيِّهَا بِأَلْمَنِ يَدُهُ وَقَفَ عَلَى حَذِيفَةَ ابْنِ

عمر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو ان کے زخمی ہونے سے چند دن پہلے دیکھا

الْيَمَانِ وَعُثْمَانُ بْنُ حَنْظَلَةَ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا الْخَطْبَ فَإِنْ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ

اور عثمان بن حنیفہ کے پاس گھر سے ہو گئے فرمایا تم دونوں (عراق میں) کیا معاملہ کیا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم نے زمین پر کیا

مَا لَا تَطِيقُ قَالَا حَمَلْنَاهَا أَمْرَاهِي لَهُ مُطِيقَةٌ قَالَا فَبَدَا كَيْدُ فَضْلٍ قَالَ نَظَرْنَا أَنْ تَكُونَا

فیکس کیا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا ہم نے اس پر اسی قدر بوجھ ڈالا ہے جسے وہ برداشت کر سکتی ہے اس میں کوئی بڑا بوجھ

حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تَطِيقُ قَالَ قَالَا لَأَفْقَأَنَّ عُمَرَ لَنْ سَلَّمْنَاهُ اللَّهُ لَأَدْعُنَّ أَرْوَاهُ لَهْل

نہیں ہونگا اور اگر وہ اس قدر بوجھ نہیں بردھتا تو اسے پھانسی دے دیتے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا نہیں مسلط حضرت عمر نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے سلامت

الْعِرَاقِ لَا يَحْتَجُّنَّ إِلَى رَجُلٍ بَعْدَ مِيٍّ أَبَدًا قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَمِي

دیکھا تو میں عراق والوں کی ہڈیوں کا راسبا انعام کر چھوڑوں گا کہ وہ میرے بعد کبھی کسی مرد کی محتاج نہ ہوگی بلکہ کہا ابھی چار دن گزرے ہوتے تھے

أَصِيبٌ قَالَ لِي لَقَائِهِ قَابِلِينَ وَبَنَاتُهُ إِلَّا عَبْدًا اللَّهُ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةً أَصِيبٌ وَكَانَ

کہ وہ زخمی ہو گئے تھے میں رہتا دیکھتا تھا میرے اور ان کے بیچ میں صرف عبد اللہ بن عباس تھے جس دن صبح وہ زخمی ہوئے ان کی عادت تھی

رَأَى أَمْرَيْنِ الصَّقِيْنِ قَالَ سَتَوْا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَوْهُنَّ خَلَلَا تَقَدَّمُ فَلَمْ يَرَوْهُمَا قَرَأَ

کہ جب دو صفوں کے درمیان گزرتے تو فرماتے سیدھے ہوجاؤ جب ان میں کوئی خلل نہ پائے تو آگے بڑھ کر ابھرا کر کہتے اور اکثر

سُورَةُ يُونُسَ أَوْ النُّعْلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي لِرُكْعَةٍ أَوَّلِي حَتَّى يَحْتَمِمَ النَّاسُ فَمَا هُوَ

سورہ یونس یا النحل یا ایسی ہی کوئی سورت پہلی رکعت میں پڑھ کر کہتے تھے یہاں تک کہ لوگ جل جنت آپ نے مرت

ملکہ یہ معترض مصر کا رہنے والا تھا یہودیوں نے حضرت عثمان کی خلافت بغاوت کی اور انہیں شہید کیا اس شخص نے مصر میں کوئی بوجھ نہایت کرنے کیلئے اور حضرت عثمان کو قتل ہوا وہ ثابت کرنے کے لئے یہ تین اعتراض تھے اور ابن عمر نے اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے خوش ہو کر اللہ شاکر کہا لیکن ابن عمر سمجھ گئے اور انہیں اعتراض کا جواب دیا احد کے دن حضرت حضرت عثمان کی بیعت سے اور صحابہ بھی بھاگ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ انکی متعلق یہ آیت اتالی ان الذین تولوا مکتہ یوم التیغ الحما ان انا استزلہم الشیطا

بعض کسبوا ولقد عفا الله عنهم (۲) بدر سے وہ اس لئے غیر حاضر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں میرا نہیں۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ ان کے پاس اس کی خبر گیری اور تیاری کے لئے رہیں (۳) بیعت رضوان وہ بیعت ہے جس کا ذکر الطح ۸۰ میں ہے اور جو حدیبیہ کے مقام پر لیکر کے درخت کے نیچے ہوئی۔ آنحضرت عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے جس کا نام عمرہ حدیبیہ ہے اور قریش کے دو کشتیے پر حضرت عثمان کو جن کا خاندان قریش کا معزز ترین خاندان تھا صفائی کے لئے بھیجا گیا انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ اس پر آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ وہ ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے یہ بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیکر دوسرے ہاتھ پر رکھا اور اسے حضرت عثمان کی بیعت قرار دیا تو یہ حضرت عثمان کی فضیلت تھی نہ کوئی قابل اعتراض امر مسلط فقال ثبت ریماں اسکن ہی کے بعد یہاں ہی اظہر صوبہ ہر جملہ یعنی راوی کتاب ہے بلکہ یہاں ہی اس پر مارا جملہ حضرت عمر حج بیتا شریعہ میں آئے تو زخمی ہوئے چار دن پہلے انہوں نے حدیبیہ میں الیمان اور عثمان بن حنیفہ سے جب ہر طرف کی زمین کی پیمائش اور جمع ہونے کے لئے اور اس پر نراج لگا کر وہاں رہنے تو یہ بیعت فرمایا کہ خراج اس قدر تو مقرر نہیں کیا کہ زمین برداشت نہ کر سکے اور رعایا کو تکلیف ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے ناقابل برداشت دیکھ زمین پر نہیں لگا لکن زمین ساقی اس قدر نراج کو برداشت کر سکتی ہے ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حدیبیہ نے کہا لو شنت لا صدقت ارضی اگر میں چاہوں تو اپنے علاقے پر اس سے دو چند خراج لگا سکتا ہوں اور عثمان سے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ اگر آپ ہر ایک شخص پر دو روہم اور ہر ایک جریب پر ایک نیم اند بڑھادیں تو کیا وہ برداشت کر سکیں گے تو انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد ہوا کہ حضرت عمر اور آپ کے مجال خراج لگانے میں کفار رعایا کا خیال رکھتے تھے کہ جس قدر رعایا کا خیال رکھتے تھے اس سے بھی کم لگایا اور حضرت عمر بذات خود ہر ایک امر کی تحقیق کرتے تھے چنانچہ ہر سال جب خراج کا خراج آتا تو میں تمہارا شکر ہی کہہ دیتا اور اس سے ہر عرصے سے طلب کرتے اور انکو چار چار شریعتی رقم بنا کرتے تھے کہ اگر کسی کوئی فیہ مسلمان بظلم کرے تو میں لگی

إِلَّا أَنْ كَبُرَ سَمْعُهُ يَقُولُ تَتَكَلَّمُ أَوْ أَكَلَتْ الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعَجْرُ بِسِلْبَيْنِ ذَاتِ

اشد کبر ہی تھا کہ میں نے آپ کو سنا کہ مجھے کہتے تھے مار ڈالو یا فرمایا کاٹ لیا یا اس وقت تک جب انکو زخم لگا وہ مجھ سے غلام دیوہاری پھری لئے

طَرَفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَبِينَانَا وَلَا شَيْءًا إِلَّا الْأَطْحَدَةُ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا كَأَنَّات

بھاگا کسی پر نہ گذرنا تھا نہ وہ ایسا درد نہ بائیں ہنر سے دھری ہا ہا تھا یہاں تک کہ اس نے تیرہ آدمیوں کو زخمی کیا جن میں

مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بَرَسًا فَلَمَّا ظَنَّ

سے سات اڑ گئے جب ایک مسلمان شخص نے یہ حال دیکھا تو اس نے اس پر چادر ڈال دی جب مجھ سے غلام نے بھا

الْعَجْرُ أَنَّهُ مَا حُوِّدَ غَضْرُ نَفْسِهِ وَتَنَادَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَرَعَوِيٌّ فَقَدِمَا مَعَهُ فَمَنْ يَتَلَقَى

کہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اچانک ہکا کاٹ لیا حضرت عمر نے عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے کر دیا علیہ جرح حضرت

عُمَرُ فَقَدَرَأَى لَذَى أَرَى أَمَّا تَوَارِجِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَأْتُمْ لِيَأْيِدُونَ عِلْمًا قَدْ فَقَدُوا

عمر کے قریب تھے انہوں نے توجہ دیکھا سو دیکھا اور جو لوگ مسجد کی اطراف میں تھے انکو کوئی علم نہ تھا سوائے اس کے کہ انہیں حضرت عمر کی (قرابت کی)

صَوْتٌ عَمْرٌ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلِّ لِمُعْتَدِ الرَّحْمَنِ صَلَاةً خَفِيْفَةً

آواز نہ آتی تو انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا تب عبدالرحمن بن عوف نے انہیں مختصر نماز پڑھا لی

فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ نَظَرْتُ فِي خِمَالِ سَاعَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَ عِلْمًا

جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے کہا اب ابن عباس دیکھو مجھے جس نے مارا وہ تھوڑی دیر بھرتے رہے پھر آئے اور کہا کہ مغیرہ کے غلام نے

الْمُغَيْرَةَ قَالَ الصَّنْعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا مُحَمَّدٌ بْنُ

بہ چھپا اس کا رنگ نے ہا ابن عباس نے کہا ہاں فرمایا اٹھا سکو تاہم کہہ رہے ہیں تو اس کے معاملہ میں انھوں نے حکم پڑھا میں

لَمْ يُجْعَلْ مِثْلِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدْرِي لَأَسْلَامٍ قَدْ كُنْتُ أَنْتَ وَأَبُوكَ مُخْبِرَانِ أَنْ تَكْتُرُ

اشد کی تعریف ہے جس نے مجھے ایسے شخص کے ہاتھ سے قتل نہیں کرایا جو اسلام کا مدعی ہو ابن عباس تم اور تمہارے والد دونوں بید کرتے تھے کہ باری

الْعُلُوْبِ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ رَأَيْتُ شَيْئًا فَعَلْتُ أَيْ رَأَيْتُ

غلام دیکھنے میں کثرت سے ہوں اور سب ان کے غلام زیادہ تھے ابن عباس نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں راکہ نام کر دینا یعنی آپ چاہیں تو

قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَصَلُّوا قِبَلَكُمْ وَحُجُّوا حَيْثُ كُنْتُمْ فَاحْتَمَلْتُمْ

انہیں قتل کر دینے فرمایا غلطی کرتے ہو کہ اس کے بعد جب وہ تمہاری زبان بولنے لگے اور تمہارے قبیلہ کی طرف نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج

بِتَيْبِهِ فَأَنْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَيْهِ فَقَابِلُ يَقُولُ لَا

کرنے لگے غلط پھر انہیں اپنے گھر لایا اور ہم آپ کے ساتھ گئے اور ایسی حالت تھی کہ گویا کہ گویوں کو اس سے پہلے کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی

يَأْسُ قَابِلُ يَقُولُ أَخَاتٌ عَلَيْهِ فَأَتَى بَنِيهِمْ فَشَرِبَ مِنْ جُوفِهِ ثُمَّ أَتَى بِلَكْبَنِ

بھی کوئی مین کوئی ڈر نہیں کوئی گناہ مجھے ان کے متعلق اندیشہ ہے ضربت لایا گیا انہوں نے اسے پیا تو انکے پیٹ میں سے نکل گیا پھر وہ دھلا لایا گیا

عَنْ كُوفِيٍّ مِمَّنْ كُوفِيَ خُرَيْمِ بْنِ كُوفِيٍّ كُنْتُ مَعَهُ فِي حَرْبِ لَيْلِيَا كُنْتُ مَعَهُ فِي حَرْبِ لَيْلِيَا كُنْتُ مَعَهُ فِي حَرْبِ لَيْلِيَا

مدینہ آنے کی اجازت دیدیں لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ یہ تکبیر لوہاری ترکھانی اور نقاشی کا کام خوب جانتا ہے حضرت عمر نے اجازت دی بغیرہ نے

اس پر خراج مقرر کیا تھا۔ اس نے حضرت عمر کے پاس اس بات کی شکایت کی کہ مجھ پر خراج زیادہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے کام کی نسبت یہ خراج زیادہ

علا اس سے بھی معذوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بنی عباس کو کس قدر سوتیلی دنیا جانتے تھے خراج کی خصوصیت کے وقت یہ خیال ہو چھ زیادہ نہیں ہو بیوں کے انتظام کی بیگد کہ کوئی بگڑی انتظام ان کے ہاتھ کا ایسا ہو جائے کہ مردوں کی محتاج نہ ہوں اسی طرح آپ نے محتاجوں کا اور ضعیف لوگوں کا جو کمانے کے قابل نہ ہوں انتظام کر رکھا تھا علا ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بلوغ کو پہنچے ہوئے غلاموں کو دینے میں آنے دیتے تھے یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ نے جو کہ وہیں گورنر تھے ان کو کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو اچھا کاریگر ہے اسے

علیہ السلام میں
گزر چکا ہے وہاں
وہاں جا کر جل شاد
کی جگہ ہے دو پل
علیہ شباب من
اکانصار یعنی یہ
نوجوان انصاری
تھا۔ حضرت عمر کے
جواب کے لئے وہ
ان ذلک کفایت
لا علیہ لالی دیکھو
نوٹ علیہ السلام
نوجوان کو جو نصیحت
کی اس کا ذکر ۳۹
میں نہیں ہو مگر اس
وقت بھی جسے ت
سانے کھڑی ہو
کس قدر تقویٰ اللہ
کا خیال ہو فرمایا
دنیا اور دین دونوں
کی بتری اس میں
ہے ابقی لشوک
وانتقل لربک کبرا
بھی حدیث اب نہ
ہوگا اور مست کبر
خیالات سے بھی
بچے رہو گے +
علیہ ابن ابی شیبہ

فَشْرِبَهُ فَمَجْرَجٍ مِنْ جَمْرٍ فَفَعَلِمَهُ آتَهُ مَيْتًا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يَشْتَوْنَ عَلَيْهِ وَ
اور اسے پیا تو ان کے زخم میں سے نکل گیا تو سب جان لیا کہ وہ جاہل ہے مگر ان کے پاس گئے لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے ایک نوجوان
جاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ لَيْسَ بِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ بِبَشَرٍ وَاللَّهِ لَكُنْتُ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ
آیا اور کہا اے امیر المؤمنین اللہ کی بشارت سے جو آپ کیلئے ہے آپ خوش ہو جائیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مَرَّ فِي الْأَسْلَامِ وَمَا قَدِ عَلِمْتُ ثُمَّ وُلِيَتْ فَعَدَلْتُ فَمَشَاهِدَةٌ
علیہ وسلم کی صحبت کے اور اسلام کی طرف سبقت کے جو آپ جانتے ہیں پھر آپ کو حکام بنا یا گیا تو اپنے انصاف کا پھر شہادت
قَالَ كَرِهْتُ أَنْ ذَلِكُ كَفَاتُكَ لِعَلِّيْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَزَارُكَ يَمْسُلُ لَأَرْضَ قَالَ
ہے فرمایا کہ میں تو جاہل تھا ہوں کہ یہ برابر برابر ہی ہو گا اس کا کچھ مرد بال ہو نہ میرے لئے تو اب جو یہ وہ واپس جانے کا تو اس کا ترجمہ زمین
رَدُّوْا عَلَيَّ الْعُلَمَاءَ قَالَ ابْنُ أَبِي رُقَيْعَةَ تَوْبِكَ فَإِنَّهُ لَتَوْبِكَ وَأَتَقَى لِرَبِّكَ يَا
پر لگتا تھا تو فرمایا کہ اس نوجوان کو وہ پس بلا فرمایا جیتتا پنا کرا اور بخار کہ تیرا کھڑا ہی اچھا ہے گا اور تیرے رب کا تقویٰ بھی ایسی ہے۔ علی
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْظُرْ مَا عَلِمْتَ مِنَ الَّذِينَ فَحَسَبُوا كَفُودَهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ الْفَأَذُ
اے عبداللہ بن عمر دیکھو پھر کہتا فرض ہے اس کا حساب کیا تو اسے چھبیس ہی ہزار یا اس کے قریب پایا
ثُوكَا قَالَ إِنَّ وَفِي لَهٗ مَالٌ الْخُمْرُ فَأَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا فَسَلْ فِي بَنِي عَدْرِ بْنِ
فرمایا اگر اس کے لئے عمر کی اولاد کا مال پورا ہو سکتا ہے تو انہی کے اموال میں سے اسے اوکاڑہ دو تری مدنی بن کھوسے ہانگ
كَيْفَ فَإِنْ لَمْ تَفِمْ أَمْوَالَهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ لَأَنْتُمْ لَهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَأَذُ عَمَّوْهُذَ الْمَالِ نَطْلِقُ
بین اگر ان کے مال بھی کافی نہ ہوں تو قریش سے ہانگ بین اور ان کے سوا اوروں کے پاس نہ جاتا یہ مال میری طرف سے اوکاڑہ دینا ہے
الْمَوَالِئَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عَمْرُ السَّلَامِ وَلَا تَقْلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
حضرت عائشہ ام المؤمنین کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور امیر المؤمنین ذکر کو
فَأَنْتِ كَسْتِ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ
کیونکہ آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں علیہ کو کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے کہ اپنے دونوں رفیقوں
صَاحِبِيهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَأْذِنُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعًا عِدَّةً تَبْكُ فَقَالَ يَعْزَابُ عَلَيْكَ
کے ساتھ دفن ہونے میں عمر نے سلام کیا اور اجازت مانگی پھر ان کے پاس گئے اور انکو دیکھا کہ بیٹھی رو رہی ہیں ابن عمر نے کہا عمر بن خطاب
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامُ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ صَاحِبِيهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُكَ لِنَفْسِي وَلَا وَثَرَتُ
آپ کو سلام کہتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ دفن ہو انہوں نے فرمایا یہ تو میں اپنے لئے چاہتی تھی آج

نافع سے روایت کی ہے۔ من ابن بکون علیہ عمر دین وقد باح رجل من ورفته مبرأه ما ذالفت۔ حضرت عمر پر قرظ کیونکر رہ سکتا تھا۔ حالانکہ ان کے ایک
وارث نے اپنے حصہ وراثت کو ایک لاکھ پرفروخت کیا۔ جاہلی حدیث میں ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ قرظ کس طرح ہوا تو فرمایا کہ کسی مرتبہ
عج کرنے اور نیز بعض پیش آمدہ ضروریات پر خرچ کیا اور اس میں ہے کہ یہ قرض بیت المال سے لیا تھا۔ اور اپنے بیٹے ابن عمر سے فرمایا کہ لا تفصل واساک حتی
تبیع من رباح ال عمر بن عثمان بنین تنقصهما فی بیت مال المسابین۔ اپنا سزہ دھونا جبکہ عمر کی زمین سے اس بزرگی قیمت کی جاؤ اور فروخت نہ کرو اور
اسے مسلمانوں کے بیت المال میں نہ دیدو۔ خلاصہ الوقافی اخبار دار المصطفیٰ میں ہے کہ حضرت عمر کا مسکو نہ مکان جو باب السلام اور باب الرحمة کے
درمیان تھا اسے بیجا کیا اسے امیر معاویہ نے خریدا اور قرظ او اہو گیا یہ مکان ایک مدت تک دار القضا کے نام سے مشہور رہا۔ علیہ حضرت عائشہ سے
قبر کے لئے اجازت مانگنے والا حصہ انحصار سے ۱۹۳ میں گزر چکا۔ وہاں یہ بیٹھتے تھے ولا تَقْلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں کیا یہ مطلب
نہیں ہے کہ وہ زخمی ہو کر امارت سے معزول ہو گئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ درخواست جو آج میں حضرت عائشہ سے کر رہا ہوں امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں کر رہا بلکہ
عمر ہو چکی حیثیت سے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق وفات کے بعد کے حالات سے ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراکے والد حضرت ابوبکر
کے پاس فن ہونے کی وجہ سے اسے میں اپنے لئے چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر ہی قبر کی جگہ باقی تھی۔ اگر وہ قبروں کی جگہ ہوتی تو حضرت عائشہ کے اس
جواب کی کوئی معنی نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ حضرت عمر کو بھی جگہ دے سکتی تھیں اور وہ ان کی بھی قبر کی جگہ باقی رہ جاتی۔ نیز دیکھو ۳۹ پر نوٹ +

يَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَبِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَدْ جَاءَ قَالَ رَفَعُوْنِي

میں ان کو اپنی ذات پر مقدم رکھوں گی جب عبداللہ وہاں آئے تو کسی نے کہا یہ عبداللہ بن عمر کے حضرت عمر نے فرمایا مجھے اٹھا دو

فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ رَأْيِيهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا كَذَّابُ قَالَ لَنْ يَنْجِبَ يَأْمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَدْنَتْ

تو ایک شخص نے انہیں اپنے پر سہارا دیا فرمایا کیا جواب لائے ہوا میں عمر نے کہا جو آپ چاہتے تھے انہوں نے اجازت دی یہی

قَالَ مُحَمَّدٌ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ

بولے محمد اللہ کے لیے اس سے زیادہ نہ تھی جب میں اتھاں کر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر دو باں لیا جانا پھر

سَلَّمَ وَقَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَدْنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّوْنِي

سلام کہا اور کہا کہ عمر بن خطاب سے اجازت چاہتا ہے اگر وہ میرے لئے اجازت دیں تو مجھے اندر لیا جانا اگر وہ نہیں دیا تو مجھے سلاؤں

إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا فَلَمَّا

کے قبرستان میں لے جانا اور حضرت حفصہ المؤمنین آئیں اور عورتیں بھی ساتھ آئیں جب ہم

رَأَيْنَاهَا قَدِ انْفَجَحَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً وَأَسْتَاذَنَ الرَّجَالَ فَوَجَّحَتْ دَاخِلًا

نے ان کو دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور ان کے پاس ایک گھڑی روتی رہیں پھر مرووں نے اندر آنے کی اجازت

لَهُمْ فَسَمِعْنَا بَكَاءَ هَا مِنْ الدَّاخِلِ فَقَالُوا أَوْ دَجَسَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفَ قَالَ

ہاں جی تو وہ اندر چلی گئیں ان سے ہم انکے رونے کی آواز سننے سے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین وصیت کیجئے خلیفہ مقرر کر دیجئے فرمایا

مَا أَجِدُ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوَاكُمُ الْفُقَرَاءِ وَالزُّهَّادِ الَّذِينَ لَوْ لَوْ رَسُوهُ لَلَّهِ صَلَّى

میں اس امر کا زیادہ حق داران لوگوں کے سوا کسی کو نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَمْرٌ رَاضٍ فَسَمِعِي عَلِيًّا وَعُمَرَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور حال یہ تھا کہ آپ ان سے خوش تھے پھر علی رض اور عثمان رض اور زبیر رض اور طلحہ رض اور سعد رض اور عبدالرحمن رض بن خود کا نام

وَقَالَ يَشْهَدُ كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ وَكَيْسٍ كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ لَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَإِنْ أَصَابَتْ

لیا اور کہا عبداللہ بن عمر تمہارے پاس موجود رہے گا اور خلافت کے لئے اس کا کوئی حق نہیں اس کی تسلی کے لئے کاملہ اگر خلافت سعد کو مل گئی

الْأَمْرَةَ سَعْدًا فَهَذَا كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ فَإِنْ كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ فَإِنْ كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ فَإِنْ كَرَّمَ اللَّهُ بَرَّعُمُ

تو زبیر وہ جی جی تمہیں سے خلیفہ بنا یا جائے تو وہ سعد سے دو لیتا ہے کیونکہ میں نے اسے کسی کروری یا بیعت کی وجہ سے معذور نہیں کہا تھا

قَالَ وَصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِيَاءِ لِي أَنْ يَعْرِفَ لَمْ حَقْلَهُمْ وَيَحْفَظْ لَهُمْ

اور فرمایا میرے بعد جو خلیفہ ہوگی اسے ہاجرین اولین کی بابت وصیت کرنا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت

حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيَهُمْ بِالْأَنْصَارِ خَيْرِ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُعْبَلَ

کی حفاظت کرے اور میں اسے انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے ان سے پہلے ہجرت کی گھر اور ایمان میں جگہ

مِنْ شَيْئِهِمْ وَأَنْ يُعْتَبَرَ عَنِ هَيْئَتِهِمْ وَأَوْصِيَهُ بِالْأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرِ أَهْلِهَا فَمَا رَدُّوا إِلَّا سَلَامًا

بنائی کہ ان میں سے بیگ کام کر نیوالے کی قدر کرے اور ان کے قصور وار سے درگزر کرے اور اسے شہروں کے لئے والوں کی بابت بیعت کی وصیت

علا انتخاب خلیفہ کے متعلق حضرت جی اختصار سے فرمایا میں گزر چکا ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ میرا حضرت عمر سے بار بار درخواست کرتے تھے کہ خلافت کی اس ہم کو ملے کہ جا میں اور انہوں نے مدتوں خلافت کے معاملے میں غور کیا اور لوگوں نے انہیں دیکھا کہ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں دریافت پر معلوم ہوا کہ خلافت کے بارہ میں متفکر ہیں اتنی مدت کے غور و فکر یہی ان کے انتخاب بنی نظر کسی پر جمتی نہ تھی اور بے ساختہ ان کے منہ سے بارہا یہ نکل گئی کہ اس بار گراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ میں اس وقت مجھے شخص تھے جن پر نظر انتخاب پڑ سکتی تھی۔ علی رض عثمان رض زبیر رض طلحہ رض سعد بن ابی وقاص رض عبدالرحمن بن عون رض

یہاں سے لے کر اس وقت تک

علم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر نظام سلطنت میں اور عباس کے حقوق کے متعلق کتنی وسیع تھی۔ یہاں تک کہ اپنی غیر مسلم رعایا کو بھی اپنی وفات کے وقت نہیں بھولے۔ ہاجرین انصار اور اہل ذمہ کے حقوق کی نگہداشت کا ذکر ۳۹۷ء میں بھی ہے دیکھو نوٹ ۳۳۳ء

علا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا زہانت اور تقویٰ سے کام لیں اس خطا کو رفع کیا جو حضرت عمر کا موجب سزا تھا یعنی جب تین آدمی رہ گئے تو حضرت عثمان اور علی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں میں سے جو خلافت کو منسوب ہو جائے اسے اختیار ہوگا کہ باقی دو میں سے جسے چاہئے منتخب کرے اور ان دونوں کے فائز ہونے پر خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور

وَجِبَاةُ الْمَالِ غَيْظُ الْعُدُوِّ وَأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلَّا أَفْضَلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَأَوْصِيَاءَهُمْ

اور مال کے بیع کر کے خریدنے اور دشمن کے غیظ کا موجب نہیں اور ان سے ان کو بچا جاتا ان کی رضا مندی سے لیا جائے اور اسے

يَا أَيُّهَا عُمَرُ ابْ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ لِعَرَبِ مَا دَاةُ الْإِسْلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ

دو ہاتھوں کے ساتھ نیک سوکھ و وصیت کرتا ہوں کہ یہی عرب کی جڑ اور اسلام کا ماہہ ہیں کہ ان کے مالوں میں سے ایسا مال لیا جائے

وَتَرَدُّ عَلَى أَقْرَبِيهِمْ وَأَوْصِيَاءِهِمْ بِذِي الْقُرْبَىٰ وَاللَّهُ وَذِي الْقُرْبَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَفَّىٰ

جو اعلیٰ نہ ہو اور لکھے جاتا ہے اور اسے وصیت کرتا ہوں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدری کر ان (صحابہ و اقرباء) سے

لَهُمْ بَعْدَهُمْ هُمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ دُونِهِمْ وَلَا يَكْفُرُوا إِلَّا طَائِفَتُهُمْ فَلَمَّا قَبِضَ خَرَجْنَا بِهِ

ان کا ہمدری کرے اور ان کی مخالفت کیے جنگ کرے اور ان میں ان کی طائفت کے موافق حکم لے لے جب انکی روح قبض ہوئی

فَأَنْطَلَقْنَا مَشِيئَتِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْرُوقًا لِيَسْتَأْذِنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَتْ أَدْخُلُوهَا

تو ہم ان کا جنازہ لے کر نکلے اور بیہوش چلنے کے بعد اللہ بن عمر نے حضرت عائشہ کو سلام کہا اور کہا عمر بن خطاب جازت چاہتے ہیں حضرت

فَادْخُلْ فَوَضِعَ هَذَا كَمَعِ صَاحِبِي لِيُؤْتِيَهُمْ فَرَسًا مِنْ دُونِهِ اجْتَمَعُوا هُوَ لِأَخِي الرَّهْطِ فَقَالَ

عائشہ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ اور اندر داخل کئے گئے اور وہاں اپنے دو دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیے گئے جب انکے دفن کر کے فراغت ہوئی

عَبْدُ اللَّهِ مِمَّنْ جَعَلُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الرَّبِيعُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ

تو یہ گروہ جمع ہو کر عبدالرحمن نے کہا تم اپنا حق اپنے سے تین آدمیوں کو دیدو نہ میرے کہا میں نے اپنا حق علی کو دے دیا

فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ سَعْدُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ

اور طلحہ نے کہا میں نے اپنا حق عثمان کو دیدیا اور سعد نے کہا میں نے اپنا حق عبدالرحمن کو دے دیا

ابن عوفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَا كَيْفَمَا تَبَرَّأْنَا مِنْ هَذَا أَمْرٍ فَنُفَعِلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْنَا وَالْإِسْلَامُ

عبدالرحمن نے کہا آپ دونوں (طلحہ اور عثمان) میں سے جو حق خلافت سے انکار کرنا چاہے ہم سب کو یہ حق انتخاب خلافت

لَيْنَظُرَاتٍ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَا سَكَّتِ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفْتَعْلَهُ نَبِيٌّ وَاللَّهِ

دیں گے اور انشا وراہ اس پر گاہ دیک کر وہ کسی کو بجز عمر کی جی جی اس کے خیال میں سب افضل ہو تو دونوں بزرگ خاموش ہو گئے تو عبدالرحمن نے کہا

عَلَى أَنْ لَا أَلُوِّعَنَّ أَفْضَلَكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قُرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ

کیا تم اس کا اختیار رکھتے ہو اللہ شاہد ہے کہ تم میں سے جو افضل ہے میں اس کے حق میں کو تباہی نہ کروں گا انہوں نے کہا چھ عبدالرحمن نے

اللَّهُ صَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمُ وَالْإِسْلَامُ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَنْ أَمْرُكَ لَتَعْلَمَنَّ

ان میں ایک رحمتی علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قربت ہے اور قدامت اسلام میں جو آپ جانتے ہیں اللہ گواہ

وَلَكِنَّ أَمْرًا عُمَرَ لَسَمِعْنَا وَتَطْيِئُ عَنَّا ثُمَّ خَلَّابًا لَا خَيْرَ لَكَ فَكَلَّمَا أَخَذَ

ہو اگر میں آپ کو طیفہ بناؤں تو آپ انصاف کریں گے اور اگر عثمان کو امیر بناؤں تو انکی فرمانبرداری اور اطاعت کرے پھر دوسرے یعنی عثمان سے

الْبَيْتَاقِ قَالَ أَرْفَعُ يَدَكَ يَا عُمَرُ فَبَايَعُوهُ فَبَايَعُوهُ لَهُ عَلَىٰ ذَوْبِ أَهْلِ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ

تخلیہ کیا اور انہیں بھی اسی طرح کہا جب دونوں آواز دے چکے تو عثمان ہاتھ اٹھا تو ان سے بیعت کی اور علی نے بھی انکی بیعت کی اور دینے والے آئے اور

(۹) بَابُ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي حَسَنِ وَقَالَ لَيْتِي

باب حضرت علی بن ابی طالب قریشی ہاشمی ابو الحسن کے فضائل میں اور

دونوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ تم میں سے جسے میں چاہوں اب منتخب کروں۔ یہ بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری انتخاب سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے

اور دو گونے بھی مشورہ کیا اور زیادہ لوگوں کو حضرت عثمان کے حق میں پایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ صحابہ حضرت عثمان کو حضرت علی رضیدت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت

علی کا نسب یہ ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ انکی کنیت ابو الحسن تھی۔ انکے والد ابو طالب حضرت صلح کے چچا تھے جن کی کفالت میں آنحضرت صلح اپنے

دادا عبد المطلب کی کفالت کے بعد بچے انکی والدہ کا نام فاطمہ تھا انکی ولادت بعثت نبوی سے دس سال پہلے ہوئی۔ بعثت نبوی کے وقت انکی عمر دس سال کی تھی اور ہجرت نبوی کے

ساتھ تیس سال کی عمر میں آنحضرت صلح نے جن کو کہنے وقت انہیں اپنے چچے میں چھوڑا تھا انکا رچکے پاس جن کو انکی ماں تین تھیں انکو اپنے اپنے مالکوں کو واپس کر دیں۔

۱۷۱

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ أَنْتَ مَهْرِي وَأَنَا مَهْرُكَ وَقَالَ عُمَرُ تَوَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَهُ رَاضٍ (م- ۱۷۴۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكبر- ۱۳۵۲) (م- ۱۷۴۳)

وَفَاتِ بَابِي تُوَدُّهُ أَنْ سَافِرًا تَقَى عَلِيًّا (م- ۱۷۴۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكبر- ۳۰۷)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكبر- ۱۳۶۴) (م- ۱۷۴۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكبر- ۳۰۷)

(۱۷۵۲) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُمَرَ

فَذَكَرَ عَنْ هَمَّاسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَسْؤُوكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْتَمِ اللَّهُ بِأَنْفِكَ

ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ هَمَّاسُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْ سَطِيبُوتِ الشَّيْبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَسْؤُوكَ قَالَ أَجَلٌ قَالَ فَارْتَمِ اللَّهُ بِأَنْفِكَ

أَنْطَلِقُ فَأَهْدِي عَلَى بَهْمَدِكَ (م- ۱۷۴۶) عَنْ عَلِيٍّ (متكبر- ۱۴۱۰) (۱۷۵۲)

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ أَمَّا تَرْضَى

أَنْ تَكُونَ كَمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ قَوْمِي (م- ۱۷۵۳) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ

عنه انت مقي أنا
منك بر لفظ
حضرت علی کے متعلق
۱۲۵۷ میں گزر چکے
دیکھو اس پر نوٹ
یہ آپ نے اس وقت
پرفرما یا جب حضرت
حمزہ کی لڑائی کی
ولایت کے متعلق
حضرت علی اور جعفر
اور زید میں جھگڑا
تھا تو آپ نے
تینوں کے حق میں
کچھ کلمات مجت
فرمائے اور ولایت کا
حق خالص فرمایا۔ یہ
لفظ کامل اتحا کو
ظاہر کرتے ہیں +
مطلک روایت
میں دہی مضمون تفسیر
الفاظ دہرا یا گیا
ہے یعنی اللہ علیہ
کے بعد زیادہ ہے

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لِيَدِهِمْ يَعْطَاهَا رَأَتْ بَهْرُوكَ سَوْجَتِي سَبِي كَسْ كَوَانِ مِنْ سِي نَشَانِ دِيَا بَهَا سِي كَا - اور بصق بن عبدیہ کے بعد ہے

وَدَعَا لِي عِنِّي حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَيْ لَسْتُ أَتِيكَ دَعَاكَ - دیکھو نوٹ پر صفحہ ۶۶۲ + ۶۶۳ ملاحظہ کرو روایت انہی لفظوں میں آئی ہے + ملاحظہ اس کی ابتدا مروان کے

قصر سے کی ہے - ان دنوں حجاج انہی سہل بن سعد فقال هذا فلان لا هير المدينة يعني مروان كان له جو مدینہ کا حاکم تھا، يدعو علیاً حضرت

علی کو وہ برائت ہے، عند المنبر - قال فيقول ما ذا - قال يقول له البوترب فضحك - قال والله ما سماه الا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم

احب اليه منه فاستطعت الحديث سهلار يعني من نے سہل سے خواہش ظاہر کی کہ مجھ کو حدیث بیان کر دیں، وقلت يا ابا عباس كيف راسك

بعد ۳۰ کو نفی اختلاف لفظی سے دہرایا ہے، قال دخل علي علي فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابن

عمك قالت في المسجد فخرج اليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب الى ظهره فنجعل بيسم التراب عن ظهره فيقول اجلس يا ابا

تراب مرتين - ۳۰ میں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں + کچھ شخص نے ابن عمر سے حضرت عثمان اور حضرت علی کے تعلق

پوچھا یہ وہی مہری ہے جس کا ذکر من قب عثمان میں حدیث ۱۷۵۳ میں گزر چکا ہے وہاں صرف حضرت عثمان پر اس کے اعتراضات کا ذکر ہے جن کا جواب حضرت ابن عمر نے
دیا - چونکہ یہ ایک فتنہ انگیز گروہ تھا جو حضرت عثمان اور حضرت علی کے خلاف منصوبے کر رہا تھا تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ جاؤ میرے خلاف بھی جو ہو سکتا ہے کرو +
ملاحظہ فرمائیے انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے ضعیف سا اختصار ہے + یک غزوہ تبوک میں آتا ہے - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى تبوك فاستخلف
عليها قال اختلفني في الصبيان والنساء قال الا ترضى ان تكون عني بدلتا تعارون من موسى الا ان لليس بعدى نبى - حضرت ہارون حضرت موسیٰ
کے بھائی تھے جب طور پر جانے لگے تو ہارون سے فرمایا اختلفني في قومي - میری قوم میں میرا خلیفہ ہو جا حضرت علی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ زاد
بھائی تھے اور تبوک جاتے وقت آپ نے میرے میں انہیں اپنا خلیفہ بنایا - اصل نسبت صرف بھائی ہونے کی ہے اس کے علاوہ آپ کی غیر حاضری میں جسند
دن کے لئے حضرت علی خلیفہ کے طور پر بھی رہے۔ اس میں یہ اشارہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری وفات کے بعد میرے خلیفہ ہو گے اس لئے کہ حضرت ہارون حضرت
موسىٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بننے لگے یہ فرق بھی رہا کہ حضرت ہارون نبی تھا اور حضرت علی نبی نہ ہو سکتے تھے اس لئے کہ آپ صلعم خاتم النبیین تھے +

علاء بن ابی مرثدہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں ام ولد کی بیچ ناجائز سمجھے تھے۔ پھر حضرت علی نے اپنی رائے بدل لی یعنی ام ولد کی بیچ کو جائز قرار دیا تو عیبیدہ نے جو عراق کے خاضی تھے ان سے کہا کہ آپ کی رائے دگر کی رائے جو کبھی ہے وہ مجھے آپ کی اکیلی رائے سے زیادہ پسند ہے یعنی ان کا بیچ ناجائز ہے اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ جس طرح تم فیصلہ کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرتے ہو یعنی حضرت عمر کی رائے کے مطابق اس معلوم ہوا کہ وہ ان سے

تَقْضُونَ فَإِنِّي أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات

پہلے فیصلہ کرتے تھے اسی طرح اب بھی کرو کیونکہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں اس وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں یا میں وفات پا جاؤں صلح

اصحابي فكان ابن سيرين يرمى أن عامة ما يروى عن علي الكذب (۱) باب

میرے ساتھی وفات پا گئے علی ابن سیرین کا خیال تھا کہ اکثر بائیں جو حضرت علی سے مروی ہیں جھوٹ ہیں

مناقب جعفر بن ابی طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلق جعفر بن ابی طالب کے فضائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (جعفر سے) فرمایا تم صورت اور سیرت میں میرے شاہرہ ہو

(۱۶۵۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلق جعفر بن ابی طالب کے فضائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (جعفر سے) فرمایا تم صورت اور سیرت میں میرے شاہرہ ہو

أزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع بطنه حين لا كل الخمير ولا البس الخبز ولا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا اس وقت جب نہیں خمیری دئی لگاتا تھا اور نہ دھا رہا لگا رہتا تھا اور نہ

يخدهم في فلات ولا فلاتة ولنت الصق بطري بأخصبا من الجوع وإن كنت لا ستغفر

فلاں (مردم) اور فلاں (مورت) میری خدمت کرتے تھے اور میں اپنے پیٹ کے بل جھڑوں برہوک کے مالے پر جھاتا اور کسی شخص سے

الرجل لا يته هي معي كي ينقلب بي فيطعنني وكان أخيرا الناس للمساكين جعفر

کنا کہ فلاں (آیت) مجھے ساتھ لگا لگا کر وہ آیت مجھے باہر غرض یہ ہوتی تھی بجائے اور کھانا کھلانے مکیوں کے لئے سب لوگوں سے

ابن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان يخرج

زیادہ مخیر جعفر بن ابی طالب تھے ہم کو بچانے اور جو ان کے گھر میں ہوتا ہم کو کھلا دیتے یہاں تک کہ کبھی چائے یا سبزی باہر

الينا العلة التي ليس فيها شئ فنشقها فنلعق ما فيها (۱۶۵۵) عن الشعبي

لے آتے جس میں کچھ بھی نہ ہوتا تھا تو ہم اسے پھاڑ لواتے اور جو اس میں ہوتا اسے چاٹ لیتے تھے شعبی سے روایت ہے

أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال جعفر قال لسلام عليك يا ابن ذي الجناحين

کہ ابن عمر جب (عبداللہ) ابن جعفر کو سلام کرتے تو کہتے تھے جعفر پر سلام اے دو جناحوں والے کے بیٹے

قال أبو عبد الله يقال كن في جناحي كن في جناحي كل جانبين جناحان

ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کن فی جناحی (یعنی) میرے پہلو میں آجا دو جناح دو پہلو میں ملے

باب ۱۱۱ ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

باب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت نے کہا کہ حضرت علی کے متعلق جو بہت سی اس قسم کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مخالفت کرتے تھے وہ درست نہیں ہیں۔ علی حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے ان سے عمر میں برس بڑے تھے بخت نبوی کے وقت انکی عمر میں برس تھی آپ نے حبشہ کو بھی ہجرت کی تھی اور جب حبشہ کے عیسائیوں نے حضرت علی کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ معلوم کرنا چاہا تو انوں نے ہی سورہ حم پر طہ کو سنائی اور جاشی کے سامنے تقریر کی جس میں اسلام کی خوبیاں بتائیں۔ اشہد خلق خلقہ وخلقہ حدیث ۱۲۵۷ کا ایک فقرہ ہے علی حضرت ابوہریرہ پر کثرت روایت کا اعتراف علیہ وعلیہ السلام میں گذر چکا یہاں اسکی وجہ انوں نے یہ بیان کی ہے کہ مجھے علم کا شوق تھا ہر وقت آنحضرت کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ اس کی پر واضحی تھی کہ صبح شام کیا کھاؤں گا کبھی کھانا مل جاتا تھا کبھی نہ ملتا اور بھوک کی تکلیف کی وجہ سے زین پر پڑا رہتا تھا اور جو صحابی رشتہ گزار تھا اس سے کسی آیت کے متعلق پوچھنا اور مفصلہ یہ ہوتا کہ وہ میری تکلیف کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لیا کر کھانا کھلا دے۔ حضرت جعفر سکینوں کی اس قدر خبر گیری کرتے تھے کہ ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صائم کو ابوالساکین کہتے تھے۔ علی غزوہ موتہ میں جنگ کرتے ہوئے حضرت جعفر کا جب وہ ہاتھ کاٹا گیا جس میں جھنڈا تھا تو انوں نے دوسرے میں جھنڈا لے لیا تب وہ بھی کاٹ دیا گیا۔ گو با خدا کی راہ میں آپ کے دونوں بازو کاٹ گئے اور آپ منہ پر گھسٹے بعض روایات میں آتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو ملا لنگر کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے گو با وجود بازو خدا کی راہ میں کاٹ گئے تھے وہ بمنزلہ دو جناحوں کے ہو گئے جن سے وہ پرواز کرتے تھے اسی سے حضرت عبداللہ ان کو ذوالجناحین کہتے تھے۔ امام بخاری نے جناح کی تفسیر جانب یعنی پہلو سے کی ہے پر سے نہیں

(م-۱۷۷) عَنْ أَنَسٍ (متکرم-۵۸۰) (۱۲) بَابُ مَنَاقِبِ قُرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۵۸۰۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقِبَةٌ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے فضائل اور حضرت فاطمہ علیہا السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجزادی کی فضیلت

وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے

(م-۱۷۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم-۱۴۰۰) (۱۳) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ رَفَعُوا

دیکھو حدیث ۱۴۰۰۔ حضرت ابوبکر سے روایت ہے فرمایا کہ محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (م-۱۷۹) عَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ (متکرم)

عیدہ وسلم کا خیال آپ کے اہل بیت میں رکھو

(م-۱۷۹) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم-۱۴۲۳) (۱۳) بَابُ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ

دیکھو حدیث ۱۴۲۳۔ باب زبیر بن العوام

م-۱۷۸

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

م-۱۷۹

الفاظ میں جہاں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ قحط کے زمانے میں حضرت عباس کو منبر پر سنا تھا بیکر بارش کے لئے دعا کی حضرت عباس اس حضرت مسلم کے سچا ہیں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں سے وہ

مراد ہیں جو آپ کے جد قریب یعنی عبدالمطلب کی طرف منسوب ہوں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو یا آپ کو دیکھا ہو مرد ہو یا عورت بالغ ہو یا نابالغ۔ حضرت فاطمہ کے جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کا ذکر ۱۷۳۳ میں گذر چکا جہاں یہ لفظ آئے ہیں۔ اما ترضیہن ان تکونی سیدۃ النساء اهل الجنة او نساء المؤمنین کیا تم راضی نہیں ہو کہ اہل جنت یا مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، مسئلہ مکرر روایت مخففہ ہے مگر مضمون میں کمی بیشی سے یہاں لفظ یہ ہیں۔ عن عائشۃ ان فاطمۃ علیہا السلام ارسلت الی ابی بکر تسالہ میرا تھا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما افادہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بالعدینۃ وقدک وما بقی من خمس خیر فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ انما یأکل ال محمد من هذا المال یعنی مال اللہ نہیں لہم ان یزیدہ اعلى الماکل والی وادلہ لا غیر شیئا من صدقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم التے کانت علیہا فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عملن فیہا بعد عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقہد علی ثم قال انما قد عرفنا یا ابابکر فضیلتک و ذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقیقہ تکلم ابو بکر فقال الذی نفسی بیدہ لغزایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ عوان کا تعلق اس آخری فقرہ سے ہے یعنی حضرت ابو بکر کا یہ فرمانا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حق سب قرابتوں کے حقوق سے بڑھ کر ہے۔ یہ حدیث غروۃ خیر میں زیادہ وضاحت اور تفصیل سے آتی ہے۔ حضرت علی کی تقریر کا مقصد اور حضرت ابو بکر کا اس کا جواب دینا وہاں پوری تفصیل سے مذکور ہے۔ علی اہل بیت وہ ہونگے جنکو ایک گھر جمع کرے اور گھر میاں بیوی اور بچوں کو جمع کرتا ہے پس ایک شخص کے اہل بیت ہوئی بچے ہیں پس حضرت مسلم کے اہل بیت آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد ہے چونکہ امام حسن اور حسین آپ کی ماجزادی کی اولاد میں تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو نسبت آپ سے تھی اسے ملحوظ رکھا جائے اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے آپ کی بیویوں اور اولاد کی بھی محبت ہوتی جائے یہ مسئلہ ایک لمبی حدیث جس میں مجملہ اور لوگ کے یہ ذکر بھی ہے کہ حضرت علی نے جب ابو بکر کی بیٹی سے شادی کر لیا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ناپسند فرمایا اور فرمایا فاطمہ منی فاطمہ مجھ سے ہے اور م ۱۷۹ پر جہاں یہ پھر کر رہا ہے لفظ میں فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں پر اس قسم کا ذکر نہیں اور صرف اس قدر لفظ میں فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو اسے ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ اس کی وجہ م ۱۷۹ سے ظاہر ہے جہاں حضرت علی کے اس ارادہ پر مطلع ہونے پر حضرت فاطمہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیکا ذکر ہے اور انہوں نے آپ کے کما یزعم قومک انک لا تغضب لبنا تک آپ کی قوم یہ خیال کرتی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو اگر تکلیف پہنچی جائے تو آپ ناراض نہیں ہوتے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اغضبہا اغضبہا یعنی تو یہ حضرت علی کو نصیحت کی تھی جب حضرت فاطمہ نے میراث طلب کی اور حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو اس وقت بھی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں مگر یہ ایسا معاملہ تھا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف نہ کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ سئلے اس ناراضی پر یہ الفاظ چسپاں نہیں ہو سکتے۔ مکرر روایت مخففہ ہے۔ قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ تبینہ فی شکواہ الذی قبض فیہا فسارہا بشئ فبکت ثم دعاہا فسارہا نضحکت قالت فسألہا عن ذلك فقالت سأرتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم فی انہ یقبض فی جعد الذی توفی فیہ فبکت ثم سأرتی فاجابنی انی اول اهل بیتہ اتبعہ فضحکت یہاں یہ کہا ہے کہ روئی اس بات پر تھیں کہ آپ نے فرمایا آپکا اس بیماری میں انتقال ہو جائیگا اور مہنی اس پر تھیں کہ آپ نے فرمایا آپ کے اہل بیت میں سے پہلے میں آپ سے ملوگی۔ وہاں ان دنوں باتوں کا ٹکڑا ذکر ہے اور یہ کہ اسٹی جہ سے آپ وہیں اور جب آپ نے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو تو آپ ہنس پڑیں

علا زبیر کا نسب یہ ہے۔ زبیر بن عوام بن خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قسمی بن جاہلیتہ میں۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ تھا۔ مطلب کی بیٹی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی بیٹی تھیں۔ کینٹا بوسید اللہ تھی۔ حاکم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ اسلام لائے وقت زبیر کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ حواریوں۔ حواری کی جمع ہے اور یہ خود سے مشفق ہے جس کے بعض ایک چیز سے لوٹ آتا یا ایک چیز کی طرف لوٹ جاتا۔ اندر ان لن میجر وانشقاق ۱۱

ابن العوام وقال بن عباس هو حواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسمی الحواریون کے فضائل ابن عباس نے کہا زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا نام ان کے کپڑوں

لیباض نیا بہم (۱۶۵۷) عن مروان بن الحکم قال أصاب عثمان بن عفان کی سفیدی کی وجہ سے حواری ہوا علی مروان بن حکم سے روایت ہے کہا کہ مجھ ٹھننے کی وجاہ کے سال عثمان بن عفان کی

رعات شدید سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل نکسیر چھوٹی میں ایک کراہیں حج سے روک لیا اور انہوں نے وصیت کر دی ایک قریشی آدمی

من قریش قال سئخلف قال وقالوا قال نعم قال ومن فسكت فدخل عليه رجل انکے پاس گئے اور کہا خلیفہ نامزد کر دیں فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہا ہاں فرمایا اور کسی کو تو وہ خاموش رہا پھر ایک دوسرا شخص ان کے

آخر أحسبہ الحرت فقال سئخلف فقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن هو پاس گیا میرا خیال ہے کہ حارث تھا اس نے بھی کہا خلیفہ نامزد کر دیجئے حضرت عثمان نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہا ہاں فرمایا اور وہ کون ہے

فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إرات کہ جس کیسے کہتے ہیں) تو وہ خاموش رہا فرمایا شاہ بدوہ زبیر کے متعلق کہتے ہیں کہا ہاں فرمایا میں لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری

كخبرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جان ہے جہاں کسی میں جانتا ہوں وہ سب میں بہترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے علی

(۱۶۵۱) عن عروة (متكره) (۱۶۵۷) (۱۶۵۲) عن جابر بن عبد الله (متكره) (۱۶۵۱) دیکھو حدیث ۱۶۵۷ دیکھو حدیث ۱۳۱۵

(۱۶۵۸) عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وحمز بن أبي عبد الله بن زبیر سے روایت ہے کہا احزاب کے دن مجھے اور حمزہ ابی سلمہ کو عورتوں میں چھوڑا گیا تھا

سكتة في النساء فنظرت فاذا بالزبير على فرسه يتخلف الى كتي قريظة من بين میں نے دیکھا تو زبیر اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور دو تین مرتبہ بنو قریظہ کے پاس آئے اور

أوتلنا فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف قال أوهل رأيتني يا بني قلت گئے جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے کہا ابا جان میں نے آپ کو آتے جاتے دیکھا تھا فرمایا بیٹا تم نے مجھے دیکھا تھا میں نے کہا

نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأت بيتي قريظة فيأيتني ہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے اور ان کی خبر

اور حواری سفیدی کو کہتے ہیں اور حواری اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھ کی سفیدی اعلیٰ درجہ کی سفید ہو۔ اور سیاہی شدت سے سیاہ ہو۔ اور تجویر کے معنی ہیں سفید کرنا اور حواری کا لفظ ابن اثیر اور راغب دغیرہ کے نزدیک اسی سے لیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برگزیدہ احباب پر اس لئے بولا گیا ہے کہ وہ نصاریٰ یعنی وہ بھی تھے کپڑوں کو سفید کرنے تھے اور اس کے بعد ہر ایک ناصر اور پسندیدہ درست پر بولا گیا جو ابن عباس کا قول ہے حواری النبی صلی

اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا ایک حکمہ ہے جو سورہ برآء کی تفسیر میں آتی ہے (باب ثانی اثنین) جہاں عبد اللہ بن زبیر کے ذمے ہے اما ابوہ حواری لیسے صلحہ پر لیا زبیر علیہ السلام کہیں چھوٹنے کی وہابی بیماریا سلسلہ ہجری میں تھی۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے بعد خلافت کے بارہ میں عبد الرحمن بن عوف کے متعلق وصیت لکھی تھی۔ ان کے کاتب حمران نے اس بات کی اطلاع عبد الرحمن بن عوف کو دی تو وہ حضرت عثمان پر ناراض ہوئے حضرت عثمان حمران پر ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان کو مدینے سے بصرہ کو نکال دیا۔ عبد الرحمن بن عوف اس کے چھ ماہ بعد وفات پا گئے ۱۶۵۱ میں گذر چکا کہ بن چھ بزرگ صحابہ کو حضرت عمر نے نامزد کیا تھا کہ ان میں سے کثرت رائے سے ایک کو خلیفہ کیا جائے ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے علیہ السلام کہ روایت مختصر ہے۔ کنت عند عثمان انا تاکہ رجل فقال سئخلف قال وقيل ذاك قال نعم الزبير قال اما والله انکم لتعلمون انه خيرکم ثلاثاً علیہ السلام کہ روایت مختصر ہے۔ ان لکل نبی حواریاً وان حواری الزبیر بن العوام۔ یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔

بِحَبْرِهِمْ فَأَنْطَلَقَتْ فَلَمَّا رَجَعَتْ جَمَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ
 بھے لائے تو میں گیا جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے اپنے ماں باپ جمع کئے
 فَقَالَ يَا أَبِي دَاؤُدُ عُرْوَةُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 اور فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر تفریان ہوں علم عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر سے
 قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكَ الْأَشْتَدُّ فَسَنَدُ مَعَكَ خَلَّ عَلَيْهِمْ فَمَضَى بِلَا ضَرْبٍ بَيْنَ
 یرموک کے دن کہا کیا آپ جملہ نہ کریں گے تاہم بھی آپ کے ساتھ حمد کریں تو انہوں نے حمد کیا سو
 عَلَى عَاتِقِهِمَا ضَرْبَةٌ ضَرْبُهُمَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أَدْخُلُ صَابِغِ
 کافروں نے ان کے کندھے پر دو تلواریں رکھ رکھنے ان دونوں کے بیچ میں ایک روز خر تھا جو بڑے ان آپ کو لگا تھا عروہ کہتے ہیں میں
 فِي تِلْكَ الضَّرْبَاتِ الْعَبُّ وَأَنَا صَغِيرٌ ۱۴۳) بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عَقِيلٍ اللَّهُ قَالَ
 کھینٹا ہوا اپنی انگلیاں ان زخموں کے نشانوں میں ڈال رہا تھا اور میں بھی چھوٹا تھا عسا بائینا طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر اور حضرت عمر نے
 عُمَرُو بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنهُ رَاضٍ ۱۴۴) عَنْ أَبِي عَثْمَانَ
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہ ان سے خوش تھے عسا ابو عثمان سے روایت ہے
 قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض ان دنوں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزویں
 فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا (۱۴۶) عَنْ
 سے جنگ کی کوئی بھی باقی نہ رہا سوائے طلحہ اور سعد کے حدیث ابو عثمان نے ان دنوں سے روایت کی ہے علم
 قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي دَقَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تھا
 قَدْ سَلَّتْ (۱۵) بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لِزُهَيْرِي وَبَنُو زُهَيْرَةَ
 وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا عسا بائینا سعد بن ابی وقاص زہری کے فضائل اور بنو زہرہ

۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

زہیر کو بھیجا۔ انہوں نے عبد شمس کی اور مشرکوں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کی۔ ان پر چڑھائی کی بنا وہ انکی عدلیہ اور مشرکوں کی امداد تھی۔ جنگ
 یرموک عند فاروقی سنہ ہجری رجب میں ہوئی حضرت زہیر بھی اس میں شریک تھے اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یرموک ہزار دن
 میں غرب کی سرحد کے قریب ایک مقام ہے جہاں مسلمانوں اور رومیوں میں بہت بڑا معرکہ ہوا تھا۔ رومیوں کی تعداد دو لاکھ کے قریب تھی مسلمانوں
 کی تعداد ۳۰۰ ہزار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس کے بعد رومیوں کی سلطنت نے قوت نہیں پکڑی۔
 حضرت زہیر جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی طرف سے حضرت علی کے خلاف لڑے مگر بالآخر حضرت علی سے گفتگو کرنے کے بعد میدان جنگ سے نکل کر
 مدینہ کا رخ کیا رستے میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے کہ کسی ظالم نے پیچھے سے آکر شہید کر دیا۔ طلحہ کا نسب یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ
 بن عرفان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب۔ سلسلہ نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ بن کعب میں اور حضرت ابو بکر سے تیم
 بن مرہ میں جا ملتا ہے۔ کنیت ابو محمد تھی۔ جنگ جمل میں جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے گرد ہوں کے درمیان سلسلہ ہجری میں ہوئی تھی حضرت عائشہ
 کی طرف سے جنگ کیا اور بالآخر جنگ کے میدان سے کنارہ کشی کی مگر کسی ظالم نے بے ضروری کی حالت میں پیچھے سے آکر شہید کر دیا۔ حضرت عمر نے خلافت
 کیے بن آدمیوں کے نام چنے تھے ان میں سے طلحہ بھی تھے اسی موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے آنحضرت صلعم اپنی وفات
 کے وقت خوش تھے۔ یہ پچھ کے چھ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ بعض تھک اکایام سے مراد احد کا دن ہے جس میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب
 پہنچی تھی۔ حضرت طلحہ کا ہاتھ احد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے قربان ہو گیا تھا جو دار آنحضرت صلعم پر لگ گیا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ
 پر لیا جس سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ منہ طالیسی میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ احد کے دن حضرت طلحہ کو ستر سے بچھا دیا زخم لگے تھے +

أَخْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ (۱۶۶۲) عَنْ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور سعد مالک کے بیٹے ہیں علی سعد سے

سَعْدٌ يَقُولُ جَمَعُوا لِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو يَوْمٍ أَحَدٍ (م-

روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد کے دن میرے لئے اپنے ماں باپ جمع کئے (یعنی فدک اسی واپی فرمایا) علی

۱۶۵۳) عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (متکسر - ۱۶۶۳) (۱۶۶۳) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي

دیکھو حدیث ۱۶۶۳ علی سعد بن ابی وقاص سے

وَقَاصٍ يَقُولُ مَا أَسْمَهُ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسَلَمْتُ فِيهِهِ وَكَقَدْ

روایت ہے کہ میں نے کوئی شخص اسلام نہیں لایا مگر اسی دن جس دن میں اسلام لایا اور سات دن

مَكُنْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَرَأَيْتُ لَثَمَةَ الْأَسْلَامِ (۱۶۶۴) عَنْ قَيْسِ بْنِ قَالٍ سَمِعْتُ

اسلام کا تیسرا حصہ رہا علی قیس سے روایت ہے کہ میں نے

سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رَأَيْتُ لَأَوَّلَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِ

سعد رضی اللہ عنہ کو سنا کہتے تھے کہ میں عرب میں سے پہلا شخص ہوں جس نے لشکر کی راہ میں تیسرا چلایا علی

لَنَا نَغْزُومَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامًا إِلَّا دَرَقُ الشُّبْرِ حَتَّى

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹنے کے لئے جاتے اور ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے اور ہمیں سے

رَأَى أَحَدًا نَالِيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبُعِيزُ أَوْ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ شَمًّا أَصْبَحْتُ بِنَوَاسِدِ

ایسے بھی تھے کہ رفع حاجت کرتے (تو نفع اس طرح خشک ہوتا) جس طرح اونٹ اور بکری کی لید ہوتی ہے اس میں زہی نہ ہوتی اس قدر

تَعَزَّرَ لِي عَلَى الْأَسْلَامِ لَقَدْ خَبْتُ رَأْدًا وَضَلُّ عَمَلِي وَكَانُوا أَوْ شَوَابِكًا إِلَى

خدا کی راہ میں صعوبت اٹھانے کے بعد نواسہ مجھے اسلام سکھانے لگے ہیں تب تو میں ناکام رہا اور میرا عمل برباد ہو گیا اور انہوں نے زہی

۱۶۶۲ حضرت سعد کا نسب یہ ہے سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن زہرہ بن سلع بن مرہ سلہ بن اہحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلاب بن مرہ میں جاہلتا ہے۔ آنحضرت صلعم کی والدہ آمنہ بنتی زہرہ میں سے تھیں اور اس لئے بنی زہرہ آپ کے نینال ہوئے۔ حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ساتویں تھے۔ فاتح ایران تھے

۱۶۶۴

کچھ عرصہ کے لئے گورنری رہے انہیں فارس اور اسلام کہا جاتا تھا۔ تراسی سال کی عمر میں اپنے محل عقیق میں جو مدینہ سے دس میل پر تھا انتقال فرمایا اور لوگ کندھوں پر اٹھا کر قریش مدینے میں لائے اور بقیع میں دفن ہوئے عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر فوت ہوئے اور ان کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُحد کے دن جب سعد دشمن پر تیرسا ہے تھے فرمایا: ادم فذلک البی ای میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں تیر جلاتے رہو۔ کتاب الجہاد میں گذر چکا کہ حضرت علی نے فرمایا: ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربۃ لاحد غیر سعد بن مالک۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی ۱۶۵ھ میں گذر چکا کہ حضرت زبیر سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فذلک البی داعی حضرت علی کو اس دوسرے واقعہ کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ مگر روایت مختصر صرف اس قدر ہے۔ لقد رأیتنی وانا ثالث الاسلام۔ دیکھو اگلی حدیث پر نوٹ ۶۷۱ علی اس حدیث میں اشکال ہے کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابوبکر عورتوں میں حضرت فدیجہ بن جحش میں حضرت علی اور غلاموں میں زید تھے اور ۱۶۳ھ میں گذر چکا کہ عمار کہتے ہیں جب میں نے آنحضرت صلعم کو دیکھا تو آپ کے ساتھ پانچ غلام اور دو عورتیں اور حضرت ابوبکر تھے۔ اور سعد کا ذکر ان میں نہیں اس کی سب سے زیادہ مقبول توجیہ یہ کی گئی ہے کہ چونکہ جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ اسلام کو مخفی رکھتے تھے اس لئے حضرت سعد کو اور کسی کے اسلام لانے کا علم نہیں ہوا مگر یہ توجیہ قابل قبول نہیں اس لئے کہ یہ روایت اس زمانے کی نہیں بلکہ بعد کے زمانے کی ہے اور اس وقت تو حضرت سعد کو یقیناً علم تھا کہ ان سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پس ان الفاظ میں ما اسلام احد الا فی الیوم الذی اسلمت فیہ یعنی جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کوئی دوسرا ہے اور عینی میں ہے کہ ابن مندہ نے ان الفاظ کو یوں روایت کیا ہے ما اسلام احد فی الیوم الذی اسلمت فیہ یعنی جس دن میں مسلمان ہوا اس دن کوئی دوسرا ایمان نہیں لایا۔ یہ الفاظ ایمان زیادہ موزوں ہیں اس لئے کہ اس کے بعد آتا ہے ولقد مکنت سبعة ايام وانی ثالث الاسلام یعنی میرے اسلام لانے کے سات دن بعد تک بھی اور کوئی ایمان نہیں لایا گیا اس وقت مسلمان ہوئیوں کی اس قدر کمی تھی کہ نہ اس دن کوئی مسلمان ہوا نہ اس کے سات دن بعد تک الی لفظ الاسلام ان ایام میں میں اسلام کا تیسرا حصہ یعنی صرف دو اور مسلمان تھے قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت سعد نے غلاموں عورتوں اور بچوں کو شمار نہیں کیا۔ تو اس طرح ایک خود آنحضرت صلعم اور ایک حضرت ابوبکر اور تیسرے سعد ہوئے۔ مگر یہ ہجرت کے سال اول کا واقعہ ہے آنحضرت صلعم نے قریش کی ایک جمعیت کی خیر لانے کیلئے ایک دستہ مقام رانی کو بھیجا تھا جس میں ساٹھ سوار ماجرین میں سے تھے ان کا مقابلہ قریش کی جمعیت

۶۷ سے ہو گیا تو سب سے پہلے حضرت سعد نے تیر چلایا۔ یہ سب سے پہلا مقام بدل تھا جو مسلمانوں اور قریش میں ہوا۔

عمر قالوا لا یحسین یصلی (۶) باب ذکر اصهار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم

کہ تھا کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے ۱۔ باب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا بیان ان میں

ابو العاص بن الربیع (۵۴-۱۷۵۴) عن السور بن حنفیہ رمتکر (۱۴۰۸)

سے ایک ابو العاص بن ربیع بھی تھے ۱۔ دیکھو حدیث ۱۴۰۸

(۱۷) باب مناقب زید بن حارثہ مولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال

باب زید بن حارثہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے فضائل اور راہ

البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنت اخونا ومولانا (۲۶۵) عن عبد اللہ

نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ (فرمایا) تم (یعنی زید) ہمارے بھائی اور دوست ہو گئے عبد اللہ بن

ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بعث اللہ علیہ وسلم بعثا وامر علیہم اسماہ بن

عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس پر اسامہ بن زید کو افسر مقرر

زید فظعن بعض الناس فی امارتہ فقال اللہ علیہ وسلم ان تطعن فی

کیا تو بعض لوگوں نے ان کے افسر ہونے پر اعتراض کیا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے افسر

امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارۃ ائیینہ من قبل وایم اللہ ان کان کخلیقا

ہونے پر اعتراض کرتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے باپ کے افسر ہونے پر بھی اعتراض کیا تھا اور اللہ کی قسم کہ وہ افسر

للایمارۃ وان کان لمن احب الناس الی واران هذا لمن احب الناس الی بعدہ

ہونے کے قابل تھے ورنہ لوگوں میں سے تم جو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں اور ان کے بعد یہ اسامان لوگوں میں سے جو مجھ سے زیادہ محبوب

۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

بھی نہیں جانتے ۱۔ اسے راغب کہتے ہیں الصہو الحق صہر داماد کو کہتے ہیں اور امام نووی کہتے ہیں الصہر یطلق علی اقارب الزوجین والمصدا کہ
المقاربتہ بین المتباعدین صہر میاں بیوی کے قریبیوں کو کہتے ہیں۔ ابو العاص بن ربیع حضرت عثمان حضرت علی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
داماد تھے۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ابو العاص کے نکاح میں تھیں اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں۔ اور حضرت ام کلثوم
حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ ان تین بزرگوں کے علاوہ ابن ابی اسب سے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن باپ کے کہنے سے اس نے تقاربت
سے پیچھے انہیں امگ کر دیا اور وہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں ۱۔ مسئلہ یہاں لفظ یہ ہیں ان علیا خطب بنت ابی جہل ضہعت بذلتک فان
فانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یزعم قومک انک لا تقضب لبنا تک وھذا علی تاکم بنت ابی جہل فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فسمعتہ حین تشہد یقول اما بعدا نکحت ابی العاص بن الربیع فحدثنی وصدقنی وان فاطمہ بضعتہ منی وانی اکوہ ان یسوعہا
واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبت عدو اللہ عند رجل واحد فتروک علی الخیطیہ ووسری روایت میں یہ زیادہ ہے
سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واکوہ عدو اللہ من بی بی جدر شمس فاشقی علیہ فی مصاہرتہ ایتناکنا حسن قال حدثنی نصر بن عوف ووعد بن عوف
لی۔ دیکھو حدیث ۱۴۰۸ پر نوٹ ۱۔ محمد زید بن حارثہ قبیلہ بنی مہلب میں سے تھے۔ جاہلیت میں وہ قیدی ہو کر لائے گئے حکیم بن حزام نے انہیں اپنی بیٹی
حضرت خدیجہ کے لئے خریدا۔ حضرت خدیجہ نے زید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا۔ ان کے باپ اور چچا کو علم ہوا تو وہ انہیں لینے کے
لئے مکہ شریف آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیدی کے کر زید کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ زید کو اختیار ہے
کہ آپ کے ساتھ جائیں یا یہاں رہیں۔ زید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا
تھا۔ انت اخونا ومولانا ۱۷۵۴ کے آخر میں گذر چکا۔ زید بن حارثہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ۱۔ مسئلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی وفات سے دو روز پہلے شام کی چھ پر بھیجے کیلئے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا افسر اسامہ بن زید کو بنایا اور اپنے ہاتھ سے نشان تیار کر کے
اسے دیا۔ اس لشکر میں اسامہ کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکر عمر ابو سعیدہ سعد بن ابی وقاص سعید بن زید قتادہ بن انعمان
سعد بن اسلم وغیرہ تھے بعض لوگوں نے اسامہ کے افسر فوج ہونے پر اعتراض کیا ان میں سے عباس بن ابی سفیان وغیرہ بھی تھے حضرت
عمر نے ان کو جواب دیا اور اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جس پر آنحضرت نے وہ الفاظ فرمائے جن کا ذکر اس حدیث میں ہے۔
زید بن حارثہ کو سات مرتبہ سراپا کا افسر عسکر بنایا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسادات کا وہ نمونہ دکھایا کہ غلاموں کو بھی فوج کا افسر بنایا
پھر اس فوج کا جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے ۱۔

۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰

(۵-۱۷۵) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۸۱) بَابُ ذِكْرِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
 دیکھو حدیث ۱۷۵ ع ۱۸۱ بابل اسامہ بن زید کا ذکر
 (۵-۱۷۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۸۲) (۱۵۵۹-۱۷۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا)
 دیکھو حدیث ۱۷۶ ع ۱۵۵۹ دیکھو حدیث
 (۱۵۵۹) (۱۸۱) بَابُ (۱۷۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ
 ۱۵۵۹ ع ۱۸۱ بابل عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہا ابن عمر نے ایک شخص کو
 يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ سَجِبَ ثِيَابُهُ فِي نَاحِيَةِ مَنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ
 کو دیکھا اور وہ مسجد میں تھے کہ وہ مسجد کے ایک کونے میں اپنے کپڑے گھسٹ رہا تھا تو کہا
 انظر من هذا أليت هذا عندى قال له إنسان أما تعرفت هذا يا أبا عبد
 دیکھ یہ کون ہے کا ش یہ میرے پاس ہوتا تو میں سے نصیحت کرتا ایک آدمی نے ان سے کہا ابوعبدالرحمن آپ سے نہیں
 الرحمن هذا محمد بن أسامة قال فطاطا ابن عمر رأسه ونقر بيديه في
 پہچانتے یہ محمد بن اسامہ ہیں تو ابن عمر نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین
 الأرض ثم قال لو رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبته (۱۷۷) عَنْ
 کو کہنے لگے پھر کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے تو اس سے محبت کرتے ہوتے
 أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
 كان يأخذها وأحسن فيقول اللهم أحبها فإني أحبها (۱۷۸) (۱۷۷) عَنْ
 آنحضرت مجھے اور امام حسن کو اٹھائے اور فرماتے یا اللہ ان دونوں سے محبت کر میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں
 مؤلى لأسامة (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۸) (۱۷۸) عَنْ حُرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
 دیکھو حدیث ۱۷۸ ع ۱۷۸ زید اسامہ بن زید کے غلام سے روایت ہے
 أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحِجَابُ بْنُ أَيْمَنَ فَلَمْ يَتَمَّ
 کہ وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے کہ حجاج بن امین آیا اور اس نے اپنا
 رُكُوعَهُ وَلَا سَجُودَهُ فَقَالَ أَعَدَّ فَمَا وُلَى قَالَ لِي بِنِ عُمَرَ مَنْ هَذَا أَقُلْتُ
 رکوع اور سجدہ پورا نہیں کیا تو ابن عمر نے کہا نماز ٹوٹا تو جب وہ بیٹھ پھیر کر چلا تو ابن عمر نے مجھ سے کہا یہ کون ہے جس نے کہا
 الْحِجَابُ بْنُ أَيْمَنَ بِنِ عُمَرَ فَقَالَ بِنِ عُمَرَ لَوْ كَرَأَى هَذَا رَسُولَ اللَّهِ
 حجاج بن امین ام امین کا پوتا تو ابن عمر نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے

فقالوا من يكتم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجترى أحد أن يكلمه فكلهم أسامة بن زيد فقال ابن عباس أرى فيهم الشريك تركوه وإذا سرق الضيف قطعوا لركانت فأطمة لقطعته يداهما عكاشة ميريسه باس ہوتا یعنی میں ان کو نصیحت کرتا کہ اگر کسی نے اسے سنا کہ میں نے زمین پر گھسٹتا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ اسامہ بن زید اور ان کی والدہ ام ایمن سے محبت کرتے تھے اس لئے ابن عمر نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسامہ کو دیکھتے تو ان سے بھی محبت کرتے۔ اے اسامہ بن زید! زاد کردہ غلام کے بیٹے اور امام حسن اپنی صاحبزادی کے بیٹے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں برابر رکھا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھو۔ اے اسامہ بن زید! اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ ان الحجاج بن امین بن ام ایمن رکات ایمن بن ام ایمن اسی اسامہ کا ماں اور وہ رجل من الانصار فرما کہ ابن عمر لہ دیمہ رکوعہ ولا سجدہ فقال اعد۔ اس کی تفصیل انجلی روایت میں آتی ہے +

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّهُ ذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَكَلَتْهُ أُمَّ أَيْمَنَ (روفي روایت)

تو اس سے محبت کرتے پھر (ابن عمر نے) امین اور ام ایمن کی ولاد سے آنحضرت کی محبت کا ذکر کیا اور ایک

وَكَانَتْ حَاضِنَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۹) بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

روایت میں ہے کہ ام ایمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی تھیں۔ باب مناقب عبد اللہ بن

عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (۱۵۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَتْ كَرَمًا (۶۱۴)

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما (۱۵۸) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

(۱۵۹) عَنْ حَفْصَةَ رَمَتْ كَرَمًا (۹۱۴) بَابُ مَنَاقِبِ عَتَارِقَ

عنا کے فضائل۔ باب مناقب عتاریق

حَدَّثَنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (۶۶۸) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَرِئْتُ الشَّامَ

رضی اللہ عنہما کے فضائل۔ علقمہ سے روایت ہے کہ میں شام کے ملک میں آیا

فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيصًا صَالِحًا فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ

تو دو رکعتیں پڑھیں پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے ایک نیک رفیق بہر پہنچا تو میں پھر لوگوں کے پاس گیا اور ان

إِيَهُمْ فَاذْ شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيَّ جُنُبِي قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو الزُّرْدَاءِ

کے پاس بیٹھا اتنے میں ایک بوڑھا آیا اور میرے پہلو میں بیٹھ گیا میں نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا ابو الزرداء

فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُكَلِّمَنِي جَلِيصًا صَالِحًا فَيَسِّرْ لِي قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ

(صحابی) ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے لئے ایک نیک رفیق بھیج کرے تو اللہ نے آپ کو میرے لئے عنایت فرمایا

قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَوْلَيْسَ عِنْدَكَ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ صَاحِبِ التَّلْعَيْنِ وَ

انہوں نے پوچھا تم کون لوگوں میں سے ہو گے کہا کوفہ والوں میں سے فرمایا کیا تمہارے پاس ام عبد کا بیٹا نہیں ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

الْوَسَادِ وَالْمُظْهَرَةَ وَفِيكُمْ الدَّرَجِيُّ أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ بَلِيغِهِ

کی چوتھیاں تمہاری اور وضو کا رتن اٹھائے رکھتا تھا اور تم میں وہ نہیں جسے اللہ نے شیطان سے ایسی ہی کی زبان پر بچایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْدِيُّ

کیا تم میں سیر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دار نہیں ہے

لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ غَيْرَكَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يُقْرَأُ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّيْلُ إِذَا يُقْرَأَ نَقَرَاتُ عَلَيْهِ

جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا پھر پوچھا عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسے کرتے تھے

سنت نبوی کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔ احادیث کثرت کے ساتھ ان سے مروی ہیں۔ زہد و تقویٰ میں خصوصیت رکھتے تھے۔ بعثت

نبوی کے دوسرے یا تیسرے سال ان کی پیدائش ہے۔ جنگ بدر کے وقت انکی عمر تیرہ برس کی تھی۔ کتب صحیحہ کے شروع میں ان کی وفات ہوئی

۱۵۸ مکر روایت کا مستفون تقریباً انہی الفاظ میں دوہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں کنت غلاماً مشابہا کی جگہ ہے کنت غلاماً اعزب یعنی میں شاہ

شدہ جوان تھا۔ اور اعوذ باللہ من النار و مرتبہ ہے اور فلحقینا ملک اخری جگہ ہے۔ فلحقینا ملک اخری جگہ مکر روایت مختصر ہے

عن حفصة رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان عبد الله رجل صالح. عمار کے باپ کا نام یا سر تھا ماں کا نام مہی

کنیت ابو الیقظان بہت پہلے اسلام لائے تھے ان کے والد اور والدہ بھی قدیم الاسلام تھے چونکہ یہ بہت غریب تھے اس لئے اسلام لائیں تو

ان کو بہت دکھ دیا گیا۔ ان کی ماں کو بڑی سفائی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ اسلام میں سے ہیں مگر عمار کے بعد اسلام لائے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ

جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حدیث میں ایمان بھی قدماء ہی الاسلام میں سے ہیں مگر عمار کے بعد اسلام لائے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ پیغمبروں کے متعلق ان کے پاس خاص علم تھا۔ عمار اور حذیفہ دونوں کو ایک ہی عنوان میں جمع کیا اس لئے کہ دونوں

کی فضیلت کا ایک ہی حدیث میں ذکر ہے۔ اس میں ابن مسعود کا بھی ذکر ہے مگر ان کے اور بھی فضائل ہیں اس لئے ان کے لئے الگ عنوان قائم

کی۔ حذیفہ کے لئے بھی مناقب کے آخر میں الگ عنوان قائم کیا مگر اس سے زیادہ تر فقہاء اس کے والدیمان کا ذکر ہے

کی۔ حذیفہ کے لئے بھی مناقب کے آخر میں الگ عنوان قائم کیا مگر اس سے زیادہ تر فقہاء اس کے والدیمان کا ذکر ہے

کی۔ حذیفہ کے لئے بھی مناقب کے آخر میں الگ عنوان قائم کیا مگر اس سے زیادہ تر فقہاء اس کے والدیمان کا ذکر ہے

۱۵۸ مکر روایت کا مستفون تقریباً انہی الفاظ میں دوہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں کنت غلاماً مشابہا کی جگہ ہے کنت غلاماً اعزب یعنی میں شاہ شدہ جوان تھا۔ اور اعوذ باللہ من النار و مرتبہ ہے اور فلحقینا ملک اخری جگہ ہے۔ فلحقینا ملک اخری جگہ مکر روایت مختصر ہے عن حفصة رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان عبد الله رجل صالح. عمار کے باپ کا نام یا سر تھا ماں کا نام مہی کنیت ابو الیقظان بہت پہلے اسلام لائے تھے ان کے والد اور والدہ بھی قدیم الاسلام تھے چونکہ یہ بہت غریب تھے اس لئے اسلام لائیں تو ان کو بہت دکھ دیا گیا۔ ان کی ماں کو بڑی سفائی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ اسلام میں سے ہیں مگر عمار کے بعد اسلام لائے ان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ پیغمبروں کے متعلق ان کے پاس خاص علم تھا۔ عمار اور حذیفہ دونوں کو ایک ہی عنوان میں جمع کیا اس لئے کہ دونوں کی فضیلت کا ایک ہی حدیث میں ذکر ہے۔ اس میں ابن مسعود کا بھی ذکر ہے مگر ان کے اور بھی فضائل ہیں اس لئے ان کے لئے الگ عنوان قائم کی۔ حذیفہ کے لئے بھی مناقب کے آخر میں الگ عنوان قائم کیا مگر اس سے زیادہ تر فقہاء اس کے والدیمان کا ذکر ہے

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذِّكْرِ الْاِكْتِنَىٰ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ اَقْرَبْتُهَا
 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذِّكْرِ الْاِكْتِنَىٰ ابوالدرداء نے کہا اللہ کی قسم یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ رَمَى - ۱۷۰ عَنْ عُلُقَمَةَ
 وسلم نے اپنے منہ سے میرے منہ میں (لفظ ڈالتے ہوئے) مجھے پڑھا یا علی
 (متکثر - ۲۱۸) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ
 دیکھو حدیث ۲۱۸ باب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے فضائل علی
 عَنْهُ ۱۷۱ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيْمَنُهَا الْأَمَةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
 کہ ہر ایک امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں علی
 الْجَرَّاحِ رَمَى - ۱۷۰ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۷۰ صاحب التعلین
 وغیرہ سے مراد
 حضرت عبد اللہ
 ابن مسعود ہیں
 جو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 کے خدام خاص
 میں سے تھے اور
 ہر وقت ساتھ
 رہتے تھے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 کے گفتش بردار
 تھے۔ آج کل تک
 مسواک شکر کے
 کاربن اُن کے

پاس ہوتے تھے۔ من اجارہ اللہ من الشیطان سے مراد عمار بن یاسر ہیں جن کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقتله الغمۃ
 الباعثۃ یدعوہم الی الجنة یدعوہم الی النار جو علیؑ میں گزر چکا۔ اور صاحب سوال النبی الخ سے مراد ذئب بن ایمان ہیں۔ یہ تینوں بزرگ
 صحابی کوفہ میں تھے ابوالدرداء صحابی نے عتقر سے فرمایا کہ ایسے عظیم الشان علم والے صحابہ جب کوفہ میں تھے اسے پاس موجود ہیں تو ان کے بعد
 تم کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اذ ایغشیٰ کی قرأت کا ذکر کتاب التفسیر میں آئے گا چاہے علیؑ یہاں خود حدیث کے اندر شرح کر دیا
 ہے۔ لفظ یہ ہیں۔ قال ذهب علقمۃ الی اناہ فلما دخل المسجد قال اللهم بیئروا جلیساً صالحاً فجلس الی ابی الدرداء فقال ابوالدرداء
 ممن ات قال من اهل کوفۃ قال الیس فیکم او منکم صاحب السوال الذی لا یعلمہ غیرہ یعنی حذیفہ قال قلت بلی قال الیس فیکم ومنکم
 الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من الشیطان یعنی عمار کا قلت بلی قال الیس فیکم او منکم صاحب السوالک والسواد اور اسرار
 قال بلی قال کیف کان عبداً للہ یقرأ اللیل اذ یغشیٰ والنہار اذ تجلی قلت واذا کوا لا نشی قال ما زال بی ہولاً حتی کادوا یستنزونی
 عن شئی سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ابن مسعود کو صاحب السواد کہا ہے اور سواد کے اصل معنی شخص کے ہیں اور مراد اس
 سے مراد ہے یعنی رازدار۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا اذ نک علی ان ترقع الحجاب وتستمع سوادی حتی
 انہماک۔ ابن مسعود چونکہ آپ کی مسواک جوئی وغیرہ کی حفاظت کرتے تھے۔ اور آپ نہاتے تو پرودہ کرتے تھے۔ اور ان کو اجازت تھی کہ وہ
 آپ کے پاس اندر چلے جائیں۔ اس لئے صحابہ میں صاحب السواد کے نام سے مشہور تھے۔ یستنزونی سے مراد ہے کہ مجھے اس قرأت
 سے ہٹا کر دوسری قرأت پڑگانا چاہتے ہیں۔ علی عشرہ مبشرہ بالجنتہ میں سے حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، سعید بن ابی وقاصؓ
 زبیرؓ، طلحہؓ کے مناقب کا ذکر ہو چکا۔ حضرت ابو عبیدہ ان میں سے آٹھویں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید کے
 مناقب کا باب بخاری کے کسی نسخہ میں نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا نام عامر بن عبد اللہ ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ عامر بن
 عبد اللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن عتبہ الخثر بن نسر۔ سلسلہ نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمیں جا کر ملتا
 ہے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں شام کی افواج کا امیر مقرر کیا تھا۔ سلسلہ میں طاعون سے انتقال کیا علیؑ امین سے مراد روپیہ پیسے کے حساب
 کتاب کا امین نہیں ہے بلکہ وہ مراد ہے جو ہر ایک شعبہ زندگی میں قابل اعتماد اور اس کا کام قابل تعریف اور پسندیدہ ہو۔ امانت کی صفت
 اور صحابہ میں بھی مشترک طور سے موجود تھی مگر بعض میں بعض صفات کا پہلو خاص طور سے نمایاں موجود ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت
 میں جو تیزی میں ہے بعض اور صحابہ کے بعض خاص صفات کا ذکر ہے۔ اس روایت کے لفظ یہ ہیں۔ ارحم امتی یا امتی ابوبکرؓ۔ ارشدہم
 فی امر اللہ عمرؓ۔ فاصد قہرہم حیاء عثمانؓ۔ وافرہم نکتاب اللہ ابی۔ وافرہم زین بناتہم واعلمہم بالحل لالحرام معاذ بن جبل۔ الاوان
 ذکی امۃ ایمناً۔ اور اس کے بعد ابو عبیدہ کا ذکر امانت ان الفاظ میں کیا جو یہاں ہیں اور بعض روایتوں میں حضرت علیؑ کی نسبت یہ الفاظ ہیں
 واقضاهم علیؑ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهِلِ نَجْرَانَ لَا بُعْثَانَ يَعْنِي عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمِينًا حَتَّى أَمِينًا

نجران والوں سے فرمایا میں تمہارے پاس ایک امین پکا امین بھیجوں گا

فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ فَبُعِثَ أَبُو عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۱) بَابُ دَكْرِي

تو آپ کے صحابہ منتظر رہے آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا

مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ (۲۲) بَابُ مَنْ قَابِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

بن عمیر کا ذکر

قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ

نافع بن جبیر نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن سے معاف کیا

(۵-۱۷۶۱) عَنْ الْحُسَيْنِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۲۶۰-۵) (۱۷۶۲) عَنْ أُسَامَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۷۶۳)

دیکھو حدیث ۱۲۶۰-۵ دیکھو حدیث ۱۷۶۳

(۱۷۶۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس امام حسین

أَحْسَنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَجَّلَ فِي طَسْتٍ فَمَجَّلَ يَكْتُوَةٌ وَقَالَ فِي حُسَيْنِهِ شَيْئًا

رضی اللہ عنہ کا سر نایا گیا اور ایک طشت میں رکھا گیا تو وہ چھڑی سے اشارہ کرتے لگا اور ان کے من کی نسبت کچھ کہا

فَقَالَ أَنَسٌ كَأَنَّ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

انس نے کہا وہ سب سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور انہوں نے

علا نجران ایک شہر کا نام ہے جو یمن کے قریب ہے۔ نجران کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ جن کی تعداد ساٹھ تھی اس کا ذکر کتاب المغازی میں آئے گا۔ اس میں روایت ہے۔ ان اہل یمن قریباً عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اجبت معاً رجلاً يعلمنا السنة

وَأَسْلَمَ فَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأَمَةُ - معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے نجران والوں کی اہل یمن سے تعبیر کی ہے کیونکہ نجران یمن کے قریب ہے۔ مسلم کی اس روایت میں نیز کتاب المغازی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک شخص امین بھیجیں۔ نجران والوں نے جزیہ قبول کر کے مصابحت کی تھی اور اس کے وصول کے لئے آنحضرت کی خدمت میں ایک امین شخص کی درخواست کی تھی۔ اور روایت مسلم اس بات کی بھی کہ وہ ہمیں اسلام سکھائے یا اسلام کی تبلیغ کرے۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ان میں سید اور عاتق بعد میں اسلام لائے، علا مصعب بن عمیر کی فضیلت کرنے کیلئے امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے۔ علا میں عبد الرحمن بن عوف کا قول مصعب کے متعلق ان الفاظ سے گذر چکا۔ قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی۔ کفن فی بردة ان عطف رأسہ بدت رجلاً وان عطف رجلاً بد رأسہ۔ اس وقت ایمان لائے جب رسول اللہ صلعم ارقم کے گھر میں وعظ وتبلیغ کرتے اور نماز ادا کرتے تھے جب ان کے قریبیوں کو ان کے سلمان ہونے کا پتہ لگا تو انہوں نے انہیں قید کر دیا۔ پھر وہ حبش کی پہلی ہجرت کے وقت ہجرت کر گئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد آنحضرت صلعم نے مصعب کو مدینہ والوں کی تعلیم کے لئے بھیجا اور انہوں نے ہی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ کو جمع پڑھایا بدر میں شریک ہوئے اور اہل مدینہ شہید ہوئے، علا حضرت امام حسن علیہ السلام رمضان ۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۳ھ میں مدینہ میں زہر سے شہید کئے گئے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام شعبان ۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اور عاشوراء کے دن ۳۳ھ میں دشت کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن کا عظیم الشان کارنامہ جس کا ذکر آگے حدیث میں آتا ہے۔ مسلمانوں میں صلعم کے لئے خلافت کا ترک کر دینا ہے۔ اور امام حسین کا عظیم الشان کارنامہ مرہم اور ناپاکی کے مقابلہ میں جنگ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو قلت میں جانتے ہوئے جان دے دینا ہے۔ علا یہ روایت کتاب البیوع علا میں گذر چکی۔ جہاں یہ لفظ آتے ہیں۔ عانقہ وقتلہ وقال اللهم احببہ واحب من یحبہ علا علا لہی حدیث ہے۔ اس کا آخری حصہ ان الفاظ میں دوسرا آیا گیا ہے۔ سمعت ابو بکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وأحسن الی جنبہ ینظر الی الناس مرة والیہ مرة ویقول ابی ہذا استبد ولعل اللہ ان یصلم بہ بین فشتین من المسلمین۔ یہاں حضرت حسن اور معاویہ دونوں کی جامعوں کو مسلم کہا ہے تفصیل کے لئے دیکھو حدیث علا علا اور نوٹ علا علا صفحہ ۶۰۱ و نوٹ علا صفحہ ۶۰۲ علا مکرر روایت میں ہی مضمون تقریباً انہی الفاظ میں دوسرا آیا گیا ہے۔

فَخَصَّوْا بِأَبِي لَوْ سَمِعَهُ (۱۶۷۲) عَنِ الْبَرَاءِ عَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُمُ النَّبِيَّ	۱۶۷۲
وَمَرَّكَ خَضَبًا نَكَا يَابُوتَاهُ طَحْلًا	۱۶۷۲
براء سے روایت ہے	۱۶۷۲
کما میں نے	۱۶۷۲
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ	۱۶۷۲
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا	۱۶۷۲
امام حسن آپ کے کندھے پر تھے فرماتے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر	۱۶۷۲
(۵-۱۶۷۳) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (مِتَكَرِّرًا - ۱۵۸۸) (م - ۱۶۷۳) عَنِ ابْنِ	۱۶۷۳
دیکھو حدیث ۱۵۸۸	۱۶۷۳
عُمَرَ (مِتَكَرِّرًا - ۱۶۵۶) (۱۶۷۳) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدًا أَشْبَهَ بِاللَّيْلِ	۱۶۷۳
دیکھو حدیث ۱۶۵۶	۱۶۷۳
انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص	۱۶۷۳
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ بَنِي عَدْنٍ (۱۶۷۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ	۱۶۷۴
امام حسن بن علی سے زیادہ شاہ ذوق طحا	۱۶۷۴
عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے	۱۶۷۴
وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحَرَّمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ	۱۶۷۴
جب کہ ان سے کسی نے محرم کے متعلق پوچھا شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ پوچھا کہ کیا وہ کبھی کو مار سکتا ہے تو انہوں نے کہا	۱۶۷۴
يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	۱۶۷۴
کہ عراق والے کبھی کے متعلق تو پوچھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے	۱۶۷۴
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رِيحَانَا نَتَامَى مِنَ الدُّنْيَا (۳۳) بَابُ	۱۶۷۴
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا	۱۶۷۴
کہ یہ دونوں دنیا میں سے میرے دو بیٹوں ہیں	۱۶۷۴
مَنَاقِبِ بِلَالِ بْنِ رِبَاعٍ قَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى	۱۶۷۴
بلال بن رباع کے فضائل جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے	۱۶۷۴
رضی اللہ عنہما	۱۶۷۴
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۷۴
اللَّهُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْحِجَّةِ (۱۶۷۵) عَنْ جَابِرِ	۱۶۷۵
میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی	۱۶۷۵
عَنْ جَابِرِ	۱۶۷۵
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا	۱۶۷۵
عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے	۱۶۷۵
کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے	۱۶۷۵
كَمَا أَبُو بَكْرٍ هُمَا كَرَمَاءُ مَرَدٍ أَرِيئِينَ	۱۶۷۵
وَأَحْتَقُّ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالَ (۱۶۷۶) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَوْلَا بَكْرٌ	۱۶۷۶
اور انہوں نے ہمارے سردار کو زیاد کر لیا یعنی بلال کو	۱۶۷۶
قیس سے روایت ہے کہ حضرت بلال نے حضرت ابوبکر سے	۱۶۷۶
إِنْ كُنْتُ إِثْمًا أَشْرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَهْضَمْتَنِي وَإِنْ كُنْتُ إِثْمًا أَشْرَيْتَنِي لِلَّهِ	۱۶۷۶
عرض کیا اگر آپ نے مجھ کو اپنے لئے خرید لیا ہے تو مجھے روک رکھئے	۱۶۷۶
اور اگر آپ نے مجھ کو اللہ کے لئے خرید لیا ہے	۱۶۷۶

عبد اللہ بن زیاد دیرید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کا ایبر تھا۔ اسی کی امارت میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ جہان کا سر کاٹ کر لایا گیا تو عبد اللہ بن زیاد نے اپنی چھٹی امام حسین کے ناک اور آنکھوں میں دینی شریعت کی اور ان کے حن کے متعلق کچھ کہا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ کہا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ اور علی بن میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ انس کہتے ہیں میں نے کہا جہاں تمہاری سولی لگتی ہے میں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ مکرر روایت میں اختصار ہے۔ قال رأیت ابابکر رضی اللہ عنہ وحمل الحسن وهو یقول بابی شیبہ بالنبی لیس شیبہ یعلیٰ وعلیٰ یضلع۔ مکرر روایت کے الفاظ وہی ہیں۔ حضرت صلعم کے نواسے کو قتل کرتے وقت کوئی فتویٰ نہ پوچھا کہ اس کا خون بہانا جائز ہے یا نہ۔ اور کبھی کے مارنے کے متعلق فتوے پوچھتے ہیں یہ شخص ریاکاری ہے۔ بلال کو حضرت ابوبکر نے مشرکوں سے خرید کر آزاد کیا۔ ابوبکر بن ابی شیبہ نے اس صحیح سے قیس بن حازم سے روایت کیا ہے۔ اشتر بن ابوبکر ملا کا جنس اواق وکان مدفرنا یا لحجارا حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو پانچ اوقیہ دو سو درہم سے خریدا اور وہ پتھروں میں دفن تھے۔ سمعت دت نعلیک کی روایت ۶۳ میں گذر چکی ہے۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا باوجود غلام ہونے کے بے نظیر استقلال و ہمت کے مالک تھے کہ دین اسلام اختیار کرنے کی وجہ سے بہت تڑپ گئے۔ یہاں تک کہ جلتے ہوئے پتھروں پر دھوپ میں ٹٹایا جاتا۔ لیکن ان کے استقلال میں ذرہ فرق نہ آیا۔ اس لئے ان کی عزت اور عظمت شان کے لئے حضرت عمر نے انکو سید یعنی سردار کا خطاب دیا۔

فَدَعَانِي وَعَمَلُ اللَّهِ (۲۴) بَابُ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (۱۷۵-۱۷۶)

تو مجھے اللہ کے کام کے لئے چھوڑ دیں۔ باب ابوبکر بن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم) (۶۸-۲۵) بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ

دیکھو حدیث ۳۶۸ باب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فضائل

عَنْهُ (۱۷۶-۱۷۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم) (۶۷-۲۶) بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمِ

دیکھو حدیث ۶۷۷ باب سالم ابوسفیان کے

مَوْلَى أَبِي حَزِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۷۷-۱۷۸) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ

غلام رضی اللہ عنہ کے فضائل مسروق سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کا ذکر

عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

عبداللہ بن عمرو کے سامنے آیا تو کہا یہ ایسے شخص ہیں جن سے میں برابر محبت کرتا ہوں اس کے بعد کہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

کہ قرآن کو چار آدمیوں سے پڑھو عبداللہ بن مسعود سے

فَبَدَأَ بِهِ وَسَأَلَ مَوْلَى أَبِي حَزِيمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا

پہلے ان کا نام لیا اور سالم ابوعزیمہ کے غلام سے اور ابی بکر بن کعب سے اور معاذ بن جبل سے کہا مجھے یاد نہیں کہ پہلے

أَدْرِي بَدَأَ بِأَيِّ أَوْ مَعَاذٍ (۲۷) بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ابی کا نام لیا یا معاذ کا باب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل

۱۷۵-۱۷۶ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا تھا مگر ان کے ساتھ محبت اس قدر تھی کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ بلال آپ سے الگ ہوں چونکہ حضرت بلال بھی ان کو اپنا محسن سمجھتے تھے اس لئے وہ ان کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن بل میں تڑپ تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کیلئے نکلوں

تو جیسا کہ احمد کی روایت میں ہے۔ قال بلال بن بکر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر کی خلافت کے وقت انہوں نے حضرت ابوبکر سے یہ عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ آزادی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ چنانچہ ابن مسعود کی روایت میں حضرت بلال کی درخواست کے یہ لفظ آتے ہیں۔ روایت افضل عمل المؤمن الجهاد فآردت ان اربط في سبيل الله مگر حضرت ابوبکر نے انکو یہ جواب یا اللندك الله وحفي اس کے بعد یہ فاقام مع بلال حتى توفي فلما مات اذن له عمرو فوجه الى الشام۔ اور طاعون عمواس میں وہیں ۱۸ سالہ میں وفات پائی۔ عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے ہجرت سے تین سال قبل ان کی پیدائش ہے اور ۶۸ھ میں طائف میں انتقال کیا۔ فقہاء اور مجتہدین صحابہ میں سے تھے ان کے متعلق علماء کی یہ رائے ہے۔ وكان ابن عباس من اعلم الصحابة بتفسير القرآن میں انک کہ ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فہم قرآن کی دعا کی تھی۔ علمی قدر وائی کی وجہ سے حضرت عمران کو اپنے پاس بٹھاتے تھے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ ۱۷۷ھ میں یہ لفظ میں ضمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ دوق لا اله الا الله علمه المحکمہ۔ ۱۷۸ھ حضرت خالد کا نسب یہ ہے۔ خالد بن الولید بن المغيرة بن عبد اللہ بن عمر بن خزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ مرہ بن کعب میں ان کا سلسلہ نسب جاملتا ہے ان کی کنیت ابوسلمان تھی۔ حدیث میں وفتح مکہ کے درمیان اسلام لائے۔ مشہور صحابہ میں سے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کئی جنگوں میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں جو بغاوت ہوئی تھی یا غیوں اور مرتدین کے مقابلہ میں اللہ نے ان کو فتح دی اور بہت سے بڑے بڑے شہران کے ہاتھ سے فتح ہوئے۔ عہد فاروقی میں بتمام حصہ ۱۸ھ میں انتقال فرمائے گئے۔ ۱۷۹ھ مگر روایت کے شروع میں یہ لفظ زائد ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی زید وجعفر ادا بن رواحتہ لئلا تنس قبل ان فاتمهم خبرهم۔ اس کے بعد ۱۸۰ھ کا مضمون تقریباً انہی الفاظ میں دوہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں تم اخذنا خالد بن الولید من غلام امرأة فقیحہ لہ کے بجائے یہ لفظ ہیں حتی اخذ سبعین من سیوت اللہ فتح اللہ علیہم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ ۱۸۱ھ سالم کے باپ کا نام عتقہ بن ربیع بن عبد شمس تھا۔ اسلام لانے میں سابقین اولین میں سے ہیں۔ کتاب الصلوٰۃ میں گذر چکا کہ ماجرین جب مکہ سے آئے تو قبائلیوں میں ان کی امامت کرتے تھے جنگ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شامل ہوئے۔ ۱۸۲ھ صحابہ میں کثرت سورق و شریک کے قاری اور علم تھے ان چار کا ذکر کسی خاص موقع پر کیا۔ ۱۸۳ھ عبداللہ بن مسعود کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شیح بن ذہیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔ ان کا والد اسلام سے پہلے وفات پا گیا تھا اور انکی والدہ اسلام لائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اسلام میں سابقین اولین میں سے تھے۔ ابن حبان نے ان سے روایت کی ہے کہ وہ اسلام لایوں میں سے چھٹے تھے۔ (بابانی برصند ۸۵)

(م- ۱۷۷۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (م- ۱۵۹۹) (م- ۱۷۷۸) عَنْ عَلْقَمَةَ

دیکھو حدیث ۱۵۹۹

(متکرم- ۱۷۷۸) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْنَا حَازِمَةَ عَنِ

عبدالرحمن بن زید سے روایت ہے کہ ہم نے حذیفہ سے ایسے شخص کے

دیکھو حدیث ۱۷۷۸

رَجُلٍ قَرِيبٍ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَأْخُذَ عِنْدَهُ فَقَالَ

متعلق دریا فت کیا جو خلق اور سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہو تاکہ ہم اس سے سیکھیں تو کہا

مَا أَعْرَفْتُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلَالًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ

میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا جو ابن ام سعد سے زیادہ خلق اور سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو

أَوْ عَبْدِ (م- ۱۷۷۹) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَمَا

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی

وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنَنَا جِنَانًا مَاتَرِي الْأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِّنْ

یمن سے آئے اور کچھ وقت ٹھہرے اور یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر

أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلْنَا مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ امْرَأَتِهِ

دلوں میں سے ایک شخص ہیں کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ اور ان کی ماں رکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۸) بَابُ ذِكْرِ مَعْوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۷۸۰) عَنْ ابْنِ أَبِي

ہیں حدیث باب حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ۱۷۸۰ ابن ابی بکر سے

بقیہ ۱۷۷۷
دو دنوں ہجرت میں
کیس غزوہ بدر
میں شامل ہوئے
حضرت عمر اور
حضرت عثمان کے
عہد خلافت میں
کو فہ کے بیت
الماں کے نزدیکی
تھے۔ ان کو علم
اور فہ عراق میں
ہی زیادہ پھیلے
فقہ حنفیہ کا ماخذ
زیادہ تر انہی کا
علم و اجتناب ہے
آخری عمر میں
آئے اور عہد
عثمان میں سترہ
سین سال سے

زیادہ عمر پا کر انتقال کیا، (مغیر بن عامر) یہاں لفظ یہ ہے: - ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہدین فاحشاً ولا متفحشاً وقال ان من احبكم الى احسنكم اخلاقاً وقال استقرت القرامن من اربعة من عبد الله بن مسعود وسالمه صولى ابى حذيفة وابى بن كعب ومعاذ بن جبل وطلعت ابى حذيفة قال من اين يونس ہے۔ دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسولى جليسا فرايت شيخا مقبلا فلدا دن قلت ارجوان يكون استجاب قال من اين انت قلت من اهل الكوفة قال اذلم يكن نيكه صاحب النعلين والوساد والمطهرة اوله يكن فيكم الذي اجير من الشيطان اوله يكن فيكم صاحب السرى الذى لا يعلمه غيره كيف قرأ ابن ام عبد والليل فقرات والليل اذ البغض والنهار اذ اقبل والذكر والانت قال اقرا فيها النبى صلى الله عليه وسلم فاه الى فى فما زال هولاء حتى كادوا يردوني وطلعت ام عبد الله بن مسعود والهدى والهدى كليت ہے اور ابن ام عبد عبد اللہ بن مسعود ہیں جیسا کہ ۱۷۷۷ میں گذر چکا ابن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور سفر و حضر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی سنت اور سیرت کا پورا علم رکھتے تھے اور ان کی عملی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا آئینہ تھی۔ حدیث ابن مسعود چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ اس لئے آپ کے گھر میں کثرت سے آتے جاتے تھے۔ سلم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ اذ نك على ان ترفع الجحاب وتسمع سوامى۔ میرے پاس آنے کی اجازت تمہارے لئے ہے کہ پردہ اٹھا کر تم میری باتیں سنو یعنی تم کو یہ علم ہو جائے کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ وہ خادم خاص تھے اور ان کے لئے ہر وقت زبانی اجازت لینے میں وقت تھی۔ امیر معاویہ کا سلسلہ نسب یہ ہے معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیر بن عبد شمس نفع مکہ سے پہلے اسلام لائے اور ان کے ماں باپ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ آپ کے کاتب بھی تھے۔ جب ان کے بھائی زید بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے ان کو ۱۹ھ میں دمشق کا گورنر مقرر کیا اور حضرت عثمان کی خلافت تک وہاں گورنر رہے۔ حضرت عثمان کے انتقال کے بعد حضرت علی کی خلافت سے انکار کیا اور دمشق کے مستقل حاکم رہے یہاں تک کہ مقام صفین پر ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ۳۵ھ میں سائے سلمان ان کی امارت پر منتفی ہوئے۔ ۳۵ھ میں انتقال کیا۔ شام میں ان کا کل زمانہ ولایت نیابت اور مملکت چالیس برس ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے کہا ہے۔ لم یجری فی فضائل معاویہ شیء۔ معاویہ کے فضائل کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری کا عنوان میں ذکر معاویہ لکھنا اور منقہ معاویہ نہ لکھنا اس بات کی دلیل ٹھیکہ یا گیا ہے۔ لیکن جب یہ کتاب ہی کتاب مناقب ہے تو اسکے اذ حضرت معاویہ کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ بھی اجلہ صحابہ میں سے تھے۔ اور حدیث باب ۱۷۷۹ میں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں۔ انه نفعیہ

مَلِكَةَ قَالَ أَوْ تَرْمَعِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَقْبَنَ

روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی اور ان کے پاس ابن عباس کا غلام تھا وہ ابن عباس کے

عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعَا فَاَتَاهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۷۶۹)

پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ جانے دو کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سے ہیں۔

عَنْ أَبِي مَلِكَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۶۸۰) (۵- ۱۷۶۰) عَنْ مَرْعِيَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۳۸۹)

دیکھو حدیث ۱۶۸۰ ع اور دیکھو حدیث ۳۸۹ ع

۲۲۹) بَابُ مَنْ أَقْبَبَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَقَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۲۲۹ حضرت فاطمہ علیہا السلام کے فضائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ (۵- ۱۷۶۱) عَنْ الْمُسَوِّزِيِّ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۱)

فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔

(۵- ۱۷۶۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۶۲۳) (۳۰) بَابُ فَضْلِ كُرْشَةَ (۵- ۱۷۶۳)

دیکھو حدیث ۱۶۲۳ ع۔ باب ۳۰ حضرت عائشہ کی فضیلت ع

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۵۶) (۵- ۱۷۶۴) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۳۴)

دیکھو حدیث ۱۲۵۶ ع۔ دیکھو حدیث ۱۵۳۴ ع

قِيلَ لابن عباس هل لك في أم المؤمنين موعوية فانهما أوترا لا بواحدة قال انه فقيه

۱۷۲۳ ع کے آخر پر ان الفاظ سے گزریگی ہے اما ترضین ان تکونی سیدة نساء الجنة و نساء المؤمنین۔ فضیلت کی حدیثوں میں مقابلہ کرنا بہت

مشکل اور آسیدہ کی ہوتی اور وہیں ساتھ ہی مذکور ہے کہ حضرت عائشہ کو تمام دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو شریک کو سب طعام پر۔ تو خاص خاص پہلوئوں کا

یہ سرداری اور فضیلت ہے۔ انقطاع الی اللہ کے لحاظ سے حضرت فاطمہ کو سیدة النساء فرمایا اور آپ کے ہاتھ سے حضرت امام حسن اور حسین جیسے

عظیم الشان انسانوں کی تربیت ہوئی۔ ان دونوں نے انسانیت کے کمال کا ایک ایک نمونہ دکھایا۔ یعنی حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے اتحاد کے لئے

سلطنت سے دستبرواری کی۔ اور امام حسین نے ظلم اور ناپاکی کے مقابلہ کے لئے اپنی جان دیدی۔ مگر اس میں کچھ بھی شبہ نہیں کہ دین کی حفاظت اور اس

کے پہنچانے میں جو مرتبہ حضرت عائشہ کو حاصل ہے وہ دنیا کی اور کسی عورت کو بھی حاصل نہیں۔ خود حضرت فاطمہ کو بھی وہ موقع نہیں ملا۔ یہ بھی یاد رکھنا

چاہئے کہ فضائل کا ذکر اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ حدیث ۱۷۶۴ ع میں صاف مذکور ہے۔ جہاں فرمایا خیر نساء ہا صرح و دخیرو

نساء ہا خدیجہ۔ یعنی اپنے زمانہ کی عورتوں میں بہترین پریم اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں بہترین نہیں تھیں۔ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں خدیجہ سے تھیں

یعنی میں سے کہ حضرت فاطمہ بعثت سے تین اس سال پیدا ہوئیں جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور یہ بعثت سے ۱۰ سال پہلے کا واقعہ

ہے اور مشورہ یہ ہے کہ یہ آپ صم کی عمر کے بیسیسویں سال کا واقعہ ہے یعنی پانچ سال قبل بعثت۔ اور ان کی شادی ہجرت کے دوسرے سال میں

ہوئی۔ اس طرح پر ان کی عمر شادی کے وقت انیس یا بیس سال کی ہوتی ہے۔ ان کی اولاد دو لڑکے حضرت حسن اور حسین اور دو لڑکیاں ام کلثوم

اور زینب تھیں۔ اور ۳۔ رمضان ۱۱ھ کو ان کی وفات ہوئی۔ مگر مکرر روایت کے لفظ م ۱۷۶۹ ع کے ہیں۔ مگر مکرر روایت کے لفظ م ۱۷۶۹ ع کے ہیں۔ مگر مکرر روایت کے لفظ م

کے ہیں۔ مگر حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش یقینی طور سے معین نہیں ہو سکتی۔ مگر اس بات کے باوجود کہ اس کے لئے قوی قرائن ہیں کہ آپ کی ولادت

بعثت نبوی کے قریب قریب ہے۔ آپ کا نکاح آنحضرت صم سے ہجرت سے تین سال پیشتر ہوا اور حضرت خدیجہ سے ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا

آپ کا لقب صدیق ہے جس طرح آپ کے والد بزرگوار کا لقب صدیق ہے۔ اہمات المؤمنین میں علم و فہم اور قوت اجہاد کے رو سے ایک ممتاز

جثیبت رکھتی ہیں ان کا زیادہ زائد لال قرآن کریم سے ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے خلاف اگر کوئی حدیث ان کو پہنچتی تو تاویل کر کے اس کو قرآن کریم

کے مطابق کرتیں اور قرآن کریم کے خلاف کوئی حدیث نہ مانتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ساعلم انہوں نے محفوظ کیا اور امت سے صحابہ و تابعین

نے آپ سے علم حاصل کیا اور نثرت سے احادیث آپ سے مروی ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ احکام شریعہ کا جو حصہ آپ سے منقول ہے۔ آپ کی وفات

حضرت معاویہ کی باتیں سن سہ ہیں ہوئی آپ کی کنیت ام عبد اللہ تھی۔ آپ کا کوئی بیٹہ نہ تھا۔ عبد اللہ بن زبیر آپ کا بیٹا تھا آپ کا تربیت یافتہ تھا۔

انہیں کے نام کے ساتھ آپ کی کنیت ہوئی۔ مگر انہی الفاظ میں حدیث مذکور ہے کہ حضرت عائشہ پر سلام لے کر کہہ لے الفاظ ۱۷۶۴ ع کے ہیں۔

۱۷۶۹ ع
۱۷۶۰ ع
۱۷۶۱ ع
۱۷۶۲ ع
۱۷۶۳ ع
۱۷۶۴ ع
۱۷۶۵ ع
۱۷۶۶ ع
۱۷۶۷ ع
۱۷۶۸ ع
۱۷۶۹ ع
۱۷۷۰ ع
۱۷۷۱ ع
۱۷۷۲ ع
۱۷۷۳ ع
۱۷۷۴ ع
۱۷۷۵ ع
۱۷۷۶ ع
۱۷۷۷ ع
۱۷۷۸ ع
۱۷۷۹ ع
۱۷۸۰ ع
۱۷۸۱ ع
۱۷۸۲ ع
۱۷۸۳ ع
۱۷۸۴ ع
۱۷۸۵ ع
۱۷۸۶ ع
۱۷۸۷ ع
۱۷۸۸ ع
۱۷۸۹ ع
۱۷۹۰ ع
۱۷۹۱ ع
۱۷۹۲ ع
۱۷۹۳ ع
۱۷۹۴ ع
۱۷۹۵ ع
۱۷۹۶ ع
۱۷۹۷ ع
۱۷۹۸ ع
۱۷۹۹ ع
۱۸۰۰ ع

ملک مرتضیٰ
حصہ دوم آیا
گیا ہے۔ فضل
عائشہ علیہ السلام
افضل التزید
علی سائر الطعام
شہید عرب میں سب
سے اعلیٰ کھانا
سمجھا جاتا ہے۔
حضرت عائشہ
کی فضیلت باقی
عورتوں پر ایک
ایسا امر ہے جس
سے کسی کو انکار

(۵-۱۷۷۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۵۳۴) (۱۶۸۱) عَنِ الْقَسِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

دیکھو حدیث ۱۵۳۴ تمام من محدث سے روایت ہے

أَنَّ عَائِشَةَ أَشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَمَّاسٍ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَرِينَ

کہ حضرت عائشہ بیمار ہوئیں ابن عباس آئے اور کہا اے ام المؤمنین آپ اعلیٰ درجے آگے جا بنوانوں کے

عَلَى فَرَطٍ صَدَقَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ

پاس جا میں گی مطلقاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس

(۱۶۸۲) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ

ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت علی نے عمی اور امام حسن کو کوفہ بھیجا تاکہ ان کو مدد کے لئے نکالیں

لِيَسْتَنْفِرَ هُمْ خَطْبَ عَمَّارٍ فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَلَمْ نَأْمُرْ وَجْتَهُ فِي لُدٍّ نِيَادًا لِأَخِي

تو عمی نے خطیب سنا یا اور کہا کہ مجھے علم ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آنحضرت صلعم کی بیوی ہے

وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ لِتُبَيِّنُوا أَوْلِيَاءَهُمْ أَمْ لَا تَأْتِيهِمْ أَلَمْ تَأْتِيهِمْ

مگر اللہ نے تمکو آزمائش میں ڈالا کہ تم اس راہنمائی کی اطاعت کرتے ہو یا ان (حضرت عائشہ) کی بیعت

دیکھو حدیث ۲۴۶۶

نہیں ہو سکتا۔ ایک فضیلت انسان کی اس کے ذاتی زہد و تقویٰ کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک اس کے کام کے لحاظ سے۔ اول الذکر کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ مگر حضرت عائشہ کی فضیلت دونوں پہلوؤں سے ہے۔ زہد و تقویٰ کا یہ حال تھا کہ جو مال آپ کے پاس آتا۔ وہ سب خدا کی راہ میں دے دیتیں اور فوراً تقسیم کر دیتیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جیسا کہ اوپر گذر چکا اس سے کونا چاہا تو آپ ان پر سخت ناراض ہو گئیں اور ان کو اپنے سامنے آنے سے روک دیا۔ خدا کی نعمت اسی دل میں کمال کو پہنچ سکتی ہے جس میں دنیا کے مال کی محبت نہ ہو۔ علم دین جو آپ کی وساطت سے دنیا کو پہنچا اس کی مثال بڑے بڑے صحابہ میں نہیں ملتی۔ پھر اس علم کے ساتھ فقہاء کا بھی نہایت بلند مرتبہ تھا۔ اور کھلی کھری حدیث میں جو حضرت مریم اور امراۃ فرعون کی تکمیل کا ذکر ہے تو اس کے لئے دیکھو سورہ طہیم کی آیت ۱۱۲ جہاں ان دونوں پر زیدہ بیبیوں کا ذکر ہے۔ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اور آسیہ کے ہاتھ سے حضرت موسیٰ کی تربیت ہوئی تو گویا ان دونوں کا یہ کمال ہے کہ ان کے ہاتھ سے اس قدر عظیم الشان انسانوں کی تربیت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی تکمیل تربیت بھی درحقیقت عورت کا بندہ ترین کمال ہے۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے امام حسن اور امام حسین جیسے عظیم الشان انسانوں کی تربیت ہوئی حضرت عائشہ کا ذکر علیؑ کی بیوی کی عورتوں میں اگر یہ کمال تھا تو اس امت میں بھی وہ عورت پیدا ہوئی جس کے ہاتھ سے ایک انسانوں کی تربیت نہیں بلکہ نسل بعد نسل لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی تربیت ہوتی رہی اور جب تک اس زمین پر انسان آباد ہے ہوتی رہے گی۔ مطلقاً ہر چیز سے آگے جانے والی ہے سابق یا مقدم اور صدق ایسے موقع پر حسن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے فی مقصد صدق یعنی اعلیٰ درجہ کا مقام پس فرط صدق سے مراد اعلیٰ درجہ کے آگے جا بنوالے ہیں جن کی تشریح خود ہی کر دی یعنی رسول اللہ صلعم اور حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی اس کے متعلق حضرت علی نے کہنے والوں کی امداد حاصل کرنے کے لئے ہی راہ اور امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ لنتبعوه اوایاھا میں لنتبعوه کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی طرف لو جتی ہے یعنی یہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی۔ حضرت علیؑ جاتر طور سے خلیفہ ہو چکے تھے اور خلیفہ کی اطاعت ضروری ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علیؑ کی حمایت اللہ کی اطاعت ہے اور اس موقع پر حضرت عائشہ کی مدد کرنی چاہئے کیونکہ وہ مطلقاً پر ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ اس معاملہ میں علم اور زہد بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ پر یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے دوقرن فی بیوتکن کی خلافت ورزی کی۔ غلط ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ عورتیں گھروں میں بند رہیں اور کسی ضروری کام کے لئے بھی باہر نہ نکلیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے ہمراہ سفر میں جایا کرتی تھیں اور آنحضرت نے فرمایا لیکن ان شخصوں کو چاہئے کہ حضرت عائشہ علیہا اور زبیر حضرت علی سے یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا ضروری ہے اور اسی وجہ پر وہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ حضرت علی کو قصاص لینے کیلئے جڑو کیا جائے۔ حضرت علیؑ خود بھی اسی بات کو چاہتے تھے مگر ان کی رائے میں حالات موافق نہ تھے۔ نہ حضرت عائشہ علیہا اور زبیر جنگ کرنا چاہتے تھے نہ حضرت علیؑ ایک مفید کردہ تھا وہ بظاہر حضرت علی کی طرفدار ہی کا دم بھرتا تھا اسی نے لڑائی کروائی۔ طرفین کا مقصد ایک تھا مگر طریق کار جدا جدا تھا اور اسی طریق کار کے اختلاف کو مفہم نے آڑ بنا کر دونوں گروہوں کو لڑوایا۔ مگر یہاں روایت مختصر ہے اور الفاظ یہ ہیں: - انہا استعارت من اسماء باقی برص ۸۸۲

(۱۷۷-۱۷۸) عَنْ عُرْوَةَ (متکبر ۱۷۳) (م-۱۷۸) عَنْ عُرْوَةَ (متکبر ۱۷۵)

دیکھو حدیث ۱۷۳ ع دیکھو حدیث ۱۷۵ ع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ رحم کر نیوالے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

۶۳- کتاب مناقب الانصار رضی اللہ عنہم

۶۳- کتاب انصار رضی اللہ عنہم کے فضائل

۱) باب مناقب الانصار والذین تبوءوا الدار والایمان من قبلکم یحبون

باب انصار کے فضائل اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ہجرت کی گھر اور ایمان میں جگہ جانی وہ اس سے محبت کرتے ہیں

مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُنَ فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا (۱۷۸) عَنْ

جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتا ہے اور اپنے سینوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو انہیں یا جانی ہے (بخاری ۱۷۸) عن

عُيَيْنَانَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِ أَسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تَسْمُونَ بِهَا

جریر سے روایت ہے کہ میں نے اس سے کہا بتلائے انصار کا نام تمہیں نے اپنے لئے رکھا ہے

أَمْ سَمَّاكُمْ اللَّهُ قَالَ بَلْ سَمَّاَنَا اللَّهُ كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنْسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْأَنْصَارِ

یا اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے لہذا اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے رعینان نے کہا ہم اس کے پاس جاتے تو وہ ہم سے انصاریوں کے مناقب

بقیہ صفحہ ۶۳
تلاوت ختمت
فاریس رسول
اللہ صلے اللہ علیہ
وسلم ناسا من
اصحابہ فخلبہا
فأدرکتہم الصلیب
فصلوا بغير وضوء
فلما أقر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
شکوا ذلک الیہ
فأنزلت آیۃ التیم
فقالت اسید ابن
حضیر بن ابراہیم
خیر اوفی اللہ ما
نزل بک امر قط
الاجعل اللہ لک
منہ خیرا وجعل
للمسلمین فیہ

برکتہ (صفحہ ۶۳) یہاں لفظ کھ اور میں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا کان فی مرض جعل یدہ فی سائہ ویقول ابن اناخذ ابن اناخذ
حوصا علی بیت عائشۃ قالت عائشۃ فلما کان یومی سکن ۶۳ یہاں اختصار کے ساتھ ۱۷۵ کے ایک حصہ کا مضمون لفظی فرق سے دوہرایا
گیا ہے۔ قال کان الناس یخرون بہذا یا ہم یومرعا شتہ قالت عائشۃ فاجتمہ صواحبی الی امرسلتہ فقلن یا امرسلتہ واللہ ان الناس یتخرون
بہذا یا ہم یومرعا شتہ وانزید الخیر لکما تریہ و عائشۃ فمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یا المرأتا ان یہدن الیہ حیث ما کان او
حیث ما دار قالت فلذکر ذلک امرسلتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاعرض عینی فلما عاوا الخ ذکرت لہ ذلک فاعرض عینی فلما کان فی
الثالثۃ ذکرت لہ فقال یا امرسلتہ لا توذینی فی عائشۃ فاندوا اللہ ما نزل علی لوسی وانافی لحات امرآۃ منکن غیرہا ۶۳ انصار صحابہ
میں سے اوس و خرواج اور ان کے مولیٰ اور حلیوں کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ آیت مندرجہ عنان سورہ حشر کی ہے۔ جس میں انصاریوں کے
فضائل کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہاجرین کے آنے سے پہلے ہجرت کی گھر و مدینہ اور ایمان میں جگہ بنائی یعنی ہاجرین کے مدینہ جانے سے پہلے وہ
ایمان لائے بعثت نبوی کے گیارھویں سال موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے خورج کے چھ آدمی اسلام لائے انہوں نے مدینہ جا کر
تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا اور اگلے سال ان میں سے بارہ آدمی حج کو آئے اور بیعت کی جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور
ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم کے لئے مصعب بن عمیر کو بھیجا ان کی کوششوں کی نتیجہ میں ہوا کہ اسلام مدینہ میں زور سے پھیلا اور پھر موسم حج آیا تو ان
میں سے تتر مرد اور دو عورتیں مکہ میں آئے اور اسی عقبہ کے مقام پر بیعت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لائیںکی دعوت دی اور دشمنوں سے
آپ کی حفاظت کرنے پر بیعت کی۔ آیت مندرجہ عنان میں ان واقعات کا ذکر ہے جو ربیع الاول ۳ھ میں پیش آئے بنونضیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے
پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ دشمن اگر مدینہ پر چڑھ کر آئے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کریں گے مگر بعد میں دشمنوں کے ساتھ ساز
کر کے غدار کی طرح ہوئے جس پر انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ چاہو تو اپنے مکانات میں
سے ہاجرین کو حصہ دے دو اور بنونضیر کی جگہ سب پر تقسیم کر دی جائے اور چاہو تو یہ جگہ صرف ہاجرین کو دے دی جائے تو انہوں نے
عرض کیا کہ ہم اپنے اموال میں سے بھی ہاجرین کو حصہ دیتے ہیں۔ اور اموال بنونضیر بھی ان کو دے دیئے جائیں وکایجنہن فی صدودہم حد
مدا او تو ایں ان کے اسی اشار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار کا گروہ وہ پاک جماعت تھی جن سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی مدد ملی۔
اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن کریم میں انصار رکھا۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار

وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَزْدِ فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَئِذٍ كَذَا

اور ایک جنگی کارنامے بیان کرتے پھر میری طرف یا قبیلہ ازد کے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ تمہاری قوم نے فلاں فلاں

وَكَذَا كَذَا وَكَذَا (۱۶۸۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ بَعَاثٍ

دن یہ یہ کارنامے کئے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبیؐ کا دن ایسا دن تھا

يَوْمَ قَاتَلَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ

جو اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدہ کے لئے پہلے سے لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے

أَفْتَرَقَ مَلُوكُهُمْ وَقَاتَلَتْ سُرُورًا وَأَهْمًا وَبَجَرًا حَوْأَفَقَدِمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے بڑے بڑے لوگوں میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی انکے سردار مقتول اور مجروح ہو چکے تھے تو یہ ان کے اسلام میں نص ہوئے کیونکہ اللہ نے

وَسَلَّمَ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْأَسْلَامِ (۱۶۸۹) عَنْ أَبِي رَيْثَانَ (۱۶۲۷)

اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلے سے بھیجا گیا دیکھو حدیث ۱۶۲۷

(۱۶۲۷) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۶۸۴) عَنْ أَبِي

اسے عبد اللہ بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَسِيمِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یا کہا کہ ابو القاسم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ الْأَنْصَارِ سَلَكُوا وَا دِيَا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصار ایک وادی میں چلیں تو میں بھی انصار کی وادی میں چلوں گا

وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ

اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا تو ابو ہریرہ نے کہا

جنگ یوم بعاث کے نام سے مشہور ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اسلام کیلئے ایک تیار ہی تھی۔ کیونکہ سرکش سردار جو اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالتے مائے جاچکے تھے اور اس لئے بھی کہ ان کی باہمی عداوتوں کے دور ہونے کا کوئی ذریعہ سوائے اسلام کے نہ تھا۔ حضرت مکرر روایت مختصر ہے۔ اور لفظوں میں بھی فرق ہے۔ قالت الانصار يوم فتح مكة واعطى قریشا والله ان هذا هو العجب ان سيفونا تقطع من دماغ قریش وغنائنا ثمنا ترد عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذاعا الانصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغنا قال اولاً ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الي بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الي بيوتكم لو سلكت الانصار وادي او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبا هم۔ میں ذکر یوم فتح مکہ کا ہے اور مراد سال فتح مکہ ہے کیونکہ فتح مکہ میں کوئی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا ذمہ تلوار سے فتح ہوا تھا بلکہ مشرکوں نے خود ہی مرغوب ہو کر ہتھیار ڈال دیئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی اور ہوازن سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا اسی کا ذکر اس حدیث میں ہو گیا کہ حدیث میں صراحت سے ذکر ہے۔ اس حدیث کا ایک فقرہ قابل غور ہے۔ وكانوا لا يكذبون۔ یہ گویا صحابہ کے متعلق بعد کی نسل کی شہادت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جھوٹ نہ بولتے تھے کسی حدیث میں جو ایک آدھ جگہ کذب کا لفظ کسی صحابی کے متعلق استعمال ہوا ہے تو وہ عمداً خلاف واقعات کر نیکے متعلق نہیں۔ بلکہ محض غلط بیان کے متعلق ہے۔ بہت بعد میں جب محدثین نے رادوں کی تنقید شروع کی تو وہ بھی متفق طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ جو روایت کسی صحابی تک پہنچ جائے اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا۔ علامہ عبد اللہ بن زید کی پوری روایت غزوہ حنین میں آئے گی اور حدیث میں یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ ولولا الهجرة لكنت من الانصار۔ آپ ہاجرین میں سے تھے کیونکہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہما جز اور انصار دونوں گروہوں کے نام بڑی عزت سے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک گروہ نے دین کی خاطر اپنا وطن اٹھا چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ نے ان کو جگہ دی۔ دین کے لئے ہجرت اور دین کی نصرت دونوں بڑے بلند مقام ہیں۔ مگر جو ہجرت کرتا ہے وہ نصرت میں بھی شامل ہوتا ہے۔

۱۶۸۳ از زمین کا ایک قبیلہ ہے انصار سب سب کی اولاد تھی ۱۶۸۳ بعاث مدینہ سے دو مہینے کے فاصلہ پر متوقف کے قریب ایک مکان یا قلعہ کا نام تھا۔ یہاں پر ہجرت نبوی سے چار پانچ سال پہلے انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان سخت لڑائی ہوئی دونوں قبیلوں میں سے کثرت سے لوگ مائے گئے اور دونوں طرف کے بڑے بڑے سردار اس میں کام آئے۔ یہ

۱۱ الانصار نے
چاہا کہ انکی اولاد
بھی انصار کے
لقب سے سرفراز
ہوں اور انصار کے
فضائل اور انعامات
میں انکو بھی شامل
کیا جائے۔ آنحضرت
نے اس کے لئے
دعا کی۔ الطور: ۲۰۰
میں اللہ تعالیٰ کا
وعدہ ہے۔ واللذین
۱۱ امنوا واتبعتم
ذریعتہم بآیمان
الحقنا ہم ذریعتہم
۱۱ میں انکی
مضمون پھر آیا ہے
انصاف تقریباً وہی
ہیں۔ البتہ یہاں
مذہب انکی بجائے
یہ لفظ ہے۔ قال
النبي صلى الله
عليه وسلم اللهم جعل
اتباعهم منهم
۱۱ میں انکی
کا عرف ایک حصہ

فَكَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي لَقِيسِي بَيْنَ كَرَامَتِكُمْ أَحَبُّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کیں اور دو مرتبہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم مجھے

الذَّائِبِ إِلَى مَرَّتَيْنِ (۶۷) بَابُ أَتْبَاعِ الْأَنْصَارِ (۱۶۸۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ

سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ باب انصار کی پیروی کرینوالے زید بن ارقم سے

أَرْقَمُ قَالَ لَيْسَ الْأَنْصَارُ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَ

روایت ہے کہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر نبی کے پیرو ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی تو آپ اللہ سے دعا

أَتْبَاعَنَا مِمَّا نَدْعَاهُ بِهِ فَحَمِيَّتُ ذَلِكَ لِي بِنِ ابْنِ أَبِي كَيْلَةَ قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ

کریں کہ وہ ہماری پیروی کرے گا تو اس سے بڑھ کر دعا کی یہ دعا کی میں (عمر بن مرہ) نے یہ حدیث ابن ابی بلی سے بیان کی تو کہا کہ زید

ر-۵- ۱۶۸۲ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (متكرر- ۱۶۸۸) (۶۷) بَابُ فَضْلِ وَرِثَةِ الْأَنْصَارِ

نے یہ کہا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۶۸۸ باب انصار کے گھروں کی فضیلت

ر-۵- ۱۶۸۵ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۶۹۶) (۶۷) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ

دیکھو حدیث ۱۶۹۶ (متكرر- ۱۶۹۶) (۶۷) بَابُ قَوْلِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ أَصِيدٌ وَاحِدٌ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

علیہ وسلم کا انصار سے فرمانا کہ صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملو اسے عبد اللہ بن زید

ابن زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۶۸۹) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حَضْرَمٍ أَنَّ رَجُلًا

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ انصار میں سے

مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا سَتُعْمِدُنِي كَمَا اسْتَحَلَمْتُ فَلَا نَأْتِيكَ

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے عامل نہیں بناتے؟ جس طرح آپ نے فلاں کو عامل بنایا ہے؟ فرمایا

سَتَلْقَوْنَ كَعْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

میرے بعد جن تکلیفی دیکھو گے پس صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر مل جاؤ گے

دوہرایا گیا ہے۔ لفظ یہ ہے:- خیر دو دور الانصار بنو النخار۔ ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث بن خزيم ثم بنو ساعدة و في كل دور الانصار خیر فقال سعد ما ادرى النبي صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا فقتل قد فضلكم على كثير بنى عبد الاشهل قبيلة اوس من سے تھے اور باقی تین خاندان خزرج میں سے تھے۔ ان میں فرق مراتب باعتبار فضائل اور خدمات کے تھا۔ خدمت اور نصرت اسلام کی فضیلت سب کو شامل ہے۔ سعد بن عبادہ بنی ساعدہ میں سے تھے جن کو چوتھے مرتبہ پر رکھا گیا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے بتوں کو ہم پر فضیلت دی جس کے جواب میں ان کے بھتیجے سہل نے کہا کہ تم کو بھی تو بتوں پر فضیلت دی + گئے۔ یہاں یہ لفظ ہے۔ خیر الانصار اوقال خیر دو دور الانصار ما بنو النخار و بنو عبد الاشهل و بنو حارث و بنو ساعدة + گئے۔ یہاں م ۱۶۸۵ کا مضمون دوہرایا گیا ہے۔ مگر آخری جملہ فقال سعد ما ادرى النبي صلى الله عليه وسلم اني قد فضل عليكم فقال ابو اسيد الم تر ان نبى الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا فادرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دو دور الانصار فجعلنا اخرا فقال اوليس محسبكم ان تكونوا من الخيار + گئے۔ عبد اللہ بن زید کی روایت غزوہ حنین میں آتی ہے۔ گئے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سہل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام یا عمدہ دیا یا نہیں۔ البتہ آپ نے اس کو یہ سمجھا یا کہ انصار کی حق تلفی میری موجودگی میں ہرگز نہیں ہوگی ہر ایک کو اپنا حق مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی کام سپرد نہ کیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس کام کے لئے موزوں نہیں ہوگا جو کسی کام کا اہل ہوگا بوقت ضرورت وہ کام ضرور اس کے سپرد ہوگا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی مگر اس وقت صبر سے کام لو۔ چنانچہ بنو امیہ کے زمانہ میں انصار کی حق تلفی ہوئی جس کا م ۱۶۸۹ میں ذکر ہے۔

۱۷۸۸- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم۔ ۱۲۲۷-۱۷۸۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۲۲۷

(متکرم۔ ۱۱۵۰) (۱۹) بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْلِحِ الْأَنْصَارَ

دیکھو حدیث ۱۱۵۰ بَابُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا یا اللہ انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما

أَمْهَلِجُوهُ (م۔ ۱۷۹۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔ ۱۷۹۱) عَنْ أَنَسِ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

بْنِ مَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔ ۱۷۹۲) عَنْ سَهْلِ (متکرم۔ ۱۳۰۷) (۱۰) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

وَيُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (۱۷۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اور دو رسول کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں گو ان کی حالت تنگی کی میوہ (خشہ۔ ۹) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ

سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف

فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضَامُ

دکھی شخص کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پاس تو صرف پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اسکو ساتھ لے جائیگا

يُضَيِّفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّا فَاطِقٌ يَا إِلَى أَصْرَانِهِ فَقَالَ

اسکو گمان رکھے گا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا میں (سے جاؤں گا) وہ اسے لیا اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا

الْكُرْمِيُّ ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْقُوتُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کی عزت کرو وہ بولی ہماری پاس تو صرف میرے بچوں کے

صَبِيئَاتِي فَقَالَ هَيْبَتِي طَعَامِكَ وَأَصْبِحِي سِرَّ اجِّكِ وَتَوْحِي صَبِيئَاتِكَ إِذَا

رات کو کھانا ہے (شہ ہرنے) کہا اپنا کھانا تیار کر اور اپنا چراغ روشن کر اور اپنے بچوں کو جب وہ شام کا کھانا مانگیں

أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّاتْ طَعَامَهُمَا وَأَصْبَحْتِ سِرَّ اجِّهِنَّ وَتَوَمَّتِ صَبِيئَاتِهِنَّ أَتَيْتُمْ

سلا سے اس نے اپنا کھانا تیار کیا اور اپنا چراغ جلایا اور اپنے بچوں کو سلا دیا پھر

قَامَتْ كَاتِبَاتُهُنَّ لِصَلْوَةٍ سِرَّ اجِّهِنَّ فَاطَفَاتُهُنَّ فَجَعَلَ رِيَاءَهُنَّ أَتَيْتُمْ يَا كُرْمَانِ

کھڑی ہو گئی جیسے چراغ درست کر رہی ہے اور اسے سجھادیا اور وہ دونوں نماز کو یہ دیکھتے رہے کہ وہ دونوں کھا رہی ہیں

فَبَاتَا طَارِدَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور دونوں رات کو غالی پیٹ رہے تھے صبح ہوئی تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا

فَقَالَ ضحكُ اللَّهِ اللَّيْلَةَ أَوْ حَبَّ مَنْ فَعَلَ كَمَا فَا نَزَلَ اللَّهُ وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى

آج رات تم دونوں (میں بیوی) کے کام پر اللہ خوش ہو یا اس نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا دیو شہون الخ اور وہ اپنی

أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْتِ شَيْءًا نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلُونَ

جانوں پر اوروں کو مقدم رکھتے ہیں گو ان پر تنگی کی حالت ہو اور جو لوگ اپنے دل کے لالچ سے کچھ لے وہی کامیاب ہو گئے

یہاں تک کہ ایک ٹکڑہ ان لفظ سے دہرایا گیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انکم ستلقون بعد اشرفه فاصبروا حتی تقبونی و موعدکم الخوض علیہا میں روایت یوں ہے: صحیح انس بن مالک رضی اللہ عنہما خروج محمد الی البیت قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار الی ان یقطع لهم الخبز فقالوا الا الان یقطع لاهل اوتانا من المهاجرین مثلها قال اما لا فاصبروا حتی تلقونی فانه سیب صیکم بعد اشرفه حضرت انس وید کے پاس حجاج کے مظاہر نے شکایت کی کہ تم نے کئے تھے مظاہر روایت مختصر صرف اس قدر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش لا عیش الا عیش الخ اخری سلم کے قول ان العیش عیش الا اخری الخ کے جواب میں کسا۔۔۔ یہ راویوں کا اختلاف ہے یہاں بھی اختصار ہے الفاظ یہ ہیں:۔۔۔ حجاج فارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغن مختصر الخندق ونمقل الخراب علیہ الخ التادنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا عیش الا عیش الخ اخری سلم والانصار علیہ اس کی مثال سورہ صمد میں ہے

(م- ۱۴۹۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکرم- ۱۳۸۶) (۱۳) بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۳۸۶ ع ۱۳ باب اسید بن حضیر اور عباد بن بشر

حُضَيْرٍ وَعَبَادِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (م- ۱۴۹۸) عَنْ ابْنِ أَبِي

رضی اللہ عنہما کی فضیلت ع ۱۳ دیکھو حدیث ۳۲۷ ع ۱۳

(۱۴) بَابُ مَنْاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (م- ۱۴۹۹) عَنْ عَبْدِ اللهِ

باب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل ع ۱۴

ابْنِ عَمْرٍو (متکرم- ۱۶۷۷) (۱۵) بَابُ مَنْقَبَةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۱۶۷۷ ع ۱۵ باب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت

وَوَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَدُوحًا (م- ۱۸۰۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

اور حضرت عائشہ نے کہا وہ اس سے پہلے نیک آدمی تھے ع ۱۵

(متکرم- ۱۶۹۶) (۱۶) بَابُ مَنْاقِبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۱۶۹۶ ع ۱۶ باب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضائل ع ۱۶

۱۴۹۷ (بقیہ صفحہ ۸۸۸)
صبح تیسری تھا
پھر اس کو رجوع
کیا ظاہر ہے کہ
جنازہ کے سخت
یا چار یا بی کے
بننے سے سختی طلب
حاصل نہیں ہوتا
اور احادیث صحیحہ
میں عرض الرحمن
کا ذکر ہے سعد بن
معاذ اور برابر
بن عازب و ثول
قبیلہ اوس میں سے

تھے۔ جابر بن عبد اللہ خزرجی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اوس خزرج دو قبیلوں کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ضدائیں (جمع ضغینہ بمعنی حسد اور کینہ) تھے اور میں خزرجی ہوں اور سعواؤسی ہیں مگر اسلام کی بدولت وہ سائے کینے اور حسد جاتے بسے اور ہم بھائی بھائی ہو گئے۔ اس لئے مجھ کو سعد کی فضیلت کے انبار میں خوشی حاصل ہوتی ہے گو برابر کو باوجود اوس ہونے کے اس کا علم نہیں ہے مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اہل تشریح الرحمن لموت سعد بن معاذ (صحف ہذا) علمیاں وہی عقوبت معمولی تشبیہ الفاظ کے ساتھ دوہرایا گیا ہے۔ البتہ یہاں فلما بدنی کی جگہ فلما بلغ قرینا من المسجد۔ یہاں مسجد سے وہ مسجد مراد ہے جو قلعہ کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام محرمہ قرین میں نماز پڑھنے کے لئے بنوائی تھی بعض نے غلطی سے اس کو مسجد نبوی سمجھا ہے۔ اور یہاں حکمت جگہ مذک کی بجائے ہے حکمت بحکمہ اللہ او بحکمہ اللہک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو تمہاری اپنی شریعت میں ہے دیکھو نوٹ ع ۱۶۷۷ صفحہ ۱۶۸۷ ع ۱۴ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر دونوں انصاری بنی عبد المطلب میں سے تھے اور بڑے بلند پایہ کے صحابی تھے حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ انصاریں سے تین نفر ایسے ہیں کہ فضیلت میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں اور وہ بیٹوں بنی عبد المطلب میں سے ہیں۔ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، عباد بن بشر، علمیاں اختصار ہے۔ لفظ یہ ہیں ان رجلین خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمة واذا نوربین ایدہما صحیقا فنفرقا النور جمہما۔ اصل روایت تین م بھی موجود ہیں یہاں دوسری معلق روایت بڑھائی ہے۔ ان اسید بن حضیر ورجلا من الانصار اور ایک ورجلین روایت بڑھائی ہے۔ کان اسید بن حضیر وعباد بن بشر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمیاں حضرت معاذ بن جبل انصاری خزرجی تھے گو جو ان فقہار صحابہ میں سے تھے۔ عقبہ اور بدر میں موجود تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مین کا امیر بنایا تھا۔ پھر مدینہ آئے اور شام کے جہاد کے لئے گئے طاعون عمواس ۱۸ھ میں ان کا انتقال چونتیس سال کی عمر میں ہوا۔ علمیاں اختصار ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول استقرؤ القرآن من اربعة من اربعۃ من ابن مسعود وسالم مولی ابی حذیفۃ وابی ومعاذ بن جبل۔ علمیاں سعد بن عبادہ انصاری خزرجی تھے خولج کے سردار تھے نہایت فیاض اور سخی تھے۔ انصاریں سے قدیم الاسلام تھے حضرت عمر کی خلافت سلطنت یا ۱۸ھ میں بمقام حوران علاقہ شام میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ پر جو بتان لگا گیا تھا اس کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی تو اسید بن حضیر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ تمہارے لئے لگانے والا قبیلہ اوس میں سے ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اور اگر خزرج میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ سعد بن عبادہ جو خزرجی تھے۔ ان کو یہ ناگوار گذرا اور اسید بن حضیر سے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے اس پر دونوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اس سے پہلے نیک آدمی تھے۔ اس کا ذکر سوادہ نور کی تفسیر میں آئے گا۔ علمیاں اس کے لفظ قریب قریب م ۱۸۵۷ کے ہیں البتہ یہاں سعد بن عبادہ کے متعلق یہ لفظ زائد ہیں۔ وکان ذا قدیم فی الاسلام۔ سعد بن عبادہ شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ اسی کا تعلق عنوان سے ہے۔ علمیاں ابی بن کعب انصاری خزرجی بنو نجار میں سے تھے۔ انصاریں سے قدیم الاسلام تھے۔ بیعت عقبہ میں موجود تھے اور بدر میں شریک جنگ ہوئے۔ قرآن کریم کے جمع کرنے والوں میں سے خاص طور پر ممتاز ہیں ۱۸ھ ہجری میں وفات پائی۔

(۱۸۰۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَتَكَرَّرًا ۱۶۷۷/۱۶۷۸ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۶۷۷/۱۶۷۸ انس بن مالک رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَبِئْسَ صَاحِبٌ لَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي إِنْ أَمَرَ فَيَأْتِي

سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ

أَقْرَأ عَلَيْكَ لِمَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا وَسَمِعَانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى (۱۶۷۹) بَابُ

سورہ لہ یکن الذین کفروا قائلوں ابی نے کہا کیا اللہ نے مجھ کو نام لیا ہے تو وہاں تو وہ روپوشے

مَنَاقِبُ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۶۸۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل

الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ كَلِمَاتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

زمانے میں چار آویوں نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا یہ سائے انصار میں سے تھے

أَبِي وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ قُلْتُ لَأَنْسَ مِنْ أَبِو زَيْدٍ

ابی معاذ بن جبل ابو زید اور زید بن ثابت میں نے انس سے کہا ابو زید کون ہیں

قَالَ أَحَدُهُمْ مَتَى (۱۸) بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۸۰۲)

کما میرے ایک چچا تھے

عَنْ أَنَسِ (مَتَكَرَّرًا) ۱۳۲۵/۱۳۲۶ بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ

دیکھو حدیث ۱۳۲۵/۱۳۲۶ یا سفل عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضائل

اللَّهُ عَنْهُ (۱۶۹۴) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْسُقُ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدٍ لَللَّهِ

کہ کسی کے متعلق جو راجح زمین پر چلتا ہے کہ ابو کر یہ جنت والوں میں سے ہے سوائے عبد اللہ بن سلام

ابْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَأْتِي

کے سعد نے کہا اور اس کے متعلق یہ آیت اتری و شہد لہ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے شہادت دی (الاحقاف ۱۰)

میں وفات پائی ۱۳۲۵ جمع قرآن کی بحث کتاب فضائل القرآن میں آئے گی جمع قرآن سے مراد سائے قرآن شریف کا حفظ کرنا بھی ہو سکتا

ہے۔ یہ چاروں قبیلہ خزرج میں سے تھے، ابو طلحہ انصاری خزرجی بنو مخزوم میں سے تھے۔ ام سلمہ انس کی والدہ کے شوہر تھے۔ تیر اندازی

میں مشہور تھے۔ سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ مدینہ میں سطلہ یا سطلہ ہجری میں وفات پائی۔ ایک قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس

سال بعد تک زندہ رہے اور شام میں فوت ہوئے، ۱۳۲۵ میں زیادت ہے یا لفظ یہ ہیں: قال لما كان يوم احد انهم اناس من النبي صلى الله

عليه وسلم و اوطحة بين النبي صلى الله عليه وسلم و اوطحة بن ابي طلحة و اوطحة بن ابي طلحة و اوطحة بن ابي طلحة و اوطحة بن ابي طلحة و اوطحة بن ابي طلحة

شدید القتل دکان کو زور سے کھینچنے والے تھے، کسی یومیث قوسین او ثلثا و كان الرجل يهرمه المجدبة من النبل ريتروں کے

ترکش، فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہما لشدتمتان رینڈیلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے، اری خدم سو قہاران کی پٹیوں کی

پاؤں بہنظران القرب علم متونہما راہی پیٹھوں پر مشکیڑے جلدی لاتی تھیں، تنفر غانہ فی افواہ القوم تترتوحان فتملانہا ثم

تجیان تنفر غانہ فی افواہ القوم ولقد وقع السيف من يدي ابی طلحہ اٹھارہ مرتبہ و اما ثلثا ۱۳۲۵ عبد اللہ بن سلام بیوٹی قینفاع

میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہود کے علماء میں سے تھے۔ جاہلیت میں ان کا نام حصین تھا۔ آنحضرت

صلعم نے ان کا نام عبد اللہ رکھا۔ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ سطلہ میں خلافت معاویہ میں مدینہ میں وفات پائی +

علاحدہ روایت پائی
تقریباً انہی الفاظ کا
میں آئی ہے۔
البتہ یہاں معاذ
بن جبل کا ذکر
ابی بن کعب سے
میلے ہے۔ اور
قال لا ادري
يد ابی بانی و معاذ
کے لفظ یہاں
نہیں ہیں
علا زید بن ثابت
انصاری خزرجی
بنو مخزوم میں
تھے۔ کاتب ابوی
اور فقہا صحابہ
میں سے تھے
حصص میراث
کے علم میں مشہور
تھے۔ جب رسول
اللہ صلعم مدینہ
تشریف لائے
توان کی معرفت
گیارہ سال بھی
شہدہ یا سطلہ
ہجری میں مدینہ

قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَلَكَ الْآيَةُ أَوْ فِي الْحَدِيثِ (۱۶۹۵) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمِيْرٍ قَالَ

كَمَا سَمِعْتَنِي جَانِسَ آيَاتِ كَاذِرٍ مَالِكٌ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

كُنْتُ جَارِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَيَّ وَرَجَعَهُ أَتْرَ الْحَشْوَةِ فَقَالَ وَهَذَا

مِنْ بَدَنِيَّةِ كَيْسِ بْنِ عَمِيْرٍ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جُوزَ فِيهِمَا ثُمَّ سَجَدَ وَتَبِعْتَهُ فَقُلْتَ إِنَّكَ حَيٌّ

جَنَّتِ وَالْوَلِيُّ مِنْ سَعْدِ بْنِ عَمِيْرٍ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَأَوْ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَبْلُغُ إِلَّا أَحَدٌ أَنْ

جَبَّ سَعْدِ بْنِ عَمِيْرٍ دَاخِلٌ بُوَيْتُ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

يَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَاحِدٌ لَكَ لَمْ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوِيَ عَنِ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ أَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ عِزِّي أَعْلَاهُ عَمُودٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

وَصَيْفٌ كَوْفَرٌ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا فَاخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ لَوْ كُنْتُ لَمْ يَأْتِ بِهَدِيثٍ فِيهِ مَعْلَمَةٌ

عنه عليه تو ظاہر ہے کہ آنحضرت صلعم نے اوروں کو بھی جنت کی بشارت دی آپ کے وہ دس بزرگ اصحاب جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں اس لئے منشر کہلاتے ہیں کہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی قحاص نے یہ بات اس وقت بیان کی جب ان اصحاب میں سے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی خود حضرت سعد اور عبداللہ بن سلام زندہ تھے اور باقی بزرگ فوت ہو چکے تھے اور یہ صحیح ہے اس لئے کہ عبداللہ بن سلام سلمہ

کما میں نہیں جانتا آیت کا ذکر مالک نے اپنی طرف سے کیا یا یہ حدیث میں ہے۔ قیس بن عمادہ سے روایت ہو گیا۔ کنت جارسا فی مسجد المدینۃ فدخل رجل علی وجهه أثر الحشوع فقاوا هذا میں مدینے کی مسجد میں بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اس کے چہرے پر حشوع کا اثر تھا لوگوں نے کہا یہ رجل من اهل الجنة فصلی رکتین مجوز فیہما ثم سجد وتبعته فقلت انک حین جنت والوں میں سے ایک شخص ہے اس نے دو رکعتیں پڑھیں انہیں لپکا یا پھر وہ نکلا اور میں اسکے پیچھے چلا میں نے اسے کہا آپ دخلت المسجد فاوا هذا رجل من اهل الجنة قال واللہ ما یبلغ إلا احد ان جب مسجد داخل ہوئے لوگوں نے کہا یہ جنت والوں میں سے ایک شخص ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم کسی کو نہیں چاہئے کہ وہ بتائے کہ جس کا علم اس کو نہیں ہے اور میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ کہیں کہا گیا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علیہ وسلم فقصصتها علیہ ورايت کافی فی روضة ذکر من سعتها وخصرہا ایک خواب دیکھا اور اسے آپ سے بیان کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ کہیں ایک باغ میں ہوں اس کی تناری اور تناری کا ذکر کیا وسطها عمود من حدید اسفلہ فی الارض اعلاہ فی السماء عزی اعلاہ عمود اس کے ہونے کا ستون ہے اس کا بیچ کا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا حصہ آسمان میں اس کے اوپر کی جانب ایک کڑھ ہے فقیل له ارق قلت لا استطيع فاتانی منصف روفی روايت عن ابن سلام اس سے کہا کہ چڑھ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا پھر میرے پاس ایک ہڈی لپکا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک چھوکر آیا وصيف كوفر ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في اعلاها فاخذت بالعمود اس نے پیرے پیچھے سے پیرے کپڑے اٹھائے تو میں چڑھ گیا ہاں تک کہ اس کے اوپر کے سرے پر پہنچ گیا اور کڑھ چھو گیا فقيل له استمسك فاستيقظت ورايتها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الاسلام ذلك العمود عمود الاسلام وتلك العمود نور ما يادہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑھ عودۃ الوثقی عودۃ الوثقی فانت على الاسلام حتى تموت وذاک الرجل عبد اللہ بن سلام در حکم جائے گرفت ہے لہذا اور تم اپنی موت تک اسلام پر رہو گے یہ شخص عبد اللہ بن سلام تھے

میں فوت ہوئے اور حضرت سعد سلمہ بھری میں اور باقی اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے سب سلمہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اور حضرت سعد کے الفاظ روایت میں بقول کا حدیثی علی الارض سے مراد بھی روایت کے وقت زمین پر چلنے والے سہمے یعنی جو آج زندہ ہے ورنہ ان الفاظ کے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وشهد شاهد من بنی اسرائیل علی مئذ کے معنی ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اپنی دیا اس کی راض کی گواہی دی۔ اپنی مثل کی گواہی دینے والے حضرت موسیٰ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا تھا کہ خدا میری مثل ایک نبی تمہارے بھائیوں میں سے (یعنی بنی اسمعیل میں سے) پیدا کرے گا۔ دیکھو اسٹن ۱۸: ۱۵-۱۸ اگر مفسرین نے عموماً اسے عبد اللہ بن سلام کے متعلق لیا ہے۔ اور علی مئذ سے مراد تورات کی مثل یعنی قرآن کو لیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی سچائی کی گواہی دی مگر اس طرح پر تو ادا بھی بہت سے یہودی اسلام لائے علاوہ ازیں عبد اللہ بن سلام کا اسلام لانے کا واقعہ مدینہ سے تعلق رکھتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آنحضرت صلعم کی وفات سے دو سال پیشتر وہ ایمان لائے تھے اور سورۃ الاحقاف جس میں یہ آیت ہے کئی سورت ہے اور درمیانی کئی زمانہ کی ہے۔ حدیث کے آخر میں یہ بڑھایا ہے کہ راوی کو شک ہے کہ آیت کے عبد اللہ بن سلام کے متعلق ہونے کے لفظ حدیث کے ہیں یا مالک راوی حدیث کے۔ لہذا قرآن شریف میں آتا ہے فمن یکنف بابطاخوت دیومن باللہ فقد استمسک بالعمود الوثقی لانصاہر لہا البقرہ ۲۴۴ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ہاتھ اس جائے گرفت پر پہنچ گیا تو یہ جائے گرفت اٹھنے والی نہیں ہے

(۱۶۹۶) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرْتِ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ

ابو بردہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ میں آیا اور عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ

تو کہا کیا آتے نہیں ہو کہ میں تمہیں ستواؤں اور لہجوں کھلاؤں اور تم ایک رخاں گھر میں داخل ہو

ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بَارِضٌ لِرَبِّهَا فَأَشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي

پھر کہا تم ایسی سرزمین میں ہو جہاں سو دکھ لایا جاتا ہے جب تمہارا کسی پر حق ہو اور تمیں گھاس کا ایک گٹھ یا جو کا ایک بوچھ

إِلَيْكَ جَمَلٌ تَيْنٌ أَوْ جَمَلٌ شَعْبِرٌ أَوْ جَمَلٌ قَتٌّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَّارٌ

یا چالے گا ایک گٹھ تھفٹے تو اسے نلو کیونکہ وہ سو دے گا

تَزْوِجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَفَضِّلَهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا اور ان کی فضیلت

(۱۸۰۳) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۳۹) (۱۶۹۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

دیکھو حدیث ۱۵۳۹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

قَالَتْ مَا عَرَفْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَرَفْتُ عَلَى

کہا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رخص نہیں ہوا جتنا رخص مجھ کو خدیجہ پر آتا تھا

خَدِيجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُ يَذْكُرُهَا وَأَمْرَهُ اللَّهُ

دعواتم وہ اس سے پہلے فوت ہو چکی تھیں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں جو یہ تھی کہ میں آپ کو ان کا ذکر کرتے سنتی تھی اور

أَنْ يُنَبِّئَ رَهَابِيَّتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحُ الشَّاةَ فِيهِمْ فِي

اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ انہیں حضرت خدیجہ کو ایک ٹوٹی کے محل کی خوشخبری دیں اور آپ بکری ذبح کرتے تو ان کی دوست عورتوں کو

خَلَّالًا لَهَا مِنْهَا مَا يَسْعَمُهُنَّ (۱۸۰۴) (۱۶۹۸) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۹۷)

اتنا گرفتار بھیجتے جو ان کو بس ہوتا تھا دیکھو حدیث ۱۶۹۷

۸۹۲
ملا فی بیت میں
ت پرتنوں تعظیم
کے لئے ہے۔
یعنی ایک غفلت
والے گھر میں طلب
یہ ہے کہ وہ گھر
جہاں تم حضور صلیع
تشریف لیجاتے
تھے۔
تحفہ کو سو قرار
دینا عبد اللہ بن
سلام کے کمال
تقویٰ کی وجہ سے
سے ورنہ جب
مفروض اپنی
خوشی سے اہل
قرضہ سے زیادہ
کوئی چیز دوسے
تو وہ سو نہیں
میں حضرت خدیجہ
کا سلسلہ یہ
یہ ہے۔ خدیجہ
بنت خویلد بن
اسد بن عبد العزی

بن قحی۔ اس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قحی میں جا کر ملتا ہے۔ آنحضرت کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ زکب کاٹھ سے آپ کے
 قریب ترین۔ ان سے نکاح کرتے وقت آپ کی عمر پچیس برس کی تھی اور حضرت خدیجہ کی چالیس سال کی حضرت خدیجہ کو جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے
 پکارا جاتا تھا۔ شادی سے پہلے آنحضرت صلیع خدیجہ کا مال تجارت شام میں لیکر گئے تھے۔ نکاح کے پندرہ برس بعد آپ کی بعثت ہوئی۔ بعثت نبوی کے
 دس برس بعد ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ پچیس برس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ فارجا میں جب سورہ اقرآ
 کی پہلی پانچ آیات کی وحی آپ پر آئی اور گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے ذکر کیا تو اسی وقت وہ آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم کے
 علاوہ جو حضرت ماریکے بطن سے تھے اور ۸۰ ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی۔ جیسا کہ کتاب فضائل
 اصحاب اللہ صلیع کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب فضائل اصحاب اور کتاب فضائل انصار اور تحقیق کتاب مناقب کا ہی حصہ ہے۔ اور اس
 کتاب یعنی مناقب الانصار میں انصار کے مناقب کے بعد اب رسول اللہ صلیع کے حالات کا ہی ذکر ہے۔ اس کے لفظ ۱۵۳۹ کے ہیں۔
 مریم صدیقہ کو اپنے زمانہ کی عورتوں میں سے بہترین (خیر النساء) فرمایا اور حضرت خدیجہ کو اپنے زمانہ کی عورتوں میں سے بہترین ہر ملک مطلب یہ ہے کہ
 حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلیع ان کا ذکر کرتے اور ان کی دوست عورتوں کے پاس تحفے بھیجتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بیویوں کی بھی عورت کرتے تھے۔ مگر حضرت خدیجہ نے نہایت دکھوں اور تکلیفوں کی حالت میں آپ کے ساتھ دیا تھا۔ ۱۵۳۹ کے کچھ کی بیٹی سے
 روایت کو دوہرایا ہے۔ قالت ما عرفت علی امرأۃ ما عرفت علی خدیجہ من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها قالت وتزوجني
 بعد ما بثلاث سنين وامره ربه عز وجل اوجبريل عليه السلام ان يبينها ببیت فی الجنة من قصب۔ یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ
 سے تین سال بعد مجھ سے نکاح کیا۔ مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح اسی سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئیں اور
 اگر مراد شادی لی جائے جب حضرت عائشہ آپ کے گھر میں گئیں تو وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے ٹھیک پانچ سال بعد کا واقعہ ہے پس یہ کسی ادوی کی غلطی ہے

علا حضرت عائشہ
آنحضرت صلعم
کے گھر میں آئیں
تو نو عمر تھیں اور
مکن ہے اس وقت
ان کے منہ سے
ایسے لفظ نکل
گئے ہوں ایک
روایت میں ہے
کہ آنحضرت صلعم نے
اسے ناپسند
کیا تو حضرت عائشہ
نے کہا میں آنحضرت
ان کا ذکر ہمیشہ
بھلائی سو کرتی
علا جسرین
عبداللہ اپنے

قَدْ أَبَدَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا (۲۱) بَابُ ذِكْرِ حُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّيِّ	اور اللہ نے ان کے عوض آپ کی اس سے بہتر رکھ دی ہے۔ باب ۲۱۔ حُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۸۰۶) عَنْ حُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۳۸۰)	کا ذکر علا دیکھو حدیث ۱۳۸۰ علا
(۲۲) بَابُ ذِكْرِ حُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۸۰۷)	باب ۲۲۔ حُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا ذکر علا
عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۳۸۱) بَابُ ذِكْرِ هِنْدِ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رَيْبِعَةَ	دیکھو حدیث ۱۳۸۱ علا ہند بنت عبید بن ربیعہ
ابْنِ رَيْبِعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۸۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۰۸۲)	رضی اللہ عنہا کا ذکر علا دیکھو حدیث ۱۰۸۲ علا
(۲۴) بَابُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ (۱۰۰۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو	باب ۲۴۔ زید بن عمرو بن نفیل کا بیان علا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ	سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمرو بن نفیل سے بلدح کے نشیب میں سے

قبیلہ جمحیہ کے سردار اور نہایت خوبصورت نوجوان تھے۔ وفود کے سال یعنی ۹ سنہ ہجری میں یا سنہ ہجری میں اسلام لائے اور پھر ہجری میں وفات پائی۔ جملہ مکرر روایت کے دو حصے ہیں جو ایک ہی سند سے مروی ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے ما صحیح بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا زانی الا ضحک۔ دوسرے حصہ میں ۱۳۸۱ کا مضمون اختصار سے دوسرا لیا گیا ہے۔ کان فی النجا اهلينة بيت يقال له ذوالخليفة وكان يقال له الكعبة اليمانية اذ الكعبة النشامية فقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت مزيجي من ذى الخليفة قال فنقرت اليه في خمسين ومائة فارس من احمس قال فكسونا وقتلنا من وجدنا عندنا فانتينا واخذنا فخذنا فذعنا لنا ولا احسن جملہ حذیفہ بن یمان کے مناقب کا ذکر پہلے کتاب ۲۲ باب ۲۱ میں مناقب عمار کے ساتھ آچکا ہے۔ ان کے والد یمان بھی مسلمان تھے مگر جنگ احد میں غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گئے جیسا کہ حدیث باب میں ذکر ہے۔ حذیفہ حضرت عمر کے وقت میں مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے چالیس یوم بعد وفات پائی۔ علا الفاظ قریباً ایک ہی ہیں یہاں مشرکوں کی ہزیمت کو ہزیمۃ بینه کہا ہے یعنی کھیل شکست۔ جملہ سند ہند بنت عبدہ ابوسفیان کی بیوی حضرت معادہ کی والدہ تھیں۔ جنگ احد میں اپنے شوہر ابوسفیان کے ساتھ شامل تھیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے لئے آگئی تھیں۔ نوح مکہ میں وہ اسلام لائیں۔ نہایت عقلمند عورتوں میں سے تھیں۔ جب بیعت لینے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ شرط لگائی کہ چوری نہ کرے گی اور نہ بدکاری کو سے گی تو انہوں نے کہا کیا شریف عورت بھی بھی بدکاری کرتی ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں وفات پائی۔ جملہ مکرر روایت کا پہلا حصہ زیادہ ہے۔ جاءت هند بنت عذبة قالت يا رسول الله ما كان علي الظهار الا ارض من اهل خيباء احب الي ان يذلوا من اهل خيباء ثم ما اصبوا اليهم علي الظهار الا ارض اهل خيباء احب الي ان يعزوا ومن اهل خيباء قالت وايضا والذي نفسي بيده قال يا رسول الله ان اباسفان رجل قتيك فهل علي شرج ان اطعمه من الذي له عيال لنا قال لا ارا اكا بالمعروف انكي شرافت اس سے ظاہر ہے کہ جب قرآن میں تو دشمنی میں بھی لکھی گئی تھیں اور جب مسلمان ہوئیں تو پھر اسلام کی اس قدر دلدادہ ہوئیں کہ کما آج مسلمانوں کی عورت سے زیادہ مجھے کچھ پسند نہیں۔ خيباء خيبيه کو کہتے ہیں۔ یہاں شیعہ کی جگہ مستحک کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی نجیل۔ یہاں ایک جواب ان الفاظ میں ہے ان ارا اكا بالمعروف یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دستور کے مطابق خرچ کرو گناہ نہیں۔ وہاں لفظ میں خذی انت دنوكت ما يكفيك بالمعروف۔ یعنی دستور کے مطابق گزارہ کے لئے یلوہ۔ علا زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن خطاب بن نفیل کے چچا زاد بھائی تھے اور سعید بن زید کے بوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں والد تھے۔ موصوفین جاہلیت میں سے تھے شرک سے انکو نفرت تھی بیعت نبوی سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ فاکھی کی روایت میں ہے کہ عامر بن ربیعہ کو زید بن عمرو بن نفیل نے کہا انا انظر نبياً من بني اسمعيل يبعث ولا زاني ادره وانا ومن به واحد قد شاهد اذ نبى وان طالت بك حياة فاقرب مني السلام قال عامر فلما اسلمت اعلمت العبيبة صلى الله عليه وسلم خيبره قال فرد عليه السلام عيني نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زید بن عمرو شام میں تھے جب انہیں رسول اللہ صلعم کے نلو کی خبر ہوئی

۱۰ تو آپ کی طرف آنے کے ارادے سے چلے مگر راستے میں قتل کر دیئے گئے ذہبی نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے

يَا سَفَلَ بَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَقَدِمَتْ

پہلے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترے نبی صلی اللہ

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَرَةً فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ

عید و سلم کے سامنے کھانا لایا گیا آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور پھر زید نے کہا

إِنِّي لَسْتُ أَكُلُ مِنْهَا نَدِيحُونَ عَلَى نَصَائِكُمْ وَلَا أَكُلُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

میں اس میں سے نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں پر ذبح کرتے ہو اور میں سوائے اس کے نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا

وَأَنْ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو كَانَ يُعِيْبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذِكْرَهُمْ وَيَقُولُ لَشَاءَ خَلَقَهَا اللَّهُ

کیا ہو علی اور زید بن عمرو ذرا مل پر ان کے ذبحوں کے شتاق عیب لگاتے تھے اور کہتے کہ ہماری کو پیدا اللہ نے کیا

وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَرَكَوْهُنَّمَا

اور اس کے لئے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے لئے زمین سے گھاس اگایا پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر

عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ أَنْكَارُ الذِّكْرِ وَالْعِظَامُ قَالَ مَوْسَى حَدَّثَنِي سَلَمٌ

ذبح کرتے ہو اس بات کو ناپسند کرتے تھے اور اسے بہت برا جانتے تھے موسیٰ نے کہا مجھ سے سالم نے بیان کیا

ابن مسعودٍ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا لِأَيِّحَدِّثَ بِهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو ابْنِ

اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابن عمر سے یہ روایت کی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل

نُقِيلُ خَرَجَ الرَّحْمِيُّ لِسَامٍ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَّبِعُهُ فَلَمَّا مِنْ إِلَهُمْ سَأَلَهُ

شام کی طرف نکلے زمین (تو تھیں) کے متعلق دریافت کرتے تھے اور اس کی پیروی کرتے تھے تو یہ لوگ کے ایک عالم سے ملے اور

عَنْ دِينِهِمْ فَقَالَ إِنَّ لِي لَعْنَةً أَنْ أَدِينُ دِينَكُمْ فَأَخْبِرْنِي فَقَالَ لَا تَكُونُ

اس سے ان کے دین کے متعلق پوچھا اور کہا شاید میں تمہارا دین اختیار کروں تو مجھے بتاؤ اس نے کہا ہمارے دین کو قبول

عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيئِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ مَا أَفْرَأَ الْأَمْرَ

کرو گے تو اللہ کے غضب سے اپنا حصہ لو گے زید نے کہا میں تو اللہ کے غضب سے

غَضَبِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا وَأَنِّي أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدْرِي

بھاگتا ہوں اور اللہ کے غضب سے تو بھی کچھ نہ لوں گا اور مجھے اس کی طاقت کہاں ہے؟ کیا تم اس کے سوا کوئی

عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيفُ قَالَ دِينَ

اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دین کو اس سے نہیں جانتا مگر ہے دین صیفت ہو زید نے کہا حنیف کیا ہے کہا ابراہیم کا

رَبُّرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبدُ إِلَّا اللَّهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَمَّا مِنَ الْمَاءِ مِنْ

دین وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی نہ وہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرتے تھے پھر زید نکلے اور نصاریٰ میں سے

النَّصَارَى فَذَكَرَهُمْ لَّهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيئِكَ مِنْ لَعْنَةِ

ایک عالم سے ملے اس سے بھی ایسا ہی پوچھا تو اس نے کہا ہمارے دین کو قبول کرو گے تو اللہ کی لعنت سے حصہ لو گے

اللَّهُ قَالَ مَا أَفْرَأَ الْأَمْرَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا

اس نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور نہ اللہ کی لعنت میں سے کچھ اٹھا سکتا ہوں اور نہ اس کے غضب سے اور

أَبَدًا وَأَنِّي أَسْتَطِيعُ فَهَلْ تَدْرِي عَلَى غَيْرِهِ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا

مجھے اس کی طاقت کہاں ہے؟ کیا تم اس کے سوا کوئی دین جانتے ہو کہا مجھ سے اس کا علم نہیں مگر ہے دین صیفت ہو

قَالَ وَمَا الْحَنِيفُ قَالَ دِينَ رَبِّرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا يَعْبدُ

کہا حنیف کیا ہے کہا ابراہیم کا دین وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ اللہ کے سوا

علا فابی میں ضمیر صحت آنحضرت صلی علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کیونکہ آپکا پہنکار اس سے پہلے موجود ہے۔ زید کا ذکر اسکے بعد علیحدہ شروع ہوتا ہے ثور قال زیدانی لست ااكل منها یعنی یہ زید نے بھی کہا کہ میں اس سے نہیں کھانا جن شارحین نے ابی کی ضمیر کو زید کی طرف پھیلایا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دعوت پر آنحضرت صلی علیہ وسلم اور زید دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو آنحضرت صلی علیہ وسلم سے انکار کیا جو زید نے بھی انکار کیا۔ آنحضرت صلی علیہ وسلم سے توڑنا متفق ہونا ایک مسلم تاریخی واقعہ ہے پس آپ بتوں کے نام پر ذبح شدہ بھی نہ کھاتے تھے زید بھی ٹوہدھے اور وہ بھی بتوں کا ذبح نہ کھاتے تھے۔

علاء زید بن عمرو بن نفیل کے دل میں بت پرستی سے جو اس وقت ان کی قوم کا مذہب تھا نفرت تھی اور ان کا دل اس بات کے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ بت پرستی آسمانی دین اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت عرب میں دو بڑے مذہب یہود و نصاریٰ کے تھے جو اپنے دین کو آسمانی اور رضائے الہی کا موجب سمجھتے تھے ان دونوں مذہبوں کے پیروں اور ان کا نقشہ جو زید کے سامنے تھا زید کیسے تسکین

إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا رَأَى زَيْدًا قَوْلَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ

کسی کی پرستش کرنے تھے جب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا قول دیکھا تو وہ نکلے جب باہر نکلے تو اپنے دونوں

يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ اللَّيْثُ

ہاتھ اٹھا کر اور کہا یا اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں اور ایک روایت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ہے

كَتَبَ إِلَى هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ

بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ انہوں نے کہا

رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو وَبَنِيهِمْ فَأَرْتُمَا مَسْنَدًا أَظْهَرَهُ إِلَى الْكُفَّةِ يَقُولُ يَا

کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کھڑے ہوئے دیکھا اپنی پیچھے کی ٹیک کے سے لگائے ہوئے کہ ہے تھے اسے

مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهُ مَا مَعَكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي وَكَانَ صَبِيحِي

قریش کے لوگو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے سوائے دین ابراہیم پر نہیں ہے اور جو لڑکیاں زندہ

الْمَوَدَّةُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ لَا تَقْتُلْهَا أَنَا الْفِيهَا

درگور کی جائی ہو میں ان کو بچا لیتے اور جب کوئی شخص چاہتا کہ اپنی لڑکی کو قتل کرے تو اس سے کہتے اسے قتل نہ کرو تمہاری

مَوَدَّةٌ فَأَيُّهَا خَدَا فَاذْأَتْرَعْتِ قَالَ لَا يَبْهَانُ شَدَّتْ دَفَعَهَا إِلَيْكَ وَأَنْشَدَتْ لِقَبِيلِهَا مَوَدَّةً

جگہ میں لڑکی بچھا لیتا ہوں جب وہ جوان ہو جاتی تو اسکے باپ کہتے اگر تم چاہو تو اس سے تمہارے جانے کہ ہوں درگور تم چاہو تو تمہاری جگہ میں لڑکی بچھا لیتا ہوں

(۲۵) بَابُ بَيْتَانِ الْكُفَّةِ رَم - ۸۰۱ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ص ۲۶۲) (۱۰۰) عَنْ عَمْرٍو

باب کہنے کی تعبیر ۱۰۱ دیکھو حدیث ۲۶۲ ۱۰۰ عن عمرو بن

ابْنِ دِينَارٍ وَعَبِيدِ بْنِ أَبِي رَيْدَةَ رَوَيْتَ فِيهِ دَوْلُونَ لَمَّا

دینار اور عبید اللہ بن ابی ریدہ سے روایت ہے دونوں نے کہا

وَسَلَّمَ حَوْلَ بَيْتِ حَارِطٍ كَانُوا يَصَلُّونَ حَوْلَ بَيْتِ حَتَّى كَانَ عَمْرٍو فِي

بیت اللہ کے گرد دیوار تھی لوگ بیت اللہ کے گرد نماز پڑھتے یہاں تک کہ حضرت عمر کا دم آیا انہوں نے اسکے گرد

حَوْلَهُ حَارِطًا قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ جَدُّهُ قَصِيدًا كَأَنَّ ابْنَ الْبَيْتِ رَم - ۸۰۲ بَابُ أَيُّهَا الْمَجَاهِلِيَّةُ

دیوار بنوادی عبید اللہ نے کہا اسکی دیواریں چھوٹی تھیں تو ابن زبیر نے انہیں تمیز کر کے بچھا لیا ۱۰۲ باب ایہا المجاہلیۃ

اور اطمینان کا موجب نہیں ہوئے۔ اس لئے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا جو ان دونوں مذہبوں کا منبع اور مرکز تھا۔ شام میں علمائے یہود اور

علمائے نصاریٰ میں سے ایک ایک کو لے۔ جب زید نے ان سے ان کے مذہب کے متعلق دریافت کیا کہ اگر وہ صحیح ہے تو میں اس کا پیروں

جاؤں تو دونوں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق بے اطمینانی ظاہر کی وہ اپنی اپنی قوم کی حالت دیکھتے تھے کہ کس طرح توحید کو چھوڑ چکے

ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شام میں یہود اور نصاریٰ کے علمائے ان سے کہا کہ عرب تمہارے ملک میں ایک نبی پیدا ہوئیوالا ہے

تو وہ واپس عرب میں آگئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں ہے۔ سچی المودودۃ - مودودہ وہ لڑکی ہے جسے زندہ

درگور کر کے مار دیا جائے۔ اس کے اچھا سے مراد یہ ہے کہ زید اس بدرم کے خلاف تھے۔ اور جیسا کہ آگے مذکور ہے اسی لڑکیوں کو جو دے کر

پالتے تھے۔ یہاں صرف قریش کی تعمیر ملک کا ذکر ہے۔ یہاں لفظ اور ہیں لہذا بنیت الکعبۃ ذہب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغنیاس

ینقلان الحجارة فقال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلی اذارک علی رقبتيک یقینک من الحجارة فخر الی الارض وطمعت عیناک الی لسانہم فحان فیقال اذاری اذاری فشد علی اذارک - دیکھو ۲۶۲ پر نوٹ - آپ ننگا ہوئے کہ ایک لڑکی نے بھی رداخت نہیں کر سکے اور

فوراً بیوش ہو کر گئے حالانکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت ننگا ہونے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے۔ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف

کرنا بھی تاریخی طور پر ثابت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ زید اللہ کے گرد دیوار سے مراد یہاں کی چار دیواری ہے فتح الباری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر اور حضرت

عمر کے زمانہ میں خاد کعبہ کے ارد گرد گھر تھے تو حضرت عمر نے تنگی کو محسوس کرتے ہوئے ارد گرد کے گھروں کو خرید کر اور مسمار کر کے اس کی جگہ کو مسجد

میں شامل کر دیا اور اسکے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیوار بنادی تاکہ مسجد و مرسے مقامات سے الگ ہو جائے۔ پھر ابن زبیر نے اسے بلند کر دیا۔

۱۰۱ زمانہ جاہلیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر کا زمانہ ہے +

(۱۸۱۰-۱۸۱۱) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم- ۹۵۹) (۱۸۱۱-۱۸۱۲) عَنْ بَنِي عَبْدِ مَنَظَرٍ (متکرم)

دیکھو حدیث ۹۵۹

(۱۴۰۲) ۱۶۰۱-۱۶۰۲ عَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَسَا مَا بَيْنَ

سبب اسے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سیلاب آیا اور دونوں پہاڑوں کے

الْجَبَلَيْنِ قَالَ سَفِينٌ وَيَقُولُ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَأْنٌ (۱۴۰۳) عَنْ

درمیان کو بھڑیا سفیان کہتے ہیں عزیز بن زینار نے کہا اس حدیث کا ایک لمبا قصہ ہے

فَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَرْأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا

بن حازم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر امس کی ایک عورت کے پاس گئے جسے زینب کہتے تھے

زَيْبٌ قَرَأَتْ كَلِمَةً قَالُوا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا

اور اسے دیکھا کہ بات نہیں کرتی تو لوگوں نے کہا اس نے خاموش رہ کر حج کر لی مت مانی ہے آپ نے اس سے کہا بات

لَا يَجِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمْتِ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتِ قَالَ مَرْوَةٌ مِنْ

پر حجت کرو کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جاہلیت کا کام ہے تو وہ بولنے لگی اور پوچھا کہ تم کون ہو کہا ماجرین میں سے ایک شخص ہوں

الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمِّي الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مَنْ قَرِيْشٌ قَالَتْ مِنْ أُمَّيِّ قَرِيْشٍ

اس نے پوچھا کون سے ماجرین کہا قریش اس نے پوچھا قریش کے کس قبیلہ سے

أَنْتِ قَالَ إِنَّكَ لَسَوْءٌ أَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ

حضرت ابو بکر نے فرمایا تو بہت سوال کرنے والی ہے؟ میں ابو بکر ہوں اس نے پوچھا ہم اس نیک طریق پر

الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامْتُمْ بِكُمْ أَنْتُمْ كُمْ

جس کو اللہ جاہلیت کے بعد لایا کہ تم نیک طریق پر رہو اور اس پر ہم اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک

قَالَتْ وَمَا الْأَكْثَمَةُ قَالَ مَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُوسٌ أَشْرَافٌ يَا مَرْوَةٌ فَيُطِيعُونَكَ

تمہارے مام سیدھے رہیں گے اس نے پوچھا ام کوں ہیں فرمایا تمہاری قوم کے سردار اور رئیس ہیں جو اپنی قوم کو مکمل پیچھے میں اور وہ

قَالَتْ بَلَى قَالَ فُلَيْمٌ أَوْلَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ (۱۸۱۲) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم- ۳۰۵)

انہی نے فرمایا تمہاری قوم کے مام سیدھے رہیں گے

دیکھو حدیث ۳۰۵

۱۶۰۱-۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

فقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه رابعة مهلين بالبحر وأمرهم المنى صلّى الله عليه وسلّم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي
الحل قال لحل كلمة على ما بين الجبلين من مراد وويليه من جو كعبه من دون طرف من أنس بطلان سبب آيا كافان كعبه من اندراباني بركانه
منه من طرف جاہليت میں لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے اسی طرح حج میں بیہودہ شرطیں اپنے اوپر عائد کر لیتے تھے۔ اس عورت نے حج کرتے
وقت بات نہ کرنے کی منت مان لی تھی حضرت ابو بکر نے اسی شرطوں اور فتوہ کو جاہلیت کے کاموں سے تہرہ دیا آج کل بھی بعض لوگ
اس قسم کی شرطیں عائد کر لیتے ہیں۔ ایک بزرگ اٹھتے ہیں اور پیدل حج کو جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ دو سرے اٹھتے ہیں اور ہر قدم دو قدم بڑھ
نفل پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ باتیں سنت نبوی کے خلاف ہیں مگر مسلمان بجائے ان باتوں کو روکنے کے بڑے غمخیز سے انہیں شائع کرتے
ہیں۔ حدیث کے آخر میں حضرت ابو بکر نے ایک نہایت ہی قیمتی اصول بیان کیا ہے اس عورت نے پوچھا لوگ کب تک اچھی حالت پر رہیں
گئے تو آپ نے فرمایا جب تک ان کے سردار اچھی حالت پر ہیں آج مسلمان اچھی حالت سے اسی لئے گمراہ ہوئے ہیں کہ ان کے رہنما
اچھی حالت سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر ان کے بڑے لوگوں میں خواہ وہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما ہوں یا علماء اور مجاہد شہیدوں کے
طبقے میں سے ہوں۔ بے نفسی اور خدمت قوم کا جو ہر سپردا ہو جائے تو مسلمان دنوں میں درست ہو سکتے ہیں۔ * ۱۶۵۵ واقعات
کی ترتیب میں بدل دی ہے یہاں شروع میں اسلام لانے کا اور مسجد میں اس کی بھونٹ پڑی ہونے اور اس کے یوم الوشاخ والے
شعر کے بار بار پڑھنے کا ذکر ہے۔ ۱۶۵۶ میں یہ ذکر آخر پر ہے اور وہاں واقعہ جس سے عقاب کی ابتدا ہوتی ہے یہاں ان امور کے ذکر
کے بعد لایا گیا ہے۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

(م-۱۸۲) عن ابن عمر (متکرم- ۱۲۵۰) (۱۷۰۴) عن عبد الرحمن بن القاسم	دیکھو حدیث ۱۲۵۰
ان القاسم كان يمشی بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويمجد عن عائشة	اور اس کیلئے کھڑے ہوتے تھے اور حضرت عائشہ سے روایت کرتے
قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذ اراها كنت في	تھے کہا کہ جاہلیت والے اس کے لئے کھڑے ہوتے تھے اور جب اسے دیکھتے تو کہتے تھے کہ جب تو اپنے گھر والوں
اهلك ما انت صر تين (م- ۱۸۱۳) عن عمر فرمت کر۔ (۸۹۱)	یہ بھی اب بھی ویسی ہی ہے
(۱۷۰۵) عن عكرمة وكان سادها قال قال ملائمتا بعة قال وا	عکرمہ سے روایت دکھا سادھا قال اللہ۔ کہا بھرا ہوا دگلاس) پھر درپے
قال ابن عباس سمعت ابي يقول في الجاهلية اسقنا كاسادها قالوا	ابن عباس نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا وہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے اسقنا کاسادھا قالوا نہیں دگلاس
(۱۷۰۶) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة كبرى الاكل شئ فاخل الله باطله	کوسے براہ کرم بی بی بات جو کسی شاعر نے ہی ہے وہ لیسید کی بات ہے جو ہینر بھی اللہ کے سوا ہے وہ فنا ہو کر ہوا ہے
وكاد امية بن ابي لصدت ان يسلم (م- ۱۷۰۷) عن عائشة رضي الله عنها	اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت اسلام لے آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

تعالیٰ کو جو دونوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے قسم میں بطور گواہ پیش کرتا ہے کسی دوسری چیز کی قسم کھانا گویا اسے اللہ تعالیٰ کی طرح علیم بذات الصدور قرار دینا ہے اور قرآن شریف میں جو قسم کے طور پر بعض دیگر اشیاء کو پیش کیا گیا ہے تو وہاں ان باتوں کو جو ظاہر اور کھلی ہیں ایک مخفی امر یا آئندہ ہونے والے امر کے لئے بطور دلیل یا گواہ پیش کیا گیا ہے۔ انسان اور خدا کی قسم میں یہ فرق ہے کہ انسان ایک علام الغیوب ہستی کو بطور گواہ پیش کرتا ہے جو اس کے مخفی ارادوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ظاہر امر کو بطور گواہ پیش کرتا ہے جس سے انسان ایک مخفی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس کتاب الجنازہ کے باب ۷۷ کہ ما عنوان ہے۔ القیام الجنازۃ اور حدیث ۱۷۰۶ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت ارشاد ہے کہ جنازہ گزے تو اس کے لئے کھڑے ہو جانا چاہئے اور عکرمہ میں آنحضرت صلعم کا یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑا ہونا ثابت ہے پس جانے کے لئے کھڑا ہونا معیوب امر نہیں۔ جاہلیت میں اگر ایسا ہوتا تھا عیا کہ یہاں ذکر ہے تو یہ جاہلیت کے اچھے فعلوں میں سے ہے۔ کنت فی اہلک ما انت میں یا تو جاہلیت کے اس خیال کی طرف اشارہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی پرند کی شکل میں چلی جاتی ہے اچھی ہو تو اچھے پرند کی شکل میں اور بری ہو تو برے کی شکل میں۔ اور یہاں صر تین کا لفظ بھی اس جملہ کا حصہ ہے اور ما موصول نہیں بلکہ نافیہ ہے تو معنی یوں ہوں گے۔ یعنی اسے روح تو اپنے اہل میں رہ چکی اب تو دوبارہ ہونے والی نہیں۔ یعنی موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں جس میں تو جائے گی۔ اس میں روایت مختصر ہے۔ ان المشوکلین کا نوا لا یغنیون من حجج حتی تنعرق الشمس علی ثبیر فخالقہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس

۱۷۰۵ کے معنی بھرا ہوا اور پاک دونوں ہیں۔ پھر درپے اس کے مفہوم میں دخل نہیں۔ بتایا ہے کہ یہ محاورہ جاہلیت میں بھی تھا۔

۱۷۰۶ لیسید کا پورا شعر یوں ہے الاکل شئ ما خلا اللہ باطل۔ وکل نعیم لا حال لہ ذائل۔ یہ لیسید کے اسلام لانے سے پہلے کا شعر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل اس وقت خدا کی طرف جھکا ہوا تھا بعد میں وہ اسلام لایا۔ امیہ کے شعر آنحضرت صلعم نے شریک سے جب وہ آپ کے کچھے سوار تھے سنے جیسا کہ مسلم میں ہے اپنے شاعر کو فرمایا لقد کادیسلم فی شعر اپنے شعر میں وہ ایمان لانے کے قریب ہے۔ لیسید ابن ربیع

قَالَتَ كَانَ لَابِي بَكْرٍ عِلْمٌ يَخْرِجُ لَهُ الْخَرَجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَجِهِ
 كَحَضْرَتِ ابُو بَكْرٍ كَا اِيك غلام تھا جو اپنی کمائی میں سے انکو خرچ ادا کیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر اس میں سے کھاتے تھے

فَجَاءَ يَوْمًا شَيْءٌ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ
 وہ ایک دن ایک چیز لایا اس میں سے حضرت ابو بکر نے کھا یا غلام نے ان سے کہا ہے ہو یہ کیا ہے حضرت ابو بکر

أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَلَّمْتُكَ لَأَسْأَلَكَ فِي بَاطِنِهَا وَمَا أَحْسَنُ لِكَلِمَاتِهِ
 نے باہر بھا یہ کیا ہے اس نے کہا میں نے جاہلیت میں ایک شخص کے لئے کمائی کی تھی اور میں کمائی اچھی طرح نہیں جانتا

إِلَّا أَنْي حُرِّعْتُ فَلَقَيْتُنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ فَادَّخَلْ
 مگر میں نے اس کو دھوکا دیا وہ مجھ سے ملا اور اس کے بدلے اس نے مجھ (زیادہ) دیا یہی وہ چیز ہے جس میں سے آپ نے کھا یا حضرت

أَبُو بَكْرٍ يَدَّكَ فَفَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ (م- ۱۸۱۴) عَنِ ابْنِ حُمَرَ رَمْتَكِرْ - ۱۱۰۶
 ابو بکر نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور مجھ انکے پیٹ میں تھاتے کر ڈالا
 دیکھو حدیث ۱۷۸۳ ع

(م- ۱۸۱۵) عَنِ ابْنِ رِمْتَكِرْ (۱۶۸۳) بِأَبِ الْقَسَامَةِ فِي بَاطِنِهَا
 دیکھو حدیث ۱۶۸۳ ع

(م- ۱۸۰۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنْ أَوَّلَ قَسَامَةٌ كَانَتْ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کما پہلی قسمت جو جاہلیت میں تھی

فِي بَاطِنِهَا لَيْتُنَا بَنِي هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا
 وہ ہم بنو ہاشم میں تھی بنو ہاشم کا ایک شخص تھا اس کو قریش میں سے

مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ فُجِدَ أُخْرَى فَأَطْلَقَ مَعَهُ فِي رِيلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي
 دوسرے سے خاندان کے آدمی نے نوکر رکھا وہ اس کے ساتھ اس کے اونٹ لیکر چلا اس پر بنو ہاشم کا ایک دوسرے شخص گذرا

هَاشِمٍ فَرَأَتْهُ عُرْوَةُ جُوَ الْقَيْهَ فَقَالَ اعْتَنِي يَعْقَالُ أَشَدَّ بِهِ عُرْوَةُ جُوَ الْقَيْهَ
 جس کے قصیوں کی رسی ٹوٹ گئی تھی اس نے کہا ایک اونٹ باندھے کی رسی سے میری مدد کر اس سے اپنے

لَا تَنْفِرُوا لِأَيْلٍ فَأَعْطَاهُ عَقْلًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَ الْقَيْهَ فَلَمَّا نَزَلُوا عَقَلَتْ لِأَيْلٍ
 قصیوں کو باندھ لول نیز اونٹ بھاگ گیا اس نے اس کو اونٹ باندھنے کی ایک سی دی یہی اس نے اس سے اپنے قبیلے باندھ لئے

رَأَى بَعِيرًا أَوْ أَحَدًا فَقَالَ لَدَى اسْتَأْجَرَ مَا شَانَ هَذَا الْبَعِيرِ لِمَ يَعْقِلُ مِنْ بَيْنِ
 جیسا انوں نے ڈیرہ لگا یا تو سولے ایک سہ اونٹ باندھے گئے جس نے اسے نوکر کھا تھا کہ کیا اونٹ کیوں وڑوں کی طرح باندھا نہیں گیا

لِأَيْلٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ قَالَ فَأَيُّنَ عَقْلَهُ قَالَ فَخَذَ مِنْ بَعْصَا كَانَ فِيهَا
 لہذا اس کی رسی نہیں ہے پوچھا کہ اس کی رسی کہاں ہے اور اسے لالچی سے مارا جس سے اس کی

أَجَلَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ لَيْمٍ فَقَالَ تَشْهَدُ الْمُؤِسِمَ قَالَ مَا أَشْهَدُ لِي لَمَّا
 موت واقع ہوئی اس کے پاس بنی لیموں میں سے ایک شخص گذرا تو زمینوں نے اس سے پوچھا کیا تم سوچ جہاں سے جا رہے ہو اس نے کہا نہیں مگر

۱۔ کمائی ایک پیشہ تھا جس سے کاہن لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنے پیٹ پالتے تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ آئندہ اپنے پیش آئینوالے حالات بنا سکتے ہیں۔ چونکہ کمائی کسی کمائی شرعاً درست نہیں ہے اس لئے حضرت ابو بکر نے کھائی ہوئی چیز کو کٹ کر دیا ۲۔ یہاں دہی مشہور صرف نفعی ذوق سے دوسرا یا گیا ہے۔ مگر وہاں ہے۔ کان الرجل يتبع الحزب اونٹ فروخت کرتے تھے یہاں سے يتبايعون لحوام الخبز اور اونٹ کا گوشت فروخت کرتے تھے ۳۔ مسئلہ کمر وایت مختصر صرف اس قدر ہے۔

کمانا نای اش بن مالک فجحد ثنا عن الانصار وکان یقول لی فعل قومک لدا اولدنا ایوم کن اولدنا اولدنا اولدنا اولدنا
 لکنا ابہ ملک قسامت باب افعال کا مصدر ہے افسم فسمما وفسامه۔ اور قساومت سے ما وودہ قسمیں ہیں جو قاتل کے عدم پتہ ہونے کی صورت میں اٹھائی جاتی تھیں۔ مثلاً ایک شخص ایک غلہ یا مقام میں مقتول پایا گیا اور قاتل کا علم کسی کو نہیں ہے۔ مقتول کے وارثوں نے وہل کے رہنے والوں پر دعویٰ کیا کہ اس قتل کے مجرم تم ہو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پس یا تو مقتول کے ولیوں میں سے پچاس آدمی قسمیں کھائیں گے کہ یہی لوگ قتل کے مجرم ہیں تو وہ مجرم ثابت ہوں گے یا مدعا علیہم میں سے پچاس آدمی قسم کھائیں گے کہ ہم قتل کے مجرم نہیں ہیں تو وہ بری ہو جائیں گے۔ یہ جاہلیت میں رواج تھا۔ اسلام میں قسامت کی بحث کتاب الایات میں آئے گی *
 ۱۔ کمانا نای اش بن مالک فجحد ثنا عن الانصار وکان یقول لی فعل قومک لدا اولدنا ایوم کن اولدنا اولدنا اولدنا اولدنا

شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبِلِغَةٌ عَنِّي رَسُولَهُ كَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ كُنْتِ
کبھی کبھی بھی بولوں کہا عمرؓ میں ایک مرتبہ بھی جاؤ تو میرا پیغام پہنچا دو گے
کما ہاں کما جب تم موسم حج

إِذَا أَنْتَ شَهِدْتِ الْمَوْسِمَ فَنَادِيَا أَلْ فَرِيشَ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِيَا أَلْ بِنِي
تو آواز دینا فریش کے لوگو! جب وہ جواب دیں تو آواز دینا بنو ہاشم
میں جاؤ

هَاشِمٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عَقَالٍ
کے لوگو! جب وہ جواب دیں تو ابوطالب کے متعلق دریافت کرنا اور انہیں خبر دینا کہ فلاں نے مجھ کو اونٹ باندھنے کی رسی
تو آواز دینا فریش کے لوگو! جب وہ جواب دیں تو آواز دینا بنو ہاشم

وَمَاتَ السُّنْدُ حِرْفًا لَنَا قَدِمَ الزَّيْلَى سَتَا جِرْكَ أَتَاكَ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَدِّيقُنَا
پر مار ڈالا اور لوگوں کو گھبرا گیا جب وہ شخص آیا جس نے اسے نوکر رکھا تھا اس کے پاس ابوطالب آئے اور پوچھا ہمارا آدمی کہاں
قَالَ مَرَضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ مِنْكَ
گیا کہادہ بیمار ہو گیا میں نے اچھی طرح اس کی قبر میری کی اور میں نے ہی اس کو دفن کیا کہ تم سے ہی تو فتح ہو سکتی تھی کچھ وقت
گزر گیا پھر وہ شخص جس کو لوگوں نے وصیت کی تھی

فَمَكَثَ حِينًا تَمَّتْ لَكَ الرَّجُلُ لَزِمِي أَوْصِي إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنِّي وَأَخِي الْمَوْسِمَ فَقَالَ
کراس کی طرف سے پیغام پہنچائے حج کے موسم میں آیا
يَا أَلْ فَرِيشَ قَالُوا هَذَا فَرِيشٌ قَالَ يَا أَلْ بِنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذَا بَنُو هَاشِمٍ قَالَ لَيْنَ
اور پکارا فریش کے لوگو! لوگوں نے کہا یہ ہیں فریش آواز دی بنو ہاشم کے لوگو! لوگوں نے کہا یہ ہیں بنو ہاشم اس نے پوچھا

أَبُو طَالِبٍ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ لِمَرْنِي فُلَانٌ أَنْ أُرِيكَ رَسُولَهُ أَنْ فُلَانًا
ابوطالب کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ ہیں ابوطالب کما مجھے فلاں شخص نے کہا تھا کہ آپ کو پیغام پہنچا دوں کہ اسے فلاں نے ایک
قَتَلَنِي فِي عَقَالٍ فَأَتَاكَ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اخْتَرِمْنَا أَحَدًا ثَلَاثًا إِنْ شِئْتَ أَنْ
اونٹ باندھنے کی رسی پر قتل کر دیا تو ابوطالب قاتل کے پاس آئے اور کہا میں باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو اگر چاہو تو سو

تُؤَدِّي مَاتَةً مِنْ لَابِلٍ فَإِنَّكَ تَقْتُلْتِ صَاحِبَنَا وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ
اونٹ کی دیت دو کیونکہ تم نے ہمارا آدمی قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پیاس آدمی قسم کھا لیں

تَوَدَّكَ أَنْ تَقْتُلَنِي فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَأَخِي قَوْمَهُ فَقَالُوا اخْتَلَفَ قَائِمَةٌ امْرَأَةٌ
کہ تم نے ہمارے آدمی کو قتل نہیں کیا اور اگر نہ مانو تو تم تمہیں قتل کر دیں گے وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قسمیں

مِنْ بِنِي هَاشِمٍ كَأَنْتِ تَحْتِ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ كَلِمَتْ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ
کھائیں گے پھر ابوطالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی جو قاتل کی قوم میں سے ایک شخص کی بیوی تھی اسکا بچہ بھی اس سے

أَنْ يُحْيِيَ ابْنِي هَذَا اِبْرَجِلَ مِنْ اِخْتِسَائِنَ وَلَا تُصْبِرْ لِيَمِينِهِ حَيْثُ تُصْبِرُ لَإِيمَانِ
پیدا ہوا تھا اس نے کہا ابوطالب میں چاہتی ہوں کہ پیاس میں سے ایک شخص یعنی میرے بیٹے کی قسم معاف کر دو اور جہاں تمہیں بی چاہیں

فَفَعَلَ فَأَتَاكَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ رَدَّتْ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يُحْيِيَ ابْنِي هَذَا
اس سے قسم نہ لی جائے انہوں نے معاف کر دیا پھر ان میں سے ایک شخص ابوطالب کے پاس آیا اور کہا ابوطالب آپ چاہتے ہیں کہ

وَأَنْتِ مِنْ لَابِلٍ لِيُصِيبَ كُلَّ رَجُلٍ يُعِيرَانِ هَذَا اِبْرَجِلَ قَابِلَهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ
سوا اونٹ کی جگہ پیاس آدمی قسمیں کھائیں تو اس حساب سے ہر شخص پر دو اونٹ بٹھنے یہ ہیں دو اونٹ یہ دو تو میری طرف سے ہے

يَمْلِكُنِي حَيْثُ تُصْبِرُ لَإِيمَانِ فَقَابِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَخَلَعُوا أَلْ بِنِي هَاشِمٍ
لیں اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں میری قسم نہیں سوائے انہوں نے دونوں راہ نمٹے لے لے اور لو تاملیں آدمی آئے اور قسم کھائی ابن

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ مَا حَالَ لِحَوْلٍ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ عَدِيْنُ نَظَرُ
عبارت کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سال انہیں گلے نہ پایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک تم کو گھبرا نہ

علیٰ قسمیں خانہ
کعبہ کے پاس اس
کی عظمت کے
لحاظ سے لی جاتی
تھیں کہ کوئی بھولی
قسم نہ کھائے
عبداللہ بن عباس
تو اس وقت
پیدا بھی نہیں
ہوئے تھے جس
وقت قامت
کا یہ قصہ ہوا
کیونکہ وہ
بعثت نبوی
سے بھی بہت
بعد پیدا ہوئے
اور یہ قصہ
زمانہ جاہلیت
کا ہے انہوں
نے اور لوگوں
سے سنا ہو گا

۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰	<p>(م-۱۸۱۶) عَنْ عَمْرِوَةَ (مُتَكْرِمًا) (۱۶۸۴) (۲۰۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دیکھو حدیث ۱۶۸۴ ابن عباس سے روایت ہے</p> <p>لَيْسَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةٌ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا سنت نہیں ہے جاہلیت والے ہی اس میں دوڑتے تھے</p> <p>يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا يُحْزِرُ الْبَطْحَاءُ إِلَّا الشَّدَّ (۲۰۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اور کہتے تھے کہ ہم پھرتی جگہ سے دوڑ کر ہی گذریں گے ابن عباس سے روایت ہے</p> <p>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ سَمِعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَسْمِعُونِي کہا لوگو! میں جو تم سے کہوں اس کو سنو اور جو تم کنا چاہتے ہو مجھے سنا دو</p> <p>مَا تَقُولُونَ وَلَا تَهْبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ طَائِفٌ اور یوں نہ جاؤ کہ پھر کہو ابن عباس نے کہا ہے ابن عباس نے کہا ہے جو بیت اللہ</p> <p>يَا لَبَيْتٍ فَلْيَطْفِئْ مِرْدَاةَ الْحَجْرِ وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي کا طواف کرے تو حجر کے باہر سے کرے اور حطیم مت کہو کیونکہ جاہلیت میں ایک شخص</p> <p>الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيَلْقَى سَوَاطِئَ أَوْ نَعْلَةَ أَوْ قَوْسًا (۱۱۰) عَنِ عُبَيْدِ بْنِ قسم کھاتا تو اپنا کوڑا یا جوتا یا کمان روہاں پھینک دیتا عمرو بن</p> <p>أَبِي هَيْمُونَ قَالَ آيَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَرَدَةٌ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا قَرَدَةٌ قَدَرْتُمْ فَرَجَّوْهَا فَرَجَّهَا میمون سے روایت ہے کہ میں نے جاہلیت میں ایک بندر یا دیبھی اس پر بہت سے بندر اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اس نے زنا کیا تھا</p> <p>مَعَهُمُ (۱۱۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَلَّالٌ مِنْ خَلَّالِ میں نے بھی اٹکے ساتھ کر اسے نگہا کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہا جاہلیت کی فصلوں میں سے یہ</p> <p>الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَسَابِ وَالرِّيَاحَةُ وَنَسِيْلُ الثَّلَاثَةِ قَالَ سَفِيْنٌ وَ خصمیت میں نبیوں میں طعن کرنا اور نوح کرنا اور زرادی تیسری بھول گیا سفیان نے کہا لوگ</p> <p>يَقُولُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا سَتَسْقَاءُ بِأَلْوَاكِرِ (۲۰۸) بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى کہتے ہیں وہ ستاروں کو بارش کی علت ٹھہراتا ہے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی</p> <p>اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف</p>
--	---

۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بیت اللہ کا حصہ قرار دیا۔ یہ حصہ شمال مغربی دیوار کے سامنے ہے اور ایک چھوٹی بیخودی دیوار سے اس کا نشان موجود ہے۔ یہ دیوار کعبہ کے شمالی اور مغربی کونوں سے یعنی رکن عراقی اور رکن شامی سے چھ چھ فٹ اور درمیان میں سے دیوار کعبہ سے ۳ فٹ ہٹی ہوئی ہے۔ حطم کے معنی مختلف کئے گئے ہیں۔ حطم توڑنے کو بھی کہتے ہیں اور از دحام کو یعنی جمع ہونے کو بھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس حصہ کو حطیر اسنے کہا جاتا تھا کہ لوگ وہاں اپنا کوڑا یا جوتا وغیرہ قسم کھاتے وقت پھینک دیتے جو وہیں پڑا نظر جاتا مگر حطیم کے معنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے۔ علامہ شریعت اسلام میں ورد کسی اور شریعت میں بند یا دوسرے جاؤ مکلف قرار نہیں گئے ہیں نہ ان میں نکاح ہونا جو اور نہ جانوروں میں زنا چھ مٹے رکھتا ہے۔ پس یہ حدیث اپنے ظاہر سے نہیں دیکھنے قابل ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بیخودی راوی نے بیویوں کا ذکر اس پر لے کر اس میں کیا ہو کہ وہ گویا بند رہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف نے انہیں بند رکھا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قُرْدَةً خَاسِئِينَ۔ یہودی شریعت میں زنا کی سزا رجم تھی، چھ کسی پر نسب کی وجہ سے طعن کرنا یعنی یہ کہنا کہ فلاں چھوٹے خاندان سے ہے جاہلیت کا کام ہے کیونکہ کسی کا کسی ادنیٰ خاندان میں پیدا ہونا کسی اعلیٰ خاندان میں ہونا انسان کا کوئی اپنا فعل نہیں ہے جس پر اعتراض اور طعن ہو سکے۔ نوہ کا ذکر کتاب الجائز میں گذر چکا۔ ستاروں کی طرف بارش کو منسوب کرنا بھی فی الواقع جاہلیت کی باتوں میں سے ہے +

ابن قصی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک

بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک

ابن الثوری بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضرب بن نزار

بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضرب بن نزار

بن معد بن عدنان قال ابن عباس قال انزل علی رسول

بن معد بن عدنان ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم وهو ابن أربعین فمکت ثلاث عشرة سنة ثم

پر وحی اتری جس وقت آپ کی عمر چالیس برس کی تھی پھر تیرہ برس تک رہے پھر

امر بالہجرة فما جرأ الی المدینة فمکت بها عشر سنین ثم نزل فی صلے

آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں دس برس رہے پھر آپ نے وفات پائی

اللہ علیہ وسلم ۲۹ باب ما لقی النبی صلے اللہ علیہ وسلم واصحابہ

صلی اللہ علیہ وسلم بصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ

من المشرکین بمکة (م- ۱۸۱۷) عن خباب (متکر- ۱۷۱۶) (م- ۱۸۱۸)

کو مشرکوں کے ہاتھ سے مکہ میں پہنچا دیکھو حدیث ۱۷۱۶

عن عبد اللہ (متکر- ۱۵۹۲) (م- ۱۸۱۹) عن عبد اللہ (متکر- ۱۹۱)

دیکھو حدیث ۱۵۹۲ دیکھو حدیث ۱۹۱

(م- ۱۸۱۳) عن سعید بن جبیر قال امرنی عبد الرحمن بن ابزی قال سل

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مجھے عبد الرحمن بن ابزی نے کہا کہ ابن عباس

ابن عباس عن ہاتین الایتین ما أمرهما ولا تقتلوا النفس لیتی حرم

سے ان دو آیتوں کے متعلق پوچھو کہ ان کا مطلب کیا ہے ولا تقتلوا الخ اس کو قتل نہ کرو جس کا تعلق

اللہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس فقال لکما أنزلت الیتی

اللہ نے حرام کیا ہے (الفرقان - ۶۸) اور من یقتل الخ اور جو من کو ارادہ تھا قتل کرے النساء - ۹۳) میں ابن عباس سے یہ چھوٹا

فی الفرقان قال مشرکواہل مکة فقد قتلنا النفس لیتی حرم اللہ ودعونا

کہا جب وہ آیت اتری جو سورہ فرقان میں ہے تو مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہم نے تو ان جانوں کو قتل کیا ہے جن کا تعلق اللہ نے

مع اللہ الہا آخر وقد آتینا الفواحش فانزل اللہ الامن تاب وامن

حرام کیا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی پکارا ہے اور بیجا ہی کے کام بھی کئے ہیں تو اللہ نے اتارا الامن من تاب امن رگر جو توبہ

الایة فہذہ لاولیک واما الیتی فی النساء الرجل اذا عرف الاسلام

کے اور ایمان لائے تو یہ آیت ان کی ہے اور وہ آیت جو سورہ نساء میں ہے تو جو شخص اسلام اور اس کے احکام کو پہچانے

وہو فی ظل الکعبۃ وقد لقینا من المشرکین شدۃ فقلت الا تدعوا للہ فقد وہو محمد وجہہ۔ اس کے بعد اسی مضمون کو

عرفت معمولی لفظی فرق سے دوم لایا گیا ہے۔ آخر میں ولکنکمہ تسبیحون کو چھوڑ دیا ہے۔ کلمہ میں وہی مضمون صرف معمولی لفظی فرق سے دوم لایا

گیا ہے۔ البتہ یہاں بمکة کا لفظ نہیں ہے۔ یہاں اختصار ہے۔ بدینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحوہ ناس من قریش جاد عقبة بن

ابی معیط بسبب لجن ورفقن ذعلہ ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع راسہ فجات فاطمة علیہا السلام فاخذتہ من ظہرہ ودعت علی

من صدقہ فقال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم علیک الملا من قریش ابی جہل بن ہشام وعتبة بن ربیعہ وشبیبہ بن ربیعہ وامیة ابن

خلعنا وابی بردخلم شعبة الشاک قرایتہم قتلوا یوم بدر القوا فی یوم غایمۃ اوابی نطعت اوصالہ فلم یبق فی البئر۔

عبدان مکہ
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
کا نسب متفق
علیہ ہے عدنان
سے اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام
وات سلام تک
نسب میں اختلاف
ہے۔ اس لئے
امام بخاری نے
اسے اپنی تصحیح
میں درج نہیں
کیا۔
اس سے
معلوم ہو کہ آپ
کی عمر ۶۳ سال
کی ہوئی اور ۲۳
سال آپ پر
قرآن نازل ہوتا
رہا۔ تیس سال
مکہ میں اندرون
سال مدینہ میں
یہ صحیح ترین روایت
ہے۔
اس میں شروع
کا حصہ کان
الرجل فی من
قیلکہ تک یوں
ہے۔ آیت
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم وہو
متوسد برودة

<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>وَشَرَّ الرِّعَاءِ ثُمَّ قَتَلَ فِجْرًا وَابْنًا وَابْنًا فَكَرِهَ لَهَا هِدْيًا فَقَالَ اَلَا مَن نَدِمَ بھرا نا حق خون کرے تو اس کی سزا جہنم ہے میں نے اس کا ذکر مجاہد سے کیا تو کہا مگر جو شیشیاں ہو جائے</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>(م۔ ۱۸۲۰) عَنْ عُمَرَ وَبْنِ الْعَاصِ (ممتکر۔ ۱۶۲۷/۱۶۲۸) بَابُ اسْرَارِ دیکھو حدیث ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ بَابُ اسْرَارِ ابوبکر صدیق</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>اَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (م۔ ۱۸۲۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ممتکر۔ ۱۶۳۵) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>(م۔ ۱۸۳۱) بَابُ اسْرَارِ سَعْدِ بْنِ ابْنِ وَقَائِصِ (ممتکر۔ باب سعد کا اسلام لانا</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>(۱۶۴۳) (۱۶۴۴) بَابُ ذِكْرِ ابْنِ وَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى قُلْ وَجِيءُ اِلَىٰ اَنْتُمْ اَسْمَعُ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ بَابُ ذِكْرِ ابْنِ وَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى قُلْ وَجِيءُ اِلَىٰ اَنْتُمْ اَسْمَعُ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ادھی الخ لیک کہ مجھ کو وحی ہوئی ہے کہ چند</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>نَفَرًا مِنْ ابْنِ (۱۶۴۳) عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي قَالَ نفر جنوں نے سارا بن - ۱۶۴۳ معن بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میں نے</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مِّنْ اَذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ كَيْلَةَ اَسْمَعُوا مسروق سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے جنوں کے آنے کی خبر دی تھی جس رات انہوں نے قرآن کو</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي اَبُو بَكْرٍ يَعْنِي عَبْدُ اللهِ قَالَ اَذْنَتْ بِرَأْسِهَا اس نے کہا مجھے آپ کے والد یعنی عبداللہ نے خبر دی تھی کہ ان کے متعلق آپ کو ایک رخت نے اطلاع دی تھی</p>
<p>۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰</p>	<p>ساتھ شرک کا بھی ذکر ہے اس لئے یہ توجیہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اور سورہ نسا کی آیت ان لوگوں کیلئے ہے جو شریعت کو جان لینے کے بعد علماء مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ بظاہر اس کا یہ مطلب سمجھا گیا جو کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے جب مجاہد سے یہ ذکر کیا گیا کہ ابن عباس یوں فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا الامن ثلاث یعنی توبہ اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں کہ کا فرسماں کو قتل کرے اور پھر توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے تو اس کی سزا جہنم نہیں اور مسلمان مسلمان کو قتل کرے اور پھر توبہ کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ حالانکہ اس آیت میں لفظ عام ہے دمن قتل مومن متعددا ابو شخص بھی مومن کو عمداً قتل کرے خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ بلکہ مسلمان سے تو ایسا فعل کم ہی سرزد ہوگا زیادہ تر توبہ کام کا فرکا ہی ہوگا۔ قصاص علیہ امر ہے اور وہ توبہ حال لیا جائے گا مولے اس کے کہ ورثائے مقتول خون بہائیں اس لیے یا معاف کر دیں۔ اور قرآن کریم میں عام اصول یہی بیان ہوا ہے کہ جو شخص توبہ کرے اس کا گنہ معاف ہو جاتا ہے دانی لفظ اولین تا سورہ فرقان کے صل لفظ لا تقتلوا النفس نہیں بلکہ لا تقتلوا النفس ہیں۔ یہ لفظ لا تقتلوا النفس لای حق حرم اللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ انفاج میں آتے ہیں۔ ۱۸۲۱ بیاں وہی مضمون لفظی فرق سے دہرایا گیا ہے۔ البتہ بیاں یصل کے بعد فی حجر الکعبۃ زائریہ ۱۸۲۱ جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر اسلام لائے۔ ابن اسحق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کو یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے کیونکہ ان کے پاس اس بارہ میں دلائل تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسلام کی طرف دعوت دی تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی طرف سبقت کی۔ ۱۸۲۲ مکرر روایت کے لفظ وہی ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکرؓ اور عورتوں اور پانچ غلام تھے۔ ۱۸۲۳ سعد کے اسلام کا حضرت ابوبکرؓ نے ذکر کرنے میں امام بخاری نے یہ لفظ لکھا ہے کہ ان کے نزدیک سعد کو سابق بالاسلام تھے مگر حضرت ابوبکرؓ کے بعد اسلام لائے۔ ۱۸۲۴ وہی مضمون انہی الفاظ میں دہرایا گیا ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۶۳۳ پر۔ ۱۸۲۵ جنوں اور ان کے ایمان لانے کی بحث کتاب بدر الخلق میں گزر چکی۔ دیکھو نوٹ ۱۶۳۴ ص ۵۷۔ یعنی میں سے کہ نفر من الجن جن کا یہاں ذکر ہے یہ یقین کے تھے اور تعداد میں نو تھے اور بعض نے کہا کہ شیشیاں کے رہنے والے تھے اور بعض نے کہا کہ وہ سات تھے اور جن کے رہنے والے تھے اور وہ بیڑی تھے اور بعض نے کہا وہ شکر تھے اسکے بعد لکھا ہے کہ احادیث جو اس باب سے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے چہرے و فود جنی کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ یہ اہل عم کے مختلف و فود تھے۔ ۱۸۲۶ قرآن شریف میں ہے قل ادھی الخ لیک کہ میں نے جنوں کے آنے کی خبر دی تھی جس رات انہوں نے قرآن کو ایک گروہ نے قرآن شریف کو ن۔ اس کے خلاف بیاں ہے کہ ایک درخت نے آپ کو اطلاع دی۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جنوں نے کس طرح آپ کو اطلاع دی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ حدیث میں کسی راوی سے کچھ تصرف ہو گیا ہے۔</p>

<p>(۵-۱۸۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۱) بَابُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۱</p> <p>باب ۳۳ ابودرہمی اللہ عنہ کا</p>	<p>۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰</p>
<p>(۵-۱۸۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۲) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۲</p> <p>اسلام لانا</p>	
<p>(۵-۱۸۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۳) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۳</p> <p>سعد بن زید رضی اللہ عنہ رہا</p>	
<p>(۵-۱۸۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۴) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۴</p> <p>سعد بن زید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا</p>	
<p>(۵-۱۸۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۵) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۵</p> <p>سعد بن زید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا</p>	
<p>(۵-۱۸۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۶) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۶</p> <p>سعد بن زید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا</p>	
<p>(۵-۱۸۲۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۱۱۳۷) بَابُ إِسْلَامِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۳۱۷</p> <p>سعد بن زید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا</p>	

۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت ما بال لعظم والروثة قال هذا من طعام الجن وانه اتاني وذا جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فنصحت الله لهم ان لا يمزوا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما. اس کے آخر میں نصیبین کے جنوں کے آنے کا ذکر ہے اور یہ بھی کہ پختے وقت انہوں نے زاد راہ مانگا۔ تاہم ہرے کہ یہ جن انسانوں کی قسم سے تھے جنہیں زاد راہ کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے آگے آتا ہے کہ آپ نے ان کے لئے دعا کی کہ جہاں یہ بڑیوں اور گوبر پر سے گزریں وہیں ان کو خوراک مل جائے تو مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں کہیں انسانی آبادی پر گزریں جہاں بڑیاں دگر گوبرا گوگاد ہاں ان کو کھانا بھی مل جائے۔ اور یہ جو بعض شارحین نے کہا ہے کہ بڑیاں جنوں کی خوراک ہے اور گوبراں کے جانوروں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب یا توں میں انسانوں کی طرح ہیں اور انکو جانوروں کی بھی ضرورت ہے جو ان کو یا ان کے بوجھ کو اٹھائیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ وہ غیر مرنی ہستیاں نہیں جن سے شیطانیں ہیں یعنی میں ہے کہ جنوں کے کھانے پینے کے متعلق بین قول ہیں۔ اول یہ کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے بعض کھاتے پیتے ہیں اور بعض نہیں تیسریہ کہ وہ سب کھاتے پیتے ہیں تو اہل ہے کہ جو جن غیر مرنی ہستیاں ہیں وہ تو نہ جسم رکھتی ہیں اور نہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کی محتاج ہیں اور جو جن انسانوں میں سے ہیں وہ کھانے پینے کی محتاج ہیں۔ بڑیوں اور گوبر کے جنوں کی خوراک ہونے پر دیکھو ۱/۵ صفحہ ۵۔ زمرہ پرے جراثیم جو انہم سے نہ دیکھے جا سکتے ہوں وہ بھی جن کی تعریف میں آسکتے ہیں۔ مگر روایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ قال لما بلغة ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خيه اربك الى هذا الوادي قال علم لي علم هذا الرجل الذي يزعم ان نبى ياتيه الخبر من السماء واسم من قوله ثم اتتني فانطلقنا ايام حجة من دسم من قوله ثم رجعت الى ابي ذر فقال له ارايت يا مكارم لا اخلاق وكل ما هو بالشر فقال ما شيعتية مما اردت فانزوت وحمل شتمه له فيها ما حقه ثم مكنة فاتي المسجد فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ولا ذكره ان يسأل عند حقه ادر ك بعض الليل فراه على عرفات غريب فلما راه اذ بعد فلم يال واحده منها صاحب عن شئ حتى اصبح ثم احمم قربته وازاد الى المسجد ظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصابني فعد الى مضجعي فمر به على فقال اما قال للرجل ان يعلم منزله فاقامه فنذهب به معه لا يسئل واحده منها صاحب عن شئ حتى اذ اكان يوم الثالث فعد على مثل ذلك فاقام معه ثم قال الا شرتني ما الذي اقد منك قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا لئلا تشرتني فقلت فافعل فاشخيرة قال فانه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اصبحوت فاقبض فاني ان رايت شيئا اخاف عليك تمت كاني اريق الماء فان مضيت فاقبض حتى تدخل مدخل ففعل فانطلق يقبوه حتى دخل على النبي صلعم ودخل معه فممن من قوله واسلم مكانه فقال لاني صلعم ارجع الى قوك فاخبرهم حتى يا تيك امرى قال لك انفسه برة لا صخرن بها يد طهرن ثم خرج من المسجد فنادى يا صلعم شاهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى اصبحوه واتي العباس فاقب عليه قال ليك السم تعلمون ان من عفار وان طريق تجاركم الى لقام فانقذه منكم ثم عاد من الغن المشاهير فضربوه دثارا واليد ذاك العباس عليه.

خَابِعًا إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السُّدْمِيُّ أَبُو عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَبْرَةٌ وَوَقِيمٌ

بیٹھے تھے اتنے میں ان کے پاس عاص بن وائل سہمی ابو عمرو آئے وہ ڈوری والی چادر اور ریشمی کرت پہنے

مُكْفُوفٌ بِبَحْرٍ رِيٍّ وَهُوَ مِنْ بَنِي سَدِيمٍ وَهُمْ حُلَفَاءُ نَافِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا

ہوئے تھے اور وہ بنو سہمی سے تھے اور وہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے انہوں نے پوچھا تمہارا

بَالِكُ قَالَ زَعِمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَكَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ

کیا حال ہے کیا تمہاری قوم کہتی ہے کہ اگر میں اسلام لیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے کہا آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا

بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَأَلُوا بِرَأْسِهِ لَوَادِي

ان کے ایسا کہنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی عاص نکلے اور دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے

فَقَالَ أَيْنَ ثُرَيْدٌ فَقَالُوا ثُرَيْدٌ هَذَا ابْنُ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَا قَالَ لَا سَبِيلَ

پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم اس ابن خطاب کے پاس جانا چاہتے ہیں جو دین سے پھر گیا ہے کہا تم اس کے پاس

إِلَيْهِ فَوَكَرَ النَّاسُ رَاءَهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَسْلَمَ

نہیں جاسکتے تو لوگ انہیں ہو گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر

عَمْرُو اجتمع الناس عند داره وقالوا أصبا عمر وانا غلام فؤاد وظهير بنتي فحجوا

اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے پاس جمع ہوئے اور کہا عمر سے دین بدل لیا اور میں اور کا تھا گھر کی چھت کے اوپر چڑھا ہوا تھا

رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْلَجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عَمْرٌو مِمَّا ذَكَرْنَا لَهُ جَارٌ قَالَ

تو ایک شخص آیا اور ریشمی چڑھنے ہوئے تھا اور اس نے کہا عمر نے دین بدل لیا تو کیا ہوا وہ میری پناہ میں ہے تو میں نے

فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عِنْدَهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ

لوگوں کو دیکھا کہ ہرا گندہ ہو گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا عاص بن وائل ہے

۱۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ شَيْءٍ وَطَيْقُورٌ لَوْ كَلَّظْتَهُ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو کبھی نہیں سنا کہ کسی چیز کی نسبت کہا ہو میری کچھ

كَذَّالَ الْاَلَاكَانَ كَمَا يُظَنُّ بَيْنَنَا عَمْرٌو جَالِسٌ اِذَا مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ

میں وہیوں سے گروہ اسی طرح ہوتی جس طرح وہ سمجھتے بلکہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوب صورت شخص آپ کے پاس

اَخْطَا ظَنِّي اَوْ اَنْ هَذَا عَلِيٌّ بِيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمْ عَلَى الرَّجُلِ

گڑھے تو آپ نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے یا یہ شخص جاہلیت کے دین پر ہے یا یہ اپنی قوم کا کاهن تھا بلکہ اس کو میرے پاس

فَدَعَا لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُكَ كَالْيَوْمِ اسْتَقْبَلُ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمًا

آؤ وہ بلا گیا اور اس سے حضرت عمر نے درمی بات کہی اس نے کہا میں نے آج کے دن جیسا (معاذ) کہی نہیں دیکھا جو ایک

قَالَ فَرَأَى اَعْزَمُ عَلَيْهِ اَلَا مَا اَخْبَرْتَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

مسلمان کو پیش آیا ہو حضرت عمر نے کہا میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میں جاہلیت میں لوگوں کا

قَالَ فَمَا اَعْجَبُ مَا جَاءَكَ بِرَجُلٍ تَكُنُّ بَيْنَنَا اَنْذِيوَمَا فِي سُؤُقِ جَاءَتْ نِي

حضرت عمر نے کہا ان باتوں میں سے زیادہ عجیب بات کون سی ہے جو تیرے شیطا نے مجھے سنانی ہو کہ میں ایک ن کسخت

رقبہ مسلمہ
مطالعہ اداس
اسلام میں اسلام
کی خاطر کیسے لکھ
مسلمانوں نے
اٹھائے معلوم یہ
ہو تو ان کو کہ یہ حدیث
اس وقت بیان کی
جب حضرت عثمان
کی شہادت کا
واقعتہ تازہ تھا۔
تو بتا ماکہ اب
مسلمان کمانے
والے مسلمانوں
کے ساتھ کیا کر
سے ہیں
مطالعہ روایت انہی
الفاظ میں ہے
(صفحہ ۱۷۸)
مطالعہ حضرت عمر
رائے کا صاحب
ہر جاہلیت سے
واقعات سے
ثابت ہو جیت
دفعہ ایسا ہوا
کہ حضرت عمر نے
ایک معاملہ میں
ایک رائے پیش
کی اور اس سے
بعد وحی الہی نے
بھی اسکی تصدیق
کر دی
مطالعہ یہ شخص
سواد بن قارب
دوسری تھا
مطالعہ عرب میں
رسول خدا صلعم
کے ظہور سے پہلے
رہا بی برشتہ

رقبہ ص ۹۰۶
کمانت کا بازار
گرم تھا اور ہر
امر میں لوگ
کا ہنوں کی طرف
رجوع کرتے تھے
آپ کی بعثت
کے ساتھ ہی ان
کی مشربا زاری
ہو گئی اور لوگوں
کا رجحان خود بخود
ہی ان کی طرف
مکھ ہو گیا۔ یہ اس
انتشار روحانیت
کی وجہ سے تھا
جو آپ کے ظہور
پر ہوا اور کچھ آپ
کی تبلیغ کا اثر
بھی تھا کہ لوگ

عِنْدَ الْهَيْتِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يُعْجِلُ فَنَصَرَ بِصَاحِرٍ مِمَّنْ أَسْمَعُ صَارِخًا قَاطِبًا

حضرت عمر نے کہا یہ سچ کہتا ہے اس کے معنوں کے پاس تھا کہ اتنے میں ایک شخص گانے کا بھڑا لایا اور اسے ذبح کیا اس پر ایک آواز

أَشْرُؤْنَا مِنْهُ يَقُولُ يَا جَلِيلُ أَمْرٌ يُخَيِّرُ رَجُلٌ فَصِيحٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَوَيْلٌ

فصیحہ والے نے اس زور سے آواز دی کہ میں نے کسی آواز نہیں سنی اسے زیادہ زور سے آواز دینے نہیں سنا وہ کہہ رہا تھا اور دشمن کا بیانی

الْقَوْمِ قُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا أَنَّمَا نَادَى جَلِيلٌ أَمْرٌ يُخَيِّرُ رَجُلٌ

کی بات ہے ایک خوش بیان شخص پر وہ کہتا ہے لا الہ الا انت تو لوگ چھل پڑے (اور چلے گئے) میں نے کہا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا

فَصِيحٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَقَمْتُ فَمَا تَشِينَا أَنْ قِيلَ هَذَا أَيُّ (م- ۱۸۲۶)

یہاں تک کہ اس بات کو جان لوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر پکارا اور دشمن کا بیانی کی بات ہے ایک خوش بیان شخص پر وہ کہتا ہے

عَنْ قَيْسِ (ممتکر۔ ۱۷۱۵) بَابُ اسْتِغْفَارِ الْقَبْرِ (م- ۱۸۲۷)

مکہ لگا کر یہ نبی ہیں ص ۱۷۱۵ دیکھو حدیث ۱۷۱۵ ب ۱۷۱۵ شق قرآن بیان

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ممتکر۔ ۱۶۲۹) (م- ۱۸۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

دیکھو حدیث ۱۶۲۹ ص ۱۶۲۹ دیکھو حدیث ۱۸۲۸ م ۱۸۲۸

(ممتکر۔ ۱۶۲۸) بَابُ اسْتِغْفَارِ (ممتکر۔ ۱۶۲۸) ب- ۱۶۲۸

(م- ۱۸۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ممتکر۔ ۱۶۲۸) بَابُ هَجْرَةِ الْحَبَشَةِ

دیکھو حدیث ۱۶۲۸ ب ۱۶۲۸ ب ۱۶۲۸ باب ۱۶۲۸ شق کی ہجرت

ان توہمات سے اب کم تر ہونے لگے۔ یہی کاموں یا ان کے شیطین کی سرسریگی اور ناامیدی ہے۔ احلاس۔ جلس کی جمع ہے اور

یہ وہ کپڑا ہے جو پالان کے نیچے جانور پر ڈالا جاتا ہے۔ اور قلاص قلاص کی جمع ہے جو ان اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اور اهل القلاص سے مراد ان بیٹا

عرب نئے جاتے ہیں اور شیطین یا کامنوں کے اونٹنیوں اور ان کے پالانوں سے مل جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے خوف

سے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں گویا اونٹنیوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور یہاں مراد ہے کہ ان کا اثراب اوپر کے طبقہ پر کچھ نہیں رہا

اور جاہل و بیابانوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ (حاشیہ صفحہ ۱۷۱۵) بعض اوقات ایسے واقعات خواب کے ہوتے ہیں۔ اسی سوادین قاری کے

متعلق یہی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا۔ راجی من الجن قال بین انا وانا لہم اذ جازنی یقال قم فافهم واعقل ان كنت

تعقل قد بعث رسول حضرت عمر نے جو واقف دیکھا ہے ممکن ہے وہ بھی خواب کا ہوا ہے ایسے ہی کسی شخص نے یہ کہا ہوا ہے کہ روایت یہاں

یوں ہے۔ اور ابی بنی ہونے والی عمر علی الاسلام انا واخوته وما اسلم دلو ان احد النقص لدا صنعہم بعثتم لکان

محققان انہما ۱۷۱۵ ب ۱۷۱۵ شق قرآن ۱۶۲۹ ب کے نوٹ میں مفصل بحث گذر چکی ہے۔ یہاں یہ کہا کہ ان دونوں ٹکڑوں

کے درمیان حراء کو دیکھا تو اس کا مطلب دوسری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے

پچھلے تھا اور ایک ٹکڑا اوپر تھا۔ چنانچہ اس سے اگلی حدیث میں جو ان مسعودی کے یہ لفظ ہیں ذہبت فرقة نحو الجبل ایک

ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اس کا مطلب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ چنانچہ ان دونوں اقوال میں عینی نے

یوں تطبیق کی ہے۔ قلت اذا انزلت قطعة تحت حراء وبقیت قطعة منه فهو بینہما ص ۱۷۱۵ یہاں لفظ اور ہیں۔ یہاں

ہے۔ انشق القمر ونحن مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فقال اشہدوا و ذہبت فرقة نحو الجبل۔ اور ایک اور روایت

میں یہ لفظ زائد ہیں۔ انشق بیدکتہ۔ اس سے مراد یہی ہوگی کہ انشقاق اس وقت ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ

میں تھے۔ اور مئی بھی مکہ میں ہی داخل ہے۔ ص ۱۷۱۵ اس کے لفظ ۱۷۱۵ کے ہیں۔ ہلا یہ روایت صرف اس قدر ہے انشق القمر

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ لَيْتَ صَاحِبَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبَتْ دَارَهُمْ تَكَرُّمًا ذَاتِ خَلِّ بْنِ

اور حضرت عائشہ نے کہا لئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا بَتَيْنَ فَهَاجِرٌ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَرَجِعَ عَائِمَةً مَنْ كَانَ هَاجِرًا بِأَرْضِ

دو پھر بی زمینوں کے زمین تو کچھ لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور اکثر لوگ جو حبش کی زمین

الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی طرف ہجرت کر گئے تھے مدینہ لوٹ آئے اس باب سے ابوبوسی اور اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

(م-۱۸۳۱) عَنْ ابْنِ الْمَسُودِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ (متکرر-۱۶۵۰)

دیکھو حدیث ۱۶۵۰

(م-۱۸۳۲) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۲۹۹) (م-۱۸۳۳) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۱۳۹)

دیکھو حدیث ۲۹۹

(م-۱۸۳۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۶۵۸)

دیکھو حدیث ۶۵۸

عائشہ سے زیادہ جان نثار اسلام لائے تھے۔ اور ششکین کی ایذا دہی ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکی تھی۔ تو آپؐ یہ بیرحمی کا نظارہ نہ دیکھا۔ اپنے آپ کو تہاد و عن کے

درمیان چھوڑ کر صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ کسی نے ظلم ہونے نہیں دیتا۔ اس بادشاہ کا نام صحیح تھا جس کا لقب نجاشی تھا وہ اور حبشہ کے باقی باشندے عیسائی تھے۔ سب سے پہلے گیارہ صحابہ نے رجب شمسہ بعثت نبوی حبش کو ہجرت کی۔ جن میں چار کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ انہی میں سے حضرت عثمان بھی تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کے متعلق اختلاف ہے۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ وہ حبش کی پہلی ہجرت میں نہیں تھے بلکہ دوسری میں شامل تھے۔ اس ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ النجم نازل ہوئی۔ آخری آیت پر جب آپؐ سجدہ کیا تو مشرکوں نے بھی متذکرہ ہو کر آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ حبش کے ماجرین کو یہ خبر اٹنی پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ مکہ لوٹ کر آ گئے۔ اس وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ اگر مکہ میں مسلمانوں کو خبر دیں کہ حبش میں پورا امن ہے وہ مکہ میں آئیں۔ قریش کے مسلمان ہو چکی خبر غلط تھی اور وہ بدستور مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچا لے تھے۔ چنانچہ دوبارہ اسی سے کچھ اور مسلمانوں نے حبش کو ہجرت کی جن میں دس عورتوں کی شرکت کا بھی ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد اس کے علاوہ بھی حبش کی دوسری ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشت میں اپنا مقام، ہجرت دکھایا گیا کہ وہاں جوڑوں کے درخت ہیں اور زمین پتھر ملی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ ہجرت کی۔ اور آپ کی ہجرت کے بعد حبش والے ماجرین بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ابوبوسی کی روایت اس باب کے آخر پر آتی ہے۔ **مصلط** یہاں وہی صفتوں تغیر الفاظ و وہرا یا گیا ہے۔ البتہ یہاں فانصوت کے بعد یہ لفظ زائد ہیں۔ فلما قضيت الصلوة جلست الى المسور والى بن عبد يغوث فحدثتھما بالذی قلت لعثمان وقال لی فقال لا قد قضيت الذی کان علیک۔ اور اس کے بعد ما نصیحتک تک اور لفظ ہیں فبیدنا انا جالس معهما اذ جاء فی رسول عثمان فقال لی قد ابتلاك الله فانطلقت حتى دخلت علیه۔ نیز یہاں ہاجرت الحجرتین کے بعد اولین کا لفظ زائد ہے۔ حضرت عثمان حبشہ کی پہلی ہجرت میں شامل تھے دوسری ہجرت انہوں نے مکہ سے مدینہ کی۔ **نیر** اکثر الناس فی شان الولید کے بعد یہ زائد ہے صحیح علیک ان تعیم علیہ الخ یہاں ہے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ ولید کو کوڑے لگائیں تو انہوں نے اس کو چالیں کوڑے لگائے۔ اور وہاں ہے کہ اتنی کوڑے لگائے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی کوڑے دو چرووں کے ثبوت کی وجہ سے لگائے ہوں کیونکہ حضرت علی شراب کی حد صرف چالیں کوڑے قرار دیتے تھے۔ **مصلط** یہ روایت تقریباً انہی الفاظ میں دوسرا ہی گئی ہے۔ ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے حبش میں ہجرت کی تھی۔ **مصلط** ۱۳۹۲ کا صرف ابتدائی حصہ ان الفاظ میں ہے۔ قدمت من ارض الحبشة وانا جویریہ فکسا فی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خمیصۃ لبعاء اعلام فعمل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسیخ الاعلام ببیداء ویقول سناہ سناہ قال محمد بن یحییٰ حسن حسن۔ ۱۳۹۲ میں ہے علی خمیص اصفرہ **مصلط** خفیفت اختلاف لفظی ہے فلم یورد علینا کے بعد ہے فقلنا یا رسول الله اننا کنا نسلم علیک فتد علینا اور آخر یہ ہے قلعت لا براہیم کیصنعت قال اردنی نفسی۔ یعنی اگر کوئی ایک اور اسلام علیکم کے اور آپ نمازیں ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں دل میں اس کا جواب دیدیتا ہوں۔ اس کی بحث کتاب الصلوٰۃ میں گذر چکی ہے۔

(۱۸۳۵-م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر-۱۲۲۱) بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ	دیکھو حدیث ۱۲۲۱ھ	باب بیست چنانچہ کی وفات تک
(۱۸۳۶-م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۶۷۲) (۱۸۳۷-م)	دیکھو حدیث ۶۷۲ھ	
(متکرر-۶۷۲) (۱۸۳۸-م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۶۷۲) (۱۸۳۹-م)	دیکھو حدیث ۶۷۲ھ	
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر-۶۷۲) (۳۹) بَابُ تَقَاسُمِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى	دیکھو حدیث ۶۷۲ھ	باب سوم مشرکوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہیں
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م) (۱۸۴۰-م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر-۶۷۲) (۴۰) بَابُ قِصَّةِ	دیکھو حدیث ۶۷۲ھ	کھا کر عید کا نام
أَبِي طَالِبٍ (۱۸۴۱-م) عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ	عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے	کہ انہوں نے نبی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْنَيْتَ عَنْ عَمَلِكِ فَإِنَّهُ كَانَ يُحَوِّطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ	صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا	آپ نے اسے سچا کو کیا فائدہ پہنچایا وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ
قَالَ هُوَ فِي مَحْضِ عَمَلِكِ مِمَّنْ تَأْذَرُّ لَوْلَا أَنَا لَكَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ		کے لئے غصے ہوتے تھے آپ نے فرمایا وہ حضور تک آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ آگ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے۔

علاء علیاً
نے اور لفظ یہ
ہیں۔ بلغنا
شجرہ النبی
صلی اللہ علیہ
وسلم ورضن
یا لیمین فر کتبنا
سفینۃ فالقننا
سفینتنا الی
النجاشی بالحبشۃ
فوافقتا جعفر
بن ابی طالب
فانما معہ
حجۃ قد منا
وافقتا النبی
صلی اللہ علیہ
وسلم حین
افتتح خیبہ
نقال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام یا اہل السفینۃ بھرتان۔ مخالف ہوئی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری کی جماعت کی کشتی حبش جا پہنچی اور وہاں سے پھر مدینے پہنچے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی دو ہجرتیں ہو گئیں، ایک نجاشی شاہ حبش کا لقب تھا اور یہاں احمد نجاشی مراد ہے جس کے پاس صحابہ نے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ صحابہ کی تبلیغ سے ہی وہ سلمان ہو گیا تھا اور اسلام پر برا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔ کتاب ابانہ میں اس کا ذکر گذر چکا ہے، مگر یہاں لفظ یہ ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین مات النجاشی مات لیوم رجل صالح نعموا فصلوا علیٰ احبکم اصحمة، مگر یہاں لفظ یہ ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی نصفنا وراہوقنت فی الصفۃ الثانی اد الثالث، یہ اور بھی مختصر ہے:۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی اصحمت النجاشی فکبر علیہ ادعاء، مگر یہاں دو سندوں سے روایت آئی ہے پہلی سند سے یوں ہے:۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى لہم النجاشی صاحب الحبشۃ فی لیوم الذی مات فیہ وقال ستخفروا الا حکیم۔ دوسری سند سے یوں ہے:۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہلم فی اصطلاح فضلا علیہ وکبر ادعاء، مگر جب مسلمانوں کو حبش میں امن کی جگہ مل گئی اور حضرت عمر بھی اسلام لے آئے اور قبائل میں اسلام پھیلنے لگا تو کفار مکہ کو خطرہ ہوا کہ اس طرح تو اسلام پھیل کر قوت پکڑے گا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی فکر کی۔ ابو طالب آپ کے چچا کو خبر ملی تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا اور سب نے آنحضرت صلعم کو شوق ابوطالب میں داخل کر دیا۔ اور قریش کو سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ عرف ابوسب ہی مخالف رہا۔ اس پر تمام قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مقابلہ کیا اور ہر قسم کے تعلقات اور معاملات ان سے منقطع کر دیئے اور اس پر انہوں نے قسمیں کھائیں۔ یہاں تقاسم المشرکین سے ہی مراد ہے۔ جس کا ذکر حدیث میں گذر چکا ہے، مگر یہاں اختصار ہے:۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراہ حدینا منزلنا عذرا ان شاء اللہ حبیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ بنی کنانہ کا خیف وہ جگہ تھی جہاں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے قطع تعلقات پر قسمیں کھانی گئی تھیں، مگر ابوطالب کا نام عبدمناف تھا وہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبدالمطلب ایک ماں سے تھے۔ اس لئے جب عبدالمطلب کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابوطالب کو وصیت کی اور انہوں نے آپ کی پرورش کی یہاں تک کہ آپ جوان ہوئے اور مقام نبوت پر فائز ہوئے کہہ کر خود آپ پر اسلام نہیں لانے مگر نے تک آپ کی حفاظت اور حمایت کرتے رہے، حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد تنفوخ شفا عتیہ یوم القیمۃ امید ہے کہ ابوطالب کو قیامت کے دن میری شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہاں یقین کے ساتھ فرمایا کہ آگ انکے ٹھکانوں تک جا اور اگر میں نہ ہوتا تو آگ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے۔

۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰

بقرہ ۲۶
نہا میں سے کہ
مخصاص اس میں
زمین پر تصور پایا
ہے جو مخول تک
پہنچا ہوا دراک
کے لئے اس کا
استعمال بطور
استعارہ ہے اور
عینی میں ہے کہ
اس سے مراد
ہلکا عذاب ہے
اس سے معلوم
ہوگا کہ کفار کو بھی
ان کے تریک اعمال
کا اجر ملتا ہے۔
ابو طالب آنحضرت
صلعم کی پرورش
بھی کی اور آپ کی
حفاظت بھی کی
اس لئے ان کا

(۱۸۶۱-۱۸۶۲) عَنِ الْمُسَيْبِ (متکثر - ۱۹) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 دیکھو حدیث ۷۱۹
 ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ عِنْدَهُ عَمَةً فَقَالَ
 سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا
 جب آپ کے سامنے آپ کے چچا کا ذکر ہوا آپ نے
 لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجْعَلُ فِي ضَوْضِاحٍ مِنَ النَّارِ رِيمَةً
 فرمایا امید ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن ان کو نفع دے گی اور وہ آگ میں ڈالے جاؤں گے جو ان کے مخول تک ہوگی جس
 كَعْبِيَّةٍ يُغْلِي مِنْهُ دَمَاعُهُ (روفي رواية) وَقَالَ تَغْلِي مِنْهُ أَمْ دَمَاعُهُ
 سے ان کا دماغ جوش مارتا رہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا دماغ اس کی وجہ سے جوش مارتا ہوگا
 (۱۸۶۳) بَابُ حَدِيثِ الْأَسْوَاءِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْوَى بَعْضُهُ الْأَخْوَءَ وَات
 باب اسوار رات کو جانے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سبحان الذي أسوى بعضه الاخوة وات
 لَيْلًا مِنْ النَّسِيجِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (۱۸۶۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
 پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا
 جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما سے
 اللَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَا
 روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے تھے کہ جب
 كَذَّبَنِي قَرَيْشٌ قَمْتٌ فِي الْحَجْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ كَطْفِئَتْ
 قریش نے مجھ کو جھٹلایا تو میں حج میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا میں ان کو
 أَخْبَرَهُمْ عَنْ آيَاتٍ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ
 اس کے نشانوں کی خبر دیتا رہا اور میں اسے دیکھ رہا تھا رہا
 اور میں اسے دیکھ رہا تھا رہا

عذاب اس قدر ہلکا ہوگا کہ صرف پیرایہ خفیفت خدات سے روایت کو دوہرایا ہے۔ آخر آیت ماکان للناس والذین المتواریتہ ۱۳ کو پورا نقل کیا ہے اور یہ بھی بڑھایا ہے و نزلت اناک لا تہدی من احببت (القصص - ۵۶) لعل امدماخ کے لفظی معنی ہیں دماغ کا آہل یا اس کی جڑ۔ اور مراد دماغ ہی ہے۔ لعل اسوار سموی سے ہے جس کے معنی ہیں رات کو چلنا اور اسوار بھی سموی کی طرح لازمی ہے۔ اس لئے اسوی بجدہ میں وہ ہا کے ساتھ متدی ہوا۔ اسوار سے مراد ہے آنحضرت صلعم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے جانا جیسا کہ آیت مندرجہ عنان باب میں ہے اور معراج جس کا ذکر اگلے باب میں ہے اس سے مراد ہے آپ کو آسمانوں پر لے جانا اسوار اور معراج کو اکثر نے ایک ہی رات میں مانا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ امام بخاری نے اسوار اور معراج کے یہاں الگ الگ باب باندھے ہیں جس سے بعض نے خیال کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اسوار اور معراج الگ الگ ہیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ کتاب الصلوٰۃ میں یہ عنوان باندھا ہے۔ کیف فرضت الصلوٰۃ لیلۃ الا سوار اور نماز معراج کی رات فرض ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک اسوار اور معراج دونوں ایک ہی رات ہوتے ہیں۔ نیز باب المعراج میں مالک بن صعصعہ کی روایت میں یہ لفظاں حدیث عن لیلۃ اسوی بہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک دونوں ایک ہیں۔ اسوار اور معراج کا رت کو ہونا بتاتا ہے کہ روحانی ترقیات کے لئے رات ہی زیادہ موزوں وقت ہے۔ اور مسجد اقصیٰ تک آنحضرت صلعم کے تشریف لے جانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیت المقدس اور انبیاء نبی اسرائیل کی برکات اور علوم کے وارث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نیز یہ بھی اشارہ ہے کہ بیت المقدس کے وارث مسلمان ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی کیونکہ صحیح طور سے انبیاء نبی اسرائیل کے ماننے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہجرت سے ۱۸ ماہ پیشتر ہوا۔ بعض نے ۱۷ ماہ بعض نے ۱۵ ماہ بعض نے کہا ہجرت سے تین سال پیشتر ہوا۔ اور زہری سے روایت ہے کہ بعثت نبوی کے پانچویں سال میں ہوا اور یہ صحیح ہے اس لئے کہ سورہ نبی اسرائیل جس میں اسوار کا ذکر ہے اور سورہ نجم جس میں معراج کا ذکر ہے دونوں پانچویں سال بعثت کی سورتیں ہیں۔ نیز دیکھو نوٹ ۱۳ ص ۹۹۔ لعل اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا اور اس سے مشرکین نے انکار کیا اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ آپ نے عظیم کعبہ میں کھڑے ہو کر ان کو بیت المقدس کے نشانات بتائے اور بیت المقدس (بابی برص ۹۱)

(۴۲) باب المعراج

باب المعراج

بقیہ حاشیہ

۹۰۹

اس وقت آپ کے سامنے لایا گیا تو وہ بھی کشفی امر تھا اور یہ رات کی روحانی سیر کے لئے دلیل ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ جہانی معراج کا ہوتا تو انکا مشرکین کے وقت چاہئے تھا کہ ان کو جہانی سیر بیت المقدس تک کرانے حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تکذیب تو آپ کی اس بات پر کی جائے کہ آپ جہانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے اور اس کیلئے دلیل یہ دی جائے کہ روحانی یا کشفی رنگ میں بیت المقدس آپ کے سامنے لایا جائے پس آنکارا روحانی سیر کا تھا اور روحانی سیر سے ہی اس کا جواب دیا گیا۔

حاشیہ صفحہ ۹۰۸ معراج غریب سے جس کا ماخذ عرفیہ ہے جس کے معنی ہیں اوپر چڑھنا خواہ جہانی رنگ میں ہو یا روحانی ہیں۔ جیسا کہ معراج کے معنی میں نہایہ میں ہے الفواضل القالیہ یعنی بلند مراتب اور مفردات میں سے ولیدۃ المعراج سمیت لصعود السعداء ذہبا اشارۃ الی قولہ الی یصلعون الکلمہ الطیب۔ رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لیجانا اور پھر آسمانوں پر چڑھنا اور ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا جانا احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے اور اسی کا نام اسراء اور معراج آیا معراج جہانی تھا یا روحانی بیداری میں تھا یا بحالت خواب اہل السنۃ والجماعت کا اس میں اختلاف ہے۔ جمہور محدثین فقہاء اور متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ معراج بحالت بیداری اسی جسم عنقریب کے ساتھ ہوا ان کے دلائل یہ ہیں: (۱) یہ ایک عظیم الشان واقعہ کے طور پر بیان ہوا ہے کہ اس کی ابتدا قرآن کریم میں سبحان الذی سے کی۔ (۲) کفار مکہ نے اسے مستبعد سمجھ کر اس کی تکذیب کی۔ اگر خواب کا قصہ ہوتا تو تکذیب نہ کرتے کیونکہ خواب میں انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ (۳) لفظ عبد اور معراج مع الوجد پر بولا جاتا ہے لیکن ان دلائل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر معراج روحانی مانا جائے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم اور وحی کا نزول بھی روحانی ہے تو کیا اس کی عظمت میں فرق آیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے علم سے گزشتہ اور آئندہ غیب کی خبریں دیں تو کیا ان کی عظمت میں فرق آگیا؟ ایک بات کی عظمت اس کے مضمون کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ معراج کی عظمت ان علوم کے لحاظ سے ہے جو آپ کو اس میں دیئے گئے۔ ان امور کے لحاظ سے ہے جو آپ پر منکشف ہوئے۔ اس فضیلت اور قرب الہی کے لحاظ سے ہے جو آپ کو دیا گیا جس تک اور انبیا نہ پہنچ سکے۔ حالانکہ اصل کمال یہ ہے کہ زمین پر مجھے نئے لوح اور قلب کی نگاہ آسمانوں سے پار نکل جائے۔ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے عظیم کعبہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ لیا اور اس کے سارے نشان بتا دیئے۔ دوسری دلیل معراج جہانی پر یہ وی جاتی ہے کہ کفار نے اسے مستبعد سمجھا۔ حالانکہ کفار تو وحی الہی کو بھی مستبعد سمجھتے تھے اور اس بارہ میں آپ کو منقری، شامو، کاہن، مجنون، ساحر، وغیرہ ناموں سے پکارتے تھے تو ان کے نزدیک آپ کا روحانی سیر بھی مستبعد تھا جس میں آپ عظیم الشان انکشافات ہوئے۔ تیسری دلیل کہ آئیہ کریم میں لفظ عبد کا استعمال کیا گیا ہے اور عبد جسم مع روح پر بولا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی بوری بات ہے۔ عبد کا لفظ بیشک انسان پر جو چلتا پھرتا معاملات کرتا ہے بولا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ راغب نے لکھا ہے عبد کا لفظ جو طرح پر بولا جاتا ہے اور ان میں ایک یہ ہے کہ عبد کا لفظ بخلاف عبادت اور خدمت کے بولا جاتا ہے اور ہمارے نبی صلعم پر جو لفظ عبد بولا گیا ہے اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ایک جسم اور روح رکھتے تھے بلکہ آپ کی کمال عبادت اور خدمت کے لحاظ سے بولا گیا ہے۔ اور اسی معنی سے اسوی عبید کا میں اس کا استعمال ہے۔ اور علاوہ ان میں انسان کے مرجانے کے بعد بھی جب جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے وہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ مثلاً عبد۔ رسول۔ یا انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے محمدؐ اور ابیہمؐ، موسیٰؑ حالانکہ اصل نام تو جسم مع روح کے ہی رکھے گئے تھے۔ اور قرآن شریف میں آتا ہے یا یتیم النفس المطمئنتۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلنی فی عبادی وادخلنی جنتی۔ تو ہاں نفس مطمئنہ کو ان عباد میں داخل کیا ہے جو فوت ہو چکے جن کی رو میں ان کے جسموں سے الگ ہو چکیں اور ان کو عباد ہی کہا ہے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا جس وقت انسان رویا دیکھتا ہے یا کشف کی حالت اس پر ہوتی ہے تو اس وقت وہ عبد نہیں رہتا جسم مع روح خواب اور کشف کے وقت بھی ہوتا ہے۔ پس اگر عبد کے معنی جسم مع روح ہی ہیں تو جس طرح عبد رویا دیکھتا ہے اسے سکا کشفات ہوتے ہیں اس پر وحی آرتی ہے اور یہ روحانی امور اور روحانی تجارب ہیں۔ اسی طرح عبد نے معراج بھی روحانی رنگ میں کیا۔ قلیل گروہ کا مذہب یہ ہے کہ معراج روحانی ہوا اور یہ ایک کشف تھا۔ اس گروہ میں حضرت عائشہ، معاویہ، اور حسن ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس سورت میں معراج کا ذکر کے فرمایا دھا جعلنا المرءیا اللتی اریناک۔ اسے رویا قرار دیا اور المرءیا ما یوحی فی المنام رویا وہ ہوتا ہے جو خواب میں دیکھا جاتا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ بخاری حدیث معراج میں ہے فیما یرى قلبہ ثمانہ عینہ معراج اس حالت میں ہوا جب آپ کا دل دیکھتا تھا اور آپ کی آنکھ سوتی تھی اور اسی حدیث کے آخر میں ہے۔ فاستیقظ دھوی فی المسجد الحرام پھر آپ جاگ اٹھے اور آپ مسجد حرام میں تھے جس سے صاف ثابت ہوا کہ معراج میں جو کچھ آپ پر منکشف ہوا وہ حالت خواب میں منکشف ہوا (بانی برہان)

(۵- ۱۸۴۲ عن مالك بن صعصعة زمكركم - ۲۵۲)

دیجھو حدیث ۱۸۴۲

رقبہ ص ۹۱

اور بخاری کی
دوسری روایت

میں ہے بین النائم والیقظان میں سوتے اور جاگتے کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب بھی پہلی حدیث کا ہے۔ اور اس میں بھی معراج کو کشف کی حالت قرار دیا ہے۔ نیز اوپر کی حدیث ۱۸۴۱ میں ہے کہ جب کفار نے معراج کی تکذیب کی تو آپ ﷺ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا یا جلال لی اللہ بیت المقدس من اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا یہ کشف تھا اور اس کو معراج کی صداقت کی دلیل ٹھہرایا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کشف تھا یہ سب دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کو نماز پڑھائی وہ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کی ارواح کے ساتھ آنحضرت کی روح کا اجتماع کشف کے رنگ میں ہوا تھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج کشف کی حالت میں ہوا تھا۔ پھر آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ تو مسلم ہے کہ ان کی ارواح کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ یہ سب بھی دلیل ہے اس بات کی کہ معراج بھی حالت کشف میں تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ روایا اور کشف کی حالت میں بھی شرح کو ایک جسم دیا جاتا ہے گو وہ یہ جسد غنصری نہیں ہوتا۔ (صفحہ ۲۵۲) اس کی روایت ابو ذر غفاری سے ہے اور ۱۸۴۲ انس کی روایت مالک بن صعصعہ سے ہے اور ۲۹۸ ابھی مالک بن صعصعہ سے ہے۔ اس لئے ۱۸۴۲ انس کے لفظ ۲۵۲ کی نسبت م ۲۹۸ کے الفاظ سے زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یہاں روایت یوں ہے:۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہم عن لیلۃ اسری بہ بدینا انا فی الحظیم و ربنا قال فی الحجز مضطجعا اذ اتانی ات فقد ارجو الال قال و سمعته یقول فنفق ما بین ہذہ الی ہذہ فقلت لیما رود و هو الی جنبی ما یعنہ بہ قال من شجرة نخرة الی شعرته رہنسل کے گڑھے سے بالوں یعنی ناف تک، و سمعته یقول من قصہ (سینے کے سر سے) الی شعرۃ رفات تک، فاستخرج قلبی ثم اقبلت بطست من ذهب مملوءة ایما فافضل قلبی ثم حشی ثم اقبلت بدابة دون البغل و فوق الحمار ابيض فقال لہ الحمار رود و هو البراق یا ابا حمزة قال انس نعم یضغ خطوہ عند اقصی طرفہ روہ قدم وہاں تک ڈالتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، فحملت علیہ فاطلق بی جبریل حتی ا فی السماء والادنی فاستفتح نقیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء ففتح فلما خلصت فاذا فیہا آدم فقال ہذا البرک آدم فلم علیہ وسلم علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد حتی ا اتی السماء الثانیة فاستفتح قیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء ففتح فلما خلصت اذا یحییٰ و عیسیٰ ہما ایما الخالة قال ہذا یحییٰ و عیسیٰ فلم علیہما وسلمت فردا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح قیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء ففتح فلما خلصت اذ یوسف قال ہذا یوسف فلم علیہ وسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی ا اتی السماء الرابعة فاستفتح قیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء فلما خلصت فاذا ہارون قال ہذا ہارون فلم علیہ وسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی ا اتی السماء السادسة فاستفتح قیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ہذا موسیٰ فلم علیہ وسلمت علیہ فردا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی ا اتی السماء السابعة فاستفتح قیل من ہذا قال جبریل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعیم الحجی جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال ہذا ابرک فلم علیہ وسلمت علیہ فردا السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح ثم رجعت لی سدة المتہمی فاذا بنقہار س کے سیر، مثل قلال ہجر، ہجر کے مشکوں کی طرح، و اذا ورقہا مثل اذان الغیلة قال ہذا سدة المتہمی اذا ریرۃ انہار نهران باطنان ونهران ظاہران فقلت ما ہذا ان یا جبریل قال اما الباطنان فنهران فی الجنة واما الظاہران فالنبیل والقرات ثم رض لی البیت المحصور ثم اقبلت باناء من خیر و اناء من لبن و اناء من عسل فاخذت اللب من فقال ہی الفطیرات علیہا و امتک ثم فرضت علی الصلوات خمسين صلوة کل یوم فرجعت فہررت علی موسیٰ فقال بما امرت قال امرت بخمسين صلوة کل یوم قال ان امتک لا تستطيع خمسين صلوة کل یوم والی واللہ قد جربت الناس قبلك ربانی برسلکم

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۱۱)

وعالجت (کوشش کی) بنی اسرائیل اشداً لمعالجۃ فارجمہ الی ربک فاسأله التخفیف لامتک فرجعت فوضعه عنی عشراً فرجعت الی
 موسی فقال مثله فرجعت فوضعه عنی عشراً فرجعت الی موسی فقال مثله فرجعت الی موسی فقال مثله
 فرجعت فامرت بعشر صلوات کل یوم فرجعت فقال مثله فرجعت فامرت بخمس صلوات کل یوم فرجعت الی موسی فقال بئس امرت
 قلت امرت بخمس صلوات کل یوم قال ان امتک لاستطیع خمس صلوات کل یوم والی قد جربت الناس قبک وعلجت بنی اسرائیل
 اشداً لمعالجۃ فارجمہ الی ربک فاسأله التخفیف لامتک قال سألت ربی حتی استعینت ولكن ارضی وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد
 امضیت فیضیۃ وخفضت عن عبدی۔ ایمان سے بھرے ہوئے طشت کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۰۰ صفحہ ۱۰۰۔ براق کا نام راوی نے لیا
 نہایہ میں ہے کہ براق یا تو اسے اُس کی شدت سفیدی کی وجہ سے کہا گیا ہے اور یا تیز رفتاری کی وجہ سے کیونکہ برق کے لفظ میں دونوں مفہوم
 آتے ہیں اس کی تیز رفتاری کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ اس کا ایک قدم منبتا ئے نظر تک پہنچتا تھا۔ ظاہر ہے کہ منبتا ئے نظر آسمان کی طرف
 خود آسمان ہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک ہی قدم میں آسمان پر پہنچ گیا۔ آسمانوں پر آنحضرت صلعم کی ملاقات بعض انبیاء سے ہوئی
 حضرت آدم سے پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰؑ کی بھی سے دوسرے آسمان پر حضرت یوسف سے تیسرے آسمان پر حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر
 حضرت ہارون سے پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم سے ساتویں آسمان پر بعض روایات میں اس ترتیب میں
 خلیفہ سا اختلاف ہے مگر اس میں کسی قدر کسی راوی سے غلطی کا ہوجانا قرین قیاس ہے عینی میں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء کے اجساد
 تو اپنی قبروں میں تھے آسمان پر ان سے ایسے ملاقات ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی روجوں نے ان کے جسموں کی شکل اختیار کر لی۔
 فان قلت کیف راى النبی صلعم هؤلاء انبیاء علیہم السلام فی السموات مع ان اجسادہم حیاتی جودہم فی الارض۔ یہاں حضرت عیسیٰؑ کو بھی
 ان انبیاء میں شامل کیا ہے جن کے جسم ان کی قبروں میں زمین میں تھے۔ اور خود حدیث میں حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو اٹھا دیکھا گیا جس سے
 ظاہر ہے کہ دونوں کو فوت شدہ بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ کے ذکر میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر وہ رشتے تو یہ رونا صرف اپنی قوم کے غم کی وجہ سے
 تھا کہ انہوں نے بہت کمزوریاں دکھائیں اور ان مقامات عالیہ کو حاصل نہ کر سکے جو امت محمدیہ نے حاصل کئے عینی میں یہ بھی لکھا ہے کہ دوسری
 حدیث میں اسرا کی رات آنحضرت صلعم نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تو پھر آسمان پر کیسے ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ اعتراض صرف
 اس حالی میں پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کا جسمانی طور پر آسمانوں پر چڑھنا مراد لیا جائے جو صحیح نہیں بلکہ ان تمام امور سے جن کا ذکر احادیث
 معراج میں ہر جہاں نظر آتا ہے کہ یہ ایک روحانی سیر تھی۔ اور یہ آسمان بھی درحقیقت جسمانی بلندیاں نہیں بلکہ روحانی مراتب ہیں جن کے لحاظ سے
 انبیاء آپ کو دکھائے گئے۔ سب آسمانوں پر پہنچ جانے کے بعد سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر آتا ہے اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سدرۃ المنتہیٰ کو پایا بلکہ یہاں
 فرمایا شہ رخت فی سدرۃ المنتہیٰ پھر سدرۃ المنتہیٰ مجھے بلند کر کے دکھائی گئی۔ اور قرآن شریف میں بھی فکان قاب قوسین او ادائی کے بعد
 فرمایا۔ ولقد راہ نزلة اخری عند سدرۃ المنتہیٰ عندھا جنة الہادی یعنی رسول اللہ صلعم نے ایک اور نزول میں اپنے آپ کو سدرۃ
 المنتہیٰ کے پاس پایا اسی کے پاس جنت ہے اور امام راغب سدرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس مرتبہ کی طرف ہے جس کے لئے
 نبی صلعم کو خاص کیا گیا۔ افاقرہ ائمہ اور نعمائے جسامت سے اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ وہ درخت جس کے نیچے نبی صلعم سے بیعت (ظنون)
 کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں پر سکینت نازل کی۔ اور ابن اثیر کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہیٰ جنت کی انتہائی حد پر ہے جس پر اولین و
 آخرین کا علم منتہی ہوجاتا ہے مفسرین کے اقوال بھی عموماً یہی ہیں کہ اس پر تمام عالموں کا علم ختم ہوجاتا ہے۔ اور خواہ ظاہری عالم کو لیکر خواہ
 باطنی کو اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کا علم ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہوجاتا ہے اور کعب کا قول ہے کہ ملک مقرب ہوجائی مری سب کا علم اس
 پر ختم ہوجاتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ وہ ہر شخص کی انتہائے جو سنت رسول اللہ پر چلتا ہے چونکہ سب سب سب کو کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے
 حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اس کے سیر مطلق کی طرح اور اس کے پتے باطنی کے کانوں کی طرح ہیں اور سدرۃ المنتہیٰ کے ساتھ یہ چاروں دنیاؤں
 کا ذکر ہے جن میں سے دو باطنی ہیں اور دو ظاہری ہیں اور ظاہری دریا ئے نیل اور فرات کو کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج دراصل اس
 بات کو دکھانے کے لئے تھا کہ نعمائے باطنی اور نعمائے ظاہری دونوں آپ کو بدرجہ کمال شیعے جائیں گے حتیٰ کہ نیل اور فرات والے ملک بھی آپ
 کو دینے جائیں گے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے شہ رخت فی بیت المعمور۔ بیت المعمور آپ کو بلند کر کے دکھایا گیا۔ اور بیت المعمور فناء کعبہ کا ہی
 دوسرا نام ہے کیونکہ یہی وہ گھر ہے جو ہمیشہ سے آباد چلا آتا ہے اور قیامت تک آباد رہے گا جس میں خلقت کا ہجوم رہتا ہے اور جس پر کوئی
 وقت ایسا نہیں آتا کہ وہاں کوئی زاہد نہ ہو۔ خدا کے علم میں کوئی اور بیت المعمور آسمان پر بھی ہو تو اس کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے۔ اور یہ
 جو آخر پر نماز کے قرض کیا جانے کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ذریعہ جس سے ہر مومن معراج حاصل کر کے اپنے سدرۃ المنتہیٰ
 تک پہنچ سکتا ہے وہ نماز ہے۔ اور نمازوں کی تعداد پہلے پچاس تہائی تھی اور پھر بار بار حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ عرض کر رہے۔

۲۲۲۱ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ وما جعلنا الرؤیا

التي آریناک الا فتنۃ للناس قال ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کلیلۃ اسیری بہ الی بیت المقدس قال الخیرۃ الملعونۃ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس بھیجا گیا کما اور قرآن میں جو سورہ ملعونہ

فی القرآن قال ہی شجرۃ الزقوم ۲۳۱ باب وفود الانصار الی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم بملہ وہ تھوہر کا درخت ہے ملہ باطلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں

انصار کے وفدوں کا جانا اور عقبہ کی بیعت ملہ

بعض نا اہلوں نے جو روحانی عالم کی کیفیات سے جاہل ہیں اس پر منہی کی ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو شخص یہ پانچ نمازیں خشوع حضور

سے ادا کرتا ہے اس کا سارا وقت ہی گویا عبادت میں گذرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر پاتا ہے اور اس میں

اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پانچ نمازیں درحقیقت پچاس کی قائم مقام ہیں کیونکہ پچاس نمازوں میں انسان کے جو ہیں گھنٹے

یعنی سارا وقت گذر جاتا ہے۔ اس لئے ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ پچاس بھی ہیں اور پانچ بھی + (سفر بڑا) ملہ وما جعلنا

الرؤیا الا عموما مفسرین نے اس روایا سے مراد معراج لیا ہے جس کا ذکر سورت کے تشریح میں اسری کے لفظ سے کیا ہے اور روایا لغت

کے رو سے خواب کے دیکھنے کے ساتھ خاص ہے اور لفظ صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق (الفتح - ۲۷) اور قد صدقت الرؤیا بالاصاف

(۱۰۵) میں بھی روایا سے خواب کا دیکھنا مراد ہے۔ ابن عباس کے یہاں روایا کو رؤیا عین رؤیا کہنا دیکھنا کہنے سے مراد وہی ہو سکتی ہے کہ یہ

روایا ایسا صاف تھا کہ گویا آپ نے آنکھ سے دیکھا اور نہ روایا کا لفظ سوائے خواب کے بولا نہیں جاتا۔ اور اس روایا کو فتنۃ للناس

اس لئے کہا کہ یہ لوگوں کے لئے ابتلاء اور امتحان کا باعث ہوگی اور شجرۃ عود سے اگر زقوم کا درخت مراد لیا جائے تو اسے فتنۃ اس لحاظ سے

کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر کہ قرآن کریم میں دو چیزوں کی خوراک زقوم بتاتی ہے ابھیل نے پھوڑیں اور کھن منگو کر اسے ملایا اور کما عم تو اسی کو

زقوم کہتے ہیں + ملہ صحیحین اور اہل سیر روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قائل

عرب پر موسم حج میں پیش کرنے تھے کہ وہ آپ کے ساتھیوں کو پناہ دیں تاکہ آزادی سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا یا جائے

آپ دعوت اسلام بھی دیتے تھے لیکن کوئی قبول نہ کرتا تھا۔ اس دوران میں آپ مقام عقبہ کے قریب مدینے کی قوم خزرج کے چند آدمیوں کے پاس

آئے۔ آپ کی دریافت پر انہوں نے کہا کہ ہم یہود کے سفراء قوم خزرج سے آپ کے ارشاد کے مطابق وہ بیٹھ گئے اور آپ نے انکو اسلام کی

دعوت دی۔ یہود سے سننے کی وجہ سے وہ ایک بوعود بنی کے آئے کے منتظر تھے جس کا وقت قریب آچکا تھا اور اسلام کی تعلیم نے بھی

انکے دلوں پر اثر کیا۔ دونوں باتوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کے قبول کرنے میں سبقت کی وہ تعداد میں تھے اور یہ واقعہ سلسلہ

بعثت کا ہے۔ ان کی وجہ سے مدینے کے تمام گھروں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ اور انہوں نے اسلام کی

تبلیغ کی۔ اگلے سال ان میں سے بارہ مسلمان حج کے لئے آئے اور بارہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عقبہ پر بیعت لی جو بیعت عقبہ

اولیٰ کے نام سے مشہور ہے اور بارہ میں عبادہ بن صامت بھی تھے اور جن باتوں پر بیعت ہوئی اس کا ذکر کے پیر ہو چکا اور ۵ھ میں آنا

ہے ان کی تعلیم کیلئے آنحضرت صلعم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ ان کو قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم دیں۔ ان کے توسط سے مدینے میں

اسلام زور سے پھیلا اور بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ ان میں سے ہنتر مرد اور دو عورتیں پھر موسم حج میں مکہ آئے درایا م تشریح

میں اسی عقبہ کے مقام پر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے انہوں نے گفتگو

میں شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تم جانتے ہو۔ ہم نے اب تک آپ کی دشمن قوم سے آپ کی حفاظت کی اور آپ اپنے

شہر میں عزت اور حفاظت سے ہیں۔ اب اگر تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے شہر میں جائیں۔ پس اگر تم اس عہد کو پورا کرنا پسند کرتے ہو جس کی بنا پر تم ان

کو اپنے شہر میں بیجا تے ہو اور آپ کے مخالفوں سے آپ کی حفاظت کر کے تو تمہارا اختیار ہے کہ اس کو بچھو کو اٹھاؤ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنے عہد کو

پورا نہیں کر سکتے تو اس بات کو رہنے دو کیونکہ نبی کریم کو جگہ دینا ساری عرب قوم کی دشمنی لینا ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

مخاطب ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے لئے جو شرطیں آپ ہم پر لگانا چاہیں لگائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی (باقی ص ۹۱۴)

رہیقہ ۹۱۳

تو پچاس کی بجائے

پانچ کر دی گئیں

تو حضرت موسیٰ

سے یہ عالم طانی

کی ملاقات ہے

اور حضرت موسیٰ

سے حضرت صلعم

کو خاص ثابت

ہے جس کا ذکر تورات

میں بھی ہے اور

قرآن شریف میں بھی

(۱۷۲۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَدْ كَفَّ حِينَ سَمِعْتُ

عبد اللہ بن کعب سے روایت ہے اور وہ کعب کی رہنمائی کرتے تھے جب انکی بصارت جاتی رہی کہ میں نے کعب بن مالک یحییٰ بن حنین بن خلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة

کعب بن مالک کو سنا اس وقت کا ذکر کرتے تھے جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے

تَبَوُّكَ بِطَوْلِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ كَعْبِ بْنِ كَعْبٍ

گئے تھے لیلہ فقہ بیان کیا ابن بکیر نے اپنی حدیث میں یوں کہا کہ کعب گناہ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعُقَيْبَةِ حِينَ تَوَاقَعْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي بِهِمْ مَشْهُدٌ

عقیبہ کی رات حاضر ہوا جب ہم نے اسلام پر تاقم رہنے کا مضبوط عہد کیا اور میں نہیں پسند کرتا کہ اس کے

بَدْرٍ وَرَأَى كَانَتْ بَدْرًا أَذْكَرُ فِي لَيْلَتِهَا مِنْهَا (۱۷۲۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ

بدرے میں جنگ بدر میں شریک ہونا اگر چہ لوگوں میں بدر کا بڑا چرچا ہوتا ہے

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدْتُ خَالَائِي الْعُقَيْبَةَ قَالَ أَبُو

رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے دونوں ماموں مجھے عقیبہ لے گئے تھے

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (۱۷۲۴) عَنْ

نے کہا ابن عیینہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک برادر ابن معرور تھا

جَابِرٍ (مُتَكَرِّرٌ) (۱۷۲۳) عَنْ عَبْدِ آدَةَ بْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَرِّرٌ) (۱۷۲۴)

دیکھو حدیث ۱۷۲۳ دیکھو حدیث ۱۷۲۴

(۱۷۲۵) عَنْ عَبْدِ آدَةَ بْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَرِّرٌ) (۱۷۲۴) بَابُ شُرُوحِ

دیکھو حدیث ۱۷۲۵ بَابُ شُرُوحِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَقَدْ وَهَدَ الْمَدِينَةَ وَيُنَادِي بِهَا (۱۷۲۶) عَنْ

حضرت عائشہ سے نکاح کرنا اور مدینہ آپ کے شریف لانا اور ان سے شادی کرنا

عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسوقت نکاح کیا جب میری عمر چھ برس کی تھی

رقیہ صلی اللہ علیہ
اور قرآن پڑھا
اور اسلام سنی
طرف رغبت
دلانی اور اس کے
بعد فرمایا یا ایہذا
علاءن کنعونی
مما لکن عنہ
نسا کجھو ایہذا کہ
میں تم سے اس
بات کی بیعت
لیتا ہوں کہ تم
میری ان باتوں
میں حفاظت
کرو گے جن میں
تم اپنی عورتوں
اور بیٹیوں کی
حفاظت کرتے
ہو۔ اس پر برادر
ابن معرور نے
آپ کا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا
رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ اصالح
من صالحکم

واحد اب من احدیتہ۔ جس سے تمہاری صلح ہو اس کے ساتھ میری صلح ہوگی اور جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اس کیساتھ میں بھی جنگ کو نہ
(صفحہ بذا) کعب بن مالک بیعت عقبہ اولی کے بارہ آدمیوں میں تھے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جو حفاظت اسلام کیلئے
ہوئی اور اس وقت مسلمانوں کی جنگی طاقت ہر ایک پہلو سے کمزور تھی۔۔۔۔۔ اور دشمنوں کی طاقت
ہر ایک پہلو سے مضبوط تھی اور بدر میں شامل ہونے والوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت ہے اور لوگوں میں بھی اس کا چرچا تھا۔ کعب
کہتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اگرچہ میں جنگ بدر میں شریک نہ تھا مگر میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بیعت عقبہ کی بجائے میں جنگ بدر
میں شریک ہوتا تو اچھا ہوتا کیونکہ بیعت عقبہ بھی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت سارے عرب اسلام کے خلاف تھا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کوئی آسان کام نہ تھا بلکہ ساری مصیبتوں اور عسے جنگ کرنے کو لینا تھا اور اسلام کی ترقی اور
کامیابی کی گنجی بھی عقیبہ کی بیعت ہی تھی کیونکہ اس سے مدینہ کی ہجرت اور اسلام کی آئندہ کامیابیوں کی بنیاد پڑی۔ کعب بن معرور
بیعت عقبہ ثانیہ کے تشریحی آدمیوں میں سے تھے اور یہ کہ پہلے گزرا تھا ان میں سے سب سے پہلے بیعت انہوں نے کی حضرت جابر کی والدہ
کا نام انیس بنت سہیب تھا ان کے دو بھائی تھے اور عمر تھے وہ دونوں جابر کے ماموں تھے۔ برادر ابن معرور ان کے حقیقی ماموں نہیں تھے
بلکہ ان کی والدہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے اس لئے انہیں ماموں کہا گیا ہے۔ کعب مکرر روایت کے لفظ صرف اس قدر ہیں۔ انا
والی وحالی من اصحاب العقیبہ۔ یہاں مکرر روایت قریبیہ کے لفظوں میں ہی آئی ہے۔ کعب مکرر روایت میں قدرے
اختصار ہے اور الفاظ بھی قدرے مختلف ہیں۔ قال انی من النقبہ اللذین بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (بانی برصالح)

بِسْمِ اللَّهِ فَقَدَرْنَا مَدِينَةً فَانزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِيِّ فَوَعَلْتُمْ مَرْزُوقًا
 اور بنو حارث بن خزرج میں اتنے مجھے بخارا لگائے گا اور میرے بال بھڑکے
 شعری نوافل اجمیہ فاتتہ ارضی ادر رومان و لانی لغی از حوحہ و مری صواحبہ
 پھر کندھوں تک ٹوب لیے ہوئے میرے پاس میری ماں ام رومان آئیں اور میں بھولا بھول رہی تھی اور
 لِي فَصْرَحَتْ لِي فَاتَيْتُهُمَا مَا اَدْرِي مَا تَرِي لِي فَاخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى وَفَّقْتَنِي
 میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں انہوں نے مجھے پکارا میں ان کے پاس گئی مجھے علم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا کام چاہتی ہیں
 عَلَيَّ بَابِ الدَّارِ وَرَأَيْتُ لَأَكْفِي حَتَّى سَكُنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ اخَذَتْ شَيْئًا مِنْ قَائِدٍ
 تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر گھڑا کر دیا میں باپ رہی تھی میں نے ذرا دم لیا پھر انہوں نے تھپڑ پانی پیا اور اس
 فَسَمِعْتُ يَهُوبُ وَبُحْبِي وَرَأَيْتُ الدَّارَ فَادْخَلْتَنِي الدَّارَ فَادْخَلْتَنِي مِنَ الْاَنْصَارِ فِي
 سے میرا سر منہ دھویا پھر وہ مجھ کو گھر کے اندر لے گئیں تو گھر میں انصار کی چند عورتیں تھیں
 الْبَيْتِ فَقَلَنْ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكَهْ وَعَلَى خَيْرِ طَائِفٍ فَاسْلَمْتَنِي اِلَيْهِنَّ فَاصْلَعْنَ
 انہوں نے کہا خیر اور برکت کا موجب ہوا اور ابھی قسمت ہو میں مجھ کو ان کے سپرد کر دیا انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا
 مِنْ شَارِبِي فَلَمْ اَدْرِي مَعْنَى الْاَلِ اسْوَلِ لِلَّهِ صَلَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَاسْلَمْتَنِي
 اور میں چونک گیا ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت نزل لائے انہوں نے مجھ کو رسول اللہ صلعم کے

بقیہ ص ۹۱۴
 وقال يا يعناه
 علي ان لا تنزل
 بالله شيئا ولا
 نسوقك لا نرضي
 ولا نقتل النضر
 القحرم الله
 الابا بحقي ولا
 نذهبك لا نغصب
 بالجنة ان خلنا
 ذلك فان خشينا
 من ذلك شيئا
 كان قضاه ذلك
 الى الله فطول
 کے پورا کرنے کی
 صورت میں حنت
 کا وعدہ ہے اور
 اگر خلافت کریں تو اللہ کے اختیار میں ہے
 چھ برس تھی اور نخصتان کے وقت نورس تھی۔ یہاں بھی اس کو از رتے روایت صحیح قرار دیا گیا ہے لیکن درایت کے روسے ان روایات میں کچھ غلطی
 نظر آتی ہے کیونکہ یہ مسلم سے کہ بعثت نبوی کا دسواں سال تھا کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور اسی سلسلہ بعثت میں آنحضرت صلعم کا نکاح حضرت
 عائشہ سے ہوا۔ مگر جو تصنیف سنیں کہ ان کا نخصتانہ نہیں ہوا۔ اس کے متعلق معتبر روایت یہی ہے کہ دوسرے سال ہجرت میں ہوا۔ بعض روایات میں
 اسے ہجرت سے سات ماہ بعد قرار دیا گیا ہے مگر خود یہ روایت اس خیال کو صحیح نہیں ٹھیکرانی۔ اس لئے کہ ہجرت کے وقت تو اہل عیال ساتھ نہیں آئے۔
 مدینہ پہنچے اور کچھ آرام کرنے کے بعد یہاں سے مکہ آدی بھیجے گئے جو آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو ساتھ لائے پھر مدینہ آنے کے
 بعد جیسا کہ اس حدیث میں ہے حضرت عائشہ پر ایک نبی بیماری آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے سر کے سائے بال بھڑکے۔ پھر وہ اچھی ہوئیں اور
 کمزوری دور ہوئی پھر نئے بال آگے اور تانے بڑھے کہ کندھوں تک پہنچ گئے۔ ایک لمبی بیماری اس کے بعد بالوں کا جھڑنا اور پھر دوبارہ بڑھ کر کندھوں
 تک پہنچنا ان سب باتوں کے لئے جن چار ماہ کا وقفہ کافی نہیں۔ اس لئے نخصتانہ کا سال سلسلہ ہجری ہے۔ اور عینی نے آگے حدیث
 ۴۲۷۷ کی شرح میں لکھا ہے وہی بہا بالمدینة بعد منصرف من وقتہ بدلتی شوال سنة اثنتین من الهجرة۔ یعنی رخصتانہ بدر سے واپسی
 کے بعد شوال سلسلہ ہجری میں ہوا اور سات مہینے والے قول کو قول واقع لکھا ہے اور نکاح کے متعلق لکھا ہے والنصاب انه تزوج عائشہ ثلث
 شوال سنة ثمان یعنی حضرت عائشہ سے نکاح شوال دسویں سال جنت میں ہوا۔ شوال دسویں سال بعثت سے نیک جو مسلم نکاح کی تاریخ ہے
 شوال سلسلہ ہجری تک جو مسلم رخصتانہ کی تاریخ ہے پوسے پانچ سال ہیں اور اس سے ہم اس قطعی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نکاح کے وقت چھ اور نخصتانہ
 کے وقت نوسال کی عمر والی روایت میں یقیناً غلطی سے اس لئے اگر نکاح کے وقت چھ یا سات سال کی عمر ہو جیسا کہ یہ دونوں قول ہیں تو رخصتانہ
 وقت گیارہ یا بارہ سال سے کم کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر نوسال تھی اور غلطی یہ ہے کہ رخصتانہ
 کے وقت نوسال سمجھی گئی۔ نکاح کے وقت نوسال سے کم عمر نہ ہونے کی تائید میں دو باتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ بخاری میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے
 کہ سورہ مہرنازل ہوئی تو میں سوخت لڑکی تھی جو کھیل کر تھی تو یہ چار پانچ سال سے کم عمر نہیں ہو سکتی اور سورہ قمر کا اور اس کے ساتھ کی سورتوں کا نزل
 بعثت کے پانچوں سال یا اس سے پہلے کا ہے گویا حضرت عائشہ کی پیدائش بعثت کا سال یا اس کے قریب ہے دوسری بات اسکی تائید میں یہ ہے کہ
 اصحاب میں کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے چار سال بڑی تھیں اور حضرت فاطمہ کی پیدائش بعثت سے چار سال پہلے کی ہے تو اس طرح بھی حضرت
 عائشہ کی پیدائش بعثت کا سال یا اس کے قریب قریب ہو اس طرح ہجرت کے وقت انکی عمر بارہ تیرہ سال اور رخصتانہ کے وقت چودہ پندرہ سال ہونے
 میں راجح شبہ نہیں۔ ایک اور قوی شہادت حضرت عائشہ کی پیدائش بعثت کے قریب قریب ہونے پر حدیث مسند ابی ایوب ۱۸۵۱ سے ملتی ہے دیکھو نوٹ
 ذیل صفحہ ۱۰۱ اس میں ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی اور بہت سے صحابی جنس کو ہجرت کر گئے تو حضرت ابوبکر نے بھی جنس کی ہجرت کا ارادہ
 لیا تھا اور اس حدیث میں صاف ذکر ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی ہوش کا زمانہ تھا پس پانچویں ماہ بیٹھے سال بعثت میں حضرت عائشہ کی عمر ساتھی کہہ رسول اللہ صلعم کے اپنے چلنے کے

اگر خلافت کریں تو اللہ کے اختیار میں ہے
 چھ برس تھی اور نخصتانہ کے وقت نورس تھی۔ یہاں بھی اس کو از رتے روایت صحیح قرار دیا گیا ہے لیکن درایت کے روسے ان روایات میں کچھ غلطی
 نظر آتی ہے کیونکہ یہ مسلم سے کہ بعثت نبوی کا دسواں سال تھا کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور اسی سلسلہ بعثت میں آنحضرت صلعم کا نکاح حضرت
 عائشہ سے ہوا۔ مگر جو تصنیف سنیں کہ ان کا نخصتانہ نہیں ہوا۔ اس کے متعلق معتبر روایت یہی ہے کہ دوسرے سال ہجرت میں ہوا۔ بعض روایات میں
 اسے ہجرت سے سات ماہ بعد قرار دیا گیا ہے مگر خود یہ روایت اس خیال کو صحیح نہیں ٹھیکرانی۔ اس لئے کہ ہجرت کے وقت تو اہل عیال ساتھ نہیں آئے۔
 مدینہ پہنچے اور کچھ آرام کرنے کے بعد یہاں سے مکہ آدی بھیجے گئے جو آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو ساتھ لائے پھر مدینہ آنے کے
 بعد جیسا کہ اس حدیث میں ہے حضرت عائشہ پر ایک نبی بیماری آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے سر کے سائے بال بھڑکے۔ پھر وہ اچھی ہوئیں اور
 کمزوری دور ہوئی پھر نئے بال آگے اور تانے بڑھے کہ کندھوں تک پہنچ گئے۔ ایک لمبی بیماری اس کے بعد بالوں کا جھڑنا اور پھر دوبارہ بڑھ کر کندھوں
 تک پہنچنا ان سب باتوں کے لئے جن چار ماہ کا وقفہ کافی نہیں۔ اس لئے نخصتانہ کا سال سلسلہ ہجری ہے۔ اور عینی نے آگے حدیث
 ۴۲۷۷ کی شرح میں لکھا ہے وہی بہا بالمدینة بعد منصرف من وقتہ بدلتی شوال سنة اثنتین من الهجرة۔ یعنی رخصتانہ بدر سے واپسی
 کے بعد شوال سلسلہ ہجری میں ہوا اور سات مہینے والے قول کو قول واقع لکھا ہے اور نکاح کے متعلق لکھا ہے والنصاب انه تزوج عائشہ ثلث
 شوال سنة ثمان یعنی حضرت عائشہ سے نکاح شوال دسویں سال جنت میں ہوا۔ شوال دسویں سال بعثت سے نیک جو مسلم نکاح کی تاریخ ہے
 شوال سلسلہ ہجری تک جو مسلم رخصتانہ کی تاریخ ہے پوسے پانچ سال ہیں اور اس سے ہم اس قطعی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نکاح کے وقت چھ اور نخصتانہ
 کے وقت نوسال کی عمر والی روایت میں یقیناً غلطی سے اس لئے اگر نکاح کے وقت چھ یا سات سال کی عمر ہو جیسا کہ یہ دونوں قول ہیں تو رخصتانہ
 وقت گیارہ یا بارہ سال سے کم کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر نوسال تھی اور غلطی یہ ہے کہ رخصتانہ
 کے وقت نوسال سمجھی گئی۔ نکاح کے وقت نوسال سے کم عمر نہ ہونے کی تائید میں دو باتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ بخاری میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے
 کہ سورہ مہرنازل ہوئی تو میں سوخت لڑکی تھی جو کھیل کر تھی تو یہ چار پانچ سال سے کم عمر نہیں ہو سکتی اور سورہ قمر کا اور اس کے ساتھ کی سورتوں کا نزل
 بعثت کے پانچوں سال یا اس سے پہلے کا ہے گویا حضرت عائشہ کی پیدائش بعثت کا سال یا اس کے قریب ہے دوسری بات اسکی تائید میں یہ ہے کہ
 اصحاب میں کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے چار سال بڑی تھیں اور حضرت فاطمہ کی پیدائش بعثت سے چار سال پہلے کی ہے تو اس طرح بھی حضرت
 عائشہ کی پیدائش بعثت کا سال یا اس کے قریب قریب ہو اس طرح ہجرت کے وقت انکی عمر بارہ تیرہ سال اور رخصتانہ کے وقت چودہ پندرہ سال ہونے
 میں راجح شبہ نہیں۔ ایک اور قوی شہادت حضرت عائشہ کی پیدائش بعثت کے قریب قریب ہونے پر حدیث مسند ابی ایوب ۱۸۵۱ سے ملتی ہے دیکھو نوٹ
 ذیل صفحہ ۱۰۱ اس میں ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی اور بہت سے صحابی جنس کو ہجرت کر گئے تو حضرت ابوبکر نے بھی جنس کی ہجرت کا ارادہ
 لیا تھا اور اس حدیث میں صاف ذکر ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی ہوش کا زمانہ تھا پس پانچویں ماہ بیٹھے سال بعثت میں حضرت عائشہ کی عمر ساتھی کہہ رسول اللہ صلعم کے اپنے چلنے کے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

إِيَّاهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱۷۲۵) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

وَلَّمْ يَكُنْ فِي رُؤْيَايَ مِنْ بَيْتِي وَتِمْ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَرَيْتِكِ فِي لَمْنَا وَمَرَّتَيْنِ أَرَيْتِكِ فِي سُرْقَةٍ

مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرُكَ فَكَيْفَ كُنْتِ عَنْهَا فَذَا هِيَ أَنْتِ فَاقُولُ إِنَّ

يَا لَكُنْ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يُبْضِئُهُ (۱۷۲۶) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ تَوَفَّيْتُ خَدِيجَةَ

قَبْلَ هَجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِبَيْتِ سِنِينَ فَكَلِمَتٌ

سَلْتَيْنِ أَوْ قَرَيْبًا مِنْ ذَلِكَ وَتَكُنَّ عَائِشَةُ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنِي

بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (۱۷۲۷) بَابُ هَجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا الْهَجْرَةَ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ

أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي لَمْنَا أَرِي أَهْلَ عَمْرٍو

فَكُنْتُ أَرِي أَرْضَهُمْ فَذَهَبَ وَهَلَّ إِلَى أَهْلِ الْيَمَامَةِ أَوْ هَجْرًا وَذَا هِيَ لَمْنَا

يُثْرِبَ (م- ۱۸۲۶) عَنْ خُبَّابٍ (م- ۶۸۵) (م- ۱۸۲۷) عَنْ عُمَرَ (م- ۱۸۲۸)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

۱۷۲۸ (بقیہ صفحہ ۹۱۶) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ ذُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ میں عبید بن عمیر لیبی کے ہمراہ حضرت عائشہ کی ملاقات کے لئے گیا

اللَّيْثَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ الْهَجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هَجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ

اور ان سے ہجرت کے متعلق پوچھا تو کہا اب ہجرت نہیں ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنا دین بیکر

أَحَدُهُمْ بَدِيئَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيفَةَ أَنْ

ایشا اور اس کے رسول کی طرف بھاگ آتا اس ڈر سے کہ

يُعْتَنَ عَلَيْهِ فَمَاذَا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْأِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ

لے ستایا جائیگا اور آج تو اللہ نے اسلام کو ظاہر کیا اور آج مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی

شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَرِيئَةٌ ۚ ۱۷۲۹ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدَ

عبادت کر سکتا ہے البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے ع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سعد بن

قَالَ لِللَّهِمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَ هُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ

معاذ نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی نہیں جن سے میں اللہ کی راہ میں لڑنا زیادہ پسند کرتا ہوں بہ نسبت اس قوم

لَكُنِّي بَوَّارٌ سَوَّلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْلَامُ فَإِنِّي أَطُنُّ أَذْكَ

کے جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور آپ کو رکھنے سے نکالا لے اشر میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہمارے اذکار

قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ رُوِيَ رَوَاهُ مِنْ قَوْمٍ كَذِبُوا بَيْنِيكَ وَ

درمیان لڑائی بند کر دی ہے ع اور ایک روایت میں ہے بہ نسبت اس قوم کے جس نے تیرے نبی کی تکذیب

أَخْرَجُواكَ مِنْ قَرْيَتَيْهِمْ (م- ۱۸۲۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر- ۱۷۱۲)

کی اور اس کو گھر سے نکالا یعنی بہ نسبت قریش کے دیکھو حدیث ۱۷۱۲ ع

(م- ۱۸۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر- ۱۷۱۲)

دیکھو حدیث ۱۷۱۲ ع

سے ہجرت ہو سکتی ہے۔ اسی لئے دوسری حدیث میں آتا ہے لا تقطع الهجرة المبلع کی روایت ابن عمر میں یہ لفظ میں انقطعت الهجرة بعد الفتح

الی رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقطع الهجرة ما قوتل الكفار یعنی ہجرت رسول اللہ صلعم کی طرف فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی۔ ویسے جب تک

کفار سے جنگ کرنیکی ضرورت پیش آتی رہے گی ہجرت کی ضرورت بھی پیدا ہوتی رہے گی (صفحہ بڑا) ع یہ لفظ لکن جہاد و نیت کا ہجرت بعد

الفتح کے ساتھ م ۱۲۹۰ میں گذر چکا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ گو ہجرت کی ضرورت تو فتح مکہ کے ساتھ منقطع ہو گئی لیکن جہاد اور نیت ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر

ہے کہ جہاد باسیف بھی منظم کفار کے ساتھ ہی ضروری ہوتا ہے اس لئے یہ ہمیشہ بنے والا جہاد دین کی ترقی کے لئے کوشش ہے۔ اور نیت سے مراد

ہجرت کی نیت بھی ہو سکتی ہے یعنی مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ بات موجود رہنی چاہئے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو وہ ہجرت کرے گا اور یا نیت سے مراد تمام

اعمال میں اچھی نیت کا ہونا ہے جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنيات بالذات کو حدیث ہجرت کے ساتھ جمع کیا ہے ع حضرت عائشہ کی

حدیث سعد کے متعلق مفصل کتاب المغازی باب غزوة الخندق میں آتی ہے دیکھو ۱۷۹۹ ع اسی کا ایک ٹکڑا ۳۲۵ میں گذر چکا اور ایک ٹکڑا یہاں ہے

مفصل حدیث میں اس دعا اللهم انك تعلم.... وضعت الحرب بيننا وبعدي لفظ ہے۔ فان كان بقى من حرب قریش شیء فابقنی له حتى

احاهدكم فيك وان كنت وضعت الحرب فانجوها واجعل موتی فيها۔ یعنی اگر قریش کی جنگ بھی باقی ہے تو مجھے اس کے لئے بچا رکھ اور اگر وہ

ختم ہو چکی تو پھر مجھے زندگی کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ زخم چھوٹ گیا اور حضرت سطل کا انتقال ہو گیا۔ اور مراد واقع یہی ہے کہ جنگ امر ایک بوجہ قریش کو مدینہ

پر چڑھائی کی اور مسلمانوں سے جنگ کی ہمت نہیں بڑی اور فتح مکہ میں جب رسول اللہ صلعم نے مکہ پر چڑھائی کی تو جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور

قریش نے اطاعت قبول کر لی ع خفیف لفظی اختلاف ہے۔ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربعين سنة فبكت بكمة ثلاث عشري سنة لوجهي

اليه ثم امر بالهجرة فما اجر عشري سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين فيما لانه في غرض یہ ہے کہ آپ نے ہجرت اپنی خواہش سے نہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ع مکرر روایت مختصر ہے مکث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشري سنة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين ع

۱۷۲۸ (بقیہ صفحہ ۹۱۶) جب آسان کفار کے شہروں میں سے کسی شہر میں دین کو ظاہر کر سکتا ہو تو وہ شہر اس کے لئے دارالسلام ہو گیا پس وہاں رہتا بہتر جو نیت وہاں سے نکل جانے کے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی ضروری تھی کیونکہ اس کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہ رہی اس بنا پر یہ صحیح ہے کہ ہجرت بعد الفتح لیکن اگر پھر کسی جگہ ایسے ہی اسباب پیدا ہو جائیں تو وہاں

۱۷۲۹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سعد بن عبادت کر سکتا ہے البتہ جہاد اور اس کی نیت باقی ہے ع

۱۷۱۲ دیکھو حدیث ۱۷۱۲ ع

(۵-۱۸۵۰) عَنْ أَبِي سَجِيدٍ (متکرم) (۳۲۸-۵) (۱۸۵۱) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم)

۱۸۵۰-۱۸۵۱
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

دیکھو حدیث ۳۲۸

(۱۱۱۳-۱۳۰) عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَبِينَا فَنَحْنُ يَوْمَ مَا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ

عُرْوَةَ ۳۰ ع ۳۱ ع ۳۲ ع ۳۳ ع ۳۴ ع ۳۵ ع ۳۶ ع ۳۷ ع ۳۸ ع ۳۹ ع ۴۰ ع

أَبِي بَكْرٍ فِي فَخْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَقِعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءُ

لَهُ أَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلًا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَاذْنُ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَابِي بَكْرٍ أَخْرَجَ مِنْ عِنْدِكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ مَا هُمْ أَهْلَكَ يَا بَكْرٍ

أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أذِنُ لِي فِي فَخْرِ وَجْهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةُ

يَا بَكْرٍ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ

فَخَذَ يَا بَكْرٍ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدِي رَأَحْتِي هَاتَيْنِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

مِيراباب آپ پر قربان ہو میری ان دو اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں

الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك يا بانا واماها تانا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابوبكر هو اعلاننا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس على في صحبته وماله ايا بكر ولو كنت متخذ اخليلًا من امتي لا اتخذت ايا بكر الا خلافة الاسلام لا ييقن في المسبح خوخة الاخوخة ابي بكر - يها رسول الله صلى الله عليه وسلم كواختار روي جانے کا ذکر ان الفاظ میں ہے خیر اللہ بین ان یوتیہ من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده یعنی ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں اور خوشیاں دکھائیں اور ایک طرف وہ نعمتیں جو اس کی طرف جانے سے ملتے والی ہیں تو آپ نے دنیا کی خوشیوں پر آخرت کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ کی امت کو کس قدر فتوحات اور مال دنیا کا حصہ ملے گا جیسا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں سے ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قیصر و سری کے خزانے دیئے گئے ہیں۔ اور امر واقع بھی یہی ہے کہ آپ کے خوراک کے بعد مسلمانوں میں حکومت اور دولت اس قدر آئی کہ جس کی نظیر کہ امتی ہے مگر آپ کو جو کچھ وفات کے بعد خدا کے حضور نعمتیں ملنے والی تھیں وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر تھیں تو آپ نے اسی کو ترجیح دی ۳۱ ع اتنی ہی حدیث کے لفظ سوائے نہایت ہی تحریف لفظی اختلاف بعینہ وہی ہیں جو ۳۱ ع کے ہیں مضمون میں کوئی فرق نہیں ہے ۳۲ ع یہ حدیث سن ۳۱ھ میں م ۱۸۵۱ کا ہی ایک حصہ ہے کیونکہ راوی مذکورہ حصے کے ایک ہی ہیں مگر امام بخاری نے یہاں قال ابن شہاب قال عروہ کہہ کر اسے الگ کر دیا ہے کیونکہ پہلا طویل حصہ بعینہ انہی الفاظ میں ۳۱ ع میں گزر چکا ہے اسی کے مطابق اسے علیحدہ حدیث قرار دے کر نیا نمبر دیا گیا ہے ۳۳ ع تقدیم یا سر کا کپڑے سے ڈھانک لینا جس سے منہ کا بھی زیادہ حصہ ڈھک جاتا تھا۔ گری کی وجہ سے ہوتا تھا ۳۴ ع اہلک یعنی حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان اور ہمیشہ اسماء ۳۵

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لثَمَنٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَمَزْنَا هُمَا أَحْتَابُ الْجَهَارِزِ

قیمت سے (لوں گا) حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے ان دونوں کے سفر کا سامان بہت

صَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ

جلدی سے تیار کیا اور ہم نے دونوں کے لئے کھانا تیار کر کے چمڑے کے ایک تھیلے میں رکھا اسماء بنت ابوبکر نے اپنے کر بند

زَطَامًا فَزَبَطَتْ بِهِ عَدْفِيمَ الْجِرَابِ فَبَدَلَكَ سَمِيَّتْ ذَاتَ النَّطَاقِ قَالَتْ تَمَّ

کا ایک ٹکڑہ پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا اسی وجہ سے اسماء کا نام ذات النطاقین ہو گیا حضرت عائشہ

مَحَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ بَعَارَ فِي جَبَلٍ ثَوْرًا فَمَكَنَا فِيهِ

کہتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غازی نے ایک بیٹھے جو ٹور پھاڑ میں تھا اس اور اس میں تین

ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ ثَقِفَ

رات چھپے رہے ان کے پاس عبداللہ بن ابوبکر رات کو رہے اور وہ جوان لڑکا مقلد اور فہم تھا اور

لَقِنَ فَيْدِيًّا مِّنْ عِنْدِهِمَا لَسِحْرًا فَيَصْبِيهِ مَعَ فَرِيشٍ بِمَكَّةَ كَبَابَتْ فَلَا يَسْمَعُ

پچھلی رات ان دونوں کے پاس سے سحری کے وقت نکلتا اور کہہ میں فریش کے ساتھ صبح کرتا ایسے شخص کی طرح جس نے رات

أَمْرًا يَكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بَخِيرٌ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلامُ

وہیں لڑکیں گزارتی ہو اور جو بات سنتا جس سے انکو نقصان پہنچتا ہو اسے یاد رکھتا یہاں تک کہ اس کی خبر ان دونوں کے

وَيُرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ قَهْزِرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مَنَعَهُ مِّنْ عَدْفِيمَ فَيُرِيهِمَا

پاس اسوقت لانا جب اندھیرا چھا جاتا اور عامر بن قہزیرہ حضرت ابوبکر کا غلام ان کے لئے دودھ والی بکری لے کر اس سے روک

عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ العِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رَسُولِ هَوْلَابِ

کر محفوظ رکھتا اور ان کے پاس اس وقت لانا جب عشاء کا کچھ وقت گزر جاتا اور دونوں رات رسل (تازہ دودھ) پر بسر کرتے

مِنْخَرِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا حَتَّى يَبْعَثَ بِهِمَا عَامِرُ بْنُ قَهْزِرَةَ بِعَلْسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

اور رسل ان کی بکری اور اونٹنی کا تازہ دودھ ہے تاکہ عامر بن قہزیرہ صبح اندھیرے میں بکریوں کو آواز دینا شروع کر سکیے

فِي كُلِّ كَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِي لِثَلَاثٍ وَأَسْتَاجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ان تین راتوں میں سے ہر رات ہی کرتے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ جُلَا مِّنْ بَنِي الدَّبِيلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

اور ابوبکر نے بنی دہیل کا ایک آدمی نوکر رکھا جو بنی عبدمنہ عدی کے خاندان سے تھا وہ راستہ

خَرِيْبًا وَالْحَزْرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْمَهْدِ آيَةٌ قَدْ كُنَسُ حَلْفَا فِي الْإِلْعَاجِلِ مِّنْ

دیکھا بنو لہزہ خزیمیت تھا اور خزیمت وہ ہے جو رستہ بتانے میں خوب ماہر ہو یہ شخص عاص بن وائل سہمی کے خاندان کا

ملے باوجود اس قدر تعلقات محبت کے اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر نے بہت دنوں سے اس اونٹنی کو آپ کے لئے ہی تیار کیا تھا آپ نے اس کا قیمت کے بغیر لینا پسند نہیں کیا حالانکہ حضرت ابوبکر اپنا سارا مال خدا کی راہ میں لے چکے تھے مگر چونکہ یہ اونٹنی آپ کو ایک ذاتی غرض یعنی اپنی سواری کے لئے چاہئے تھی اسلئے اسکی قیمت دیدی بعض روایات میں اس کا نام جذعاء لکھا ہے اور واقدی کہتے ہیں یہ قصوار تھی اور اس کی قیمت آٹھ سو درہم تھی اسلئے نطاق غور

کے پینے کا کپڑا ہے اور وہ اس طرح رہے کہ عورت کپڑا پہنے پھر اس کو دریاں سے کسی چیز سے مضبوط باندھ کر اوپر کے حصے کو نیچے کے حصے پر لٹا دیتی تاکہ کام کاج میں کپڑا پاؤں میں نہ الجھے رہنا یہ حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہنے کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نطاق کو پھاڑ کر دو حصے کر دیا اور ایک حصے سے اس تھیلے کا منہ باندھا جس میں آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کا کھانا رکھا گیا تھا۔ اور م ۱۸۵ میں بھی وجہ بیان کی گئی ہے اور ۱۳۱ میں ہے کہ نطاق کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے مشیزے کا منہ باندھا اور ایک سے تھیلے کا جس میں کھانا تھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ ان کے دونوں حصے ایک ہی تھیلے میں بند ہوئے اور دوسرے میں نبی صلعم کے لئے کھانا بچاتی تھیں اسلئے اس لحاظ سے یہ غارتوں کے نام سے مشہور ہے یہ پہاڑوں کے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی بعثت فارحرا میں ہوئی اور ہجرت کیلئے آپ غار ثور میں رہے۔ اسلئے دسل اللہ بن الطھی تازہ دودھ کو کہتے ہیں۔ یعنی دودھ والی اونٹنی اور بکری کو کہتے ہیں۔ رضیف بڑزن دخیف گرم کیا ہوا دودھ ہے الھی وضع فی الجارۃ المحماتہ بالشمس اذ النار وہ جس میں آگ یا صوب گرم کئے ہوئے پھر رکھے گئے ہوں تاکہ کاٹھا ہو جائے۔ نہا یہ میں رضیف کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں

۱۷

واستا جرسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم
دا ابو بکر رحلا
من بنی الدیل
سے یہاں تک
اصح قول السجل
ملا اس گزریکا
ملا موسیٰ بن عقبہ
کی روایت میں
ملاحت سے مائتہ
من اکاہل رسو
اونٹ، کی مرحمت
سے روایت ہے
یعنی قریش نے
آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت
ابو بکر ہر ایک کے
متعلق سو سو اونٹ
کا انعام مقرر کیا
تھا کہ جو ان میں سے
ایک کو قتل کرے
یا دونوں کو قید
کرے تو ہر ایک کے
بدلے سو اونٹ
انعام اسکو ملیگا۔
ملا تا کہ کوئی شخص
چمک کو دیکھ کر کچھ
ذبحانے کہیں ان
لوگوں کے پیچھے جا
رہا ہوں۔ ساری
پاتیل میں اٹھا کا مشد
یہی تھا کہ در انعام
کے حاصل کرنے میں
شریکت ہو جائے۔

وَأَمِلَ الشَّهْمِيُّ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَنَّا بِهِ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا

علیف تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا دونوں یعنی آنحضرت صلعم اور حضرت ابو بکر کے سے قابل اعتماد

وَوَاعَدَا لَهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبْحُ ثَلَاثٍ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُمَا

سمجھا اور اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ تین راتوں کے بعد ان کی اونٹنیاں تھری

عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالذَّلِيلُ فَأَخَذَ بِرَأْسِ طَرِيقِ السَّوَابِ قَالَ بَنُ شَهَابٍ

رات کی صبح غار ثور پرے آئے، اور انکے ساتھ عامر بن فہیرہ اور سترہ دکھا بیولا روانہ ہوئے وہ انکو ماحل کے رست پر لے گیا۔

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ ابْنِ

ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبدالرحمن بن مالک مدنی نے خبر دی اور وہ سراقہ بن مالک بن جعشم کے چھٹے ہیں

مَالِكِ بْنِ جَعْشِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمْعَ سُرَاقَةَ بْنَ جَعْشِمٍ يَقُولُ جَاءَنَا

کہ اسکے باپ مالک نے اسے خبر دی کہ میں نے سراقہ بن جعشم کو مٹا کتے تھے کہ ہمارے پاس

رَسُولُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ

کفار قریش کے قاصد آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بارے میں

كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنْ قَتْلَةٍ أَوْ اسْرَقَةٍ فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِّنْ

ان میں سے ہر ایک کے لئے دیت مقرر کی تھی اس کے لئے جو اسے قتل کرنے یا قید کرے یا اسے ایک مرتبہ میں اپنی قوم بنی

مَجْلِسٍ قَوْمِي بَنِي مَدْيَنَةَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَخَنَ جُلُوسَ

مدنی کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ انہی میں سے ایک شخص آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے ہوئے

فَقَالَ يَا سُرَاقَةَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الزُّنُوفَ السُّودَةَ بِالسَّاجِلِ أَرَأَيْتَ أَهْمًا

تھے اس نے کہا سراقہ میں نے ابھی چند آدمی ساحل کے رستے پر دیکھے ہیں میرا خیال ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں

وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُمْ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِرَأْسِمْ وَلَا كُنُفَ

سراقہ کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ یہ وہی ہیں مگر اس سے کہنا یہ وہ نہیں ہیں

رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا أَنْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ سَاعَةً ثُمَّ قَمْتُ

فلان فلان کو دیکھا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے گزے ہیں پھر میں تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا پھر کھڑا ہوا

فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ كَلِمَةٍ فَتَقْبِسْهَا

اور اندر گیا اور میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ میرا گھوڑا پیٹھ کے پورے نکال کر میرے لئے تھامے رکھ میں نے اپنا نیزہ لیا اور اس

عَلَى وَأَخَذْتُ رِمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِرُجَاهِ الْأَرْضِ

کے ساتھ گھر کے پھوپھو اڑے کی طرف سے نکلا نیزے کے پھل کو میں نے زمین کے ساتھ لگا دیا

وَحَفِضْتُ عَلَيَّ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تَقَرُّبًا لِي حَتَّى دَخَلْتُ

اور اس کے اوپر کی جانب کو چمکا دیا، اور اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور اس پر سوار ہوا میں نے اسے دوڑا یا وہ مجھے سرپٹ

مِنْهُمْ فَعَثَرْتُ لِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَفَقَمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي

لے چلا یہاں تک کہ میں ان کے قریب ہوا تو میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی میں اس سے گریڑا پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے قریش

فَأَسْتَفْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَأَسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضْرَهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الرَّيْ

کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور اس تیز کر لے اور ان سے فال لی کہ میں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں تو وہی نکلا جسے میں

أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ تَقَرُّبًا لِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ

نا پسند کرنا تھا پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پالنے کے خلاف عمل کیا وہ مجھے سرپٹ لے چلا یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يَكْتُمُ الْأَلْتِفَاتِ

اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اور حضرت ابو بکر بار بار ادھر ادھر دیکھتے

سَاخَتْ يَدُ أَفْرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتْ الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَّتْ عَنْهَا ثَمَّ

تھے میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھسن گئے یہاں تک کہ گھٹنیوں تک اندر چلے گئے اور میں اس سے گر گیا تب

زَجْرُهَا فَهَضَّتْ فَلَمْ تَكُ تَخْرُجُ يَدِيهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَامِمَةً إِذَا كَاتِرٌ

میں لٹے سے اٹھا وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر پاؤں نہ نکال سکا جب یہ کھڑا ہوا تو اس کے اگلے پاؤں سے ایک

يَدِيهَا عَثَانَ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمَتْ بِالْأَزْوَاجِ

گرد و آلودگی جو عیبوں کی طرح آسمان میں پھیل گئی میں نے پھر تیزوں سے فال نکالی پھر وہی

فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهَ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَبِي حَتَّى حَبَسْتَهُمْ

نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا تو میں نے ان کو امان کی آواز دی وہ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس پہنچا

وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقَيْتُ مَا لَقَيْتُ مِنْ أَحْبَسَ عَنْهُمْ أَنْ سَيْطَرُ أَمْرٍ

اور میرے دل میں جس وقت بار بار میں ان سے روکا گیا یہ خیال آیا کہ عنقریب

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الذِّبَةَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر غالب ہو جائیگا علی میں نے آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے

وَأَخْبَرْتَهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ

بائسے میں دیت مقرر کی ہے اور آپ سے وہ ساری خبریں بیان ہو گئیں جو لوگ ان کی نسبت ارادے رکھتے تھے میں نے انکے سامنے

يُزْرَانِي وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِيَّاهُ قَالَ أَخْفِ عَنَّا سَأَلْتَهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا

تو شہ اور سامان پیش کیا انہوں نے دیکھا اور نہ مجھ سے کچھ مانگا البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال پر مشیدہ رکھنا میں نے آپ کو درخواست کی

أَمِنْ فَا مَرَّ حَامِرُ بْنُ ظَهْرَةَ فَلَتَبْتُ فِي رَفْعَةٍ مِنْ أَدِيمِ ثُمَّ مَضَى سَوَّلَ اللَّهُ

کمرے سے نکلے امریکا تو کھینچیں تو عامر بن نہیہ کو حکم دیا اس نے چڑھے کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ

روا نہ ہوئے ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ الزُّبَيْرِيَّ رَكِبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِجَارًا

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے ملے جو مسلمانوں کے سواروں کی جماعت میں تھے وہ سوداگر تھے

قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ

شام سے لوٹ کر آئے تھے حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر

ثِيَابَ بِيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کو سفید کپڑے پہنانے اور دیکھنے میں جو مسلمان تھے انہوں نے سن لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يُعَدُّونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَضِرُونَ لَهُ حَتَّى

مکہ سے نکل پڑے ہیں تو وہ ہر روز صبح چہرہ تک آتے اور آپ کا انتظار کرتے یہاں تک

يُرِيدُهُمْ حَرَّ الظَّهْرِ فَإِنْ نَقَلُوا أَيَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا أَنْتَظَرَهُمْ فَكُنَّا

کہ روز پھر کی کرنی کی وجہ سے واپس ہوجاتے ایک دن وہ ان کا دیر تک انتظار کر چکے بعد واپس ہو گئے جب

علیٰ یہاں جہاں واقعہ
سراپہ کی زبانی
بیان ہوئے ہیں
ان کی سادگی میں
صدراقت میں
نظر آتی ہے۔
ہجرت کے تمام
واقعات میں کس
قدر اعجاز نظر آتا
ہے۔ گویا ہر ایک
واقعہ گھر سے
کفار کے اندر سے
نکلنا۔ تین دن
تک غار کے
اندر رہنا اور غار
کے بند ہونے تک کفار
کا پہنچ جانا ہرگز
کے گھوڑے کا
ٹھوک کھانا اور
پھر زمین میں جنس
جنا سب کھلے
معجزات ہیں۔
عاشق
سوادش انعام
لینے کے خیال
ستے آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم کے قتل
کرنے یا گرفتار
کرنے آیا تھا۔
مگر آپ تک
پہنچنے سے
پہلے ہی اللہ
تعالیٰ نے آپ
سامان پہنچا
کر دیا کہ سراپہ
کا ارادہ بدل گیا

اور اس نے اپنی ناکامی سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ آپ کا میاں ہوں گے۔ اور جو دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف
آپ لائے ہیں وہ آخر الامر غالب ہوگا۔

أَوْ إِلَىٰ بَيْوتِهِمْ أَوْ فِي رَجُلٍ مِّنْ يَهُودٍ عَلَىٰ أَكْثَرِ مِنْ أَكْثَرِ مَا كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے تو یہودیوں میں سے ایک شخص اپنے محلوں میں سے ایک محل پر کھڑے دیکھنے کو پوچھا تو اس نے

فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَبِضِينَ يَزُولُ بِهِمُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ سفید سفید لادی (آجے ہیں سراب ان کی وجہ

السَّرَابِ فَكَرِهَ يَمْلِكُ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ هَذَا

سے دور ہونا ہے بلکہ تو یہودی سے رہا نہ گیا اور اس نے بلند آواز سے پکارا اے عرب کے لوگو یہ تمہارا وہ سردار

جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَضِرُونَ فَتَأْتِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلَامِ فَتَلْقُوا رَسُولَ اللَّهِ

ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے اور جہ میں جا کر رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ

صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان کو ساتھ لئے ہوئے دائیں طرف ملے اور نبی

فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ فَقَامَ

عمرو بن عوف میں اترے اور یہ واقعہ رجب الاول کے مہینے میں پیر کے دن کا تھا حضرت

أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا فَطَفِقَ مِنْ

ابو بکر لوگوں کی خاطر کھڑے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے لیے انصار میں سے

جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْنٌ لَمْ يَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ

وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا آنحضرت

أَبَا بَكْرٍ حَتَّىٰ أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ أَبُو

ابو بکر کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آگئی تو حضرت ابو بکر

بَكَرَ حَتَّىٰ ظَلَّ عَلَيْهِ بَرْدٌ آتَاهُ فَعَرَفَ النَّاسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آگے بڑھے اور اپنی چادر سے آپ پر سایہ کیا تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا

عِنْدَ ذَلِكَ فَكَلِمَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بَضْعَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں دس سے کچھ زیادہ

عَشْرَةَ كَلِمَاتٍ وَأَسْسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ

راتیں رہے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی بلکہ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ بِمَشِيٍّ مَعَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ

علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے لوگ آپ کے ساتھ پیادل چلے یہاں تک کہ

عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ

اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس جو مدینہ میں ہے بیٹھ گئی اور اس وقت مسلمانوں کے چند

رِّجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَرَبِدَ اللَّثَمِ لِسَهْلٍ وَسَهْلٌ عِلْمًا لِّبَنِي يَمِينِ

آدمی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے وہ سہیل اور سہل دو تہیم لوگوں کے کچھو کچھک کرنے کی جگہ تھی

فِي حِجْرِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ

جن کی اسعد بن زرارہ پرورش کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی

بِهِ رَاحِلَتُهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَبْرُورُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو فرمایا اللہ چاہے تو یہی رہنما رہا ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جلسہ سوابق بیان
میں وہ چمکتی ہوئی
تھے ہے جو پانی
کی طرح معلوم
ہوتی سے سوڑ
کے معنی چلنے کے
ہیں اور سراب
اسے اس لئے
کہا جاتا ہے کہ وہ
چلتا ہوا معلوم
ہوتا ہے اس
کے اندر انسانوں
کی شکلیں نظر
آنے سے وہ
کیفیت و رہنوی
جاتی تھی
بلکہ یہ مسجد قبا
تھی قرآن شریف
میں جو الفاظ
آتے ہیں :-
مسجد اسس
علی التقوی
را التوبہ - ۱۰۹
ان الفاظ کو
بعض نے مسجد
قبا کے متعلق
سمجھا ہے اور
بعض نے مسجد
نبوی کے متعلق
اور فی الحقیقت
یہ لفظ دونوں
پر صادق آتے
ہیں

الْغُلَامُ مِنْ نَسَائِهِمْ بِأَلْسِنِهِمْ لِيُخَذُوا مَسْجِدًا فَقَالُوا لَا بَلْ نَهْمُ لَكَ يَا
 رَسُوْلَ اللهِ فَاَبَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمْ هَبَةٌ
 حَتَّى اِبْتَاعَهُ مِنْهُمْ مَائَةً بِنَاةٍ مَسْجِدًا اَوْ طَفِقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّيْلَ فِي بَيْتَانِهِ وَيَقُوْلُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّيْلَ هَذَا الْحِمَالُ
 لِاحْمَالِ خَيْبَرَ هَذَا الْبَرْبَاءُ وَاطْهَرُ وَيَقُوْلُ لِلَّهِمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ +
 فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ + فَتَمَثَّلَ بِشَعْرٍ جُلٍّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَسْمَعْ لِي
 قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْاَحَادِيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شَعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذَا الْبَيْتِ (۵- ۱۸۵) عَنِ اسْمَاءَ (متكرر-
 ۳۶۶) (۵- ۱۸۵) عَنِ الْبَرَاءِ (متكرر- ۱۳۰) (۱۳۱) عَنِ اسْمَاءَ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَتَتْهَا حَمَلَةٌ بَعْدَ اَللَّهِ مِنَ الرَّبِيعِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مَتَمَّةٌ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرٍ ثُمَّ دَعَا بَمَرْءَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَقَلَّ فِي فِيْهِ
 حَتَّى كَلَهُ بِمَرْءَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ

ملہ ہذا الحمال
 سے مراد وہ انہیں
 اور پھر وغیرہ
 ہیں جو مسجد کی
 تعمیر کے لئے
 اٹھائے ہیں صحابہ
 اور آپ خود شریک
 تھے۔ اور حمال
 خیدریا خیر کے
 بوجھ سے مراد
 ٹھہریں کھانا
 وغیرہ ہے جو
 چیزیں خیر سے
 لائی جاتی تھیں
 ملے اغلب یہ ہے
 کہ یہی شعر جو آپ
 نے پڑھے آپ
 کے اپنے کے
 لئے نہ تھے
 بلکہ کسی اور سے
 کے تھے اور آپ
 نے یہ شعر کیے نہیں
 صرف پڑھے ہیں
 علاوہ ازیں اگر
 یہ آپ کے اپنے
 بھی ہوں تو ہمارے
 عدلتاً الظہور
 کے خلاف نہیں
 کیونکہ شان و نام
 کے طور پر اگر کوئی
 موزوں جتنے آپ
 کی زبان سے
 نکلے ہیں تو اس

سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ شاعر تھے یا نہ، اس میں حضرت اسما کے نطق کا ذکر ہے قریباً وہی لفظ ہے سولے اس کے کہ یہ جملہ یہاں نہیں ہے فاربیطے
 فواحل اسفاء وبالآخر السقرة اور آخر پڑھایا ہے قال ابن عباس اسماء ذات النطاق + علیہا عرف ایک ٹھکانہ اس لمبی حدیث کا ہے۔
 قال لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة نبعه سراة بن مالك بن جحشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه قال ادع
 الله لي ولا اضرك فدعا لقال فطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرع قال ابوبكر فاخذت قدحا خلعت فيه كذبة من لبن فالتبته فخرب
 حتى رضيت - میان سراة کے گھوڑے کا زمین میں دھسن جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے اور یہی ذکر ۱۶۱ اوّلین بھی ہے + علیہ مریضہ میں
 ہجرت کے بعد ہاجرین میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبد اللہ بن زبیر تھے +

(۱۸۵۳) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَمًا - ۱۷۳۱) (۱۷۳۲) عَنْ اَسْنِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

بکھو حدیث ۱۷۳۱، ۱۷۳۲ اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينِ يَذِيحُ وَهُوَ صَرْدٌ

کہا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو روانہ ہوئے اور آپ نے حضرت

أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يَعْرِفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابٌ لَا يَعْرِفُ

ابو بکر کو اپنے پیچھے رکھا تھا مگر حضرت ابو بکر بڑھے تھے پھانے جاتے تھے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے پھانے نہ جاتے

قَالَ فَيُلْقِي الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ

تھے مگر کسی کوئی شخص حضرت ابو بکر سے ملتا اور کہتا ابو بکر یہ کون شخص ہے جو تمہارے آگے ہے

فَيَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِي نَبِيَّ السَّبِيلِ قَالَ فَيَحْسِبُ مَا سَبَّ آتَاهُ إِسْمَاعِيلُ

وہ جواب دیتے ایک شخص ہے جو مجھ کو رستہ بتاتا ہے کہا تو پوچھنے والا سمجھتا کہ حضرت ابو بکر کی مراد

الطَّرِيقَ وَإِسْمَاعِيلُ سَبِيلٌ لِي خَيْرٌ فَانْتَقَتْ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ

رستہ سے حال گمان کی مراد نبی کی راہ تھی مگر حضرت ابو بکر نے روگردانہ دیکھا تو ان کو ایک سوار نظر آیا کہ پیچھے سے ان کو

حَقَّقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ رَجَعَ بِمَا فَانْتَقَتْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى

آگیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک سوار ہے جو پیچھے سے پہنچا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اصْرِعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تَحْمِيحُ

نے دیکھا تو فرمایا اے اللہ اس کو گرا دے تو گھڑی نے اسے گرا دیا مگر پھر وہ کھڑی ہو کر تھناتے لگی

فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَنْ شِئْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكُنْ أَحَدًا يَلْحَقُ

اس نے کہا نبی اللہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں آپ نے فرمایا اپنی جگہ پھیرا کہ کسی کو ہم تک پہنچنے نہ دینا

بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ لَهَا رَجَاهُكَ اَعْلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ آخِرَ الْيَوْمِ

کہا تو وہ دن کے پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کر رہا تھا اور دن کے آخر میں

مَسَلَتْ لَهٗ فَانزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ لَبِثَ إِلَى الْأَنْصَارِ

آپ کیلئے ہتھیار بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہ کی ایک طرف اترے پھر انصار کو بلا بھیجا

فَجَاءَ وَالِي نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَلِمُوا عَلَيْهِ مَا وَقَالُوا أَرَكُمَا اِمْنَيْنِ مَطَاوِئِ

وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا سوار ہو جاؤ بے فکر رہو دو دنوں

فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفْوَادُؤُهُمَا بِالسَّلَاحِ فَيَقِيلُ فِي

کی پوری فرما ہزاروں کی جاگتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سوار ہوئے اور انھارے ہتھیار رکھ کر دونوں کے گرداگرد علاقہ پانڈھا

الْمَدِينَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْفُوهُ اِنظُرُون وَيَقُولُونَ جَاءَ

مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے بلند مقاموں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا

نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَاقْبَلَ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فَإِنَّهُ

کہ اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی آئے آپ چلتے ہے یہاں تک کہ ابو ایوب کے گھر کی ایک طرف اترے آپ اپنے

علیٰ بن ابی طالب سے
اختصار سے
کو بیان کیا ہے
قالت اول مولود
دلدار فی الاسلام
عبد اللہ بن النبی
اقوامہ النبی صل
اللہ علیہ وسلم
ناخذ القبط صل اللہ
علیہ وسلم تہرہ
فلا کفارہ سے چھپایا
ثم ادخلنا وفتحہ
قالت ما دخل
طندرق النبی
صل اللہ علیہ وسلم
علیٰ مردون کے
معنی یہ بھی ہو سکتے
ہیں کہ ایک ہی
ادنیٰ پر دونوں
سوار تھے حضرت
صلعم آگے تھے
اور حضرت ابو بکر
پیچھے اور یہ بھی
کہ حضرت ابو بکر
آگے اور نبی پر
پیچھے سوار تھے
حضرت ابو بکر نے
دو اونگھیاں ہجرت
کے لئے تیار کیں
تھیں اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک اونگھنی کی
قیمت بھی ادا کی
تھی اس لئے
قرن قیاس و سب

معتبر ہے۔ قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں (الانفال - ۲۹) کے معنی ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں ہی ہیں۔ ۱۰۰ سالہ عمر میں رسول اللہ صلعم حضرت ابو بکر سے
دو اونگھنیوں کو بٹے تھے لیکن حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں وہ بٹے تھے اور انھیں صلعم کے ہاتھ میں تھے بلکہ وفات کے وقت بھی مرثیہ لکھنے کے مال آپ کے
سفید ہونے تھے اور حضرت ابو بکر چھپائے اسلئے جاتے تھے کہ اپنی تجارت میں ان کا گھر گزر اس رستے پر ہوتا تھا۔ ۱۰۰ سالہ حضرت ابو بکر نے سچ ہی کہا مگر ایسے
پیرائے میں کہ پوچھنے والے کے دل میں شبہ پیدا نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلعم کے دشمن بہت تھے۔ ۱۰۰ سالہ یہ وہی ستر ہے جس کا ذکر کئی احادیث میں گلا رکھا۔

يُحَدِّثُ أَهْلَهُ رَأَى سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَحْلِ لَأَهْلِهِ يَخْتَرُ

بہر دوں سے باتیں کرے تھے کہ عبد اللہ بن سلام نے آپ کی خبریں وہ اپنے گھر والوں کے گھر کے باغ میں سنے ان کے

لَهُمْ فَجَلَّ أَنْ يَضَعَ الدَّمِي يَخْتَرُ لَهُمْ فِيهَا فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ

نے کھجوریں جن سے تھے انہوں نے وہ کھجوریں جو ان کیسے جن سے تھے جلدی کے مالے باغ میں نہ رکھیں اور اس حال میں حاضر ہوئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ کھجوریں انکے پاس تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دس پھر گھر والوں کی طرف لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَيُّ بِيوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَا نَبِيُّ اللَّهِ هَذِهِ دَارِي هَذَا

کہ ہمارے گھروں میں سے کون سا نزدیک ہے ملا ابو ایوب نے عرض کیا میں ہوں یا نبی اللہ میرا گھر ہے اور یہ

بَارِي قَالَ فَاطْلُقْ فَهِيَ لَنَا مَقِيلًا قَالَ قَوْمًا عَلَى بَرَكَتِهِ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ

میرا روزانہ سے فرمایا جا کر ہمارے لئے وہ پیر کے آرام کی جگہ درست کرو ابو ایوب نے کہا اللہ کی برکت کیا تھا اٹھے جب نبی اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبد اللہ بن سلام رہیں حاضر ہوئے اور کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے

اللَّهُ وَأَنَّكَ حَمِيْتُ حَقًّا وَقَدْ عَلِمْتُ يَهُودِيَّ سَيِّدُهُمْ وَأَبْنُ سَيِّدِهِمْ وَ

رسول ہیں اور آپ حق نیکر آئے ہیں اور یہود کو علم ہے کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور

أَعْلَمُهُمْ وَأَبْنُ أَعْلَمِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَأَسْأَلُهُمْ عَمِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي

ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں تو ان سب کو بلا بھیجے اور ان سے میرے متعلق دریافت کیجئے اس سے پہلے کہ انکو

قَدْ أَسْلَمْتُ وَأَبْنُ أَعْلَمِهِمْ أَنْ يَعْلمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا إِنِّي مَا لَيْسَ فِي

علم ہو جائے کہ میں اسلام سے آیا ہوں کیونکہ اگر ان کو علم ہو جائے کہ میں اسلام لایا ہوں تو میرے متعلق وہ باتیں کہیں گے جو مجھ میں ہیں

فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلُوا فَرَدَّخُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ

نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا وہ آئے اور آپ کے پاس حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيَا كُفْرًا اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي

علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے یہودی کی قوم تم پر اس وقت ہے اللہ کا قہقہا اختیار کرو اس ذات کی قسم جس کے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَاكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ فَاسْئَلُوا

سو کوئی پرستش کے لائق نہیں تم ضرور جانتے ہو کہ میں سچ اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس حق نیکر آیا ہوں تم مسلمان

قَالُوا مَا نَعْلَمُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَمَّا نَلَّكَ هَرَارٌ قَالَ فَمَا مِ

ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم کو اس کی علم نہیں یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے یہ بات ان سے تین بار فرمائی اچھا

رَجُلٍ فَيَذَرُكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا إِذَا كُ سَيِّدٌ نَاوُ ابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا

تو عبد اللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور ہم سب میں بڑے

وَأَبْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ فَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْمَ قَالُوا أَحَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ قَالَ فَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْمَ

عالم ہیں اور ہم سب میں بڑے عالم کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدا نہ کرے وہ اسلام لایا ہوں نہیں ہیں آپ

قَالُوا أَحَاشَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ قَالَ فَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْمَ قَالُوا أَحَاشَى لِلَّهِ

فرمایا بتاؤ تو میں اگر وہ مسلمان ہو جائیں انہوں نے کہا خدا نہ کرے وہ مسلمان ہوئے نہیں ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ تو میں اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ وَأَخْرَجَهُ عَلَيْهِمْ فَمُخْرَجٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ

نے کہا فلا نکرے وہ مسلمان ہوئے نہیں ہیں آپ نے فرمایا ابن سلام باہران کے سامنے آؤ وہ نکلتے اور کہا اے یہودی قوم

یہاں ان لوگوں کو اہل کہا ہے اہل کے معنی پیر و کے بھی ہیں اور ویسے بھی ان کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے عبدالمطلب کی والدہ نبی نجار بن مالک میں سے تھیں۔ براہی حدیث میں آتا ہے۔ نزل علیٰ اخرالہ

اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي كَرَّمَكُمْ فِي الْآلَمِينَ لَمْ يُخَلِّكُمْ فِيكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْقُرْآنَ وَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّكُمْ

اللہ کا تقویٰ کرو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں تم کو یقین ہے کہ آنحضرتؐ اللہ کے رسول ہیں اور حق

جاء ربحي فقالوا كذبت فاحرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳۳) ابن

بیکر آئے ہیں انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو نکال دیا

ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الاولين

عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے

اربعة الاف في اربعة و فرض لابن عمر ثلثة الاف و خمسمائة فقبل له

چار چار ہزار (درہم و ظیفہم) چار قسطوں میں مقرر کیا تھا اور ابن عمر کے لئے تین ہزار پانچ سو

هو من المهاجرين فلم نقصته من اربعة الاف فقال انما هجرية ابواه

کہ ابن عمر بھی مهاجرین میں سے ہیں تو آپ نے اسے چار ہزار سے کیوں کم دیا انہوں نے فرمایا اس کے ماں باپ ہجرت کے

يقول ليس هو ممن هاجر بنفسه (۱۸۵۴) عن خباب (متكبر- ۶۸۵)

اسے لے آئے ہیں یعنی فرمایا کہ وہ انکی طرح نہیں ہیں خود ہجرت کی ہے

(۳۴) ابن ابي بردة بن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر

ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ مجھے عبد اللہ بن عمر نے کہا

هل تدري ما قال ابي لابيك قال قلت لاقال فان ابي قال لا بيك يا ابا

کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ نے آپ کے باپ سے کیا کہا میں نے کہا نہیں عبد اللہ نے کہا میرے باپ نے آپ کے باپ سے کہا

موسى هل يسرك اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و هجرتنا معه

اے ابو موسیٰ کیا آپ اس سے خوش ہیں کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کیساتھ ہجرت کی

وجهادنا معه و حملنا كل ما برد لنا و ان كل عمل عملنا به بعد هجرتنا

اور آپ کے ہمراہ جہاد کیا اور جو بھی عمل ہم نے آپ کے ساتھ کیا وہ ہمارے لئے محفوظ ہے اور جو کام ہم نے آپ کے بعد کئے ان سے ہم

منه كفا قال اسأله عن ابيك فقال لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله

برابر رسول پر نجات پائی ہیں کہ میرے باپ (ابو موسیٰ) نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

عليه وسلم و صلينا و صمنا و حملنا خيرا كثيرا و اسلم على ابينا بن مشر بن نوفل بن عبد

جہاد کیا ہم نے نمازیں پڑھیں رونے رکھے اور بہت سے نیک کام کئے اور ہمارے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے ہمارے پر بھی رزق

ذلك فقال ابي لكنت انا و الذي نفس عمر بيده لو ددت ان ذلك برد لنا و ان كل

کی) ابید رکھتے ہیں تو میرے باپ (حضرت عمر) نے کہا مگر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے میں تو پسند کرتا ہوں کہ وہ تو ہمارے لئے

شي عملنا به بعد هجرتنا كفا فاسأله عن ابيك فقال لا والله خير من ابي

محفوظ رہیں اور جو بھی کام ہم نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے بعد کئے ان میں ہم برابر برابر نجات پائیں میں نے کہا اللہ کی قسم اچھے والد میرے والد

من عرفنا انك

عظم الشان فاتح تھے جسکی شہ نیا میں اور کوئی فاتح نظر نہیں آتا بلکہ اخلاق اور روحانیت کے بھی اس بلند مرتبہ پر تھے جس پر بڑے بڑے گوشہ نشین زاہد نہیں

پہنچ سکتے سلطنت ایران سلطنت روم اور ہر کوئی فتح کرنے کے باوجود ایک طرف تو فخر و کی طرح زندگی بسر کرتے شاہانہ خان و شوکت کو اپنے پاس بھینکنے

نہیں دیا۔ اور دوسری طرف اتنی سلطنتوں کا مالک ہونے کے باوجود اونٹوں سے اونٹوں کے لئے ضروری کے کام اپنے ہاتھ سے کرتے کہیں بیت المال کے اونٹوں کو

مال مل رہے ہیں کہیں دیکھ کر گرمی میں بیت المال کے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہیں کسی غریب فقط زدہ عورت کے لئے اٹلے کی بوری بنی پیٹھ

پر بٹے جا رہے ہیں کہیں اپنے حرم محترم کو ایک بدوی عورت کا بچہ جنوانے کیلئے ساتھ لے جا رہے ہیں اور لاکھوں انسانوں کو آپ کے وجود سے نور اسلام

پہنچا ہے اور پھر انکساری یہ حالت ہے کہ ان سارے اعمال پر کتنے ہیں کہ برابر برابر چھوٹ جائیں تو غنیمت ہے۔ (باقی بر صفحہ ۹۲۷)

۹۲۷

۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰

۱۷۳۵ (۳۵) عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أُقِيلَ لَهُ الْكَبْرُ

ابو عثمان سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر کو سنا کہ

قَبْلَ أَبِيهِ يُعْزَبُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَعُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَاهُ

نے اپنے باپ سے پہلے ہجرت کی تو ناراض ہوتے عبدالمطلب نے کہا میں اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہم نے

قَالَ لَا فَرْجَ عِنْدَنَا إِلَى لِمَنْزِلٍ فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ وَقَالَ ذَهَبْ فَاَنْظُرْ هَلْ اسْتَيْقِظُ

آپ کو دوپہر کے وقت آرام کرتے ہوئے پایا تو ہم گھر کو لوٹ آئے پھر مجھے حضرت عمر نے بھیجا اور فرمایا جا کر دیکھو کیا آپ جاگے ہیں؟ میں

فَأْتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا كَقَدِ

آپ کے پاس حاضر ہوا اور اندر آپ کے پاس چلا گیا اور آپ بیعت کی پھر میں حضرت عمر کے پاس گیا اور انکو خبر دی کہ آپ بیدار ہو

اسْتَيْقِظُ فَأَنْطَلَقْنَا إِلَيْهِ شَمْرُؤُا هَرُؤَلَةَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ

کچھ ہیں ہم دونوں آپ کی طرف روانہ ہوئے اور تیز چلتے ہوئے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر آپ کے پاس پہنچے اور آپ بیعت کی پھر میں نے آپ سے

(م- ۱۸۵۵) عَنِ الْبُرَاءِ (مَتَكَ- ۳۰) ۱۷۳۵ (۳۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

دیکھو حدیث ۳۰-۱۷۳۵ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے روایت ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فِي أَصْحَابِ أَشْمَطِ غَيْرِ أَبِي

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ) تشریف لائے آپ کے صحابہ میں سے کسی کے بال سفید نہ تھے سوائے ابوبکر

بِكُرِّ فَعَلَّهَا بِالْحَمْدِ وَالْكَرَمِ (م- ۱۸۵۵) ۱۷۳۵ (۳۵) عَنِ ابْنِ مَالِكٍ (مَتَكَ- ۳۵) ۱۷۳۵

کے انوں نے ڈاڑھی کو مندی اور سہم کا خضاب لگایا تھا

دیکھو حدیث ۳۵-۱۷۳۵

رقبہ ص ۹۲۶
اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کا کتنا بلند خیال ہو دل پر مستحیہ برود کے معنی ہیں ثبت یعنی وہ ہمارے اعمال قائم رہیں اور ان کا اجر کم نہ ہو کفار سے مراد ہے سوائے رسول یعنی کچھ ہم نے اچھے کام بھی کئے ہیں اور کچھ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اگر وہ ہمارے اچھے کام ان کوتاہیوں پر گرفت سے

بچاویں تو بس ہے۔ راستا ہراس کا بھی یہی مطلب ہے، (حاشیہ صفحہ ۹۲۶) یہ کسی موقع پر بیعت کا ذکر ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مدینہ پہنچتے وقت بیعت کا ذکر ہے اور یہی اغلب ہے کیونکہ رسول اللہ صلعم نے مدینہ پہنچتے ہی دوپہر کے لئے آرام کیا تھا۔ اس پر اعتراض یہ ہوا ہے کہ اس وقت عبد اللہ بن عمر کی عمر چھوٹی تھی اور کہ اس سے تین سال بعد احد کے دن ان کو آنحضرت صلعم کے سامنے پیش کیا گیا تب بھی آپ نے انیس جنگ کے کرنیوالوں میں شامل نہیں کیا۔ مگر بیعت صرف جنگ کرنیوالوں سے نہ لی جاتی تھی بلکہ عورتوں سے بھی لی جاتی تھی اور اس میں کوئی توجہ نہیں کہ عبد اللہ بن عمر میں آنحضرت صلعم کی بیعت کی ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے موقع پر ہوئی۔ غرض کسی موقع پر عبد اللہ بن عمر نے حضرت عمر سے پہلے رسول اللہ صلعم کی بیعت کی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو بغلی تکی کہ انوں نے کہا کہ عبد اللہ نے حضرت عمر سے پہلے ہجرت کی ہے اس کی تردید یہاں عبد اللہ ابن عمر نے خود کی ہے، مگر کبر حدیث کچھ اختصار سے اور کچھ اختلاف سے آئی ہے۔ لفظ یوں ہیں :- قال یاتنا ابوبکر من عاذب رحلا فمملتہ معہ قال فسأله عاذب عن مسیر رسول اللہ صلعم قال اخذ عیننا بانوہد فخرجنا لیلانا فاحشنا لیلتنا و یومنا حتی قام قائم الظہیرۃ ثم رجعت لنا صحرة فایتناھا ولھا شیء من نخل قال ففرقت لرسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم فروة معی ثم اضطر علیھا النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فانطلقت انقض ما حولنا فاذا انا براہ قد اقبل فی غنمہ یردن من الصحرة مثل الذی اردنا فسألته لمن انت یا غلام فقال انا لفلان فقلت له هل فی غنمک من لبن قال نعم قلت له هل انت حائل قال نعم فاخل شاة من غنمہ فقلت له انقض الصرع قال فخل کثبة من لبن ومعی اداوة من ماء علیھا خرة قد رواھا رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم فصبت علی اللبن حتی برد اسفله ثم اتیت به النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فقلت انقرب یا رسول اللہ فشراب رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم حتی رضیت ثم ارضنا والطلب فی اثرنا قال البراء فدخلت مع ابی بکر علی اہلہ فاذا عائشة ابنتہ مضجحة قد اصابتھا معی ذرات ابکاھا فقبل خدھا وقال کیف انت یا بئیتہ۔ آخری فقرہ قال البراء فدخلت مع ابی بکر علی اہلہ سے آخر تک یہاں زائد ہے جو اس روایت میں دوسری جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کے اہل عیال مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد حضرت عائشہ کو ایک لمبا بچا ہو گیا تھا جو غالباً ہجرت نبوی سے تین چار ماہ بعد تھا اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ حدیث براہ سے بیان کی کہ مصلح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سفید اور سیاہ ہلے ہوئے ہوں۔ کتم و سہم ہے اور بعض نے کہا وہ سہم نہیں بلکہ کوئی میاڑی درخت ہے جسکے پتوں کو مندی میں ملا کر خضاب کیا جاتا ہے، مگر یہاں قدم النبی صلعم المدینہ نکان اسن اصحاب ابوبکر فغلھا بالحناء والاکتم حتی تقا لہما۔ تبارک کے معنی ہیں اشتد حموتھا اس کی عمر گری ہوگئی چنانچہ احمقانی گمر سے مرع کو کہا جاتا ہے۔ جیسا اصفر واقع گمر سے زرد کو

(۷۳۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رقبیدہ کلب کی ایک عورت سے نکاح کیا جس کو ام بکر کہا

لَهَا امُّ بَكْرٍ فَكَلَّمَهَا جَرًّا أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عُمَرَ هَذَا الشَّاعِرُ

جب حضرت ابو بکر نے ہجرت کی تو اس کو طلاق دی اور اس سے اس (عورت) کے چھکے بیٹے اس شاعر نے نکاح کیا

الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ الرَّحَى كُفَّارُ قُرَيْشٍ

جس نے یہ قصیدہ بنا کر کفار قریش کا مرثیہ پڑھا

وَمَا ذَا ابَا لُقَلْبٍ قَلْبٍ بَدْرٍ	اور یہ کون ہیں میں۔ ہاں بدر کے کنوئیں میں کیا ہے	مِنَ الشَّيْزِيِّ تَزَيْنَ بِالسَّنَامِ	بڑے پیالوں (دلے) جتکوونٹ کے کوہان (کے گوشت) بخیریت بجائی جو
وَمَا ذَا ابَا لُقَلْبٍ قَلْبٍ بَدْرٍ	اور یہ کون ہیں میں ہاں بدر کے کنوئیں میں کیا ہے	مِنَ الْقَبَائِلِ وَالشَّيْزِيِّ الْكِرَامِ	گائے قبیلوں کے سینے والے اور عزم شریک پینے والے
نَحْيِي بِاسْلَامَةِ امِّ بَكْرٍ	ام بکر سلامتی کی دعا کرتی ہے	وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامٍ	اور میری قوم کے بعد سلامتی کہاں
يُحْدِثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَخِيًّا	رسول ہم کو بیان کرتے کہ ہم درمگر زندہ کئے جائیں گے	وَكَيْفَ حَيَاةِ أَصْدَاءِ وَهَامٍ	اور کیونکر زندہ ہوں گے انوار کھویریاں

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

(۵-۱۸۵۶) عَنْ أَبِي بَكْرٍ (متكرر - ۱۸۳۰) (۱۸۵۶-۱۸۵۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متكرر - ۷۷۸)

(۳۶) بَابُ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةِ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مدینہ تشریف لانا

(۱۸۵۸) عَنْ الْبَرَاءِ (متكرر - ۱۸۳۷) (۱۸۳۷-۱۸۳۸) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

دیکھو حدیث ۱۸۳۷ اور ابن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوْلَ مَنْ قَدَّمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَابْنُ عَمْرٍ

کما سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے

ہامت کی جمع ہے جس کے معنی کھوپری ہیں اور اسی سے صدی کا نکلنا مانا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ خیال تھا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح ایک پرند بن جاتی ہے جس کو صدی کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ انسان کے مرجانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے ایک اڑتا ہوا شاہد بن جاتا ہے۔ مگر یہاں صرف یہ لفظ ہے، یعنی ابی بکرؓ نے کہا کہ اتان اللہ علیہ وسلم فی القار فرغت راسی فاذا اتانا قدام القوم فقلت یا نبی اللہ لوان بعضہم طاطا بصیہ رانا قال سکت یا ابا بکر اتان اللہ تا لثہما۔ طاطا بصیرہ یعنی کسی نے اپنی لنگاہ پیچی کی۔ یہ حصہ ۳۷ کی نبی حدیث میں نہیں ہے۔ لفظ تشریفاً ایک ہیں۔ قال نعم کے بعد اور قال فاعمل سے پہلے بڑھا یا ہے۔ قال فعمل تمنہ منہا کسی دوسرے کو دو وہ دوہنے کے لئے دیتا ہے) قال نعم قال فتحلبھا یومہ ووردھا را پانی پر آتے وقت) قال نعم کیونکہ اس وقت غریبوں کو بھی دیا جاتا تھا۔ مگر ابتدائی حصہ ان الفاظ میں ہے۔ قال اول من قدم علينا مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم ثم قدم علينا عماد بن یاسر ویلال رضی اللہ عنہم مصعب کو آنحضرت صلعم نے اہل مدینہ میں تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن کے لئے بھیجا تھا۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ ابن ام مکتوم بھی قرآن شریف کی تعلیم دیتے تھے جیسی میں ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ لفظی قرار دیا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو کفار کے مظالم کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے۔ سب سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد تھے۔

مَكْتُوَبٍ وَكَانَا يُقْرَأَانِ لَنَا س فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعُمَارُ بْنُ يَا سِرْتٌ ثُمَّ قَدِمَ

ادورہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے پھر بلال اور سعد بن ابی وقاص اور عمار بن یاسر آئے پھر حضرت

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدِمَ

عمر بن خطاب بنی مہلی اللہ علیہ وسلم کے بیس صحابہ کے ساتھ آئے پھر بنی سلی اللہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرِحَ بِهِ رَسُولُ

علیہ وسلم تشریف لائے میں نے نہیں دیکھا کہ مدینے والے کبھی اس طرح خوش ہوئے ہوں جس طرح وہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلَ لِمَا كَفَرُوا بِقُلُنِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے خوش ہوئے یہاں تک کہ لوٹ پلٹیاں کرتے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے

وَسَلَّمَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورَةٍ مِنْ الْمُفْصَلِ

آپ اس وقت تشریف لائے کہیں سبحوا اسم ربك الاعلى مفصل کی کئی سورتوں کے ساتھ پڑھ چکا تھا

(۵-۱۸۵۹) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَك-۹۵۷) (۵-۱۸۶۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

دیکھو حدیث ۱۷۹۶

(مَتَك-۱۶۵۰) (۱۶۳۸) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خُوَيْفٍ رَجَعَ

دیکھو حدیث ۱۶۵۰ ابن عباس سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن خویف اس آخری

إِلَى هَيْلِهِ وَهُوَ يَمِينِي فِي الْخُرُوجِ بِحُجَّتِهِ حَتَّى جَاءَهُ عُمَرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ

میں جو حضرت عمر نے کیا کھڑکوں کی طرف لوٹ آئے ادورہ مہلی میں تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو عبدالرحمن نے کہا میں نے حضرت عمر

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاءَ النَّاسِ الرَّاحِيِّ أَرَأَيْتَ أَنْ تَهْلِكَ

سے کہا اے امیر المؤمنین کہ موسم حج میں خیر لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ آپ توقف کریں

حاکم کی روایت میں ہے کہ بنی حجار کی روایات حضرت صلعم کی تشریف آوری پر آپ کے استقبال کے لئے نکلیں ادورہ وہ بجاتی تھیں اور گاتی تھیں سخن جوار میں بنی الحجار یا حبیل اھل ہن من جبار اور ایک روایت میں ہے کہ انصار کی روایات یوں گاتی تھیں طلحہ البدر علینا من ثنیۃ الواداعہ وحب الشکر علینا ما دعا الله واسع اعطافه وہ سور میں جو قسد ان کریم کی

۱۵۹۶-۱۶۰۶-۱۶۱۶-۱۶۲۶-۱۶۳۶-۱۶۴۶-۱۶۵۶-۱۶۶۶

ساتویں اور آخری منزل میں ہیں جن کی ابتدا سورہ ق سے ہوتی ہے۔ نووی نے ان کی ابتدا سورہ حجرات سے قرار دی ہے مگر فیحی علی انہیں اس وجہ سے لگی کہ ابوداؤد اور احمد کی حدیث میں جس میں قرآن کریم کی سات منزلوں کا ذکر ہے۔ اس میں سات منزلیں یوں قرار دی گئی ہیں۔ پہلی تین سورتیں۔ پھر پانچ سورتیں۔ پھر سات سورتیں۔ پھر نو سورتیں۔ پھر گیارہ سورتیں۔ پھر تیرہ سورتیں۔ اور باقی کل سورتیں جو سے شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ کل ۲۸ سورتیں بنتی ہیں حالانکہ قرآن پچاسویں سورت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سات منزلوں کے شمار میں ابتدا سورہ بقرہ سے ہے۔ اور پہلی تین سورتوں سے مراد بقرہ۔ آل عمران اور نساء ہیں۔ اور ویسے سورتوں کے شمار میں پہلی سورت فاتحہ ہے۔ پس صحیح یہی ہے کہ مفصل کی ابتدا سورہ ق سے ہوتی ہے۔ سبحوا اسم ربك الاعلى جیسا کہ میں صاف مذکور ہے کہی سورت ہے۔ اور کسی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اذکم من توکل و ذکر اسم ربہ فصلہ عید کے متعلق ہے۔ اور عید کی ابتدا مدینہ سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی تفسیر میں مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا یا مٹل مکر روایت کچھ کمی بیشی سے آئی ہے۔ شروع میں وعك ابودکمی وبلال کے بعد اس قدر اتر ہے قالت فن خلعت علیہما فقلت یا ابت کیف تجتدک ویا بلال کیف تجتدک۔ اس کے بعد ۷ھ کے الفاظ اور اشعار ہیں۔ ان کے بعد صرف یہ ہے۔ قالت عائشۃ فحنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الیننا المدینۃ کحبنتا مکہ اذ اشدنا وصحھا وبارک لنا فی صاعھا ومدھا وانقل سماھا فاجعلھا بالجحفۃ۔ یہ فقرہ قریناً انہی الفاظ میں اصل حدیث میں بھی ہے۔ مٹل میں بہت اختصار سے روایت لائے ہیں۔ الفاظ یوں ہیں۔ قال دخلت علی عاتقن فشفهن ثم قال اما بعد فان الله بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وکنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثمها جرت هجرتین وتلت صهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبایعته فوالله ما عصيته ولا عشتته حتى توفيَا الله +

حَتَّى تَقْدُمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّمَا دَارُ الْحِجْرَةِ وَالسَّنَةِ وَمَخْلُصَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَسْرَافِ

یہاں تک کہ مدینہ پہنچیں کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے اور وہاں آپ کچھ دارمشریت لوگوں اور

الثَّامِسِ ذُوئِ رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ كَأَقْوَمِمْ فِي أَوَّلِ مَقَامِهِمْ أَقَوْمَهُ بِالْمَدِينَةِ

اہل رائے سے ہیں حضرت عمر نے کہا مدینہ میں پہلے مقام میں جو میں گھڑا ہوں گا تو اسی کیلئے گھڑا ہونگے

(۵-۱۸۶۱) عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ (مَتَكْرَمًا) (۶۷۲-۵) (۱۸۶۲) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَمًا)

دیکھو حدیث ۶۷۲۲ دیکھو حدیث

(۱۶۸۴) (۵-۱۸۶۳) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَمًا) (۵۵۵-۵) (۱۸۶۴) عَنْ آسِ

ابن مالک (متکر۔۔ ۳۰۰) (۲۷۷) بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَائِهِ نَسَكَهُ

دیکھو حدیث ۳۰۰۵۵ ہجرت کرنے والے کا مکہ میں عبادت حج عمرہ کے پورا کر کے بعد پھرنا

(۱۷۳۹) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

عبدالرحمن بن حمید زہری سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو سنا

الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ الرَّبِّ مَا سَمِعْتَنِي فِي سُكْنِي مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ

سائب بن اُخت مزی سے پوچھا کہ مکہ میں رہنے کے متعلق آپ نے کیا سنا ہے اس نے کہا میں نے

الْعَلَاءِ بْنِ الْحُضَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ

علاء بن حضری سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رطاون مکہ کے بعد ہاجر کے لئے تین دن رطاون

بَعْدَ الصَّدْرِ (۲۸) بَابُ التَّارِيخِ (۱۷۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدَّ مِنْ

درست ہے بک باب تاریخ کی ابتدا سهل بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ

صَبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدَّ وَالْأَمْرُ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ

اور آپ کی وفات سے انہوں نے آپ کے مدینہ تشریف لائے ہی تاریخ کو لگایا

یہ حدیث مفصل کتاب الحاجرین میں آئی ہے دیکھو حدیث ۲۳۷۵ حضرت عمر نے عبدالرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ایک شخص نے انہیں اطلاع دی ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر حضرت عمر فوت ہو جائیں تو میں فلاں کی بیعت کر دوں گا اور کہ حضرت ابوبکر کی بیعت لوگوں نے دھتکارنا چاہئے سمجھ کر حضرت عمر اس شخص کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے تو حضرت عبدالرحمن نے

کہا کہ آپ یہاں حج کے موقع پر ایسا نہ کریں جہاں ہجرتم کے لوگ جمع ہیں اور ان میں کمینہ لوگ بھی ہیں یوں ہی شور کریں گے۔ مدینہ پہنچ کر یہاں کیونکہ وہاں مسجد دار اور اہل رائے زیادہ ہیں تو حضرت عمر نے اسے پسند کیا۔ بک خفیف اختلاف لفظی سے حدیث دوہرائی گئی ہے مضمون بالکل وہی ہے۔ آخر پر اس قدر بڑھا یا ہے۔ قالت فاحزن بنی ذک فہنت فاربت لعثمان بن مظعون عیدنا تجوری فحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال ذک عملہ بک لفظ قرینا وہی ہیں فقدم رسول اللہ صلعم کے ساتھ المدینہ بڑھا کر تصریح کر دی ہے۔ آخری فقرہ کو مختصر کر دیا ہے۔ وقتلت سراہم فی دخولہم فی لاسلامہ بک یہاں اختصار کیا ہے۔ ان آیا بک دخل علیہا والنبی صلے اللہ علیہ وسلم عندها یوم فطرا اداضی و عندها قینتان بدا تقاذت الانصار یوم بعث فقال ابوبکر ہزار الشیطان مرتین فقال لنبی صلے اللہ علیہ وسلم دعہما یا ابابکر ان کل قوم عیدان عیدنا ہذا الیوم بک خفیف اختلاف لفظی سے حدیث کو دوہرایا ہے۔ آخر پر فاعض للانصار والہما حرقہ کی جگہ فانصرو الانصار والہما حرقہ ہے بک ملنے سے لوٹنے کے بعد طواف صدر ہوتا ہے یہ گویا حج کا اختتام ہے اس کے بعد تیسرے دن سے زیادہ نہ ٹھہرے کیونکہ ہاجرین کا مدینہ میں رہنا خدمت نبوی کے لئے ضروری تھا بک تاریخ کی ابتدا حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی اور یہ ہجرت کا سو لوہاں یا ستر ہواں سال تھا جب حضرت عمر نے اس ضرورت کو محسوس کیا تو آپ نے صحابہ کو بلایا مشورہ کیا تو کسی نے نبی صلعم کی پیروی کی کسی نے آپ کی بیعت کسی نے آپ کی وفات کو تاریخ کی ابتدا رکھنے کا مشورہ دیا حضرت علی نے ہجرت سے ابتدا کرنے کا مشورہ دیا اور اسی پر ان حزب صحابہ کا اتفاق ہوا سال کا ابتدائی مہینہ محرم ہی رہا جیسا کہ پہلے سے تھا ظاہر ہے کہ کوئی قوم جب اپنی تاریخ کی ابتدا کرتی ہے تو سب سے اہم واقعہ سے کرتی ہے۔ اور تاریخ اسلام میں ہجرت اس لحاظ سے اہم ترین واقعہ ہے کہ اسلام کی کامیابیوں کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے اسے پیش کرتے وقت فرمایا۔ فانھا فرق بین الحق والباطل۔

(۵-۱۸۶۵) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۲۵۳) (۲۵۹) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۲۵۳ ع باب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا

وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ امْضِ لاصحابي هجرتهم وصرّيتهم لمن قاتل بكلمة (م-۱)

یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت قائم رکھ اور انھیں جنت معلّم کا ان کیلئے اظہار فرما جس کو ناجو کہ میں مر گئے ع

(۱۸۶۶) عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالِبٍ (متکرر-۶۹۵) (۵۰) بَابُ كَيْفَ أَخِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۶۹۵ ع باب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر اپنے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اصحابه وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی ع اور عبدالرحمن بن عوف نے کہا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

میرے اور سعد بن الربیع کے درمیان اخوت قائم کی اور ابو جعفر نے کہا

أَخِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي لَدْرَدَاءِ (م-۱۸۶۷) عَنْ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابولدرود کے درمیان اخوت قائم کی

أَسْسَ (متکرر-۱۰۲۰) (۵۱) بَابُ (م-۱۸۶۸) عَنْ أَنَسِ (متکرر-۱۵۰) (م-۱۸۶۹)

دیکھو حدیث ۱۰۲۰ ع باب دیکھو حدیث ۱۵۰ ع

عَنْ أَبِي لَيْثِمٍ (متکرر-۱۰۲۶) (۵۲) بَابُ إِثْبَانِ الْيَهُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۰۲۶ ع باب یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت

وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ هَادٍ وَأَصَادُ الْيَهُودِ أَوْ أَمَا قَوْلُهُ هَذَا نَابِتَاهَا نَدِ

حاضر ہونا جب آپ مدینہ تشریف لائے ہا داد (البقرہ-۶۲) یہودی ہو گئے اور اسکا یہ قول ہذا ناالاعراف-۱۵۶ لبتا یعنی

ثَابِتٌ (م-۱۸۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

نے تو میری ہا داد تو بہ کر لو لا۔ ابو ہریرہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر

أَمِنَ بِي عَشْرَةَ مِّنَ الْيَهُودِ لَأَمِنَ بِي الْيَهُودُ

دس یہودی مجھ پر ایمان لائے آئیں تو سارے یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں گے ع

دس یہودی مجھ پر ایمان لائے آئیں تو سارے یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں گے ع

عربی میں لفظ
یوں میں قالت
فرضت الصلاة
رکعتیں شہا جہ
النبي صلى الله
عليه وسلم
فرضت اربعا
وتركت صلوة
السفر على الاطلاق
دیکھو نوٹ ع
صلوة
ع یا الفاظ آگے
حدیث میں آتے
ہیں۔ امضا کے
میں انفاذ میں
اور مراد اس کا
قائم رکھنا یا اس
کا اتمام ہے۔
حدیث میں اس کے
میں یہ کہہ کر واضح
کر دیے ہیں کہ
ترجمہ علی
اعتقاد ہم یعنی
ہجرت کے بعد
جس کی وجہ سے
وہ عظیم الشان

اجر کے مستحق ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی عمل ایسا سرزد ہو جس سے ان کا اجراء ہو جائے ع مگر تھوڑے اختلاف لفظی سے حدیث کو دوہرا لیا گیا ہے جس سے مفہوم میں کچھ فرق پیدا نہیں ہوتا۔ شروع میں یہاں سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض کی تصریح کی ہے۔ موصوفت منہ علی الموت اس حدیث کے لئے دیکھو صفحہ ۲۹۶ و ۲۹۷ پر نوٹ ع مگر یہ وہ اخوت تھی جو ایک ایک نماز اور ایک ایک انصاری میں آنحضرت صلعم نے قائم کی۔ عینی میں ہے کہ ابو عمر نے کہا ہے کہ ایک اخوت مکہ میں ہماجرین کے درمیان بھی قائم کی گئی تھی ع مگر پچھلے حصہ کو کچھ مختصر کر دیا ہے قدم عبد الرحمن بن عوف قاضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن الربیع الانصاری فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ و مالہ فقال عبد الرحمن بآرک اللہ لک فی اہلک و مالک و لکنی علی السبوق فریح شیئا من اقط و سمن باقی حصہ شخصیت تغیر لفظی سے وہی ہے۔ ع عبد اللہ بن سلام کے اسلام لانے کی حدیث ہے۔ اذنی تغیر لفظی سے وہی معنوں دوہرایا ہے آخر پرتا زیادہ ہے۔ قال هذا کانت اخات یا رسول اللہ دیکھو نوٹ صفحہ ۲۶۳ ع مگر یہاں حدیث زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ باع شریک لی درہام فی السوق نسیئة فقلت سبحان اللہ ایصلہ هذا فقال سبحان اللہ و اللہ لقد بعتمہا فی السوق فباعا عابہ احد فسالک البراء بن حازم فقال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نحن ننبأ بع هذا البیع فقال ما کان یبدا بیذہ لیس بہ ما من ما کان نسیئة فلا یصلہ و ان زیبا بن زعم قال ما لانا کان اعظمنا تجارة فالت زید بن ارقم فقال مثلہ فقال سفین مدرة فقال قدم علینا النبی صلعم المدینة و نحن ننبأ بع و قال نسیئة الی اللہ و ما الی الحج۔ دیکھو نوٹ ع ص ۲۶۳ ع دس بیویوں سے مروا ان کا خاص منہ میں نہ رہیں گی بیوی آپ پر ایمان لائے ہیں ہی ہونگے جیکے باقی سب پڑھتے۔ دینی لحاظ سے ہو یا دنیوی سے لکھنا، میں عرف عبد شہ بن سلام اسلام لانے باقی مروا ان بیوی جیسے ابویا سرستی بن اخطب کعب بن اشرف رافع ابن ابی حقیق وغیر انہوں نے صرف انکا کیا بلکہ آنحضرت صلعم کی مخالفت

صہ میں دشمنان اسلام کے ساتھ چاہتے تھے کہ بت پرستوں کو مسلمانوں سے بہتر قرار دینے لگے۔ مؤلف اہدی من الدین امتوا سبیلہ

۱۸۴۰-۱۸۴۱
 ۱۸۴۲-۱۸۴۳
 ۱۸۴۴-۱۸۴۵
 ۱۸۴۶-۱۸۴۷
 ۱۸۴۸-۱۸۴۹
 ۱۸۵۰-۱۸۵۱
 ۱۸۵۲-۱۸۵۳
 ۱۸۵۴-۱۸۵۵
 ۱۸۵۶-۱۸۵۷
 ۱۸۵۸-۱۸۵۹
 ۱۸۶۰-۱۸۶۱
 ۱۸۶۲-۱۸۶۳
 ۱۸۶۴-۱۸۶۵
 ۱۸۶۶-۱۸۶۷
 ۱۸۶۸-۱۸۶۹
 ۱۸۷۰-۱۸۷۱
 ۱۸۷۲-۱۸۷۳
 ۱۸۷۴-۱۸۷۵
 ۱۸۷۶-۱۸۷۷
 ۱۸۷۸-۱۸۷۹
 ۱۸۸۰-۱۸۸۱
 ۱۸۸۲-۱۸۸۳
 ۱۸۸۴-۱۸۸۵
 ۱۸۸۶-۱۸۸۷
 ۱۸۸۸-۱۸۸۹
 ۱۸۹۰-۱۸۹۱
 ۱۸۹۲-۱۸۹۳
 ۱۸۹۴-۱۸۹۵
 ۱۸۹۶-۱۸۹۷
 ۱۸۹۸-۱۸۹۹
 ۱۹۰۰-۱۹۰۱
 ۱۹۰۲-۱۹۰۳
 ۱۹۰۴-۱۹۰۵
 ۱۹۰۶-۱۹۰۷
 ۱۹۰۸-۱۹۰۹
 ۱۹۱۰-۱۹۱۱
 ۱۹۱۲-۱۹۱۳
 ۱۹۱۴-۱۹۱۵
 ۱۹۱۶-۱۹۱۷
 ۱۹۱۸-۱۹۱۹
 ۱۹۲۰-۱۹۲۱
 ۱۹۲۲-۱۹۲۳
 ۱۹۲۴-۱۹۲۵
 ۱۹۲۶-۱۹۲۷
 ۱۹۲۸-۱۹۲۹
 ۱۹۳۰-۱۹۳۱
 ۱۹۳۲-۱۹۳۳
 ۱۹۳۴-۱۹۳۵
 ۱۹۳۶-۱۹۳۷
 ۱۹۳۸-۱۹۳۹
 ۱۹۴۰-۱۹۴۱
 ۱۹۴۲-۱۹۴۳
 ۱۹۴۴-۱۹۴۵
 ۱۹۴۶-۱۹۴۷
 ۱۹۴۸-۱۹۴۹
 ۱۹۵۰-۱۹۵۱
 ۱۹۵۲-۱۹۵۳
 ۱۹۵۴-۱۹۵۵
 ۱۹۵۶-۱۹۵۷
 ۱۹۵۸-۱۹۵۹
 ۱۹۶۰-۱۹۶۱
 ۱۹۶۲-۱۹۶۳
 ۱۹۶۴-۱۹۶۵
 ۱۹۶۶-۱۹۶۷
 ۱۹۶۸-۱۹۶۹
 ۱۹۷۰-۱۹۷۱
 ۱۹۷۲-۱۹۷۳
 ۱۹۷۴-۱۹۷۵
 ۱۹۷۶-۱۹۷۷
 ۱۹۷۸-۱۹۷۹
 ۱۹۸۰-۱۹۸۱
 ۱۹۸۲-۱۹۸۳
 ۱۹۸۴-۱۹۸۵
 ۱۹۸۶-۱۹۸۷
 ۱۹۸۸-۱۹۸۹
 ۱۹۹۰-۱۹۹۱
 ۱۹۹۲-۱۹۹۳
 ۱۹۹۴-۱۹۹۵
 ۱۹۹۶-۱۹۹۷
 ۱۹۹۸-۱۹۹۹
 ۲۰۰۰-۲۰۰۱
 ۲۰۰۲-۲۰۰۳
 ۲۰۰۴-۲۰۰۵
 ۲۰۰۶-۲۰۰۷
 ۲۰۰۸-۲۰۰۹
 ۲۰۱۰-۲۰۱۱
 ۲۰۱۲-۲۰۱۳
 ۲۰۱۴-۲۰۱۵
 ۲۰۱۶-۲۰۱۷
 ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 ۲۰۲۰-۲۰۲۱

۱۸۴۰-۱۸۴۱	عن ابی موسیٰ (متکسر - ۱۰۰۸) (م - ۱۸۴۱) عن ابن عبّاس (متکسر - ۱۰۰۸)	دیکھو حدیث ۱۰۰۸	دیکھو حدیث ۱۰۰۸
۱۸۴۲-۱۸۴۳	عن عبد اللہ بن عبّاس (متکسر - ۱۵۹۸) (۱۴۴۲) عن ابن عبّاس	دیکھو حدیث ۱۵۹۸	ابن عباس رضی اللہ عنہما
۱۸۴۴-۱۸۴۵	رضی اللہ عنہما قال لهم اهل الكتاب جزوه اجزاء فانصوا لبعضكم وكفروا	کما وہ اہل کتاب ہی ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ایک حصہ پر ایمان لائے اور	سے روایت ہے
۱۸۴۶-۱۸۴۷	باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ (۴۳۳) عن	ابن عبّاس انکار کیا	سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا
۱۸۴۸-۱۸۴۹	سلمان الفارسی ثابۃ تداولہ بضعة عشر من ربّ الی ربّ	سلمان فارسی سے روایت ہے کہ وہ کچھ ایسے برس مالکوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوتے رہے	سلمان فارسی سے روایت ہے کہ وہ کچھ ایسے برس مالکوں کے ہاتھوں میں منتقل ہوتے رہے
۱۸۵۰-۱۸۵۱	ابی عثمان قال سمعت سلمان رضی اللہ عنہ یقول نامن رام ہرمز	ابو عثمان سے روایت ہے کہ میں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کہتے تھے کہ میں	رام ہرمز کا ہوں
۱۸۵۲-۱۸۵۳	عن سلمان قال فطرة بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہما وسلم ستیئة سنۃ	سلمان سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہما وسلم کے درمیان فطرت کا زمانہ	تین سو برس کا تھا

وسلم المدينة وجدا ليهود يصومون عا شورا فاستلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي اظفر الله فيه موسى بنى اسي ايل على افعون و
 عن نصوره تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولي يومئذ منكم فدا مصومه * لفظ قريبا وہی ہیں *
 میں کتاب اللہ سے مرا قرآن کریم ہے اور تو اس پاک کتاب میں ہے الذین جعلوا القرآن عضين (الحج - ۹۱) عضين کے معنی
 بھی اجزاء ہیں * یہ کتاب البیوع باب شراد الملوك من العربی (صفحہ ۴۸۸) میں ہے کہ سلمان اہل میں آزاد تھے اور حضرت عیسیٰ کے طور پر انہیں پکڑ کر
 غلام بنا لیا گیا اور پھر انہیں بیچ دیا گیا۔ وہ ایرانی تھے جو جس میں سے۔ جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے رام ہرمز کے بیٹے ولے۔ کہا جاتا ہے کہ دین حق
 کی تلاش میں نکلے اور عیسائی پادریوں کی صحبت میں رہے وہیں سے پیغمبر آخر الزمان کے متعلق سن کر عیب رستہ لیا لیکن راستے میں انہیں پکڑ کر
 غلام بنا لیا گیا۔ بیان ہے کہ وہ کے بعد دیگرے دس آدمیوں کے ہاتھ میں فروخت ہوئے۔ آنحضرت صلعم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ مکہ تبت
 کر لیں اس طرح وہ آزاد ہوئے۔ حضرت عمر نے انہیں عراق کا والی مقرر کیا۔ مسند احمد ج ۱ میں ان کی وفات پائی۔ ان کی عمر اڑھائی سو سال
 بتائی جاتی ہے۔ اور بعض نے ساڑھے تین سو کہا بعض نے کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا تھا۔ یہ باتیں بلا سند ہیں * رام ہرمز فرات
 کا ایک شہر ہے جو ایران کا ایک صوبہ عراق عرب کے ساتھ لگتا ہوا ہے * ملک فخرت۔ تیزی کے بعد جو سکون ہوا اور شدت کے بعد نرمی اور
 قوت کے بعد ضعف۔ تیز کرنا جاتا ہے۔ اور فخرت وہ زمانہ جو دو بینوں کے درمیان خالی گذرتا تھا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں حضرت عیسیٰ
 اور آنحضرت صلعم کے درمیان چھ سو سال فخرت کا زمانہ گذرا یعنی میں ہے کہ اس چھ سو سال کے عرصہ میں حنظلہ بن صفوان اصحاب اہل
 کے نبی گذرے ہیں جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ایک نبی خالد بن سنان عسی گذرے ہیں اور احادیث میں ہے کہ ان کی نبی نبی
 کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی اور فرمایا کہ اس کا باپ نبی تھا۔ اور ایسا ہی اس زمانہ کا ایک نبی شعیب ابن
 ذی یمنزم کو کہا گیا ہے اور یہ دو سرے شعیب ہیں وہ نہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ ان تین نبیوں کا ذکر کے لکھا ہے کہ ان کثیر کہتے ہیں کہ
 یہ اس زمانہ کے صالح لوگ تھے یعنی اولیاء اللہ تھے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت
 صلعم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں تو میں ان لوگوں پر احادیث میں نبی کا لفظ مجاز کے طور پر بولا گیا ہے۔ اور عیسیٰ میں ہے کہ مراد
 اور نبی کے نہ ہونے سے نبی مرسل کا نہ ہونا ہے اور یہ متعین نہیں کہ نبی غیر مرسل ہو جو لوگوں کو کسی پیغمبر رسول کی شریعت کی طرف بلائے وکایمتد ان یکون
 نبی خیر مرسل ینعوان الناس الی شریعت الرسول الاخر۔ مگر یہ توجیر قرآن شریف کے مطابق نہیں کیونکہ قرآن شریف میں فرمایا فبعثنا اللہ فیہم منہم
 منذرین وانزل ہمہم الکتاب یعنی ہر نبی کتاب بھی لاتا ہے پس نبی کو پہلے نبی کی شریعت کی طرف بھی بلائے مگر وہ تو بھی صاحب کتاب ہوتا ہے اور وہ
 شخص جو بغیر کتاب کے پہلے نبی کی شریعت کی طرف دعوت دے۔ وہ اصطلاح اسلام میں محدث کہلاتا ہے۔ اور اس پر لفظ نبی کا اطلاق
 صرف مجاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان روایات میں ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے

۶۴۔ کتاب المغازی

۶۴ جگہوں کی کتاب ۱۷

(۱) بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوْ الْعُسَيْرَةِ قَالَ ابْنُ اسْحَقَ أَوَّلُ مَا غَزَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بابِ عَشِيرَةِ يَاعُشِيرَةَ كَاغَزْوَهُ ابْنُ اسْحَقَ نَعَى كَمَا سَبَّ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَزْرَةَ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبْرَاءُ كَمَا تَقَى بَعْرُ بَوَاطٍ بَعْرُ عَشِيرَةَ عَطِ

ابن اسحق نے کہا سب سے پہلا غزوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابواء کا تھا پھر بواط پھر عشیہ

عاشیرہ سے روایت ہے کہ میں

جَنْبُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ

تِسْعَ عَشْرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهَا كَانَتْ

زید بن ارقم کے پہلے میں بیٹھا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات کیے انہوں نے کہا تیس

ابن اسحق نے کہا تیس مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کی کہ سترہ بار پہلے میں نے کہا ان میں سے سب سے پہلے کون سا تھا

غزوات کی اصل معنی ہیں ارادہ طلبہ اس کا ارادہ کیا یا اسے چاہا۔ اسی سے فقہی لکلام کی بات کا اصل مقصد ہے۔ اور پھر غزوہ کے معنی ہو گئے ہیں۔ السیر الی لقتال یعنی جنگ کے لئے نکلنا۔ اور مہلح میں غزوہ وہ جنگ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے ہوں۔ اور جس میں آپ خود کفرین نہیں لے گئے اسے سر پہ لکھا جاتا ہے۔ اور مغازی عام ہے جس میں دونوں قسم کی جنگیں شامل ہیں وہ جن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ جن میں آپ نہیں نکلے۔ اور غزوہ دشمن کا ارادہ کرتے ہوئے نکلنا ہے خواہ جنگ ہو یا نہ ہو۔ اور خواہ دشمن کے ملک کی طرف نکلنا ہو یا ایسے مقام کی طرف جس میں دشمن اگر داخل ہو گیا ہو جیسے بدر احد احزاب وغیرہ کے غزویں۔ پہلے عشیہ یا عسیرہ ایک موضع کا نام ہے

ینبوع کی وادی میں۔ اور محمد ابن اسحاق مصنف کتاب المغازی تابعی ہیں جنہوں نے شہدہ ہجری میں وفات پائی۔ ابواء، حنفہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں ہے جو حنفہ سے مدینہ کی جانب ۲۳ میل پر ہے۔ اور بواط قبیلہ حبشہ کا ایک پہاڑ ہے جو ینبوع کے قریب ہے۔ تو

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ ابواء تھا دوسرا بواط اور تیسرا عشیہ اور تینوں غزوات میں جنگ کوئی نہیں ہوئی

ابواء کا غزوہ دوسرے سال ہجرت میں صفر کے مہینے میں ہوا۔ مدینہ آنے سے بارہ ماہ بعد۔ بنی حمرہ بن بکر کے ساتھ صلح کر کے آپ

واپس آ گئے۔ اور اسے وڈان کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں گاؤں قریب قریب ہیں۔ چھ یا آٹھ میل کے فاصلہ پر۔ دوسرا غزوہ

اس سال ربیع الاول میں بواط کا تھا۔ تیسرا عشیہ کا جمادی الاول میں نبی مدینہ کے ساتھ صلح کر کے لوٹ آئے۔ ان تینوں غزوات کی وجہ

کوئی نہیں لکھی لیکن دو باتیں مسلم ہیں ایک یہ کہ ان غزوات میں جنگ کوئی نہیں ہوئی اور دوسری یہ کہ بغیر جنگ کے بعض قویوں

کے ساتھ خمدانے ہو گئے۔ انفالہ یاق کیوں اب جو بعض روایات میں ان غزوات کے متعلق آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنگ نہ ہونے

کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے بالمقابل جنگ کرنے والے دشمن کو نہیں پایا اور آپ کی ساری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ جنگ میں

ابتدا نہ کرتے تھے جب تک کہ دشمن پہل نہ کرے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دشمن کے برابر ادوں کی شہر پہنچتی رہی ہے۔ اور اگر

آپ اپنے ارد گرد کی خبر نہ رکھتے تو قریش انہی قریب قریب کی قوموں کو ساتھ ملا کر آسانی سے مسلمانوں کو تباہ کر سکتے تھے۔ اس

لئے آپ کے ان غزوات کا منشاء صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان قوموں کو یہ لگ جائے کہ مسلمان قریش کے مقابلہ کے لئے

تیار ہیں۔ اور ان غزوات کی وجہ سے چند قوموں نے آپ کے ساتھ معاہدات کر لئے۔ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات

کی تعداد میں قدرے اختلاف ہے۔ یہاں کل غزوات کی تعداد تیس لکھی ہے۔ اور جاہری روایت میں مسلم میں ہے کہ انہوں نے

تیس غزوات میں شمولیت کی۔ اور وہ بدر اور احد میں شامل نہ تھے کیونکہ ان کے بدلنے انہیں اجازت نہ دی تھی۔ اور اہل بیت

غزوات کی تعداد ستائیس لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو سب غزوات کا پورا علم نہ ہو۔ اور یہ بھی کہ بعض نے بعض

غزوات کو بالکل سمجھنے کی وجہ سے قابل ذکر نہیں سمجھا۔

۱۷ مغازی

مغزی کی جمع

اور مغزی اور

غزوہ مصدر ہیں

غزای غزو سے

اور مغزی موضع

غزو یعنی ظوت

مکان بھی ہو سکتا

ہے اور غزوۃ

غزو سے ایک بار

جمع چا اور اسکی جمع

غزوات ہے۔

اور اسم فاعل

غازر غازی ہر

جس کی جمع غزاة

ہے اور غزوی

بھی آتی ہے۔

۱۷

أَوَّلُ قَالَ لِعُسَيْرَةَ أَوِ الْعَشِيرَةَ فَذَكَرْتُ لِقِتَادَةَ فَقَالَ الْعَشِيرَةُ (۲) بَاب

کاشعیرہ یا عشیرہ میں نے قنادہ سے ذکر کیا تو کہا عشیرہ علی

ذِكْرًا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقْتَلْ بِدْرٍ (۵-۳) عَنْ سَعْدِ ابْنِ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کان لوگوں کا ذکر کرتا جو بدر میں مارے جائیں گے

مَعَاذِ (مَتَكُ) (۱۶۲۶) (۳) بَابُ رِقْصَةِ عَزْرَةَ بِدْرٍ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَقَدْ

دیکھو حدیث ۱۶۲۶ علی بَاب غزوہ بدر کا قصہ علی اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ

نَصْرَكُمْ وَاللَّهُ بِدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ إِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ

نے بدر میں تمہاری مدد کی جس وقت تم کو روکھے تو اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم کو گداز نہ ہو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے

أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ بَلَىٰ لَنْ نُصِيبَهُمْ

کہ کیا تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو صحیحہ جانوں والے ہیں وہاں اگر تم صبر کرو

وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُجَاهِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

اور تقویٰ کرو اور وہ اپنے پورے جوش سے تم پر حملہ کریں تو تمہارا رب تمہاری مدد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا

علی یہاں زید بن ارقم نے پہلا غزوہ عشیرہ کو قرار دیا ہے حالانکہ صحیح بخاری کی روایت اور پندرہواں ہے کہ اس سے پہلے بواط اور اس سے بھی پہلے ابوالد کا غزوہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نزدیک علم میں یہ پہلے دو غزوات نہیں آئے علی یہاں یہ روایت قدس سے زیادہ تفصیل

سے آئی ہے یا مخصوص اس کا پچھلا حصہ انہ قال کان صدیقاً لامیة بن خلعت وكان امیة اذ امر بامیة نزل علی امیة فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة انطلق سعد معتمراً فنزل علی امیة بمكة فقال لامیة انظر لی ساعة خلوة لعلی ان اطوت بالبيت فخرج به قریباً من نصف النهار فلقیہما ابو جہل فقال یا ابا صفوان من هذا صوت فقال هذا اسعد فقال له ابو جہل الال انك تطوف بمكة امتناً وقد اودیتم الصباة وزعمتم انکم تنصرونهم وتعدونهم اما والله لو انک مع ابي صفوان ما رجعت الی اهلك سألکما فقال له سعد ورفع صوته علیه اما والله لئن صنعتی هذا الامتدك ما هو اشد علیک منه طریقاً علی المدینة وہاں لفظ میں کا قطع منجھوہ بالتمام۔ تمہاری شام کی تجارت کو کاٹ دوں گا۔ قافلے جو شام کو تجارت کے لئے آتے جاتے تھے مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ سعد بن معاذ بھی اپنی قوم کے سردار تھے فقال له امیة لا ترفع صوتک یا سعد علی ابي المحکم سید اهل الوادی فقال سعد دعنا عنک یا امیة فوالله لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انهم قاتلونک وعنوان باب کا تعلق اس سے ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا کہ فلاں فلاں قریش کے سردار مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ملے جائیں گے سب مسلمانوں کو علم تھا) قال بمكة قال لا ادري ففرع لذلك امیة فزعنا شدیداً اریاں صرف یہ ذکر ہے کہ امیہ اس سے بہت گھبرا یا وہاں رہے کہ اس نے کہا واللہ ما یکذب محمد اذ احداث۔ محمد صلعم جب بات کریں تو جھوٹ نہیں بولتے اس سے استدلال کیا کہ ان کی پیشگوئی بھی سچی نکلتی گی) فلما رجع امیة الی اهلہ قال یا ام صفوان انہ تری ما قال لی سعد قالت وما قال لك قال نعم ان محمد ا الخبر هم انہم قاتلی روہاں ہے کہ امیہ نے جب اپنی بیوی سے یہ ذکر کیا تو اس نے بھی یہی کہا فوالله ما یکذب محمد گو یا مرو اور عورتیں سب جانتے تھے کہ آنحضرت صلعم بھی جھوٹ نہیں بولتے، نقلت له بمكة قال لا ادري فقال امیة واللہ لا اخرج من مکة فلما کان یوم بدر استنفا ابو جہل الناس قال ادکو ابرکم فکرة امیة ان یخرج فاناک ابو جہل فقال یا ابا صفوان انک متی ما یراک الناس قد تخلفت وانت سید اهل الوادی تخلفوا معک فلم یزل یہ ابو جہل حتی قال اما اذ غلبتہی فوالله لا شتر من اجدو بعبیر بمكة (سب سے اچھا تیز روانہ۔ غرض یہ تھی کہ رستے سے یا جنگ سے بھاگ کر نکل آؤں) ثم قال امیة یا ام صفوان جہزیخی فقالت له یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوک الیثری قال لا ما اری ان اجدو معہم الا قریباً قریباً دور تک ساتھ جاؤں گا وہاں ہے کہ ابو جہل نے تو یہی لے لیا تھا فذکر ما اودیومین یعنی عوام الناس کی خاطر ایک دو دن ہمارے ساتھ چلوں فلما خرج امیة اخذ لا یزل منرا الا اعقل بعبیرا رثنی اپنے اونٹ کو اپنے پاس ہی باندھتا تاکہ موقع ملے تو بھاگ جائے، فلم یزل یزل بذلک حتی قتلہ اللہ عزوجل ببدر علی بدر۔ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے نین منسل کے فاصلہ پر ہے۔ اور اسی نام کے ایک کتبوں کے نام پر اس کا نام ہے جس کو اس کی گولائی کی وجہ سے یا اس کی صفائی کی وجہ سے کہ اس میں چاند صاف نظر آتا ہے بدر کہا جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بدر بن حارث کے نام پر ہے جو اس کا مالک تھا۔ اور یہاں سال کے سال ایک تجارتی منڈی لگتی تھی۔ اور میٹھا پانی بافراط ملتا تھا۔ اسی مقام پر قریش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلی جنگ رمضان ۱ سنہ ہجری میں ہوئی +

مُسْرَمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ مِنْهُ وَمَا النَّصْرُ

بجود دشمن کو تباہ کر دیں گے اور اللہ نے اسے صرف تمہارے لئے خوشخبری ٹھہرایا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان

الْأَمِنْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعُ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ

حاصل کریں اور مدد تو اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہی ہوتا تاکہ کافروں کے ایک حصہ کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر کے

فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ وَقَالَ وَحِشْتَى قَتَلَ حَمْرَةَ طَعِيمَةَ بِنَ عَدِيِّ بْنِ خُبَيْرٍ

لو تباہے سو وہ نارا دو اپس جائیں رآل عمران (۱۲۲ تا ۱۲۶) اے اے وحشی نے کہا حضرت حمزہ نے بدر کے دن طعیمہ بن عدی بن خبیر کو

يَوْمَ بَدْرٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدَهُ لِيُطَاقُ الثَّقَاتِينَ أَنْتُمْ أَكْثَرُ الْأَلِيَّةِ

قتل کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا قول اور جب اللہ تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک کو عذاب کرتا تھا کہ وہ تمہارے لئے جو آیت کے اخیر تک

(۴۷۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ قَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عبداللہ بن کعب روایت ہے کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يَقُولُ لَمَّا خَلَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا الْأَنْفَى

کے کسی غزوہ میں بھی جو آپ نے کیا بھیجے نہیں رہا

غَزْوَةَ تَبُوكَ عِذَا كُنِيَ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةٍ بَدْرٌ لَمَّا بَعَثَ أَحَدًا خَلَفَ عَنْهَا

غزوہ تبوک کے البتہ میں غزوہ بدر میں بھی بھیجے رہا

إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِيعِ بْنِ كَعْبٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ

نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے

وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مَبِيعَةٍ (۴) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ

کے دشمنوں میں مقرر کے بغیر مٹھ بھیر کرادی جائے

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ

اللہ تعالیٰ کا فرمانا جب تم اپنے رب سے مدد مانگتے تھے

بدر کے ذکر میں لائے ہیں ۱۔ مصلیٰ یہ تعلق آگے غزوہ احد میں مروی ہے۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ طعیمہ بن عدی بن خبیر صحیح نہیں بلکہ طعیمہ بن عدی

بن نوفل سے ۲۔ مصلیٰ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق ہے۔ یواری آیت کا ترجمہ یوں ہے۔ اور جب اللہ تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک کا

وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے لئے ہے اور تم چاہتے تھے کہ جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ تمہارے لئے ہو اور اللہ ارادہ کرتا تھا کہ اپنی پیشگوئیوں

کے ذریعہ سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ سے نکلے تو انکو دونوں

گروہوں کا علم تھا یعنی ایک قریش کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا اور جو درحقیقت اس وقت مدینہ سے بہت آگے نکل چکا تھا جسے غزوات

الشوکرہ کہا ہے کیونکہ وہ مسلح فوج نہ تھی اور دوسرا قریش کا مسلح لشکر تھا جو بدر میں پہنچ چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

یہ ظاہر فرمادیا تھا کہ ان دونوں میں سے اس گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا جس کے ساتھ مقابلہ سے پیشگوئیاں پوری ہوں اور کافروں

کی جڑ کاٹ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ قافلہ نہیں ہو سکتا تھا بلکہ قریش کا لشکر تھا جو بدر پر پہنچ چکا تھا مگر بعض مسلمان

اتنے بڑے مسلح لشکر کے مقابلہ سے گھبراتے تھے کیونکہ اس لشکر کے مقابل پر ان کی تعداد بھی کچھ نہ تھی اور ہتھیار بھی کافی نہ تھے جیسا

کہ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے وان فریقان المؤمنین لکادھون.... کا ناما یساقون الی الموت۔ مسلمانوں کا ایک گروہ لے

پسند نہ کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ مقابلہ

مسلح لشکر سے ہے ۳۔ مصلیٰ یہ امر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مدینہ سے نکلنے وقت قریش کے قافلہ کا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا

کہ آپ دشمن کے مسلح لشکر کے مقابلہ کے لئے نکل رہے ہیں اور کہے ٹوٹ سے ظاہر ہے یہ صرف کعب بن مالک کا خیال ہے یا کسی راوی کے خیال

کی مداخلت ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کے صریح الفاظ ان فریقان المؤمنین لکادھون اور کا ناما یساقون الی الموت اور پھر یہ قطعہ دابر

الکفارین کا ذکر یہ تمام باتیں اس خیال کی واضح تردید کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے اور یہ گویا

آپ کو علم ہی دا تھا کہ قریش کا مسلح لشکر بدر پر پڑا ہے۔ کعب بن مالک کی مفصل حدیث غزوہ تبوک میں آتی ہے ۴

۱۔ مصلیٰ یہ آیات
بالصراحت غزوہ
احد کے متعلق ہیں
جیسا کہ آیت ۱۲۰
واذ دخلت
من اھلك
صاف ظاہر ہے
اس موقع پر جب
تین ہزار کا لشکر
مسلمانوں پر پڑا
کر آیا تو اللہ تعالیٰ
نے اپنی اس
نصرت کو یاد دلایا
جو بدر کے موقع
پر مسلمانوں کی
کی کہ اس وقت
وہ بہت ہی کمزور
تھے۔ ولقد
نصر کما اللہ ہین
اسی لحاظ سے
امام بخاری نے

الغزوات

۱۲۰

فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ وَمَجَعَلَهُ اللَّهُ آيَةً

سواس نے بخاری دعا قبول کی کہ میں ایک ہزار آنگے چلنے والوں فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور اللہ نے اس کو

بَشِيرِي وَلِتُطْمِئِنَّ بِهَا قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

ایک جو تمہاری بھلائی اور تیرا کہ اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو اور مدد تو صرف اللہ ہی سے ہے بیگناہ بخاری

حَكِيمٌ إِذْ يُخَشِّيكُمُ النُّعَاسَ لَمَّا سَلَّ مِنْهُ مَنَهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ

والا ہے جب اس نے تم پر اپنی طرف سے امن کے طور پر اونگھ وارو کر دی علی اور تم پر بادل سے پانی اتارنا کہ اس کے ساتھ

بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

تو کو پاک کرے اور ترسے شیطان کی ناپاکی کو دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کو قوت دے اور قدموں کو اس کے ساتھ مضبوط کرے

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِفِي فِي قُلُوبِ

جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو جو ایمان لائے ان کو ثابت قدم رکھو میں ان کے دلوں میں جو

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ فَاضِرٍ يُؤْفِقُ الْاَعْنَاقَ وَاضِرٍ يُؤْمِنُهُمْ كُلَّ بَنَاتِ

کا فرہوئے رعب ڈال دوں گا سوگروں کے اوپر مارو اور ان کی پیروں کو کاٹ دو علی

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ شدید سخت

الْعِقَابُ ۚ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ

سزا دینے والا ہے طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود کو کہتے تھے کہ میں نے مقداد بن اسود

مِّنَ الْمُقَدَّادِينَ الْأَسْوَدِ مَشْهُدًا لِأَنَّهُ أَكُونُ صَاحِبَةً أَحْمِلُ لِقَامِ عَدِيٍّ أَوْ لِقَامِ

کی ایک بات دیکھی کہ میں اس کا شہید ہوا ہوتا تو مجھے کہو یہ ان باتوں سے زیادہ پسند ہے جو اس کے برابر بھی جاسکتی ہیں وہ نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَزْعُمُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَأَنْقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت مشرکوں کے فحاشی دیکھ رہے تھے اور عرض کیا کہ ہم اس طرح نہیں کہتے

أَذْهَبْنَا نَتَّ وَرَبِّكَ فَقَاتِلْ أُولَئِكَ فَتَنَاقَلَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَ

جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ (موسیٰ) تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لوگوں کو آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں اور آپ کے سامنے

خَلْقَكَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَرُوا وَجْهَهُ وَسَائِرَ كَيْفَ يَعْنِي قَوْلَهُ

اور آپ کے پیچھے اڑیں گے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمکاٹھا اور آپ مقداد کی بات سے خوش ہوئے

کے دلوں کو اطمینان ہو اور دشمن کی کثرت دیکھ کر مخالفت نہ ہوں اور آگے چل کر فرمایا کہ وہ مومنوں کو ثابت قدم رکھیں اور کفار کے دلوں میں جب ڈال دیں۔ اس آیت میں لوطانی کے ابتدائی مراحل کا یہی ذکر ہے۔ نصرت ملائکہ کا وعدہ اور مینہ کا برسا اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ یہ اونگھ بھی جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے جس نے طبائع میں سکون پیدا کر دیا۔ اس حصہ میں ذکر ہے کہ مینہ کا برسا بھی مسلمانوں کی نصرت کا موجب ہو گیا۔ بدر کے پانی پر کفار ترش ہو پہلے پہنچ چکے تھے قبضہ کر چکے تھے اور دوسرے وہ اونچی جگہ پر تھے اور مسلمان شیب میں تھے اور وہ زمین ریتلی تھی۔ تو بارش سے ایک تو پانی وضو وغیرہ کے لئے مل گیا اور پینے کیلئے بھی اور دوسرے ریتلی زمین پر پانی برسنے سے قدم مضبوط جسنے لگا اور شیطان کی ناپاکی کو دور کرنے سے مراد ان وساوس کو دور کرنا ہے جو شیطان کی طرف سے تھے کیونکہ مسلمان محسوس کرتے تھے کہ ایک تو کفار کا لشکر بڑا پھر مسلح پھر پانی اور اچھی جگہ پر بھی ان کا قبضہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی نصرت کا یہ پہلا نشان اتارا۔ مگر یہ خطاب مسلمانوں کو ہے۔ اس آیت فاذهب انت وریک فقاتلا۔ سورہ مائدہ کی آیت ۴۴ ہے۔ اور سورہ مائدہ کے کسی حصہ کا نزول جنگ بدر سے پہلے ثابت نہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ مقداد نے یہ بات حدیبیہ کے دن آنحضرت صلعم سے کہی تھی اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے یا تو یہ حضرت ابن مسعود کو غلطی تھی کہ انہیں خیال ہو گیا کہ بدر کے دن یہ لفظ مقداد نے کہے ہیں اور یا کسی راوی کی غلطی ہے۔ یہاں اس روایت میں بدر کا لفظ بھی موجود نہیں مگر کتاب التفسیر میں یہ لفظ ہے۔ اس لئے اغلب یہی ہے کہ یہ روئی کی غلطی ہے +

ملے فرشتوں کا نازل ہونا ایک حقیقت تھی۔ ورنہ تین سو آدمی اور ان میں بھی بہت ایسے جو ایمان جنگ میں نہ تھے جیسے تھے پھر ہتھیار کچھ نہیں ایک ہزار اسلحہ جنگ آزمودہ ہماروں پر کیے غالب آسکتے تھے ان کی تعداد ایک ہزار تھی یا اس لئے کہ ہزار عدد کامل ہے اور ۱۰۰۰ مراد بہت سے ہیں یا اس لئے کہ دشمن کی تعداد بھی ایک ہزار کے قریب تھی ان فرشتوں کو مردوں کا ہے جس کے معنی ہیں آگے صدمہ لا اس کی غرض یہاں بتانی کہ مسلمان

۹-۱۸۷۴ عن ابن عباس (متکلم-۱۳۳۳) (۵) باب (۶۷) عن ابن

عباس یقول لا یستوی القاعد من المؤمنین عن بدر و الخارجون

روایت ہے کہتے تھے لا یستوی النساء۔ ۹۷ سے مراد ہے کہ جو مومن بدر کے جنگ میں گھروں میں بیٹھے رہے وہ ان کے برابر نہیں

رالی بدر (۶) باب عدۃ اصحاب بدر (۵-۱۸۷۵) عن ابن عباس (متکلم-۱۷۴۷)

جو پڑیں نکلے۔ باب بدر میں شریک نہ تھے، والوں کی تعداد دیکھو حدیث ۱۷۴۷

۱۷۴۷ عن البراء قال شصغرت انا وابن عمر یوم بدر و کان المهاجرون

براء سے روایت ہے کہ مجھے اور ابن عمر کو بدر کے دن کم عمر سمجھا گیا اور معاہدہ جریں اس ن سادھ

یوم بدر یتفعا علی ستین و الا نصار یتفعا و اربعین و ما تین (۱۷۴۸) عن

براء سے کچھ اور تھے اور انصار و سواہلیں سے کچھ اور تھے۔

البراء یقول حدثنی اصحاب حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد بدر

روایت ہے کہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے بیان کیا جو بدر میں حاضر تھے

انہم كانوا اعدۃ اصحاب طلوت الذین جاؤ اعدۃ النہر یضعة عشر وثلثائۃ

کہ وہ طلوت کے ساتھ والوں کی تعداد کے برابر تھے جو طلوت کے ساتھ نرسے پار ہو گئے تھے (یعنی تین سو دس سے کم لوگ)

قال لبراء لا و اللہ ما جاؤ معہ النہر الا مؤمنین (۱۷۴۹) عن البراء (متکلم)

براء کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم طلوت کے ساتھ نرسے طرف دی پار ہوا جو مومن تھا

۱۷۴۸-۱۷۴۹ (۱۷۴۸) عن البراء (متکلم-۱۷۴۸) (۶) باب دعاء البیضاء اللہ

دیکھو ۱۷۴۸ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

علیہ وسلم علی القارقریش شیبۃ وعلیہ والولین ابی جہل بن ہشام و ہلالہم

قریش کے کافروں شیبہ عقبہ وید ابو جہل بن ہشام پر بددعا کرنا اور ان کا ہلاک ہونا

۱۷۴۷ بعض الفاظ بیان
۱۷۴۸ باقی ذہبی ہیں۔
۱۷۴۹ یوم بدر کی تفریح
۱۷۵۰ میاں روضا دی
۱۷۵۱ ہے۔ قال النبی
۱۷۵۲ صلے اللہ علیہ وسلم
۱۷۵۳ یوم بدر اللهم
۱۷۵۴ اشدک عهدک
۱۷۵۵ وصدقك اللهم
۱۷۵۶ ان شئت لم تعبد
۱۷۵۷ فاختل ابوبکر
۱۷۵۸ پیدا ہوا فقال
۱۷۵۹ حسبک فخرج و
۱۷۶۰ ہو یقول سہتم
۱۷۶۱ الجمع دیولون
۱۷۶۲ الذہب دیکھو نوٹ
۱۷۶۳ اس سے
۱۷۶۴ بھی ثابت ہوتا
۱۷۶۵ ہے کہ بدر کے
۱۷۶۶ جنگ کے لئے
۱۷۶۷ جو لوگ گھروں سے

نکلے وہ مسلح لشکر کے مقابلہ کے لئے نکلے اور جنہیں نکلے وہ مسلح لشکر کے خوف کی وجہ سے ہی نہیں نکلے اگر قافلہ اہل مقصد ہوتا تو اس کے لئے نکلنے والوں کو نہ نکلنے والوں پر ترجیح کس طرح ہو سکتی تھی کیونکہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لئے ایثار کرنیوالے بلکہ مال دنیا سے محبت رکھنے والے پیش پیش ہوتے ہیں اس میں صرف ابتدائی الفاظ ہیں استصغرت انا وابن عمر یعنی میں اور ابن عمر نے ۳۱۹ تھے اور ابن سعد نے ۳۰۵ کہا ہے اور ۳۱۵-۳۱۶-۳۰۶ کی بھی روایات ہیں۔ طلوت کا کل ۳۱۴ تھے۔ اور سلم کی حدیث ابن عباس میں ہے کہ ۳۱۹ تھے اور ابن سعد نے ۳۰۵ کہا ہے اور ۳۱۵-۳۱۶-۳۰۶ کی بھی روایات ہیں۔ طلوت کا ذکر قرآن شریف کے دوسرے پارہ کے آخر پر آتا ہے دیکھو آیت ۲۴ تا ۲۵ ا۔ ۲۵ بائیں میں اسس باوشہ کا نام ساؤل لکھا ہے اور اس کا ذکر اوس میں ۸-۹-۱۰ باب میں ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل متواتر شکستیں کھا کر فلسطین سے مغرب ہو چکے تھے اور ان کے ملک پر بھی دشمن غالب تھا اور اس کے ہزار با آدمی بھی قتل ہو چکے تھے جس کا ذکر قرآن شریف نے ان الفاظ میں کیا ہے وقل اخرجنا من دیارنا وابناؤنا اہل میں اس ذکر سے مقصود بھی مسلمانوں کو بتانا ہی تھا کہ اب ان کا قومی بقا سوائے جنگ کے نہیں۔ اور گو دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن اگر خدا کی مدد و شال ہو تو تھوڑے بھی بہتوں پر غالب آسکتے ہیں۔ اسی موقع پر نرسہ مایا کہ صحت ذمۃ قلیلة غلبت ذمۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ طلوت جب لشکر کے ساتھ نکلے تو انہوں نے ایک خاص موقع پر ایک نمبر پر پہنچ کر اپنے لشکر کا امتحان کرنا چاہا کہ مصافحہ کی برداشت کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں۔ تو انہوں نے اس نرسے پانی پینے سے روکا تو بہت سے یہاں رہ گئے اور تھوڑے جن کا ایمان پختہ تھا وہی ساتھ گئے۔ قرآن شریف میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں۔ مگر لفظ قریش ایک ہی میں صرف آگے پیچھے ہو گئے ہیں حدیثی اصحاب ہمد کی بجائے ہے کنا اصحابی بعد نخل شہ کے اس کے لفظ بھی قریش یا وہی ہیں +

۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰
 ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲
 ۱۹۰۳
 ۱۹۰۴
 ۱۹۰۵
 ۱۹۰۶
 ۱۹۰۷
 ۱۹۰۸
 ۱۹۰۹
 ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱
 ۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰

۱۸۴۸-۱۸۴۹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متکرم - ۱۹۱) (۸) كَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

دیکھو حدیث ۱۹۱

۱۸۴۹-۱۸۵۰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرم - ۲۷۸) (۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیکھو حدیث ۲۷۸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَنْظُرْ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَإِن تَلَّقَ ابْنُ

مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ صَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى بَرَدَ قَالَ لَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَاخَذَ

بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ جِلِّ قَتْلَتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ

يُونُسَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ (۵- ۱۸۸۰) عَنْ أَنَسِ (متکرم - ۲۷۸) (۱) (۲۷۹)

دیکھو حدیث ۲۷۸

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَأَوَّلُ مَنْ يَجِيئُ ابْنَ يَدِي

الرَّحْمَنَ لِلْخَصْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ أَنْزَلْتُ هَذَا

خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا إِنِّي رَأَيْتُهُمْ قَالَ هُمُ الَّذِينَ تَبَارَكُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَزْرَةَ وَرَجُلًا

عَبِيدًا وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةَ بِنْتُ بَيْعَةَ وَعُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُسَيْبَةَ

حزرة ابو علی بر عبید بن جراح اور شیبہ بن ربیعہ اور عبیدہ اور ولید بن عسبہ

وكان يومًا حادًا

یعنی دھوپ کی

وجہ سے انکی لاشیں متعفن ہو گئی تھیں کیونکہ دن گرم تھا۔ وہاں نہیں ملتا میں ذکر سے کہ کس طرح ان لوگوں نے جب نبی صلعم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور طبی کابچہ وان لاکر آپ کی بیٹھ پر رکھ دیا اور خود خوب سنتے اور تمبھے لگاتے رہے بیان تک کہ حضرت فاطمہ نے آگرا سے اٹھایا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور یوں دعا کی اللهم علیک بقریش۔ اللهم علیک بابی جہل وغیرہ۔ دیکھو نوٹ ۱۔ یہ لوگ جن پر آپ نے اس وقت بد دعا کی سب بد میں ہلاک ہوئے۔ غلطیاں لفظیوں میں انہ اتی اباجہل وہ دہق رچھے جان یا تی تھی) یوم بد دعا ابوجہل ہل احمد بن رجل قتلتموه۔ احمد منہ کے معنی کئی طرح پر کئے ہیں ہل زاد علی رجل قتلہ قومہ یعنی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ اور احمد من کذا کے معنی اعجب ہند بھی آتے ہیں یعنی اس سے بڑھ کر کیا تعجب کی بات ہے۔ غلط عقولہ کے دو بیٹے معاذ اور معوذ نام تھے اور عفران ان کی والدہ کا نام ہے۔ اور حدیث ۲۷۵ کتاب ۵ باب ۱۸ میں ابوجہل کے قتل کا قصہ زیادہ تفصیل سے گذرا ہے۔ مگر وہاں ہے کہ ابوجہل کو جن دو نوجوان لڑکوں نے قتل کیا وہ معاذ بن عفران اور معاذ بن عمرو بن الجراح تھے۔ اور ابوجہل کا سامان بھی معاذ بن عمرو کو دیا گیا۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہی ہے کہ ابوجہل کے قاتل معاذ بن عفران اور معاذ بن عمرو تھے۔ ابن مسعود کو ابوجہل مکہ میں بہت ایذا دیا کرتا تھا اس لئے انہوں اس کو بقتول پا کر اس کی ڈاڑھی پکڑی اور کہا کہ تو ہی وہ ابوجہل ہو جس کے لئے بڑے دعوے تھے یعنی اسلام کو مٹانا اور نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ غلط الفاظ ۸۷۸ کے ہیں ۵ سورہ حج کی اس آیت کے الفاظ عام ہیں اور یہ سورت نازل بھی مکہ میں ہوئی اس میں ذکر دو گروہوں کا ہے ایک وہ جو اپنے رب پر ایمان لایا اور اچھے عمل کئے اور دوسرا وہ جو کافر بنا جس نے سدا نال کو مسجد حرام سے روکا۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ دونوں فوجیں یعنی ایک مسلمانوں کی فوج اور ایک کفار کی اس آیت کی مصداق تھیں پھر ان دونوں میں سے سب سے پہلے کفار کے مقابلہ کے لئے یہ تین شخص نکلے یعنی حضرت علی اور حضرت حمزہ اور عبید بن جراح۔ اور انہوں نے کفار کو مقابلہ کے لئے لٹکارا۔ چنانچہ ادھر سے بھی تین آدمی نکلے یعنی شیبہ بن ربیعہ اور عبیدہ اور ولید ابن عتبہ۔ حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا (باقی بر ص ۹۳۹)

(۵-۱۸۸۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متکرر-۱۷۹) (۵-۱۸۸۲) عَنْ عَلِيٍّ شَرِيفِ مَكْرَهٍ

دیکھو حدیث ۱۷۹ ۱۷۹ دیکھو حدیث

(۱۷۹) (۵-۱۸۸۳) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متکرر-۱۷۹) (۵-۱۸۸۴) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۷۹ ۱۷۹ دیکھو حدیث

أَبِي ذَرٍّ (متکرر-۱۷۹) (۱۷۹) (۵-۱۸۸۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۵۹۲) (۵-۱۸۸۶)

دیکھو حدیث ۱۷۹ ۱۷۹ دیکھو حدیث

أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى بَدْرٍ قَالَ بَادِرُ وَظَاهِرُ (۵-۱۸۸۵) عَنْ عَبْدِ

دیکھو حدیث ۱۷۹ ۱۷۹ دیکھو حدیث

الرَّحْمَنِ (متکرر-۱۱۱۶) (۵-۱۸۸۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر-۵۹۲) (۵-۱۸۸۷)

دیکھو حدیث ۱۱۱۶ ۱۷۹ دیکھو حدیث

عَنْ عُرْوَةَ (متکرر-۱۷۵۹) (۱۷۵۹) (۵-۱۸۸۷) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ بِي عَبْدِ الْمَلِكِ

دیکھو حدیث ۱۷۵۹ ۱۷۵۹ دیکھو حدیث

ابْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ

دیکھو حدیث ۱۷۵۹ ۱۷۵۹ دیکھو حدیث

الزُّبَيْرِ قُلْتُمْ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ قُلْتُ فِيهِ فُلَةٌ فَلَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ صَدَقْتُ +

دیکھو حدیث ۱۷۵۹ ۱۷۵۹ دیکھو حدیث

بِهِمْ قَوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكُتَابِ + ثُمَّ رَدَّكَ عَلَى عُرْوَةَ قَالَ هَشَامٌ فَأَقْبَنَاهُ

دیکھو حدیث ۱۷۵۹ ۱۷۵۹ دیکھو حدیث

بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوْ رَدَّتْ أَبِي لَمَنْتُ أَخَذْتَهُ (۱۷۵۲)

دیکھو حدیث ۱۷۵۲ ۱۷۵۲ دیکھو حدیث

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ بَقِصَةٌ قَالَ هَشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَمَّدٌ بَقِصَةٌ

دیکھو حدیث ۱۷۵۲ ۱۷۵۲ دیکھو حدیث

هَشَامٌ أَبِي بَابٍ سَعْدٍ رَوَيْتُ أَنَّ زُبَيْرَ بْنَ عُرْوَةَ كَانَتْ تَلُوهُ لَهَا حِجَابٌ كَمَا كَانَتْ تَلُوهُ

۱۷۸۱ (بقیہ صفحہ ۹۳۸)
اور ولید ماما گیا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور وہ بھی مار گیا۔ اور عبیدہ کا مقابلہ عقبہ سے ہوا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا پھر حضرت علی اور حمزہ نے عقبہ کا کام کر دیا اور عبیدہ داہنی پر انتقال کر گئے۔ جنگ بدر کی ابتدا انہی مقابلہ سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے سرداران قریش کو قتل کر دیا۔ قیامت میں حضرت علی کا خصوصیت کے لئے دوزانو ہونا اسکی حقیقت

تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے لیکن اس دنیا میں بھی مسلمانوں اور کفار کے اس مقابلہ میں حضرت علی اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں ہی فیصلہ ہوا + (صفحہ ۹۳۸) لفظ یہ ہیں۔ قال نزلت هذا ان خصما اختصموا في رهيم في ستة من قریش علی وحمزة وعبدیة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة + لفظ یہاں لفظ یہ ہیں۔ قال علی فینا نزلت هذه الآية هذا ان خصما اختصموا في رهيم + لفظ سمعت ابا ذر یقول ان خصموا في رهيم نزلت في هؤلاء الايات في هؤلاء الروط الستة يوم بدر + لفظ سمعت ابا ذر یقول ان خصموا في رهيم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلة وعبدیة ابن الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والولید بن عتبة + لفظ یہ سوال شاید اس لئے کیا کہ حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی + لفظ یہاں بہت اختصار کیا ہے۔ قال کانت امیة بن خلف فلما کان يوم بدر فذکر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا یخوت ان فیما امیة۔ حضرت بلال اپنے امیہ کے غلام تھے اور اس کے ہاتھ سے سجدہ اذیت اٹھائی۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے امیہ سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا + لفظ تقریباً ۵۹۲ کے ہیں جس شیخ کا یہاں بجائے سجدہ کے ٹی کی مٹھی اٹھا کر پیشانی سے لگانے کا ذکر ہے وہ امیہ تھا + لفظ یہاں پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے اور آخری حصہ ان الفاظ میں ہے۔ قال کان فی الزبیر ثلث ضربات بالسبعین احداهن فی عاتقہ قال ان کنت لا تدخل اصابعی فیہا قال ضروب ثلثین يوم بدر وواحدة یوما البرصوک ۱۷۵۹ میں بھی تین ہی زخموں کا ذکر ہے مگر وہاں یہ ہے کہ دوزخ میں لگے اور ایک ان دونوں کے درمیان برکے ان کا تھا + اور وہاں تینوں کے کندھے پر ہونے کا ذکر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ امیہ تم یروک میں لگا اور دو بدر میں اور ان میں سے ایک کندھے پر تھا + ۱۸۸۸ کا مضمون ۱۷۵۹ کے مطابق ہے۔ یروک اور عاتق اور دمشق کے درمیان ایک وضع ہے وہاں حضرت عمر کی خلافت میں ۵۱ ہجری میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت جنگ تھی جس میں چار ہزار مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں ایک وہ صحابہ شامل تھے جو پیر میں شریک تھے

۱۷۵۲ (بقیہ صفحہ ۹۳۸) ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں سوائے اسکے کہ وہ

۱۷۵۲ یہ نابغہ کے شعر کا ایک مصرعہ۔ پورا شعر یوں ہے۔ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم۔ بہن فلول من قراع الکتاب۔ ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں سوائے اسکے کہ وہ

۱۶۵۹ء کا ہے مگر کچھ تفصیل زیادہ ہے۔ اور آخر یہ ایک واقعہ بڑھایا ہے۔ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للزیار یوم الیوم والیوم الاشد فخش معك فقال انی ان شدت کذبتم زینبی وعد خدای کرو گے اور میرا ساتھ نہیں دے گے فقہاوا لا تفعل فعل علیہم حتی شق صدفہم فجاؤہم ومامہ احد تدرجع مقبلًا فاخذوا بلبامہ فضرہوہ فزینبت علی عاتقہ بینہما فرقہ صوبہا یوم بدی قال عروۃ کنت ادخل اصابعی فی تلك الضربات

(۵-۱۸۸۸) عَنْ عُرْوَةَ (متکثر- ۱۶۵۹) (۵۳) عَنْ ابْنِ طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۶۵۹

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِيَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صِنْدِ دَيْدِ قُرَيْشِ

نے بد کے دن قریش کے چوبیس سرداروں کے ہاتھ میں حکم دیا

فَقَدَرُوا فِي طُورِي مِنْ أَطْوَأِ بَدْرٍ خَبِيثٌ وَكَانَ إِذَا أَظْهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ

تو وہ بد کے گڑھوں میں سے ایک ناموافق پلید گڑھ میں ڈالے گئے

بِالْعُرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمِ الثَّلَاثِ أَمَرَ بِرَأْسِهِ فَسُلِّ

میراں جنگ میں تین راتیں رہتے تو جب بد میں تیسرا دن ہوا

عَلَيْهَا رَحْمَلًا ثُمَّ هَمَّتْهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا مَا تُرَى يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ الْبُضْ

اس پر زین ڈال لیا پھر روانہ ہوئے اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ بھی روانہ ہوئے انہوں نے کہا ہم مرتد ہی کھنڈے

حَاجْتَهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَعَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يَنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ

تھے کہ اپنے کسی کام کے لئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے اور آپ انکو ان کے نام اور ان کے باپوں کے

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَيْسُرُكُمْ وَأَنْتُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

نام لے لے کر پکارتے گئے اے فلان بن فلان اے فلان بن فلان کیا آپ کو چھٹا ہے کہ تم اشرار اور اس رسول کی فرمانبرداری

فَأَقَادَ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَأَيْنَا حَقَّاهُمْ وَجَدْنَاهُمْ فَأَوْعَدْنَا رَجُلًا حَقًّا قَالَ

کرتے ہم نے تو اسے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعد کیا تھا سچ پایا کیا تم نے بھی اسے سچ پایا جو تمہارے رب نے وعد کیا تھا کسا

فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَكَلِمٌ مِنْ أَجْسَادِهِمْ إِلَّا أَرَوَّاحٌ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میں لاشوں سے کیا گفتگو کرتے ہیں جن میں جان نہیں ہے رسول شرمیلی شرمیلی علیہ السلام

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنَا بِأَسْمِعُهُمْ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ

نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم اس کو جو میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ نہیں

قَالَ تَتَادَا أَحْيَاهُمْ اللَّهُ مَحْيَى أَسْمِعُهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا أَوْ تَقِيْمَةً وَ

سنتے قیادہ لے گا اللہ نے ان کو زندہ کر دیا یہاں تک کہ انکو آپ کا فرمانا سنا دیا بسلا توبیخ کرنے اور زنیانے اور

حَسْرَةً وَتَذَكُّرًا ۵۳ (۵۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ بَدَلُوا وَهَذَا لَوْ لَعَنَهُ اللَّهُ كَفَرًا قَالَ هُمْ

انہوں نے لائے اور عزم کر لیجئے ابن عباس سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے بدلوادہ لوگ جنہوں نے ان کی لعنت تو ناسکری

العبد وانصرفت قال عروۃ وكان مع عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عتوش بن فهد على قرون وكل يه رجلا. اس میں حضرت زبیر کی شجاعت کا ذکر ہے۔ کہ جب دشمن بڑھا کر ہاتھ آور حضرت زبیر کیلئے دشمن کے لشکر میں گھس گئے وہاں مع احد آخر یہ زبیر زیادہ کیلئے کہ عمر اللہ نے زبیر بھی جنگی یروک میں حضرت زبیر کے ساتھ تھے ایران کی عمر اس وقت دس سال تھی تو ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک شخص کے سپرد کر دیا تھا۔ مٹل طوی وہ گڑھا ہے جس کے ارد گرد پتھر رکائے گئے ہوں یعنی میں ہے خبیث ای غیر طیب یعنی وہ صاف ستھرا نہیں تھا۔ محبت من قولہم اخبت ای اخیق اصحابا خبیثا یعنی اخبت اس کے متعلق کہا جاتا ہے جس کے ساتھی پلید ہوں۔ پس اس گڑھے کو خبیث اس لئے کہا کہ وہ کوئی متروک ناموافق جگہ تھی۔ اور محبت اس لئے کہ اس کے اندر وہ ناپاک لوگ پڑے جنہوں نے حق کی بیخ کنی پر اپنا سارا زور صرف کر دیا تھا۔ اور ایک قول یہ مذکور ہے کہ یہ گڑھا سنی التاروقیہ میں سے ایک شخص کا تھا۔ بسلا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اس عالم کی باتیں نہیں سنا سکتا چونکہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک بات کو ان تک پہنچا سکتے۔ دوسری توجیہ یہ ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی جس کے لئے دیکھو حدیث ۱۶۵۹ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اب ان کو علم ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ روایت حدیث میں جو عموماً بالعمی ہے اس قسم کی غلطی کا لگ جانا بعید نہیں۔

وَاللَّهُ كَفَرًا فَرِيضًا لِّعَمْرٍو هُمْ فَرِيضٌ وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَةٌ لِلَّهِ وَ أَحْلُوا

سے بدلا (اربابیم ۱۲۸) اللہ کی قسم وہ فریض کے کافر لوگ ہیں اور عمر نے کہا وہ فریض ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں اور انہوں نے

قَوْمَهُمْ دَارًا ابُوا قَالَ لِنَارٍ يَوْمَ بَدْرٍ (۱۷۵۵) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَكَرْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ

اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا اور کہا بدر کے دن آگ میں پہنچا دیا عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر آیا

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِفَقْرِهِ بِبِكَاةِ

کہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی کہ میت پر جب اس کے گھر والے رشتے ہیں تو اس کی وجہ

أَهْلِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِمَحْضِيَّتِهِ مَا

ہے۔ اسکو عذاب پہنچاتا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ اس کو اس کے گناہ اور غلطی کی وجہ

ذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَكُونُونَ عَلَيْهِ لَأَنَّكَ قَالَتْ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

سے عذاب پہنچاتا ہے اور اس کے گھر والے اس وقت روئے ہوئے ہیں علی حضرت عائشہ نے فرمایا یہ دیکھا ہی ہے جیسا بن عمر کا یہ کہنا کہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمَعُ الْقَلْبِي فِيهِ قِتْلَةٌ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اللَّهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پھر کھڑے ہو گئے اور اس میں بدر کے مقتول تھے جو مشرک تھے آپ نے ان کے متعلق فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ

لَيْسَ مَعَهُمْ مَا أَقُولُ إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ

وہ سن لے رہے ہیں جو میں کہتا ہوں آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ اس وقت ملتے ہیں کہ جو میں ان سے کہہ رہا تھا سچ تھا

ثُمَّ قَرَأْتَ أَنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُومٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ فَقَوْلُ حِينَ تَبُوءُوا

پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى رُوْمُوْدُو كُوْنِيْسُنَا سَاكِنَا وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُومٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ رُوْمُوْدُو كُوْنِيْسُنَا

مَقَاعِدُهُمْ مِّنَ النَّارِ (۱۸۸۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکثر - ۱۷۵۵)

سناسکتا جو قبروں میں ہیں) فرمائی تھیں یعنی جگہ وہ دو نرخ میں اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے ہیں صحت دیکھو حدیث ۱۷۵۵

(۹) بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (۱۸۹۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکثر - ۱۲۹۴)

باب ان کی فضیلت جو جنگ بدر میں شریک ہوئے دیکھو حدیث ۱۲۹۴

کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابن عباس نے جو وہیں ٹھہرے تھے اس کی ترویج کی اور کہا کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر یوں فرمایا تھا کہ

میت کو بعض وقت اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو حضرت عمر کی وفات کے بعد میں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے

علیٰ اسی قسم کے
مضمون کی حدیث
جیسا اس حدیث
کے پیچھے حصہ میں
مذکور ہے کتاب
الحیٰ بن ابی اسلم
۳۳ باب ۳۳
میں گزر چکی ہیں
وہاں حدیث
۶۹۲ میں ذکر ہے
کہ حضرت ابن
عمر نے حضرت
عشان کی کسی
صاحبت زادی کے
جاننے پر جب
عورتوں کے
رونے کی آواز
سنی تو کہا کہ ان
کو رونے سے منع
کیوں نہیں کرتے
کہیں وہ کہیں
۱۸۸۹
۱۷۵۵
۱۲۹۴
۱۷۵۵
۱۲۹۴
ان
کے رونے

کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابن عباس نے جو وہیں ٹھہرے تھے اس کی ترویج کی اور کہا کہ حضرت عمر نے ایک موقع پر یوں فرمایا تھا کہ
میت کو بعض وقت اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو حضرت عمر کی وفات کے بعد میں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے
کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا تھا ان اللہ لیزید الکافر عن ابی بکاء اھلہ مگر جو لفظ ہاں حضرت عائشہ
کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ زیادہ محفوظ معلوم ہوتے ہیں اندلیعذاب بخطیبتہ وذنہ وان اھلہ لیبکون علیہ۔ میت کو اپنی خطاؤں اور
اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رشتے ہیں یعنی اس کی خوبیاں گن گن کر یا نوصہ کے طور پر کیوں کہ محض رونا
منع نہیں بلکہ وہ ایک فطری امر ہے اور اسی کے مطابق حدیث ۶۹۲ میں حضرت عائشہ نے ایک یہودی عورت کے متعلق فرمایا۔ انھم لیبکون علیہا
وانھا لنعذاب فی قبرھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ارشاد اسی کے مطابق تھا حضرت ابن عمر کو غلط فہمی ہوئی جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ والکن
السعم یخطفی ج۔ اصل اس دوسرے حصہ حدیث میں بھی حضرت عائشہ نے ایک غلط فہمی کا ذکر کیا ہے یعنی فرماتی ہیں کہ حضرت صلعم نے یوں نہیں فرمایا
تھا کہ وہ ان باتوں کو سنتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بلکہ یوں فرمایا تھا کہ اب انکو معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں نے انہیں کہا تھا وہ حق ہے اگر آپ الفاظ
دن بھی ہوں جو اور ۱۷۵۵ حدیث میں مذکور ہیں تو بھی ان کا مطلب یہی ہے جو حضرت عائشہ نے فرمایا۔ البتہ ان کی تائید میں جو آیات آپ نے پڑھی
ہیں ان میں گو ایک رنگ میں ظاہری مرثیے بھی آجاتے ہوں مگر ان کا اصل مفہوم جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ہے کہ وہ کفار جن کے دل مرچھے ہیں
گو یا کہ وہ قبروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان کو آپ اپنی بات نہیں سناسکتے۔ معنوی یا ب کا تعلق صرف بدر کے مقتولین کے ذکر سے ہے۔ جملہ جملیاں
۱۷۵۵ کا دوسرا حصہ جو مقتولین بدر کے متعلق ہے ان الفاظ میں وہاں ہے۔ عن ابن عمر قال قتبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبی بدرا
فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقا ثم قال انهم الا ان یسمعون ما اقول فذکر لنا نثنتہ ثم فقالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انھم
الا ان لیبعلون ان الذی کنت اقول لهم هو الحق ثم قرأت انک لا تسمع الموتی حتی قرأت الا یہ مکملہ مضمون وہی ہے (باقی بر ص ۱۷۵۵)

بقیہ ص ۹۴۱
کچھ نقلی اختلاف
ہے۔ اصیب
حادثہ یوم بدر
دھو غلام بنات
امہ الی النبی صلی
اللہ علیہ وسلم
فقاتل یا رسول
اللہ قد عرف
منازلت حارثہ بن

(م- ۱۸۹۱) عن عیسیٰ (متکسر- ۱۳۷۴) باب (م- ۱۸۹۲) عن ابی اسید (متکسر- ۱۳۳۷)

دیکھو حدیث ۱۳۷۴ ص ۱۳۳۷

(م- ۱۸۹۳) عن ابی اسید (متکسر- ۱۳۳۷) عن البراء بن

دیکھو حدیث ۱۳۳۷ ص ۱۳۳۷

عازب (متکسر- ۱۳۸۷) (م- ۱۸۹۵) عن ابی موسیٰ (متکسر- ۱۶۲۲)

دیکھو حدیث ۱۳۸۷ ص ۱۶۲۲

(م- ۱۸۹۶) عن عبد الرحمن بن عوف (متکسر- ۱۲۲۵) (م- ۱۸۹۷) عن ابی ہریرۃ (متکسر- ۱۲۸۷)

دیکھو حدیث ۱۲۲۵ ص ۱۲۸۷

دیکھو حدیث ۱۲۸۷ ص ۱۲۸۷

مفی فان یکن فی الجنة اصبر واحتسب (ثواب کی امید رکھیں) وان تک الاخری تری ما صنع فقال وحیک ادهبت رکیا تیری عقل ٹھکانے
نیں) ارجتہ واحدہ ہی انہا جانن اکثرہ رکیا بہت کوئی ایک ہے بہت سے بہت ہیں، واند فی جنة الفردوس (صفحہ ہذا) کما یؤمنون
ایک ہی ہے مگر بعض تفاسیل کا اختلاف ہے قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابابھرشد (روہاں ابو مرثد کی جگہ مقدار کا نام ہے۔
والزبیر وکلثنا فارس برہم گھڑوں پر سوار تھے۔ وہاں یہ نہیں) قال انطلقوا حین تا تو اور وضعتہ فاخر فان بہا امراتہ من المشرکین مصلی کتابک
من حاطب بن ابی بلتعجہ الی المشرکین (روہاں صرف کتاب کہہ ہے) فادرکناھا تسیر علیہا بعبیر لہا (روہاں اس کے اونٹ پر سوار ہوئے تاکہ کر نہیں
حيث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا الکتاب فقاتل ما معنا کتاب فاخذناھا رہم نے اس کا اونٹ بٹھایا، فالتسنا فلم نرکھا بافقلنا
ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (روہاں یہ لفظ نہیں) لتخرجن الکتاب اولجود نک (مجھے نہ نکا کر دیں گے) فلما رات الحد (سختی) اھوت
الی ہجر تھار اپنے آزار بند کی طرف ہاتھ بڑھا یا وہاں عقاص کا ذکر ہے یعنی جوڑے سے نکالا، دھی محبتہ بکساء (چادر کا تہ بندھا ہوا تھا)
فاخرجتہ فانطلقنا بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمومنین فدعی فلا ضرب عنقہ
ری حصہ وہاں چھپے آتا ہے) فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدک علی ما صنعت قال حاطب واللہ ما بی ان لا اکون موثقا باللہ ورسولہ
صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان یكون لی عند القوم ید (ید کے معنی نعمت و رمنت کے ہیں میرا ان پر کوئی احسان نہیں) یدفع اللہ بہا عن اھل
ومالی ولس احد من اصحابک الا لہ ہناک من عشیرتہ من یدفع اللہ بہ عن اھلہ وما لہ ریحہ اختلاف نقلی کے ساتھ آیا ہے مگر مطلب
ایک ہے) فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق ولا تقولوا الہ الا خیر فقال عمر انہ قد خان اللہ ورسولہ والمومنین فدعی فلا ضرب
عنقہ فقال النبی من اھل ید فقال لعل اللہ اطعم الی اھل ید فقال اعملو ما شئتم راس کیلئے دیکھو نوٹ ۱۳۷۴ پر) فقد وجبت
اکبر الجنة اوفقد غفرتہ کہہ فدعت عیدنا عمرو قال اللہ ورسولہ اعلم حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ یہ ذکر وہاں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ
حضرت عمر باوجود اپنی شہرت کے کسی قدر رقیق القلب تھے، چمٹا قریبا وہی لفظ ہیں۔ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اذ انکسر کعب
فارموھم واستبقوا انبیکر (اپنے تیر بچا کر رکھو) اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ باوجود یکہ قریش میدان جنگ میں پیچھے سے موجود تھے
مگر پھپھی فرمایا کہ پیچھے انہیں حمد کرنے دو۔ دوسرے یہ کہ باوجود اس کے کہ کبھی جنگ میں نہ لگتے تھے مگر کس قدر فراس تہ اپنی ان معاملات میں بھی تھی جب
ذمہن ہجوم کر کے آپڑے تو تیر برساؤ اس لئے کہ اس وقت وہ تیر نہیں نشا نہ پر ہی لگے گا۔ تیسرے یہ کہ سامان جنگ کی حفاظت سکھائی اور بتایا
کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ اپنے تیر بچا کر رکھو جو تھے یہ کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت سامان جنگ کی کمی تھی چمٹا اس کے لفظ ۱۸۹۲ کے ہیں
سوائے اس کے کہ انکسوکہ کے معنی بتائے ہیں یعنی کٹروکہ چمٹا لفظ لہی حدیث سے جہاں صرف ایک زمانہ کی فکر لگایاں وہ ہر ایسا ہے جعل النبی
صلی اللہ علیہ وسلم علی الرواۃ یوم احد عبد اللہ بن جبیر فاصابوا مننا سبعین وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اصابوا من المشرکین
یوم بدر اربعین وما قت سبعین اسیرا وسبعین قتیلًا قال ابو سعید یوم بیوم بدر والحرب سمیال آخری فقرہ قال ابو سعیدان وہاں
نہیں۔ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے۔ بد کے دن لشکر قریش میں سے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قیدیئے، اور احد کے دن
مسلمان ستر شہید ہوئے مگر قید ایک بھی نہیں ہوا اس لئے کہ قریش کو فتح حاصل نہ ہوئی تھی وہ صرف مسلمانوں کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر میدان جنگ
سے چلتے بنے۔ ۱۶۲۲ میں آنحضرت مسلم کی دو تین خوابوں کا ذکر ہے جن میں سے آخری یوں ہے ورایت فیہا بقلہ واللہ خیر اور
پھر اس کی تعبیر ہے۔ اس آخری حصہ کو میاں یوں دوہرایا ہے واذ الحاریر فاجاءہ باللہ من الحاریر یوم وثواب الصدق الذی اتانا یوم یوم بدر
ص ۱۶۲۲ کچھ اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔ اپنی نقلی لاصت یوم بدر واذ التفت فاذا عن یدینی عن یداری فقیان حدیثا السن فکانی لم امن
بمکانہما رگویاں ان کے دائیں بائیں ہوئی وجہ سے اس میں نہ تھا یعنی میں ڈرا کہ لڑکے میں بھاگ نہ جائیں، اذ قال لی احدہما رباتی برص ۱۶۲۲

(۱۷۵۶) عَنْ تَائِفِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو ذَكَرَ أَنَّكَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نَعِيلٍ وَ

تائف سے روایت ہے کہ ابن عمر نے ان سے ذکر کیا کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل

كَانَ بَدِيًّا مَرِيضًا فِي يَوْمٍ جَمَعَتْهُ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَلَاكَ فِي النَّهَارِ وَأَقْرَبَتْ الْجَمْعَةَ وَتَرَكَ

جو بدی رہتے تھے جمعہ کے دن بیمار ہوئے تو ابن عمر ان کے پاس سواری ہو کر گئے اس کے بعد کہ دن بہت چڑھ چکا تھا اور جمعہ کا

الْجَمْعَةَ (۱۷۵۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ

وقت قریب آچکا تھا اور انہوں نے جمعہ چھوڑ دیا علیٰ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن عبداللہ

الزُّهْرِيُّ يَا مَرْءَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ سَبِيْعَةَ بِنْتَ الْحَرْثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا

کو کہھا اس کو حکم دیا کہ سبیوعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جا کر اس سے اس کی حدیث کے بارے میں دریافت کرے

عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

اور یہ کہ جب اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے کہا

اسْتَفْتَيْتَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِخَبْرِهِ

فرمایا تھا تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عمر سے لکھا کہ

أَنَّ سَبِيْعَةَ بِنْتَ الْحَرْثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ

کہ سبیوعہ بنت حارث نے مجھے خبر دی کہ میں سعد بن خولہ کی بیوی تھی اور وہ سعد بن

بَنِي عَامِرٍ مِنْ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ أَفْتَوَنِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوُدَّاءِ وَهُوَ حَالِدٌ

عامر بن لوی میں سے تھے اور ان میں سے تھے جو بدر میں موجود تھے وہ حجۃ الوداع میں گئے اور وہ حاملہ تھی

فَلَمْ تَكْشِبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ ذَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا جَمَلَتْ لِحَطَابٍ

تو ایسی حالت کے بعد زیادہ مدت نہیں گذری تھی کہ لنگے ہاں بچہ پیدا ہوا کی طرح وہ نفا سے پاک ہوئی تو اس نے بیہوش نکاح چھینے کا

ان دونوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ذکر ہے کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے اور نہایت ہی خفیف لفظی اختلاف سے دوہرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کو دشمن کی خبر لانے کیلئے بھیجا تھا جن کے امیر عاصم بن ثابت انصاری تھے۔ اصطلاحاً ایسے واقعات کو بھی غزوات میں گن لیا گیا ہے۔ ابتدا میں جہاں اصل حدیث میں بنی لیحان کے دو سو آدمیوں کے ان دس پر حملہ آور ہونے کا ذکر ہے مگر حدیث میں ایک سو کا ذکر ہے اور درمیان میں جہاں نجیب کی بددعا کا ذکر ہے اصل حدیث کے الفاظ واضحہم عدد کے ساتھ بڑھایا ہے واقعات ہم بدل دادا ولاقین منہم احد۔ انہیں ایک ایک کر کے مار ڈال اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ اس حدیث کے آخر پر ایک جملہ بڑھایا ہے جس کا تعلق نہ اصل واقعے سے ہے اور نہ ہی وہ حدیث میں ہے۔ وقال کعب بن مالک ذاک امرارة ابن الربیع العمری دہلال ابن امیة الواقفی رجلین صالحین قد شہدا بیدرا یعنی کعب بن مالک نے کہا ہے کہ مرارہ اور بلال دونیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے اور کعب بن مالک کی وہ بی بی حدیث جس کا یہ ایک جملہ ہے غزوہ تبوک میں آئی ہے جو نکاح میں بدر کا ذکر ہے اس نے اس کا بیان بھی ذکر کر دیا ہے۔ (صفحہ ۱۷۵۶) سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور گو وہ جنگ بدر میں شریک تھے مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی دستے میں دشمن کی خبر لانے کیلئے بھیجا تھا۔ اور ایسے ان کو غنیمت میں سے برابر کا حصہ دیا گیا جو جمعہ کے دن وہ حیار تھے یا انکی بخاری کی خبر حضرت عبداللہ بن عمر کو جمعہ کے دن پہنچی تو آپ انکی عبادت کیلئے تشریف لیئے اور جمعہ نہ بڑھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اشد ضرورت کے لئے اگر جمعہ ترک کرنا پڑے تو کیا جاسکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسے بعض نے اسے پیچسپن کا کہا اور بعض اس سے کہہ کے ملاحظہ قرآن شریف میں بیوہ کی عدت چار ماہ اور دس دن مذکور ہے اور حاملہ عورت کی وضع محل مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ چار ماہ دس دن بیوہ کی عدت اس صورت میں صحت ہے حاملہ نہ ہو اسلئے بچہ جنمے کے بعد سبوعہ نے اپنے آپ کو نکاح کیلئے آزاد سمجھا اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور اصل میں تو عدت کی بڑی اغراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر عورت کو حمل ہو تو وہ ظاہر ہو جائے پس وضع محل کے بعد نکاح میں کوئی اور مانع نہ ہونا چاہئے اکثر صحابہ اور فقہار کا یہی فتویٰ ہے کہ وضع محل کے فوراً بعد عورت نکاح کر سکتی ہے اور ارفاق میں صرف تقاربت کیلئے مانع ہے نہ نکاح کیلئے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کا طلب نکاح کیلئے بناؤ سنگار کرنا جائز ہے یہاں لفظ یہ میں جمعلت الخطاب بیہوش نکاح نشینہ والوں کیلئے اس نے بناؤ سنگار کیا۔ ان کی خاطر بناؤ سنگار کرنے کے معنی سوائے اسکے کچھ نہیں ہو سکتے کہ جو لوگ خواہاں نکاح تھے وہ اسے اس حالت میں دیکھتے بھی تھے پس نکاح کی نیت سے کسی عورت کو بناؤ سنگار کی حالت میں مرد کا دیکھنا یا عورت کا اس غرض کیلئے اپنے آپ کو دکھانا ممنوع نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سورہ طلاق کے نزول کے بعد کا ہے جس میں اولاد للاحمال کی عدت مذکور ہے اور یہ

۱۷۵۶ (بقیہ صفحہ ۹۳۳) ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰

۴ سورہ طلاق چھٹے سال ہجرت کی ہے اور پروردگار کے احکام اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے یہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ ابوالبل بن بنگال جو سبیوعہ کے طلب نکاح

فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَرٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي

اس کے پاس ابوسنابل بن بکاک آیا جو بنی عبدالدار میں سے ایک غطفانی تھا اس نے بیوی سے کہا کیا بات ہے میں

أَرَأَيْكَ تَجَلَّتْ لِحْطَابُ تَرْحِيْنِ الزَّكَاةِ فَأَرَأَيْكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِرَجُلٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ

تیریں دیکھتا ہوں کہ تم نے بیغام نکاح پیچھے والوں کیسے بناؤ سنگار کیا ہے یا تم نکاح کرنا چاہتی ہو اس کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتیں جب

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَالَتْ سَبِيْعَةٌ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيْكَ ثِيَابِي حَيْثُ

تکتم چار ماہ اور دس دن گذر جائیں بیوی نے کہا جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو جب شام ہوئی تو میں نے اپنے کپڑے پہنے

أَمْسَيْتُ وَأَنْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْتَانِي بِأَنْتِي

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ سے اس بارہ میں پوچھا آپ نے مجھے فتویٰ دیا

قَدْ حَلَلْتُ حَيْثُ وَضَعْتُ مَخْدِي وَأَمْرِي بِالزَّوْجِ إِنْ بَدَأَ لِي (۵۵) عَنْ مُحَمَّدِ

کہ جب میں جن چکی تو مجھے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر تمہیں خواہش ہو تو نکاح کرو محمد بن یاسر

ابن رِيَاكِسِ بْنِ الْبَكْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِيدًا بِدَرَارِإِ، بَابُ شَهَادَةِ الْمَلِكِ بَدْرًا

سے روایت ہے اور ان کے باپ بدر میں موجود تھے باب ملائکہ کا بدر میں موجود ہونا

(۵۵) عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ

معاذ بن رفاعہ بن رافع زرقی سے روایت ہے اور ان کے والد رفاعہ اہل بدر میں سے

أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا

تھے کہا جبریل بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہا آپ اہل بدر

تَعْلَمُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فَبَدْرٌ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةٌ تَحْوِيهَا قَالَ وَ

کو اپنے اندر کیا سمجھتے ہیں فرمایا سب مسلمانوں سے افضل یا ایسی ہی کوئی بات کہی جبریل نے کہا

كَذَلِكَ مِنْ شَهَادَةِ بَدْرٍ مِنَ الْمَلَكَةِ (۵۶-۱۸۹۸) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ (متكرر- ۱۵۸)

اسی طرح وہ ملائکہ ہیں جو بدر میں موجود تھے ملائکہ ویکھو حدیث ۱۵۸، ۱۵۹

(۵۶-۱۸۹۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ (متكرر- ۱۵۸) (۱۵۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ

دیکھو حدیث ۱۵۸، ۱۵۹ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جَبْرِيلُ إِخْذْ بَدْرًا مِنْ فَرَسِهِ عَلَيْكَ أَدَاةَ الْحَرْبِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور اطرافی کے ہتھیار لگائے ہوئے ملائکہ

علا اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کے بھی مراتب ہیں خطے میاں لفظ یوں ہیں دکان رفاعہ من اهل البدر وکان رافع من اهل العقبة فكان يقول لابنه ما یسوی انی شہد بدرا لعقبة قال سال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الرفع نے جو بیعت عقبہ میں شامل تھے اسی بیعت کو سب کا سایہ یوں کا مدد ٹھہرا یا اور اس لئے کہا کہ اس کے عوض میں وہ بدر میں شامل ہونا بھی پسند کرے گا اس میں خود بدر کی شمولیت کی عظمت پر بھی دل ہے

ملائکہ یہاں دوسرے طریق سے اسی پہلی حدیث کا حوالہ دیا ہے اور حدیث بیان نہیں کی لفظ یوں ہیں عن معاذ بن رفاعہ یہ تابعی تھے ان حد کا سال النبی صلعم اور یہ دوسری روایت ہے وعن یحییٰ ان یزید بن الہاد اخبارہ ان کان معہ یوم حد ثم معاذ ہذا الحدیث فقال یزید فقال معاذ ان السائل هو جبریل علیہ السلام + ملائکہ یہ روایت مرسل ہے ابن عباس صحیح داس انقہ کے وقت موجود نہ تھے اور یہ کشفی نظارہ ہے۔ فتح الباری میں ابن اسحاق کی روایت ہے ان النبی صلعم فی یوم بدر خفق خفقة ثم انتدب فقال ابشیر یا ابابکر اتانک نصر اللہ ہذا جبریل اخذ بعنان فرسہ یقولہ یعنی آنحضرت صلعم کو بدر کے دن تھوڑی سی اونگھ آئی پھر آپ بیدار ہوئے اور کہا لے ابوبکر فوش ہو جاؤ اشکی نصرت تمہارے لئے آگئی یہ جبریل ہیں اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے اسے لیا ہے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سی اونگھ آنے پر یہ نظارہ آپ کو دکھایا گیا۔ اور اسی میں تمہ کے طور پر دوسری روایت بیان کی ہے۔ ان جبریل اقی النبی صلعم بعد ما فرغ من بدر علی فرس حمراء اور اس کے آخر پر ہے وقال یا محمد ان اللہ بعثنی الیک وامرنی ان لا افرق حتی ترضی افرضت قال نعم یعنی جبریل نبی صلعم کے بدر سے فارغ ہونے کے بعد سرخ گھوڑے پر آئے اور کہا اے محمد صلعم اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ سے الگ نہ ہوں میاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں تو کیا آپ راضی ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ اور یہی کی روایت جبرین مطعم سے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو سنا فرماتے تھے کہ بدر کے دن سخت ہوا چلی اور پھر سخت ہوا چلی اور یہ جبریل کی آمد اور میکائیل کی آمد (باقی برہم ۹۴۷)

۱۲۰) بَابُ رِجَالِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَكَانَ يَأْتُرُكَ عَقِبًا وَكَانَ

باب ۱۲۰ انس سے روایت ہے کہ ابو زید فرقت ہوئے اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور وہ

بَدْرِيَّارًا ۱۲۱) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَكَانَ يَأْتُرُكَ عَقِبًا وَكَانَ

بدری تھے ابن خطاب سے روایت ہے کہ ابو سعید بن مالک بن خدری سفر سے

مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ حُمَامًا مِنْ حَوْضِ الْأَضْحَى فَقَالَ مَا أَنَا بِرَجُلٍ

آئے تو ان کی بیوی نے قربانی کے گوشت میں سے گوشت لیکر ان کے سامنے رکھا انہوں نے کہا میں اسے نہیں کھاؤں گا

حَتَّى أَسْأَلَ فَأَنْطَلِقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمَّةٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَتَادَةَ بْنِ لُحَيْعٍ

میں تک کہ پوچھ لوں وہ اپنے ماں کی طرف سے بھائی قنادہ بن لحيان کے پاس گئے اور وہ بدری تھے

فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّكَ حَدَّثْتَ بَعْدَكَ أَمْرًا تَقْضِي لِمَا كَانُوا يَتَهَوَّنُونَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ

اور ان سے پوچھا انہوں نے کہا تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا جس سے وہ بات ٹوٹ گئی کہ قربانی کا گوشت

حَوْضِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۱۲۲) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَكَانَ يَأْتُرُكَ

تین دن کے بعد کھانے سے روکا جاتا تھا عروہ سے روایت ہے کہ زبیر نے کہا کہ بدر کے دن

عَبِيدَةَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ هُوَ مَوْلَى جَبْرِ الْأَيْمَرِيِّ مِنْ الْأَعْيُنَاءِ وَهُوَ يَكْنَى أَبُو ذَاتِ الْاَكْرِشِ

عبیدہ بن سعید بن العاص جنگ میں میرے سامنے آیا اور وہ ہتھیاروں میں غرق تھا سولے اس کی دو آنکھوں کے کچھ

فَقَالَ نَابُذَاتِ الْاَكْرِشِ فَمَاتَ عَلَيْهِ بِالْعَتَرَةِ فَطَعَنَتْهُ فِي عَيْنَيْهِ فَمَاتَ قَالَ هَسَامٌ

دکھائی نہیں بتا تھا اور اسکی کنیت ابو ذات الکرش تھی تو اس نے کہا میں ابو ذات الکرش ہوں میں نے اس پر بھی سے مل گیا اور رکھی کہ

فَأَخْبَرْتُ أَنَّ الرَّبِيزَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُمْ شَرَّ رَجُلٍ عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّطَ فَكَانَ يَجِدُ

اسکی آنکھ پر اتار وہ مر گیا ہشام کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ زبیر نے کہا کہ میں نے پایا پاؤں اس پر رکھا پھر جھک کر پہنچے ہاتھ میں گئے اور بڑی

أَنْ تَزَعْتَهَا وَقَدْ ائْتَيْتَنِي طَرَفًا هَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

مشقت سے رہی کو نکالا اور اس کے دونوں کندھے بڑھے ہوئے تھے عروہ کہتے ہیں وہ برجھی حضرت زبیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا ثُمَّ

وسلم نے مانگی زبیر نے آپ کو دیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے تو زبیر نے اسے لے لیا پھر

طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قَبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَ لَهَا يَا عُمَرُ وَأَعْطَاهَا أَيُّهَا

اسے حضرت ابو بکر نے مانگا تو ان کو دے دی جب حضرت ابو بکر وفات پاگئے تو حضرت عمر نے اسے زبیر سے مانگا تو زبیر نے دے دیا نہیں

فَلَمَّا قَبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهَا أَيُّهَا فَلَمَّا قَبِلَ

دیدی جب حضرت عمر وفات پاگئے تو زبیر نے لے لیا پھر حضرت عثمان نے مانگی تو زبیر نے وہ حضرت عثمان کو دیدی جب حضرت عثمان

عُمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيزِ فَمَا كُنْتَ عِنْدَهُ

نے وفات پائی تو برجھی حضرت علی راوان کی اولاد کے پاس ہی پھر عبداللہ بن زبیر نے اسے مانگا سو وہ ان کے پاس رہی پھر

حَتَّى قَتَلَ (۱۹۰۰) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ (متكسر - ۱۹۰۰)

کہ وہ قتل کئے گئے ۱۹۰۰ دیکھو حدیث ۱۹۰۰

(رقبہ ص ۱۹۰) اور اسرا میں کی آرتھی گویا ان کا آنا آنحضرت کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ ملائکہ نے زبیر میں جنگ کی اور تم کسی کو میدان میں اور ان کے آنے کی غرض ہی ہے جو صاف طور پر قرآن شریف میں مذکور ہے وما جعلنا لہ آية بشیء ولا لنظمنہ بشیء ولا لیکر اور پھر فرمایا۔ اذ یوحی ربنا الی لعلنا نذکر الی اللہ یعنی میں تمہوں کے ساتھ ہوں۔ فذلما الذی یزینہا دس قسم ہوں ان کو ثابت قدم رکھو کسی وابت میں یہ ذکر نہیں کہ ملائکہ کسی نے جنگ کرنے دیکھا اور تفسیر کر سب اور روح المعانی نے اسی خیال کو ترجیح دی جو کہ ملائکہ نرسٹ کیسے آئے تھے ۱۹۰۰ جنگ کرنے کیلئے نہیں اور جہاں

اعد میں ملائکہ آنا بھی مسلم سے اور جنگ کرنا بھی مسلم ہے تو جب انکے ایک جنگ میں آنے کی غرض جنگ کرنا نہیں تو دوسرے جنگ میں انکی غرض نہیں ہوتی جن لوگوں نے ملائکہ کو دیکھا وہ بھی ایک شیئی نظارہ تھا (اصغر بن ہاشم) یہاں حدیث لاسے کی غرض تو صرف قنادہ بن لحيان کو بدری دکھانا ہی نہیں بلکہ یہ بھی مانگنا کہ پہلے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا جاتا تھا مگر جیسے یہ بات نہ رہی یعنی قربانی کا گوشت جس تک آدمی چاہے رکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسلئے برجھی گویا جنگ بدر کی یادگاہ کے طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے پاس ہی یہ بات تک کہ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آگئی۔

۱۴۳۳) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ

وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا وَانْكَرَتْ

بِنْتُ أَخِيهِ هُنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَهُوَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ

كَمَا نَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْبًا وَكَانَ مِنْ تَبَنَى رَجُلًا فِي الْحَابِلِيَّةِ

فَجَاءَتْ سَهْلَةَ الْبَيْتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (۱۴۳۴) عَنِ الرَّبِيعِ

بِنْتُ مَعُوذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْرًا فِي يَدَيْهِ

فَجَلَسَ عَلَيَّ فَرَأَيْتُهُ يَجْلِسُ عَلَيَّ وَيُجِيرُ بِنْتُ الْأَنْصَارِ بِأَلَدٍ يَنْدُبُ مِنْ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَبِي هَذَا أَوْ تَقْرَبِي مَا كُنْتَ تَقْرَبِينَ (۱۹۰۱)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۵۹) (۱۹۰۲) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا - ۱۰۴۲)

علا سلا بوضیف کی

زومر شینہ کے غلام تھے

توشینہ نے انہیں آزاد

کر لیا اور ابو حذیفہ

نے انہیں متبنی بنا

لیا اور اپنے بھائی

کی بیٹی سے ان

کا نکاح کر دیا۔

فضائل الصحابہ

باب مناقب سالم

یہ ان کی زوجہ

کے مولیٰ تھے۔

جیسا کہ اوپر ذکر

ہوا۔ تو یہ نسبت

ادنیٰ ملے نسبت

کے لحاظ سے

ہے۔

علا سلا بھی ابو

حذیفہ کی بیٹی اور

بیوی تھیں جو

ان کے ساتھ ہجرت

کر کے آئی تھیں

سہلنے جو چچ

نبی صلعم سے ذکر کیا اس کو یہاں بخاری نے بیان نہیں کیا۔ ابو داؤد میں یہ حدیث یوں مذکور ہے کہ سہلہ آنحضرت صلعم کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول

اللہ تم تو سالم کو بیٹے کی طرح سمجھتے تھے یعنی بیٹوں کی طرح ہی وہ گھر میں آتا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی متبنی کے بارے

میں جو اتارا ہے اسے آپ جانتے ہیں یعنی ادعوہم لا بائناہم تو آپ نے فرمایا کہ ایسے اپنا دو دو ہلا دو۔ یہ اس لئے فرمایا کہ وہ اسے بالکل اپنے بیٹے

حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ نے جو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھے

سالم کو متبنی بنا لیا تھا اور اپنے

ولید بن عبیدہ سے اس کا نکاح کر لیا تھا اور وہ یعنی سالم ایک انصاری عورت کا غلام

تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو متبنی بنا لیا تھا اور جاہلیت میں جو کوئی کسی شخص کو متبنی بنا لیتا

تو لوگ اسے ہی کی طرف منسوب کرتے اور وہ اس کے ترکہ کا وارث ہوتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا انکو اپنے باپوں کی طرف

منسوب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں پھر حدیث کو بیان کیا

معوذ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کے دن

میرے ہاتھ پر بیٹھ گئے جیسے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اس دن بحسب ربی تھیں

کے بزرگ بارے گئے تھے ان کی تقریبیں کر رہی تھیں یہاں تک کہ ایک لڑکی نے کہا کہ ہم میں نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے

اور جو کچھ تو کہہ رہی تھی وہی کہہ لے

ایسا مت کہ

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

دیکھو حدیث ۱۲۵۹

دیکھو حدیث ۱۰۴۲

(۱۷۵) عَنْ ابْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْمِلَ بْنِ حَنْفِيَةَ فَقَالَ لَنْ شَهِدَ بَدْرًا
 ابن معقل سے روایت ہے کہ حضرت علی نے سہمیل بن حنفیہ کے جنازہ پر تیسریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر میں شریک تھے۔

(۱۷۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ
 عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب وقت حصفہ بنت عمر بن خطاب کی ہو گیا تھی خنیس ابن حذافہ سی

بَدَتْ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حُدَّافَةَ الشَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 حذافہ بن حنیس بن حذافہ الشہمی سے روایت ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حصفہ بنت عمر کے ساتھ بیٹے سے تھے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ
 اور بدر میں شریک تھے مدینہ میں فوت ہو گئے حضرت عمر نے کہا میں حضرت عثمان بن

فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَتُكِّمُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ
 عفان سے ملا اور ان سے حصفہ کا ذکر کیا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حصفہ بنت عمر کا نکاح آپ کے دونوں انہوں نے کہا میں معاملہ میں یہ

فِي أَمْرِي فَلَيْتَ لِي بَالِي فَقَالَ قَدْ بَدَّلَكَ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ
 غور کروں گا پھر میں چند باتیں پھیرا یا تو انہوں نے کہا مجھے یہی مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نکاح نہ کروں حضرت عمر کہتے ہیں

فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَتُكِّمُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمْتُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرِحْ
 تو میں حضرت ابو بکر سے ملا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حصفہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کروں میں تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور

رَأَيْتُ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْ جَدُّ مِثِّي عَلَى عُمَانَ فَلَيْتَ لِي بَالِي ثُمَّ خَصَّهَا رَسُولُ
 مجھ کو کچھ جواب نہیں دیا تو ان پر مجھے حضرت عثمان سے زیادہ غصہ آیا پھر میں چند باتیں پھیرا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهَا يَا كَاهُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتِ
 نے حصفہ سے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے آنحضرتؐ سے اس کا نکاح کر دیا پھر حضرت ابو بکرؓ مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ مجھ پر ناراض

عَلَيْ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرِجِعْ رَأْيِيكَ قُلْتُ لَعَمْرُكَ قَالَ فَإِنَّكَ لَمْ كَيْتَ عَرَضْتَ
 ہوئے ہوں گے جب آپ نے حصفہ کو میرے سامنے پیش کیا اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا بیشک حضرت ابو بکر نے فرمایا

أَنْ أَرِجِعْ رَأْيِيكَ فِيمَا عَرَضْتَ لِي لَأَنْتِي قَدْ حَكَمْتِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 آپ نے جو بات پیش کی میں نے آپ کو اس کا جواب صرف اسے نہیں دیا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصفہ کا ذکر کیا

قَدْ كَرِهَا فَلَمْ أَكُنْ لَأَنْتِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلِمَاتُهَا لَقَبْتَهَا
 اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا اگر آپ نے حصفہ کا نکاح کا ارادہ نہ کر لیتے تو میں ان سے نکاح

ابن معقل سے روایت ہے کہ حضرت علی نے سہمیل بن حنفیہ کے جنازہ پر تیسریں کہیں اور کہا کہ وہ بدر میں شریک تھے۔

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب وقت حصفہ بنت عمر بن خطاب کی ہو گیا تھی خنیس ابن حذافہ سی

حذافہ بن حنیس بن حذافہ الشہمی سے روایت ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حصفہ بنت عمر کے ساتھ بیٹے سے تھے

اور بدر میں شریک تھے مدینہ میں فوت ہو گئے حضرت عمر نے کہا میں حضرت عثمان بن

عفان سے ملا اور ان سے حصفہ کا ذکر کیا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حصفہ بنت عمر کا نکاح آپ کے دونوں انہوں نے کہا میں معاملہ میں یہ

غور کروں گا پھر میں چند باتیں پھیرا یا تو انہوں نے کہا مجھے یہی مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نکاح نہ کروں حضرت عمر کہتے ہیں

تو میں حضرت ابو بکر سے ملا اور کہا اگر آپ چاہیں تو حصفہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کروں میں تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور

مجھ کو کچھ جواب نہیں دیا تو ان پر مجھے حضرت عثمان سے زیادہ غصہ آیا پھر میں چند باتیں پھیرا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حصفہ سے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے آنحضرتؐ سے اس کا نکاح کر دیا پھر حضرت ابو بکرؓ مجھ سے ملے اور کہا شاید آپ مجھ پر ناراض

ہوئے ہوں گے جب آپ نے حصفہ کو میرے سامنے پیش کیا اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا بیشک حضرت ابو بکر نے فرمایا

آپ نے جو بات پیش کی میں نے آپ کو اس کا جواب صرف اسے نہیں دیا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصفہ کا ذکر کیا

اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا اگر آپ نے حصفہ کا نکاح کا ارادہ نہ کر لیتے تو میں ان سے نکاح

قریب جوان اور شیعوں کی طرف اظہار فوج حمزہ الی السیف فاجب اسمتہما وبقروا خواصہما واخذ من اکبادہما قال علی فانطلقت حنفیة
 ادخل علی ابنہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ زید بن حارثہ وعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیته فقال مالک قلت یا رسول اللہ
 ما رأیت کالیوم راج کاسا دن میں نے نہیں دیکھا یعنی ایسی مصیبت نہیں دیکھی علی حمزہ علی ناقصی فاجب اسمتہما وبقروا خواصہما کوھاھو
 ذاتی بیت معہ شہر فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردا لہ فارتدی ثم انطلق یمشی وابتعہ انا وزید بن حارثہ حتی جاء
 البیت الذی فیہ حمزہ فاستاذن علیہ فاذن لہ فطعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ حمزہ فبما فعل فاذا حمزہ مثل رپرست۔ سکران
 حمزہ عینا فظفر حمزہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم صعد النظر فنظر الی ركبته ثم صعد النظر فظفر الی وجهہ ثم قال حمزہ
 وهل انتم الا عبیداء لابی فعرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مثل فنکص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عقبیہ القہقری
 فخرج وخرجنا معہ (صفحہ ۹۴۸) حنفیہ بنت عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حصفہ بنت عمر کے ساتھ بیٹے سے تھے
 اس جنازہ پر پانچ یا چھ تیسریں کہیں مگر جماع چار تیسریوں پر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں مردوں کی کئی تھی اور عورتوں
 زیادہ تعداد میں بیوہ رہ گئی تھیں۔ کیونکہ جنگوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔

<p>(م-۱۹۰۳) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (متكر- ۳۶۹)، (م- ۱۹۰۴) عَنْ عَدُوِّ بْنِ</p>	<p>۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰</p>
<p>دیکھو حدیث ۲۹۶</p>	<p>میں یہ لفظ ہے</p>
<p>(متكر- ۳۵۱) (۳۶۶) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ</p>	<p>عَلَيْهِ سَلَامٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ</p>
<p>دیکھو حدیث ۳۵۱ ابوسعود بدری سے روایت ہے</p>	<p>عزیزانِ باب سے</p>
<p>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَاتَانِ مِنَ الْخُرُسُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي كَلِمَةٍ</p>	<p>تعلق یہ ہے کہ</p>
<p>نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو بھی ان کورات کو پڑھے جسے یعنی</p>	<p>اس کے راوی ابوسعود بدری ہیں یعنی جنگ بدر میں شریک تھے</p>
<p>كَفَّتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيَتْ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلَتْهُ</p>	<p>میں یہاں حدیث کو اختصار سے</p>
<p>پوچھا کہ یہ حدیث مجھ سے بیان کی</p>	<p>بیان کیا ہے مگر میں پہلے حصہ میں یہ وضاحت کی ہے کہ ابوسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری شریک ہوئے تھے۔ عید ثانیہ</p>
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍّ</p>	<p>عمرو بن عبد العزیز بن ماریہ</p>
<p>اور وہ بنی عدی کے سب لوگوں میں بڑے تھے</p>	<p>عبد اللہ بن عامر بن ربیع سے روایت ہے</p>
<p>وَكَانَ أَبُوهُ شَهِيدًا بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْلَمَ</p>	<p>دوران کے باپ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے</p>
<p>کہ حضرت عمر نے قدام بن مظعون کو جس میں کا حکم بنایا</p>	<p>اور وہ بھی بدر میں شریک تھے</p>
<p>عَنْ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (م- ۱۹۰۶) عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكر- ۱۱۳)</p>	<p>اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم کے ماموں تھے</p>
<p>دیکھو حدیث ۱۱۳</p>	<p>اور وہ بھی بدر میں شریک تھے</p>

رعمر بن عبد العزیز کی حکومت کا ذکر کرتے تھے) اخر المغیرة بن شعبه العصر وهو امير انكوفة فدخل ابي مسعود وعقبه بن عمرو الانصاري جئنا زيد بن حسن شهدا بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا امرت

اس حدیث سے یہ بھی شہادت ملتی ہے کہ سورتوں میں آیتوں کی ترتیب آنحضرت صلعم نے خود فرمائی تھی۔ یہاں مروان دو آیات کا قول میں یعنی تجدید میں پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ ان دونوں آیتوں کا عجیب مضمون ہے۔ پہلی آیت میں تعلیم اسلامی کی وسعت کا ذکر ہے۔ کمال امن باللہ وملكته وكتبه ورساله لان الفرق بين احمد من رسله۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے عفو اور مغفرت اور رحمت کو چاہتے ہوئے کافر قوم کے مقابلہ پر نصرت کی دعا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے سینے میں یہ بات ہر وقت رہنی چاہئے کہ اس کا اصل مقابلہ کفر سے ہے اور کافروں پر نصرت کی دعائیں لگے رہنا اس کے لئے ہے۔ حدیث ۲۹۸ لینی حدیث ہے جس میں عتبان بن مالک کی بصارت طاعت نے اور رسول اللہ صلعم کو اپنے گھر میں بلانے کا ذکر ہے تاکہ آپ جہاں نماز پڑھیں وہیں وہ بھی پڑھا کریں۔ یہاں صرف ابتدائی الفاظ ہیں۔ ان عتبان مالک وکان من اصحاب النبي صلعم من شهدا بدرا من الانصاري فدنا من رسول الله صلعم۔ ملاحظہ فرمائیے یہ بتانا ہے کہ راوی عبد اللہ بن عامر جس کے تعلق روایت ہے یعنی قدام بن مظعون دونوں بدر میں شریک تھے۔ قدام کی بیوی صفیہ حضرت عمر کی بہن تھیں اور حفصہ اور عبد اللہ کی والدہ زینب بنت مظعون تھیں کی ہمشیرہ تھیں حضرت عمر نے قدام کو حکم مقرر کیا پھر حکم یہ خبر پہنچی کہ وہ شراب پیتے ہیں تو انہیں معزول کر دیا۔ یہاں مضمون میں کچھ اختلاف ہے قال اخر رافع بن خدیج عبد اللہ بن عمران عقبہ وکانا شهدا بدرا فاخبرنا ان رسول الله صلعم نزل عن كراء المزاريق قلت لسالم فكيف جاءنا قال نعم ان راها انك تطلع نشه۔ عنوان باب کا تعلق تو اس حصہ سے ہے کہ رافع بن خدیج کے دونوں چچا یعنی ظہیر جو ۱۳۶ کے راوی ہیں اور مظعون جو حضرت عمر کے زمانے میں خیمہ میں تھے جس کی وجہ سے ظہیر کے بیویوں کو حلال وطن کر دیا گیا۔ دونوں بدر میں شامل تھے۔ ان دونوں نے رافع بن خدیج کو خبر دی کہ رسول اللہ صلعم نے زمین کو کرایہ پر لینے سے منع کیا ہے۔ ظہیر نے کہا میں نے سالم سے کہا آپ تو زمین کو کرایہ پر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں رافع نے کچھ اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ حدیث ۱۱۳ میں ہے کہ ظہیر سے رسول اللہ صلعم نے دریافت کیا کہ تم زمین کو کس طرح کرایہ پر لیتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی پیداوار خود لے لیتے ہیں تو آپ نے اس سے منع کیا۔ گو یا رسول اللہ صلعم نے زمین کو کرایہ پر لینے سے منع نہیں کیا بلکہ اس بات سے منع کیا کہ مایوں م

عم کی پیداوار جو اعلیٰ درجہ کی ہوتی تھی وہ خود لے لیں رافع نے اس سے یہ مطلب لیا کہ زمین کو کرایہ پر دینا ہی منع ہے

۱۹۰۸ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ

۱۹۰۸ عا قریشی انہی الفاظ میں حدیث کو روایا

بِنِزَارِ بْنِ كَعْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ شَهِيداً بَدْرًا (م- ۱۹۰۷) عَنْ الْمِسْوَرِيِّ عَفْوَةَ

انصاری کو دیکھا اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے

رَمْتَكِبِ (م- ۱۹۰۸) عَنْ نَافِعِ رَمْتَكِبِ (م- ۱۹۰۹) عَنْ رَمْتَكِبِ

دیکھو حدیث ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ دیکھو حدیث ۱۹۰۸

أَنَّ سَبْرَةَ بِنْتَ مَالِكِ رَمْتَكِبِ (م- ۱۹۰۸) عَنْ سَبْرَةَ بِنْتِ مَالِكِ

سعد ابن عمرو کنیزی سے روایت ہے

وَكَانَ حَلِيفَةَ النَّبِيِّ زَهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بِدْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھا

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَأَنْتَ نَقِيتَ رَجُلًا مِّنْ

کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فرمائیے اگر (جنگ میں) کافروں میں سے ایک شخص

الْكَفَّارِ فَاقْتُلْنَا فَضَرْبَ أَحَدِكُمْ بِكَفٍّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا ذَمَّ لِلنَّبِيِّ

سے میرا مقابلہ ہوتا ہے اور ہم دونوں جنگ کریں اور وہ میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو تلوار سے مارے اور اس کو کاٹ

فَقَالَ سَلَمَتْ لِلَّهِ أَقْتُلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَاتَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

میرے ہونے پر وقت کی پناہ ہے اور کہنے کے کہیں اللہ کا فرما پورا رہ گیا یعنی مسلمان ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کروں بولیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ أَحَدَكُمْ بِكَفٍّ ثُمَّ قَالَ

کہ اس نے ایسا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو

ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ

کاٹ لیا ہے پھر اس نے یہ اسکے بعد کہا کہ میرا ہاتھ کاٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو اگر تم اسے قتل کر دو گے تو اس کو

قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ يَمْنُزُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتِهِ التَّتِي قَالَ

تمہارا درجہ مل جائیگا جو اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا اور تمہیں اس کا درجہ مل جائیگا جو پہلے اس کے کہنے سے پہلے حاصل تھا اور

۱۹۰۸ عا قریشی انہی الفاظ میں حدیث کو روایا ہے۔ عنوان باب کا تعلق اس سے ہے کہ عمرو بن عوف انصاری بدر میں شریک تھے۔ صلہ میں انھیں اختلاف لفظی بھی ہے اور کچھ اختلاف لفظی بھی ہے ان ابن عمر کا کہنا تھا حدیث کا لفظ الجہاد کا لفظ تھا انہی صلہ اللہ علیہ وسلم نہی عن قتل الجہاد البیوت قامسک عنہا۔ عنوان باب کا تعلق اس سے ہے کہ ابوبکر بدر میں شریک تھے سابقین کے ماننے اور دیکھو نوٹ ۱۹۰۸

۱۹۰۸ عا قریشی انہی الفاظ میں حدیث کو روایا ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۹۰۸ صفحہ ۹۴۹ کا عنوان باب تعلق تو صرف اسی قدر ہے کہ سعد ابن عمرو کنیزی بدر میں شامل تھے لیکن یہ دو نمائندہ ہم مسائل پر ایک فیصلہ کن دلیل ہے۔ اول یہ کہ ایک شخص کا شخص مرنے سے اقرار اسلام کرنا اس بات کیلئے کافی ہے کہ اسے مسلمان سمجھا جائے۔ یہاں ایک شخص دشمن کی فوج میں شریک ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ اس کی ہمت درست لڑانی بھی ہو چکی ہے اس مسلمان کا ہاتھ بھی وہ کاٹ چکا ہے اور وارجل جاتا تو سر بھی کاٹ دیتا۔ اسی وقت وہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر کے ایک درخت کی آڑ میں گھرا ہو کر مسلمان ہو جانے کا اقرار کرتا ہے صرف اسی وقت سے کہیں مسلمان ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے مسلمان سمجھو۔ کاٹش کا فقرہ بھی ان احادیث پر غور کرتے تو بھی ان مسلمانوں کو کافر کہنے کی جرأت نہ کرتے جو الا لا الا للہ کے قائل قرآن پر ایمان لاتے۔ نمازیں پڑھتے، روئے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے ہیں۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث حقیقت اس آیت قرآنی کی تفسیر ہے جس میں فرمایا۔ فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ فانوا الکر فی الدین یعنی وہ بعد مشرک ہو یا بارائے عہد توڑتے اور مسلمانوں رحمتی کرتے ہیں وہ بھی اگر تو یہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی جہالتی ہیں پھر ان سے کوئی چھوڑ بھی ٹوٹ کر دور ہوتی ہوتی جنگ کو بھی بند کر دو۔ اور انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو بھی انہیں معاف کر دو۔ اس آیت کا منشا تو یہی تھا جو اس حدیث میں ہر احوال سے بیان ہوا کہ لڑائی کر نیوے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں تو اس سے جنگ بند کر دو لیکن غلطی سے اسکی ترجمہ ہم سمجھ لیا گیا ہے کہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے جنگ کرو سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان ہو گئے ہیں اس آیت میں یہ قطعاً ذکر نہیں ہو کہ غیر مسلموں کی جنگ کرو و بیکار میں یہ بتایا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں تو جنگ فوراً بند کر دو۔ یہی وہ بات بھی جو سفرائے اسلام پر ان اور لوہا کے ساتھ جنگ شروع ہونیکے بعد مصالحت کیلئے پیش کر دیا کرتے تھے کہ جنگ تو ہماری تمہاری شروع ہے۔

رقیقہ ص ۲۹
اور ہم میں فیصلہ
تیار کر کے گی
تم یا شکست مان
کر تخرج اذکر و
تو جنگ بند نہ
ہے اور یا اگر تم
سلمان ہو جاؤ
تو پھر بھی ہمیں
تمارے ساتھ جنگ
کر نیکا حکم نہیں۔
اور یہی منشا اس
حدیث کا ہے۔
اصرت ان فوجا
الناس حتی یقولوا
لا الذالہ اللہ یعنی
جن لوگوں کے

(۵-۱۹۱۰) عَنْ أَنَسٍ مَتَكَرٍ (م-۱۷۸) (م-۱۹۱۱) عَنْ عُمَرَ مَتَكَرٍ (م-۱۷۳) (م-۱۷۴) دیکھو حدیث ۳۷۱۷ اور دیکھو حدیث ۳۷۱۸

(۱۷۱۷) عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ الْآلِافِ خَمْسَةَ الْآلِافِ قَيْسٍ سے روایت ہے کہ اصحاب بدر کے لئے عطیہ (سالانہ وظیفہ) پانچ پانچ ہزار تھا اور

قَالَ عُمَرُ لَا فَضْلَ لَهُمْ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِهِمْ (م-۱۹۱۲) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَتَكَرٍ حضرت عمر نے کہا میں انہیں ان کے بعد والوں پر ترجیح دوں گا

(۱۷۱۳) (م-۱۷۲۳) (م-۱۷۲۲) عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ دیکھو حدیث ۳۷۲۳ اور سعید بن سعید

بِزَيْنِ الْمُسَيَّبِيِّ قَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى يُعْنَى مَقْتَلِ عُمَانَ فَلَمْ يُتَبَّقْ مِنْ أَصْحَابِ سے روایت ہے کہ پہلا فتنہ جو بڑا یعنی حضرت عثمان کا قتل تو اس نے بدر والوں میں سے لیا کہ

بَدَلٍ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةَ يُعْنَى الْحَرَّةَ فَكَمْ تَبَّقَ مِنْ أَصْحَابِ بھی باقی نہیں چھوڑا پھر دوسرا فتنہ بڑا یعنی حرہ تو اس نے حدیبیہ والوں میں سے

أَحَدًا يَبِيَّةَ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّلَاثَةَ فَكَمْ تَرْتَفَعُ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ کسی کو باقی نہیں چھوڑا پھر تیسرا فتنہ بڑا تو وہ دور نہیں ہوا جب تک کہ لوگوں میں کوئی بخولی تھی

سابقہ جنگ شروع ہے وہ بھی سلمان ہو جائیں تو بھی حکم ہے کہ جنگ بند کر دو (صفحہ بڑا) علیہا قال فاخذ بلحيته کے الفاظ نہیں۔ اور آخر پر زیادہ ہے۔ قال ابو جہل فلو غدا انا قتلتني كما قتلتني قال كاش ظہنی کرنے والوں کے سوائے کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوتا۔ معاذ اور معوذتہنوں نے ابو جہل کو قتل کیا انصاری تھے اور انصاری زراعت پیشہ تھے۔ مرتے وقت بھی اپنے گھر کو نہ چھوڑا۔ صلوات مکر حدیث میں دو اصحاب بدر سے ملنے کا ذکر ہے جو صل میں نہیں ہے۔ الفنا لہ ہیں۔ لہذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لابي بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصاف فلقينا منهم رجلا من صالحان شهدا بدر فاحمد بن زيد فقال هذا عويم بن ساعدة وعصم بن عدي عجمي بعيت عقبة اولي اور بعيت عقبة ثانیہ میں دونوں جگہ موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے اور بعض نے، پہلے خلافت عمر میں۔ اور عصم بعیت عقبہ میں شامل تھے اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں جنگ یمام میں شہید ہوئے۔ صلوات مالک بن ادریس کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے ہاجرین کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار اور ہم اور انصار کا چار چار ہزار اور ہم اور ازواج مطہرات کا بارہ بارہ ہزار درہم مقرر کیا۔ صلوات میں صرف یہ ذکر ہے کہ جبیر نے آنحضرت صلوات کو مغرب میں سورہ والطور پڑھتے سنا۔ اس کی مکرر روایت م ۱۷۱۹ میں اتنا بڑھا یا ہے۔ وکان جنادی اسأری بدر درہ بدر کے قیدیوں کے ہائے میں گفتگو کرنے کے لئے آیا تھا۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقر فی المغرب بالطور وذلك اول ما دقا الايمان فی قلبی۔ یعنی یہ پہلا موقع تھا جب ایمان نے میرے دل میں جگہ لی۔ اس وقت جبیر حالت کفر پر تھے مگر نماز مغرب میں آنحضرت صلوات کو یہ سورت پڑھتے سنا تو ایمان دل میں گڑ گیا۔ مگر وہ مسلمان فتح مکہ کے بعد ہوئے۔ صلوات الفاظ وہی ہیں۔ دیکھو نوٹ ص ۲۹۵۔ صلوات یہاں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کو قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان قریباً دو ماہ حضور تھے اور ذی الحج کے دو دن باقی تھے کہ شہید کر دیئے گئے۔ یہ سہ ماہ ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسرا فتنہ واقعہ حرہ کو قرار دیا ہے۔ حرہ اس میدان کا نام ہے جو مدینہ کے مشرق کی طرف ہے اور وہ سیاہ پتھروں والی زمین ہے۔ یہ سہ ماہ ہجری کا واقعہ ہے۔ اہل مدینہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے حاکم کو نکال دیا تو یزید نے ان پر لشکر کشی کی اور اس میں سات سو بڑے بڑے ہاجرین اور انصار ارضیہ ہوئے تیسرے فتنہ کی یہاں تصریح نہیں کی مگر چونکہ اس حدیث میں صرف ان فتنوں کا ذکر ہے جو مدینہ میں واقع ہوئے۔ فتح الباری میں ہے کہ یہ فتنہ خلافت مروان بن محمد بن مروان بن الحکم میں ۳۳ ہجری میں ہوا اور ارتطبی میں یہی روایت اس فرق کے ساتھ ہے کہ وہاں ہے وان وقعت الثالثة۔ اگر تیسرا فتنہ اسی قسم کا ہوتا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے فتنہ نے بدر والوں میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دیا۔ اس سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فتنہ سے لیکر حرہ کے فتنہ تک اصحاب بدر میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ یہ تو تعبیر فتح الباری میں ہے طبایخ موٹائی اور قوت کو کہا جاتا ہے اور پھر عقل اور جیسر پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

(۱۹۱۴-۱۹۱۵) عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ وَفَاصِلِ بْنِ خَبِيذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ (متکرر۔ ۱۲۴۶) (۱۹۱۵-۱۹۱۶) عَنْ ابْنِ شَهَابٍ (متکرر۔ ۲۶۶) (۱۹۱۶-۱۹۱۷) عَنْ

الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَرِيمٍ (۱۹۱۷-۱۹۱۸) بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ

سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُعْجَمِ

اللَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّهَا سُبُّنُ الْبَكْرِ بِلَا

ابْنِ رِبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الْقُرَشِيِّ * حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ * حَاطِبُ

ابْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفُ الْقُرَشِيِّ * أَبُو حُرَيْثَةَ بْنُ عَبْدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ *

حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَّاقَةَ كَانَتْ

فِي النَّظَارَةِ * حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ * حُنَيْسُ بْنُ حُدَافَةَ السُّهْمِيُّ *

رِفَاعَةُ بْنُ زَارِعِ الْأَنْصَارِيِّ * رِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْدَرِ أَبُو بَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ

رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ

رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ

۱۹۱۴-۱۹۱۵
۱۹۱۶-۱۹۱۷
۱۹۱۸-۱۹۱۹
افک کی لمبی حدیث ہے۔ اس ایک متکررہ بیان بیان کیا ہے۔ عروہ بن زبیر اور تین اور صحابہ کے نام لیکر کہا ہے کل حدیثی طائفہ من الحدیث قالت ناقبت انا وام مسطح فعثرت ام مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت بس ما قلت تسبين سجلا شهدا بذكر افك حديث الافك صرف اس ذکر کے ساتھ ہے یہ حدیث بیان لانی گئی ہے کہ مسطح بدر میں شریک تھے

۱۲ یہاں کچھ زیادہ مضمون ہے۔ قال هذه مغازی رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحدیث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يليقهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال موسى قال فأنه قال عبد الله قال تاس من اصحابه يا رسول الله تنادي ناسا امواتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم يا سمع لما قلت منهم قال ابو عبد الله جميع من شهد بدر من قریش من ضروب له بسهمه احد وثمانون رجلا وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمنا ثمانمائة والله اعلم بسهم حصه میں کچھ تفصیل زیادہ ہے۔ اور قال ابو عبد الله (بخاری) سے بعد کہ حصہ زائد ہے یعنی قریش جو بدر میں حاضر تھے اور جن کے حصے لگائے گئے ان کی کل تعداد وہ اور حضرت زبیر نے کہا ایک سو تھی حضرت زبیر کی یہ حدیث آگے آتی ہے اور اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ حضرت زبیر نے اجراء قریش کے ساتھ ان کے موالی اور اتباع کو بھی شامل کر لیا ہوگا۔ مسطح آپ کی نام تبرک کے طور پر پلے رکھا۔ اور بعض نخل میں اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے نام بلا کسی ظہنی پلے آئے ہیں اس قسمت میں مرتب ان بدر لے صحابہ کے نام میں جن کو ذکر بخاری میں موجود ہے۔ مسطح ایسا بن کبیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک ہے فتح الباری میں ہے کہ بدر میں آنے بھائی عاقل اور عامر اور دوسرے بھائی بھی شامل تھے مگر ان کا ذکر بخاری میں نہیں ہوا ایسا بن ورق انصاری بھی بدر میں شریک تھے یہ جنگ یا میں شہید ہوئے۔ مسطح اب الوکالت میں یہ ذکر لکھ کر چکا ہے کہ حضرت بلال بھی جنگ بدر میں شریک تھے اور امیہ بن خلف کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ لا یخوت ان عیاشیة بن خلف دیکھو حدیث بلال لایلا یہ قریش میں سے نہ تھے بلکن کے حلیف تھے انہوں نے ہی مکرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی کی اطلاع دینے کے لئے ایک خط لکھا تھا جو پھرتے میں پڑا گیا۔ مسطح ابو حلیف کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب جنگوں میں شریک ہوئے اور جنگ یمام میں شہید ہوئے۔ مسطح عارث بن ربیع کے ذکر کے ساتھ عارث بن مرقہ کا ذکر بھی کر دیا ہے جو جنگ میں شریک ہونے کے لئے نہیں لکھے بلکہ صرف زمینے والوں میں تھے۔ مسطح یہ حضرت حصہ ریح کے پلے شوہر تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

الزبیر بن العوام القرظی * زید بن سهل بوطحیہ الانصاری * ابوزید	زبیر بن عوام قرظی	زید بن سهل	ابو طحیہ انصاری	ابوزید
الانصاری * سعد بن مالک الزہری * سعد بن خولہ القرظی * سعید	انصاری	سعد بن مالک زہری	سعد بن خولہ قرظی	سعید
ابن زید بن عمرو بن لعل قرظی * سهل بن حنیف الانصاری * ظہیر ابن	ابن زید بن عمرو بن لعل قرظی	سهل بن حنیف انصاری		ظہیر ابن
رافع الانصاری و اخوه * عبد اللہ بن عثمان ابو بکر الصدیق القرظی * رافع	رافع انصاری اور اس کا بھائی	عبد اللہ بن عثمان	ابو بکر صدیق قرظی	
عبد اللہ بن مسعود القدنی * عتبہ بن مسعود القدنی * عبد الرحمن	عبد اللہ بن مسعود ہذلی	عتبہ بن مسعود ہذلی		عبد الرحمن
ابن مکتوف الزہری * عبیدہ بن حارث القرظی * عبادة بن الصامت	بن مکتوف زہری	عبیدہ بن حارث قرظی		عبادہ بن صامت انصاری
الانصاری * عمرو بن الخطاب العدوی * عثمان بن عفان القرظی	انصاری	عمرو بن خطاب عدوی		عثمان بن عفان قرظی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ابنتہ و ضرب لہ بسنہہ * علی بن ابی طالب	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صاحبزادی (کی تبارداری) کے لئے چھوڑ گئے تھے اور انکے واسطے حضرت کا کیا یا علی بن ابی			
المہاشمی * عمرو بن عوف بن حلیف بنی عامر بن لوی * عقبہ بن عمرو	طالب ہاشمی	عمرو بن عوف بن عامر بن لوی کے حلیف		عقبہ بن عمرو انصاری
الانصاری * عامر بن ربیع العزنی * حاصم بن ثابت الانصاری	انصاری	عامر بن ربیع عزنی		حاصم بن ثابت انصاری
عویم بن ساعدہ انصاری * عتبان بن مالک انصاری * قدامہ	عویم بن ساعدہ انصاری	عتبان بن مالک انصاری		قدامہ
ابن مضعون * قتادہ بن الثعمان الانصاری * معاذ بن عمرو	ابن مضعون	قتادہ بن ثعمان انصاری		معاذ بن عمرو بن جوح
ابن الجموح * معوذ بن عفران و اخوه * مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری	ابن الجموح	معوذ بن عفران	اور اس کا بھائی	مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری
مراۃ بن الربیع الانصاری * معن بن عدی انصاری * مسطح بن اثاثہ ابن	مراۃ بن ربیع انصاری	معن بن عدی انصاری		مسطح بن اثاثہ ابن
عبد بن مطلب بن عبد مناف * مقداد بن عمرو الکنذلی حلیف بنی زہرہ * عبد بن مطلب بن عبد مناف	عبد بن مطلب بن عبد مناف	مقداد بن عمرو کنذلی		بنوزہرہ کے حلیف
ہلال بن امیہ الانصاری رضی اللہ عنہم	ہلال بن امیہ انصاری			رضی اللہ عنہم

ملیہ ذی ابولحہ
ہیں جنہوں نے
اش بن مالک
کی والدہ سے
شادی کی ریشہ
ہجری میں فوت
ہوئے +
ملیہ ان کا نام
قیس ابن لکن
ہے +
ملیہ یعنی حضرت
سعد بن ابی وقاص
ان کا نام
منظر تھا +
ملیہ یعنی حضرت
عبد اللہ بن مسعود
کے بھائی +
ملیہ عبیدہ بن
حارث بن عبد
المطلب آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم سے دس
سال بڑے تھے
عتبہ بن ربیعہ
نے بدر میں ان
کا پاؤں کاٹ
دیا اور بدر سے
واپسی پر عفران
کے بچے میں
شہید ہوئے +
ملیہ
ابو جہل کا سلب
انہی کو دیا گیا
ملیہ
معوذ بن عفران
عفران ان کی
والدہ کا نام ہے
ابو لعد کا نام

حارث ہے۔ یعنی میں ہے کہ ابو جہل کو انہوں نے ہی قتل کیا پھر ابو صغنف کے ہاتھ سے جام شہادت پیا + یعنی عوف بن الحارث +

(۱۴) **بَابُ حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِ**

باب بنو نضیر کا قصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے پاس دو آدمیوں کی روایت

الرَّجُلَيْنِ وَمَا آرَادَا مِنْ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزُهْرَةَ

کے بارے میں جاننا اور جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کرنا چاہا

عَنْ عُرْوَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سَيْفَةٍ أَشْهَرُ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أَحَدِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

عروہ سے روایت کی ہے کہ ان کا واقعہ جنگ بدر سے چھ ماہ بعد اور جنگ احد سے پہلے ہوا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

اللہ ہی جو جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے لئے نکالا (الحشر - ۲) اور

جَعَلَهُ ابْنَ الرَّحْمَنِ بَعْدَ بَرٍّ مَعُونَةٌ وَأَحْمَدُ (۴۷) ، عَنْ ابْنِ جُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

ابن احن نے اسے بڑھو اور احد کے بعد رکھا ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ نضیر اور قرظہ

النَّضِيرُ وَفَرِيظَةُ فَاجْلِبَنِي لِلنَّضِيرِ وَأَقْرُقُ رِيظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبْتَهُ

دونوں نے راضی حضرت معمر سے راوی کی تو اپنے بنو نضیر کو جلا وطن کیا اور قرظہ کو رہنے دیا اور ان پر احسان کیا میں تک کہ دیکھ کر قرظہ

قَرِيظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

نے راوی کی تو حضرت نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا

بَعْضُهُمْ يَحْقِرُونَ النَّضِيرَ وَالنَّضِيرُ يَحْقِرُونَ الْقَرِيظَةَ وَالْقَرِيظَةُ يَحْقِرُونَ الْقَرِيظَةَ

بعض نبی قرظہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھا اور وہ اسلام لائے اور آپ نے مدینہ کے سب یہودیوں کو

بَنِي قَرِيظَةَ وَهُمْ رَهْطٌ عَجَبُوا لِلَّهِ فَمَسَاكِينٌ يَهُودُ الْمَدِينَةِ وَكُلُّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ

جلا وطن کر دیا یعنی بنی قریظہ کو جو عبد اللہ بن سلام کی قوم تھے اور بنی حارثہ کو اور مدینہ کے سارے یہودیوں کو

کتاب المغازی میں ہے کہ بنو نضیر مدینہ کے ایک قبیلہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا اور انہیں مدینہ سے باہر نکال دیا۔ ان کے بارے میں صحیح بخاری میں بھی احادیث ہیں۔

سنہ ہجری میں بنو نضیر کا واقعہ ہوا جن کا سردار جبر بن اشطب تھا۔ اور سب آخر بنو قرظہ کے ساتھ جنگ ہوئی جو غزوہ حندق کے بعد کا واقعہ ہے۔ اسحاق نے کہا ہے کہ یہ دو شخص بنی عامر میں سے تھے۔ یہ مدینہ سے باہر گئے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حفاظت کا عہد تھا۔ عمرو بن امیہ الضمیری نے انہیں دشمن سمجھ کر ان سے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی رویت دی جائے گی اور جو تکذیبی نضیر کے ساتھ معاہدہ تھا اس لئے آپ انکی طرف چند صحابہ کے ساتھ گئے کہ وہ دیت کی ادائیگی میں حصہ لیں۔ اور نبی نضیر اور بنی عامر میں عہد بھی تھا۔ ظاہر طور پر تو یہ لوگ اچھی طرح پیش آئے اور آپ کو ایک جگہ لیا اور اس کے ساتھ بٹھا دیا اور منصوبہ یہ کیا کہ ایک شخص چھت پر جا کر آپ پر پتھر پھینکے۔ آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ یہ ابن اسحاق نے کہا ہے لیکن فتح الباری میں ہے کہ ابن عمر نے اس واقعہ کے ساتھ زہری سے روایت کی ہے جو بنی عامر کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبد اللہ بن ابی اور شکر بن کعب کو مدینہ میں تھے کہلا بھیجا کہ چونکہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اس لئے ہم سب آپ کے ساتھ خلافت جنگ کریں گے تو عبد اللہ بن ابی اور اسکے ساتھیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ قریش تمہیں دھوکا دیکر آپ میں جنگ کرانا چاہتے ہیں تو وہ باز آئے۔ پھر جنگ بدر کے بعد قریش نے یہودیوں کو کہلا بھیجا کہ تمہارا اپنا جھنڈا ہے اور تمہارے قلعے میں تم کوئی تدبیر سوچو تو بنی نضیر نے مشورہ کر کے آپ سے دغا بازی کا فیصلہ کیا اور آپ کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے تین صحابہ کے ساتھ آجائیں اور تین ہی ہمارے علماء ہوں گے تو اگر بیعت میں وہ ہمارے علماء مغلوب ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں تو ہمارے سب قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اور ان تین کو کھنی طور پر خنجروں سے مسلح کیا گیا تھا۔ تو بنی نضیر کی ایک عورت نے اپنے ایک بھائی کو جو انصاریں سے تھا اور مسلمان تھا اس واقعہ کی اطلاع دیدی اور اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں اور اس طرح بنی نضیر کی دغا بازی کا ثبوت مل گیا تو حضرت معمر نے بنی نضیر کو کہلا بھیجا کہ وہ اپنی حالت میں مدینہ کو خالی کر دیں اور کسی دوسری جگہ کوفت اختیار کریں۔ پہلے وہ اس پر تیار ہو گئے مگر عبد اللہ بن ابی رئیس من اقبلیں نے انہیں روکا اور انہوں نے بنی نضیر کو کہلا بھیجا کہ آپ جو چاہیں کریں اس پر آپ نے ان پر فوج کشی کی اور وہ پندرہ یا چھبیس دن تک محصور رہ کر آخر جلا وطنی پر راضی ہو گئے اور کچھ خیموں میں اور کچھ شام میں پہلے گئے۔ سورہ حشر میں انہی کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں حضرت انصار کے ساتھ ذکر ہے کہ بنی نضیر اور بنی قرظہ دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کو اپنے بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا اور بنی قرظہ پر احسان کیا۔ بنی قرظہ کا ذکر آگے بالتفصیل آتا ہے اور ان کے معاملہ میں جو جنگ گریزوں کے قتل کرنے کا ذکر ہے تو اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اور کتاب جہاد باب ۵۶ باب ۱۴۸ اذ انزل لعدو علی حکم رجل میں بھی گذر چکا دیکھو نوشتہ ص ۱۴۸ البتہ یہاں ساتھ یہ بھی ہے کہ بنی قرظہ میں سے بعض لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ چاہی انکو اپنے پناہ بھی دی بنی نضیر کے ساتھ جو جنگ پیش آیا

بقیہ ص ۹۵۳
اس کی وجوہات
پچھلے نوٹ میں بیان
ہو چکی ہیں یہ لوگ
مسلمانوں کے دشمنوں
کے ساتھ ملے ہوئے
تھے اور ان ساز باز
رکھتے تھے اور پھر
بازی سے خمدکی
آڑکے نیچے آنحضرت

۱۷۷۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالِ قُلْ

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے کہا

سُورَةُ التَّوْبَةِ (م- ۱۹۱۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَمَتَكَ (م- ۱۹۱۷) (م- ۱۹۱۸)

سورہ توبہ کو بولا دیکھو حدیث ۱۳۱۵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَتَكَ (م- ۱۱۳۰) (م- ۱۹۱۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَتَكَ (م- ۱۱۳۰)

دیکھو حدیث ۱۱۳۰ دیکھو حدیث ۱۱۳۰

(م- ۱۹۱۹) عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوَيْسٍ رَمَتَكَ (م- ۱۲۰۱)

دیکھو حدیث ۱۲۰۱

صلعم کو قتل کرنے کا منصوبہ کر چکے تھے۔ حدیث کے مریخ الفاظ حاربت النضیر وقریظہ بتاتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے ان سے ابتداء جنگ نہیں کی بلکہ جنگ کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی۔ یہاں نبی قیظان کی جلا وطنی کا ذکر بھی ہے اور دوسرے یہودیوں کا بھی کہ سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اور ان سب کی جلا وطنی کی وجہ یہی تھی کہ یہ خلاف وعدہ دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اندر سے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ **وصفیٰ ہذا** نام تو سورہ حشر ہی ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ مطلب تھا کہ اس میں ذکر نبی نصیر کا ہی ہے۔ **محل** دونوں روایتوں کے لفظ بالکل ایک ہیں۔ **دیکھو** ۱۱۳۰ پر نوٹ ۱۔ **محل** یہاں روایت یوں ہے۔ **قال** حذیق رسول اللہ صلعم یحییٰ بن النضیر وقطم وحی المہیرۃ فانزلت ما قطعتم من لینۃ او ترکتمہا قائمۃ علی اصولہا فیاذن اللہ گویا بتایا ہے کہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں **را حشر- ۱۵** آنحضرت صلعم کے اس فعل کو درست ٹھہرایا ہے کہ آپ نے کچھ گھوڑے درخت کاٹ دیئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پھلدار درخت کے کاٹنے کو گو جنگ میں ہی ہرگز نہ کرتے تھے مگر یہاں حصارہ کی ضرورت کے لئے کچھ درخت کوٹنے پڑے۔ اور عینی میں اوزاعی سے نقل کیا ہے۔ **وہی ابو بکر الصدیق** ان یقطع شجرًا او شجرًا وینزب عامرًا وعلیٰ ذلک المسلمون بعدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے منع کیا کہ جنگوں میں پھلدار درخت کاٹے جائیں یا آباد زمین کو ویران کیا جائے اور مسلمانوں کا عمل ان کے بعد ہی رہا ہے تو یقیناً یہ آنحضرت صلعم کا ہی ارشاد تھا جس کی بنا پر حضرت ابو بکر نے پھلدار درختوں کا کاٹنا منع کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ میں کس قدر محتاط تھے کہ جلا ضرورت کو ہی نقصان نہ ہو اور جب درخت تنگ ہونے سخت ضرورت کے کاٹنا جائز نہ تھا تو انسانی جان تو اس سے بہت زیادہ قیمتی شے ہے۔ نیز **دیکھو** نوٹ ۱۱۳۰ پر **محل** ابتدائی حصہ حضرت حسان کے شعر تک ایک ہے سوائے اس کے کہ یہاں **وقطم** کا لفظ نہیں۔ اس کے بعد ہے **قال** فاجابہ ابو سفیان بن الحارث۔ **ادام** اللہ ذلک من صلیح۔ **وحذیق** فی فواجیہا السحیر۔ **ستعلم** ایتمامہا بآیۃ۔ **وقلم** ای ارضینا تقصیرا۔ **ابو سفیان بن الحارث** ابن عبد المطلب جو بعد تئیم اسلام لائے۔ ان اشعار میں جواب دیا۔ **فدا کرے** ہمیشہ یہی حالت رہے اور اس رد میں کے چاروں طرف بھڑکتی ہوئی آگ جلتی رہے تو عنقریب جان لیگا ہم میں سے کون اس سے دور (یا بچا) رہیگا اور تو جان لیگا کہ ہماری دونوں زمینوں (مکہ اور مدینہ) میں سے کسی نقصان اٹھائے گی۔ حضرت حسان کے شعر کے مطلب کے لئے **دیکھو** **محل** پر نوٹ ۱۔ **محل** **ابن عساکر** چھوڑ دیا ہے اور آگے بھی کچھ کہی ہوئی ہے۔ **لفظ** یوں ہیں **عن ابن عمر بن الخطاب دعاہ اذ جاءہ حاجبہ یرفا فقال هل لک فی عثمٰن وعبدالرحمن والزبیر وسعد یتادون فقال نعم فادخلهم فلبث قلیلاً ثم جاء فقال هل لک فی عباس علی یتادون قال نعم فلما دخل قال عباس یا امیر المؤمنین اقص بیتی بین ہذا وھما یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من بغی للنضیر فاستب علی وعباس بواکید وکمر کسحت سست کما فقال لروھ یا امیر المؤمنین اقص بینہما وازح احدہما من الآخر فقال عمر اتقوا اللہ والاشدکم باللہ الذی باذنه تقوم السلۃ والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلعم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ یریدوا بل ذلک نعشہ قالوا قد قال ذلک فاجل عمر علی عباس علی فقال انشأ کما بال اللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذلک قال نعم قال انی احدکم عن ہذا الامرات اللہ سبحانہ کان خص رسولہ صلعم فی ہذا الیفۃ یعنی لم یعطہ احدًا غیرہ فقال جل ذکرہ وما قال اللہ علی رسولہ منہم فمدا وجمعتم علیہ من خیل ولا کلاب الی قوله قد یرفکات ہذا خانصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم واللہ ما احتارہا دونکم ولا استثارہا علیکم لعدا استثارہا و قسمہا فیکم حتی بقی ہذا المال منہا ذکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ہذا المال ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ مجدل مال اللہ ففعل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیۃ ما ثم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر فانادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضتہ ابو بکر ففعل فیہ بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم حیثنذ فاقبل علی وعباس قال تکران ان ابا بکر فیہ کما تقولان واللہ یعلم انہ فیہ لصادق باذراشدنا تا بقرہ لفق ثم توفی اللہ ابا بکر فقذت انادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر فقضتہ سنتین من اما دتی اعمل فیہ بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر واللہ یعلم انی فیہ صادق باذراشدنا تا بقرہ لفق ثم جنتمان کلا کما وکلمتکما واحدہ و امرکمما جمیعہ فجتتہ یعنی عبا سنا فقلت انکما ان رسول اللہ صلعم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ فلما بدالی ان اذ فعا الیکما قلت ان شتتا دفعتہ الیکما علی ان علیکمما عهدا للہ ومیتنا وہ لتعلمان**

(۵۰۔ ۱۹۲۰) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكْرَّمًا) (۱۴۰) (۱۵) بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

دیکھو حدیث... ۱۴۰

بَابُ

کعب بن اشرف کا قتل

(۱۵۰) (۱۹۲۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدٌ بَيْنَ مَسْكِةَ

کعب بن اشرف کا ذمہ مومن لیتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نفی دیا ہے

تو محمد بن سلمہ کھڑے ہوئے

رقبہ صفر ۵۴۳ھ
فیہ جامع فیہ رسول
و ابوبکر و ما حملت
فیہ من ولایت
الہی فلا کلمہ فی
فعلت ما اذوہ الینا

بذلک ذرفقته الیکما اختلعتما منی فقتلہ غیر ذلک فواللہ الذی یأذنه تقوم السماء وارضی کا اقتضی فیہ بقضاء غیر ذلک حتی تقوم الساعة فان
عجزت ما عنہ فادفعا الی فاناکم ما (مکمل) ایساں پختہ ہوا ہی ہے، قال لحدتک هذا الحدیث عروة بن الزبیر فقال صدیق مالک بن اوس انما سمعت
عائشة رفہ زوج النبی صلعم تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنت ان اذوہن قلت لهن الاتین
اللہ الی تعلمن ان النبی صلعم کان یقول لا نورث ما ترکنا صدقیر میں بذلک نفسه اما یا کل ال محمد صلعم فی هذا المال فانتم الی اذوہ النبی صلعم الی ما
اخبارتم قال فکانت هذه الصدقة بین علی من علی عباسا فغلبه علیہا ثم کان من علی بن حسین بن علی بن محمد بن علی بن حسین بن محمد بن
کلاهما کانیتدا انکما ثم بدین زید بن حین وھی صدقة رسول اللہ صلعم حقاً تشریح کیے دیکھو اس پیش پریشانی (صفحہ ۱۹۲۰) علیہا بہت مختصر الفاظ میں اللہ
حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عباس کے بچے حضرت ابو بکر کے پاس آنے کا ذکر ہے۔ ان فاطمہ علیہا السلام والعباس انہ ابا بکر
سلیتسان میرا انھما ارضہ من فذک وسمہم من خیر فقال ابو بکر سمعت النبی صلعم علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ
انما یا کل ال محمد فی هذا المال واللہ لقرابة رسول اللہ صلعم علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتہ انما یا کل
ال محمد فی هذا المال کا فقرہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی آمدنی آپ کے ورثہ کو ہی دی جاتی تھی مگر صرف اس حد تک جس حد تک انکی ضرورتوں
کے لئے کفایتی ہو۔ اور آخری فقرہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے دل میں حضرت فاطمہ کی کس قدر محبت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں کے ساتھ ہر طرح کا نیک سلوک ہو مگر یہ پسند نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کریں
مفصل بحث کے لئے دیکھو نوٹ ۳۳ صفحہ ۶۹۹۔ ۶۔ کعب بن اشرف یہودی تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ عربی الاصل تھا۔
بنی لبنان میں سے جملے کا ایک قبیلہ ہیں اس کا باپ کوئی خون کر کے مدینہ میں آیا اور بنی نضیر کے حلیف بن گیا اور پھر ان میں عزت حاصل
کر لی اور ابی الحقیق کی بیٹی سے شادی کر لی جس سے کعب پیدا ہوا۔ کعب کا قتل رمضان سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔ بعض نے ربیع الاول
کہا ہے۔ وہ واقعات جن کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا اس حدیث میں مذکور نہیں مگر دوسری احادیث سے ان کا پتہ چلتا ہے۔
چنانچہ ترمذی اور ابوداؤد میں روایت ہے کہ ان بھروسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینوحی علیہ کفاد قریش۔ رسول اللہ صلعم کی
اپنے اشعار میں بدگوئی کرتا تھا اور کفار قریش کو آپ کے خلاف جنگ کے لئے اکٹھا کرتا تھا۔ اور حاکم کی روایت امیہ میں ہے صحیح بخاری
میں نقل کیا ہے فقہ اذا انا بشعرہ و قوسی اللہ کریں وہ ہمیں اپنے شعروں سے اذیت پہنچاتا ہے اور مشرکوں کو ہمارے خلاف تقویت
دیتا ہے۔ بلکہ اس نے یہاں تک بے حیائی کا طریق اختیار کیا تھا کہ مسلمان بیبیوں کے ساتھ تشبیہ کرتا تھا یعنی اپنے اشعار میں ان کے ساتھ لہذا لہذا
کرتا تھا۔ اور کلمی کی روایت اسی میں منقول ہے۔ ان کعب بن الاشرف قد م حلی مشرکی قریش فحالی لغهم عندنا ستار الکعبۃ علی قتال
المسلمین یعنی کعب بن اشرف قریش کے مشرکوں کے پاس گیا اور کعب کے بیروں کے پاس ان کے ساتھ حلیفہ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف
جنگ کرے گا اور ایک اور روایت منقول ہے کہ جب آنحضرت صلعم کو یہ خبر ملی کہ وہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کیلئے بھڑکا رہا ہے تب آپ نے
فرمایا۔ من لنا با بن الاشرف فانه قد استعلن بعدا و تنال یعنی کون ابن اشرف کا فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ اب کھلے طور پر ہمارے ساتھ عدالت
کا اظہار کرتا ہے یعنی دشمنوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اور ایک اور مسل روایت فتح الباری میں حکم ملی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
رسول اللہ صلعم کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ کیا تھا۔ انہ صنتہ طعاما و اطاء جماعۃ من الیہود انہ یدعوا النبی صلعم علیہ وسلم الی الولیۃ
فاذا حضر فنگموا بہ۔ یعنی کھانا پکایا اور یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس بات پر موافقت کی کہ وہ رسول اللہ صلعم کو ولیمہ پر بلائے گا جب
آپ آئیں تو سب آپ پر یکسر تہ ٹوٹ پڑیں تو آپ وہاں اپنے چند اصحاب کے ساتھ گئے مگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ دغا بازی آپ کے ساتھ
ہونے والی ہے تو آپ چلے آئے۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں وہ
واجب القتل ہو چکا تھا۔ اور خود بخاری نے ان سب روایات کی تائید کی ہے۔ کیونکہ کتاب المجاد ۵ باب ۵۹ کا عنوان جس کے نیچے یہ
حدیث مختصر آئی ہے۔ یوں ہے باب الفتح باهل الحرب جنگ کرنے والوں پر اچانک حملہ۔ گویا کعب کو جنگ کرنے والوں میں سے قرار
دیا ہے۔ پس جب وہ اہل حرب میں سے ہو گیا تو اس کا قتل کرنا بھی درست تھا۔

محلہ ابن ابی نعیم کی روایت میں ہے فاضل ان قدرت علی ذلک اگر تیں اس کی طاقت ہے تو کرو۔ اور وہ روکی روایت میں ہو دیکھو فتح الباری قسمت ۲ رسول اللہ صلیم تو رسول اللہ صلیم غلوش ہو گئے ۴ محلہ حینی بن یحییٰ معانیہ جو کعبا یعنی ایسی باتیں کہیں جن سے کعبہ توڑ ہو۔ کعبہ کو قتل کرنے کی یہ تدبیر محمد بن مسلمہ کی اپنی تھی۔ اور اس میں شک نہیں کہ دوسری صورت صرف ہی تھی کہ اس پر باقاعدہ فوج کشی کی جاتی لیکن ایسا کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ بہت کشتہ فوج ہوتا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے بھی بہت آدمی مارے جاتے ۴ محلہ حینی بن یحییٰ معانیہ جو کعبا یعنی ایسی باتیں کہیں جن سے کعبہ توڑ ہو۔ کعبہ کو قتل کرنے کی یہ تدبیر محمد بن مسلمہ کی اپنی تھی۔ اور اس میں شک نہیں کہ دوسری صورت صرف ہی تھی کہ اس پر باقاعدہ فوج کشی کی جاتی لیکن ایسا کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ بہت کشتہ فوج ہوتا اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے بھی بہت آدمی مارے جاتے ۴

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبُّ أَنْ أَقْتَلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذِنِّي لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا
اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں سے قتل کر دوں فرمایا لاں علی انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو اجازت دیں کہ میں کچھ کہوں
قَالَ قُلْ فَأَتَاكَ مُحَمَّدٌ مُسْلِمًا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَكَ صَدَقَةً وَإِنَّكَ
فرمایا کہو محلہ تو محمد بن مسلمہ کعب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ شخص (یعنی آنحضرت صلیم) ہمیں زکوٰۃ دینے کیلئے کہتے ہیں اور اس کی وجہ
قَدْ عَمَّا نَا وَرَبِّي قَدْ أَتَيْتَكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَإِضًا وَاللَّهِ لَتَمْلِكُنَّهُ قَالَ إِنَّا
سے ہم تکلیف میں مبتلا ہیں محلہ اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تم سے قرض مانگتا ہوں کعب نے کہا اللہ کی قسم تم بھی اس سے اور بھی زیادہ تکلیف
قَدْ أَتَبَعْنَا هَا فَلَا أَحَبُّ أَنْ تَدْعَاهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أُمِّي شَيْءٌ يُصَدِّرُ شَانَهُ وَقَدْ
یاؤ گے اور محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اکی پڑی کر چکے ہیں اور نہیں چاہتے کہ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہو گا ہے ہم چاہتے ہیں
أَرَدْنَا أَنْ تَسْلِفَنَا وَسُقَا أَوْ وَسُقَيْنَ وَحَدَّثْنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ
کہ تم ہم کو ایک سبق یاد دہن کر رکھو، قرظن دیدو ہم رسفیان کو عمر نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی اور وہ سبق یا
وَسُقَا أَوْ وَسُقَيْنَ فَفَلَّتْ لَهُ فِئْدَةٌ وَسُقَا أَوْ وَسُقَيْنَ فَقَالَ أَرْمِي فِئْدَةَ وَسُقَا
وسقین کا ذکر نہیں کیا تو میں نے ان سے یہ بھیجا اس میں وسقن یا وسقین کا ذکر ہے تو کہا میرا خیال ہے کہ اس میں وسقن یا
أَوْ وَسُقَيْنَ فَقَالَ نَعَمْ أَرْمُونِي قَالُوا أَمَى شَيْءٌ تُرِيدُ قَالَ أَرْمُونِي
وسقین کا ذکر ہے کعب نے کہا ہم اپنی عورتیں کس طرح تمہارے پاس رہیں گھبرائی رکھو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ اپنی عورتیں میرے پاس گری رکھ دو محلہ
نِسَاءً كَمَا قَالُوا كَيْفَ تَرَاهُنَّ نِسَاءً نَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَأَرْمُونِي
انہوں نے کہا ہم اپنی عورتیں کس طرح تمہارے پاس رہیں گھبرائی رکھیں تاکہ تم عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو کہ تو اپنے بیٹے میرے پاس
أَبْنَاءً كَمَا قَالُوا كَيْفَ تَرَاهُنَّ أَبْنَاءً نَا فَيَسِبُ أَحَدُهُمْ فَيَقَالُ رَهْنٌ يَوْسِقُ
انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹے کس طرح تمہارے پاس رہیں گھبرائی رکھیں کوئی ان میں سے ایک کو گالی دیکھا تو کہنے لگا کہ ایک سبق یاد دہن
أَوْ وَسُقَيْنَ هَذَا حَارِثُ عُلَيْنَا وَلَكِنَّا تَرَاهُنَّ الْإِمَامَةَ قَالَ سَفِينٌ مَلِكِي السَّلَاحِ
یہ یہ گروی رکھا گیا تھا یہ ہمارے لئے نذر کی بات ہے البتہ ہم اپنے ہتھیار رکھنا ہے ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھنا ہے
فَوَاعِدَا أَنْ يَأْتِيَهُ فِجَاءٌ كَالْيَأِ وَمَعَهُ أَبُو نَارِثَةَ وَهُوَ أَحْوَلُ عَيْبٍ مِّنْ
محمد نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے پاس (پھر) آئے گا تو وہ رات کو اس کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ابو نثار تھا جو کعب کے رضاعی بھائی
الرِّضَاعَةَ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ
تھا تو ان کو قلعہ میں بلا یا کعب ان کے پاس آ گیا اس کی بیوی نے اس سے کہا اس وقت کہاں جاتے
تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدٌ مِّنْ مُّسْلِمَةٍ وَأَخِي أَبُو نَارِثَةَ
ہو تو کہا کہ صرف محمد بن مسلمہ ہے اور میرا بھائی ابو نثار
وَقَالَ غَيْرُ سَكْرٍ وَقَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنِّي قَطْرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ
اور غزو کے سوا اوروں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ میں ایک آواز سنتی ہوں جس سے خون ٹپک رہا ہے کعب نے کہا صرف میرا بھائی
أَخِي مُحَمَّدٌ مِّنْ مُّسْلِمَةٍ وَرَضِيحِي أَبُو نَارِثَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوُدِّي وَالْوَطْعَنِيَّةُ
محمد بن مسلمہ ہے اور میرا دودھ بھائی ابو نثار شریفین آدمی کو اگر رات کو برچھا مارے تو کبھی بلا یا
بِكَيْلٍ كَأَجَابٍ قَالَ وَيَدْخُلُ مُحَمَّدٌ مِّنْ مُّسْلِمَةٍ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قَيْلِ لِسُقَيْنَ
جائے تو وہ جائے گا کہا اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمی اندر لے گئے سقین سے پوچھا گیا
سَمَّا هُمْ عَمْرُو قَالَ سَمِي بَعْضُهُمْ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ
کہ عمر نے ان کا نام لیا تھا کہ بعض کا نام لیا تھا عمر نے اتنا ہی کہا تھا کہ دو آدمی اپنے ساتھ لے کر اندر آئے اور عمر کے سوا

۱ ہے کہ یہ شخص بہ کار بھی تھا اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتا تھا ۴

عَمْرُو أَبُو عَكْبَسٍ مِنْ جَبْرِ وَالْحِثُّ بِنُ أَوْسٍ وَعَبَادُ بْنُ إِشْرٍ قَالَ عَمْرُو جَاءَهُ

اوروں نے کہا ابو عکبس بن جبر اور عمارث بن اوس اور عباد بن بشر اندر گئے عمرو نے اتنا ہی کہا کہ محمد کے

مَعَهُ بِرَحْلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَرَانِي قَائِلٌ بِشَعْرَةَ فَاشْتَمْتُهَا فَذَا رَأَيْتُمُونِي

ساتھ دو آدمی آئے انہوں نے ان سے کہا جب وہ آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر انکو سو گھوں کا ٹکڑا تجھے دکھاؤں گا میں نے

أَسْتَمَكْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَذَرَنِي قَاضِرٌ بَوَّاءٌ وَقَالَ مَرَّةً شَمَّ أَشْتَمَكُمْ فَنَزَلَ

اس کا سر مضبوط کر لیا تو قرودڑا سے مار دو اور ایک مرتبہ کہا پھر میں نہیں سو گھوں کا ٹکڑا ان کے پاس

لَا إِلَهُمْ مَتَوْشِيًّا وَهُوَ يَشْفِي مِنْهُ رِيحُ الطَّيِّبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُكَ كَالْيَوْمِ رِيحًا

چادر اوڑھے ہوئے آگیا اور اس سے خوشبو نہ نک رہی تھی محمد نے اس کے آج میری خوشبو بھی نہیں دیکھی

أَيُّ أَطْيَبٍ وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ أَكْمَلُ الْعَرَبِ

یعنی ایسی اچھی عمرو کے سوا اوروں نے کہا کہ کوئی ہے کہ میرے پاس عرب کی عورتوں میں سے زیادہ معطر کرنے والی اور مائے

قَالَ عَمْرُو فَقَالَ تَأْذُنِي أَنْ أَشْتَمَ رَأْسَكَ قَالَ لَعَمْرُ فَشَمَّتْهُ ثُمَّ أَشْتَمَ أَصْحَابَهُ

عرب کی باکمال عورت ہے عمرو نے کہا محمد نے کہا کہ کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ تمہارے سر کو سو گھوں لوں کہا ہاں تو اسے سو گھوں اور اپنے ساتھیوں

ثُمَّ قَالَ أَتَأْذُنِي قَالَ لَعَمْرُ فَلَمَّا اسْتَأْمَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكَ فَفَقَتَلُوهُ ثُمَّ

کو سو گھوں یا پھر کہا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس سے قابو کر لیا تو کہا پکڑو انہوں نے اس کو قتل کر دیا پھر

أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ (۱۶) بَابُ قَتْلِ ابْنِ رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی کہ باطل اور رافع بن عبد اللہ بن ابی حنیفہ کا

ابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُقَالُ سَلَامٌ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَ يُجَادِرُ وَيُقَالُ فِي حِصْنِ

قتل اور کہا جاتا ہے کہ وہ سلام بن ابی حنیفہ ہیں وہ حیر میں رہتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک

لَهُ بِأَرْضِ حِجَازٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ (۱۶۲) عَنِ

قلعہ میں تھا جو حجاز میں تھا زہری کہتے ہیں یہ کعب بن اشرف کے بعد ہوا کہ

الْبُرَاءِ بْنِ عَارِبَةَ (متكلم - ۱۳۸) ر - ۱۹۲۲ عَنِ الْبُرَاءِ (متكلم - ۱۳۸)

دیکھو حدیث ۱۳۸۱ ع

دیکھو حدیث ۱۳۸۱ ع

ملے میں لفظ ہیں
انی قائل بشعرة
اور مرد ہجو جادیہ
بشعرة کیونکہ عرب
میں قول کا لفظ بہت
دیں معنی ہر ہتھیار
ہوتا ہے اور قائل
بید کا کہنے میں
اخذہ - قائل بوجہ
یعنی منشی چلا گیا
قال بشعرة اپنے
کڑھے کو اٹھایا۔
دیکھو معنی +
ملے میں حکمہ
میں ہے کہ ہجو لگتی
صحیح رسول اللہ
صلعم کی خدمت
میں آئے اور کہا
ہمارے سردار کو
دھوکے سے قتل
کیا گیا ہے تو آپ نے
انہیں بتایا کہ اس
نے کیا کیا کام کئے
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰

کس طرح قریش کو مسلمانوں کے جنگ کے لئے اکسایا اور مسلمانوں کو ایذا میں پہنچائیں تو وہ خاموش ہو گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب کا خفیہ طور پر قتل کرنے کی معرفت اس لئے تھا کہ باقی یہودی خواہ مخواہ اس کا ساتھ دیکر تھامے جائیں۔ ملے اور رافع ابن ابی حنیفہ کا نام عبد اللہ بھی دیا ہے اور ابن اسحاق نے اس کا نام سلام دیا ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور بعض کے نزدیک اس کا قلعہ خیبر میں تھا اور بعض کے نزدیک حجاز میں اغلب ہے کہ حجاز میں ہی ہوا اور خیبر سے قریب ہو جس طرح کعب بن اشرف مسلمانوں کے خلاف کفار کا معاون تھا ابھی رافع ابن ابی حنیفہ کی حالت تھی جیسا کہ آگے مراجعت سے مذکور ہے۔ اس کے کعب بن اشرف کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ خندق یعنی غزوہ اجزاب میں یہ مشرکین عرب کو حصہ لینے کیلئے اکسایا اور ساتھ ہی مختصر ہے۔ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رطحا الی ابی رافع فدخل علیہ عبد اللہ بن عتیکہ بیتہ لیلادھونانہ فقتلہ + لکھیاں بہت ہی اختصار سے۔ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رطحا الی ابی رافع فدخل علیہ عبد اللہ بن عتیکہ دجا کا من الا نصار داس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ اس کی سزا کے لئے بھیجا تھا۔ اور انہوں نے جس طرح مناسب سمجھا یا آسان دیکھا اس کام کو کیا، فاتر علیہم عبد اللہ بن عتیکہ دکان ابودافع ذوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یعین علیہ داس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو صرف تکلیف ہی نہیں پہنچاتا تھا بلکہ جنگوں میں آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کو مدد بھی دیتا تھا۔ چنانچہ عروہ کی روایت میں ہے کہ کان من اعان غطفان وغیرہم من مشرکی العرب بالمال الذکری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غطفان و ردوسرے مشرکین عرب کو بہت سے مال سے مدد دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں، دکان فی حصن لہ بارض الحجاز فقلنا لہ و قذرت ہ الشمس راح الناس بسو حہم (اپنے قانونوں کو پکڑ دیا پس لائے تھے)

رقیقہ ص ۹۵

فقال عبد الله
لاصحابه اجلسوا
مکانکم فاول منطلق
ومتلطف للبواب
لعلی ان ادخل
فانقلب حتی دنا

رم- ۱۹۲۳ عن البراء (متکثر- ۱۳۸۱) باب غزوة اُحُد وقول الله
 دیکھو حدیث ۱۳۸۱ بابی غزوة احد اور اللہ تعالیٰ کا فرمان
 تَعَالَى وَاذْعَفَتْ مِنْ اَهْلِكَ ثُبُوءُ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِدًا لِلْقِتَالِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 اور جب تو سویسے اپنے گھروالوں سے جلا مومنوں کو روانی کیلئے موبوں پر بٹھا تا تھا علی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا اور ان پر ان پر ان پر
 وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 اور اللہ جل ذکرہ کا فرمان اور نہ سست ہو اور نہ ٹھگین ہو اور تم ہی غالب رہو گے جب تم مومن ہو

من البَابِ ثم تقنم ثوبه كانه يقضه حاجة وقد دخل الناس فتهتف به البواب يا عبد الله ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني اريد ان اغلق البواب
 دن دخلت رحدیث ۱۳۸۱ میں یہ واقعہ نظر ہر کسی قدر اختلاف کے ساتھ بیان ہوا ہے مگر دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، تکلمت فلما دخل الناس اغلق البواب
 ثم علق الاغاليق رجاياں، علی وند قال فقمت الی لا قائلید فآخذتہا ففتحت البواب وكان ابورافع یسیر عندہ درات کو اس کے پاس کسانیاں بیان
 کی جاتی تھیں، وكان فی علاقۃ لہ (راپنے بالا خانوں میں)، فلما ذهب عنه اهل سمره سعدت الیہ فجلت کلما ففتح بابا اغلقت علی من داخل قلت
 ان القوم نذروا لی لو کرگوں کو میری خبر ہو جائے انذار کے معنی ایسی چیز کا علم دینا ہے جس کا نتیجہ تکلیفیت وہ ہو، لہر یخلصوا الی حتی اقتله فانتهیت
 الیہ فاذا هو فی بیت مظلم وسط علیہ لا ادوی ابن هو من البیت نقلت یا ابارافع قال من ہذا انا ہویت نحو الصوت (صوت سے آواز آئی تھی) ادر
 جھکا، فاضی بہ ضریبۃ بالسیعت وانا دہش (دہشت زدہ تھا، فما اغنیت شیئا یعنی اس سے کچھ کام نہ بنا، کاری ضرب نہ لگی، ووصاح فخرجت من
 البیت فامکث غیر بعید ثم دخلت الیہ فقلت ما ہذا الصوت یا ابارافع رو باں سے غیرت صوتی یعنی میں نے آواز لہری، فقال لا ماک الویل
 ان رجلا فی لبیت ضی بنی قبل بالسیعت قال فاضی بہ ضریبۃ التخننہ ولما قتله ثم وضعت ضیبة السیعت فی بطنہ حتی اخذ فی ظہرہ
 فعرفت انی قتلتہ فجلت افتح البواب باکا باکا حتی انتهیت الی درجۃ لہ (سیڑھیوں پر پہنچا، فوضعت رجلہ وانا ادوی انی قد انتهیت
 الی الارض فوقت فی لیلۃ مقمرۃ فانکسرت ساقی فعضبتہا بعمامة ثم انطلقت حتی جلست علی لباب فقلت لا اخرج اللیلۃ حتی اعلم
 اقتلتہ فلما وصاح الدلیک قام الناصحی علی السور فقال النبی ابارافع تاجر اهل الحجاز فانا نطلقت الی اصحابی فقلت لہما فقد قتل اللہ ابارافع
 فانتهیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ (انگلی عبارت میں زیادہ ہے، فقال ابطر رجلک فیسطت رجلی فسمہا ذکا تھا لہ
 اشتکھا قط۔ روکیھو نوٹ ص ۶۸۱)

(صفحہ ہذا) علی ۱۳۸۱ اور ۱۹۲۲ دونوں سے کچھ تخفیف سا اختلاف ہے، بدت رسول اللہ صلعم الی ابی رافع عبد اللہ بن عتیک و عبد اللہ بن عتبۃ فی
 ناس مہمہم فانطلقوا حتی دنا من الحصن فقال لہم عبد اللہ بن عتیک امکنوا استتم حتی انطلق انا فانظر قال فتلطفت ان ادخل
 الحصن ففقدوا اصحابا لہم قال فخرجوا یقبس روہنی تیر تیر کیلئے کیونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، یطلبونہ قال فخشیت ان اعرفت قال فظفیت راسی کا ہاتھ
 حاجۃ ثم نادی صاحب البواب من اراد ان یدخل فلیدخل قبل ان اغلقہ فدخلت ثم اختبأت فی مریطحاً عند باب الحصن فقتنوا
 رکھا لٹھکا یا، عند ابی رافع وحمد ثواحی ذہبت ساعة من اللیل ثم رجوا الی بیوتہم فلما ہذا الاصوات ولا اسمہم حركت فخرجت قال ورايت
 صاحب البواب حیث وضع مفتاح الحصن فی کوة (طاحی) فاخذتہ ففتحت بہ باب الحصن قال قلت ان نذر لی لقیوم انطلقت علی امہل ثم
 عمدت الی ابواب بیوتہم فخلقتہا علیہم من ظاہیرا ہر کسی طرف سے، ثم سعدت الی ابی رافع فی حلیم فاذا البیت مظلم قد طغی سویحہ
 فلما درایں الرجل فقلت یا ابارافع قال من ہذا انا قال فعمدت لحو الصوت فاضی بہ وصاح فلم تنعن شیئا قال ثم جئت کانی اغنیتہ فقلت
 ما لک یا ابارافع وغیرت صوتی فقال الا امجربک لا ماک الویل دخل علی رجل فاضی بنی بالسیعت قال فعمدت لہ ایضا فاضی بہ احوی فلم تنعن
 شیئا علی ۱۳۸۱ اور ۱۹۲۲ دونوں میں ہے کہ پہلی ضرب کاری نہ لگی تھی دوسری کاری لگی۔ یہاں ذکر ہے کہ پہلی دونوں ضربیں کاری نہ لگیں، فصاح وقام
 اہلہ قال ثم جئت وغیرت صوتی لہیثۃ المغنیت (مد کو آئے والا) فاذا هو مستلق علی ظہرہ فاضع السیعت فی بطنہ ثم انکف علیہ حتی سمعت
 صوت الذظم ثم خرجت دہشا حتی اتیت السلم ارید ان انزل فاسقط عنہ فاخلفت رجلی فعضبتہا ثم اتیت اصحابی امجل رجلمان اس
 کا چلبے بچک پاؤں مانڈہ دیا گیا ہو جیسے ونٹ کا تین ٹانگوں پر یا رگے کا ایک ٹانگ پر، فقلت انطلقوا فنبیہ وارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجاياں
 انہیں پیلے بیچ دینے کا ذکر ہے۔ ۱۳۸۱ اور ۱۹۲۲ دونوں میں یہ ذکر نہیں، فانی لا ابرح حتی اسمع الناعیۃ فلما کان فی وجہ الصبح سعد
 الناعیۃ فقال لفظ ابارافع قال فقمت امشی ما بی قلبہ راہنطراب تھا، فادرکت اصحابی قبل ان یا قوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنبیہ تہ
 علی امجل ایک پہاڑ ہے جو یرب سے تین میل کے فاصلہ پر شمال کی طرف سے۔ اور اسے احد اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہے یعنی دوسرے پہاڑوں سے
 الگ ہے۔ احد کی لڑائی شمال سنہ ہجری میں ہوئی یعنی یرب سے قریباً ایک سال بعد ہر کی جنگ رمضان سنہ ہجری میں ہوئی تھی اس جنگ میں قریش کا
 لشکر تین ہزار تھا جن میں دو سو مورخہ خالد بن ولید کے ماتحت تھے کفار کے سر لشکر ابو سفیان تھے۔ اور مسلمان صرف سات سو تھے اور ان میں صرف دو گھوڑے تھے

أَرَيْسَ سَكْرَةً فَفَرِحَ فَقَدْ مَشَى الْقَوْمَ فَرِحَ مِثْلَهُ وَتَلَّكَ الْأَتَامَ نَدَا أَوْلَهَا بَابِ الْكُرْسِ

اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً اسی طرح کا زخم لوگوں کو بھی پہنچا ہے ۱۷ اور ان دنوں کو ہم لوگوں میں قوت بہ قوت لاتے ہیں

وَلِيَعْلَمَهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْذَ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

اور تاکہ اللہ ان کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے شہید بنائے اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا

وَلِيَحْضُرَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو صاف کرے جو ایمان لائے اور کافروں کو گھٹائے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ

اور ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جو جہاد کرتے ہیں اور نہ جسے کھڑکھولوں کو الگ کیا اور یقیناً تم جنگ جاپتے

تَكُونُونَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

تھے قبل اس کے کہ اسے ملو صواب کرنے لے دیکھو یا اور تم آنکھوں کے دیکھو ہے ہوز آل عمران - ۱۳۸ تا ۱۴۲

قَوْلِهِمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ وَإِذْ كَفَرْتُمْ

اللہ کا فرمانا اور اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ تم سے پکا رکھا تھا جب تم اس کے اذن سے ان کو کاٹ لیتے تھے یہاں تک کہ تم پھل گئے

وَتَنَازَعْتُمْ فِيهَا كَافِرِينَ وَكُفِرْتُمْ عَنْهَا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ كَافِرُونَ

اور تم نے متعلق جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جو تم پسند کرتے تھے تم کو دکھا دیا تھا تم میں سے کہ وہ تھے جو دنیا

الذَّيْنِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ وَاللَّيْمِ

چاہتے تھے اور تم میں وہ تھے جو آخرت جانتے تھے ۱۷ پھر تم کو ان سے ہٹا دیا تاکہ تماری اس حالت کو ظاہر کرے اور یقیناً

عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُكَ

اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ بڑے فضل والا ہے ذال عمران - ۱۵۱ اور ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا جو اللہ کی راہ میں قتل

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا الْأَيَّاتِ (۵-۱۹۲۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر - ۱۷۵۹)

کئے گئے آخرت تک ذال عمران - ۱۶۸ دیکھو حدیث ۱۷۵۹

(بقیہ صفحہ ۹۵۸)
مصلح سورہ آل عمران
کی ساتھ آیتیں جنگ
احد کے متعلق نازل
ہوئی ہیں جن میں سے
سب سے پہلی یہ آیت
ہے۔ یہ ثابت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ
سے نماز جمعہ کے
بعد چلے اور جنگ
احد ہفتہ کے دن
ہوئی۔ اور یہاں جو
سورے لکھنے کا ذکر
ہے تو وہ ہفتہ کا
ہی دن ہے جب
آپ نے اپنے آدمیوں
کو مورچوں پر ٹھہرایا
گو یا با وجود اس
کے کہ آپ نے
پچھن سال کی عمر
تک کوئی جنگ
نہیں کیا مگر فطری
ذہانت استدر بشند
تھی کہ ایک نیت کار

جوں کی طرح خود ہی مورچے تجویز فرمائے چنانچہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ پہاڑ پشت پر ہے حالانکہ قریش کا لشکر پہلے سے اس میدان میں ڈیرے ڈال چکا تھا۔ اور پھر آپ نے ایک مورچہ پر چپاس تیرا تیرا بٹھائے جو اگر وہاں قائم رہتے تو کفار بہت سا مال غنیمت چھوڑ کر میدان سے بھاگتے۔ اہلک سے مراد یہاں حضرت عائشہ ہیں جن کا جنگ احد میں موجود ہونا آگے حضرت انس کی روایت سے ثابت ہے۔

(صفحہ ۱۷۱) ۱۷ جنگ احد میں قریش پہلے شکست کھا کر بھاگے جس مورچہ پر چپاس تیرا تیرا اذوں کو متعین کیا گیا تھا وہ خلافت حکم مورچہ کو چھوڑ کر تعاقب میں لگ گئے۔ تو

خالد بن ولید نے اس مورچہ کو خالی دیکھ کر عقب کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اور یوں سلمان زینے میں آگئے مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوزا ندیشی کی وجہ سے انہیں پہاڑ

کی پناہ مل گئی تو یہاں اس مصیبت کے متعلق تسلی دی ہے کہ اگر تمہارے کچھ آدمی مارے گئے تو کیا کفار کے آدمی اسی طرح پہلے نہیں مارے گئے یعنی بدر میں اور دوسری

جگہ ہے قدا صبتہ منہا لہا تم نے انہیں اس سے دو چند تکلیف پہنچائی اس لئے کہ احد میں سلمان صرف ستر شہید ہوئے رحیب کہ ۳۱۷ میں مذکور ہے۔ اور آگے م ۱۹۲۶ میں بھی) مگر بدر میں ستر قریش مارے گئے اور ستر قبیلہ ہوئے۔ اور انتم الاعلون میں یہ صاف خبر دی کہ آخری غلبہ مسلمانوں

کے لئے ہے گو درمیان میں کچھ تکلیف بھی پہنچ جائے ۱۷ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پکا کر دکھایا کہ سات سو آدمی نے تین ہزار کو میدان جنگ سے بھاگنا

دیا۔ مگر تم پھسل گئے یہی کچھ تیرا تیرا اذوں کے دل میں مال دنیا کی محبت غالب آگئی۔ اور انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن جبریر کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اور نافرمانی کی یعنی مورچہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں سب انہی کا ذکر ہے۔ دنیا چاہنے سے مطلب یہی ہے کہ مال غنیمت کا خیال ان کے دل میں تھا جس سے

معلوم ہوا کہ صحابہ کے دل مال غنیمت کے خیال سے پاک تھے۔ اور جہاں چند آدمیوں کے دل میں یہ خیال آیا وہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ۱۷ ۱۷۵۹ مکرر روایت کے لفظ باہل دی ہیں سوائے اس کے کہ یوم بدر کی جگہ یہاں یوم احد یعنی وہاں سے کہ بدر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسہ مایاکہ یہ جبریل ہے جو اپنے گھوڑے کا سر تھلے ہونے ہے۔ اور یہاں ہے کہ یہی لفظ احد کے دن فرمائے۔ کہا گیا ہے کہ کسی راوی کی غلطی ہے مگر مالک کا نزلہ بدر اور احد دونوں جگہوں میں قرآن کریم میں بالقرینہ مذکور ہو چکا جواب میں بھی۔ اسلئے اگر دونوں جگہوں میں یہ فرمایا ہوتا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے

(م- ۱۹۲۵) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَتَكْرُماً (۱۳۷) (م- ۱۹۲۶) عَنِ الْبَرَاءِ

دیکھو حدیث ۱۳۷

(م- ۱۳۸) (م- ۱۹۲۷) عَنْ جَدْرِ (م- ۱۳۹) (م- ۱۹۲۸) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۳۸

ابراہیم (م- ۲۶۸) (۶۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَقِي

سَمْرَاتٍ فِي يَدِي ثُمَّ قَالَ حَتَّى قُتِلَ (م- ۱۹۲۹) عَنْ خَبَّابٍ (م- ۶۸۵)

(م- ۱۹۳۰) عَنْ آسِ (م- ۱۲۹۱) (م- ۱۹۳۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

(م- ۱۲۹۲) (م- ۱۹۳۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (م- ۱۸) بَابُ

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَقْسِلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّكُمْ وَاللَّهُ فَلَيتُوا كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ

بَابُ

جَبْتُمْ مِنْ سِوَاكُمْ هُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ كَمَا نَسَى نَجْدٌ الْيَوْمَ النَّاسَ عَنِ آلِهِمْ وَإِنَّ أَلْبَنَاءَ

الْمَدِينَةِ لَفِي ثَمَرَاتٍ ذُنُوبُهُمْ عَظِيمَةٌ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

بَابُ

علا خفیف سی
کئی بیتی کے ساتھ
حدیث کو دوہرایا
سے جملہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم علی قتلی
احد رسالت میں
تصریح ہے صلوات
علی العیت بعینہ
نماز جنازہ تھی
بعد ثنائی سنین
کا نمودار لاجیہ
والا اموات رسیے
کوئی زندوں اور
مردوں کو رخصت
کر رہا ہو یہ واقعہ
آپ کی وفات
کے بست قریب
ہے ہتم طلح

المنبر فقال ان بين ايديكم فرطوا فاعلمكم شهيد وان هو عدكم المحض وان لا نظر اليه من مقامى هذا وانى لست اخشى عليكم ان
تنتهي كوا وكنتى اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها راكبه لفظ من ليس قال فكانت اخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا مياں آیت مختصر ہو۔ قال لقينا المشركين يومئذ واجلس انبي صلعم جليفا من الرماة واقتر عليهم عبدا لله وقال لا تبرحوا ان رايتونا نظرونا عليهم فلا تبرحوا وان رايتهم
ظهور واعلنا فلتقوننا فلما لقبنا حروا حتى رايت النساء يشتمون من الجبل رضع عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فاخذوا يقولون الغنبة الغنبة قال عبد
عهد الى النبي صلعم ان لا تبرحوا فابوا فلما اواصرت وجوههم فاصيب سبعون قتيلًا واشمرت ابوسفين فقال في القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال انى القوم ابن ابى
قحانة قال لا تجيبوه فقال فى القوم ابن الخطاب فقال ان هؤلا قتلوا قتلوا اولا حيا ولا جابوا اقل عمر نفسه فقال كذبت يا عبد الله اقل الله عليك ما يخزيك
قال ابوسفين اعل هبل فقال لى صلعم اجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا لله على واجل قال ابوسفين لنا العزى لا عزى لكم فقال لى صلعم اجيبوا قالوا ما نقول
قال قولوا لله مولانا ولا مولى لكه قال ابوسفين يوم بيوم بدر والحرب م على لفظ همى من فقيل لسفياى من آخرتك فقره نبيس۔ جنگ میں شراب نصو صيت
پي جاتی ہے اسلئے احد کے جنگ میں بعض مسلمانوں نے بھی شراب پی کرمت بدير پئی ہلکے لفظ م۷۸۵ کے میں ہلکے لفظ قریباً وہی ہیں۔ فلم نخد ما تكفنه به الا بركة
كى جگہ سے ليدترك الانعرة۔ نمرہ دھاری وارسل ہے ہلکے لفظ کو خفیت اختلاف لفظی سے قال اش كنانى او نظن ان هذا الاية
سے پہلے پہلے دوہرایا ہے اس میں بھی دو جملے چھوڑ دیئے ہیں قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع انس۔ اور قد مثل به المشركون
لک خفیت اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے مگر ان الفاظ کو چھوڑ دیا ہے الذى رخصت بن ثابت الان نصارى جعل رسول الله صلعم
شها دته هها دة رحلين اور آخر پڑھایا ہے فالحقنا هانى سورتها فى المصحف۔ ۱۹۱۷ کے آخر میں ذکر ہے کہ یہ آیت من المؤمنین
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انس بن النضر اور اس جیسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے احد میں اپنے آپ کو قتل ہونے کیلئے دشمن
کے لشکر کے اندر ڈال دیا۔ تو م۔ ۱۹۳۰ میں چونکہ اس آیت کی تخریج بن ثابت انصاری کے پاس تحریر میں پائے جانے کا ذکر ہے اس بنا سبب سے
اسے غزوہ احد کے ذکر میں لائے ہیں ہلکے خفیت سا اختلاف ہے۔ قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجح ناس ممن خرج
معه ر عبد الله بن ابى تين سوما فقتين کے ساتھ واپس آگیا، وكان اصحاب النبي صلعم فرتين فرقة تقول نقاتهم وفرقة تقول لا نقاتهم
فانزلت فدا كرفى لمان فقتين ففتين والله ار كسهم بما كسبوا وقال انها طيبة ريعن مدينة كانا م طيبه يا كسيه ر ہے تنفع الذنوب
کما تنفع النار خبث القصة ر مياں گناہوں کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ وہاں رجال یعنی بعض آ و ميوں یا دجال کو دور پھینکنے کا ذکر
ہے۔ اور تفسیر میں تنفع الخبث آتا ہے تو گناہوں یا پلیدی کے دور کرنے سے بھی مراد گناہوں کو یا پلیدی آؤ میوں کا دور کرنا ہو سکتا ہے ہ

۱۹۳۱	عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَبَيْنَا أَذْهَبُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ مَرْثَدَةَ إِذْ نَفَسْنَا ابْنَ سَلَمَةَ	جابر سے روایت ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سے اتری اور جب ہمیں سے دوڑ پوٹھا جا کر وہ بہت بار رہیں (یعنی بنی سلمہ)
۱۹۳۲	وَبِنِي حَارِثَةَ وَمَا أَحَبُّ أَنَّهُمْ لَمْ تَنْزِيلُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ وَلِيَهُمَا (م- ۱۹۳۲) عَنْ	اور بنی حارثہ کے ہاں سے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ آیت نہ اتری کیونکہ اسٹرا فرمایا ہے کہ اسٹران کا ولی (ردو گار) ہے علی
۱۹۳۳	عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۳۳) (م- ۱۰۵۹) (م- ۱۰۶۸)	دیکھو حدیث ۱۰۶۵ علی دیکھو حدیث ۱۰۵۹ علی
۱۹۳۴	عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَسْتَعِينُ بِنِي حَارِثَةَ وَمَا أَحَبُّ أَنَّهُمْ لَمْ تَنْزِيلُ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ وَلِيَهُمَا (م- ۱۹۳۴) عَنْ	سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہار کے دن دیکھا اور آپ کے ساتھ
۱۹۳۵	عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (م- ۱۹۳۵) (م- ۱۹۳۵) (م- ۱۹۳۵)	دیکھو حدیث ۱۹۳۵ علی دیکھو حدیث ۱۹۳۵ علی
۱۹۳۶	عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (م- ۱۹۳۶) (م- ۱۹۳۶) (م- ۱۹۳۶)	دیکھو حدیث ۱۹۳۶ علی دیکھو حدیث ۱۹۳۶ علی
۱۹۳۷	عَنْ أَبِي عَمْرٍو (م- ۱۹۳۷) (م- ۱۹۳۷) (م- ۱۹۳۷)	دیکھو حدیث ۱۹۳۷ علی دیکھو حدیث ۱۹۳۷ علی
۱۹۳۸	عَنْ أَبِي عَمْرٍو (م- ۱۹۳۸) (م- ۱۹۳۸) (م- ۱۹۳۸)	دیکھو حدیث ۱۹۳۸ علی دیکھو حدیث ۱۹۳۸ علی

۱۹۳۱ علی یہ آیت بھی جنگ
۱۹۳۲ احمد کے ذکر میں ہے
۱۹۳۳ علی میں ہے
۱۹۳۴ کا درمیان میں ہے
۱۹۳۵ اختلاف لفظی سے
۱۹۳۶ دوسرا ہے۔ یہ قال
۱۹۳۷ رسول اللہ صلی اللہ
۱۹۳۸ نکلتا یا جابر قلت
۱۹۳۹ نعم قال فاذا ابكوا
۱۹۴۰ ام ثبنا قلت لا بل
۱۹۴۱ ثبنا قال فما
۱۹۴۲ جاریہ تلاعبك
۱۹۴۳ قلت يا رسول الله
۱۹۴۴ ان ابني قتل يوم
۱۹۴۵ احد وترك تسع
۱۹۴۶ بنات كن لي تسع
۱۹۴۷ اخوات فكروها
۱۹۴۸ ان اجمع اليهن

جاریہ عرفاء (نادان بہ حق جہل کو کہتے ہیں اور عرفاء اخوف کی تہنیت ہے، مثلہن ولكن امرأة متشہن وتقوم علیہن قال اصبت۔ اس حدیث کے اخیر ہے کہ جب جابر نے کہا کہ اپنی بہنوں کی خاطر کہ کوئی عیوب انہیں نہت حالت میں لکھے والی اور انکی تربیت کر نیوالی ہو میں نے بوجہ عورتوں سے شادی کی تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو عموماً بیوہ عورتوں سے شادی کرنا کسی خاص مصلحت پر مبنی تھا۔ ورنہ اگر اپنے آپ کو خوش کرنے کیلئے یہ شادیاں کرتے تو بیوہ عورتوں سے نہ کرتے، بلکہ یہاں کچھ تفصیلات زیادہ ہیں۔ ان ابنا کہ استشهد یوم احد وترك علیہ بنات وتترك ست بنات راچی اور کبریٰ سے روایت میں گذر چکا ہے کہ ترک تسع بنات یعنی نو بیٹیاں چھوڑیں، فلما حضر جزاء الغل رکھو میں کانٹے یا دختروں سے اتانے کا وقت، قال ائت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد علمت ان والدی قد استشهد یوم احد وترك دنیا کثیرا والی احب ان یراک الغرما فقال ذہب فبئذ۔ ایک جگہ جمع کر لو کہ کل مرتلی ناجیۃ ففعلتہ دعوتہ فلما نظر الیہ کاظم اعظم ابی ربیعہ نے ہوئے، تلك الساعة فلما دای ما یصنعون اطاعت حول اعظمتها میں ذرا سب بڑے ڈھیر کے گرد، ذلك مرات ثم جلس علیہ ثم قال دخلک اصحابک یعنی فرض کیا ہوں کہ تم ذوال یکیل لہم حتی ادلی اللہ عن والدی اما تہ وانا رضی ان یردلی لہا ما تدر والدی ولا ارجع الی اخواتی بقرة فسلم اللہ المنا و رکبھا حتی ائی انظر الی اللیدن الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لہم تقصیر تہم و احدیۃ، علیہ وسلم میں ہے کہ وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ یہ ایک شفی نظارہ تھا۔ ویسے اہمیں تین ہزار ملکہ کے نزل کا ذکر ہے۔ مگر یہاں کہ حدیث ۱۹۳۵ کے نوٹ میں بیان ہو چکا کہ فرشتوں نے امیرین کی طرح جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں حدیث میں دفعہ دہرائی ہے مطلب سب ایک ہے ۱۹۳۴ میں پریشانی لاینبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتانہ اپنے ترکش میں سے تیرے نکال کر میرے سامنے رکھ دینے، فقال ارم ذلک ابی ائی رکما تیر علی و تم پر میرے باپ اور ماں قربان ہوں، م ۱۹۳۵ کے لفظ ۱۹۳۵ کے میں جمع لاینبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد م ۱۹۳۶ میں ۱۹۳۶ کو دہرا کر راوی نے بڑھایا ہے یہ یوحین قال ذلک ابی و ائی دھویقا مثل یعنی ماں باپ کو جمع کرنے سے مراد یہ فقرہ تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، علیہما لفظ میں ہیں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ لاحد غیر سعد، بلکہ شتہ جلتے لفظ میں ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابوہ لاحد الاحد السعد بن خالد فانی سمعته یقول یوم احد یا سعد ارم ذلک ابی و ائی، علیہ لفظ تقریباً ایک ہی ہیں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ جنگ میں کئی وقت دروازہ جنگ امدادی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف طلحہ اور سعورہ تھے، مسلمانوں نے باغیہ سے زیادہ تفصیل سے حدیث بیان کی ہے جس کے مراد ہی اس بن ملک ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اہم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات انفجاری اور دو شخص قریش میں سے رہ گئے تھے یہ دونوں طلحہ اور سعورہ تھے تو اس حالت میں انکار کا حملہ آپ پر ہوا۔ اور ساتوں انفجاری کے بعد دیگرے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور صرف دو رہ گئے۔ اسی حملہ میں حضرت طلحہ کا ہاتھ بھی شہید ہوا معلوم ہوتا ہے اس وقت تک دوسرے اصحاب بھی آچینے۔ یہ حالت اس وقت ہوئی جب خالد بن ولید نے دوسو سواروں کے ساتھ مسلمان فوج کے عقب کی طرف سے حملہ کیا اور سامنے سے تین ہزار کانکر بھی ٹوٹ پڑا۔ اس حالت میں مسلمانوں کا لشکر پراگندہ حالت میں ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ہی چند آدمی رہ گئے۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب صحابہ بھاگ گئے تھے بلکہ وہ منتشر طور پر دشمن کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب ابتدائی حملہ میں مسلمانوں نے قریش کے لشکر کو بھگا دیا۔

۱۹۴۵-۱۹۴۶) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَزَابٍ (متکم - ۱۳۸۴) ر (۱۲) بَابٌ مِنْ بَابِ نَزْلِ الْوَحْيِ

دیکھو حدیث ۱۳۸۴ بَابٌ پھر غم کے بعد تم پر ان
مَنْ بَعْدَ النِّعَمِ أَمْنَةٌ لِعَاسًا لِيُغْنِيَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

نازل کیا (یعنی) اونگھ جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانک لیا اور ایک گروہ کو اپنے آپ پر فکر مند رکھا تھا
يُظَنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ

وہ اللہ پر ناحق بدگمانی جاہلیت کی سی بدگمانی کرتے ہیں کہتے ہیں کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ

اختیار تو سب اللہ کا ہی ہے وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو تم پر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہمارا بھی اختیار
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ لَكَبُرُ الْأَرْضُ مِنْ نَوْبِكُمْ

ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کیلئے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا
عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا

وہ ضرور اپنے لینے کے موقعوں کی طرف مائل آتے اور تاکہ اللہ سے ظاہر کرے جو تمہارے سینوں میں ہے اور اسے خاص کر مشہور
فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۱۷۷۹) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ

تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے (آل عمران - ۱۵۳) اور بطور سے روایت سے کہا
كُنْتُ فِي مَيْمَنَةِ النَّعَّاسِ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى اسْقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مَا ارْتَابَتْهُ وَأَخَذَهُ

میں ان میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگھ آگئی یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے کسی مرتبہ گر پڑی وہ گرتی نہیں اسے پکڑنا پھر وہ گرتی
يَسْقُطُ فَأَخَذَهُ (۱۲) بَابٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ

تو میں اسے پکڑتا ہوں بَابٌ تیرا کچھ اختیار نہیں ہے اللہ یا ان پر رجوع برحمت کرے گا یا انکو عذاب دے گا کیونکہ وہ
ظَالِمُونَ قَالَ حميد بن محمد عن أنس بن شبيب رضي الله عنه وسلم يوم أُحُدٍ

ظالم کہنے والے ہیں حمید اور انس نے کہا بنی ہاشمی اللہ علیہ وسلم کے سر میں احد کے دن زخم آیا تھا
فَقَالَ كَيْفَ يُعْفَى تَوْمَ شَجْبِ أَنْبِيَهُمْ فَتَرَكْتُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (۱۷۸۰)

تو فرمایا کیونکہ کسی قوم فلاح پانے لگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا تو یہ آیت اتری تیرا کچھ اختیار نہیں ہے
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعْنَا سَهْمًا مِنَ الرُّبُوعِ

ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب اپنا سهم کی آخری رکعت کے کعب
مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْعَمْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا

سے اٹھاتے تو فرماتے یا اللہ فُلَانٌ اور فُلَانٌ اور فُلَانٌ پر لعنت کر

علا مکر روایت
بیت مختصر ہے
قال جعل النبي
صلوات الله عليه وسلم
على الرجال اليوم
احمد بن محمد بن
جهدوا قبلوا
منهزمين فذل
اذ يدعونهم الرسول
في اخراهم
علا مکر روایت
خس کے قطعہ ۱۸۲
کے میں آخر پر لفظ
آتے ہیں۔ ولقد
وقع السعيت من
عليه ابي طلحة اميا
مرتين واما ثلثا
اور یہاں یہ ذکر ہے
کہ میں ان میں سے
تھا نہیں اونگھ
آگئی۔ اور آیت
قرآنی میں یہ جو
باب میں ہے یہ ذکر
کے کہ ایک گروہ کو
اونگھ آگئی اور ایک
دوسرا گروہ اس وقت
اللہ تعالیٰ پر بدگمانی
کر کے ہاتھ بٹا رہا
تھا۔ اونگھ میدان
جنگ میں مسلمانوں
کو یہ آئی اور یہ
اس وقت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے جب دشمن میدان جنگ کو چھپر کر چلا گیا۔ تو مسلمانوں کو اس قدر اطمینان ہوا کہ ان پر اونگھ آگئی اور یہاں سے مراد یہاں تک مسلمانوں کی حالت ہے کیونکہ جیسا کہ راغب نے لکھا ہے نفاس سے مراد سکون بھی ہوتا ہے ۱۷۷۹ یقین مسلم میں انس کی روایت سے مذکور ہے اور ترمذی اور نسائی میں بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء کا نزول اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے اور حدیث باب میں ہے کہ فوجی نماز میں قنوت میں رکوع کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے متعلق بددعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور اگلی حدیث میں دو نام بھی دیئے ہیں یعنی صفوان اور سبیل اور حادث اور کتاب التفسیر میں بخاری نے ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نماز فجر میں جو اپنے بددعا کی تو وہ مرتبے بعض قبیلوں کے متعلق تھی کا لکھا من العرب اس سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول واقعہ بئر معونہ کے متعلق ہے جہاں نبی کریم صدم کے ستر قاری دھوکہ بازی سے شہید کر دیئے گئے جنگ امد اور بئر معونہ کا واقعہ قریب قریب زمانے کے ہیں۔ اور ہوسکتا ہے کہ انس والی حدیث میں فنزلت سے مراد یہ ہو کہ بعد میں کسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا نزول واقعہ بئر معونہ سے ہی تعلق رکھتا ہو ۱۷۷۹

۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰

بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَكْبَرِ
 ۱۹۷۴ (م-۱۹۷۴) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَمْتَكُرٍ -
 ۱۲۸۰ (۲۳۳) بَابُ ذِكْرِ امِّ سَلَيْطٍ (م-۱۹۷۴) عَنْ ثَعْلَبَةَ رَمْتَكُرٍ (۱۳۲۶)
 ۲۳۴) بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۲۸۱) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَهْرٍ وَبْنِ أُمِيَّةَ
 الصَّهْمَرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حَمْصَ
 قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِي نَسَاءٌ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ لَمْ وَكَانَ
 وَحْشِي لَيْسَ لِي حَمْصٌ نَسَاءٌ لَنَا عَنْهُ فُقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرٍ كَأَنَّ سَمِيَّةَ
 قَالَ فَنَجَلْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهَا بِسَيْدٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ فَمَعْبُورٌ
 بَعْدَ امِّيَّةَ مَا يَرَى وَحْشِي الْأَعْيُنِيَّةِ وَرَجُلِيَّةِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ يَا وَحْشِي
 الْأَعْرَفِيُّ قَالَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلَّا آتَيْتُ أَعْلَمَ أَنَّ عَدِيَّ ابْنَ
 الْخِيارِ نَزَّوَجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا امُّ فَتَالِ بِنْتُ أَبِي لَعِيصٍ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا
 بِمَكَّةَ فَلَمَّتْ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلَتْ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ امْرَأَةٍ فَتَأَوَّضَتْهَا رِيَاءَهُ
 فَلَمَّا كَانِي نَظَرْتُ إِلِي قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَكَا
 خَيْرِنَا يَقْتُلُ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طَعِيمَةَ بِنْتُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيارِ بَيْدًا
 حضرت حمزہ کے قتل کا قصہ نہیں سنا تے کہا ہاں حمزہ نے طعیہ بن عدی بن خیبار کو بدر میں قتل کر دیا تھا

یہ سب اللہ نے حمد رہنا تک الحمد کے بعد فرماتے
 تو اللہ نے انا کا کہ تیسرا کچھ اختیار نہیں ہے
 اللہ کے قول کا ہم ظالموں تک
 ام سلیط کا ذکر ملتا
 دیکھو حدیث ۱۳۲۶
 حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل ملتا
 جعفر بن عمرو بن امیر منبری سے روایت ہے
 کہا میں عبید اللہ بن عدی
 بن خیبار کے ساتھ نکلا
 جب ہم حمص پہنچے
 تو عبید اللہ نے مجھ سے کہا
 کیا تم چاہتے ہو کہ وحشی سے ملو تاکہ اس شخصیت حمزہ کے قتل کے متعلق پوچھیں میں نے کہا ہاں اور وحشی
 ہم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو کسی نے کہا وہ تو یہ ہے اپنے مکان کے سایہ میں بیٹھا ہے گو یہ وہ ہے
 شک ہے کہ کیا تو ہم آئے اور تھوڑی دیر اس کے پاس ٹھہرے تب ہم نے السلام علیکم کہا اور اس نے سلام کا جواب یا کہا اور عبید اللہ نے اپنا نام
 سر پر بیٹھا ہوا تھا ملا وحشی کو سوائے ان کی آنکھوں اور ہاتھوں کے کچھ نہ دیکھا تھا عبید اللہ نے کہا وحشی تم مجھ کو
 کہا تو وحشی نے ان کی طرف دیکھا پھر کہا نہیں اللہ کی قسم تمہیں اپنا جانا ہوں
 کعدی بن خیبار نے
 ایک عورت سے نکاح کیا تھا
 جس کا نام ام قتال تھا
 اور اعلیٰ کی بیوی
 وہ مکہ میں ایک لڑکا پیدا کرتی
 اور وہ اس کے لئے دو دو پلا نیوالی ڈھونڈ رہا تھا میں نے اس لڑکے کو اس کی ماں کے ساتھ سوار کیا تھا پھر میں نے وہ لڑکا اس عورت
 یعنی بنی ان کو لڑکا دیا اور سوئی گویا کہ میں نے تمہارے پاؤں کو دیکھا تھا کہ تمہارے اپنے چہرہ کھولنا یا پھر کہا
 کیا تم

طرف سے لڑے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ فضلاء صحابہ میں سے تھے اور طاعون عمرو اس میں فوت ہوئے۔ ام سلیطہ حضرت ابو سعید خدری کی والدہ
 ہیں پہلے ابو سلیطہ کے گھر میں تھیں انکی وفات کے بعد جو بھرت سے پہلے ہوئی تاکہ ابن سان خدری سے نکاح کیا گیا۔ عیسیٰ لفظ تفرق خنیط چھوڑ دینے ہیں۔
 حضرت حمزہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے چھپتے طبرانی کی حدیث میں ذکر رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کہا انکی لاش کا مشکار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کی لاش
 کو اس حالت میں کھیا تو بہت ہی رنج ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل جیبیا کہ حدیث باب میں ہے وحشی ابن حرب تھا جو جہیر بن مطعم کا آزاد کہ وہ حبشی غلام تھا اور اس نے
 حضرت حمزہ کے قتل سے ہی آزادی حاصل کی تھی۔ یہ حدیث صحیحین بڑی مشکوک ہے اور اکثر اوقات اس حال میں جب وہ بھری ہوئی ہو تو طلب یہ ہو کہ کال او
 موٹا تھا۔ ملا صحیح۔ اعتبار شمار کا سر پر اس طرح لپیٹنا ہو کہ اس کا کچھ چھو نہ چھو کہ وہاں تک کہ دو نوں اوقات کے درمیان پچاس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مگر
 صح قیاذ کہ کس قدر کمال تھا کہ ایک شیر خوار بچے کے پاؤں کو دیکھ کر پچاس سال کے بعد پھر پاؤں کو ہی دیکھ کر اسے شناخت کر لیا۔

فَقَالَ لِي مُوَلَايَ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اِنْ قَتَلْتُ حَمْرَةَ بَعِيٍّ فَاَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَئِمَّا

تو میرے آقا جبر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تو نے میرے چچا کے بدلے حمزہ کو قتل کر دیا تو آزاد ہے۔ کما جب

اَنْ حَوْرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنِينَ وَعَيْنِينَ جَبَلٌ بِحِجَالِ اُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَارَادَ

لوگ عینین کے سال نکلے۔ اور عینین اہد کے مقابلہ میں ایک پہاڑ ہے۔ جملہ اس کے اور اسکے درمیان ایک داوی

خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ اِلَى لِقْتَالِ فَلَمَّا اصْطَفُوْا الْقِتَالَ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ

ہے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لئے نکلا۔ جب انہوں نے لڑنے کیلئے مصفیوں یا ندھیں تو سباع نکلا۔ سباع اور بھکارا کہا

مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فخر جبر اليه حمزة بن عبدالمطلب فقال يا سباع يا ابن

کوئی لڑیو لاہے؟ تو حمزہ بن عبدالمطلب اس کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ اور کہنے لگے اے سباع

اَمْ اَنْتَ اَمْ تَقْطَعَةُ البُطْرِ اَمْ اَنْتَ اَمْ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ام انہار عورتوں کے فتنے کی بیویاں کے بیٹے سباع کہا تو اٹھا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے۔ کہا

ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسَلٍ لَدَا هَيْبٍ قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْرَةَ فَمَنْتُ لِحَمْرَةَ فَلَمَّا دَنَا

پھر حمزہ نے اس پر حملہ کیا تو وہ اس طرح (مٹ) گیا جیسے گذرا ہوا اکل رکاوٹ (دھڑی) کی نما اور میں پتھر کی آڑ لیکر حمزہ کے ہاتھ کیلئے چھپ گیا

مِثِّي رَمَيْتُهُ بِحُرِّ بَيْتِي فَاَضْعَمَهَا فِي ثَدَّتِي حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكْبَتِي قَالَ فَكَانَ

جب وہ مجھ سے قریب پہنچے تو میں نے ان پر اپنے برچھے کا وار کیا اور برچھے کو اٹکے نیزناٹ مارا یہاں تک کہ ان کے دونوں سرین سے نکل گیا یہی

ذَاكَ الْعَهْدُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَاَقَمْتُ بِبَكَّةَ حَتَّى نَشَأَ فِيهَا

ان کا دمر (کا) وقت تھا جب لوگ لوٹ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا اور مکہ میں رہا یہاں تک کہ مکہ میں اسلام

اَلْاِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الطَّائِفِ فَاَرْسَلُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پہیل گیا پھر میں طائف کو گیا طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بھیجی

رَسُوْلَهُ فَيَقْبِلُ لِي اِنَّهُ لَا يَهْجُرُ الرُّسُلَ قَالَ فخر جرت معهم حتى قد امت على

مجھ سے کہا گیا کہ آنحضرت انہیوں کو کچھ نہیں کہتے کہا میں بھی ان کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتَنِي قَالَ اَنْتَ وَحَشِيٌّ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ

وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا تو ہی وحشی ہے میں نے عرض کیا ہاں فرمایا تو نے

قَتَلْتُ حَمْرَةَ قُلْتَ قَدْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَغِيْبَ

حمزہ کو قتل کیا تھا میں نے عرض کیا بات تو یہی ہے جو آپ کو پہنچ چکی ہے فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا منہ مجھ سے

وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فخر جرت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر جرت

دکھا دیا۔ کہا تو میں چلا آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سید کتاب

مُسَيَّبَةُ الكَذَّابُ قُلْتُ لَا خَرَجْتُ اِلَى مُسَيَّبَةَ لَعَلِّي اَقْتُلُهُ فَاَكْفِي بِهَمْزَةَ

نہو دار ہوا۔ میں نے کہا کہ ضرور میں سید کے لئے نکلیوں گا امید ہے کہ میں اسے قتل کروں گا اور حضرت

قَالَ فخر جرت مع الناس فكان من امرهم ما كان قال فاذا رجل قائم في ثلثة

حمزہ کے قتل کا بدلہ اس پروردگار کو تو میں لوگوں کے ساتھ نکلا سید نے جو کام میں سویا کہا اچانک لوہار کے درجے میں ایک شخص کو نظر آیا

جدا اذ كان بمثل اودق ناثر الزاس قال فرميت به بصر بيتي فاضعها بين ثديي حتى

گو گیا کہ وہ فاکستری ادق کی طرح ہے۔ سر پر آگندہ کہا تو میں نے اپنے برچھے سے اس کو مارا اس کے دونوں پھیپھڑیوں کے درمیان کچھے

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِ ثَدْيَيْهِ قَالَ فَوَثَبَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ اَنْصَارِ فَضَرِبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَا حَمْرَتَهُ

کو دکھایا یہاں تک کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سے پاز نکل گیا کہا اور اس پر ایک انصاری شخص کو پڑا اور اسے تیسرا اس کی ٹھوڑی پر مارا

مٹا گیا ہے لڑی
پہاڑ پر تشریح نے
اپنے نکل کر اتارا
تھا
سباع
ابن عبدالمطلب نے
مٹا بطور بصر
کی جمع ہو۔ عرب
میں خاص حالات
میں عورتوں کے
فتنے کا بھی رواج
تھا اور بصر اس
زادہ گوشت کو کہا
جاتا ہے۔ مقطوعہ
البطور دم کے
مقام پر پولا جاتا
ہے۔ گو ایسی عورت
فتنہ کرنے کا پیشہ
نہ کرتی ہو۔
فتح الباری میں
ایک روایت نقل
کی گئی ہے کہ لوگوں
آپسے کہا کہ یہ وحشی
ہے تو آپ نے
فرمایا اسے چھوڑ دو
ایک شخص کا اسلام لانا
بھی مجھے ہزار کا فر
کے قتل کرنے سے
زیادہ پسند ہے۔
بصر جل اودق
معاورہ کی طرح پر
استعمال ہوتا ہے
اودق گندی رنگ
ہے۔ فتح الباری میں
ہے کہ مراد اس سے
یہ ہے کہ اسکی رنگ
راکھ کی طرح ہے گویا
کہ یہ لڑائی کا گرو
وغبار ہے۔

قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ

کہا عبد اللہ بن فضل نے کہا مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمرو

ابْنُ حُمَيْرٍ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ

شاہد کہتے تھے تو ایک لڑکی نے جو گھر کی چھت پر کھڑی تھی کہا ہائے امیر المؤمنین کو ایک کالے غلام نے مار ڈالا

الْأَسْوَدُ ر ۲۵ بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَحْرِ يَوْمَ أُحُدٍ

ہائے اعد کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے تھے

۱۷۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَدُّ غَضَبٍ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اس

اللَّهُ عَلَى قَوْمٍ قَوْمٌ فَعَلُوا لِنَبِيِّهِمْ يَشِيرُوا لِي رِبَا عَيْتِهِ أَشْتَدُّ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يُعْتَلَهُ

قوم پر بہت سخت ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا آپ اپنے واتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اللہ کا غضب ایسے غصے پر

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (م- ۱۹۴۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ر ۲۶

بہت سخت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں قتل کریں

ر ۲۶) (م- ۱۹۴۸) عَنْ ابْنِ حَازِمٍ (م- ۱۹۴۷) ر ۲۷

دیکھو حدیث ۱۹۴۷ باب دیکھو حدیث ۱۹۴۸

۱۹۵۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۱۹۴۸) ر ۲۸ بَابُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ

باب وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی

الرَّسُولِ (م- ۱۹۴۸) ر ۲۹ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

بات مان لی رآل عمران (۱۹۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے (آیت) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

مَنْ بَعْدَ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ قَالَتْ

کی آواز پر لبیک کہا اس کے بعد کہ ان کو زخم لگ گئے تھے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا اور تقویٰ کیا بڑا اور جسے رآل عمران (۱۹۶) کے

لِعَمْرَأَةٍ يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ

مختلف روایت ہے کہ انہوں نے عہد سے کہا میرے بھانجے تیرے باپ زبیر ان میں سے تھے اور ابو بکر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنْصَبُوا عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ خَانَ أَنْ يَبْرَحُوا

جو اعد کے دن بھیجی اور مشرک آپ کے مقابلہ سے لوٹ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھر لوٹ آئیں گے

علا سید کو امیر المؤمنین کہنے پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ لقب حضرت عمرؓ نے اختیار کیا اور یہ سید کے قتل کے بہت بعد تھا۔ اور علاوہ ازیں سید رسالت کا مدعی تھا۔ لیکن ہے یہ لفظ بعد میں کسی راوی کی غلطی سے داخل ہو گیا ہو۔ فتح الباری میں ملتا ہے کی روایت کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں اس ذکر میں امیر المؤمنین کا لفظ نہیں ہے۔ باب ۲۲ لیس اللہ من کامر شئی کی تفسیق میں صرف یہ ذکر ہے شجرۃ الیدہم انہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اس باب میں پہلی حدیث میں آپ کے دانت کے شہید ہونے کا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث میں مومنہ کے خون آلود ہونے کا ذکر ہے۔ اور لکھ باب میں جس کا عنوان علیحدہ نہیں یہ ذکر ہے کہ آپ کا دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خود آپ کے سر پر توڑا گیا۔ فتح الباری میں بعض اور روایات کی بنا پر زخار اور نچلے ہونٹ کا اندر سے زخمی ہونا اور گھسنے کا چھل جانا ان کے علاوہ مذکور ہے۔ چونکہ آپ کسی وقت بالکل دشمنوں کے زخموں میں آگئے تھے اس لئے آپ کو جویش بہت لگیں۔ خود کا سر پر ٹوٹ جانا بتاتا ہے کہ کس قدر سخت حملہ آپ پر ہوا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ توار کے ستر اور آپ پر ہونے شاید اس سے مراد محض کثرت ہونے لفظ ۱۷۸۲) ابو ہریرہ کی روایت ہے اور مکرر روایت ابن عباس کی ہے جو دونوں وجود اقرہ کے شاہد ہیں۔ اس روایت کے لفظ ہوں ہیں۔ قال شدت غضب اللہ علی من قتل النبی صلعم فی سبیل اللہ اشتد غضب اللہ علی قوم دہموا وجد نول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہ مسلک مکرر روایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے جو عن ابی حازم انہ سمعہ سہل بن سعد دہو ٹیٹیل عن جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما واللہ انی لاعتز من کان یفسد جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یسبک الماء یا یجھن فلتارات فاطمة لان الماء لا یزید الدم الا کثرة اخذت قطعة من حصر فاحرقتها والصقتها فاستمسک الدم وکسوت ربا عیتہ یومئذ وجرح وجہہ وکسوت البیضة علی راسہ

قَالَ مَنْ يَنْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ فَأَتَدَّبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ

آپ نے فرمایا کون ان کا تعاقب کرتا ہے تو ان میں سے ستر آدمیوں نے لپیٹ لیا ان میں حضرت ابو بکر اور

وَالزُّبَيْرُ (۲۸) بَابٌ مِنْ قِتْلِ مَنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ مَرْزُوقُ بْنُ عَمِيْدٍ

زبیر بھی تھے ۲۸ باب سے مسلمانوں میں سے جو احد کے دن قتل ہوئے ان میں سے حضرت مرزوق بن عبدالمطلب

الْمَطْرِبِيُّ الْيَمَانِيُّ وَأَسْنُ بْنُ النَّضْرِ وَمُصْعَبُ بْنُ عَمِيْدٍ (۲۸) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

اور یمن اور اس بن نضر اور مصعب بن عمیر تھے قنادہ سے روایت ہے

فَأَنعَمَ مَحَبًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيْدٍ أَعْرَبَ يَوْمَ الْبُقْعَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ

کہ ہم عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کو نہیں جانتے جن میں انصار سے زیادہ شہید ہوں راویوں قیامت کے دن روہ انصار سے زیادہ

قَتَادَةَ وَحَدَّثَنَا أَسْنُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بَدْرٍ

قنادہ والے ہوں قنادہ نے کہا اور ہم سے اس بن مالک نے کہا کہ انصار میں سے احد کے دن ستر آدمی شہید ہوئے ۱۷ اور بدر کے دن

مَعْرُوفٌ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ كَانَ بِرْمَعُونََةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

ستر ۱۷ اور یامامہ کے دن ستر کہا اور برمعونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مَسِيْمَةَ الْكَدِّ ابْنِ

اور یامامہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں سبیلہ کذاب کی جنگ میں

(م-۱۹۵۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي (م-۱۹۵۲) (م-۱۹۵۲)

دیکھو حدیث ۱۱۲۷

عَنْ جَابِرِ فِي (م-۱۹۵۳) (م-۱۹۵۳) (م-۱۹۵۳) (م-۱۹۵۳)

دیکھو حدیث ۱۹۷۳

(م-۱۹۵۴) عَنْ خَبَّابِ بْنِ (م-۱۹۵۴) (م-۱۹۵۴) (م-۱۹۵۴)

دیکھو حدیث ۶۸۵

بَابُ عَهْدِ الْيَمَامَةِ مِنْ مَحَبَّتِ كِتَابِ

حاصل ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جنگ ہفتہ کے دن ہوئی اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی کو نئے والے نے اعلان کیا کہ ہم دشمن کے پیچھے نکلیں گے۔ اور اس لئے کیا تاکہ دشمن کو ہینہ لگ جائے کہ اس تکلیف سے جو احد میں ان کو پہنچی وہ کمزور نہیں ہوئے۔

نے روایت کی ہے کہ احد میں کل ستر مسلمان شہید ہوئے چھ ماجرین میں سے اور چھ انصار میں سے۔ ۱۷ ان میں بھی بعض ماجرین میں سے تھے۔ ۱۷ اس میں احد کے شہیدوں کا دو دو کے ایک ایک قبر میں دفن کیا جانے کا ذکر ہے۔ لفظ یکساں میں ۱۷ خفیف اختلاف لفظی ہے۔ لہذا قتل ابی جہل نے انہیں واکشف الثوب عن وجهه فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهدون النبي صلى الله عليه وسلم لهديته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعه ۱۷ ۱۹۵۳ کا شروع کا حصہ قال رايت في المنام اني اهاجر من مكة الى ارض يها نخل فذهب وهلى الى انهما اليمامة او هجر فاذا هي المدينة يثرب نك جهو رديا ہے۔ باقی جس میں تلوار کی لوک ٹوٹ جانے کا اور پھر پہلے سے ہتر ہو جانے کا ذکر ہے اور گائیوں کے دیکھنے کا ذکر ہے انہی الفاظ میں ہے۔ اس کے پہلے حصہ میں جو تعبیر آپ نے کی ہے اس کے رد سے جنگ احد کو مسلمانوں کے حق میں فتح قرار دیا ہے۔ فاذا هجر ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين۔ دیکھو نوٹ ۱۹۷۳ پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فتح قرار دیتے تھے۔ ۱۷ محکم قریب قریب وہی لفظ ہے صرف درمیانی فقرہ و منما من ائمت له ضرته ظہور ہوا تھا آخر پر کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر شہید احد کا ذکر ہے کہ اس کے کفن دینے کے لئے ایک پوری چادری بھی نہ تھی ۱۷ اُحد پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور جہاں کفار کے ساتھ ستر ہجری میں جنگ ہوئی۔ حمزان باب رکھا ہے احد پہاڑ یعنی احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ان الفاظ کی تشریح مختلف رنگوں میں کی گئی ہے۔ اول یہ کہ اس سے مراد اہل احد ہیں یا مدینہ کے رہنے والے انصار۔ دوسرے یہ کہ جب آپ سفر سے واپس آئے تو توہینا پہاڑ نے زبان حال سے تمہارا ستر کیا اور اہل کے قرب کی خوشخبری دی تیسری یہ کہ یہ جبال جنت میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ تین تو ہمیں لکھ کر فتح الباری میں یہ سبلی کا قول نقل کیا ہے کہ اُحد چونکہ احدیت سے مشفق ہے یعنی توحید سے اور اس کی حرکات رفع کی ہیں تو گویا اس سے اچھی فال لیا ہے کہ دین توحید دنیا میں غالب ہوگا۔ لیکن ایسا درتوجیہ ان الفاظ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب قریش نے مسلمانوں کو نوشہ میں لیا تو اس وقت احد کا پہاڑ مسلمانوں کے لئے پناہ بن گیا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر لکھ کر اپنے نگار کو رچوں پر بٹھایا تھا۔ تو جب آگے اور پیچھے دونوں طرف سے لکھ کر فارغ اور ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو بلند آواز سے پکارا اور وہ سب آپ کے ساتھ پہاڑ کے نیچے بندی پر جمع ہو گئے اور کفار کیسے اب کوئی صورت باقی نہ رہی کہ انہیں میدان سے بھاگ سکیں بکا انکو خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے اب سبھل کر حملہ کیا تو انکی خیر نہیں اسی لئے وہ اسی وقت مکہ کو لوٹ گئے۔

۱۹۵۱ نام گئے ہیں۔ جن میں سے چار ماجرین اور باقی انصار۔ اور فتح الباری میں ہے کہ حاکم نے اکیل میں اور ابن مندہ

قَالَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسے عباس بن سهل نے اسل نے ابو حمید سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

(م- ۱۹۵۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متک- ۲۶۷) (م- ۱۹۵۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
دیکھو حدیث ۲۶۷

(متک- ۲۶۷) (م- ۱۹۵۶) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (متک- ۱۳) (م- ۱۳) بِأَبِ غَزْوَةَ الرَّجِيعِ
دیکھو حدیث ۲۶۷

وَرَجُلٌ وَذُكُوَانٌ وَبِئْرٍ مَعُونَةٍ وَحَدِيثِ عَضْلِكِ الْقَارَةِ وَعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ وَخَبِيْبِ
اور رجل اور ذوکوان اور بیڑ معونہ اور عضل اور قارہ کا قصہ اور عاصم بن ثابت اور خبیب

وَأَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ اسْحَقَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا بَعْدَ أَحَدٍ (م- ۱۹۵۸)
اور ان کے ساتھیوں کا ابن اسحاق نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ یہ لغزہ ورجیع احد کے بعد ہوا تھا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متک- ۱۳۸۷) (م- ۱۶۸۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الْقَدِّيِّ قَتَلَ
دیکھو حدیث ۱۳۸۷ جابر سے روایت ہے کہ جابر نے کہا کہ وہ جس کے قبیب کو قتل

خَبِيْبًا هُوَ أَبُو سُورَةَ (م- ۱۹۵۹) (متک- ۱۲۸۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متک- ۱۲۸۹)
کی تھا وہ ابو سورہ تھا

۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹

۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹

۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹

۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹

۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹

کا ذکر ہے۔ اور ابو حمید کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اور غزوہ تبوک کے ذکر میں ہے اور اس میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کے وقت جب
اھڑو دیکھا تو یہ لفظ فرمائے دیکھو بھلا ٹوٹ گیا یہاں لفظ یوں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد فقال هذا اجل
چینا وھجھہ اللھم ان ابراھیم حرم مکة وانى حرمت ما بين كابتیھا . . . لفظ لفظ اللہ کے ہیں اس میں احد کے شہداء پر ناز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ واقعہ آپ
کی وفات کے قریب ہے۔ دیکھو ٹوٹ گیا صفحہ ۳۰۷۔ حجج عذیل کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے رجل اور ذوکوان دو قبیلوں کے نام ہیں
بئر معونہ بھی ہندیل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے عضل اور قارہ بھی دو قبیلوں کے نام ہیں۔ عاصم بن ثابت اور خبیب
دو صحابی ہیں۔ اور اصحاب سے مراد ان کے ساتھی ہیں۔ اور یہ گل دس آدمی تھے۔ رجیع اور بئر معونہ دو الگ الگ واقعات ہیں مگر ویسے قریب زمانہ
کے ہیں۔ غزوہ رجیع کا تعلق عاصم بن ثابت کے دستے سے ہے اور بئر معونہ کا واقعہ ستر قرآن کے متعلق ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق غزوہ ورجیع
سلسلہ ہجری کے آخر میں پیش آیا اور بئر معونہ سلسلہ ہجری کے شروع میں۔ انھما بعد احد میں ضمیر غزوہ رجیع کی طرف جاتی ہے۔ غزوہ رجیع میں جن لوگوں کو مجاہد
گیا وہ عضل اور قارہ کے آدمیوں کی اور قارہ اور ذوکوان کا ذکر بئر معونہ میں آتا ہے۔ یہ حدیث غزوہ رجیع کے متعلق ہے۔ اور قریب
انہی الفاظ میں ہے جن الفاظ میں اہل حدیث نے آئی ہے۔ مگر وہاں حشر و دھڑ یا دس نفوس کی تشریح ہے یہاں نہیں۔ ہذا کا نام بھی چھوڑ
دیا ہے۔ وہاں زید کی بگڑاؤ ہے۔ اصل نام زید ابن دثنہ ہے۔ فلما استمکنوا سے پہلے یہ فقرہ یہاں زائد ہے مگر اس سے مفہوم میں کچھ فرق نہیں
آتا۔ فاعطوہم العھد والذیقات فلما اعطوہم العھد والذیقات نزلوا الیہم۔ مجھڑوہ سے پہلے یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے۔ ان فی ہولاء
کا اسوۃ یرید القتل۔ یا عوہما بمکة کے بعد وقحہ بدل کے لفظ میں عندھم اسیرا کے بعد یہ لفظ بھی نہیں۔ فاخبر بنی
عبید اللہ بن عباس ان بنت الحارث اخبارتہ۔ یہ لفظ بھی یہاں نہیں۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرہم وما
اصیبوا باقی معمولی لفظ نہیں کہیں ہے۔ لہذا نام عقبہ بن حارث ہے۔ مکہ یہاں روایت قدسے اختلاف سے آئی ہے۔ بعث النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سبعین رجلا لحاجۃ یقال لھم القراء فعرض لھم حیان من بنی سلیم رجل وذوکوان عند بئر یقال لھا
بئر معونۃ فقال القوم واللہ ما ایا کم اذنا انما نحن یجتازون فی حاجۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقتلوہم فدعا النبی صلی
اللہ علیہ وسلم علیہم شہراً فی صلوۃ الخداۃ وذلك بعد القنوت وما کنا نقنت قال عبد العزیز و سال رجل انسا عن القنوت بعد
الروكوع وعند فراغ من القراءة قال لابل عند فراغ من القراءة۔ قرآن قاری کی جمع ہے۔ مراد اس سے اہل صفوں سے وہ لوگ ہیں جو صرف
قرآن شریف سیکھنے کے لئے وہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ علم بھی حاصل کرتے تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارہ بھی کرتے تھے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ یہ قنوت
رکوع سے پہلے قرائت سے فراغت کے بعد پڑھتے تھے اور ۷۷ھ میں جس کی مکرر روایت آگے آتی ہے یہ ہے کہ یہ قنوت جو خصوصیت سے پڑھا گیا رکوع
کے بعد تھا۔ ممکن ہے کہ دونوں طرح پڑھا ہو۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

(م- ۱۹۶۰) عَنْ أَنَسٍ (متکرم- ۵۷۶) (م- ۱۹۶۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۲۸۹)
دیکھو حدیث ۵۷۶
(م- ۱۹۶۲) عَنْ أَنَسٍ (متکرم- ۱۲۸۹) (م- ۱۹۶۳) عَنْ أَنَسٍ (متکرم- ۱۲۸۹)
دیکھو حدیث ۱۲۸۹
(م- ۱۹۶۴) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم- ۱۷۳۰) (م- ۱۹۶۵) عَنْ عُرْوَةَ (متکرم- ۱۲۸۹)
دیکھو حدیث ۱۷۳۰
(م- ۱۹۶۶) عَنْ أَنَسٍ (متکرم- ۵۷۶)
دیکھو حدیث ۵۷۶

۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶
۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶
۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶
۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶

۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶
۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶

۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶
۱۲۸۹
۱۷۳۰
۵۷۶

سے آئی ہے ان

رعلو و ذکوان و عصبیة و بنی لحیان استمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدو فامدهم بسبعین من الانصار و کنا سمیمہم القرناء فی زمانہم کا نواجیح تطوبون بالنہار و یصلون باللیل حتی کانوا بامیر معونۃ قتیلہم و غدروا بہم غلبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقنت شہرا بعد فی الصبر علی احوالہ من احوال العرب علی رعل و ذکوان و عصبیة و بنی لحیان قال انس فقرا اننا فیہم قرنا اننا شہ ان ذلک رفع بآغوا عنادہ منا انما لقینا ربنا فرضی عنادنا و رضانا عن قتادة عن انس بن مالک حدثہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا فی صبرہ الصبر علی احوالہ من احوال العرب علی رعل و ذکوان و عصبیة و بنی لحیان (وفی روایۃ) ان اولئک السبعین من الانصار قتلوا بامیر معونۃ قرنا کتابا نحوہ (دیکھو نوٹ ۴۳ صفحہ ۷۳) یہ مکرر روایت اور طرح پر آئی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ اخی لاسلمیم فی سبعین راکیا و کان رئیس المشرکین عامر بن الطفیل خیر بن ثلث خصال یعنی نبی کریم صلعم کے سامنے تین باتیں پیش کیں کہ ان میں سے جو ایک چاہیں اختیار کریں، فقال یكون لك اهل السهل (وہیاتی) ولی اهل المدر شمري (ابو اكون خليفتك) و اغزوك باهل غطفاء بالعت و العت قطع رماحہن میں مبتلا ہوا، عامر فی بیت ام فلان فقال غدا رعد و کالکنا کغدۃ البکر راونث) فی بیت امرأۃ من آل فلان امونی یفرسی فمات علی ظہر فرسہ فا نطلق حرام اخوام سلیم و هو رجل اعرج و رجل من بنی فلان قال کوننا قریبا حتی اتیمہم فان امونی کنتم راگرا نوس نے مجھ سے دیا تو تم ہو گے یعنی قریب ہو گے آگے آگے ہو وان قتلونی ایتیم اصحابکم فقال او منونی اببلغ رسالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یحید شہم و اموالہ الی رجل فاتاہ من خلفہ فطعنہ برجمہا مارا قال ہامم احسبہ حتی انفذتہ بالرمح و رجھا اربابہم گیا، قال اللہ اکبر فزت و رب الکعبۃ فحج الرجل فقتلوا کلہم غیر الا عرج کان فی راس جبل فانزل اللہ علینا ثم کان من المنسوخ اننا قد لقینا بنا فرضی عنادنا و رضانا فادعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثلاثین صباحا علی رعل و ذکوان و بنی لحیان و عصبیة الذابت عصوا اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما یتحقرقہ۔ یقول لما طعن حرام بن علی بن وکان خالہ یوم بتمو نذ قال ببالہم ہکذا افضیہ علی وجہہ و رأسہ ثم قال فزت و رب الکعبۃ (مکرر روایت محقر ہے عورت آخری فقرہ میں عامر بن نبیرہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ الفاظ حدیث یہاں یوں ہیں:- قالت استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الحرج حین اشد علیہ الاذی فقال لہ اقم فقال یارسول اللہ اتطعمہ ان یؤذن لک فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لا رجوز لک قالت فانظروا ابو بکر فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہرا فتاداہ فقال اخرج من عندک فقال ابو بکر انما ہما ابنتای فقال اشعرت انہ قد اذن لی فی الحرج و جہ فقال یارسول اللہ الصحبۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحبۃ قال یارسول اللہ عندی نائتان قد کنت اعدتہما للحرج فاعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدہما وھی الحس عاء یعنی اس کا نام جعداء تھا، فکربا فانطلقا حتی اتیا الفار و ہو بنو رشوا رایا فیکہ کان عامر بن فہیرۃ غلاما لجد اللہ بن الطہش بن شخبزۃ اخوعا شتہ کما ہا و کانت لابی بکر ہنجرۃ فکان یروح بہا و یخذ و علیہم و یصحب فی الحجاز الی المہاجر فتوری رات رہے ان کی طرف چلا جاتا، ثم یسوح فلا یظفن بہ احد من الوعاء کسچی چرواہے کو اس کی فہرہ ہوتی، فلما خرجا خرج محمدنا یعقبا نہ راسے لیسے پیچھے بٹھالیے، حتی قد ما المدینہ فقتل عامر بن فہیرۃ یوم بتمو نذ (مکرر روایت یوں ہے:- لما قتل الذین بامیر معونۃ و اسیر عمرو بن امیۃ الضمری قال لہ عامر بن الطفیل من ہذا افاشارا لی قتیل فقال لہ عمرو بن امیۃ ہذا عامر بن فہیرۃ فقال انقدر رایتہ بعد ما قتل و رفع الی السماء ریکونی کشفی نفاہہ معلوم ہوتا ہے) حتی انی لا نظیر الی السماء بینہ و بین الارض ثم وضع فانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرہم فناعاہم فقال ان اصحابکم قد اصابوا و انہم قد سألوا اریہم فقالوا ادینا اخبزنا اخوا نانا بما رضینا عنک و رضیت عنا فاخبرہم عنہم و اصاب یومئذ یہم عرودۃ بن اسامہ بن الصلت فسمی عرودۃ بہ و منذر بن عمرو و سبی یہ منذر کا مکرر روایت میں ۱۹۶۴ کے چند آخری الفاظ ہیں۔ قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا یدعو علی رعل و ذکوان و یقول عصبیۃ عصت اللہ و رسولہ

۱۹۶۷ (م۔) ۱۹۶۷ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۲۸۹) (م۔) ۱۹۶۸ عَنْ عاصِمٍ

دیکھو حدیث ۱۲۸۹

۱۹۶۸ (متکرم۔ ۱۵۷۷) (۱۳۱) بَابُ غَزْوَةِ الخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَخْرَابُ قَالَ مُوسَى بْنُ

دیکھو حدیث ۱۵۷۷ بَابُ خَنْدَقِ كَاغَزْوَةٍ اور یہی احزاب ہے موسیٰ بن عقبہ نے کہا

عَقِبَةُ كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةِ أَرْبَعِ (م۔) ۱۹۶۹ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

یہ شوال سنہ میں تھا ۱۳۱ دیکھو حدیث

۱۲۴۸ (م۔) ۱۹۷۰ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۱

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۲ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

۱۷۸۵ (م۔) ۱۹۷۲ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۳

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۴ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۵ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ (متکرم۔ ۱۳۰۸) (م۔) ۱۹۷۶ عَنِ اَسْبِ بْنِ فَالِكٍ

دیکھو حدیث ۱۳۰۸

عنا... مختصراً...
... دعا...
... صلوات...
... على...
... بعض...
... معا...
... صباح...
... على...
... وعصية...
... الله...
... الله...
... قال...
... الله...
... صلوات...
... في...
... اصحاب...
... قرآن...
... حتى...
... بلغوا...

لغنياً دينا فرضي عناراً ورضيائاً عنه...
بڑھا یا ہے۔ فقط روفا بازی کی ہولاء الذین کان بدینہم وبن رسول اللہ صلعم صھدا۔ آخری فقرہ وہی ہے۔ لے لے یہ جنگ غزوہ خندق کے نام سے
اس لئے موسوم ہے کہ مذہبی حفاظت کے لئے اس کے ارد گرد غیر محفوظ جھبے میں خندق کھود کر دشمن سے اسے محفوظ کیا گیا۔ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی
نے دیا تھا۔ اور غزوہ احزاب اس کا نام اس لحاظ سے ہوا کہ عرب کے قابل متحد ہو کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے مدینہ پر چڑھ آئے تھے۔ احزاب
حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق صرف قریش اذان کے حبشی غلام اور بنی نہ اور تمامہ میں سے ان کے
اتباع دس ہزار تھے اور عطفان اور اہل نجد کا لشکر اور بنو قریظان کے علاوہ تھے اور مسلمانوں کی کل تعداد صرف تین ہزار تھی۔ امام بخاری نے موسیٰ بن عقبہ
کا قول نقل کیا ہے کہ غزوہ احزاب شوال سنہ میں ہوا۔ ابن اسحاق نے اسے شوال سنہ میں قرار دیا ہے۔ اور عموماً اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔
باب کی پہلی حدیث میں حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ وہ احد کے دن چودہ سال کے تھے اور غزوہ خندق میں پندرہ سال کے۔ گویا جنگ احزاب اور احزاب
میں ایک سال کا فرق تھا۔ مگر قطعی دلیل نہیں اس لئے کہ چودہ سال کی عمر وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی چودہ سے دو چار ماہ کم ہوں اور پندرہ سال سے مراد
یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی سولواں شوال نہ ہوا تھا۔ اور یہ ثابت ہے کہ ابوسفیان نے احد سے واپسی کے وقت بدر صغریٰ کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس
سال نہیں آیا کیونکہ قحط تھا اس لئے صحیح ہی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب شوال سنہ میں ہوا۔ لے لے آخری حصہ قال نافع سے آخر تک چھوڑ
دیا ہے۔ احد کے دن ابن عمر کی عمر چودہ سال تھی احزاب میں پندرہ دیکھو پھیلا نوٹ + لے لے لے آخری حصہ قال نافع سے اور اختصار سے
دوہرا یا ہے۔ لکن امام رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم فی الخندق دھم یحفر من دخن نقل التراب علی اکفادنا فقال رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم
اللھم لا عیش الا عیش الاخرة فانفع الیہا اجر من ولا کذا + لے لے لے اس کے نفاذ مانتا ہے کہ ہیں + لے لے لے مکر روایت کچھ اختلاف لفظی سے او
کچھ کی زیادتی کے ساتھ آئی ہے۔۔ جعل الیہا جودنا والا نصاد یحفر من الخندق حول المدینة وینقلون التراب علی متونہم ودم یقولون
سے نحن الذین یا نعوا محمد + علی لا سلامنا بقینا ابد + قال یقول النبوی صلوات اللہ علیہ وسلم وهو یحسبہم اللہم انہ لا خیر
الا خیر الاخرة فانفع الیہا جودنا والا نصاد الیہا جودنا + قال بیوتون بمل کئی من الشعیب فیصنم لہم باہا لہ اجری والالتیقیلوا و اجری ہے) سفیحة (جرک
مرہ اور رنگ پرانا نمونہ وجہ سے بدل گیا ہو) توضح بین یدی القوم والقوم جیاغ وہی بقیة (جشن کوہ الطعم سخت اور بمرہ) فی الخندق (لگے کو کپڑے) و
ولہا ریح مدین + اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جنگ احد میں کھانسی ہوئی جنہوں نے چھوڑ دی اور مرطری ہوئی جنہوں نے کھانی پڑتی تھیں اسکی وجہ یہ تھی کہ خامرہ کی
وجہ سے کھانسی کی چیزیں باہر اندر آسکتی تھیں + لے لے لے ایک روایت میں ہے من الجوع یعنی بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا +

وَلَبِئْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَّا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَآخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلَ

اور ہم نے تین دن سے کوئی چیز بھی نہ چھی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی

فَضْرِبَ فَعَادَ لَيْثِيًّا أَهْيَلًا أَوْ أَهِيَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْنَانِ لِي إِلَى الْبَيْتِ

اور اس پر ہم ماری تو وہ گویا ریت کا پراگندہ تو وہ بن گیا۔ اس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے (میں گھر گیا)

فَقُلْتُ لَا مَرَأِي رَأَيْتَ بِاللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَابِرًا

تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی بات دیکھی ہے جس کی وجہ سے صبر نہیں ہو سکتا

فَعِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعِنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعِنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ

کیا تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا میرے پاس جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے

حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجِينُ

یہاں تک کہ ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈالا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آٹا خمیر

قَدْ انْكَسَرُوا الْبُرْمَةَ بَيْنَ الْأَثَرَانِ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَخَ فَقُلْتُ طَعِيمٌ لِي

ہو گیا تھا اور ہانڈی چولہے کے پتھروں پر تھی گوشت بچ جانے کے قریب تھا میں نے عرض کیا میرے یہاں تھوڑا سا

فَقَدِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَهُ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ

کہنا ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں اور ایک یا دو شخص اور آگے فرمایا (کھانا) کتنا ہے میں نے آپ سے بیان کیا فرمایا

كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا لَا تَزْعُمُ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي

بہت ہے اور عمدہ ہے فرمایا بیوی سے کہ دو ہانڈی نہ آتا ہے اور نہ روٹی میرے آنے تک تنور سے نکلے

فَقَالَ قَوْمٌ مَوْفِقًا لَهُمُ الْهَارِجُونَ وَالْأَنْصَارُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى مَرَاتِهِ قَالَ

آپ نے فرمایا اٹھو تو ہمارے اور انصار کھڑے ہوئے جب جا رہا بی بی بیوی کے پاس گئے تو کہ

وَجِيءُكَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَارِجِيِّينَ وَالْأَنْصَارِ وَمِنْ

تیرے لئے بہت مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور انصار کو اور جو ان کے ساتھ ہیں کے کہ آئے ہیں

مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلَا تَضَاعَطُوا فَجَعَلَ

اس نے کہا کیا آپ نے تم سے کچھ پوچھا تھا میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اندر چلو اور آگے دوسرے پر ہجوم نہ کرو آپ روٹی

يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُخِمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالْتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ

ٹوڑنے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے اور جب ہانڈی اور تنور میں سے کھانے لیتے تو اس کو ڈھکا رکھتے تھے

مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَزْعُمُ فَلَمْ يَزْعُمِ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى

اور اپنے صحابہ کو کھانا دیتے تھے پھر اسی طرح کرتے برابر روٹی توڑتے رہے اور گوشت لیتے رہے یہاں تک

شَبَعًا أَوْ بَقِيَّةً قَالَتْ كُلِّي هَذَا أَوْ أَهْدِي فَأَنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ فَجَاعَةٌ

کہ وہ سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ رہا اپنے جا رہا بیوی سے کہ کیا یہ کھاؤ اور ہر یہ بھی دو کیونکہ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے اسلئے

علا، حمد و سائی کی روایت میں اس وقت کی تفصیل یوں بیان کی ہے قال لما كانت حين امرنا رسول الله صلعم بمحضر الخندق عرضت لنا في بعض المناسبات صحن ولا تأخذ فيها المدحول فاشتكينا ذلك الى النبي صلعم فإذ أخذ المدحول فقال بسم الله فضرب ظهره فكسر شظائها و قال الله أكبر اعطيت مغاثير الشام والله اني لا بصير قصورها الحمد اساعاظم ضروب الثانية فقطع الثلث الاخر فقال الله اكبر اعطيت مغاثير والله اني لا بصير قصور السدائن اميض ثم ضروب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحاجر

فقال الله اكبر اعطيت مغاثير اليمن والله اني لا بصير اجواب صنعنا من مكان في هذا الساعة - ايك طرف به حالت ہے کہ دوس ہزار کا لشکر مدینہ پر چڑھا ہوا ہے اور پچاؤ کے لئے ایک خندق کھودنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ دشمن کیمر تہ حملہ نہ کر سکے دوسری طرف ان مہاسب کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایران اور روم اور میں سب آپ کو دئے جائیں گے - ایک روایت میں کہ جب آپ کدال مارتے تھے تو اس سے بجلی کی طرح آگت روٹی نکلتی تھی تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے اور صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے - اسلئے اگلی مکر روایت میں ہے کہ آپ نے گوشت نکالنے کے لئے جا بکری بیوی کو کسا تھا - یہ کیفیت اختلاف ہے - اسلئے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا - یہ دن وہ تھے جب بوجہ محاصرہ کھانے کی اشکیا، کسی سخت قلت تھی اگلی مکر روایت میں کھانوں کی تعداد ایک ہزار لکھی ہے - اور بعض روایتوں میں نوسو - آٹھ سو اور تین سو بھی آئی ہے -

۱۹۷۳-۱۹۷۴
 ۱۹۷۵-۱۹۷۶
 ۱۹۷۷-۱۹۷۸
 ۱۹۷۹-۱۹۸۰
 ۱۹۸۱-۱۹۸۲
 ۱۹۸۳-۱۹۸۴
 ۱۹۸۵-۱۹۸۶
 ۱۹۸۷-۱۹۸۸
 ۱۹۸۹-۱۹۹۰
 ۱۹۹۱-۱۹۹۲
 ۱۹۹۳-۱۹۹۴
 ۱۹۹۵-۱۹۹۶
 ۱۹۹۷-۱۹۹۸
 ۱۹۹۹-۲۰۰۰
 ۲۰۰۱-۲۰۰۲
 ۲۰۰۳-۲۰۰۴
 ۲۰۰۵-۲۰۰۶
 ۲۰۰۷-۲۰۰۸
 ۲۰۰۹-۲۰۱۰
 ۲۰۱۱-۲۰۱۲
 ۲۰۱۳-۲۰۱۴
 ۲۰۱۵-۲۰۱۶
 ۲۰۱۷-۲۰۱۸
 ۲۰۱۹-۲۰۲۰
 ۲۰۲۱-۲۰۲۲

۱۹۷۳-۱۹۷۴ **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكبر) - ۱۸۵۵ (۱۸۶۱) عَنْ عَائِشَةَ**

دیکھو حدیث ۱۸۵۵، ۱۸۶۱ حضرت عائشہ سے

رَأَتْ جَاءَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَوَرَّادًا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ قَالَتْ

روایت ہے کہ آڈا جاؤ گھر آ کر جب دشمن تمہارے نیچے کی طرف سے آئے تم پہلے بڑے اور جب آنکھیں پتھر آگئیں

كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (م- ۱۹۷۴) عَنْ الْبَرَاءِ (متكبر) - ۱۳۰۹ (م- ۱۹۷۵)

کما یہ خندق کے دن تھا دیکھو حدیث ۱۳۰۹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكبر) - ۵۸۴ (م- ۱۹۷۶) عَنْ الْبَرَاءِ (متكبر) - ۱۳۰۹

دیکھو حدیث ۵۸۴ دیکھو حدیث ۱۳۰۹

۱۸۷۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ (۸۸) عَنْ ابْنِ

ابن عمر سے روایت ہے کما جنگ کا پہلا دن ہے میں نے شریک ہوا خندق کا دن تھا ابن عمر سے روایت

عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنِسْوَاتِهَا تَنْطَفِئُ قُلُوبُ كَانُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنِ

ہے کما میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور ان کی زلفوں سے پانی ٹپکتا تھا میں نے کما لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھتی ہیں

عشیرہ بنی زبیر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً شدیداً افاخرجت الی حجابا ذیہ صامع من شعیر و لنا بھیمۃ داجن فذبحتمھا و طحمت الشعیر فیض غت الی فراخی (میرے فارغ ہوتے وہ بھی فارغ ہو گئی) و قطعتمھا فی برمتھا ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لا تقضونی رحمے شرمندہ نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین معہ مجتھتہ فسار دتہ ریحکے سے عرض کیا) فنقلت یا رسول اللہ ذبحنا بھیمۃ لنا و طحمتھا صامعاً من شعیر کان عندنا متعال امت و نفر (چند آدمی) مہمک نصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اهل الخندق ان جابر اقد صنع سوراً (نہا یہ میں ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی عنایت ہیں) فخی ہلا بکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخرن بومتکم ولا تخنزن عجبکم حتی اجمع مجتھت و جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس حتی جئت امراتی فقالت بک و بک اللہ ثم سے بچھے) فنقلت قد نعلت الذی قلت فآخرت لہ عجبتا فصمق فیہ راس میں اپنا سب ملایا) و بآدک ثم عمد الی برمتنا فصمق و بآدک ثم قال ادع خابزۃ ردوئی پکسنے والی) فنقنہ پڑھی یعنی جابر کی بیوی کے ساتھ) و اقدھی و نکاتی ما من بومتکم ولا تنزلوها و ہم الف فاقسم باللہ لقد اکلوا حتی ترکوہا و اخرجوا و ان برمتنا لتنظروا جوش مار رہی تھی) کما ہی و ان عجبتنا یخبر کما ہو) ملک اور ہے یعنی مشرق کی طرف سے آئے) و ابنی قرینہ اور غطفان وغیرہ تھے۔ اور نیچے سے آئے) و ابنی یعنی مغرب کی طرف سے قریش اور ان کے ساتھی۔ عرف قریش اور ان کے ساتھیوں کا لشکر و ہزار تھا۔ اور دوسرے لشکر ان کے علاوہ تھے) و ملک خفیف لغنی اختلاف سے دو ہرایا ہے۔ آخری شعر کے بعد یہ لفظ بڑھائے ہیں و رقم بھا صوتہ ابینا ابینا اس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ گرو سے چھپ گیا) ملک وہی لفظ ہے۔ نصوت بالصبیا و اهلکت عاد یا لدا برد۔ صبیا کی نصوت میں اشارہ اس آندھی کی طرف ہے جس سے کفار کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا) ملک ابتدائی حصہ اشعار تک یوں ہے۔ لکما کان یوم الاحزاب و خندق رسول اللہ صلعم را یتہ ینقل من تراب الخندق حتی وادی عنی الغیا و حلدۃ بطنہ و کان کثیر الشعیر فسمعتہ یرحز لکلمات ابن رواحہ و هو ینقل من التراب اس میں دو باتوں کی تصریح ہے۔ اول یہ کہ رجز کے شعر جو آپ پڑھتے تھے وہ ابن رواحہ کے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے جسم پر بابل بیت تھے۔ یہاں بھی آخر پڑھا ہے) ثم ید صوته باخرھا۔ اس حالت میں ان اشعار کا پڑھا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلعم اور آپ کے صحابہ ان تکلیفوں کے اندر کہ ایک زبردست دشمن سے بچاؤ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا اور خود خندق کھود رہے ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں کس قدر لذت اور انشراح مد پاتے تھے۔ اللہم لوکا انت ما اھتدینا۔ و لا تصدقنا و لا صلینا۔ اسے خدا اگر تیرا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہمیں یہ ہدایت یہ نعمت عظمیٰ نہ ملتی۔ اور نہ ہم صدمہ کرتے یعنی مخلوق خدا پر شفقت کرنے والے ہوتے) اور نہ ناز پڑھتے یعنی خدا کے آگے جھکنے والے ہوتے) کس قدر احساس اس نعمت عظمیٰ کا ہے جس سے یہ اخلاق فاعند پیدا ہوئے۔ اور خدا کے آگے جھکنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کس قدر خوشی ہے) ملک حدیث میں لفظ نسوات ہے۔ مگر شارحین کہتے ہیں کہ یہ اس میں نوسوات ہے یعنی ذوات جو نوسوات کی جمع ہے۔ اور وہ نوس سے مشتق ہے جس کے معنی حرکت کے ہیں۔ اور زلفوں کو نوسوات اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حرکت بہت کرتی ہیں۔ اور فرج ابائی میں ہے کہ نسوات نوسوات کی تظہیب ہے۔ اور نسوات بجائے خود کوئی لفظ نہیں۔ زلفوں سے پانی ٹپکنے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی غسل سے فارغ ہوئی تھیں۔

فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءًا فَقَالَتْ الْحَقُّ فَإِنَّكُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَحْسَى أَنْ

اور مجھے تو حکومت کا کوئی حصہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا لوگوں سے، جا کر مودہ آجکا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ آپ

لِيَكُونَ فِي خَيْبَتِكُمْ مَرْقَةٌ فَلَمْ تَدْعُهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ

ذو حاشی تو ان میں پھوٹ پڑ جائے گی سو انہوں نے ابن عمر کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ چلے گئے جب لوگ منتشر ہو گئے۔

النَّاسُ خُطِبَ مَعُوبَةٌ قَالَتْ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْعِمْ لَنَا

تو حضرت معاویہ نے خطبہ سنایا اور کہا جو شخص چاہتا ہے کہ اس بارہ میں کچھ کہے تو وہ ہمارے سامنے سراسٹھائے

قَرْنَهُ، فَلَمَّا خُتِبَ مِنْ أَيْدِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مُسْلِمَةَ هَذَا أَجْبَتُهُ قَالَ

ہم خلافت کے اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ عقیدہ میں ہے حباب بن مسلمہ نے کہا آجے کیوں اسکو جواب نہ دیا

عَبْدُ اللَّهِ فَخَلَّتْ جَبُوتِي وَهَمَدْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَى هَذَا الْأَمْرَ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ

عبداللہ نے کہا میں نے اپنی تنگی کھولی اور چاہا کہ انہوں کو تجھ سے زیادہ خلافت کا عقیدہ روہ ہے جو تجھ سے

وَأَبَاكَ عَلَى الْأَسْلَامِ فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تَفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَسَفِيكَ الدَّمِ

اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر لڑا، مگر میں ڈر کر ایسا کلمہ نہ کہوں جو جماعت میں پھوٹ ڈال دے اور فریق بنا دے

وَيُجْمَلُ عَمِّي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجَنَانِ قَالَ حَبِيبُ حَفِظْتُ وَعَصَمْتُ

اور میری طرف کوئی اور بات منسوب کی جائے گی اور مجھے وہ یاد آیا جو اللہ نے بہشت میں ظہار رکھا ہے حبیب نے کہا آپ بچے رہے اور محفوظ

قَالَ مُحَمَّدٌ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَتَوَسَّطَهَا ۴۸۹ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَيْجٍ قَالَ قَالَ

ہوئے محمد نے عبدالرزاق سے روایت کی ہے کہ لفظ رزق محمد پریشانی، دنوسا تھا (یعنی سوا تمانیں) سلیمان بن مرقس سے روایت ہے کہ انہی

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَغْزَوْهُمْ وَلَا يَعْزُونَ نَارًا - ۱۹۷۷ عَنِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا ہم ان پر پڑھا ہی کر گئے اور وہ ہم پر پڑھا ہی نہیں کر سکیں گے۔

سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَيْجٍ (مِتَكَرَّرًا - ۱۷۸۹) (م - ۱۹۷۸) عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِضْوَانَ (مِتَكَرَّرًا - ۱۳۲۸)

دیکھو حدیث ۱۷۸۹ دیکھو حدیث ۱۳۲۸

(م - ۱۹۷۹) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مِتَكَرَّرًا - ۳۹۲) (م - ۱۹۸۰) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مِتَكَرَّرًا - ۱۳۱۵)

دیکھو حدیث ۳۹۲ دیکھو حدیث ۱۳۱۵

ملے یہ جنگ صفین

کے بعد کا واقعہ ہے

جو حضرت علی اور

معاویہ میں ہوئی۔

اور جس میں دو حکم

مقرر ہوئے مگر وہ کسی

متحدہ فیصلہ پر پہنچ

سکے تو حرمین کے

باقی صحابہ بھی اس

غرض کے لئے گئے

کہ باہمی مشورہ سے

کوئی اتفاق کی صورت

پیدا ہو جائے حضرت

ابن عمر نے حضرت

معاویہ سے مشورہ کیا

کہ میرا تو حکومت

میں کوئی حصہ نہیں

جاؤں یا نہ تو انہی

نے جملے کا مشورہ

دیا۔

حضرت معاویہ

اور حضرت علی نے

فیصلہ کیلئے اس

پر رضامندی کا

اظہار کیا تھا کہ

دونوں فریق کی

طرف سے ایک ایک حکم ہو چکا ہے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ نے غلطی

سے یا کسی مجھوتے کی بنا پر یہ فیصلہ دیا کہ حضرت علی اور معاویہ دونوں کو میں معزول کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمرو بن العاص نے یہ کہا کہ میں حضرت علی کے معزول

کرنے میں ابو موسیٰ کے ساتھ متفق ہوں مگر معاویہ کو معزول نہیں کرتا۔ اس پر لوگ منتشر ہو گئے اور تب حضرت معاویہ نے یہ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں بعض لوگوں کا

خیال ہے کہ اس میں اشارہ امام حسن و حسین اور حضرت علی کی طرف تھا اور بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ حدیث سے اسی خیال کو قوت

مندی ہے کیونکہ آگے یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس کا جواب دینا چاہا مگر فتنہ کے فوف سے رک گئے مگر غالباً حضرت معاویہ کا اشارہ حضرت علی کی طرف

تھا۔ حضرت عمر سے انہیں کوئی پرکاش بھی نہ تھی اور وہ اس وقت موجود بھی نہ تھے۔ مگر جنگ امداد اور احزاب میں حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان

کفار کے قائد اعظم تھے۔ ان کے ساتھ لڑنے والے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے اور حضرت علی بھی۔ اسی کی بنا پر حدیث میں لائے ہیں۔

۱۷۸۹ یعنی خلافت کی خواہش۔ مگر باوجود اس کے کہ قریش کا یہ حملہ نہایت زبردست تھا آپ نے یہ پیش گوئی کی کہ اب اس کے بعد یہ

ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مگر یہاں لفظ یوں ہیں: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول حی ان اجلی الاحزاب

عندہ الا ان لغزؤنا وکلا یغزونا نحن نسیر الیہم۔ مگر یہاں وہی لفظ ہے۔ جنگ احزاب میں نماز عصر کے وقت ہو جانے کا ذکر

ہے۔ مگر قریباً وہی لفظ ہے اس میں بھی جنگ احزاب میں نماز عصر کے وقت ہو جانے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے

بھی عصر نہیں پڑھی۔ اور یہی نماز غروب آفتاب کے بعد مغرب سے پہلے ادا کی گئی۔ مگر الفاظ میں ضعیف فرق ہے۔ اجتہادوں ہوتی ہے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب من یا تینا عجز العوم فقال لا یزیدنا بجانے نذب اور انتداب کے یہی فقرہ تین دفعہ دہرایا ہے۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

۱۹۰	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	بہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ الخ اللہ کے سوا کوئی
	اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَصْرَ عِبْدِهِ وَعُغْلَبَ الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ	عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس نے اپنی فوج کو معرفت دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور کیا لڑاکا فوجوں کے لشکروں پر غالب آیا سوائے
۱۹۱	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (مُتَكْرَمًا) (۱۳۴۹) (۱۹۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	بہریرہ سے روایت ہے کہ
	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَقْعَلَ مِنَ الْعُرْوِ أَوْ الْحِجَابِ أَوْ الْعَمْرَةِ بَدَأَ يَقُولُ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ یا حج یا عمرہ سے لوٹ کر آتے تو تین مرتبہ اللہ کا
	ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ	پہر مرتبہ لا الہ الا اللہ الخ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں وہ ایک ہے کوئی شریک نہیں جو اس کی بادشاہت پر
	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَبْنُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَادِقٌ	وہی تعریف کا مستحق ہے اور ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے (ہم) لوٹ کر آئیے تو تیرے لیے عبادت کرنے والے ہیں اور تیرے لیے توبہ کرنے والے ہیں
	اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَصْرَ عِبْدِهِ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (۳۲) بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى	اللہ نے پیدا کیا اور ہر ایک کو نصرت دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے ہی لشکروں کو شکست دی
	اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحْزَابِ فَخْرٌ جَاهِلِيٌّ بِنِي مُرَيْطَةَ وَمَحْأَصِرَتِهِ أَيُّهَا النَّبِيُّ (۱۹۸۳)	کے جنگی حرات سے لوٹ کر آنا اور بنی قریظہ پر چڑھائی کرنا اور آپ کے انکو محاصرہ میں لے لینا
	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكْرَمًا) (۲۹۵) (۱۹۸۳) (۱۹۸۴) (۱۹۸۵) (۱۹۸۶)	دیکھو حدیث ۱۲۹۵ دیکھو حدیث ۱۲۹۵ دیکھو حدیث ۱۲۹۵ دیکھو حدیث ۱۲۹۵
	عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكْرَمًا) (۵۵۶) (۱۹۸۵) (۱۹۸۶) (۱۹۸۷) (۱۹۸۸) (۱۹۸۹) (۱۹۹۰)	دیکھو حدیث ۵۵۶ دیکھو حدیث ۵۵۶ دیکھو حدیث ۵۵۶ دیکھو حدیث ۵۵۶

مدینہ پر چڑھائی کی جرأت نہ ہوئی۔ اللہم اھزجہم کے بعد روز لڑلہم کے پڑھانے میں ہی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ صلی بنی قریظہ ان بیوی توام میں سے ایک قوم تھی جنہوں نے آنحضرت صلیم کے مدینہ تشریف آوری کے موقع پر آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور نہ آپ کے دشمنوں سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ مگر جنگ حرا کے موقع پر انہوں نے غداری کی۔ اول تو قریش کو اور غطفان کو اسکا کرسمانوں پر چڑھا کر لائے۔ اور پھر ان احزاب کی تحفیظ پر مدد کرتے رہے۔ اس لئے جنگ احزاب سے فراغت پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نبی کریم صلیم کو ان کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ مگر خفیف اختلاف لفظی ہے۔ قد عصب رأسہ الغبار کے لفظ میں نہیں ہیں۔ یہ ذکر ہے کہ جبریل نے کہا کہ نبی قریظہ کی طرف نکلتے۔ مگر لفظ یوں ہیں:- قال کان انظر الی الغبار ساطعاً فی زقاق رسوق یا سکتہ یعنی بازار یا گلگی بنی غنم ہو گیا جبریل حین سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ۔ اصل حدیث میں صرت بنی غنم تک کے لفظ ہیں۔ اور اس کے بعد ہے زادہ وہی ہو گیا جبریل یعنی کہ یہ لفظ جبریل کی سواری سے آیا ہوا یعنی غبار تھا۔ موسیٰ راوی کے لفظ ہیں۔ اصل حدیث کے یہ لفظ نہیں۔ دیکھو نوٹ ۵۳۹

صلی بنی غنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ذکر ہے کہ نماز عصر نبی قریظہ میں ادا کی جائے۔ مگر یہاں حدیث اختلاف لفظی اور کی مشی سے آئی ہے۔ قال کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الخفلات حتی افتتح قریظہ والنضیر وان اھلی امر وی ان اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسالہ الذمین کا نوا اعطوه او بعضہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد اعطاه ام ایمن فحایت ام ایمن فحیلت الثوب فی عنقی تقول کلا والذمی لا الہ الا ہوا لا یعطیکہم وقد اعطانیہا او کما قالت والنسب صلی اللہ علیہ وسلم یقول لک کذا ومقول کلا والذمی لا الہ الا ہوا حسبت انہ قال عنشی او کما قال۔

۱۹۸۶ (۱۳۸۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکرم) ۱۹۲۱ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَصِيبُ

دیکھو حدیث ۱۳۸۶

سَعْدٌ يَوْمَ مَا أُخِذَ رِمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ جَبَانُ بْنُ الْعَرَفَةِ رِمَاهُ فِي

دن سعد کو زخم لگا قریش میں سے ایک شخص نے ان کو تیر مارا اس شخص کو جان بن عرفہ کہا جاتا تھا رگ ہفت انداز

الْأَجْحَلُ فَضْرَبَ لِلْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَ مِنْ قَرِيبٍ

پر تیر مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ نصب کیا تاکہ پاس سے ان کی عبادت کر س

فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ وَاعْتَسَلَ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے لوٹ کر آئے تو ہتھیار اتارے اور غسل کیا

فَاتَاهُ جَبْرِيْلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعَبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ

تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ اپنے سر سے گردوغبار بھاڑے تھے مگر جب میں نے کہا آپ نے ہتھیار رکھ

السَّلَاحَ وَاللَّهُ مَا وَضَعْتَهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلٌ فَاشْأَرَالِي

دیئے اللہ کی قسم میں نے ہتھیار نہیں رکھے ان کی طرف چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو انہوں نے نبی کریم کی

بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَوَى عَلَيْهِمْ فَرَدَّ الْحِمْدُ

طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے وہ آپ کے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے نکل آئے

إِلَى سَعْدٍ قَالَ قَائِلٌ فَارْتَوَى عَلَيْهِمْ أَنْ تَقْتُلَ الْمُعَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِّى الرَّسَاءَ وَ

آپ نے فیصلہ سعد کے سچے کر لیا سورتے کہا میں انکے بارہ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ لڑائی لے کر تیر کر دیتے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو

الذَّرِيَّةَ وَأَنْ تُقْسِمَ أَمْوَالَهُمْ (۱۹۸۶) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم) ۱۹۲۹

قیدی بنایا جائے اور ان کے مال تقسیم ہو جائیں دیکھو حدیث ۱۹۲۹

اتما کر غسل کیا تو جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کے سر پر غبار چھڑ گیا تھا۔ تو یہ گویا غسل کی وجہ بتائی ہے کہ گردوغبار جو آپ پر چھڑ گیا تھا اس کو صاف کرنے کے لئے

آپ نے غسل کیا۔ چنانچہ بخاری نے حدیث ۱۹۵۱ کو جس باب کے نیچے لائے ہیں اس کا عنوان یوں بانڈھا ہے باب الغسل بعد المحراب والغباب

رکتاب جہاد ۵۶۱ باب الغیب (یعنی لڑائی اور غبار کے بعد غسل کرنے کا باب۔ جس حدیثوں میں جس غبار کا ذکر اور اس کی وجہ سے غسل کا ذکر آتا ہے وہ رسول

اللہ صلعم کے متعلق ہی ہے نہ حضرت جبریل کے متعلق۔ یہاں یا تو راوی سے لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور مطلب وہی ہے جو ۱۹۵۱ میں بیان ہوا

کہ غبار کو دور کرنے کے لئے آپ نے غسل کیا تھا۔ اور یا مطلب یہ ہے کہ گردوغبار کو غسل سے دور کر کے سر کو بھاڑ دیتے تھے۔ لفظ بظاہر ان الفاظ

کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلعم کے فیصلہ کو منظور کر کے قلعے کے دروازے کھولے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلعم نے یہ معاملہ فیصلہ

کے لئے سعد کے سپرد کر دیا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اوس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خزرج کے حلفاء یعنی بنی قینقاع کے معاملہ میں

ان کے حسب منشاء فیصلہ کیا تھا تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ کیا تر راضی نہیں کہ اس معاملہ میں یعنی تمہارے حلفاء بنی قریظہ کے معاملہ میں تم میں سے

ایک شخص فیصلہ کرے اور معاملہ سعد کے سپرد کر دیا۔ لیکن فتح الباری میں ہے کہ قحنی کتبہ من السیر انہم فنزلوا علی حکم سعد۔ یعنی بہت سی

سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے پہلے ہی سعد کو حکم منظور کیا تھا۔ اور وہیں ہے کہ جب یہود کو یہ کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلعم کے فیصلے

کو منظور کرو تو انہوں نے ابو بکر سے مشورہ کر کے یہ کہا کہ ہم سعد کو حکم مانتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرظہ حکم الی سعد میں کسی راوی کو غلط فہمی

ہوئی ہو اور اصل مطلب یہی ہو کہ سید یہود نے آنحضرت کے فیصلہ پر رضامندی کا اظہار کیا لیکن بعد میں انہوں نے سعد کی طرف فیصلہ کو لوٹا یا

لگا اس کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۹۸۶ رسول اللہ صلعم کے الفاظ اس فیصلہ کے بعد موجود حدیثوں میں لگا رکھے ہیں لفظ حکمت فیہم حکم الملائک

۱۳۸۶) قضیت حکم اللہ دریدنا قال حکمہ الملائک۔ بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے فدائی فیصلہ قرار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی کتاب توریت میں

جنگ کے متعلق نبی حکم تھا۔ چنانچہ استثناء ۲۰: ۱۳-۱۴ میں مذکور ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جنگ میں محاصرہ تک نوبت پہنچے اور خداوند تیرا فضل الہی

۱۹۸۶ (۱۳۸۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکرم) ۱۹۲۱ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَصِيبُ سَعْدٌ يَوْمَ مَا أُخِذَ رِمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ جَبَانُ بْنُ الْعَرَفَةِ رِمَاهُ فِي الْأَجْحَلِ فَضْرَبَ لِلْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَ مِنْ قَرِيبٍ فَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السَّلَاحَ وَاعْتَسَلَ فَآتَاهُ جَبْرِيْلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعَبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ وَاللَّهُ مَا وَضَعْتَهُ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ قَالَ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِلٌ فَاشْأَرَالِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَوَى عَلَيْهِمْ فَرَدَّ الْحِمْدُ إِلَى سَعْدٍ قَالَ قَائِلٌ فَارْتَوَى عَلَيْهِمْ أَنْ تَقْتُلَ الْمُعَاتِلَةَ وَأَنْ تُسَبِّى الرَّسَاءَ وَ الذَّرِيَّةَ وَأَنْ تُقْسِمَ أَمْوَالَهُمْ (۱۹۸۶) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم) ۱۹۲۹

رابعہ سے روایت ہے
 ورنہ قرآن شریف میں یا حدیث میں جنگ کے قبلی کو قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ علاوہ ازیں اگر واقعات پر غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اس قابل تھی کہ ان کو سخت ترین سزا جو جنگ میں دی جاسکتی ہے

(م۔ ۱۹۸۷) عن البراء بن عازب (متکثر۔ ۱۲۵۴) (۳۳) باب غزوة ذات

الرقاع دیکھو حدیث ۱۲۵۴

الرقاع وهي غزوة محارب خصعة من بني ثعلبة من غطفان نزل

کی جنگ ۱۲۵۴ اور یہ محارب کی جنگ سے جو بنی ثعلبہ میں سے خصعہ کی اولاد ہے اور بنی ثعلبہ غطفان میں سے ہے آپ مقام نخلہ

نخلہ اور وہی بعد خیبر کان اباموسی جاء بعد خیبر ۶۲۲

ابن عبد اللہ عن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يا صحابه في الخوف في

سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف کی نماز

غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع قال ابن عباس صلى النبي صلى الله

ساتویں جنگ میں پڑھائی جو ذات الرقاع کی جنگ تھی محمد ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عليه وسلم اخوف بذي قن من ابي موسى بعد ما قال جابر احل لهم

خوف کی نماز ذی قن میں پڑھائی بعد ازیں ابوموسیٰ سے روایت ہے کہ جابر نے ان سے بیان کیا

دیکھا۔ وہ علانیہ مسلمان تھے دشمنوں میں سے نہ تھے بلکہ بڑے عمد نام مسلمان تھے حلیف تھے اور انہوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ایسی ہی خلیفہ کی کاررواہ کا میا بے جلتے تو مسلمانوں کا کوئی مرد زندہ بچا نہ عورت نہ بچہ نہ کچھ نہ کہیں بزار کا لشکر مدینہ کے باہر پڑا تھا جو ہزار سپندہ مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑنا تو ان لوگوں نے صلیف ہو کر ایسی خطرناک رروائی کی کہ سب دشمنوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر چڑھا لائے اور پھر اثنائے جنگ میں ہر طرح ان دشمنوں کی مدد کرتے رہے حالانکہ یہ خود مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ پس ان کا علاج سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ ان سب کو تہ تیغ کیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی اول بنی قینقار سے انے اور پھر بنی نضیر نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی مگر چونکہ اس کا اثر اٹنا نہ پڑا تھا اس لئے ان دونوں قوموں کی معرفت جلا وطنی پر اکتفا کیا۔ مگر یہ غداری چونکہ نہایت خطرناک تھی اس لئے ان کی اپنی شریعت کا حکم ان پر وارد کیا گیا۔ ان عیسائیوں پر تعیب ہے جو قرابت کو کتاب اللہ مانتے ہوئے اس فیصلہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلعم پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو یہودی اس موقع پر قتل کئے گئے انکی تعداد میں اختلاف ہے۔ مگر اغلب یہ ہے کہ یہ تین سو آدمی تھے۔ ۱۷۷ متکرر حدیث میں کچھ زیادہ ہے۔ پہلا حصہ انہی الفاظ میں ہے اور وضعت الحرب بیننا و بینہم کے بعد یہ زیادہ ہے۔ خان کان بقی من حرب قریش شیئ فابقی لی حتی اجاہدہم فلیک دان کنت وضعت الحرب فافجرھا واجعل موتی فیھا فانفجرت من لبتہ رلبتہ یعنی سینے سے پھوٹ نکلا، فلم یرحمہم (رؤ گئے) وفي المسجد خیمۃ من بنی غفار الا الدم یسئل الیہم فقالوا یا اهل الخیمۃ ما هذا الذی یا تینا من قبلک فماذا اسعد بقل وجرحہ دما فذمات منہا رضی اللہ عنہ واقعی اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کیونکہ مکہ بھی جنگ سے فرج نہیں ہوا۔ (صفحہ ۱۷۸) جلا بالکل ہی لفظ نہیں۔ قال النبی صلعم لحسان اہم اہم و جبریل معک اور ایک روایت میں یوم قریظۃ کے لفظ زائد ہیں۔ قال رسول اللہ صلعم یوم قریظۃ لحسان بن ثابت اہم اہم کہتے ہیں فان جبریل معک۔ ۱۲۵۴ ذات الرقاع نام کی تھی وجوہ دی گئی ہیں۔ رقائقہ رفعة کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ٹھنڈا جیسے مثلاً کپڑے کا ٹھنڈا جو بطور پیوند لگایا جائے تو اس کی وجہ بعض نے یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں جھنڈوں میں پیوند لگائے گئے تھے۔ اور بعض نے کہا ہاں ایک نہ رخت اس نام کا تھا۔ اور بعض نے کہا ایک پہاڑ تھا جس میں سرخ اور سفید اور سیاہ ٹھنڈے تھے۔ اور آگے حدیث باب میں آتا ہے کہ چونکہ سواری کا انتظام بہت ناکافی تھا تو ہلینے کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے اور ان پر چھتیرے لپیٹ لئے گئے اور اس وجہ سے اس جنگ کا نام ذات الرقاع ہوا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض اسے غزوہ خندق سے پہلے رکھتے ہیں اور بعض خیبر کے بعد امام بخاری نے اسے دوسرے خیال کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ابوموسیٰ خیبر کے بعد آئے اور یہ اسٹے بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے۔ اور غطفان نے جنگ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کسی ایک شاخ کی سرکوبی کے لئے یہ حملہ بھی ۱۲۵۴ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے دودن کے فاصلہ پر ہے۔ ۱۲۵۴ ابوموسیٰ حبش سے غزوہ خیبر کے بعد آئے۔ ۱۲۵۴ اس کو غزوہ السابو کہا ہے یعنی ساتویں جنگ مراد وہ غزوات ہیں جن میں نبی کریم صلعم بنفس نفیس نکلے اور جنگ بھی ہوئی اس لحاظ سے اول جنگ بدر ہے دوسری اہدیسری خندق چوتھی قریظہ پانچویں ربیعہ چھٹی خیبر ساتویں ذات الرقاع اور بعض نے غزوہ سابو کا مفہوم غزوہ سبہ سابو یا ہے یعنی ساتویں سال کا غزوہ۔ خوف کی نماز سے مراد وہ صورت نماز ہے جس کا ذکر سورہ نساء آیت ۱۰۲ میں ہے یعنی نصف آدمی ایک نعت آنحضرت صلعم کے ساتھ پڑھ کر چلے جائیں تو باقی نصف جو پہلوں کی ادائیگی نماز کے وقت دشمن کے مقابلہ پر رہے تھے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کریں ۱۲۵۴ ذی قن مدینہ سے ایک دن کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی غطفان کی طرف کا علاقہ تھا۔ اور یہ غزوہ غزوہ ذات الرقاع سے جدا ہے۔ تو دونوں جگہ نماز خوف پڑھی گئی۔ اور یہ جنگ کے حالات پر منحصر ہے۔

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ حَارِبٍ وَتَعْلِبَةٌ وَقَالَ بِنُ الْأَسْحَقِ سَمِعْتُ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حارب اور تعلبہ کے دن نماز پڑھائی اور ابن اسحق نے کہا میں نے وہب

وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ سَمِعْتُ جَابِرَ أَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَاتِ

بن کيسان کو سنا (کہا) میں نے جابر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخل سے ذات الرقاع

الرَّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَلَمَّا جَمَعُوا مِنْ غُطْفَانٍ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالٌ وَأَخَذَ النَّاسُ

کو گئے اور غطفان کی ایک جماعت سے ملے لڑائی نہیں ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کو

بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ أَحْوَفَ وَقَالَ زَيْدٌ

ڈرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی دو رکعتیں پڑھائیں اور زید نے سلمہ

عَنْ سُلَيْمَةَ عَزْرُوتٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَرَدِ (۴۳) عَنْ

سے روایت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرود کے دن جنگ میں شریک ہوا

أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٌ لِفِرْعَوْنَ

ابو موسی سے روایت ہے کہ ہم فرعون کے ساتھ ایک لڑائی میں گئے ہم چھ آدمی تھے

بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ فَتَقَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَتَقَبَّتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي وَ

ہمارے درمیان ایک اونٹن مشترک تھا ہم باری باری اس پر سوار ہوتے تھے تو ہمارے پاؤں بھٹ گئے اور میرے پاؤں بھی بھٹ گئے

كُنَّا نَلْفُ عَلَى رَجُلِنَا الْخَرَقِ فَسَمَّيْتُ غَزْوَةً ذَاتِ الرَّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ

اور میرے ناخن بھی گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر صہترے لپیٹ لیتے اس لئے اس کا نام ذات الرقاع ہوا کیونکہ ہم اپنے پاؤں پر صہترے

مِنَ الْخَرَقِ عَلَى أَرْجَلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا شَمُّ كِرَاةٍ ذَاكَ قَالَ مَا كُنْتُ

لپیٹ لیا کرتے تھے ابو موسی نے یہ بیان کیا پھر اسے ناپسند کیا کہ میں جو کرتا تھا

أَصْنَعُ يَأْنِ إِذْ كَرِهْتُ كَرَاهَةً أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِّنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ (۴۴) عَنْ

تو اس لئے نہیں کہ اس کا ذکر کروں گو یا کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے نیک عملوں میں سے کچھ ظاہر کریں

صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ

صالح بن خوات ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاع کے دن موجود تھا

صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَارِفَةَ صَرَفَتْ مَعَهُ وَطَارِفَةُ وَجَاهُ الْعَدُوِّ فَصَلَّى

رازم خوف کی نماز پڑھی کہ ایک گروہ نے آپ کے ساتھ صف بانڈھی اور ایک گروہ دشمن کے مقابل پڑھا

بِالَّتِي مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا

جو گروہ آپ کے ساتھ تھا اس کو ایک رکعت پڑھائی پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کی پھر لوٹ گئے اور

وَجَاهُ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّارِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ

دشمن کے مقابل صف بانڈھی اور دوسرا گروہ آیا اور انکو رکعت پڑھائی جو آپ کی نماز میں سے رہ گئی تھی

صَلَاتِهِ ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَقَالَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی پھر انکے ساتھ سلام پھیرا اور جابر سے روایت ہے کہ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْلٍ فَنَزَّ كِرْ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ مَلَكَ وَذَلِكَ

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل میں تھے پھر خوف کی نماز کا ذکر کیا امام مالک نے نماز خوف کی نماز

أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ

کے ہاتھ میں میں نے جو سنا ہے سب سے عمدہ روایت ہے امام اسحاق نے ہشام سے زید بن اسم سے روایت کیا ہے

ملکہ حارِب اور
تعلبہ کے دن سے
مراوغزوہ ذات
الرقاع ہے یہاں
کہ حوزان باب
سے ظاہر ہے
۱۷ یعنی محض
ایک دوسرے
سے جنگ کا خوف
رہا۔ اور جنگ
نہیں ہوئی
ملکہ ظاہر مطلب
اس کا یہ معلوم
ہوتا ہے کہ شخص
اشعری تھے جس
قبیلہ کے حضرت
ابو موسی تھے
ملکہ یعنی جو تکلیفیں
ضد کی راہ میں نہیں
ان کا ظاہر کرنا
پسند کرتے تھے
۱۸ یعنی میں ہے
کہ اس کا نام سلم
بن ابی حنظلہ ہے
اور فتح الساری
میں اس قول کو
ترجیح دی جو کہ یہ
خوات ابن جریج
۱۹ یعنی نبی کریم نے
دو رکعتیں نماز کی
پڑھائیں پہلے ایک
گروہ نے ایک رکعت
پڑھی اور پھر دوسری
کو اپنے طور پر پورا کر
لیا اور وہ دشمن کے
مقابل پر چلے گئے
تو دوسرا گروہ
اسی طرح آ گیا

وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّ الرَّجُلِ غَوْرَةَ بِنَ الْحَارِثِ وَ

مسدد نے ابو عوانہ سے ابو بشر سے روایت کی ہے کہ اس شخص کا نام غورث بن حارث تھا اور

قَاتَلَتْ فِيهَا مُحَمَّدًا رِبَّ خَصْفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

آپ نے اس غزوہ میں (قبیلہ) محارب خصفہ سے جنگ کی اور ابو الزبیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

وَسَلَّمَ بِبَيْتِ فَصْلَةَ الْخَوْفِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ

مقام نخف میں تھے تو آپ نے خوف کی نماز پڑھی اور ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

بِحُدُودِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ

نخف میں خوف کی نماز پڑھی اور ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

خَيْبَرَ (م) بِأَبِ غَزْوَةِ بِنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خَزَاعَةَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيِّعٍ وَالْ

آئے تھے باب المصطلق کا غزوہ جو خزاعہ میں سے ہے اور یہی غزوہ مرسیع ہے

ابن اسحاق وَذَلِكَ سَنَةٌ سِتٌّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ سَنَةٌ أَرْبَعٌ وَقَالَ اللَّحْمَنُ

ابن اسحاق نے کہا یہ سترہویں سن ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا سترہویں سن ہے اور نعمان بن راشد

ابن راشد عن الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْأَنْفِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيِّعِ (م) ۱۹۹۱

نے زہری سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت کا قصہ غزوہ مرسیع میں پیش آیا

ابن محيي ريز (متكسر) ۱۰۹۲ (م) ۱۹۹۲ عن جابر بن عبد الله (متكسر) ۱۳۴۲

دیکھو حدیث ۱۰۹۲ (متکسر) دیکھو حدیث ۱۳۴۲

(م) ۱۹۹۲ عن جابر بن عبد الله (متكسر) ۱۳۴۲

باب غزوة أنمار (م) ۱۹۹۲ عن جابر بن عبد الله أنصاري قال رأيت

باب غزوة أنمار کا غزوہ

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

ابن اسحاق

علاء بن المصطلق لقب ہے جو لقبہ صلیق سے مشتق ہے جس کے معنی آواز کا بلند کرنا ہیں اور اس قبیلہ کا نام عبد بن سعد ہے جو خزاعہ کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے اور مرسیع ایک چشمہ یا کنوئیں کا نام ہے اس غزوہ کے متعلق ابن اسحاق نے کہا ہے کہ نبی صلعم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ بنی مصطلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری فرمائی ہے تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔

ابن اسحاق نے کہا ہے کہ نبی صلعم کو یہ خبر پہنچی تھی کہ بنی مصطلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری فرمائی ہے تو آپ نے ان پر چڑھائی کی۔

پیش آیا ہو +

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَمَّارٍ تُصَلِّدُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَوَجِّهًا قَبْلَ مَشْرِقِ	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ اعمار میں دیکھا اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ مشرق کی
مُتَّصِعًا رِجْلًا، بَابُ حَدِيثِ الْأَفْكَ وَالْأَفْكَ بِمَثَلَةِ الْجِسْرِ الْجَسْرُ يُقَالُ فَجَّرَهُمْ	پاؤں تھامے۔ باب ایک کا قصہ اور افک اور افک رجن اور رجن کی طرح ہے۔ کہا جاتا ہے انہیں
(۱۹۹۳) عَنْ عَائِشَةَ (مِتَكَرٌ - ۱۲۴۶) ۱۱۷۴) عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ	۱۱۷۴ دیکھو حدیث ۱۲۴۶ زہری سے روایت ہے کہا مجھ سے
بِأَنَّ لَوْلَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبْلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَتْ عَائِشَةُ قَلْتُ	ولید بن عبد الملک نے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی بھی ان میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی
لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ	میں نے کہا نہیں البتہ مجھ کو آپ کی قوم کے دو شخصوں نے اور سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهَا مَا كَانَ عَلِيٌّ مُسْلِمًا فِي شَأْنِهَا	بن عبد الرحمن بن حارث نے خبر دی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت علی میرے معاملہ میں خاموش تھے
(۱۹۹۴) عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ (مِتَكَرٌ - ۱۲۴۶)	۱۹۹۴ دیکھو حدیث ۱۲۴۶

کے یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے کہ غزوہ اعمار میں جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نفل نماز پڑھتے دیکھا۔ حدیث ۱۹۹۳ میں جا بکر کی روایت عام الفاظ میں ہے کان النبی صلیم یعنی علی راحلہ جہت توجہت بہ فاذا اراد الغزوة نزل قائم مستقبل القبلة۔ افک یعنی حضرت عائشہ

صدیق پر جو تہمت باندھی گئی تھی اس کا ذکر یہ غزوہ مرہب سے واپسی پر ہوا۔ اس مناسبت سے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ افک کی حدیث ایک بہت لمبی حدیث ہے جو ۱۲۴۶ پر لکھی گئی ہے۔ یہاں بعض تفصیلات اور زیادہ لکھی ہیں۔ مثلاً ابتدا میں مختلف راویوں کے نام۔ پھر جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ جس شخص نے سب سے پڑھا کہ اس افک کے باندھنے میں حصہ لیا وہ عبد اللہ بن ابی اسلول تھا وہاں یہ پڑھا گیا ہے۔ قال عروہ اذ خبرت انه كان يشام ويتحدث به عنده ذئبقه وسيمعه وبيدوشيه ركر يدكر يدكر دريانت كرتا، وقال عروہ ايضا لم يسم من اهل الافك ايضا الاحساد بن ثابت ومسطح بن اثاثة وجماعة بنت جحش في ناس اخرين لا علم لي بهم غير انهم عصبية كما قال الله تعالى وان كبريتك يقول عبيد بن ابی اسلول قال عروہ كانت عائشة تكذب ان يسب عندنا حسان وتقول انه الذي قال فان ابی ووالده وعرضي - عرض محمد منكم وقاتله (يعني ميراباب اور اس کا باپ اور میری عزت اور محمد صلعم کی عزت کا بچاؤ ہوں) جہاں حضرت عائشہ اور ام مسطح کے باہر قبل الغائط جانے کا ذکر ہے وہاں پڑھا گیا ہے وكننا نأذی بالكدك ان نتخذنا عندنا بيوتنا يعني ان ايام من كبرهون میں پانچاٹے بنائے ہیں ہم تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ام مسطح کے ذکر میں یہ پڑھا گیا ہے یعنی وہی ابنة ابی رهم کے بصر بن المطلب بن عبد منافت واحبا بنت صفخر بن عامر خالة ابی بكر الصديق واثاثة بن مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلب جس میں مسطح کا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق سے بتایا ہے۔ اصل حدیث کے خاتمہ پر یہ پڑھا گیا ہے۔ قالت وطفت اختها سمحة فحارب لها فهلكت فممن هلك (يعني افك والول) میں شامل ہو کر ہلاک ہوئی، قال ابن شهاب فهذا الذي يدغى من حديث هولا، الرهط ثم قال عروہ قالت عائشة والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل لمراد صفوان بن محرز ہے، ليقول سبحان الله تو الذي نفسي بيدك ما كشفت من كذب انثى قط (يعني میں نے کبھی بھی کسی عورت کا ستر نہیں ہلا جس سے معلوم ہوا کہ وہ عورت کے نزدیک جانے کے قابل ہی نہ تھی) قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله (مگر یہاں لفظ مسلم ہے جو تسلیم سے ہے اور تسلیم امر سے مراد اس میں سکوت اختیار کرنا ہے) بعض نے اسے مسلما بھی پڑھا ہے جو سلامت سے ہے یعنی اس معاملہ میں پڑنے سے سلامت رہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کردہ احادیث سے اسی معنی کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ ان احادیث میں یہ ذکر ہے کہ جب آنحضرت صلعم نے حضرت علی سے مشورہ لیا تو انہوں نے ایک تو یہ مشورہ دیا کہ آپ بریرہ (روندی) سے دریافت کریں اور دوسرے یہ کہا تھا کہ رضیعہ اللہ عليك والنساء سواها كاذب یعنی آپ جہاں تو اور شاہی بھی کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس تہمت میں شریک تھے اور بعض نے بجائے مسلم یا مسلم کے لفظ مسیحا یہاں روایت کیا ہے یعنی اس معاملہ میں آپ خطا کار تھے تو یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ بنی امیہ کو چونکہ حضرت علی سے پرغاش تھی اسلئے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دیکر کو خوش کرنے کیلئے ایسا کہنا یا وہ لکھنا۔ روایت ام رومان کی حضرت عائشہ کی حدیث کا بیٹھنا ۱۲۴۶ کا ہے۔ قالت بدنا انا قاعدة اذ نادعائشة اذ ولجت امرأة من الانصار فقالت فعل الله بقلان وفعل (اسے تباہ کرے) فقالت ام رومان وما ذاك قالت ابني فممن حدث الحديث قالت وما ذاك قالت كذا وكذا قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وابوبكر قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما اذات الا ودعيلها حتى بنا فض رلرزه كساته نجار چڑھا ہوا تھا)

(۹۸۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقْرَأُ إِذَا تَلَقَوْتَهُ يَا لَسْتِكَ وَتَقُولُ الْوَلَقْتُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ پڑھا کرتی تھیں اذ تلقوتہ بالسنکھ اور کہا کرتی تھیں کہ ولق جھوٹ

الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ

ابن ابی ملیکہ نے کہا اور اس کے متعلق اوروں سے انکو زیادہ علم تھا کیونکہ انہی کے ہاں سے اس آیت نازل

فِيهَا (م- ۱۹۹۵) عَنْ عُرْوَةَ (متکرم- ۱۵۸۳) (۱۹۹۶) عَنْ هَمْرَةَ قَالَ

تھا (م- ۱۹۹۵) دیکھو حدیث ۱۵۸۳ مرقی سے روایت ہے کہا

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِنَا حَسَنًا بِنْتُ تَابِتٍ يُنْسِدُهَا شَعْرًا لَيْثِيًّا

ہم حضرت عائشہ کے پاس گئے اور ان کے پاس حسان بنت ثابت ان کو شعر سناتے تھے اپنے کچھ بیٹوں

بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ سَه

سے ان کی ابیات کی سہ

حَصَانٌ ذَرَانٌ فَاتَرْتَنُّ بِرَبِيبَةٍ

وہ یا کرا من اور بوجہ ہے اس پر کوئی تمہمت نہیں لگائی جا سکتی

وَتَضْبِمْ عُرْوَةَ مِنْ حُودَمِ الْعَوَائِلِ

اور تمہمت سے) بجز عورتوں کے گوشت سے بھوک رہتی ہے

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَيْتَكَ لَيْتَكَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِي لَهُ

تو حضرت عائشہ نے اس سے کہا مگر تم ایسے نہیں ہو مرقی نے کہا میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں اس کو اپنے پاس لے آتی ہا جازت

أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِي تُولِي كِبْرَهُمْ هُمْ أَكْبَرُ أَبِ عَزِيمٍ

اور اترنے تو فرمایا ہے اور ان میں سے جس نے بڑا بوجھ اپنے اوپر لیا اسکے لئے بڑا عذاب ہے

قَالَتْ وَانصرفت ولم يقل شيئاً فانزل الله عنهما قالا مجدداً لا محمد احد ولا محمدك

بیان کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ مؤرخین نے ام رومان کا سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا جانے کا بیان کیا ہے۔ مگر یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ سنہ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات کو اختیار کیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا تھا کہ اپنے باپ اور ماں سے پوچھ کر اس کا جواب دینا۔ اور بعض دیگر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر جس کا ماخذ اقدسی ہے صحیح نہیں۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں صحیح اختلاف بھی ہے۔ وہاں پر ذکر ہے کہ ام سلمہ سے حضرت عائشہ کو اس بات کا علم ہوا اور آپ آنحضرت کے گھر میں ہی بیمار پڑی ہوئی تھیں اور یہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انصاری عورت سے علم ہوا اور اسی وقت ان کو بخاریا ہوا لیکن دونوں روایتوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک حضرت عائشہ کو یہ علم نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو بھی یہ خبر پہنچ گئی ہے اور پہلے ان کے بخاریں فاقہ ہو گیا ہوا اور اس بات کو سنکر پھر تیز بخار ہو گیا ہو۔ (حاشیہ صفحہ ۹۸۱) قرآن شریف میں تلقوتہ آیا ہے جس کے معنی ہیں لیتے تھے حضرت عائشہ نے اسے تلقوتہ پڑھ کر کہا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کون ہے جو تمہاری

معنی اس آیت کی کذب میں یعنی جھوٹ میں جلدی کرنا۔ ابن ابی ملیکہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس کے مفہوم کو خوب سمجھتی تھیں کیونکہ یہ آیت انہی کے ہاں سے نازل ہوئی تھی۔ مصلحہ ۵۸۲ حضرت عائشہ کی روایت ہے اور ۵۸۳ عروہ کی۔ یہاں عروہ کی روایت میں ان دونوں روایتوں کے

مضمون کو اکٹھا کر دیا ہے۔ قال ذهبت أشت حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عائشة استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشركين قال كيف نسبي قال لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين - اور ایک روایت کی رسمے آخر پر بڑھا دیا ہے۔ سہیت حسان وکان ممن اكلوا عليهما حان كورلما اور وہ ابن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت عائشہ کو بہت بدنام کیا تھا۔ مصلحہ ۵۸۲ تشبیب اور تشبیب الشعر شعر کو عورتوں کے زکری سے زینت دینا ہے (شبت - جوان ہونا) اور تشبیب محض شعر سے ابتداء کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ نایاب

میں ہے۔ فلما سمع حسان شعرها لفت شبيب مجاد ويداى ابتداء في جواب من تشبيل لكتب وهو الا بئنا اءبا واولادنا فها اوليس من تشبيل النساء في الشعرة - تاج العروس میں بھی ہے کہ تشبیب شعر کے ساتھ ابتداء کرنا ہے۔ مصلحہ یہ ایک قصیدہ کا ایک شعر ہے۔ حسان یا ک وامن عفيفه ذرآن وقار والی - غرضی بھوک - غواخل غافله کی جمع ہے ایسی عورت جو اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ اس پر کوئی تمہمت لگائی جاتی ہے۔ یعنی خود پاک امن ہے۔ دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی اور نہ کسی پر تمہمت لگائی ہے اس لئے وہ نیک عورتوں کے گوشت سے بھوک رہتی ہے کیونکہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے تو جو غیبت سے بچا اس نے گویا اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا۔ انہی کو

بیاں بھوکا رہنا قرار دیا ہے۔ مصلحہ اس لئے کہ حسان بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر انک کی تشہیر کی +

ترجمہ ۹۸۱
حضرت عائشہ علیہا
ثابہا فخطبتہا
فجاء النبي صلی اللہ
علیہ وسلم فقال
ما شان هذا
قلت یا رسول اللہ
اخذتھا الحلی
بناقض قال خلعتی
فی حدیث صحیح
بدقالت نعم
فقدت عائشة
قالت والله لئن
حلقت لا تصدقن
ولئن قلت لا
تعدو علی منلی
ومثلک کی عیوب
ونبیہ واللہ المستور
علما تصدقن

فَقَالَتْ وَأُمِّي حَذَابِ أَشَدُّ مِنَ الْعَلْيِ قَالَتْ لَمَّا رَأَتْهُ كَانَ يَبْرَأُ فَمِنْ أُمَّهَا جِيءَ عَنْ

انہوں نے کہا کہ تونا عذاب اندھا پن سے بڑھ کر ہے۔ اور حسان کے متنازع کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِ (۳) بَابُ غَزْوَةِ أَحَدٍ يَبِيَّةَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

مَدْرَفَعَتْ كَرْتَا تَتَهَيَّأُ بِحُجْرِكَ جَوَابٌ دِيَّانَةٌ عَمَّا

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ر- ۱۹۹۶ عَنِ

اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے بیچے سے بیعت کرتے تھے (الفقه ۱۸) ع

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَمَتَكَ (۵۰۹) (ر- ۱۹۹۷) عَنِ أَنَسِ رَمَتْكَ (۹۱۵)

دیکھو حدیث ۵۰۹ دیکھو حدیث ۹۱۵

(ر- ۱۹۹۸) عَنِ أَبِي قَتَادَةَ رَمَتَكَ (۹۲۸) (ر- ۱۹۹۹) عَنِ الْبَرَاءِ رَمَتْكَ (۱۷۰۵)

دیکھو حدیث ۹۲۸ دیکھو حدیث ۱۷۰۵

(ر- ۲۰۰۰) عَنِ الْبَرَاءِ رَمَتْكَ (۱۷۰۵) (ر- ۲۰۰۱) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَمَتْكَ (۱۷۰۴)

دیکھو حدیث ۱۷۰۵ دیکھو حدیث ۱۷۰۴

(۹۹) ر- ۱۹۹۹ عَنِ قَتَادَةَ قَالَتْ لَسَعِينٌ مِنَ الْمَسِيْبِ بَلَعْنِي أَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

مقادہ سے روایت ہے میں نے سعید بن المسیب سے کہا مجھے خبر پہنچی ہے کہ جابر بن عبد اللہ کتے تھے

كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعًا عَشْرَةَ مَائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا

کہ وہ (یعنی اصحاب حدیبیہ) چودہ سو تھے تو سعید نے مجھے کہا کہ عابثے مجھ سے بیان کیا کہ وہ

خَمْسٌ عَشْرَةَ مَائَةً الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ يَبِيَّةَ

پندرہ سو آدمی تھے جنہوں نے

حضرت حسان
آخری عمر میں نابینا
ہو گئے تھے
جس کا تدریک
نفسی ہے کہ اپنے
اد پر چھوٹا انوار
نگا فیولے کو بھی برا
کئے سے روکا۔
صرف اس لئے
کہ وہ رسول اللہ
صلعم پر حملوں کا
جواب دیتا تھا۔
کاش اس زین
اصول کو آج بھی
سلمان مد نظر
رکھنے اور ان لوگوں
پر نیش زنی سے
رک جائے جو لوگ
اللہ صلعم پر حملوں
کا جواب دیتے ہیں
صلعم حدیبیہ میں
تشریدا و تحفیف

دونوں لغتیں ہیں یعنی حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے اور حدیبیہ بھی۔ اہل حجاز تحفیف سے بولتے ہیں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس نام کے ایک
 کوئیں پر اس کا نام ہے اور مدینہ سے نو منزل کے فاصلہ پر ہے۔ اور مکہ معظمہ سے ایک منزل۔ اور اس کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے بعض نسخوں میں بجائے
 غزوة کے لفظ حمرة احد بیبیتہ ہے اور صحیح یہی ہے کہ آنحضرت صلعم صرف عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تھے جنگ کیلئے نہیں۔ اور یہ سلسلہ سبھی کا واقعہ
 ہے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ ہتھیار لیکر نہیں گئے تھے صرف تلواریں ساتھ تھیں اور ستر قرآنی کے اونٹ ساتھ تھے۔ آپ کے ساتھیوں کی تعداد
 اختلاف روایات کیساتھ چودہ سو پندرہ سو سو سو سو کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے اتباع اور جوڑوں کو شمار کیا ہے بعض نے
 نہیں کیا۔ مگر روایت کچھ اختلاف لفظی سے آئی ہے۔۔۔ قال خرجنا مع رسول الله صلعم عام الحدیبیة فاصابنا مطرا ذات ليلة فضلت النار رسول الله
 صلعم الصبح ثم اقبل علينا فقال اندرون ما نأ قال ربكم هلنا الله ورسوله اعلم فقال قال الله اصبر من عبادهي من مومن بي وكافراي فاما من قال
 مطرا نار حمة الله وبريق الله وبفضل الله فهو مومن بي كافر بالكوکب واما من قال مطرا نار حمة الله فهو مومن بالكوکب كافر بي، ۱۷۰۵ کچھ
 نظموں کی کمی پیشی ہے مگر نفس مضمون ایک ہے۔ قال اعتمر رسول الله صلعم اربعه ثمر کلین فی ذی القعدة الا الی كانت مع حجته عمرة من الحدیبیة
 فی ذی القعدة وحمرة من العام المقبل فی ذی القعدة وحمرة من الجمرات حيث قسم غنائم حنین فی ذی القعدة وحمرة مع حجته۔ اس
 میں آپ کے چار عمروں کا ذکر ہے جن میں سے ایک عمرہ حدیبیہ ہے۔ ۱۷۰۴ کے صرف ابتدائی الفاظ دوہرائے ہیں جن میں حدیبیہ کے سال میں
 نکلنے کا ذکر ہے۔ انطلقنا مع النبی صلعم عام الحدیبیة فأحرم اصحابہ ولم أحرم، ۱۷۰۵ کے ابتدائیں کچھ زیادہ ہے۔ قال تعددت انتم الفتح فتح
 مكة وقد كان فتح مكة فتحنا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحدیبیة۔ اس کے بعد کے الفاظ تحفیف اختلاف لفظی سے آئے ہیں
 اور ان میں ذکر ہے کہ حدیبیہ کے کوئیں کا پانی ختم ہو گیا تو سب سے کھوکھلا ہوا پانی بڑھ گیا۔ ۱۷۰۶ کسی قدر لفظی اختلاف سے دوہرایا ہے۔ انہم كانوا
 مع رسول الله صلعم يوم الحدیبیة القادار لبعاءه واكثر فنزلوا على بئر فنزلوها فاذا رسول الله صلعم عليه سلم فاقبل لثرو وقد جعل شفيعها
 ثم قال لثوني بدل لومنا فاني به نصيب قد عاثرنا قال دعوها ساعة فاروا وانفسهم وركابهم حتى ارتحلوا، ۱۷۰۶ تحفیف اختلاف لفظی
 سے دوہرایا ہے۔ ۱۷۰۷ تعداد کے اختلاف کے متعلق اوپر ذکر ہو چکا۔ چودہ سو یا پندرہ سو یا سولہ سو یا سب اندازے ہیں۔

۱۸۰۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ

الْحُدُودِ بِيَمِينِ آتَمَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَنَا الْفَأْوُذُ بِعِمَارَةِ وَوَلَكُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ

کے دن فرمایا تم سانس زمین والوں سے افضل ہو اور ہم ایک ہزار اور چار سو تھے اور اگر آج میں دیکھ سکتا

لَأَرِيَنَّكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ تَابِعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرَ الْفَأْوُذِ بِعِمَارَةِ

تو تم کو درخت کی جگہ بنا دیتا اعمش نے یہی روایت کیا انہوں نے سالم سے انہوں نے جابر سے ایک ہزار چار سو آدمی سنا

رَوَيْتُ رَوَايَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَفَعَهُ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ الْفَأْوُذِ لِلثَّمَاذِيَّةِ

اور ایک روایت میں عبد اللہ بن ابی اوفی سے ہے کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ایک ہزار تین سو تھے

وَكَانَتْ أَسْمُ مِنْهُمْ الْمُهَاجِرِينَ (۱۸۰۱) عَنْ مَرْدَاةٍ أَسْلَمَتْ بِقَوْلِ وَكَانَ مِنْ

اور قبیلہ اسلم کے لوگ، مہاجرین کا آٹھواں حصہ تھے مرد اس اسمی سے روایت ہے کہنے تھے اور وہ درخت کے

أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ لَصَارَ مِنَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ وَتَبِعَهُ حِفَالَةُ حِفَالَةَ التَّمْرُودِ

نیچے بیعت کرنے والوں میں سے تھے کہ نیک لوگ کے بعد دیکھے گئے اور وہی لوگ رہ جائیں گے جیسے ردی ٹھہور اور

الشُّعَيْرِ لَا يَمْلَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا (م-۲۰۰۳) عَنْ مَرْدَوَانَ وَامْسُورَةَ بْنِ شَيْخَةَ (متكرر ۱۸۹۳)

ردی جو اللہ کو ان کی کوئی پوراہ نہیں ہوگی اے دیکھو حدیث ۱۸۹۳

(م-۲۰۰۴) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (متكرر- ۹۲۷) (۱۸۰۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَةَ عَنْ أَبِيهِ

دیکھو حدیث ۹۲۷ زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوقِ فَحَقَّتْ مَرَأَةٌ شَابَةً فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ

کہا میں حضرت عمر بن خطاب کے ہمراہ بازار کی طرف نکلا تو حضرت عمر سے ایک جوان عورت ملی اس نے کہا اے

الْمُؤْمِنِينَ هَلْكَ زَوْجِي تَرَكَ وَصِيَّةً صَغِيرًا وَاللَّهِ مَا يَنْصِبُونَ كَرَاهًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ

امیر المؤمنین میرا مندر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے اللہ کی قسم ان کو بکری کے پائے بکھانے کو بھیجے ہیں ورنہ انکی زمین ہے

وَلَا صَرْعٌ وَخَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبْعُ وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ حَقَافُ بَنِي إِيمَانَ الْغَفَارِيِّ وَقَدْ

اور نہ دو دو گھ کے جانور اور مجھے ڈر ہے کہ خط سالی ان کو کھانا نہ پالے اور میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں اور میرا

شَهْدًا بِالْحَدِيثِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَقَّفَ مَعَهُ عَمْرُومٌ وَمِصْرُ بْنُ قَالٍ

باپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث میں موجود تھا حضرت عمراس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے نہیں بڑھے پھر

مَرَحِبًا بِنَسِيبِ قَرِيبٍ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْمُوطًا فِي الدَّارِ

کہا مرحبا یہ تو قریب کا نسب ہے پھر وہ ایک مشہور اونٹ کی طرف گئے جو گھر میں بندھا ہوا تھا

فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلَكَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ

اور اس پر انانج کی دو گھنٹیں بھر کر لادیں اور ان کے درمیان کچھ روپیہ اور کپڑے رکھے پھر

نَاوَلَهَا بِخَطْمِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتَادِيَهُ فَلَئِنْ يَغْنِي حَتَّى يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ

اس کی گھنٹیں اسے پکڑا دی اور فرمایا اسے لے جا یہ ختم نہ ہوا ہوگا کہ اللہ اس سے بہتر تم کو دے گا

۱۸۰۰) عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
ان کی بصارت
جانی رہی تھی
ملا حدیث کو
یہاں لانے کی
غرض صرف اس
قدر ہے کہ مردوں
اسی بیعت شوق
میں شامل تھے
حقالہ اور خثالہ
ایک ہی منہ ہیں
ردی چیز
ملا مکر حدیث
قریباً انی الفاظ
میں آتی ہے
آخر پر واضح
احوم رو ہاں
بالعمرة بھی
ہے جو بیان نہیں
کے بعد بڑھایا
ہے۔ لا اصح
کم سمعہ من
سغین حتی
سمعتہ یقول
لا احفظ من
الزهری لا اشفا
والثقلید فلا
ادری یعنی
موضع الاشعار
والثقلید
اد الحدیث کلہ
دیکھو نوٹ ۷
۳۸۹
۱۷ پچھلے حصہ میں
کچھ بڑھایا ہے

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه وقمعه يسقط على وجهه فقال ايديك هو امل قال نعم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق وهو بالحديبية
لم بين اللهم انهم يحلون بها وهم على طمعه ان يدخلوا مكة فانزل الله الغنمية رايت فدي البقره ۱۹۰ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا
بين ستة مساكين او يهدى شاة او يصوم ثلثة ايام ۷ قريبا كان من اس لحائنه من عورت قبيد غفاري من سغين ۷ اور غفاري
اور قریش کی انہیں مل جاتے ہیں۔ مگر غالباً حضرت عمر کا یہ منشاء تھا کہ اس نے اپنی نسبت ایک مشہور شخص کی طرف کی ہے ۷

فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرَتْ لَهَا قَالِ عُمَرُ تَكَلُّمَكَ أُمَّكَ وَاللَّهِ إِنِّي

ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین آپ نے اسکو بہت دیکھا فرمایا تم پر افسوس ہے اللہ کی قسم میں نے اس کے

گزارشی اب اہلذکر و آخاھا قد حاصرا حصنا زمانا فافتحا لکم اثم اصبحنا نستغفر

باب اور اس کے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے دیر تک ایک گلے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور اسکو فریخ کر لیا پھر ہم نے ان دونوں کے

سألمنا ثم لم ندر فیہ (م- ۲۰۰۵) عن سعید بن المسیب (متک- ۱۸۰۳) (۱۸۰۳) عن

حصہ میں سے ہاں غیبت یا علی دیکھو حدیث ۱۸۰۳

طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمردت بمقوم يصلون قلت ما

ہذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة

یہ کبھی مسجد ہے لوگوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان

الرضوان فانبت سعید بن المسیب فاخبرته فقال سعید حدثني ابو اذ

لی تھی میں سعید بن المسیب کے پاس آیا اور انکو خبر دی تو سعید نے کہا میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ

كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا

وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہا تو جب اگلے سال ہم گئے تو

من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد ان اصحاب محمد صلى

ہم اس کو بھول گئے اور اس کی شناخت پر قادر نہ ہو سکے تو سعید نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلمهم (م- ۲۰۰۶) عن المسيب

کے صحابہ تو اس کو پہچان نہ سکے اور تم نے اس کو پہچان لیا تو تم زیادہ علم والے تھے

(متک- ۱۸۰۳) (م- ۲۰۰۶) عن طارق (متک- ۱۸۰۳) (م- ۲۰۰۶) عن عبد الله

دیکھو حدیث ۱۸۰۳ دیکھو حدیث ۱۸۰۳

ابن ابي اوفى (متک- ۱۸۰۲) (م- ۲۰۰۸) عن عبد بن تميم (متک- ۱۳۸۵)

دیکھو حدیث ۸۰۲ دیکھو حدیث ۱۳۸۵

(م- ۱۸۰۲) عن سلمة بن الأكوع وكان من اصحاب الشجرة قال لنا نضيد مع

سلمہ بن اکوع سے روایت ہے اور وہ اصحاب الشجرہ میں سے تھے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ

النبي صلى الله عليه وسلم اجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل تستظل

کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر فارغ ہو جاتے اور دیواروں کا سایہ نہ ہوتا جس میں ہم سایہ لیتے

فيها (م- ۲۰۰۹) عن يزيد بن ابي عبيد (متک- ۱۳۵۹) (م- ۱۸۰۵) عن العلاء ابن

دیکھو حدیث ۱۳۵۹ دیکھو حدیث ۱۸۰۵

علاء ابن سيب

المقبل فحبيت عليناه قال ذكرت عندا سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال اخبرني ابي وكان شهد هاء

ابن ابي اوفى کے بعد یہ لفظ زائد نہیں۔ دکان من اصحاب الشجرة۔ اسی کا تعلق عنوان سے ہے باقی لفظ قریب قریب وہی ہیں۔

نقلی ہے۔ قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال بن زيد على فابايع ابن حنظلة الناس قيل لعلى الموت قال لا ابايع

علا ذلك احد احد من رسول الله صلعم وكان مشهد معه الحد بيده۔ آخری فقرہ جسک تعلق عنوان باقی ہے۔ اصل حدیث میں نہیں دیکھو نوٹ ۵۷۱

اس حدیث کو لاکر یہ بتایا ہے کہ بیعت رضوان تین گنی تھی م ۲۰۰۹ میں اسی تصریح کی ہے۔ جمعہ کا وقت زوال کے بعد ہے جیسا کہ کتاب جمعہ میں گذر چکا۔ یہاں دیواروں

کا سایہ نہ ہونے سے مراد ہے کہ اتنا سایہ نہ ہوتا جس کے نیچے پناہ لے سکتے یعنی اول وقت میں نماز جمعہ ہو جاتی ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قلت سلمة بن اکوع

ص على اى شى بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحاء بيعة قال على الموت +

علاء غائب غیر خبر کے کسی قلعہ کا ذکر ہے۔ علیا بیان روایت مختصر ہے۔ لفظ رائیت الشجرة ثم اتیتھا بعد فلم احدھذا قال محمود (راوی) ثم اشیتھا بعد علی یعنی صحابہ جن کو یہ معلوم ہونا چاہئے تھا کہ فلاں درخت کے نیچے ہم بیعت کی تھی وہ تو اگلے سال بھی اس کو شناخت نہ کر سکے تم نے اتنی مدت بعد اس کا بیٹہ کیونکر لگایا۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ہی اسے بھول گئے ہوں۔ جابر کی حدیث میں ہے کہ اگر ان کی بیانی ہوئی تو وہ اسے بتا دیتے۔ اس کے لفظ یوں ہیں۔ انہ کان ممن بايعه تحت الشجرة فرجعنا اليها العام

المُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَعَلَّتْ طُوبَى لَكَ صَحَبَتِ

اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں برادر بن عازب سے ملا اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ نبی صلی اللہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ

علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ سے وراثت کے لیے بیعت کی تو انہوں نے کہا جھٹتے تم

لَا تَدْرِي مَا أَحَدْنَا بَعْدَكَ (۸۰۶) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّمَّاحِ أَنَّهُ بَايَعَ

نہیں جانتے ہم تو کوئی آپ کے بعد کیا کچھ نئے کام کئے ملا ثنابت بن ضماک سے روایت ہے کہ انہوں نے وراثت

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (۸۰۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

کے بیٹے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انس بن مالک سے روایت ہے کہ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحَدِيثُ قَالَ أَصْحَابُ بَهْزِنِيَا مَرِيًا فَمَا لَنَا

انا فتحنا لك فتحا مبينا سے حدیث یہ مراد ہے آپ کے صحابہ نے عرض کیا بڑی خوشگوار بات ہے تو ہمارے

فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ قَالَ شَجَبَةٌ فَقَالَتْ

لے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے

الْكُوفَةِ فَمَنْ ثَمَرٌ هَذَا أَكَلَهُ عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَرَتْ لَهُ فَقَالَ

شجرہ نے کہا میں کوئی تو اس کی حدیث کو روایت تھا وہ بیان کیا پھر میں لوٹ کر آیا اور قنادہ سے بیان کیا تو کہا

أَمَّا إِنْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَعَنْ أَنَسِ وَأَمَّا هَذِيَا مَرِيًا فَعَنْ عِكْرَمَةَ (۸۰۸)

کہ انا فتحنا لك فتحا مبينا انس سے ہے اور ہذا مریا عکرمہ سے ہے

عَنْ زَاهِرِ الْأَسَدِيِّ وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ الشَّجَرَةِ قَالَ لِي لَوْ قَدْ تَحَتَّ

زاہر اسدی سے روایت ہے اور وہ بیعت شجرہ میں موجود تھے کہ میں (شہر میں) بانڈی کے نیچے جڑ گیا

الْقَدْرِ رَبِّ لِحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

گدھوں کا گوشت تھا آگ جلا رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمُ عَنِ الْحُومِ الْحُمُرِ (۸۰۹) عَنْ حُجْرَةَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھوں کے گوشت سے روکنے ہیں جلا حوزہ ان میں

عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ وَكَانَ

سے ایک شخص سے جو اصحاب شجرہ میں سے تھا جس کا نام اہبان بن اوس تھا روایت کرتا ہے اور اس

اشْتَكَى رُكْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وَسَادَةً (۲۰۱۰)

کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور جب وہ سجدہ کرتا تو اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتا ملا

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ (مَتَكُورٌ - ۱۰۷۰) عَنْ أَبِي جَبْرَةَ قَالَ

ابو جبرہ سے روایت ہے کہ میرے

سَأَلْتُ عَازِبَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عائز بن عمرو سے پوچھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے

علمنا أحدثنا
بعدہ میں اشارہ
ان فقہوں کی طرف
ہے جو مسلمانوں
میں پیدا ہو گئے
تھے یعنی باہمی
جنگ و جدل
مطل اس سے یہ
معلوم ہوتا ہے کہ
حدیث کی روایت
میں کس قدر احتیاط
برتی جاتی تھی۔
ایک راوی ایک
حدیث ایک جگہ
سننا ہے تو اس
کی تصدیق اصل
راوی سے کرتا
ہے اور وہ بھی
یہاں تک محتاط
ہیں کہ حالہ کلاماً
سب درست
تھے مگر انہوں نے
بیان کر دیا کہ وہ
لفظ فساد کی
روایت ہے اور
فلان غلام کی
مطل یہ واقعہ
خبر کا ہے
عنوان باب سے
صرف اس قدر
تعلق ہے کہ راوی
زاہر اسدی
بیعت شجرہ میں
موجود تھے
مطل غرض صرف

یہ بتانا ہے کہ اہبان بیعت رضوان والوں میں شامل تھے۔ اہبان کے گھٹنے کی تکلیف کا ضمناً ذکر کیا جو روایت کی اس کا بیان ذکر نہیں
یہ روایت بیان مختصر ہے مگر یہ ذکر بڑھا یا ہے کہ سويد اصحاب الشجرہ میں سے تھے عن سويد بن النعمان وكان من اصحاب الشجره وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اتوا بسويق فلا كوكه - يروا قوه بھی غزوه شہر کا ہے +

مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يَبْقَى لَوْ تَرَ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتِ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُؤْتِرْتِ مِنْ آخِرِهِ
جو اصحاب شجرہ میں کہیں وتر پڑھا جاسکتا ہے کما جب تم پہلی رات پڑھو تو

۱۸۱۱) عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
اسم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی سفر میں جا رہے تھے

عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لِيَلْأَنَسَأَلَهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَجِبْهُ رَسُولُ
عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے حضرت عمر نے آپ سے کسی بات کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ وَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ
پھر آپ نے پوچھا پھر بھی آپ نے انکو جواب دیا پھر آپ نے پوچھا پھر بھی آپ نے انکو جواب دیا اور عمر بن خطاب نے

تَكَلَّمَ أَتَى يَا عَمْرُ نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لِأَجْبَدِكَ
ہیں) کما عمر تیری خبر نہیں ملے تو نے تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز اندر عرض کیا اور ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے جواب دیا

قَالَ عَمْرُ فَمَحَرَّكَتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ
حضرت عمر نے کہا میں نے اپنا اونٹ تیز کر دیا اور مسلمانوں سے آگے بڑھ گیا اور میں ڈرا کہ میرے بارے میں قرآن

قُرْآنٌ فَمَا لَنَشَيْتُ أَنْ نَسْمَعَتْ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ
نُزَّرَ فِيَّ مِنْ زَيْدٍ وَدِيرٍ نَبِيٍّ طَمَحَ أَنْ يَكُونَ وَنَلَّكَ كُوسًا كَرِهْتُمْ بَكَرًا رَهًا تَمَّ
حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈرا کہ

يَكُونُ نَزْلٌ فِي قُرْآنٍ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
میرے پاس سے قرآن نہ اترا ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا

فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ الْكَلِمَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ
تو فرمایا کہ آج رات مجھے پھر ایک سورت اتری ہے وہ مجھ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر آفتاب طلوع کرتا ہے پھر آپ نے

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (۲۰۱۱) عَنِ الْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ وَمُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ (متكرر)
پڑھا انا فتحنا لك فتحة مبينة تم نے کھلی فتح دی ہے

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

۱۲۶۶) (۲۰۱۲) عَنْ مُرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَسُورِ بْنِ هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۲۶۶
دیکھو حدیث

ملے تو تر پڑھنا ہے
سے مطلب یہ ہے
کہ جب پہلی رات
پڑھ لے تو کہ یہ
ہو سکتا ہے کہ ان
کو ایک رکعت اور
ملکہ لقل بنا لے
اور دو تر پڑھ چکی
رات پڑھے۔ اس
حدیث میں اسکی
جواب یہ دیا ہے
کہ جو لوگ پہلی رات
پڑھ لیں وہ
پچھلی رات لقل
پڑھ لیں ورنہ
پڑھیں +
ملکہ تکلیف اٹک
اس کے لفظی معنی
تویوں ہوں گے
تیری ماں تھے
نہ پائے اور بظاہر
یہ موت کی بدعا
معلوم ہوتی ہے
لیکن ابن اثیر
ہے کہ بعض محدث
عرب کی زبان
میں عام ہو گئے جن اور یہ ان میں سے ہے اور مراد اس سے بد دعائیں جیسے توت دید اک۔ قاتلک اللہ۔ ۱۲۶۶ ایک ہی حدیث ہے۔ اور مکرر
روایت بہت مستحقر ہے۔ مگر جو ذکر کیا ہے اس کا بیشتر حصہ اصل حدیث میں نہیں۔ قالا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیث بیبہ فی بضع
عشر مائة رہزار سے چند سو اور ہر من اصحابہ فلما اذی ذال الحلیفة قتل الہدی والشعرہ واحرم منها لبعرة وبعث عینا (جاسوس) لہ من خزاعة
وسا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی کان بعد یزلا لاشطاطر حدیبیہ کے سامنے ایک مقام کا نام ہے) اناہ علیہ قال ان قریشا جمعوا لک جموعا
وقد جمعوا لک الاحابیش رایا کردہ جو ایک ہی قبیلہ سے تین یعنی متفرق قبائل کے لوگ، دھم مقاتلوک وصادلوک عن البیت وما لعلوک فقال شہروا
ایہا الناس علی اتون ان اہیل ران کی طرف جھک پڑوں یعنی انہیں قید کر لوں، الی عبد اللہم وذراریہ لہو لاد الذین یریدون ان یصلوا ناعن البیت
قان یا قوننا کان اللہ عزوجل قد قطع عیننا من الشوکین راگر ہمارے مطیع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو جاسوس کو قطع کر دیا۔ کیونکہ یہ قبائل
مشرکین قریش کیلئے جاسوسی کا کام دیتے تھے، والا ترکنا ہم محروبین وخریجہ کے معنی ہیں اسکا مال سے لیا، قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامد الہذا
البیت لا تری قتل احد ولا حرب احد فتوجہ لہ فمن صدنا عنہ قاتلنا قال امضوا علی اسم اللہ۔ لک یہاں حدیث کے پچھلے حصے کو اختصاراً
بیان کیا ہے۔ جہاں سہیل کے ساتھ کتابت معاہدہ کا ذکر آتا ہے لفظ یوں ہیں:- اندلما کا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو یوم الحدیث
علی قضیۃ المدینة وکان فیما اشترط سہیل ابن عمرو انہ قال لا یاتیک منا احد وان کان علی ذبک الا رد دتہ الینا و دخلت بیننا و بینتہ
والی سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعلیٰ ذلک فکرا العثمون ذلک و امعضوا اور یہ ان پر دشوار گزار) فتکلموا فیہ
فلما ابی سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعلیٰ ذلک کا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۲۰۱۳-۱۴) عَنْ تَائِفٍ (متکرم)۔ (۸۷۰) (۲۰۱۳) عَنْ تَائِفٍ (متکرم)۔ (۸۷۰)

دیکھو حدیث ۸۷۰۔ دیکھو حدیث ۸۷۰۔

(۲۰۱۴) عَنْ تَائِفٍ (متکرم)۔ (۸۷۰) (۲۰۱۴) عَنْ تَائِفٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ

دیکھو حدیث ۸۷۰۔ تائف سے روایت ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں

يَحْتَدُّ ثَوْنٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ

کہ ابن عمر حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن روایات یہ ہے کہ حضرت عمر نے حدیبیہ

أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ

کے دن عبد اللہ کو اپنے گھوڑے کیلئے بھیجا جو انصار میں سے ایک شخص کے پاس تھا کہ اس کو لے آئے تاکہ اس پر سوار ہو کر لڑیں

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَ عُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس بیعت لے رہے تھے اور حضرت عمر کو اس کا علم نہ تھا

فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَبَايَعَهُ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ لِقَاتِلِ

تو عبد اللہ نے اپنے بیعت کی پھر گھوڑا لینے گئے اس کو حضرت عمر کے پاس لائے اور حضرت عمر اپنے کیلئے زمین

فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَأَنْطَقَ

رہے تھے تو عبد اللہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں وہ گئے

فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّىٰ يَبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ الَّذِي يَحْتَدُّ

عبد اللہ بھی ساتھ گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی یہی وہ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں

النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ (۲۰۱۳) (۲۰۱۳) عَنْ تَائِفٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

کہ ابن عمر حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے ابن عمر سے روایت ہے کہ لوگ حدیبیہ کے دن

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ فَأَذَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور الگ الگ رختوں کے سامنے میں بڑے تھے جو ایک

النَّاسُ مُحَمَّدٌ قَوْلَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْظُرْ مَا شَأْنُ

مردم کو ہوا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں تو حضرت عمر نے کہا عبد اللہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں

النَّاسِ قَدْ أَحَدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رہا ہے ابن عمر گئے تو ان کو بیعت کرتے ہوئے پایا

ابن عمر سے روایت ہے کہ لوگ حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں تو حضرت عمر نے کہا عبد اللہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں

زوہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من هاجر من المؤمنين بهذا الآية يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات و عن عمر قال بلغنا حين امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يردوا الى المشركين ما انفقوا من هاجر من اذواجهم وبلغنا ان ابابصير قد اكره بطوله (هاتشيم صوفيا) مله يها روایت مختصر ہے :- ان عبد الله بن عمر خروج معتمرا في الفتنة فقال ان صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل لجمرة عام الحديبية - الفتنة سے مراد حجاج کی ابن زبیر پر لشکر کشی ہے ۔ حدیث روایت اور بھی مختصر ہے - عن ابن عمر انه اهل وقال ان حيل بنبي وبنه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش بينه وتلا نقدا كان لكر في رسول الله اسوة حسنة ، مسلم يها لفظ یہ ہیں :- ان بعض بنی عبد اللہ قال لو اقامت العام فاني اخذت ان لا تصل الى البيت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هدا ياه وخلق وقصر اصحابه وقال اشهد اني اوجب عمرة فان حلت بنبي وبنه البيت طغت وان حيل بنبي وبنه البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار ساعة ثم قال ما ارضى شأنهما الا واحدا اشهد اني قد اوجب حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا

فَبَايَعَهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ عُمَرَ فَمَخَّرَ بَعْضُهُمْ فَبَايَعَهُ (م- ۲۰۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ

عبد اللہ نے بیعت کی پھر حضرت عمر کی طرف لوٹ گئے اور بیعت کی۔

(متکرم- ۸۵۲) (م- ۲۰۱۶) عَنْ أَبِي حَصِينٍ (متکرم- ۱۲۴۱) (م- ۲۰۱۷)

دیکھو حدیث ۲۷۸۵۲ دیکھو حدیث ۱۲۴۱

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (متکرم- ۹۲۷) (م- ۲۰۱۸) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (متکرم-)

دیکھو حدیث ۹۲۷ دیکھو حدیث

(۹۲۷) (۳۸) بَابُ قِصَّةِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ (م- ۲۰۱۹) عَنْ أَنَسِ (متکرم- ۱۸۶)

باب عثمان اور عروہ کا قصہ دیکھو حدیث ۱۸۶

(۱۸۳) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالسَّامِ أُنْ عُمَرَ

ابو رجاء ابو قلادہ کے غلام سے روایت ہے اور وہ شام میں ان کے ساتھ تھا کہ عمر بن عبد العزیز

ابن عبد العزيز استشار الناس يوماً قال ما تقولون في هذه القسامة

نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ تم اس قسم کے بائے میں کیا کہتے ہو۔

کہ دیکھو کیا بات ہے۔ دونوں حدیثوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے پہلے بیعت کی، مگر ایسے موقع پر پہلے یا پچھے بیعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جوں لوگوں کو علم ہو تاگیا بیعت کرنے گئے + مگر یہاں کچھ لفظ زیادہ ہیں۔ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فظفأ فظفأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فلما استترج من اهل مكة لا يصيبه احد شئ +

میں ان مضمون حدیث کچھ اور سے معلوم ہوا کہ سہل بن حنیف من صفین اتبناه سنخبره فقال اتهموا الزامی فلقد رأيتني يوم ابى جندل (یعنی جس دن حدیبیہ کی فتح کی وجہ سے ابو جندل کو مسلمان بنانے کے) ولوا استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لوردت ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل مكة لا يصيبه احد شئ +

اسیابنا على اهل مكة لا يصيبه احد شئ + ما نسند منها خصما الا ان نجر علينا خصم ما ندرى كيف نأق له + خصم کسی چیز کی جانب یا کو نا ہے۔ خصم دشمن کو بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی معاملہ میں اس جانب یا کوٹنے کو اختیار کر لے جسے دوسرا فریق اختیار نہیں کرتا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کی جنگ میں اگر جنگ رک کر ایک بھلائی کی راہ نکلی تھی تو حکموں کے فیصلے نے ایک اور فساد کا دروازہ کھول دیا۔ اور ہم اس معاملہ میں ایسے عاجز آگئے ہیں کہ کوئی تدبیر نہیں سوچتی کہ جھگڑا ختم ہو جائے مضمون یہی ہے حنیف اختلاف سے دوہرا پایا ہے + یہاں کچھ لفظوں میں کمی بیشی ہے۔ مقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل مكة لا يصيبه احد شئ + قال وكان في فرقة منكم من اهل مكة لا يصيبه احد شئ + فجلت الهوام تساقط على وجهي ثم لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انؤذيك هوام راسك قلت نعم قال وانزلت هذه الآية فمن كان منك مريضا او به اذى من راسه فغدا على وجهي ثم لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انؤذيك هوام راسك قلت نعم قال وانزلت هذه الآية فمن كان المداينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام والاسلام كما لم يظها) فقالوا يا بنى الله اننا اهل ضورج (دودھ والے جا تو رکھنے والے) ولم تكن اهل ريف (کھیت والے) واستوخموا المدينة (مدینہ رسیدی کی آب ہوا انہیں موافق نہ آئی) فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرهم واداءهم واداءهم ان يخرجوا فيه فيشربوا من البياض (ابو بھار) انما ناطقوا حتى اذا كانوا ناحية المدينة (بہر تھیریلہ میدان) فخرجوا بعد اسلامهم فقلوا داعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في انارهم فامرهم فسمروا اعيانهم وقطعوا ايديهم وتركو في ناحية الحرة حتى ما تاعلا حالهم قال تنادة بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة ديني عن المثلة وقال شعبة دا بان وحدا عن قتادة عن عروة وقال يحيى بن ابي كثير (ابو بھار) اني تلابه عن انس قدم نهر من عكل - اس حدیث پر کچھ بحث ہے کہ پر نوٹ ملا ہے گزبھی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا انکو اذیت کی موت مارا گیا۔ یعنی جلد سے پھر یہ مذکور ہے کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے چرواہے کو اسی طرح اذیت کی موت مارا تھا اور اس لئے بطور قصاص انہیں اسی قسم کی سزا دی گئی۔ مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مرتبہ پر ادا کیا تھا کہ انہیں اسی طرح کی موت مارا جائے جس طرح انہوں نے چرواہے کو مارا لیکن اس آیت کے نزول پر انہا جزاء الذابین مجازاً اللہ ورسوله (المائدہ ۳۴) کہ ایسے ڈاکوؤں کی سزا صرف صلیب یا قتل یا قطعیدرجل یا قید ہے۔ آپ اس ارشاد کے عمل میں نہیں لائے۔

۱۔ پہلی حدیث ۹۲۷ میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادہ عبد اللہ کو کھنڈا لانے کے لئے بھیجا تو انہوں نے حالت آنحضرت صلعم کے بیعت لینے ہوئے پایا۔ یہاں سے کہ حضرت عمر نے خود ہی دیکھا کہ لوگ نبی صلعم کے گرد جمع ہیں تو عبد اللہ کو فرمایا

فَقَالُوا حَقَّ قَضَىٰ رَبِّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ

انہوں نے کہا وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور آپ (یعنی عمر بن عبدالعزیز سے) پہلے فیصلوں نے

قَالَ وَأَبُو قَلَابَةَ خَلَفَ سَكْرَةَ فَقَالَ عُنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيُّنَ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي

بھی اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ابو قلابہ ان کے تحت کے پیچھے تھے تو عنبہ بن سعید نے کہا اس کی حدیث جو عمر بنین کے ہائے میں ہے

الْعَرَبِيَّيْنِ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ أَيُّهَا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ

کماں گئی ہے ابو قلابہ نے کہا اس بن مالک سے حدیث مجھ سے بیان کی عبدالعزیز بن مسیب نے اس سے روایت کی

صَهْلَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ كُنْتُ أَنَسَ مِنْ حَيْثُ ذَكَرْتُ الْقِصَّةَ

کہ وہ لوگ (عزیز سے تھے اور ابو قلابہ نے اس سے روایت کی کہ وہ حائل سے تھے اور قصہ بیان کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا رحم والا بار بار رحم کرنے والا ہے

(۳۹) بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الْقُرْدِ وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي آخَرُوا عَلَيْهَا لِقَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى

باب ذات القرد کی جنگ اور یہ وہ جنگ ہے کہ غطفان کے لوگوں نے (نبی صلعم کے دو دفعہ ویسے والی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثِ (م- ۲۰) عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَعِ (متکرم - ۱۳۸۵)

اور تینوں پر رواقہ نمبر سے تین دن پہلے ذکر مارا ہے دیکھو حدیث ۱۳۸۵

(۴۰) بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ (م- ۲۰) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ لُحَيْعٍ (متکرم - ۱۴۰)

باب خیبر کا غزوہ ہے دیکھو حدیث ۱۴۰

(تقریباً ۹۸۵) اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ واقعی انہیں اسی قسم کی منزلت موت دی گئی جیسے انہوں نے چرواہے کو دی تھی تو یہ بطور قصاص تھا اور جیسا کہ اس حدیث میں صفائی سے مذکور ہے اس کے بعد یعنی رسول آیت کے بعد اس واقعہ کے بعد آنحضرت صلعم شہد سے منع فرماتے تھے کہ

مکہ تک مت یہاں تک کہ جو قبیلہ کسی حملہ یا کاؤں میں ہواؤ

یہ ثبوت نہ ملے کہ قاتل کون ہے تو ان میں سے پچاس آدمیوں سے صلعت لی جائے (صفحہ ہذا) یعنی اس میں قسامت نہیں ہونی مگر یہ اعتراض صحیح نہیں اسلئے کہ اس واقعہ میں اشتہار کوئی نہ تھا بلکہ جرم ان لوگوں پر ثابت تھا جنہوں نے چرواہے کو قتل کیا۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں شریعت نے کوئی تصریحی احکام نہیں دیئے کہ یہاں کیا جائے یا یوں نہ کیا جائے فیصلہ کیلئے کسی خاص طریق کا اختیار کرنا امام کی رائے پر ہے۔ اسی ذات القرد یا ذی قرد ایک چشمہ کا نام ہے جو مدینہ اور خیبر کے درمیان شام کے رستے پر واقع ہے۔ اور وہ غطفان کی سرحد سے ایک برید یا بارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ باوجود قتل میں نہایت روی تسم کی اون یا چشمہ کو کہا جاتا ہے۔ بخاری نے اسے خیبر سے تین دن پیشتر کا واقعہ لکھا ہے لیکن بل بیکر کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ ذی قرد وہ بیسے پہلے کا ہے یعنی سنہ ہجری کا واقعہ اور غزوہ خیبر سنہ ہجری میں ہوا۔ بعض نے اس اختلاف میں یوں تطبیق کی ہے کہ عیینہ نے دو دفعہ آنحضرت صلعم کے اونٹوں پر ڈاکر مارا۔ اسی ۱۳۸۵ کو خیفہ اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے البتہ یہ تصریح کی ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے سلا نکلے تھے۔ خروجت قبل ان یؤذن بالادوی۔ اور علاوہ اونٹیاں چھڑانے کے یہ بھی ذکر ہے کہ تیس چادریں بھی ان سے غنیمت میں ملیں۔ مسلم کی روایت میں تیس برچھیاں لینے کا بھی ذکر ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۳۸۵ اس قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ آنحضرت صلعم بلا وجہ کسی قوم پر چڑھائی نہ کرتے تھے جب تک کہ زیادتی ان کی طرف سے نہ ہو اور دوسرا یہ کہ باوقاات دشمن مخفی رنگ میں کام کرتا تھا اس لئے بعض اوقات غزوات کے ذکر میں ان کی اصل وجہ ذکر نہیں کیا گیا۔

..... اسی خیبر ایک بڑا شہر ہے جو مدینہ سے شام کی طرف آٹھ برید یعنی چھانوے میل کے فاصلہ پر ہے۔ خیبر یہودیوں کا بڑا بھاری مرکز تھا اور یہاں ان کے بڑے زبردست قلعے تھے۔ خیبر کی جنگ جمادی الاولیٰ سنہ ہجری میں ہوئی۔ بعض نے سنہ میں کہا ہے مگر یہ درست نہیں۔ ابن اسحاق نے اسے حرم سنہ میں لکھا ہے۔ اس لشکر کشی کی وجوہات کی حدیث میں مجھے نہیں ملیں۔ مگر واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نفسیر جو جلاوطن ہو کر جہاں جا بیٹھے تھے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ جنگ احزاب میں بھی انہوں نے غطفان کو اک کر قریش کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اور اب جب حدیبیہ میں مسلمانوں کو کوچ سے روک دیا گیا اور انہوں نے ایسی شرائط صلح قبول کر لیں جن میں قریش غاب نظر آتے تھے تو اغلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کوزہ سمجھ کر ان کو تباہ کرنے کے لئے دوسرے قاتل کے ساتھ کوئی خفیہ منصوبہ کیا جس کی اطلاع آنحضرت صلعم کو بھی پہنچ گئی تب اپنے خیبر پر چڑھائی کی ورنہ آنحضرت صلعم بلا وجہ کسی قوم سے جنگ نہ کرتے تھے۔ عامر کے اٹھارواگے اسی چڑھائی کے ذکر میں آتے ہیں ان میں صاف مذکور ہے کہ دشمن نے ہی لڑائی کے لئے نعرہ لگا کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تاکہ مسلمانوں کو ان کے ذہن سے پھیریں مگر مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ انہوں نے جنگ کو اور موت کو قبول کیا مگر دین سے برگشتگی کو قبول نہ کیا۔ الفاظ قریب قریب وہی ہیں اس میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں۔

کے ہندھا ہینہ

کی جمع ہے۔ اور وہ ہنہ کی تصغیر ہے جو کتا یہ ہے کسی چیز سے اور مراد جز یا شعر ہیں۔ یحییٰ بالغیم حداد اصل میں اونٹ کو کاکر چلانے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آگے نبی صوم کے الفاظ میں ہے من هذا السائق او سائق کے اصل معنی چلا نبوا کے ہیں یعنی کاکر لوگوں کو چلانے والا کون ہے۔ یہ اشعار کفریہ اختلاف لفظی کے ساتھ جنگ احزاب کے ذکر میں گذر چکے ہیں۔ مگر وہاں نہیں عبداللہ بن رواحہ کی جڑ تزار دیا گیا ہے۔ شاید ایک نے دوسرے سے لے لئے ہوں یا تو اردو ہو۔ یہ مصرعہ اتاذا حیج بنا ابینا وہاں نہیں۔ اس کا

(۱۸۱۴) عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سلمان اکوع سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

إِلَى خَيْبَرَ فَبَسُرْنَا كَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَلَا شَرُّ مَعَنَا مِنْ

خیبر کی طرف نکلے ہم رات کو جا رہے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر سے کہا عامر آپ میں اپنے شعر نہیں سنا تے

هَذِهِمَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَّجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يُجِدُّ وَيُالِقُ الْقَوْمَ يَقُولُ

اور عامر ایک شاعر آدمی تھا تو وہ رسواری سے اتر لوگوں کو شعر سناتا اور کہتا تھا علی

وَلَا تَصَدُّقْنَا وَلَا صَلِّتْنَا

اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے

وَتَلِّبْتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِيْنَا

اور جب ہم دشمن کے مقابل پر ہوں تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما

إِنَّا إِذَا صِيبْنَا أَبِينَا

جب ہم پر رانی کیلئے نعرہ لگایا جائے تو ہم رانی پالنے سے انکار کرتے

اللَّهُمَّ لَوْ كَأَنْتَ مَا هَتَدَانَا

اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے

فَاغْفِرْ فِدَاءَكَ مَا أَبْقَيْنَا

پس بخش دے جو ہم نے بچا ہے جب تک ہم زندہ ہیں

وَالْقِيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

اور ہم پر سکینت نازل فرما

وَبِالضِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

اور درجنگ کے شعروں کے ساتھ انہوں نے ہم پر ایک بوجھ ڈالا ہے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا السَّائِقِ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کاکر چلا نبوا کون ہے لوگوں نے کہا عامر بن اکوع ہیں

قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجِبَتْ يَا بَنِي اللَّهِ لَوْ لَا امْتَعْتْنَا بِهِ فَايْتَنَا

آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا لازم ہوگئی بلکہ بنی اللہ کیوں آپ نے ہم کو عامر سے فائدہ اٹھانے میں دیا

خَيْبَرَ فَخَاصِرْنَا هُمْ حَتَّىٰ أَصَابَتْنَا مُخَصَّصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ

خیبر پہنچا اور ان کا محاصرہ کیا اور ہم کو سخت بھوک لگی پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کی فتح دی

فَلَمَّا أَهْوَسَ النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ

جب اس دن کی شام ہوئی جس میں اللہ نے لوگوں کو فتح دی تھی تو انہوں نے بہت سی جگہ آگ جلائی بنی صلی اللہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النَّيْرَانُ عَلَىٰ أَيْ شَيْءٍ تَوْقَدُنَّ قَالُوا عَلَىٰ الْعِجَمِ

علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی کس چیز کے سے جلاتے ہو لوگوں نے عرض کیا

قَالَ عَلَىٰ أَيْ عِجْمٍ قَالُوا الْعِجْمُ حُمْرُ الْأَنْبِيَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرَ يَقُولُهَا

گوشت کیلئے دہن فرمایا کیا بیکہ گوشت عجم کیا کھڑ بیکہ ہوں کا گوشت بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھینک دو

وَإِكْسِرُوا هَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَهْرِيغُهُمَا وَغَسَلَهُمَا قَالَ أَوْ ذَاكَ

اور ان رہبانوں کو توڑ دو تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یا گوشت پھینک دیں اور ہڈیوں کو دھو ڈالیں آپ فرمایا ایسا ہی کر لو

مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر نعرہ جنگ لگا کہ ہم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم لگا کر رہتے ہیں۔ اور بعض نسخوں میں بجائے ابینا کے لفظ ابینا ہے یعنی جب ہم پر جنگ کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو ہم مقابلہ کے لئے آجاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بات ظاہر ہے کہ دشمن کی طرف سے ابتداء نے جنگ ہوتی تھی مگر مسلمان مقابلہ سے خائف نہ ہوتے تھے، بلکہ یہ ہر دو بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نعرہ جنگ دشمن کی طرف سے اٹھا تھا بخبر وہ خیبر میں صحابہ کا ان باتوں کا ذکر کرنا صاف بتاتا ہے کہ انہیں علم تھا کہ اس موقع پر بھی وہ دشمن کے نعرہ جنگ کے جواب کیلئے نکلے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر عطفان اور ابو بکر کے مسلمانوں کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر نبی صوم نے انکو ملنے کا موقع نہیں دیا اور فوراً اپنا لشکر بے مقام پر لا ڈالا کہ دونوں کا اتحاد ناممکن ہو گیا، بلکہ یہ کہنے والے حضرت عمرؓ تھے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے یعنی آنحضرت کی اس دعا سے اس کیلئے جنت یا شہادت آج ہو گئی، اس میں یہ اشارہ بھی لگا کہ عامر خدا کی راہ میں شہادت پائیں گے۔

فَلَمَّا تَصَافَتِ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيدًا فَنَاقِلًا بِهِ سَاقِي يَهُودِيٍّ لِيَصْرُبَهُ

وَيَرْجِعُهُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ زَيْنَبَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا

تولوار کی دھما پھری اور ان کے گھٹنے کی آنکھ پر لگی تو وہ اس سے وفات پا گئے کہا جب لوگ لوٹے

قَالَ سَلَمَةُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اخْتِذَ بِيَدِي قَالَ مَا لَكَ

تو سارنے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا تمہارا کیا حال

قُلْتُ لَهُ فَذَلِكَ إِنِّي دَأَمْتُ زَعْمُوًّا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ لَيْسَ صِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ

ہے میں نے آپ سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں لوگ کہتے ہیں کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے بنی مضر نے فرمایا

وَسَلَّمَ كَذَّبَ مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ كَأَحْوَرَيْنِ وَجَمْعُ بَيْنِ رِضْبِيَّةٍ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ

جھوٹ کہا جس نے یہ کہا اسے دعا کرو دو اجر میں گے آپ نے دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے اشارہ کیا وہ تو پوری کوشش کر نیوالا

قَالَ عُرَيْبٌ مُتَشَى بِهَا مِثْلَهُ (روفي رواية) نَسَّأَهَا (م- ۲۰۲۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ

جاء کر نیوالا ہے علت کہ کوئی عرب زمین پر چلا ہو گا جو عامر کا طرح ہو اور ایک روایت میں ہے کہ جو زمین پر پیدا ہوا ہو دیکھو حدیث ۲۰۲۴

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۲۰۲۴ (م- ۲۰۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَبٍ (م- ۲۰۲۴)

۱- شاہد بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اپنی تولوار سے آپ مر جانا خود کوشی ہے مگر خود کوشی کا اخصاً نیت امدارادہ پر ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے تو پوری کوشش کی اور جار کیا۔ دوسرا لفظ اسلئے اختیار فرمایا کہ باوجود چھوٹی تولوار ہونے کے وہ دشمن کے سامنے نکلا تو اس کا اس میں کوئی تصور نہ تھا بلکہ بڑی ہمت تھی کہ درست ہتھیار نہ ہونے کے باوجود

۱۳۶۹
۱۳۶۸
۱۳۶۷
۱۳۶۶
۱۳۶۵
۱۳۶۴
۱۳۶۳
۱۳۶۲
۱۳۶۱
۱۳۶۰
۱۳۵۹
۱۳۵۸
۱۳۵۷
۱۳۵۶
۱۳۵۵
۱۳۵۴
۱۳۵۳
۱۳۵۲
۱۳۵۱
۱۳۵۰
۱۳۴۹
۱۳۴۸
۱۳۴۷
۱۳۴۶
۱۳۴۵
۱۳۴۴
۱۳۴۳
۱۳۴۲
۱۳۴۱
۱۳۴۰
۱۳۳۹
۱۳۳۸
۱۳۳۷
۱۳۳۶
۱۳۳۵
۱۳۳۴
۱۳۳۳
۱۳۳۲
۱۳۳۱
۱۳۳۰
۱۳۲۹
۱۳۲۸
۱۳۲۷
۱۳۲۶
۱۳۲۵
۱۳۲۴
۱۳۲۳
۱۳۲۲
۱۳۲۱
۱۳۲۰
۱۳۱۹
۱۳۱۸
۱۳۱۷
۱۳۱۶
۱۳۱۵
۱۳۱۴
۱۳۱۳
۱۳۱۲
۱۳۱۱
۱۳۱۰
۱۳۰۹
۱۳۰۸
۱۳۰۷
۱۳۰۶
۱۳۰۵
۱۳۰۴
۱۳۰۳
۱۳۰۲
۱۳۰۱
۱۳۰۰
۱۲۹۹
۱۲۹۸
۱۲۹۷
۱۲۹۶
۱۲۹۵
۱۲۹۴
۱۲۹۳
۱۲۹۲
۱۲۹۱
۱۲۹۰
۱۲۸۹
۱۲۸۸
۱۲۸۷
۱۲۸۶
۱۲۸۵
۱۲۸۴
۱۲۸۳
۱۲۸۲
۱۲۸۱
۱۲۸۰
۱۲۷۹
۱۲۷۸
۱۲۷۷
۱۲۷۶
۱۲۷۵
۱۲۷۴
۱۲۷۳
۱۲۷۲
۱۲۷۱
۱۲۷۰
۱۲۶۹
۱۲۶۸
۱۲۶۷
۱۲۶۶
۱۲۶۵
۱۲۶۴
۱۲۶۳
۱۲۶۲
۱۲۶۱
۱۲۶۰
۱۲۵۹
۱۲۵۸
۱۲۵۷
۱۲۵۶
۱۲۵۵
۱۲۵۴
۱۲۵۳
۱۲۵۲
۱۲۵۱
۱۲۵۰
۱۲۴۹
۱۲۴۸
۱۲۴۷
۱۲۴۶
۱۲۴۵
۱۲۴۴
۱۲۴۳
۱۲۴۲
۱۲۴۱
۱۲۴۰
۱۲۳۹
۱۲۳۸
۱۲۳۷
۱۲۳۶
۱۲۳۵
۱۲۳۴
۱۲۳۳
۱۲۳۲
۱۲۳۱
۱۲۳۰
۱۲۲۹
۱۲۲۸
۱۲۲۷
۱۲۲۶
۱۲۲۵
۱۲۲۴
۱۲۲۳
۱۲۲۲
۱۲۲۱
۱۲۲۰
۱۲۱۹
۱۲۱۸
۱۲۱۷
۱۲۱۶
۱۲۱۵
۱۲۱۴
۱۲۱۳
۱۲۱۲
۱۲۱۱
۱۲۱۰
۱۲۰۹
۱۲۰۸
۱۲۰۷
۱۲۰۶
۱۲۰۵
۱۲۰۴
۱۲۰۳
۱۲۰۲
۱۲۰۱
۱۲۰۰
۱۱۹۹
۱۱۹۸
۱۱۹۷
۱۱۹۶
۱۱۹۵
۱۱۹۴
۱۱۹۳
۱۱۹۲
۱۱۹۱
۱۱۹۰
۱۱۸۹
۱۱۸۸
۱۱۸۷
۱۱۸۶
۱۱۸۵
۱۱۸۴
۱۱۸۳
۱۱۸۲
۱۱۸۱
۱۱۸۰
۱۱۷۹
۱۱۷۸
۱۱۷۷
۱۱۷۶
۱۱۷۵
۱۱۷۴
۱۱۷۳
۱۱۷۲
۱۱۷۱
۱۱۷۰
۱۱۶۹
۱۱۶۸
۱۱۶۷
۱۱۶۶
۱۱۶۵
۱۱۶۴
۱۱۶۳
۱۱۶۲
۱۱۶۱
۱۱۶۰
۱۱۵۹
۱۱۵۸
۱۱۵۷
۱۱۵۶
۱۱۵۵
۱۱۵۴
۱۱۵۳
۱۱۵۲
۱۱۵۱
۱۱۵۰
۱۱۴۹
۱۱۴۸
۱۱۴۷
۱۱۴۶
۱۱۴۵
۱۱۴۴
۱۱۴۳
۱۱۴۲
۱۱۴۱
۱۱۴۰
۱۱۳۹
۱۱۳۸
۱۱۳۷
۱۱۳۶
۱۱۳۵
۱۱۳۴
۱۱۳۳
۱۱۳۲
۱۱۳۱
۱۱۳۰
۱۱۲۹
۱۱۲۸
۱۱۲۷
۱۱۲۶
۱۱۲۵
۱۱۲۴
۱۱۲۳
۱۱۲۲
۱۱۲۱
۱۱۲۰
۱۱۱۹
۱۱۱۸
۱۱۱۷
۱۱۱۶
۱۱۱۵
۱۱۱۴
۱۱۱۳
۱۱۱۲
۱۱۱۱
۱۱۱۰
۱۱۰۹
۱۱۰۸
۱۱۰۷
۱۱۰۶
۱۱۰۵
۱۱۰۴
۱۱۰۳
۱۱۰۲
۱۱۰۱
۱۱۰۰
۱۰۹۹
۱۰۹۸
۱۰۹۷
۱۰۹۶
۱۰۹۵
۱۰۹۴
۱۰۹۳
۱۰۹۲
۱۰۹۱
۱۰۹۰
۱۰۸۹
۱۰۸۸
۱۰۸۷
۱۰۸۶
۱۰۸۵
۱۰۸۴
۱۰۸۳
۱۰۸۲
۱۰۸۱
۱۰۸۰
۱۰۷۹
۱۰۷۸
۱۰۷۷
۱۰۷۶
۱۰۷۵
۱۰۷۴
۱۰۷۳
۱۰۷۲
۱۰۷۱
۱۰۷۰
۱۰۶۹
۱۰۶۸
۱۰۶۷
۱۰۶۶
۱۰۶۵
۱۰۶۴
۱۰۶۳
۱۰۶۲
۱۰۶۱
۱۰۶۰
۱۰۵۹
۱۰۵۸
۱۰۵۷
۱۰۵۶
۱۰۵۵
۱۰۵۴
۱۰۵۳
۱۰۵۲
۱۰۵۱
۱۰۵۰
۱۰۴۹
۱۰۴۸
۱۰۴۷
۱۰۴۶
۱۰۴۵
۱۰۴۴
۱۰۴۳
۱۰۴۲
۱۰۴۱
۱۰۴۰
۱۰۳۹
۱۰۳۸
۱۰۳۷
۱۰۳۶
۱۰۳۵
۱۰۳۴
۱۰۳۳
۱۰۳۲
۱۰۳۱
۱۰۳۰
۱۰۲۹
۱۰۲۸
۱۰۲۷
۱۰۲۶
۱۰۲۵
۱۰۲۴
۱۰۲۳
۱۰۲۲
۱۰۲۱
۱۰۲۰
۱۰۱۹
۱۰۱۸
۱۰۱۷
۱۰۱۶
۱۰۱۵
۱۰۱۴
۱۰۱۳
۱۰۱۲
۱۰۱۱
۱۰۱۰
۱۰۰۹
۱۰۰۸
۱۰۰۷
۱۰۰۶
۱۰۰۵
۱۰۰۴
۱۰۰۳
۱۰۰۲
۱۰۰۱
۱۰۰۰

(رم - ۲۵) عن ابن عباس بن مالك (متكبر - ۲۶۷) (رم - ۲۶) عن سهل بن سعد الساعدي
 (متكبر - ۱۳۳۵) (رم - ۲۶) عن أبي هريرة (متكبر - ۱۳۳۵) (رم - ۲۸) عن أبي موسى الأشعري
 (متكبر - ۱۳۶۹) (رم - ۲۹) عن يزيد بن أبي عبيد قال آتت أضرربة في سار سلمة
 فقالت يا أبا مسلم هذا الأضرربة فقال هذه أضرربة أصابني يوم حدير فقال
 التأس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفت فيه ثلث نفات
 فما اشتكيتها حتى الساعة (رم - ۲۹) عن سهل (متكبر - ۱۳۳۵)

کے جنگ میں بڑی
 ببادری دکھا کر خود کشتی کر لینے کا ذکر ہے مگر الفاظ حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس جنگ کا واقعہ ہے۔ اگلی حدیث جو ابو ہریرہ کی ہے اور اس میں بھی ایک
 شخص کی خود کشتی کا ذکر ہے اس میں صفات خیر کا ذکر ہے۔ تو امام بخاری نے غالباً ان دونوں واقعات کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اور اسی لئے اس حدیث کو نمبر
 کے ذکر میں لائے ہیں مگر تفصیلات کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے شارحین نے انہیں الگ الگ واقعات قرار دیا ہے۔ بظاہر اس جنگ میں دو سراسر فریق
 مشرکین تھے۔ اور اس سے مراد یہودی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے۔ اور ۱۳۳۵ھ اس کی حدیث ہے تفصیلات اور الفاظ میں
 اختلاف ہے۔ اور اخیر میں ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ حنین میں ہوئی۔ شہدنا خیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من مہذبہ یا علی
 ا لا سلام هذا من اهل النار فلما حضرو القتال قاتل الرجل اشد القتال حتى كثرت به الجراحة فقاد بعض الناس يرتاب فيجد الرجل الم الجراحة
 فاخروى بيده الى كنانته فاستخرج منها اسهما فخر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انك انت اشد قتلا من قتل
 نفسه فقال قم يا فلان فاذن ان لا يدخل الجنة الا مؤمن ان الله يرضي الذين بالرجل الغاجر تابعه معمر عن الزهري وقال شيبه عن يونس
 عن ابن شهاب اخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان ابا هريرة قال قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً وقال ابن
 المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري وقال الزبيدي اخبرنا الزهري ان عبد الرحمن
 بن كعب اخبرنا ان عبد الله بن كعب قال اخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً قال الزهري واخبرني عبد الله بن عبد الله
 وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - یہ امر قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جنگ خیر کے بعد آئے۔ مگر روایت میں زیادہ تفصیل ہے اور یہ
 بھی تصریح ہے کہ ۱۳۶۹ھ کا واقعہ ہے۔ وہ خیر کے متعلق ہے۔ لفظ میں ہیں۔ قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبراً وقال لما توجه رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على اذ فرغوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوا
 على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائباً انكم تدعون سمياً وحملاً وانا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت وانا اتقول
 لا حول ولا قوة الا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت نبيك رسول الله قال الا ادلك على كلمة من تكلم من تكلم من كونها الجنة قلت بلى يا رسول الله
 ذاك اني واهي قال لا حول ولا قوة الا بالله صحابہ کی تکبیر تو عین موقوفہ پر اور دل سے تھی مگر پھر بھی بہت بلند آواز کرنے سے منع کیا۔ اور اہل تو تکبیر نہ
 اسی فخر کے لئے رہ گئی ہے کہ وہ فلک شکست ہے۔ یہ خفیت اختلاف لفظی اور ایک دو جملوں کا اختصار ہے۔۔ التلق النبي صلى الله
 عليه وسلم والمشركون في بعض منازيه فاقبلوا فقال كل قوم الى عسكركم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين
 شاذة ولا فاذة الا اتبعها خضريها بسيفه فقتل يا رسول الله ما اجزا احدهم ما اجزا فلان فقال انه من اهل النار فقالوا ايها
 من اهل الجنة ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم لا تبصنه فاذا اسرع وابطا كنت معه حتى جرح فاستعمل الموت
 فوضع نصاب سيفه بالارض وذبا به بين ثدييه ثم قتل عليه فقتل نفسه فجاؤ الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهد
 انك رسول الله فقال وما ذاك فاخبره فقال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبذل للناس وانه من اهل النار ويعمل بعمل
 اهل النار فيما يبذل للناس وهو من اهل الجنة +

۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

وَعَنْ أَجْلِ الْحَمْرِ الْأَنْسِيَّةِ (م- ۲۰۳۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكبر- ۱۸۱۸) (م- ۲۰۳۴) اور گھر بیوگدھوں کے گوشت سے بھی ملے دیکھو حدیث ۱۸۱۸ ملے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متكبر- ۱۸۱۸) (م- ۲۰۳۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكبر- ۱۸۱۸) دیکھو حدیث ۱۸۱۸ ملے

(۱۸۱۸) (م- ۲۰۳۶) عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى (متكبر- ۱۸۳۲) (م- ۲۰۳۷) دیکھو حدیث ۱۸۳۲ ملے

عَنْ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (متكبر- ۱۸۳۲) (م- ۲۰۳۸) دیکھو حدیث ۱۸۳۲ ملے

الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى (متكبر- ۱۸۳۲) (م- ۲۰۳۹) دیکھو حدیث ۱۸۳۲ ملے

(متكبر- ۱۸۳۲) (م- ۲۰۴۰) عَنْ ابْنِ عِيَّاسٍ ابن عباس سے روایت ہے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ نے اس سے اس لئے منع فرمایا کہ یہ لوگوں کی باربرداری کے کام آتے ہیں سو اپنے پند نہ کیا کہ ان کے باربرداری کے جاؤ تلف

مَمْلُوكُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ مُحَمَّدٌ الْخَيْرُ الْأَهْلِيَّةِ (م- ۲۰۷۰) ہو جائیں یا غیر کے دن مستبرام ہی کرنا یعنی گھر بیوگدھوں کا گوشت

(متكبر- ۱۸۳۳) (م- ۲۰۷۱) عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (متكبر- ۱۸۲۷) دیکھو حدیث ۱۸۳۳ ملے

(۱۸۲۷) عَنْ أَبِي مُوسَى ابو موسیٰ راشعری سے روایت ہے کہا میں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے

وَنَحْنُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَخَرَجْنَا مَهَا جَرِينًا إِلَيْهِمْ أَنَا وَأَخْوَانِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ اور ہم بنی اسرائیل تھے ہم بھی آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے میں اور میرے دو بھائی میں ان میں سے چھوٹا تھا

أَحَدُهُمَا أَبُو بَرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رَهْمٍ إِمَّا قَالَ بَصْعَةً وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ ان دونوں میں سے ایک ابو بردہ تھا اور دوسرا ابو رھم یا تو کہا بھاس کے اوپر کچھ آدمی یا کہا

وَأَخْمِسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَيْنَا تین یا باون آدمی میری قوم میں سے تھے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی نے ہمیں بچائی

سَفِينَتَنَا إِلَى الْبَحْرِ شَيْءٌ بِالْحَبْشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرِ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَامَنَا مَعَهُ تو رواں ہم جعفر بن ابی طالب سے ملے ہم ان کے پاس رہے

بعضہم بھی عنہا البتہ لایضا کانت تا کل العزرة عند ذلک کے معنی نجاست ہیں مگر یہ ان لوگوں کا اپنا قیاس تھا اس وجہ پر کوئی جاؤ حرام قرار نہیں دیا گیا۔
 علیا میں انتصار ہو۔ انہم کا نوا مع النبی صلعم فاصلا ہوا ہمارا نطفہ ہا خداوی ہنڈاوی البتہ صلعم اکتفا القدرہ مکہ میں اور نبی انتصار ہے عن النبی صلعم
 اند قال یوم خیبر وقد نصبوا القدرہ اکتفا القدرہ بھ ہا انتصار بھی ہوا اور لفظوں میں کچھ فرق بھی امرنا البتہ صلعم فی خزوة خیبر ان نلقی الحجر الاہلیتہ
 نیکتہ ونضیجۃ ثم لم یامرتنا یا کلمہ بعد ہا لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ قسم رسول اللہ صلعم یوم خیبر للفرس سہمین وللراجل سہمنا قال کلمہ
 نافر فقال اذا کان مع الرجل فرس فله ثلثۃ اسہم فان لم یکن لہ فرس فله سہم دیکھو نوٹ ۱۸۳۷ ملے ابتدائی لفظ قرینا ایک ہی ہیں۔
 قال مشیت انا وعثمان بن عفان الی البتہ صلعم فقلنا اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن بمنزلہ واحدہ منک فقال انا بنو ہاشم

حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْتَهَىٰ خَيْدَرُ

یہاں تک کہ ہم آگئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ پھر فرار کر چکے تھے اور

كَانَ أَنَا سُّ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَغْنَىٰ لَأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ

لوگوں میں سے بعض ہم سے پہلی کشتی والوں سے لگا کرتے تھے کہ ہم نے آپ لوگوں سے ہجرت میں سبقت کی

وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمِيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَىٰ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

اور اسماء بنت عمیس جو ان میں سے تھیں جو ہم سے ساتھ آئے حضرت حفصہ بنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةٌ وَقَدْ كَانَتْ هَاجِرَتْ إِلَىٰ لِحْيَانِ شَيْءٍ فَمِنْ هَاجِرٍ فَدَخَلَ

کے پاس ملاقات کے لئے آئیں اور انہوں نے نجاشی کی طرف ہجرت کی تھی ان لوگوں میں جنہوں نے ہجرت

عَمْرُو عَلَىٰ حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عَمْرُو حِينَ رَأَىٰ أَسْمَاءَ مِنْ هَذِهِ قَالَتْ

کی تھی حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس گئے اور اسماء بھی ان کے پاس تھیں حضرت عمر نے جب اسماء کو دیکھا تو بوجھا یہ کون ہے کہا

أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمِيْسٍ قَالَ عَمْرُو الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ

اسماء بنت عمیس حضرت عمر نے فرمایا کیا یہ وہ حبش والی ہیں جو ہندو کا سفر کر کے آئی ہیں اسماء نے کہا ہاں حضرت عمر نے فرمایا

سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ فَخَنَّ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَتْ وَ

ہجرت میں ہم نے تم پر سبقت کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا زیادہ حق ہے اسماء کو غصہ آیا اور

قَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَمُ جَائِعًا

کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تم میں جو بھوکا ہوتا آپ لستے

وَيَعْطُ جَاهِكُمْ وَكَذَلِكَ دَارُ أَوْفَىٰ أَرْضِ لِبَعْدَاءِ الْبَعْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ

کھا نا کھلاتے تم میں جو جاہیں ہوتا آپ اسے نصیحت کرتے اور ہم حبش میں ایک دور کے اور ناپسندیدہ ملک یا زمین میں تھے اور یہ عزت

فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھا اور اللہ کی قسم میں نہ کھا نا کھاؤں گی اور نہ پانی

شَرِبْتُ أَبَا حَتَّىٰ أَذْكَرُ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَنَّ لَنَا نَوْذَىٰ

پہلوں کی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر نہ کر لوں جو آپ نے کہا ہے ہم کو اذیت دی جاتی تھی

وَنُحَافٌ وَسَادُكُمْ ذِكْرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَذْبُ وَلَا

ہم کو ڈرایا جاتا تھا میں اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گی اور آپ سے یہ بھوں گی اور اللہ کی قسم نہ جھوٹ بولوں گی

أَرْبِعٌ وَلَا أَرْبِدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا

ذبیحا بات کہوں گی اور نہ اس پر کوئی زیادہ بات کہوں گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماء نے عرض کیا یا

نَبِيُّ اللَّهِ إِنْ عَمْرُو قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَ

نبی اللہ حضرت عمر نے ایسی ہی بات کہی ہے فرمایا تو تم نے کیا جواب دیا اسماء نے کہا میں نے انکو یہ باتیں کہی تھیں

كَذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِأَحَقُّ لِي مِنْكُمْ وَلَا لِي وَلَا ضَعْفَاءُ بِهَاجِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّكُمْ أَهْلُ

فرمایا مجھ پر ان کا حق تم سے زیادہ نہیں ہے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لئے ایک ہی ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی دو

السَّفِينَةِ هَجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَا تَوْفِي

ہجرت میں مل اسماء کہتی ہیں نے ابو موسیٰ اور کشتی والوں کو دیکھا کہ وہ گردہ

أَرْسَلَا لَيْسَ لَوْفِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ لِي شَيْءٌ هُمْ يَدْرُكُونَهُ

درگدہ مجھ سے اس بات کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے تھے دنیا میں کوئی چیز نہ تھی جس سے زیادہ

علا مطلب یہ ہے کہ ان ہجرت کرنا لوگوں یہ سوت بھی تو بیستہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں سبقت کی یہاں حبش کی زمین کو ارض البعلاء البعضاء کہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دو بھی ہے اور پھر مدینہ کے مقابل ناپسندیدہ بھی ہے بعض روایات میں ہے البعضاء والبعضاء یعنی شک کے طور پر وہ دو ہجرتوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے حبش کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ آئے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت اس بات پر تھی کہ آیا میں سے ہجرت کر کے آئے والے جو مدینہ ہجرت میں مدینہ پہنچے مہاجرین اولین میں سے ہیں یا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دو ہجرتیں پہلی ہجرت جو حبش میں ہوئی وہ بھی ہجرت ہی سمجھی جائے گی

أَفْرَحُ وَكَأَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو

علمان الفاظ کا مطلب و طرح پر لیا گیا ہے اول خیل سے مراد دشمن کے سوار لیکر مطلب یہ ہوگا کہ اس قدر زور تھا کہ دشمن سامنے آجائے اور اس کی طاقت زیادہ ہو تو گھبراتا تھا بلکہ انہیں کہتا تھا کہ ٹھیرے رہو میرے بھی ساتھی آجائیں گے تو تم سے مقابلہ کریں گے۔ وہ خیل سے مراد مسلمانوں کے سوار ہو سکتے ہیں۔ مگر ہیرا دم کی تشبیہ پر کرنی پڑے گی کہ یہ ٹھیرے کے طور پر ہے اور صحیح الخیل ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ سواروں کو تک تھا کہ تم زیادہ کا انتظار کرو تا کہ سب اکٹھے ہو کر

بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِثِّي قَالَ

کہ اسماء نے کہا میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اس حدیث کو بار بار مجھ سے سنتے

أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَبَّيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ

رَفَقَةٍ إِلَّا شَعْرِيَّينَ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَأُرْمِذُ لَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ

حَكِيمٌ إِذْ لَبَّيْكَ الْخَيْلُ أَوْ قَالَ لَعُدُّوا قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ يَا مَعْرُوفُ أَنْ تَنْظُرَ فِيهِمْ

عَنْ أَبِي مُوسَى (متکم۔ ۱۸۲۱) (۱۸۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يَقُولُ

أَفْتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَعْمَلْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا عَمِنَا الْبَقْرَ وَالْإِبِلَ وَ

الْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

وَادِ الْقُرْمِ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصَّبَابِ

فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْتَظِرُ رَحَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَابِرٌ

حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ لِلنَّاسِ هَيْئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا

يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَوُ تَصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارُ الْجَهَنَّمَ رَجُلٌ حِينَ

سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرٌ أَوْ بَشِيرٌ الْكَيْنُ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ

كُنْتُ أَصْدِقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّكَ أَوْ شَرُّكَ إِنْ كَانَ مِنْ تَارِدٍ

بِجُورٍ نَسَى لِي نَبِيٌّ

بجائتا ہوں جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں گویں نے ان کے ٹھکانے دن کو جب وہ ان میں اترے نہ دیکھے ہوں اور انہیں ایک شخص حکیم تھا جب وہ دشمنوں کے سواروں کے مقابلہ پر آتا تو ان سے کہتا کہ میرے ساتھی تم سے کہیں گے تو تم سے مقابلہ کریں گے۔ وہ خیل سے مراد مسلمانوں کے سوار ہو سکتے ہیں۔ مگر ہیرا دم کی تشبیہ پر کرنی پڑے گی کہ یہ ٹھیرے کے طور پر ہے اور صحیح الخیل ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ سواروں کو تک تھا کہ تم زیادہ کا انتظار کرو تا کہ سب اکٹھے ہو کر

عمر اور عثمان ہیں ابو ہریرہ کا فتح خیبر کے بعد اثاب ثابت ہو مگر غنیمت میں وہ موجود تھے دیکھو حدیث ۳۰۳۱ لے گا اور اسے مراد ایا تیرے جس کے چلانے کا پتہ

تہ ہو یا اب تیرے جوش سے ادھر ادھر ہو جائے یہ اس میں کھایا ہے کہ قومی مال کی خیانت بڑا بھاری گناہ ہے خواہ وہ تھوڑے مال کی خیانت ہی ہو

(۲۰۴۳-م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (مِتَكَرَّرًا) (۱۱۳۲-م) (۲۰۴۴-م) عَنْ عُمَرَ بْنِ مَتَكَرَّرًا	دیکھو حدیث ۱۱۳۲	دیکھو حدیث ۲۰۴۴
(۱۱۳۲-م) (۲۰۴۵-م) عَنْ عُنْبَسَةَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ (مِتَكَرَّرًا) (۱۳۰۳-م) (۲۰۴۶-م)	دیکھو حدیث ۱۱۳۲	دیکھو حدیث ۲۰۴۶
(۱۳۰۳-م) (۲۰۴۷-م) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ (مِتَكَرَّرًا) (۱۴۰۰-م)	دیکھو حدیث ۱۳۰۳	دیکھو حدیث ۱۴۰۰

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (مِتَكَرَّرًا) (۱۱۳۲-م) (۲۰۴۴-م) عَنْ عُمَرَ بْنِ مَتَكَرَّرًا

عَنْ عُنْبَسَةَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ (مِتَكَرَّرًا) (۱۳۰۳-م) (۲۰۴۶-م)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ (مِتَكَرَّرًا) (۱۴۰۰-م)

عَلَى قَرِيْبَةٍ لَا قَسَمْتَهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٍ وَلَكِنَّهُ اشْرَكَهَا خِرَافَةَ لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا - بتیان کے معنی و طرح پر کہنے گئے ہیں۔ یہاں ایک طریق پر اور ناوار محتاج - مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ حضرت عمر کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں کی تقسیم کر دینے سے کچھ لوگ توجہ بادل و لوگ کے مال بن جائیں گے لیکن بعد میں آئینے لوگ نادار اور محتاج رہ جائیں گے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں ان زمینوں کو مسلمانوں کے لئے بطور خزانہ چھوڑتا ہوں جن کی آمدنی سے غریب فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور زمینیں فروخت نہ ہو جائیں بلکہ خزانہ کے طور پر ہمیشہ موجود رہیں۔ اس موقع پر فتح الباری میں وارفتگی کی ایک روایت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی سند درجی ہے جو حدیث باب کی سند ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ لَنْ يَقْبِيعَ إِلَى الْحَوْلِ إِلَّا الْحَقْنَ اسفل الناس باعلاہم۔ اگر میں ایک سال تک زندہ رہا تو پچھلے درجہ کے لوگوں کو اوپر والے طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ملا دوں گا۔ اس میں اشتراکیت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اسلام اصولاً ہر شخص کو اس کی کمائی کا پھل دیتا ہے اور اس لحاظ سے اشتراکیت اس میں نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا منشاء اونے طبقہ کے لوگوں کو اٹھانا بھی ہے۔ اس لئے وہ امر کے طبقہ سے کچھ وصول کر کے اسے غریب پر خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی اصول کی توسیع حضرت عمر نے اس رنگ میں کرنی چاہی کہ زمین سب بیت المال کی ہو اور عام مسلمان اس کی آمد سے فائدہ اٹھائیں وہ غلط اس کے لفظ قریب قریب ۱۳۲۷ کے ہیں۔ غلط مکرر روایت میں دور وایتوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی روایت کا مضمون قریب قریب ۱۳۲۷ کا ہے یعنی یہ کہ ابو ہریرہ نے مال غنیمت کا حصہ طلب کیا تھا تو اس پر ابان میں اور ان میں ہنکار ہوا اور دوسری روایت میں ہے کہ ابان کسی سریر سے واپس آئے تھے تو ابان نے خیر کے مال غنیمت سے حصہ مانگا تھا تو ابو ہریرہ نے کہا انہیں نہ دیا جائے اس پر ہنکار ہوئی۔ پہلی روایت کے لفظ یوں ہیں۔ ان ابابہ ہریرۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله قال له بعض بنی سعید بن العاص لا تعطہ فقال ابو ہریرۃ هذا قاتل ابن قاتل بن قاتل فقال وا عجبا ہ لوبرت لی من قدم الضمان اور دوسری روایت کے لفظ یوں ہیں۔ قال بعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابان علی سریرۃ من المدینۃ قبل نجد قال ابو ہریرۃ فقدم ابان واصحاب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجمیعہ یوم ما افتخرہم وان حزم خیلہم لم یف ان کے گھوڑوں کے تنگ گھوڑوں کی کھال کے تھے یعنی اچھے تنگ بھی میسر نہ آتے تھے، قال ابو ہریرۃ قلت یا رسول اللہ لا تقسم لہم قال ابان وانت ہذا ایا وبرت لی من راس ضان فقال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابان اجلس فلم یقسم لہم ویکھو ثورث حلت ا پر غلط۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ ان ابان بن سعید ان قبل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقسم علیہ فقال ابو ہریرۃ یا رسول اللہ هذا قاتل ابن قاتل ابان لابی ہریرۃ وا عجبا لک وبرت لی من قدم ضان ینتعد امرأ کرہ ما اللہ بیئک ومنعہ ان یمدنی بیدہ ویکھو کہ روایت بہت طویل ہے اس کے پہلے حصہ میں کسی قدر اختلاف لفظی سے حضرت فاطمہ کی میراث طلب کرنے اور حضرت ابوبکر کے ان کے خلاف فیصلہ دینے کا ذکر ہے۔ مگر پچھلے حصہ میں حضرت علی کے حضرت ابوبکر سے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد میراث کرنے کا ذکر ہے۔ حدیث یہاں یوں ہے۔ ان فاطمہ علیہا السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسأله میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عما انا اللہ علیہ یا المدینۃ وذلک وما لقی من خمس خیر فقال ابوبکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہا الی ان کان علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عملن فیہا بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابوبکر ان ین فیہ الی فاطمہ منہا شیئا فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک ففجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ اشھر فلما توفیت دفنہا زوجہا علی علیہ وسلم یؤذن بہا ابابک وصلی علیہا وكان علی من الناس وجہ حیاء فاطمہ و حضرت فاطمہ کی زندگی میں لوگ حضرت علی کی طرف توجہ رکھتے تھے، فلما توفیت استذکر علی وجہ الناس ولو گوں میں انہا رنا پسندیدگی پایا، فالتمس مصراحة ابی بکر وما یعتہ ولم یکن یبایع تلک الا شہر فارسل الی ابی بکر ان اشد تناد وایا تناد احد منک لک لہیۃ لخصی عمر فقال عمر واللہ لا ینزل علیہم و حدک فقال ابو بکر وما عسیبتہم رحم کیا امید رکھتے ہو، ان یقولوا بی واللہ لا ینزل علیہم فدخل علیہم ابوبکر فاستشہد علی فقال انا قد عننا فضلك وما اعطاک اللہ ولم شغس وحسد میں کرتے، علیک خیرا ساقۃ اللہ الیک وذلک استبدت علینا با لا مر و حکومت کے معاملے میں کیلئے کام کیا اور ہماری رائے نہ لی، وذلک نری لقرآینا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا حتی فاضت عینا ابی بکر فلما تکلم ابوبکر قال والذی نفسی بیدہ لقرآینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرآبتی واما الذی شجر بیننہ و بینکم من ہذا، الاموال را مال فذکر خیر وغیرہ، فلم ال رکھی نہیں کی، فیہا عن الخیر ولم اترك امرا دایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہا الا صنعتہ فقال علی لابی بکر وعدک العشیۃ

(۱۸۲۳) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَاتِ لِمَا فَتَحَتْ خَيْبَرَ قُلْنَا أَلَا نَنْشُبُهُ مِنَ الْبُخَيْرِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم کھجور سے سیر ہو جائیں گے

(۱۸۲۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ زَوْجَيْهِ قَالَ مَا شَبَّعْنَا حَتَّىٰ فَتَحْنَا خَيْبَرَ (۲) بَابُ اسْتِعْمَالِ

ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم کھجور کھا کر سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ خیبر کو فتح کیا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَهْلِ خَيْبَرَ (م- ۲۰۴۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

علیہ وسلم کا خیبر والوں پر حاکم مقرر کرنا

(متکرر- ۱۰۷۹) بَابُ مَعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ

دیکھو حدیث ۱۰۷۹ بَابُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں سے بھائی کرنا

(م- ۲۰۴۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر- ۱۱۰۶) بَابُ الشَّارَةِ الَّتِي سَمَّيْتُ لِلنَّبِيِّ

دیکھو حدیث ۱۱۰۶ بَابُ بکری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَكَانَ عَائِشَةُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خیبر میں زہرا ملایا گیا اسکو وہ نے حضرت عائشہ کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

(م- ۲۰۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۱۴۷)

دیکھو حدیث ۱۱۴۷

ترجمہ (۹۹) زوال کے بعد للبيعة فلما صلا ابو بكر الظهر فقضى على المنبر فشهد وذكر شان علي وتخلعه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به اليه رجو عذرا نوت عن بعضي على لے پیش کیا تھا، ثم استغض و شہد علی عظیم حق ابی بکر وحدث انه لم يجعل علی الذي صنع نفاسة و صمد علی ابی بکر

وكان انكار اللذي فضلا لله به ولكن انرى لنا في هذا الامر نصيبنا فاستبد علينا رانتهون في اعلمه في انفسنا ربيع ربح بوان في ذاك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الى على قريبا رحضرت على من زياده محبت کرنے لگے، حين راجع الامم المعترف - بيعة حصد کے لئے دیکھو نوٹ ۳۷ صفحہ ۶۹۹ و ۷۰۰ - دوسرے حصہ میں جو یہاں سے شروع ہوتا ہے وكان لعين الناس وجرصياة فاطمة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس یہ ذکر ہے کہ حضرت علی نے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں یعنی خلافت کے چھ ماہ بعد تک حضرت ابوبکر سے بیعت نہ کی اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں لوگ انہیں معذور بھی سمجھتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ کی صحبت اچھی نہ تھی لیکن اچھی وفات کے بعد حضرت علی نے غموس کیا کہ لوگ ان کے اس فعل کو پسند نہیں کرتے تو آپ نے حضرت ابوبکر کی طرف رخ کیا اور انہیں بلا کہ تمہاری میں ان سے نہیں حضرت عمر کے ساتھ آئیو اسکے پسند کیا کہ ان میں شدت تھی شاید ان کے اس طرح علیہ رہنے کی وجہ سے ان پر سختی نہ کریں۔ تمہاری میں حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے دوستا نہ شکوہ کیا کہ ان کو رنج اس وجہ سے ہو کہ خلافت کے معاملہ میں انکی رائے نہیں لگی وردہ انہیں ان کی فضیلت کا اعتراض تھا اور اس پر بھی کوئی حسد نہ تھا کہ خلافت انہیں کیوں ملی اور نہیں کیوں نہ ملی۔ بالآخر حضرت علی نے عام مجلس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد عارض نشینی اختیار کر لی تھی اور امور مملکت میں کسی طرح دخل دیتے تھے۔ اور اسکی پہلی وجہ تو یہ رنج تھا کہ انکی رائے خلافت کے معاملہ میں نہیں لی گئی لیکن دوسری وجہ یہ ہوگی کہ حضرت فاطمہ کے میراث طلب کرنے پر حضرت ابوبکر نے لکھے خلافت فیصلہ دیا جس سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں حضرت علی نے بھی انکی خاطر داری اور تسلی کیلئے علیہ رہنا ہی پسند کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت علی یا حضرت فاطمہ پر اس بیعت نہ کرنے سے کسی نے اس رنگ میں اعتراض نہیں کیا کہ اس طرح پر خلیفہ وقت کی بیعت نہ کرینی وجہ سے وہ گنہگار ہو گئے تھے بلکہ ان کی خانہ نشینی اور علیگری کو پسند نہیں کیا گیا۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کیلئے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنا ضروری نہ تھا بلکہ یہ ضرورت صرف اہل صل و عقد کیلئے تھی جیسا کہ عینی میں مازری کا قول نقل کیا ہے۔ انه يكفي في بيعة الامام ان يقع من احاد اهل الحل والعقد ولا يجب الاستيحاء ولا يلزم كل احد ان يحضر عنده ويضع يده في يده بل يكفي التزام طاعتها ولا انقياد له بان لا يخالفه ولا يثق العصا عليه و (عاشية صفحہ ۱۷۸) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کھجور بھی سیر ہو کر کھانے کو نہ تھی تھی۔ اگلی حدیث میں یہ بات واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ما خبیر کھجوروں کا ذکر ہے۔ لفظ ۱۰۷۹ کے یہی ہیں۔ مگر آخر پر بڑھا یا ہے۔ ان اباسعید و ابابھر تو حدیثاۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث احابا بنی عدی من الانصار الى خيبر فامروا عليه بها۔ یعنی آپ نے بنی عدی کے ایک شخص سوا بن نوفیہ کو خیبر پر حاکم مقرر کیا تھا کہ صلص صرف پہلے حصہ کو دوسرا یا ہے۔ اعطى النبی صلعم خيبر اليهود ان يجعلوها دين و دعوا و لهم شرط نصف ما يخرج منها۔ یعنی خیبر کی زمینیں یہودیوں کے قبضہ میں ہی رہنے دی گئیں صرف ان سے نصف پیداوار لی جاتی تھی۔ اس میں حق مانکا نہ بھی آگیا اور معاملہ سرکاری بھی ہوا۔ خلا باب وفات النبی میں لے و صل کتا کو ۱۱۷۹ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰

۱۸۲۷ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَوْمٍ مَوَاتٍ تَسْعَةَ أَسْيَافٍ
خالد بن ولید سے روایت ہے کہ میں نے ہاتھ میں موت کے دن سات تلواریں ٹوٹ گئیں

۱۸۲۸ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي مِنَ الْأَصْفِيحَةِ بِمِائَةِ رَمٍ ۲۰۶۳ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ (مُتَكَوِّنًا)
اور میرے ہاتھ میں صرف ایک ہی تیغ رہ گیا

۱۸۲۹ (۱۸۲۷) عَنِ الثَّعْلَبِيِّ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ أَخِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُوَاحَةَ فَجَعَلَتْ
ثَعْلَبِيُّ بْنُ بَشِيرٍ سے روایت ہے کہ اسی نے کہا عبد اللہ بن رواحہ میں ہوش ہو گئے تو ان کی بہن

۱۸۳۰ أُخْتُهُ عَمْرُوَةُ تَبْكِي وَأَجْبَلَاءُ وَآكِلٌ أَدَاكُذُّ ائْتَعَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قَلْبَتْ
عمرہ بون رونے لگی ہاتھ میرا پاؤں ہاتھ میرا ایسا بار بھائی ان کی تو بیاں گنتے تھیں جب انکو ہوش آیا تو کہنے لگے جو کچھ تو نے

۱۸۳۱ شَيْئًا لَّا كَرِهِي لِي أَنْتَ كَذَلِكِ ۲۰۶۴ - عَنِ الثَّعْلَبِيِّ بْنِ بَشِيرٍ (مُتَكَوِّنًا) ۱۸۲۷
کہا وہی بات مجھ سے کسی گئی کہ کیا تو ایسا کیا ہے

۱۸۳۲ (۲۷۷) بَابُ بَعَثِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ
بَابِ بَجَلْ بَنِي عَمَلِيٍّ الشَّرْعِيِّ وَسَلَّمَ كَمَا اسامہ بن زید کو حرقات قبیلہ کی طرف بھیجا جو عجمیہ

۱۸۳۳ جَهْمِيَّةً ۱۸۲۸ عَنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۸۳۴ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّخْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَحَقَّتْ أُنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
دقیقہ حرقتہ کی طرف بھیجا ان لوگوں پر صبح کو ہم نے حملہ کیا ہم نے انکو شکست دی اور میں اور انصار میں سے ایک

۱۸۳۵ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فُكِّفْتُ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَلْتَهُ بَرْحِي
غصہ نے ان میں سے ایک شخص کو پایا جب ہم نے اسکو گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو انصار نے ہاتھ روک لیا اور میں نے

۱۸۳۶ حَتَّى قَاتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَاتَلْتَهُ
اسے اپنے ذریعے سے مارا یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا جب ہم رو ایں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی آپ نے فرمایا اسامہ تم نے

۱۸۳۷ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكْرِمُ رَهًا حَتَّى مَمِنْتُ
اسکو الا اللہ انٹر کہنے کے بعد قتل کر دیا میں نے عرض کیا وہ بجا و بی غلطی کر رہا تھا آپ ہی ہاؤ وہرتے تھے یہاں تک کہ میں نے

۱۸۳۸ أَيْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ۱۸۲۹ عَنِ سُكَيْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَافِ
آرزو کی رکاوٹ میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا تھا سلمہ بن اکوع سے روایت ہے

۱۸۳۹ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا
ساتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات جنگوں میں شامل ہوا اور ان فوجوں میں سے جو آپ

۱۸۴۰ يَبْعَثُ مِنَ الْبِعْوثِ تَسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ
بھیجے رہتے تھے نو جنگوں میں نکلا بھیجا ہے اسے تین گزوات ابوبکر کی اور ایک گزوات اسامہ کی

۱۸۳۳ غلہ انقطعت کی جگہ موت ہے اور بقی کی جگہ صحبت ہے اسی سے ایک ہی ہے غلطی کی خوبیاں بیان کر کے روٹا یا بن کرنا اچھائیں اس سے روکا ہے غلطی کیوں ہیں اغنی علی عبد اللہ بن رواحہ بہذا یعنی یہی حدیث اور پر والی بیان کی غلطی کے لئے ہے علیہ یعنی ان کی بن پھر ان پر اس طرح نہ روئیں حرقات حرقتہ کی جمع ہے حدیث باب میں لفظ حرقتہ ہی آتا ہے ابن سعد نے اس کو رمضان کے چھری میں لکھا ہے اور یہ بھی کہ اس میں امیر غائب بن عبد اللہ تھے

۱۸۳۶ اس کا نام مراد اس تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کو بار بار دہراتے تھے اقلتہ بعد ما قال لا الہ

۱۸۴۰ اور دوسرے سمریہ جو بنی کی طرف بھیجا گیا

(م- ۲۰۶۵) عَنْ سَلَمَةَ (مَتَكَر- ۱۸۲۹) (م- ۲۰۶۶) عَنْ سَلَمَةَ (مَتَكَر- ۱۸۲۹)

دیکھو حدیث ۱۸۲۹

دیکھو حدیث ۱۸۲۹

(م- ۲۰۶۷) عَنْ سَلَمَةَ (مَتَكَر- ۱۸۲۹) (۲۷۸) بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ

دیکھو حدیث ۱۸۲۹

باب فتح مکہ کا طرہ و حال

ابن ابی بلتعنہ راہی اہل مکہ یخبرہم بغير والیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط مکہ والوں کو بھیجا

(م- ۲۰۶۸) عَنْ عَلِيٍّ (مَتَكَر- ۱۳۷۲) (۲۷۹) بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

دیکھو حدیث ۱۳۷۲

باب فتح غزوہ فتح مکہ کا رمضان میں ہونا

(م- ۲۰۶۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكَر- ۹۸۵) (م- ۲۰۷۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

دیکھو حدیث ۹۸۵

(مَتَكَر- ۹۸۵) (۱۸۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۹۸۵

ابن عباس سے روایت ہے کہ

فِي رَمَضَانَ إِلَى حَنْزِلٍ وَ النَّاسِ مُخْتَلِفُونَ فَصَاتِمَةٌ وَمَعَهَا فَلَئِمَا اسْتَوَى

رمضان میں حنین کی طرف روانہ ہوئے

اور لوگ مختلف حالتوں پر تھے کوئی روزہ دار تھا کوئی بے روزہ جب آپ اپنی

عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا يَا نَارَ مَنْ لَبِنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

اوتھنی پر سوار ہوئے تو آپ نے ایک برتن جس میں دو دھندیا پانی تھا منگوا لیا اسے اپنی ہتھیلی پر لیا اپنی اونٹنی پر رکھا

ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ لَمُفْطِرُونَ لِلصُّوَامِ أَفْطَرُوا وَارِوِي رَوَايَةً

پھر لوگوں کی طرف دیکھا تو جو روزہ دار نہ تھے انہوں نے روزہ داروں سے کہا روزہ کھول دو اور ایک ماہتہ میں

انہوں نے روزہ داروں سے کہا روزہ کھول دو اور ایک ماہتہ میں

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ (م- ۲۰۷۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے

(مَتَكَر- ۹۸۵) (۵۰) بَابُ ابْنِ رَكْنِ بْنِ رَكْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ

دیکھو حدیث ۹۸۵

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن

يَوْمَ الْفَتْحِ (۱۸۳۱) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عروہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال روانہ ہوئے

عروہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال روانہ ہوئے

عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قَرَيْشًا حَرَجَ أَبُو سَعْدِ بْنِ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حَرْزَامٍ

اور اس کی خبر قریش کو پہنچی

تو ابو سعید بن حرب اور حکیم بن حزام

اور اس حدیث کے آئیں دوسری روایت میں فتح مکہ کی خبر کا ذکر ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ آپ وسط رمضان کے قریب مکہ میں پہنچے اور انیس یوم

وہاں ٹھہرے اور پھر شوال میں حنین کی طرف نکلے۔

سابقہ روایت کے نفاذ میں۔ سابقہ روایت کے نفاذ میں۔ سابقہ روایت کے نفاذ میں۔

فَتْحِ نَهَأَ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ بِالْفَتْحِ حَتَّى دَمَ مَلَكَةٌ قَالَ كَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّعْفِ وَأَفْطَرَ مِنْ شَاءِ صَامٍ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

بعضی وہی لفظ ہیں +
بہاں الفاظ میں کچھ فرق ہے
غزوت مع النبی صلعم سبب غزوت
وغزوت مع ابن حارثہ استعمال
علیہا
کلیاں بھی الفاظ اور ہیں، غزوت مع النبی صلعم سبب غزوت
غزوات فذاک خیر والحدیبیہ
ویوم حنین ویوم الفتح قال یزید
ونسیت بقیتہم۔
اسکی وجہ یہ تھی کہ قریش نے مدینہ کی حد توڑ
دیا تھا
قریش انہی الفاظ میں حاطب بن ابی بلتعنہ کے خط والے واقعہ کو دہرایا ہے صرف آخری فقرہ غزوت تک کے بعد یہ لفظ بڑھائے ہیں۔
فانزل اللہ السورۃ
یا ایہا الذین امنوا

لا تتخذن واحدا منکم اولیاء تلحقون الیہم بالموذیۃ الی قولہ فقد ضل سواہ السبیل یعنی سورہ فتح کی یہ آیات اس یا کہ میں نازل ہوئیں دیکھو نوٹ ۱ ص ۶۷۶۔
ملک بیان لفظ یوں ہیں۔ ان رسول اللہ صلعم غزا غزوة الفتح فی رمضان روئی روایۃ قال صام رسول اللہ صلعم حتی اذا بلغ الکعبین الماء الذی بین قنایین وعسفان افطر فلم یزل مفطرا حتی انسلخ الشهر + مک یہ مکرر روایت کچھ زیادت کے ساتھ آئی ہے ان النبی صلعم حرج فی رمضان من المدینۃ ومعیشۃ اہل ذوالکعبۃ اس ثمان سنین ونصف من مقدم المدینۃ شاء وهو من ہجرت المسلمین الی مکہ ینوم ویصومون حتی بلغ الکعبین وهو ما بین عسفان وقنایین افطر افطر اقال لزهري وانما یخذ من امر رسول اللہ صلعم الاخر فالآخر + مک یہاں حنین کی طرف روانہ ہونیکا ذکر ہے اور اس حدیث کے آئیں دوسری روایت میں فتح مکہ کی خبر کا ذکر ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ آپ وسط رمضان کے قریب مکہ میں پہنچے اور انیس یوم وہاں ٹھہرے اور پھر شوال میں حنین کی طرف نکلے۔ سابقہ روایت کے نفاذ میں۔ سابقہ روایت کے نفاذ میں۔ سابقہ روایت کے نفاذ میں۔
فَتْحِ نَهَأَ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ بِالْفَتْحِ حَتَّى دَمَ مَلَكَةٌ قَالَ كَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّعْفِ وَأَفْطَرَ مِنْ شَاءِ صَامٍ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

وَبَدِيلِ بْنِ وَرْقَانَ يَكْتُمُونَ أَخْبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلُوا

اور بدیل بن ورقان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حاصل کرنے کے لئے نکلے۔ وہ چلتے

یَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا امْرَأَ الظُّهْرَانِ فَأَذَاهُمْ بَنِي إِزْرَانَ كَانَتْهَا نِيْرَانُ عُرْفَةَ فَقَالَ

رہے یہاں تک کہ انھوں نے روشنیاں دیکھیں گو یا کہ وہ عرفات کی روشنیاں ہیں۔ اس نے

أَبُو سَعِيْنٍ مَا هَذِهِ لَكَاتَهَا نِيْرَانُ عُرْفَةَ فَقَالَ بَدِيْلُ بْنُ وَرْقَانَ نِيْرَانُ

ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہے یہ تو گو یا کہ عرفات کی روشنیاں ہیں بدیل بن ورقان نے کہا بنوعرو کی روشنیاں ہیں

بَنِي عَمْرِو فَقَالَ أَبُو سَعِيْنٍ عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حُرَّسِ رَسُولِ

ابو سفیان نے کہا بنوعمرواتے نہیں اس سے کم ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَرَهُمْ فَأَخَذُوا هَمًّا فَأَتَوْا إِيَّاهُمْ رَسُولَ اللَّهِ

پر پیاروں میں سے بعض لوگوں نے دیکھ لیا اور ان تک پہنچ کر ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ أَبُو سَعِيْنٍ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ حَبِيْسٌ

خدمت میں لائے تو ابو سفیان مسلمان ہو گیا جب آنحضرت صلعم روانہ ہوئے تو حضرت عباس سے کہا

أَبَا سَعِيْنٍ عِنْدَ حَظِيْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ فحَسِبَهُ الْعَبَّاسُ

کہ ابو سفیان کو گھوڑوں کے ہجوم کے پاس کھڑا کر دو تاکہ مسلمانوں کو دیکھ لے تو حضرت عباس نے ان کو کھڑا کرنا

فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ كِتِيْبَةٌ لِيْتِيْبَةَ

اور قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرنے لگے اور دستوں پر دستے ابو سفیان کے

عَلَى أَبِي سَعِيْنٍ فَمَرَّتْ كِتِيْبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا خِفَارٌ

سائے گزرتے چاہتے تھے ایک دستہ گذرا تو ابو سفیان نے کہا عباس کن کا دستہ ہے کہا خفار کا

قَالَ فَمَا لِي وَذِيْ خِفَارٍ ثُمَّ مَرَّتْ جَهِيْنَةٌ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هِزْمٍ

کہا مجھے خفار سے کوئی غرض نہیں پھر جہینہ گزری تو اسی طرح کا پھر سعد بن ہزیم گزری تو اسی طرح کا

فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ وَمَرَّتْ سَلِيْمٌ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى أَقْبَلَتْ كِتِيْبَةَ لَمْ

یہاں تک کہ ایک ایسا لکڑا آیا کہ جس کی مثل دیکھنے میں نہیں آئی

يَرِمِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ هُوَ لَكَ إِذْ نَصَرَ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ

ابو سفیان نے کہا یہ کون ہیں کہا یہ انصار ہیں ان کے افسر سعد بن عبادہ ہیں جن کے

مَعَهُ الرَّأْيَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ يَا أَبَا سَعِيْنٍ الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلِيْمَةِ الْيَوْمَ

پاس پھرتا ہے سعد بن عبادہ کہتے تھے ابو سفیان آج قتل کا دن ہے آج کعبہ میں لڑنا

لَسْتُمْ لِكَعْبَةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيْنٍ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمَ الذِّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ

درست سے پھر ابو سفیان نے کہا عباس اچھا تاہی کا دن آیا پھر ایک شکر

كِتِيْبَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ الْكِتَابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

آیا وہ سب لشکروں سے چھوٹا تھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور

أَصْحَابُهُ وَرَأْيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

آپ کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا زبیر بن عوام کے پاس تھا

علا ابو سفیان کا نام صحفر بن حرب بن امیہ بن خلف بن اسلام کے قبائل عظم تھے فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور ستائیس ہجری میں ۸۸ سال کی عمر میں فوت ہوئے حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حالت کفر میں رسول اللہ صلعم کے طرفداروں میں سے تھے خلافت معاویہ میں ۱۷ ہجری میں ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے بیل خزام میں سے تھے ملا مران ظہران کہ سے سولہ میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے۔ یہاں نیران ڈرکی جمع ہے جگہ جگہ آگ ملتی ہوئی یا روشن دیکھی جس طرح عرفات کے میدان میں حاجی اپنی اپنی آگ چلاتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے مسلمانوں کی طاقت کے مظاہرہ کے لئے یہ حکم دیا تھا کہ سب

لوگ اپنی اپنی جگہ آگ جلا لیں تاکہ دشمن کو ٹھکانے کی قوت کا پتہ لگ جائے اور وہ بیسود مقابلہ سے باز رہیں۔ ملا یعنی انصار کا چھٹا۔ ماجرن کا چھٹا حضرت زبیر کے پاس تھا۔ جب رسول اللہ صلعم کو یہ خبر پہنچی کہ سعد نے ایسا کہا ہے تو آپ نے چھٹا اس سے لیا اور وہ چھٹا بعض وایتوں کے مطابق اس کے بیٹے قیس کو ہم

عادی یا اور بعض کے مطابق حضرت علی کو اور بعض کے مطابق حضرت زبیر کو

فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سَعْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَال سَعْدُ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوسفیان کے پاس سے گزئے تو ابوسفیان نے کہا کیا آپ کو اس کا علم نہیں

أَبِ سَعْيَانَ قَالَ كَذَا فَقَالَ كَذِبٌ سَعْدٌ وَلَكِنْ هَذَا أَيُّومٌ يُعْظَمُ

جو سعد بن عبادہ نے کہا آپ کے فرمایا کیا کہا ایسا ایسا کہا فرمایا سعد نے غلط کہا البتہ یہ ایاموں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی

اللَّهُ فِيهِ الْكُعْبَةُ وَيَوْمَ تَنكُسُ فِيهِ الْكُعْبَةُ قَالَ وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی عظمت بڑھے گا اور ایاموں ہے کہ اس میں کعبہ کو پگڑا اڑھایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا

وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ رَأْيْتَهُ يَا حُجْرُونَ قَالَ عُرْوَةُ وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جَبْرِ

کہ آپ کا نشان مقام حجون پر گاڑ دیا جائے گا عروہ نے کہا مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی

مُطْعِمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعُوَامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ بَعَثْنَا

کہ میں نے عباس سے سنا وہ زبیر بن عوام سے کہتے تھے کہ ابو عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ

أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكُزَ الرَّأْيَةَ قَالَ وَأَمْرُ رَسُولِ

علیہ وسلم نے تمہیں یہاں جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا تھا کہا اور اس دن رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى

صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی اوپر کی جانب سے

مَكَّةَ مِنْ كُدَّارٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُدَّارٍ فَاقْتَبَلَ مِنْ

کدرا کی طرف سے داخل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدرا کی طرف سے داخل ہوئے کدرا اس دن خالد کے

حَيْلِ خَالِدِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ جَبْرِ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ وَكُرْمِ بْنِ جَابِرِ بْنِ الْغَفَرِيِّ

سواروں میں سے دو شخص قتل ہوئے حبیش بن اشعر اور کرم بن جابر بن غفری

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يَرْجِعُ وَقَالَ

مخبر کہتے کہ دن اپنی اونٹنی پر بیٹھا آپ خوش الحانی سے سورہ فتح پڑھ رہے تھے کھراوی نے کہا

لَوْ كَأَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعْتُ (ص- ۲۰، ۲۱) عَنْ أُسَامَةَ

اگر میرے گرد لوگوں کے اکٹھے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی خوش الحانی سے پڑھتا جس طرح عبداللہ نے خوش الحانی سے پڑھا

ابْنِ زَيْدٍ (متك- ۸۴۵) (ص- ۲۰، ۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متك- ۸۴۶)

دیکھو حدیث ۸۴۵ ۸۴۶ دیکھو حدیث ۸۴۶

یہاں کذب
یعنی اخطا ہے
یعنی سعد نے غلط
کہا ہے
یہاں یہ کہتے ہیں
کہ قریب ایک مشور
مقام ہے۔ یہ بعد
کا واقعہ ہے جب
حضرت زبیر اور
حضرت عباس کی
وقت حج میں کتبے
ہونے تو انہوں نے
کہا کہ یہاں آپ کو
جھنڈا گاڑنے کا
حکم دیا تھا
یہاں کدرا کے
اوپر کی جانب ہے
اور کدرا کی نشیب
کی جانب۔ اور
دوسری صحیح جا
ہے اس کے غلط
ہے یعنی خالد
اسفل مکہ کی جانب
سے داخل ہوئے
اور حضرت صلعم
اوپر کی جانب سے
اسحاق بن
میں ہے کہ یہ دونوں
شخص نکسے
انک ہو کر شریکوں
کا تھے پڑ گئے تو انہوں نے

انہیں قتل کر دیا صلعم اس لئے کہ آج وہ عظیم الشان بشارت پروری ہوتی جو پڑھ سال پیشتر ہمدانیہ سے واپسی پر دی گئی تھی اس سے صحابہ کا ایمان کس قدر ترقی کرتا ہوا
ہلا کہ روایت کچھ اختلاف سے آئی ہے انہ قال زمن الفتح يا رسول الله اين تنزل غذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل ثم
قال لا يريث المؤمن الكافر لا يريث الكافر المؤمن قيل للزهري ومن درث ابا طالب قال درهم عقيل وطالب قال معمر بن الزهري اين تنزل غذا
في حجة ولم يقل يونس حجة ولا زمن الفتح ۵۵۵ میں ہے کہ حضرت عمر یوں فرماتے تھے لا یریث المؤمن الکافر اور یہاں ہے کہ خود رسول اللہ صلعم نے
فرمایا لا یریث المؤمن الکافر ولا یریث الکافر المؤمن اور وہاں ہے کہ یہ نتیجہ کہ موس کا فرکا وارث نہیں ہوتا صحابہ نے اس آیت سے اذکیان الذین امنوا
دھا جرد اور ان قال (ص- ۲۰) یہاں یہ ذکر نہیں ہے یہاں اختلاف ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الحيف حيث
تفتح سمرا على الكفر- یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے سفر میں فرمایا تھا۔ ۸۴۵ میں ہے کہ آپ نبی میں تھے جب یہ فرمایا م ۲۱ کے لفظ ۲۰ کے قریب تو یہ
ہیں گروہاں اذا فتح الله کی جگہ ہے حین اذ اذ قد دم مکتہ اور اگلی روایت میں جو حین اذ اذ حنینا دیکھو نوٹ ۲۱ و ۲۲

۲۰۴۲ (م-۲۰۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر-۸۲۶) (م-۲۰۴۵) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متكرر-۹۳۶)	دیکھو حدیث ۸۲۶	دیکھو حدیث ۹۳۶
۲۰۴۶ (م-۲۰۴۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر-۱۱۸۱) (م-۲۰۴۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر-۸۵۳)	دیکھو حدیث ۱۱۸۱	دیکھو حدیث ۸۵۳
باب ۵۱ دُخُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحْلَى مَكَّةَ		
باب ۵۱ بنی مصلیٰ اشرف علیہ وسلم مکہ کی اوپر کی طرف سے داخل ہونا		
۲۰۴۸ (م-۲۰۴۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متكرر-۲۸۶) (م-۲۰۴۹) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-۸۲۱)	دیکھو حدیث ۲۸۶	دیکھو حدیث ۸۲۱
باب ۵۲ عَنْ عُرْوَةَ (متكرر-۸۲۱) (م-۲۰۸۰) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ		
باب ۵۲ عروہ کے دن نبی مصلیٰ اشرف علیہ وسلم		
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ (م-۲۰۸۱) عَنْ ابْنِ أَبِي كَيْسَانَ (متكرر-۵۳) (م-۲۰۸۲) كَمَا مَقَام		
دیکھو حدیث ۲۰۸۱		
عَنْ عَائِشَةَ (متكرر-۲۸۷) (م-۲۰۸۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر-۱۹۳۲)		
دیکھو حدیث ۲۸۷		

کتاب المغازی
 باب ۵۱
 بنی مصلیٰ اشرف علیہ وسلم
 مکہ کی اوپر کی طرف سے داخل ہونا
 باب ۵۲
 عروہ کے دن نبی مصلیٰ اشرف علیہ وسلم
 باب ۵۳
 عروہ کے دن نبی مصلیٰ اشرف علیہ وسلم

کے قتل کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۱۷۱... مکہ کے بعد بڑھا یا پے یوم الفتح اور حاد الحق و ذھق الباطل کے بعد حاد الحق و ما یبدی الباطل و ما یبعث الباطل و ما یبعث الباطل یا بنی لفظ دربی ہیں + مگر روایت کو قریباً انہی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ آپ کبھی کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک وہاں سے بت نہیں نکالے گئے۔ ان میں حضرت ابراہیم اور اسمعیل کی موتیں بھی تھیں + ۱۳۸۶ ہے جس کے مضمون اور الفاظ کے ساتھ اس مکرر روایت کا مضمون اور الفاظ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ۲۸۷۱ مختصر روایت ہے اس کی مکرر روایت م ۱۳۸۶ ہے جس کے مضمون اور الفاظ کے ساتھ اس مکرر روایت کا مضمون اور الفاظ ملتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کا ذکر ہے اور پھر یہ کہ آپ کبھی میں بھی داخل ہوئے + ۱۱۷۱ حضرت ابن عمر کی روایت ہے اور م ۲۰۴۹ حضرت عائشہ کی لفظ بھی اور ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من کذا ما التی با علی مکة + ۱۱۷۱ حدیث ۱۱۷۱ ابن عمر کی روایت ہے اور اس کی مکرر روایات م ۶۳۶ م ۶۳۷ م ۶۳۸ حضرت عائشہ رضی کی روایات ہیں۔ اور م ۶۳۶ م ۶۳۷ م ۶۳۸ عروہ کی روایات ہیں جن سب کا مضمون ایک ہے۔ یہ مکرر روایت م ۲۰۸۰ بھی عروہ کی روایت ہے۔ مگر عروہ تابعی ہیں۔ اور م ۶۳۶ م ۶۳۷ م ۶۳۸ میں حضرت عائشہ کی روایت انہی کی وساطت سے ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من کذا ما التی با علی مکة من کذا ما التی با علی مکة کے ہی ہیں۔ یہاں ابویسے یوں ذکر کرتے ہیں۔ ما اخبرنا احد ابناء اخی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلحہ غیر ام ہانی فاخذت اذہ یوم فتح مکة اغتسل فی بیتہا ثم صلحہ ثمانی رکعات قالت لہ اذہ صلحہ صلوٰۃ اخذت منہا غیر اذہ یتیم الركوع والجمود۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تو صبحا کہ حج میں اور اس سے پہلے باب میں گذر چکا خیف نبی کا نہیں ہی کیا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں بھی گئے تھے اور وہاں غسل فرمایا اور نماز صبحی پڑھی + ۱۱۷۱ مکرر حدیث کا مضمون اور الفاظ ملتے ہیں۔ یہ ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللھم ربنا و محمدک اللھم اغفر لی۔ اور لفظ ہر اس کا تعلق فتح مکہ سے کچھ نہیں۔ لیکن کتاب التفسیر میں یہ حدیث اس تفسیر کے ساتھ آتی ہے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد آپ رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مگر اس سورت کا نزول بھی فتح مکہ میں نہیں بلکہ حجة الوداع میں ہوا۔ ہاں اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے + ۱۱۷۱ اصل حدیث مختصر ہے۔ یہاں روایت مفصل آئی ہے۔ قال کان عمر بن الخطاب یصلی مع اشیاخہ و یقول بعضہم رسل و ابیت میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا تھا کہ تم داخل ہذا الفتح معنا و لنا ابنا مثله فقال اذہ من قد علمتم قال فذا عام ذات یوم و دعانی مصعب قال و ما کذبہ دعانی یومئذ الا لیرہم منی فقال ما تقولون اذا جاء نصر اللہ والفتح و ابیت الناس یرجلون حتی ختم السورۃ فقال بعضہم امرنا ان نحمد اللہ و نستغفرہ اذا نصیرنا و فتح علینا و قال بعضہم لا ندری اولم یقل بعضہم شیئا فقال لی یا ابن عباس انک تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ اذا جاء نصر اللہ والفتح فتم مکة فن ان علامۃ احوالک فیمحمد ربک واستغفرک ان کان قبا قال عمر ما اعلم منہا الا ما تعلم اس حدیث کو یہاں لایکی غرض بھی ہے کہ اس سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح مکہ کا ذکر ہوا۔

۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶
۲۰۴۷
۲۰۴۸
۲۰۴۹
۲۰۵۰
۲۰۵۱
۲۰۵۲
۲۰۵۳
۲۰۵۴
۲۰۵۵
۲۰۵۶
۲۰۵۷
۲۰۵۸
۲۰۵۹
۲۰۶۰
۲۰۶۱
۲۰۶۲
۲۰۶۳
۲۰۶۴
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۷
۲۰۶۸
۲۰۶۹
۲۰۷۰
۲۰۷۱
۲۰۷۲
۲۰۷۳
۲۰۷۴
۲۰۷۵
۲۰۷۶
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
۲۰۸۰
۲۰۸۱
۲۰۸۲
۲۰۸۳
۲۰۸۴
۲۰۸۵
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۰۸۹
۲۰۹۰
۲۰۹۱
۲۰۹۲
۲۰۹۳
۲۰۹۴
۲۰۹۵
۲۰۹۶
۲۰۹۷
۲۰۹۸
۲۰۹۹
۲۱۰۰

(۲۰۸۴-۲۰۸۳) عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ (متكرر - ۹۰) (رمضان ۸۵ھ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي
 وَبِهِ حَدِيثٌ ۹۰ ۱۱
 (متكرر ۱۰۹) (۵۴) بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ
 وَبِهِ حَدِيثٌ ۱۰۳ ۱۱ بَابُهُ بَنِي هَلِيٍّ الْبَلَدِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّجَهُ الْإِسْلَامِيُّ فِيهِ مِثْرَانِ فِيهِمَا
 (۲۰۸۶-۲۰۸۵) عَنْ أَبِي شَرِيحٍ (متكرر - ۵۹۸) (رمضان ۸۵ھ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۵۹) (۵۹)
 وَبِهِ حَدِيثٌ ۵۹ ۱۱
 (رمضان ۸۵ھ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۵۹۷) (۵۵) بَابُ (۱۸۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 وَبِهِ حَدِيثٌ ۵۹۷ ۱۱ بَابُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ
 ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعْدَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ
 بن سعير سے روایت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال ان کے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تھا
 (۱۸۳۴) عَنْ سَنَادٍ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّه أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ
 سنن ابو جمیل سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ آپ کے ساتھ فتح مکہ
 عَامَ الْفَتْحِ (۱۸۳۵) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَةَ كُنَا بِنَاءَ مَمَرِ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِهَا
 عمرو بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہم یثرب پر ہوتے تھے جو لوگوں کے گزرنے کا راستہ تھا
 الرُّكْبَانُ فَنَسَا لَهُمْ قَالِ النَّاسُ قَالِ النَّاسُ قَالِ النَّاسُ فَهَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَا زَيْدُ إِنَّ اللَّهَ
 ہمارے پاس سے سوار گزرتے تھے تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے تو کوئی کہتا تھا یہ اس شخص کا کیا حال ہے تو کہتے
 أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَلِكَ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَانَتْ مَا
 کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے اس کی طرف وحی کی ہے یا یہ کہ اللہ نے ان سے وحی کی ہے تو میں یہ کلام حفظ کر لیتا ہوں کہ وہ
 يُعْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحِ فَيَقُولُونَ أَتُرْكُوهُ
 میرے سینے میں گاڑ دیا جاتا اور عرب اسلام لانے میں فتح مکہ کا انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو رہی کریم صلعم اور ان
 وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بِي صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ
 کی قوم کو آپس میں فیصلہ کرنے دو اگر وہ ان پر غالب آگئے تو وہ سچے نبی ہیں جب فتح مکہ کا وقوع ہوا
 الْفَتْحِ بَادِرُ كُلِّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدْرُ أَبِي قُوَيْسٍ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ
 تو ہر ایک قوم نے اسلام لانے میں جلدی کی اور میرے ہاتھ میری قوم سمیت اسلام لانے میں جلدی کی جب وہ (واپس آیا تو
 حَيْثُ كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَواتُ كَذَا
 کہا اللہ کی قسم میں تم سے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں انہوں نے فرمایا ہے فلاں نماز فلاں وقت میں صلعم
 فِي حَيْثُ كُنْتُمْ كَذَا فِي حَيْثُ كُنْتُمْ فَإِذَا أَحْضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤْذِنِ أَحَدُكُمْ
 اور فلاں نماز فلاں وقت میں جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک اذان دے

اللہ ورسولہ حرم بیع الخمرہ صلعم یاں مقام معنی قاتمہ ہے یہ صلعم یاں لفظ اور ہیں۔ اقدنا مع النبی صلعم عشرہ انقصہ الصلوة۔ ۵۹۷ میں تصبیح ہے کہ یہ مکہ میں قیام کے دنوں میں تھا اور یہ ذکر حججہ الوداع کا ہے جیسا کہ اصل حدیث میں صاف مذکور ہے کہ مدینہ سے چلے اور مدینہ میں ہی واپس آئے۔ حالانکہ فتح مکہ کے بعد یثرب کی جنگ پیش آئی تھی + صلعم یاں لفظ یثرب ہیں۔ اقدنا مع النبی صلعم بکلمة تسعة عشر يوما يصعد ركعتين۔ یہ فتح مکہ میں پھرنے کا ذکر ہے۔ اور ابیرانس کی حدیث میں حججہ الوداع کے قیام کا ذکر ہے، صلعم اس کے الفاظ ۵۹۷ کے قریب قریب ہیں اقدنا مع النبی صلعم فی سفرة تسعة عشر نقتصر الصلوة وقال ابن عباس عن نضی نقصوا ما بیننا و بین تسعة عشر فاذا زدنا اتعدنا۔ یہ حدیث یاں بطور تعین آئی ہے یعنی میں سے کسی سے بخاری نے تاریخ صحیفہ میں نقل کیا ہے عبد اللہ اور اس کا باپ ثعلبہ و نول صحابی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ عبد اللہ کی عمر صرف چار سال تھی جب آنحضرت صلعم نے

۴ وفات پائی۔ اور فتح مکہ کے وقت انہیں آنحضرت صلعم کے پاس لایا گیا۔

وَلْيَوْمَ نُكْفِّرُ الْكَاذِبِينَ قَدْ قَرَأْنَا أَنْ نُنْظِرَ وَأَقِمُ يَكُنْ أَحَدًا الْكَثْرُ قَرَأْنَا مَتَى لَمَا كُنْتَ تَلْقَى مَن

اور تمہارا امام وہ ہے جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو انہوں نے دیکھا تو کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن شریف حفظ نہ تھا کہ یہ کہیں پڑھے جائے اور تمہارا امام وہ ہے جس کو قرآن زیادہ حفظ ہو انہوں نے دیکھا تو کسی کو مجھ سے زیادہ قرآن شریف حفظ نہ تھا کہ یہ کہیں پڑھے جائے

الرَّكِبَانَ فَقَدْ هَمُّوا بِالْمَوْتِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا بَيْنُ يَدَيْهِمْ أَسْبَحِ بِسَمِيحِينَ وَكَانَتْ عَلَى بَرْدَةَ كُنْتُ

سواروں سے سیکھ لیا کرتا تھا سواروں نے مجھے اپنے آگے کیا اور میں مجھ سے باسا ت برس کا تھا اور مجھ پر عورت ایک چادر طہنی

رَأَى اسْحَدَاتٍ تَقْلُصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ لَحْيَةِ الْأَنْصَوْنَ عِنَّا أَسْتَ قَارِيَكُمْ

جب میں بچھڑ کر رہا تو وہ سمٹ کر رہ جاتی تو قوم کی ایک عورت نے کہا کیا تم اپنے امام کا ستر ہم سے نہیں چھپاتے اے تو انہوں نے

فَأَشْتَرُوا فَقَطَعُوا إِلَيَّ قَبِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحْتِي بِذَلِكَ الْقَوْمِ يَصْرُحُ

دیجئے (کیڑا) خریدیا اور میرے لئے ایک کریم کا ٹکڑا تو میں کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوا جتنا کہ اس قبیلے سے خوش ہوا

(م-۲۰۸۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (ممتکر-۱۰۲۱) م-۲۰۹۰ عَنْ عُرْوَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ

دیکھو حدیث ۱۰۲۱ م

متکر-۱۵۵۹ (م-۲۰۹۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ (متکر-۱۳۶۰) م-۲۰۹۲

دیکھو حدیث ۱۳۶۰ م

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ (متکر-۱۳۶۰) م-۲۰۹۳ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکر-۱۷۷۷)

دیکھو حدیث ۱۳۶۰ م

(م-۲۰۹۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکر-۱۷۷۷)

دیکھو حدیث ۱۷۷۷ م

زَمِعَةَ وَقَالَ عَتِيبَةُ إِنَّهُ ابْنُ فَلَسًا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْعِجَّةِ اخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَبِيدَةَ ذَمِيَّةً فَأَتَى بِهِ ابْنَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ زَمِعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ عَمِّي عَمْدُ ابْنِي أَنَّهُ ابْنُ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ زَمِعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا

أَخِي هَذَا ابْنُ زَمِعَةَ وَلَا عَلِيٌّ فَرَأَيْتَهُ فَظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ وَبِيدَةَ فَاذَّاشِبَهُ النَّاسُ بِعَتِيبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لِكَانَ هُوَ أَوْ لِكَانَ بِأَعْيُنِ بْنِ زَمِعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَلِدٌ عَلِيٌّ فَرَأَيْتَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابِي عَنْهُ بِأَسْوَدَةَ

لَمَّا رَأَى مِنْ شَبهِ عَتِيبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَالِدُ لِلْعَارِشِ وَاللِّعَارِهَا

الْمَجْرُورُ وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَكَانَ أَبُو بَهْرَةَ يَصِفُ بِنِّكَرٍ حَتَّى تَمُوتَ أَسْمَاءُ فِي الْبَيْتِ مَا يَأْتِي بِهِنَّ

بِطَلْعِ مَشْرُونٍ وَبِيءَ كَرَّ بَعْضُ زَيْدَةَ بِهِنَّ وَأَنْفَلُوهُنَّ فِي سَبْعِينَ يَوْمًا وَابْنُ شَهَابٍ قَالَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْمَرْءَاتُ

إِلَى أَسْمَاءَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَفْعُوْنَ لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلِمَةً أَسْمَاءَةَ فِيهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

أَسْمَاءَةُ اسْتَفْعَلَ ابْنَ زَيْدٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا كَالْعَسِيِّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاتَى عَلِيٌّ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَابْنُ قَانَدٍ أَهْلَكَ

النَّاسَ فَبَكَوْا مَعَهُ إِذَا اسْرَقَ فِيهِمْ الشُّرَيْعِينَ تَرْكُوهُ وَإِذَا اسْرَقَ فِيهِمْ الضَّمِيْعَةَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَجْرَ وَاللَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَلَى عَتِيبَةَ بِنْتِ

مُحَمَّدٍ سَرِقَتْ لَقَطَعَتْ يَدَهَا ثُمَّ ارْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقَطَعَتْ يَدَهَا فَحَسَنَتْ قَوِيَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْ ذَلِكَ فَارْتَمَى حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَافِيءُ يَافِيءُ مَرَاتٍ مَوْجُودَةٍ كَبُرَتْ تَوْرِي كَا وَاقْتَرَفُوهُ فَخَرَسُوا مَرَّاتٍ مَرَّاتٍ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ فِيهِ زَيْدَةَ

بِهِنَّ - أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُنْتُ بِأَخِي لَمْ تَبَيِّهْ عَلِيَّ الْهِجْرَةَ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِنَاصِيئِهَا فَطَلَّتْ عَلِيَّ

أَيُّ شَيْءٍ تَبَيَّهَ قَالَ يَا بَعْضُ عَلِيٍّ أَسْلَامٌ وَالْإِيمَانُ وَالْجِهَادُ فَلَقِيْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ كَبُرَ هَمَّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ

صَدَقَ عَمَّا شِعْرَهُ مَعَهُ اسْ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ فِيهِ هِيَ - انْطَلَقْتُ بِأَبِي مُعَدِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبَيِّهَ عَلِيَّ الْهِجْرَةَ قَالَ

مَضَتْ الْهِجْرَةُ لَأَهْلِهَا أَنْ يَبَيِّهَ عَلِيٌّ أَسْلَامٌ وَالْجِهَادُ فَلَقِيْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ عَمَّا شِعْرَهُ مَعَهُ اسْ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ فِيهِ هِيَ

جلد چوتھ کے اس قوم کے اسلام لانے کا واقعہ فتح مکہ کے بعد ہے لہذا معلوم ہوا کہ عورتیں پردہ کے احکام کے نازل ہونے کے بعد بھی مسجدوں میں مردوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتی تھیں اور ایسی جگہ کھڑی ہوتی کہ امام کو نہ دیکھیں۔ جگہ مسجونوں و بچوں نفیوں میں کچھ فرق ہے کا دعتیہ بن ابی وقاص سعدان اخیہ سعدان یقبض ابن ولیدۃ

علا الفاظ قریب
 قریب ۱۴۲۵ کے
 ہی ہیں مضمون
 وہی ہے یعنی اب
 ہجرت کی ضرورت
 نہیں رہی
 پہلا حدیث
 کا یہاں نہیں لکھا
 حصہ جہاں سے
 خطبہ شروع ہوتا ہو
 کچھ لفظی اختلاف
 سے دوسرا یہ ہے
 ان رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم
 قام یوم الفجر
 فقال ان الله خلق
 مکة یوم خلق

(م- ۲۰۹۵) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (متکثر- ۱۷۲۸) (م- ۲۰۹۶) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
دیکھو حدیث ۱۷۲۸
(متکثر- ۹۷) (۱۵۶) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى دِيَوْمِ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْلَجْتُمْ فِيكُمْ لِكُرْتِكُمْ
دیکھو حدیث ۹۷ باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور حنین کے دن عجلت میں اپنی کثرت پر گھمٹا ہوا
فَلَمْ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مَّدْيَنَ
اور وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکی اور زمین تمہارے لئے باوجود اس کے کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی پھر تم نے مدینہ پر پھیر کر بھاگ گئے
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ آلِهِ وَقَوْلُهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ (۱۸۳۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اللہ کے قول غفور رحیم تک (التیورہ ۲۵-۲۶) انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی وقیف
أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً قَالَ ضَرَبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
کے ہاتھ پر ضرب (کا نشان) دیکھا کہ یہ مجھے ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کے دن لگی تھی
قُلْتُ شَهِدْتُ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ (م- ۲۰۹۷) عَنْ أَبِي السُّخْتِ (متکثر- ۱۳۲۲)
میں نے کہا آپ حنین میں حاضر تھے کہا میں اس سے پہلے (روایتوں میں) بھی شریک تھا دیکھو حدیث ۱۳۲۲
(م- ۲۰۹۸) عَنْ أَبِي السُّخْتِ (متکثر- ۱۳۲۲) (م- ۲۰۹۹) عَنْ أَبِي السُّخْتِ (متکثر- ۱۳۲۲)
دیکھو حدیث ۱۳۲۲

السموات والأرض فهي حرام بحول الله إلى يوم القيامة قل لا حد قبيل ولا تحمل لاحدا بعدك ولم تحمل لي الا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا
 بعضه شوكها ولا يخنق خلاها ولا تحمل لفظتها الا لمنشأ فقال لعباس بن عبد المطلب الا الاذخر فانها لا تلبس منه للقتل والبسوت
 فسكت ثم قال الا الاذخر فانها حلال وحمل حنين مكر او طائف كدريمان ابك وادى ہے۔ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد شوال سنہ ہجری میں پیش
 آئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلعم کو خبر پہنچی کہ ہوازن آپ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے جمع ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ تقیف بھی سب کے سب
 ہیں اور اس کے علاوہ ہجرت ہجرت سعد بن سعد بن بکر اور کچھ دوسرے لوگ اور وہ اپنی عورتوں بچوں اور مہنگیوں کے ساتھ سب نکل پڑے ہیں تو آپ دس
 ہزار کا لشکر جو ہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا اور دو ہزار علفاء راہل مکہ کو ساتھ لے کر نکلے اور مکہ سے دس میل کے قریب پر مقابلہ ہوا۔ ہوازن وغیرہ قبائل
 وادی کے ایک محفوظ مقام پر قیام کر چکے تھے اور مسلمان ان کی زد میں آگئے اور وہ بیکر تیرہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ مسلمان بھاگ اٹھے۔ مگر
 نبی صلعم اس وقت بھی یہ ریڑ پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے انا النبی کا کذب۔ انا ابن عبد المطلب۔ اور عباس نے جو رسول اللہ صلعم
 کے ساتھ تھے ہاجرین اور انصار کو پکارنا شروع کیا پھر لوگ جمع ہوئے اور ہوازن کو شکست ہوئی۔ فتح الیاری میں جو مالک ابن اسحق ایک روایت متذکر
 ہے اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن عوف مسلمانوں سے پہلے حنین کی وادی میں پہنچ گیا تھا اور وادی کی تنگ جگہوں میں اپنے لئے جگہ بنا لی۔ آنحضرت صلعم
 اور آپ کے صحابہ صلعم کی تاریکی میں اس وادی میں داخل ہوئے تو جو لوگ کھینچا ہوں میں چھپے ہوئے تھے ان پر ٹوٹ پڑے اس لئے لوگ گھبرا گئے
 اٹھے۔ لفظوں میں تڑپے فرق ہے۔ سمعت البراء بن وہب رجل فقال یا ابا عامر ان اولیت یوم حنین فقال اما انا فاشهد علی النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم انه لم یول ولا یکن یحمل سمرعان العوم فرسعتهم ہوازن یعنی کچھ جلد بال لوگوں نے مال غنیمت کے لئے جلدی کی تو ہوازن کے تیر اندازوں نے
 ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی) داؤد سفین بن الحوثر اخذ براس بخلته البیضاء یقول انا النبی کا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ مسلمان حنین کی جنگ میں پہلے بھاگے تھے لیکن رسول اللہ صلعم اس وقت بھی دشمن کی طرف بڑھے جا رہے تھے اور بلند آواز سے پکار رہے تھے میں نبی ہوں
 یہ کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ روایات میں ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ صرف اسی یا سوادنی رہ گئے تھے۔ آپ کی شجاعت کا یہ
 کارنامہ سنہری حرفوں میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ آپ کا فکرو دشمن کے سامنے بھاگ کھڑا ہوا ہے مگر آپ نہ صرف آگے بڑھے جا رہے ہیں بلکہ بلند آواز
 سے وہ لفظ بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کو دشمن کی تیر اندازی کا نشانہ بنانے کیلئے کافی ہیں۔ مگر روایت مختصر ہے۔ قیل للبراء وانا اسمع اولیت مع
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین فقال اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا مآة فقال انا النبی کا کذب انا ابن عبد المطلب۔ علا
 الفاظ قریب ۱۳۲۲ کے ہی میں اس وقت یہ فقرہ زیادہ ہے۔ قال اسرائیل وزهد نزل النبی صلعم عن یقظ یعنی اسرائیل اور زہیر کہتے ہیں کہ نبی صلعم اپنی
 نجر سے اترائے تھے مطلب یہ کہ نجر سے اتر کر دعایں لگ گئے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ جب مشرکین آپ پر حملہ آور ہوئے تو آپ نے نجر سے اتر کر ایک
 مٹھی سنگریزوں کی یا مٹی کی اٹنے موٹوں پھینکی۔ اس روایت میں اصل حدیث کی طرح یہ ذکر ہے کہ پہلے مسلمانوں کے حملہ کے سامنے ہوازن بھاگ اٹھے تھے تو

مسلمان مال غنیمت پر بھاگ پڑے تب انکے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو اپنی زد میں پا کر ان پر اس قدر تیر برسائے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔

رم - ۲۱۰۰ عن مروان والسور بن حزم (متکرم - ۱۱۱۹) (م - ۲۱۰۱) عن ابن

دیکھو حدیث ۱۱۱۹

عمر (متکرم - ۱۰۱۵) (م - ۲۱۰۲) عن ابی قتادہ (متکرم - ۲۲۵) (م - ۲۱۰۳)

دیکھو حدیث ۱۰۱۵

دیکھو حدیث ۲۲۵

رم - ۲۱۰۳ عن ابی قتادہ (متکرم - ۲۲۵) (م - ۲۱۰۴) باب غزاة اوطاس

دیکھو حدیث ۲۲۵

باب غزاة اوطاس کا فرقہ ۵

(۱۸۳۴) عن ابی موسی قال لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من

ابو موسی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سے فارغ ہوئے

حنین بعث ابا عامر علی حیش الی اوطاس فلقی درید بن الصمة

تو ابو عامر کو ایک فریق کا سردار بنا کر اوطاس کی طرف بھیجا ان کا مقابلہ درید بن صم سے ہوا

فقتل درید وھزم اللہ اصحابہ قال ابو موسی بعثت مع ابو عامر فری

اور درید قتل ہو گیا اور اللہ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی ابو موسی نے کہا مجھ کو بھی ابو عامر کے ساتھ آپ نے بھیجا تھا

ابو عامر فی ركبته رماہ جشمی بسہم فاثبتہ فی ركبته فانتهیت الیہ

ابو عامر کو گھٹنے پر تیرگا ایک بٹھی لے ان کو تیر مارا اور تیر کو اس کے گھٹنے میں بیوست کر دیا میں ابو عامر کے پاس پہنچا

علا صرف ایک
آدھ تخفیف لفظی
اختلاف کے حدیث
کے الفاظ اور ہمزون
وہی ہیں جو ۱۱۱۹
کے ہیں۔ آخر میں
یہ لفظ زیادہ ہیں
ہذا الذی بلغنی
عن سبی ہوازن
یعنی ربوی نے
کہا ہوازن کے
قیدیوں کا یہی
حال مجھے پہنچا ہے
حدیث میں ذکر ہے
ہے کہ ہوازن کے
لوگ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے

تو آپ نے سمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے قیدی واپس چھوڑ دیئے جائیں تو سب قیدی آزاد کر دیئے گئے یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کئی دن تک ان لوگوں کا انتظار کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیدیوں کے معاملہ میں کس قدر نرمی سے کام لیتے تھے۔ دیکھو نوٹ ۵۷۵۔ عورتوں اور بچوں کے قیدیوں میں ہونے پر بعض لوگوں کو تعجب ہوا ہے اور انہوں نے خیال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو بھی جو جنگ میں شامل نہ ہوتے تھے قید کر لیتے تھے۔ یہ صحیح نہیں صرف وہی عورتیں اور بچے قیدیوں میں آتے تھے جو لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتے تھے۔ عرب کے لوگ جب جنگ میں نکلتے تو اس غرض کے لئے کہ لڑنے والے سپاہی میدان سے بھاگیں نہیں عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے آتے تاکہ سپاہی اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے اپنے سرکلہ اوپر مگر میدان سے بھاگیں نہیں ورنہ جہاں عورتیں اور بچے گھروں میں رہتے ان سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا تھا۔ ہوازن نے بھی عورتوں اور بچوں کو اسی غرض کے لئے ساتھ لیا تھا اور حادثہ میں صاف مذکور ہے کہ یہ عورتیں اور بچے میدان جنگ میں نکلے ہوئے تھے۔ ۱۱۱۹۔ یہاں حنین سے واپسی کا ذکر ہے اور اسی سے عنوان باب کا تعلق ہے۔ اور لفظوں میں بھی کچھ فرق ہے۔ قال لما قتلنا من حنین سال عمرو النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نذرکان نذرة فی الجاہلیة اعتکاف فامرہ ان ینص صلی اللہ علیہ وسلم یوفائہ ۱۱۱۹۔ ایک آدھ جب کہ معمولی فرق کے سوائے انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ آگے اس حدیث کو تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ۱۱۱۹۔ یہاں کچھ لفظوں کا فرق ہے۔ قال لما کان یوم حنین نظرت الی رجل من المسلمین یقاتل رجلاً من المشرکین واخر من المشرکین یقتله من ورائہ لیقتله وھو کا دے کر اس مسلمان کو قتل کرنا چاہتا تھا، فاسرعت الی الذی یقتله فزاد یدہ لیضرب بئہ وارضہ یدہ فقطعتها ثم اخذنی فضممتی ضماً شدیداً حتی تحوفت ثم ترک فعلی ودفعتہ ثم قتلتہ وانهزم المسلمون وانهزمت معہم فاذا یعدیر بن الخطاب فی الناس فقلت له ما شان الناس قال امر اللہ ثم تراجع الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقام بیئۃ علی قتیل قتله فہ سلہ ففقت لا تقصر بیئۃ علی قتیل فلم ارا احداً یشہد لی فجلست ثم بد الی ذرکوت امرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل من جلسائہ سلامہ هذا القتل الذی یدکر عندی فارضہ منہ فقال ابو بکر کلا لا یعطہ اذ ینبغی اور کمرور پرند کو کہا جاتا ہے۔ چڑیا، من قریش ویدع اسدا من اسد اللہ یقاتل عن اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاداک الی فاشتریت منہ خرا فافکان اول مال ناثلثہ فی الاسلام ۱۱۱۹۔ اوطاس ہوازن کے ملک میں ایک وادی کا نام ہے۔ یہ غزوہ جنگ حنین کے بعد کا ہے۔ ہوازن بھاگ کر کچھ اوطاس کی طرف چلے گئے اور کچھ طائف کی طرف تو اوطاس کی طرف آپ نے ابو عامر کو بھیجا اور طائف کی طرف خود تشریف لے گئے تو یہاں ہر دو غزوات اسی جنگ حنین کے سلسلہ میں تھے۔

ملہ شارحین نے
یہاں قانا فیہ کا
سہوا مانا ہے یعنی
اصل عبارت کو
یوں مانا ہے۔
ما علیہ فراش
اس پر بستر تھا
یہ اس سے قیاس
کیا ہے کہ بیویوں
کے نشان آپ
کے جسم مبارک پر
پڑ گئے تھے۔
مگر ہو سکتا ہے کہ
باوجود بستر کے
بھی موٹی رسیوں
کے نشان جسم پر
پڑ گئے ہوں یا
شاید بستر ہلکا ہو
مطاطت مکہ
مغرب سے مشرق
کی طرف تین
منزل کے فاصلہ
پر ہے۔
اس عورت
کے موٹاپے کی
طرت اشارہ ہے
پیٹ پر چار بل
پڑنا اسی کی طرت
اشارہ ہے۔
اور پچھلے پھرتے
وقت آٹھ بل
نظر آنا اس طرح
پر ہے کہ چار
بل دائیں طرف
سے نظر آتے
ہیں اور چار
بائیں طرف
سے +

فَقُلْتُ يَا كَعْبُ مَنْ زَمَاكَ فَاشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي
میں نے کہا کعب جس نے تمہیں مارا تو انہوں نے ابو موسیٰ کو اشارے سے سمجھا یا کہ میرا وہ قاتل ہے جس نے مجھے مارا
رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَحَقَّتْهُ فَلَمَّا رَأَيْتِي وَوَلِيَّ فَاتَّبَعْتَهُ وَجَعَلْتُ أَقْوَلَ لَهُ أَكَا
میں نے اس کا قصد کیا اور اسے پایا جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ کا اور میں اس کے مجھے ہوا اور اس کو کہا
تَسْتَحْيِي الْأَتْمِثُ فَذَكَتْ فَاحْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتَهُ ثُمَّ قُلْتُ
کیا تھے شرم نہیں آتی پھرتا کیوں نہیں تو وہ رک گیا مجھ میں اور اس میں تلوار کے دو وار ہوئے ہیں لے اسکو مار ڈالا پھر میں نے
لَا أَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَاثْرَعْ هَذَا السُّهْمَ فَنَزَعْتَهُ فَنَزَا مِنْهُ
ابو عامر سے کہا تمہارے قاتل کو اللہ نے قتل کر دیا کہا تو یہ تیرا نکالو میں نے اسے نکالا تو وہاں سے
الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ وَقُلْتُ لَهُ
پانی نکلا کہا بھئیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کر دو اور ان سے کہ دو
اسْتَغْفِرُنِي وَاسْتَغْفِرْ لِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثُ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَوَجَّهْتُ
کہ میرے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اور ابو عامر نے مجھ کو لوگوں پر اپنا قائم مقام بنایا تھوڑی دیر وہ بس پھر فوت
فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سِرِّيٍّ مَرْمُولٍ وَعَلَيْهِ
ہو گئے ہیں وہاں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اپنے گھر میں ایک چار پائی پر تھے جو موٹی رسیوں سے
فِرَاشٌ قَدْ أَثْرَمَ مَالُ السَّرِيِّ بَطْنُهُ وَجَنِيْدُهُ فَاخْرَجْتُهُ بِخَيْرِنَا وَخَيْرِ الْأَخْبَرِ
نبی ہوئی تھی اس پر بستر تھا ملہ چار پائی کی رسیوں کے نشان آپ کی پیٹھ اور دونوں پہلوؤں میں پڑ گئے تھے میں نے آپ کو اپنے حال او
قَالَ قُلْتُ لَهُ اسْتَغْفِرُنِي فَدَعَا بِيَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
ابو عامر کے حال کی خبری اور یہ کہ ابو عامر نے کہا کہ حضرت سے عرض کر دو کہ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں آپ نے پانی نکلایا اور منگوایا پھر اٹھ
لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بِيَاضَ بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ
اٹھائے پھر فرمایا یا اللہ عبید ابو عامر کو بخش دے میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی پھر فرمایا لے اللہ قیامت کے دن ان کو بڑی مخلوق
كَثِيرٌ مَرَّ خَلْقَكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَوَلِيَّ فَاسْتَغْفِرُنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ اللَّهُ
میں سے بہت سے لوگوں پر فوقیت دے میں نے عرض کیا اور میرے لئے بھی مغفرت کی دعا فرمائی یا اللہ عبید ابو عامر سے
ابْنِ قَيْسٍ نَبِيٍّ وَأَدْخَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدْخَلًا كَرِيمًا قَالَ أَبُو بَرْدَةَ أَحَدُ مَهْمَا
کے گناہوں کی حفاظت فرما اور قیامت کے دن انکو عورت کی جگہ میں داخل کر ابو بردہ کہتے ہیں دو عاؤں میں سے ایک
لَا أَبِي عَامِرٍ وَالْآخِرَى لَا بِي مُوسَى (۵۸) بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالِ
ابو عامر کے لئے ہے اور دوسری ابو موسیٰ کے لئے یا یہ طائف کا غزوہ ملہ جو شوال سنہ ۱۸ ہجری میں
سَنَةِ ثَمَانٍ قَالَ هُوَ مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ (۱۸۳۸) عَنْ أُمِّ سَكْمَةَ رَضَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ
یہ ابو موسیٰ بن عقیبہ نے کہا ام سلمہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي مَحْتَتٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّةٍ يَا
میرے یہاں تشریف لائے اور میرے پاس ایک بچہ تھا تو میں نے اس کو سنا عبد اللہ بن امیہ سے
عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَخِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ الطَّائِفَ عَدَا فَعَلَيْكَ يَا بِنْتَةَ عَيْلَانَ
کہتے ہوئے کہ لے عبد اللہ دیکھو اگر اللہ نے تم کو کل طائف فتح کر دیا تو عیلان کی بیٹی کو لے لینا
فَأَتَاهَا تَقْبِيلٌ يَا رَبِّجٍ وَثَدْبُ رَبِّ ثَمَانَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو یہ پیٹ پر چار بل پرستے ہیں اور پیٹھ پھرتی ہے تو آٹھ بلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۱۸۳۸

لَا يَدْخُلْنَ هُوَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ قَالَ ابْنُ عَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اُخْتُتْ هَيْتَ

ملا اس کی وجہ

صرف یہ معلوم

ہوئی ہے کہ اس

نے دوسری

عورتوں کے متعلق

ایسی باتیں کہیں

تو ایسے شخص کو

اس قابل نہیں

سمجھا کہ وہ گھوس

میں آزادانہ گئے

کیونکہ جس طرح

اس نے ایک عورت

کا ذکر کیا اسی طرح

دوسری عورتوں

کا ذکر بھی کر سکتا

عینی میں ہے کہ

اس نے کچھ اور

بھی ایسی باتیں

کی تھیں اور اس

وجہ سے اسے

مدینہ سے نکال دیا

اور وہ بیدار میں

رہتا صرف جمعہ

کے دن آتا تھا۔

طائف کا چارو

کتھن دن رہا اس

میں اختلاف ہے

صحیح یہ معلوم ہوتا

ہے کہ ۱۷-۱۸ دن

معاشرہ رہا بعض

روایتوں میں چالیس

یا تیس راتیں بھی

آتا ہے

تقریباً قلعہ کے اندر

تھے جب اسلام

یہ روایت ہے تمہارے پاس نہ آیا کریں ملا ابن عیینہ نے کہا کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ کھنٹ کا نام بیت تھا

۱۸۳۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا حَاصِرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا

الطَّائِفِ فَلَمَّا دِينَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَثَقَلَ عَلَيْهِمْ وَ

اور ان میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا ملا تو آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو ہم واپس جائیں گے ان راتیں پر یہ گراں

قَالُوا نَدُّ هَبٌ وَلَا نَعْتَمُهُ وَقَالَ مَرَّةً لَتَقْعَلَنَّ فَقَالَ اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ

گنڈا اور کہا کہ ہم اس کو فتح کے بغیر چلے جائیں گے اور کبھی راوی نے زبذہب کی جگہ نقل کیا ہے فرمایا تو صبح جنگ کیلئے نکلے

فَعَدُوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضُحُوكَ

پھر آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے یہ بات ان کو اچھی لگی تو نبی

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَفِينٌ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ (۱۸۴۰) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ

صلی اللہ علیہ وسلم منس بڑے اور کبھی سفیان نے کہا تبسم فرمایا سعد سے روایت ہے اور وہ

أَوَّلُ مَنْ رَهَى سَهْمِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَى بَكْرَةَ وَكَانَ تَسْوَرُ حِصْنِ الطَّائِفِ

پہلے شخص ہیں جنہوں نے لشکر کی راہ میں تیر چلایا اور ابوبکر سے روایت ہے اور وہ طائف کے قلعے کی دیواروں پر کچھ

فِي أَنْاسٍ فَجَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَسَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لوگوں کے ساتھ پڑھ گئے تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملا انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

وَسَمِعَ يَقُولُ مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَاجْتَنِبْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رَوَى

فرماتے تھے جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے اور اب

رَوَايَةٌ) قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدْتُ عِنْدَكَ رَجُلًا مِنْ حَسْبِكَ رَهَى مَا قَالَ

روایت میں ہے کہ عاصم نے راہ عثمان کہا تمہارے سامنے ایسے دو شخصوں نے گواہی دی جو تمہارے لئے دونوں بس ہیں

أَجَلَ أَمَا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَهَى سَهْمِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَا الْأَخْرَافِزَلِ

بیشک ان میں سے ایک تو وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لشکر کی راہ میں تیر چلایا اور دوسرا انہیں میں سے

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ

تیسواں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے انتر کر آئے

(۱۸۴۱) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آپ

نَازِلٌ بِأَجْعَرَانَةَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

جعرانہ میں اتارے ہوئے تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے ملا اور آپ کے ساتھ بلال تھے ایک اعرابی نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا شَيْخِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَالَ لَهُ الْبَشِيرُ

اور کہا کیا آپ وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے آپ سے فرمایا خوش ہو جا

عبداللہ کے پاس آیا

کی طرف راغب ہوئے اور پھر قلعے کی دیوار پر چڑھ کر وہاں سے باہر نکلے اور آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے ان کی آذینوں کی تعداد دوسری روایت میں تیس

لکھی ہے ملا عینی میں کئی اقوال نقل کئے ہیں کہ جعرانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نہیں بلکہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے ملا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کوئی وعدہ

خاص طور پر اس اعرابی سے کیا گیا تھا یا تقسیم غنم کو مد نظر رکھ کر اس نے ایسا کہا۔ آپ نے خوشخبری دی مگر چونکہ یہ ایک گنوار آدمی تھا۔ اس لئے اس نے کہا میں ان

باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا منشا یہ تھا کہ مال دنیا ہی خوش کرنے والی چیز نہیں بلکہ وہ ایمان کی دولت ہے

تَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَىٰ مِنَ ابْتِشْرٍ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ابْنُ مُوسَىٰ بِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ

اس نے کہا آپ نے کئی مرتبہ مجھے یہ کہا کہ خوش ہو جا۔ آپ ابو موسیٰ اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے نہ کہ مجھے سے معلوم ہوتے تھے

تَقَالَ رَدَّ الْبَشْرَىٰ فَأَقْبَلَا أَنَا قَالَا قَبْلَنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدْحٍ فِيهِ مَاءٌ فَعَسَلَ

اور فرمایا اس نے خوشخبری رد کر دی تو تم دونوں قبل کرو دونوں نے کہا ہم نے قبول کی پھر آپ نے ایک پیالہ لیا جس میں پانی تھا اپنے

يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَجَّحْنَا ثُمَّ قَالَ اشْرِبَا مِنْهُ وَأَفْرغَا عَلَيَّ وَجْوهُ كَمَا وَ

دونوں ہاتھ ادا پائیا اس سے دھویا اور کئی کئی پھر فرمایا اس میں سے دو ٹوہنوں اور اپنے چہرہوں

مُحَوَّرْ كَمَا وَ ابْتِشْرَا فَأَخَذَا الْقَدْحَ فَعَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ دَرَاءِ الْبَشْرِ

سینوں پر ٹٹا لو اور خوش ہو جاؤ۔ دونوں نے پیالہ لیا اور اسی طرح کیا۔ ام سلمہ نے پردہ کے چھجے سے پکارا

أَنْ أَفْضَلَا لَكُمْ كَمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةٌ رَمَتْ - ۲۰ - عَنْ صَفْوَانَ

کہ اپنی ماں کے لئے کچھ پانی رکھو انہوں نے ان کیلئے اس میں سے کچھ چھوڑ دیا

ابْنُ يَعْلَىٰ (متكرراً - ۸۲۰) (۱۸۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ

بیکھو حدیث ۸۲۰۔ عبد اللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے

لَمَّا قَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَنْدِ بْنِ قِسْمٍ فِي النَّاسِ

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو حنین کے دن مال غنیمت دیا تب تو آپ نے ان لوگوں میں

فِي لَمَوْكِفَةٍ قَالُوا بِهِمْ وَلَمْ يَعْطِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا فَكَاتَبَهُمْ وَجَدُوا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهُمْ

تیسری جگہ لکھنا ان لوگوں نے ان کو کچھ لکھ کر نہیں دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا تو گویا ان کو کچھ لکھ کر انہیں وہ مال نہ ملتا تو

مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَضِبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا

لوگوں کو ملتا تو آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا اے انصار کے گروہ کیسے نے نہیں گمراہ نہیں پایا

فَهَدَاكُمْ اللَّهُ رَبِّي وَكُنْتُمْ مَتَفَرِّقِينَ فَالْعَاقِبَةُ لِلَّهِ رَبِّي وَعَالَةٌ فَأَعَاكُمْ اللَّهُ

پھر اللہ نے تم کو میری وجہ سے ہدایت دی اور تم ایک ایک تھے تو اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت ڈالی اور تم کو متحد رکھ

بِي كَلِمَاتٍ قَالُوا شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ آمَنُوا قَالُوا مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُخَيَّبُوا

تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کر دیا جب کہ نبی آپ کچھ فرماتے تو وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے تو کچھ فرمایا نہیں کیا چیز

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَاتٍ قَالُوا شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ آمَنُوا

روایت ہے کہ تم رسول اللہ صلعم کو جواب دو کہ آپ بھی کچھ فرماتے تو وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہم پر بہت ہے

قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قَدْ تَمَّ جَلْتُمْ كَذًا أَوْ كَذًا أَوْ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالسَّكَاةِ

آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے تو کہہ سکتے تھے آپ ہمارے پاس ایسے ایسے حال میں آسے کہ یا تمہیں کہتے ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ بکر چلے جائیں

وَالْبُعَيْرُ وَتَذْهَبُونَ بِاللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ كَمَا كَلِمَاتٍ قَالُوا هَجْرَةٌ

اور تم نبی علیہ السلام کو ساتھ لیکر اپنے گھروں کو جاؤ اگر ہجرت نہ ہو تو

لَكُنْتُ أَمْرًا مِّنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاذِيًّا وَشِعْبًا لَّسَلَكَتُ وَادِي

تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا اور اگر لوگ ایک وادی اور ستے میں چلیں تو میں انصار کی وادی

عربی تفسیر کے ساتھ ساتھ کئی نوٹس اور حواشی بھی لکھی ہیں۔ مثلاً: "عربی تفسیر" کے تحت "عاشم سے روایت ہے" اور "ابن زید بن عاصم" کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر ناموں اور لقبوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

الوجه يعطى كذلك ساعة ثم سوي عنه فقال ابن الذي يسألني عن العمرة النفا للفرس الرجل تأتي به فقال اما الطيب لذي بك فاعسله فثلث مرارة واما الحية فانزعها ثم اصنع في حجرها كذا تصنع في حجاج + ملاحظ اباري میں ہے کہ مال غنیمت میں چھ ہزار قیدی چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں تھیں۔ ملاحظہ فرمائیے ان لوگوں نے وہ لوگ ہیں جو اہل مکہ میں سے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے جیسا کہ دوسری احادیث میں تصریح ہے۔ یعط یا خمس یعنی پانچویں حصہ میں سے تھے جو بیت المال میں آتا اور آپ کے اقتضائے رائے پر مستحقین میں تقسیم ہوتا تھا۔

الْأَنْصَارُ وَشُعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَابًا ذُو النَّاسِ وَتَأْوِيلُكُمْ دَسْتَلِقُونَ بَعْدَ أَثَرَةٍ

اور ان کے رستے میں چلوں انصار انڈر کا پٹہ ہیں رجبہم کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ باہر کا پٹھا میرے بعد تمہاری

فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخُوضِ (م- ۲۱۰۶) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۴۲۷)

یکچھن تعلقنی بوجھی تو صبر کرنا میاں تک کہ مجھے تومن پر ملو دیکھو حدیث ۱۴۲۷

(م- ۲۱۰۷) عَنْ أَنَسِ (متکرم- ۱۴۲۷) (م- ۲۱۰۸) عَنْ أَنَسِ (متکرم- ۱۴۲۷)

دیکھو حدیث ۱۴۲۷ دیکھو حدیث ۱۴۲۷

(م- ۲۱۰۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۴۲۷) (م- ۲۱۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرم- ۱۴۲۹)

دیکھو حدیث ۱۴۲۷ دیکھو حدیث ۱۴۲۹

(م- ۲۱۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرم- ۱۴۲۹) (م- ۲۱۱۲) عَنْ أَنَسِ (متکرم- ۱۴۲۷)

دیکھو حدیث ۱۴۲۹ دیکھو حدیث ۱۴۲۷

(۵۹) بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبْلَ بَيْدٍ

بَابُ ۵۹ وَهُوَ فِي جَوْشَدِ كَوْبِيحَا كَمَا ۵۹

۱۴۲۷ لفظ بعینہ
کے ہیں۔ ایک دو
جگہ معمول فرق ہے
جزا اثر معنی پر
کچھ نہیں
مطل کر روایت
بہت اختصار سے
آئی ہے۔ قال
لما کان یوم فتح
مکہ قسم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
غنائم بین قریش
ففضلت الأنصار
قال النبی صلی اللہ

علیہ وسلم اما تزنون ان ینزھب الناس بالذنیاء وتذہبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ابلی قال لوسلک الناس وادیاً او شعباً لتسلکت وادی
الانصار او شعبہم * مطہریاں لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ قال لما کان یوم حنین التقیہوا وزن ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقۃ الالات و
الطلقاء فادبروا قال یا معشر الانصار قالوا لنبیک یا رسول اللہ وسعد ینک حنین بین یدیک فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نعبد
اللہ ورسولہ فانھزم المشقون فاعطی النطقاء والمہاجرین ولم یعط الانصار شیعاً فقالوا قد عاہم فادخلہم فی قبۃ فقال اما تزنون ان
ینزھب الناس بالذنیاء والبعیر وتذہبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوسلک الناس وادیاً وسلکت الانصار
شعباً لا خیرت شعب الانصار۔ طلقاء طلق کی جمع ہے جس کے معنی میں قیدی جسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس میں مکہ کو طلقاء اس لحاظ سے کہا گیا کہ مروجہ قانون جنگ
کی رو سے وہ سب آنحضرت صلعم کے قیدی تھے مگر آپ نے محض بطور احسان ان کو آزاد رکھا۔ اور فرمایا اقول لکم ما قال یوسف ازتریب علیکم الیوم۔
۱۴۲۷ یہ مکرر روایت بھی لفظی اختلاف سے آئی ہے۔ قال جمع النبی صلعم ناسا من الانصار فقال ان قریشا حدیث عهد بجاہلیۃ ومصیبۃ وانف
اردت ان اجبرہم ان کے نقصان کی کچھ تلافی کروں، وانا لغنہم ان کی تالیف قلوب کروں، اما تزنون ان یرجع الناس بالذنیاء وتزحون برسول
صلی اللہ علیہ وسلم الی بیوتکم قالوا ابلی قال لوسلک الناس وادیاً وسلکت الانصار شعباً وادی الانصار او شعب الانصار * مطہریاں
میں جن کو دیان کے ناموں کی تفصیل ہے جسے میاں چھوڑ دیا ہے اور لفظوں میں بھی کچھ فرق ہے۔ قال لما قسم النبی صلعم شیعۃ حنین قال رجل من
الانصار ما اراوہا وجہ اللہ فایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ فتغیر وجہہ ثم قال رحمۃ اللہ علی المؤمنین لقد اودی باکثر من ہذا
فصدیرہ * اس کا پہلا حصہ وہی ہے جو ۱۴۲۹ کا ہے مگر آخر میں اختصار کر دیا ہے۔ لما کان یوم حنین انزل النبی صلعم ناسا اعطى الاقرعمانہ من الابل
واعطى عینہ مثل ذلك اعطى ناسا فقال رجل ما اریہم جندہ القسۃ وجہ اللہ فنقلت لاخبرن النبی صلعم قال رحم اللہ موسیٰ قد اودی باکثر من ہذا
فصدیرہ * اس کے اندر انی حصہ میں جنگ ہوازن کی تفصیلات ہیں۔ میاں بالتقریب ذکر ہے کہ ہوازن اور غطفان اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی مسلمانوں پر
حکم کرنے کیلئے جمع ہو گئے تھے اور مال مرویشی اور عورتیں اور بچے ساتھ لیکر آئے تھے تا جنگ کر نیوالے اپنے بال بچے اور مال مرویشی کی حفاظت کی خاطر جنگ کے منہ نہ ہونے
آخری حصہ میں اختصار عمل وایت کا مضمون بیان کیا ہے۔ قال لما کان یوم حنین اقبلت ہوازن وغطفان وغیرہم بنحیہم وذرارہم ومع النبی صلعم
عشیرۃ الالات ومن الطلقاء یعنی دس ہزار صحابہ تھے اور کچھ طلقاء نادبروا عنہ حتی بقی وحدہ فنادی یومئذ ندا میں لم یخطب بینہما یعنی دونوں آواز میں
الک ایک تھیں انہیں ملایا نہیں، التقت عن ینبہہ فقال یا معشر الانصار قالوا لنبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک ثم التقت عن سبیرہ فقال یا معشر الانصار
قالوا لنبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معک ودع علی بخلۃ بیضاء فانزل فقال یا نعبد اللہ ورسولہ فانھزم المشقون فاصاب یومئذ غنائم شیعۃ تقسم فی
المہاجرین والطلقاء ولم یعط الانصار اذ اکانت شد یدین (مخت وقت) فغنن ذنخی یعنی الغنیمۃ غیر ان فبلاغہ ذلک فجمعہم فی قبۃ
فقال یا معشر الانصار ما حدیث بلعنہم کذبتکم فقال یا معشر الانصار الانصار ان تزنون ان ینزھب الناس بالذنیاء وتذہبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذہب
بیوتکم قالوا ابلی فقال لوسلک الناس وادیاً وسلکت الانصار شعباً وادی الانصار او شعب الانصار * مطہریاں انات شہدک ذلک قال واین
اغنیب عنہ۔ اس روایت میں پورے تقسیم فی المہاجرین والطلقاء ولم یعط الانصار شیعاً۔ تو مہاجرین میں سے بھی کسی کو شاید جس میں سے کوئی غنیمت پڑی ہو سب مہاجرین
کو دینا مراد نہیں ہو سکتا۔ * بخدا اونچی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سطح مرتفع ہے جو تمام سے عراق تک چلی گئی ہے۔ سو وہ ایسے ننگ کو کہا جاتا ہے جو باقی برصغیر

رقیقہ حاشیہ ۱۰۱۳
جو منتخب لوگوں پر مشتمل ہو اور اس کی آخری حد چار سو سی گئی ہے اس سریر میں صرف پچیس آدمی تھے۔ اس سریر کو امام بخاری نے طائف کے بعد بیان کیا ہے اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ غطفان کی طرف بھیجا گیا تھا اور مال غنیمت اپنی سے حاصل ہوا اور غطفان ہوازن کی جنگ

(ہ۔ ۲۱۱۳) عن ابن عمر (مترکہ۔ ۱۴۱۹) باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم

دیکھو حدیث ۱۴۱۹

باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم

ابن عمر سے روایت ہے کہ انہی صحابہ نے

خالد بن الوليد الى بني حزيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا

خالد بن ولید کو بنو حذیمہ کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ اچھی طرح اسلمنا نہ کہہ سکے

فجعلوا يقولون صبا ناصبا فجعل خالد يقتل منهم ويا سرود فع الى كل

اور لگے کہنے صبا ناصبا خالد نے ان میں سے کسی کو قتل اور کسی کو قید کرنا شروع کیا اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا

رجل منا اسيرة حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيرة

اپنا قیدی جو مال کرو یا۔ یہاں تک کہ ایک دن خالد نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا قیدی قتل کر دے

فقلت والله لا اقتل اسيرى ولا يقتل رجل من اصحابي اسيرة حتى

میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اپنا قیدی قتل نہیں کرتا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنا قیدی قتل کرے گا

فدعانا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا فرفع النبي صلى الله

ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عليه وسلم يدرك فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين

نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور فرمایا اے اللہ میں تیرے سامنے اس کام سے بیزار ہوں جو خالد نے کیا۔ دو مرتبہ (فرمایا) اے

میں شامل تھے۔ اہل مغازی نے اسے فتح مکہ سے پہلے کا قرار دیا ہے یعنی شعبان ۶۱ھ کا۔ اس میں ابو قتادہ اہر حبش تھے۔ اور یہ دستہ پندرہ دن تک باہر رہا۔ دھاشہ صفحہ ۱۷۱ء کے کسی قدر اختلاف الفاظ سے حدیث کو دوہرایا ہے۔ بعث النبي صلى الله عليه وسلم سورة قبل نجد فقلت فيها فبلغت سهامنا اشنه عشى ابعيرا ونقلنا ابعيرا فرجعنا بثلاثة عشى ابعيرا۔ یہ زائد اونٹ غار ہے کہ بطور انعام اس خمس میں سے دیا گیا جو بیت المال کا حصہ تھا۔ اہل مغازی نے اس واقعہ کو شوال میں فتح مکہ کے بعد اور حنین کی جنگ سے پہلے لکھا ہے۔ اور بنی حذیمہ کو ایک قبیلہ کہنے کی بجائے طرف یتلم کی جانب تھا۔ اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو ساڑھے تین سو آدمیوں کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا نہ جنگ کرنے کے لئے۔ مگر یہ درست معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ اتنے آدمیوں کی ضرورت دعوت اسلام کے لئے نہ ہو سکتی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ آس پاس کے قبیلوں کی طرف سے شرارت کا اندیشہ تھا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوتاہی نہ کرتے تھے۔ ادھر ہوازن اور دوسرے قبیلوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ بنی حذیمہ بھی ہوازن کے ساتھ ملنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس لئے آنحضرت صلعم نے ان کی طرف یہ دستہ بھیجا تاکہ دشمن کا اجتماع بٹھسا نہ چلا جائے۔ اہل صبا کے حصے ہیں ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا گیا۔ اور کفار مسلمانوں کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور انہیں صابئ کہتے تھے اس لئے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اثنائے جنگ میں دشمن کی طرف سے صبا ناصبا ناکہ کی آواز اٹھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ مگر لفظ اسلمنا نہیں کہا۔ مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اگر اثنائے جنگ میں کوئی شخص یا کوئی قوم انہارا اسلام کرے تو اس کے ساتھ جنگ فوراً بند کی جائے۔ مگر خالد نے ان کی صبا ناکہ کی آواز کو کوئی پروا نہ کی کسی کو قتل اور کسی کو قید کرنے سے یہی مراد ہے کہ ان سے جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ان میں سے مانے گئے اور کچھ قید ہو گئے کچھ بھاگ بھی گئے ہوں گے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ صرف بنو سلیم نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا۔ مہاجرین اور انصار نے قتل کرنے سے انکار کیا۔ اہل صبا کی عجیب بات ہے کہ آنحضرت صلعم تو خالد کے اس فعل سے بیزار ہی کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے صبا ناکہ والوں کو مسلمان نہ سمجھا حالانکہ انہوں نے کلمہ پڑھا نہ لفظ اسلمنا کہا جس سے ان کے اسلام کا صحیح اندازہ ہوتا۔ اور آج ہمارے علماء اور سجادہ نشین اور خلفاء اور شاعر اور سیاسی لیڈر اسلمنا کہنے والوں کو بھی کافر قرار دیتے ہیں اور نہ صرف اسلمنا کہنے والوں کو بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ قرآن پر ایمان لانیوالوں کو۔ نماز پڑھنے والوں کو۔ رونے رکھنے والوں کو۔ زکوٰۃ دینے والوں کو۔ حج کرنے والوں کو۔ دین اسلام کیلئے جہاد کرنے والوں کو۔ قرآن کو دنیا میں پھیلانے والوں کو۔

(۶۱) بَابُ سِرِّيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ التَّمِيمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ حَجْرَةَ

باب عبد اللہ بن حذافہ تميمی اور علقمہ بن حجرہ

الْمَدِينِيِّ وَيُقَالُ إِنَّهَا سِرِّيَةٌ الْأَنْصَارِ (۱۸۲۲) عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ

مدینہ کا سر یہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ انصار کا سر یہ تھا صلوات اللہ علیہ وسلم سیریتہ فاستعمل رجلاً من الأنصار وأمرهم أن

صلوات اللہ علیہ وسلم نے ایک سر یہ بھیجا اور انصار میں سے ایک شخص کو اسرٹا دیا کہ

يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمْرُكُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُوهُ

اس کی اطاعت کریں وہ نافرمان ہوا اور کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو

قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْ قَدْ وَا نَارًا فَإِنِ وَقَدَّ وَهَذَا

انہوں نے کہا ہاں دیا تھا کہ تو میرے لئے جلائے کی کڑی جمع کرو انہوں نے جمع کی تو کہا آگ جلاؤ انہوں نے آگ جلائی

فَقَالَ دَخَلُوا هَاهُنَا وَاجْعَلْ بَعْضُهُمْ يَمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى

پھر حکم دیا اس میں داخل ہو جاؤ انہوں نے ارادہ کیا تو وہ ایک دوسرے کو روکنے لگے اور کہنے لگے ہم نبی صلی اللہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَمَا زِلْنَا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ

علیہ وسلم کے پاس آگ سے بھاگ کر کہنے میں وہ برابر بیٹھتے رہے یہاں تک کہ آگ بجھ گئی اور اس کا

غضب نہ ہو گیا غصہ نہ نکلتے فرما فروداری تک کام میں ہے صلوات اللہ علیہ وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها

ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کہیں کی طرف بھیجا کہا اور ہر ایک کو ان میں سے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةِ فِي لَمَعْرُوفٍ (۶۲) بَابُ بَعَثِ أَبِي مُوسَى مُعَاذَ

میں سے قیامت تک نہ نکلتے فرما فروداری تک کام میں ہے صلوات اللہ علیہ وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها

إِلَى لَيْمَنِ قَبْلَ حِجَّةِ الْوُدَاعِ (۱۸۲۳) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ

حجۃ الوداع سے پہلے لیمین کی طرف بھیجا ابو بردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ إِلَى لَيْمَنِ قَالَ وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو لیمین کی طرف بھیجا کہا اور ہر ایک کو ان میں سے

مِنْهُمَا عَلَى الْخِلَافِ قَالَ وَاللَّيْمَنِ مَخْلُوفَانِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَوْلَا لِعَيْسَى أَوْ بَيْسَى أَوْلَا

ایک ایک حصہ پر بھیجا اور لیمین کے دو حصے ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا آسانی کرنا اور سختی نہ کرنا اور لوگوں کی خوش

رقبہ صلوات اللہ علیہ
غور کا مقام ہے
کہ ان لوگوں کو
سرکار دو جہان
کیا نسبت ہے
اور اس خدا سے
کیا تعلق ہے جس
کے سامنے حضرت
محمد مصطفیٰ صلوات
اللہ علیہ وسلم نے
خالق کے فعل سے
برات ظاہر کی۔
کہاں وہ سوچ تعلیم
کہ ایک شکی کلمہ
اظهار اسلام کا
منہ سے نکل جائے
تو اسے بھی اپنا
بھائی سلمان سمجھ
اور کہاں یہ تنگ
دلی کی انتہائی
حالت کی یقینی
اعمال اسلام
کے دیکھ کر بھی
کافر ہی بنا نہیں
اور سارا زور ان کو
اسلام سے خارج
کرنے پر لگائیں گے

۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰

۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰

کے ساتھ بڑھا یا ہے و تطاوعا و لا تحت لفاء) میں ابو موسیٰ کی روایت سے گزر چکے ہیں۔

وَرَاذًا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَرَأَى رَجُلًا عِنْدَهُ قَدْ جَمَعَتْ يَدَا هُوَ

وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک شخص تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن

رَأَى عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ يَمُودُ هَذَا رَجُلٌ كَفَرًا

سے بندھے ہوئے تھے معاذ نے ان سے کہا عبد اللہ بن قیس یہ کون ہے کہا یہ ایک شخص ہے جو اپنے

بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِشْمَاعِيلُ بِهِ لِيَذَلِكَ فَأَنْزَلَ قَالَ

اسلام کے بعد کا فرمایا ہے کہا جب تک یہ قتل نہ کر دیا جائے تو میں نہیں اترونگا ابو موسیٰ نے کہا یہ اسی کیلئے لایا گیا ہے آپ اتریں گے

مَا أَنْزَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمْرٌ بِهِ فَقِيلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ

میں نہیں اتروں گا جب تک یہ قتل نہ کر دیا جائے اس کے متعلق حکم دیا تو وہ قتل کر دیا گیا پھر معاذ اترے اور کہا عبد اللہ آپ

الْقُرْآنَ قَالَ اتَّفَقُوا فَاتَّفَقُوا قَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ نَأْمُ وَأُوكِلُ

قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ کہا میں تو تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں معاذ آپ کس طرح پڑھتے ہیں کہا میں پہلی رات سوجاتا

اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ حُزْرِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَحْسِبُ

ہوں پھر اٹھتا ہوں اور نیند سے اچھا صدمہ پورا کر چکا ہوتا ہوں پھر پڑھتا ہوں جو اللہ نے میرے لئے سفر کیلئے یاد رکھنے میں

نَوْمِي كَمَا أَحْسِبُ قَوْمِي (۱۸۴۲) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضَاتٌ

بھی خواب کی نیت ہوتی ہے جس طرح میرے اٹھنے میں خواب کی نیت ہوتی ہے خط ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى لَيْمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِيَّةٍ تَصْنَعُ بِهَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لیمین کی طرف بھیجا میں نے آپ سے ان شرابیوں کے متعلق پوچھا وہ بیان کیا ہوتی

فَقَالَ وَوَأَهِي قَالَ لِبَيْتِ الْعَمْرِ وَالْمَرْزُوقِ فَقُلْتُ لَأَبِي بَرْدَةَ مَا لِبَيْتِ الْعَمْرِ

ہیں فرمایا وہ کیا ہیں میں نے کہا بیعت اور مرد میں نے راوی اسے ابو بردہ سے کہا بیعت کیا ہے کہا شہد کی شراب

وَالْمَرْزُوقِ نَبِيئِدُ الشَّعْبِيِّ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (۱۸۴۳) عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ

اور مرد جو کی شراب ہے تو آپ نے فرمایا جو بھی نشوونے وہ حرام ہے ابو بردہ سے روایت ہے خط کہا

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّةَ أَبِي مُوسَى مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ فَقَالَ سِيرًا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (سعید) کے دادا ابو موسیٰ اور معاذ کو لیمین کی طرف بھیجا اور فرمایا آسانی

وَلَا تَعْبُرُوا دِيَارَ بَشْرًا وَلَا تَعْبُرُوا دِيَارَ عَافٍ فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا

کرنا اور سچی کرنا اور خوش گھن اور لغت نہ لانا اور دونوں مل جل کر رہنا تو ابو موسیٰ نے عرض کیا یا نبی اللہ ہمارے ملک لیمین میں

بِهَاشِرَابٍ مِنَ الشَّعْبِيِّ الْمَرْزُوقِ وَشَرَابٍ مِنَ الْعَمْرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

جو کی شراب ہوتی ہے (سے) مزد رکھتے ہیں اور شہد کی شراب ہوتی ہے (سے) بیعت کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہر نشوونے والی

فَأَنْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذُ لَأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا

چیز حرام ہے تو وہ دونوں چلے گئے اور معاذ نے ابو موسیٰ سے کہا تم قرآن کس طرح پڑھا کرتے ہو کہا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنے

وَعَلَى رَأْسِي وَاتَّفَقُوا فَاتَّفَقُوا قَالَ أَمَا أَنَا فَنَأْمُ وَأُوكِلُ وَأَقُومُ وَأَحْسِبُ نَوْمِي

اونٹ پر سوار رہ کر اور میں اسے تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں (معاذ نے) کہا میں تو سوتا ہوں اور پھر اٹھتا ہوں اور میرے سونے

حکم اس مرتبہ کے
پوسے حالات
بیاں مذکور نہیں
آگے مکرر روایت
میں صرف اس قدر
آتا ہے کہ وہ نبوی
تھا مگر سوائے
اس کے کہ اس
نے کسی وقت کی
ہو اسے قتل کی
سزا نہ دی
جا سکتی تھی شخص
مرتد یعنی اسلام
کو چھوڑ کر دوسرا
مذہب اختیار
کرنے والی
ہو سکتا ہے نہیں
اس مفصل بحث
اپنے موقع پر
آئے گی یعنی
کتاب استتابة
المرتدين میں
خط اس طرح
سونا بھی خدا کے
لئے ہو جاتا ہے
کیونکہ نیت یہ ہے
کہ نیت کو پورا کر
کے پھر خدا کی
عبادت کے لئے
اٹھے
خط یہ ۱۸۴۲ کی
مکرر روایت ہے

أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَخِي بْنِ عَنُقَةَ (م- ۲۱۱۵) عَنْ أَبِي مُوسَى

جو مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا تو معاذ نے کہا میں اس کی گردن ماروں گا

أَخِي شَعْرَبِيِّ رَضِيَ (متكرر- ۸۳۰) (م- ۲۱۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ (م- ۶۴۳)

دیکھو حدیث ۸۳۰

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ لَمَّا قَدِمَ الْيَمِينَ صَلَّى بِهِ الصُّبْحَ

عمر بن مینون سے روایت ہے کہ معاذ جب یمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کی طرف اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ تم میری جگہ پر نماز پڑھو اور میں اپنے مکان میں رہوں گا۔

فَقَرَأَ وَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ

تو پڑھا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی گئی ہے۔

أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (رَوِيَ رِوَايَةٌ عَنْ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا

ہوئی اور عمرو کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو

إِلَى الْيَمِينِ فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النَّاسِ فَلَمَّا قَالَ وَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

یمن کی طرف بھیجا تو معاذ نے صبح کی نماز میں سورہ ناس پڑھی تو جب پڑھا تو انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

بَنِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمِينِ قَبْلَ

ابنی طالب علیہ السلام اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف

حَجَّةِ الْوُدَّ (عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ

بھینچا براہ سے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمِينِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُرْ

خالد بن ولید کے ہمراہ یمن کی طرف بھیجا کہا پھر حضرت علی کو اس کے بعد ان کی جگہ بھیج دیا اور فرمایا خالد

۱۰۷ اس حدیث کے مختلف شکریے

۱۰۷ دو حدیثوں میں گندھ کے بیج میں سے ہوتے ہیں

۱۰۷ اور معاذ سے کہا کہ وہ بروی تھا مگر تفسیر میں یہ بھی نہیں اور الفاظ روایت میں کچھ فرق بھی ہے

۱۰۷ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

۱۰۷ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اذیحر سے پہلے یمن کی طرف بھیجا گیا اور وہاں تک پہنچا اور انھیں خدا نے اپنا پیارا بنا لیا اور کہا کہ ایک شخص نے ان کے پیچھے سے کہا ابراہیم کی ماں کی آنکھ خوب گھٹی ہوئی ہے۔

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بَرِيدُ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا بریدہ کیا تم علی کو برا سمجھتے ہو

فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَبْغِضُهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْحَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (م- ۲۱۱) عَنْ

میں نے عرض کیا ہاں فرمایا ان کو برا نہ سمجھو کیونکہ ان کا خمس میں اس سے زیادہ حصہ ہے

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متكرر- ۱۵۱) (م- ۲۱۱۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۸۲۹)

دیکھو حدیث ۱۵۱۱ دیکھو حدیث ۸۲۹

عَنْ بَكْرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے بن عمر سے ذکر کیا کہ اس نے ان سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَوَجَّهَهُ فَقَالَ أَهْلُ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَانَا

وسلم نے عمر اور حج دونوں کا احرام باندھا تو ابن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی

رقبہ صفحہ ۱۰۱
یہاں اس کی تشریح
یہ کی گئی ہے کہ حضرت علی
علی نے مال غنیمت
میں سے ایک نوڈی
لے لی اور ان کا
غسل کرنا اس سے
ہمسٹری کی وجہ
تھا مگر حدیث میں
یہ وضاحت نہیں
البتہ آنحضرت صلی
کا یہ فرمانا کہ علی کا

خمس میں اس سے زیادہ حصہ ہے بتاتا ہے کہ حضرت علی نے جس میں سے کچھ لیا تھا۔ مگر یہ بریدہ کا محض ظن تھا کہ حضرت علی کا غسل کرنا نوڈی سے ہمسٹری کی دلیل ہے۔ نوڈی کا ذکر بعض روایات میں ہے مگر اس سے ہمسٹری کا کوئی ذکر نہیں۔ بریدہ کو چونکہ حضرت علی سے کچھ عداوت تھی اس لئے انہوں نے ایسا خیال کیا۔ وہاں شیعہ صفحہ ۱۵۱، مگر مکرر روایت میں تفصیل زیادہ ہے اور کچھ فرق الفاظ کا بھی ہے۔ بحث علی بن ابی طالب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن بذهیبة فی ادم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بین اربعة نفرین عینة بن بددا وقرع بن حابس ووزید الجملی والرابع اما علقدة واما عامر بن الطفیل رمل حدیث میں عرف علقرة کا نام ہے) فقال رجل من اصحابه ریاہن عرفت ایک شخص کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے ادب میں درست ہے۔ ملاحظہ میں ہے غضب قریش والا نصار یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کنا غن احق بھذا من لھو لاء روایاں ہے کہ آپ بل بجد کو دیتے ہیں۔ اور ہمیں چھڑ دو یا) قال فبلنہ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تا مھون وانا امین من فی السماء یا تلینی خبر السماء صبا حاد مساء روایاں ہے انما انا نفھم میں صرف ان کی تالیف قلب چاہتا ہوں، قال فقام رجل فائرا العینین مشرف الوجنتین قائما نحو الجبهة کث الحمیة مخلوق الراس مشتمرا الا زار فقال یا رسول اللہ اتق اللہ قال وبلک اولست احق اھل الارض ان یقیق اللہ قال ثم ولما لرجل قال خالد بن الولید یا رسول اللہ الا اصوب عنقه قال لا لعلہ ان یکون یصلی فقال خالد وکم من مھیل یقول بلسا تہ ما لیس فی قلبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لصادر من انقلب قلوب الناس ولا اشد بطوتھم قال ثم نظر الیہ وهو محقق فقال اہہ یخرج من فمضی ہذا قوم یتلون کتاب اللہ ویطبا لیا وذر حنا جوھم یموتون من الذین کما یموت السھم من الرمتھم ملاحظہ میں یہ زیادہ کیا ہے یقتلون اھلہ لا سلام ویدعون اھلہ لا فافان واخذہ قال لئن ادرکھم لا قتلھم قتل شہود روایاں عاویہ) اس حدیث میں بھی کفرین پر تمام محبت ہے۔ آپ نے خالد کو قتل کرنے سے منع کیا اس بنا پر لعلہ ان کیوں یصلیے شائد وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں شک کے ساتھ فرمایا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے مگر آپ اس کے ساتھ مسلمان کا سلوک اس بنا پر کرتے ہیں کہ شایرہ نماز پڑھتا ہو جس پر خالد نے کہا کہ ہمتیرے نماز پڑھنے والے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں مگروں میں کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی سہی لیکن مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ گدلوں میں سوراخ کروں اور اندرونوں کو پھاڑ کر دیکھوں۔ اس کے بعد جو حدیث میں ہے کہ اس قسم کے اور لوگ بھی ہوں گے تو ان کی صفت یہ بیان کی کہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ مگر اس کی مزید وضاحت ملاحظہ میں ہے کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور دشمنان اسلام کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ حالت کسی زمانہ میں خوارج پر صادق آتی تھی۔ مگر آج شائد کہہ ہی مسلمان ہوں گے جو اس مرض سے بچے ہوئے ہوں۔ مسلمانوں کو برا بکرا کرنے پر ساری قوت خرچ کر رہے ہیں مگر دشمنان اسلام کے مقابل پر دغا بھی نہیں اٹھاتے۔ شارحین کو یہاں غلطی لگی ہے کیونکہ حدیث کے آخر پر آتا ہے کہ جو قوم اس صفت کی اٹھے گی اگر میں انہیں پاؤں تو عادی ثمود کی طرح ان کا صفایا کروں۔ تو شارحین کہتے ہیں خود اس کو قتل کرنے سے خالد کو کیوں روکا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قضاء ان کے بارے میں واقع ہو جلا کہ آپ نے ان کے قتل کو جائز اس بنا پر قرار دیا جو ملاحظہ میں بالمرحہ مذکور ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو ان کا قتل ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر بیان کیا ہے۔ مگر ایسا جرم ابھی اس عرصہ میں سے سرزد نہ ہوا تھا۔ اس لئے اس کے قتل سے روکا۔ ملاحظہ کچھ لفظ کی پیشی ہے۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا ان یقیم علی احرامہ زاد محمد بن بکر عن ابن جریر قال عطاء قال جا بوفد ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بسعیاتہ قال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بم اھللت یا علی قال بما اھل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاھو وانکت حراما کما انت قال واھدی لہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علی ہدیہ گیا)

بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ

اپنے ساتھ حج کا اجرام باندھا جس جب ہم مکہ آئے تو اپنے فرمایا جس کے ساتھ قربانی نہ ہو تو وہ حج کو عمرے سے بدلے اور نبی

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِّنْ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے پاس بن سے حج کا اجرام

الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِمْ أَهْلَكْتَ فَإِنْ مَعْنَا أَهْلَكَ

باندھ کر پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا اجرام باندھا ہے تمہاری بیوی ہمارے ساتھ ہے

قَالَ أَهْلَكْتَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْمِسْكَ فَإِنَّ مَعْنَا

کہا میں نے وہی اجرام باندھا ہے جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے فرمایا تو بھیسے رہو کیونکہ ہمارے پاس قربانی

هَدْيًا (۶۴) بَابُ عَزْوَةِ ذِي الْخُلْصَةِ (م- ۲۱۹) عَنْ جَرِيرٍ (مكرر- ۱۳۸۰)

ہے باب ذوالخلصہ کا عزوہ ملاحظہ دیکھو حدیث ۱۳۸۰

(م- ۲۱۲۰) عَنْ جَرِيرٍ (مكرر- ۱۳۸۰) (م- ۲۱۲۱) عَنْ جَرِيرٍ (مكرر- ۱۳۸۰)

دیکھو حدیث ۱۳۸۰ دیکھو حدیث ۱۳۸۰

(۶۵) بَابُ عَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ عَزْوَةُ مُحَمَّدٍ وَجَدَّ امَّ قَالَهُ الرَّاسِمِيُّ

باب ذات السلاسل کا عزوہ ملاحظہ عزوہ محمد اور عذام بھی ہے ملاحظہ یہ اسمعیل بن ابی خالد نے

ابن أبي خالدٍ وَقَالَ ابْنُ اسْتَعْنَى عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَزْوَةِ هِيَ بِلَادُ بَكْرِ وَعَدْرَةُ

کہا ہے اور ابن اسحق نے عروہ سے ترمذی نے یہ روایت کر کے کہا کہ یہ بلدی اور عذروہ

كان بيت في الجاهلية يقال له ذوالخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الا ترين حتى من

ذی الخلصۃ نہضت فی مائۃ وخمسين راكبا فکسرناہ وقتلنا من وجدنا عندکہ فایتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاختبته فداعلنا ولا حس

ذوالخلصہ ایک گھر کا نام ہے جس میں خلصہ نام ایک بت دوس اور زخم وغیرہ قبائل کا تھا اور اسے کعبہ یمنی بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ یمن میں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبد اللہ کو اس کے ڈھانے کے لئے بھیجا تھا۔ خلصہ ایک قسم کی بنات بھی ہے ملاحظہ کر روایت کچھ اختصار کے ساتھ آئی ہے۔

وہی اسمعیل بن ابی خالد نے

عزوہ محمد اور عذام بھی ہے ملاحظہ یہ اسمعیل بن ابی خالد نے

کان بیت فی الجاہلیۃ یقال لہ ذوالخلصۃ والکعبۃ الیمانیۃ والکعبۃ الشامیۃ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ترین حتی من ذی الخلصۃ نہضت فی مائۃ وخمسين راكبا فکسرناہ وقتلنا من وجدنا عندکہ فایتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاختبته فداعلنا ولا حس یہاں لفظ عنہما کے ہیں یہ ملاحظہ کیاں زیادہ تفصیل ہے۔ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ترین حتى من ذی الخلصۃ فقلت یٰ لہ فانطلقت فی خمسين ومائۃ فارس من احس وكانوا اصحاب خیل وکنت لا اثبت علی الخیل فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فضرب یدہ علی صدری حتی رأیت اثر یدہ فی صدری وقال اللهم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیّا قال فما وقعت عن نرس بعد آخری جملہ عنہما میں نہیں ہے) قال وكان ذوالخلصۃ بیتا یا اسمعيل الخنعم وبجیلۃ فیہ تصب تعبد یقال لہ الکعبۃ قال فأتاها فخرّ فظہا بالنار وکسرها قال ریاں سے کہ کراضی بن عنقک تک عنہما میں نہیں ہے) ولما قدم جریر الیمن کان بہا دخل بیست قسم بالاذلام ریسروں پر فال نکاتا تھا) فقبل لہ (در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمنانا فان قدر علیک ضرب عنقک قال فیبیخا ہو یضرب بہا فال نکال رہا تھا) اذ وقع علیہ جریر فقال فکسرها ولتشهد ان لا الہ الا اللہ الا لاضری من عنقک قال فکسرها وشہدتم بعث جریر رجلا من احس یبکین ابارطۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیرہ بذلک فلما اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ والذی بعثت بالحق ما حیث حتی ترکتها کا نہما جمل اجوب قال فبڑک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیل احس ورجالہا خمس مترات۔ جس قدر تفصیل بیان زیادہ کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویہ لوگ جیسا کہ نوٹ ملاحظہ صفحہ ۶۸ سے ظاہر ہے سلمان ہو چکے تھے۔ لیکن ان کا میت خانہ ابھی قائم تھا۔ اور وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تعلیم اسلام کے خلاف نکالتا تھا تو اس طرح تعلیم اسلام بھی بگڑتی تھی۔ اور علاوہ ان میں یہ الفاظ جریر کے ہیں کہ اگر تو اس بت کو توڑ کر تو حید کا اقرار نہ کرے گا تو میں تیس ماہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں نہ آپ کی تعلیم تھی۔ نہ آپ نے عملاً کبھی کسی آدمی کو اس لئے مارنے کا حکم دیا کہ وہ بت پرست ہے اور اسلام قبول نہیں کرتا۔ اور جریر کے یہ الفاظ بھی تنبیہ اور سرزنش کے طور پر معلوم ہوتے ہیں یہ ملاحظہ اسے عزوہ ذات السلاسل نام دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں مشرکوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا لیا تھا۔ مگر بعض کے نزدیک سلسل ایک پانی تھا جہاں یہ جنگ ہوئی۔ اور ابن سعد نے کہ ہے کہ یہ داوی القری سے آگے ہے اور اس میں اور مدینہ میں دس دن کا فاصلہ ہے۔ اور یہ عزوہ جمادی الآخر شدہ ہجری میں ہوا بعض نے کہا کہ میں نے ملاحظہ نعم اور عذام دو قبیلوں کے نام ہیں جن سے یہ جنگ ہوئی۔

علا یتینون قابل
 کے نام ہیں +
 عطا آل وایت
 دونوں جگہ عمر بن
 العاص کی ہی ہے
 گریہاں ابتداء پر
 عثمان دوسرے
 راوی سے کی ہے
 اور غدا رجاء کے
 بعد ایک فقرہ ٹھہرایا
 ہے ان رسول اللہ
 صلعم بعث عمرو
 بن العاص علی
 جینت ذات السلاسل
 قال فانیہ فقلت
 اہی لنامس احب
 الیک قال عائشہ
 قلت من الحیاک
 قال ابوہا قلت
 ثم من قال عمر
 فذرا حاکم فقلت
 غانۃ ان یحطنی
 فی الخرمم عزبا
 باک تعلق من
 اس امر سے ہے کہ
 عمرو بن العاص کو
 غزوہ ذات السلاسل
 میں امیر نیا گیا تھا
 عطا ذوالکراع اور
 ذوعمر بن کے دو
 بڑے رئیس تھے۔
 یعنی میں نے حضرت
 صلعم نے انہیں یا

وَبَنِي لَقَيْنٍ (م- ۲۱۲) عَنْ أَبِي عَثْمَانَ (متکرر- ۱۶۳۷) بَاب

اور بنی لقین کی ستیوں میں ہوا عطا ذیکھو حدیث نم ۱۶۳۷ بابت

ذَهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ (م- ۱۸۴۹) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيْتُ

جریر کا یمن کی طرف جانا جریر سے روایت ہے کہ اس یمن میں تھا تو یمن والوں میں سے

رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا الْكَلْبِ وَذَا الْعَمْرِ وَفَجَعَلْتُ أَحَدًا لَهُمْ عَنْ رَسُولِ

دو شخصوں ذوالکراع اور ذوعمر سے ملا میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْعَمْرِ وَلَيْنَ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ

تھا تو ذوعمر نے کہا جو تم بیان کرتے ہو اگر وہ تمہارے

صَاحِبِكِ لَقَدْ مَرَّ عَلَيَّ أَجْلَاهُ مَنذُ ثَلَاثٍ وَأَقْبَلَ مَعِيَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ

صاحب کا حال ہے تو ان کی وفات پر تو یمن دن گذر چکے ہیں وہ دونوں میرے ساتھ روانہ ہوئے

الطَّرِيقِ رَفَعْنَا رُكُوبَنَا مِنْ قَبْلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قَبِضْ رَسُولُ

اور اسی ہم رستے میں تھے کہ مدینہ کی طرف سے کچھ سواریہم کو نظر آئے ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَخْلِفُ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَاحِبُونَ فَقَالَ أَحْبَبْتُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے اور لوگ اسی حالت میں ہیں ان دونوں نے کہا اپنے

صَاحِبِكَ أَتَأْتِدُ جُنَّتَنَا وَلَعَلَّنَا سَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعْنَا إِلَى الْيَمَنِ

صاحب ابوبکر کو خبر ہے دینا کہ ہم رہنا چاہتے تھے اور اللہ نے جا با تو امیر سے کہ غزویہ ہم آجائیں گے اور وہ دونوں یمن

فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ يَوْمِهِمْ قَالَ أَفَلَا جُنَّتْ بِهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ

کی طرف لوٹ گئے میں نے حضرت ابوبکر کو بھی بات کی خبر دی تو فرمایا کہ کیوں ان کو میرے پاس نہ لائے پھر اس کے بعد کسی وقت ذوعمر نے مجھ

لِي ذُو عَمْرٍو يَا جَرِيرُ إِنَّ بَكَ عَلَى كَرَامَةٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا خَيْرٌ مِنَ الْكُرْمِ وَمَعَشَرَ

سے کہا کہ آپ کا بھرا بڑا احسان ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا ہوں تم عرب لوگ برابر

الْعَرَبِ لَنْ تَزَاوُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذْ أَهَلَكْتُمْ أَمِيرًا مَرْتَمٍ فِي الْخُرُوفِ إِذَا كُنْتُمْ

اچھے رہو گے جب تک تو ایسے رہو گے کہ جب ایک امیر وفات پا جائے تو دوسرے کے متعلق مشورہ سے لے کر

بِالسَّيْفِ كَأَنْوَأَمَلُوا كَأَلْيَعُضُونَ غَضِبَ لِمَلُوكٍ وَيَرْضُونَ رِضَا الْمَلُوكِ

اور جب فیصلہ تلوار سے ہو تو وہ بادشاہ ہوں گے بادشاہوں کی طرح ناراض ہوں گے اور بادشاہوں کی طرح راض ہوں گے

(۶۷) بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقُونَ عَائِدَةَ الْقُرَيْشِ

بابت سیف البحر کا غزوہ اور مسلمان قریش کے قافلے کی غرض سے جا رہے تھے اور

أَمِيرَهُمْ أَبُو عَبِيدَةَ (م- ۲۱۲۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر- ۱۱۸۵)

ان کے امیر ابو عبیدہ تھے عطا ذیکھو حدیث نم ۱۱۸۵

ان میں سے ایک کو اسود اور سید اور طلحہ کے خلاف امداد کیلئے لکھا تھا اور جریر ہی یہ خط لیکر آئے تھے تو یہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیلئے
 مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں آپ کی وفات کی خبر پہنچی اور وہ رک گئے اور پھر ذوعمر و حضرت عمر کی خلافت میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ انکا یہ کہنا کہ جب
 تک مشورہ سے تمہارے بادشاہ مقرر کئے جائیں گے تمہاری حالت اچھی رہے گی۔ اور جب تلوار سے بادشاہ بنیں گے تو پھر وہ حالت مذہبہ کی بنانا ہے کہ وہ بڑے
 سمجھدار آدمی تھے۔ سیف البحر کا غزوہ ساحل ہند کی طرف تھا۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ مسلمان قریش کے قافلے کی غرض سے جا رہے تھے اور ابن سعد وغیرہ میں
 ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم نے حنین کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا تھا اور یہاں جب سہ ماہ کا وقفہ ہے اور یہ جگہ پانچ دن کے رستہ پر تھی۔ جنگ اس میں کوئی نہیں ہوئی اور قافلہ
 بھی کوئی نہیں ملا اور نہ بھوک سے اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے حدیث میں یہ مفصل ذکر موجود ہے۔ ایک وجہ تھیں فرقہ چھوڑ کر لفظ ہی ہیں۔

(م- ۲۱۲۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرره ۱۱۸۵) ر-م- ۲۱۲۴ عَنْ جَابِرِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۱۸۵

(متكرره ۱۱۸۵) (۶۸) بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِاللَّيْلِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ (م- ۲۱۲۵)

دیکھو حدیث ۱۱۸۵ باب سب سے جبری میں حضرت ابوبکر کا لوگوں کے ساتھ حج کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرره ۲۶۶) ر-م- ۱۸۵۰ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ اخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ

دیکھو حدیث ۲۶۶ برائے روایت ہے کہا آخری سورت جو پوری اتری وہ

كَامِلَةٌ بِرَاءَةَ وَ اخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةٌ سُوْرَةُ النَّسَاءِ لِيَسْتَفْتُوْكَ قُلِّ

سورہ بارات ہے اور سورت کا آخر جو اترا وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے يستفتوك قل الله

اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (۶۹) بَابُ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ (م- ۲۱۲۶) عَنْ عَمْرِوَانَ

یغنیکم فی الکلالۃ، باب بنی تمیم کا وفد

بِأُحْمَاسٍ (متكرره ۲۳۳) ر-م- ۱۲۰۶) بَابُ قَالَ ابْنُ اسْمَعِيلَ غَزْوَةُ عَيْدِينَةَ بَنِي حَضْرَمٍ

دیکھو حدیث ۲۳۳ باب ابن اسمعیل نے کہا

عَلِيًّا فِي انْفِطَالِهَا
میں بھی فرق ہے
اور مضمون بھی کچھ
زیادہ ہے۔
بعثنا رسول الله
صلوات الله عليه وسلم
ثلثًا فتراكلت
امرنا ابو عبیدة
بن الجراح نصد
عبر قريش فاقتنا
بالساحل نصدت
شهر فاصابنا جرح
مشردن حو الكلفنا
الحيط رشي رضحي

ذات الجيش جيش الحبط فاللنا الجرد اية يقال لها العذير فاننا منه نصعت شهره اذهنا من وده رجي حتى ثابت الينا اجسامنا
وہمارے جسم دوبارہ ایسے ہی تازہ ہو گئے جیسے پہلے تھے) فانخذ ابو عبیدة ضلعًا من اضلاعه فنضبه فعمد الى اطول رجل معه قال
سغبين متزع ضلعًا من اضلاعه فوضبه واخذ رجلا وبعيرا فمركته قال جابرو كان رجل من القوم غرثلت جزا اثر ثم غرثلت
جزا اثر ثم غرثلت جزا اثر ثم ان ابا عبیدة نہاہ دکان عمرو ويقول اخبرنا ابو صالح ان قيس بن سعد قال لا يه كنت في الجيش
فما غرثت قال ثم جاعوا قال اغرثت قال ثم جاعوا قال اغرثت ثم جاعوا قال اغرثت ثم جاعوا قال اغرثت ثم جاعوا قال اغرثت ثم
یادکر روایت بہت مختصر ہے۔ غزونا جيش الحبط واقرب ابو عبیدة فجمعنا جو کچھ شایداً فاللق الجرحوا فماتت الينا ثمر مثله يقال له العذير فاننا
نصعت شهر فاذ ابو عبیدة عظامه فمر الراكب تحتہ فاخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول قال ابو عبیدة كلوا فلما قد منا
المدینة ذکرنا ذلك للصلوات عليه وسلم فقال كلوا وذا اخرجہ الله اطعمونا ان كان معكم فانا بعضہم فاکله صلح میں حضرت ابوبکر
کو امیر جرایا گیا لیکن ان کے کچھے حضرت علی کو ان آیات کے اعلان کے لئے بھیجا گیا تھا جس سے سورہ براءہ کی ابتدا ہوئی ہے کس ماہ میں یہ حج ہوا اس میں
اختلاف ہے۔ ابن سعد نے مجاہد کی روایت کی بنا پر اسے ذیقعد میں کہا ہے۔ لیکن اور اقوال میں ہے کہ یہ ذی الحج میں ہوا۔ **۱۲۰۶** مکرر روایت میں
۲۶۶ کا پچھلا حصہ جس میں حضرت علی کے بھیجے جانے کا ذکر ہے چھوڑ دیا ہے جو فاضل حمید سے شروع ہوتا ہے۔ اور پہلا حصہ ان الفاظ میں ہے۔ ان
ابا بکر الصديق بذعتہ فی الحجة التي امره اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حججة الوداع يوم الغزوي رطھ یوزن فی الناس لا یحج بعد العام مشوک ولا
بطوف بالبيت عریان مگر اس حدیث میں حضرت ابوبکر کے حج کا کوئی ذکر نہیں البتہ سورہ براءہ کے نزول کا ذکر ہے۔ مگر چونکہ سورہ براءہ کی ابتدائی آیات کا
اس ج میں اعلان ہوا تھا تو اس مناسبت سے اس حدیث کو بیان بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ کاملہ ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ
براءہ سب کی سب یک مرتبہ نازل ہوئی۔ مگر درست یہ ہے کہ اس کا نزول بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا۔ شاید مراد یہ ہو کہ سورہ براءہ کا بیشتر حصہ آخر میں نازل
ہوا۔ کتاب التفسیر میں جہاں یہ حدیث آتی ہے وہاں کاملہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے۔ اور لفظ یوں ہیں۔ اخرسورة نزلت براءة واخر اية نزلت
يستفتونك یعنی آخری سورت جو اتری وہ براءة ہے۔ اور آخری آیت کسی سورت کی جو اتری وہ يستفتونك ہے اور کتاب التفسیر میں ہی آتا ہے
کہ آخری سورت جو اتری وہ اذا جاء نصر الله ہے۔ اور آخری آیت جو اتری وہ آیت الرابطة ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اذا جاء نصر الله والفتح
کا نزول تحت الوداع میں ہوا اور سورہ براءہ کی ابتدا کا نزول سب سے پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن اذا جاء کا نزول مکہ میں ہوا اور سورہ براءہ
کا نزول مدینہ میں ہوا۔ تو شاید اس لحاظ سے یا بڑی سورت ہونے کے لحاظ سے اسے آخری سورہ کہا۔ اور آخری آیت سے اس حدیث میں مراد
کسی سورت کی آخری آیت ہے۔ اور وہ يستفتونك والی آیت ہے۔ دیکھئے آخر میں نزول واقعا ايوماً تو رجحون فيه الى الله العزیز (م- ۲۸۱)
کایہ۔ جسے اس لحاظ سے آیت الرابطة کہا ہے کہ اس پر رہا مضمون ختم ہوتا ہے۔ **۱۲۰۶** مکرر بخاری نے دو نو کا ذکر شروع کیا ہے۔ وہ
بنی تمیم سب سے جبری میں آیا مگر یہاں روایت بہت مختصر ہے۔ اسی نفر من بنی تمیم صلح فقال قبلوا البشيرة يا بنی تمیم قالوا يا رسول الله
قد بشرتنا فاعطنا فروق ذلك في وجهه فجاذ عن من الهم فقال قبلوا البشيرة اذ لم يقبلها بنو تمیم قالوا قد قبلنا يا رسول الله آيب كالمطلب بشرت نبي
سے یہ تھا کہ تم نے حق کو پایا لیکن ان لوگوں کی نگاہیں سپت تھیں اس لئے انہوں نے مال دینا طلب کیا۔

ابن حذیفہ بن بدر بنی العنبر من بنی تمیم بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابن حذیفہ بن بدر کا غزوہ بنی العنبر سے تھا جو بنی تمیم سے ہیں بنی مصلی اللہ علیہ وسلم نے

الیہم فانما رآوا صاب ہنہم ناسا و سبی ہنہم نساء (م- ۲۱۲۷) عن ابی ہریرۃ

ان کو ان کی طرف بھیجا اس لئے حملہ کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ عورتوں میں سے قید کر لیں۔

(متکرر- ۱۲۰۵) (۱۸۵۱) عن عبد اللہ بن الزبیر انہ قدیم ركب من بنی تمیم

دیکھو حدیث ۱۲۰۵ عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنی تمیم کے کچھ سوار

علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر امیر القعقاع بن معبد بن زرارۃ

نبی مصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ قعقاع بن معبد بن زرارہ کو اشرقر فرمائیے

قال عمر بن الخطاب لا اقرع بن حارث قال ابو بکر ما اردت الا اخلافی قال

حضرت عمر نے عرض کیا کہ اقرع بن حارث کو اشرقر فرمائیے حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہارا مقصد من میری مخالفت ہے حضرت عمر

عمر ما اردت خلافک فتما ریاختی اذتفعت اصواتہما فنزل فی ذلک

نے کہا میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں ہے دونوں جھگڑے اور انکی آوازیں بلند ہوئیں تو ایسی بارہ میں یہ اترا

یا ایہا الذین امنوا لا تقدروا حتی انقضت (۱۷۱) باب وقد عبد القیس

یا ایہا الذین امنوا لا تقدروا (آیت) تک راہجات (۱) باب عبد القیس کا تذکرہ

(م- ۲۱۲۸) عن ابی جمرۃ (متکرر- ۲۷۸) (م- ۲۱۲۹) عن ابی جمرۃ

دیکھو حدیث ۲۷۸

(متکرر- ۲۷۸) (م- ۲۱۳۰) عن کریب (متکرر- ۶۶۷)

دیکھو حدیث ۶۶۷

دیکھو نوٹ ۴ صفحہ ۵۵۸۷ ایسے جھگڑے بتھافانے بشریت میں۔ اور یہ صرف چند منٹ کا جھگڑا تھا۔ ان بزرگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کدورت و ترک نہ رہتی تھی۔ قعقاع زم طبیعت کا آدمی تھا اور اقرع کی طبیعت میں کچھ شدت تھی۔ اور وہ زیادہ آزاد واقع ہوا تھا اس لئے دونوں نے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سفارش کی۔ اس لئے یہ کوئی ذاتی جھگڑا نہ تھا بلکہ عبد القیس بھرن کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اور فتح الباری میں یہ کہ عبد القیس کا وفد دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک دفعہ مذہب میں یا اس سے بھی پیشتر جس کا ذکر حدیث ۱۸۵۱ اور اس کی مکرر روایات میں ہے۔ اور یہ تیرہ آدمی تھے۔ اس وقت قریش کی مخالفت کی وجہ سے ان کے نبی صلعم کے پاس آنے جانے میں مشکلات تھیں۔ اور دوسری دفعہ دو نووے سال میں ان کا وفد آیا۔ اور اس کی تائید ابن جان کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں سے کہ نبی صلعم نے ان سے فرمایا۔ مالی ادبی الوان ذکر تخیروت کیا وجہ ہو کہ تمہارے رنگ بدل گئے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ پیہ آپ ان کو دیکھ چکے تھے۔ مکرر روایت کی ابتدا و طرح پر ہوتی ہے بعد کے لفظ قریبا ایک ہی ہیں قلت لابن عباس ان لی جرة ربرے پاس ایک گڑھا ہے۔ بنتیہلی بنیذرتیں میں میرے لئے کھجور کا شربت بنایا جا تاہی فاشہ بہ حلوا (جب تک میٹھا رہتا ہے چٹا رہتا ہوں) فی جزیرہ جرد سے متعلق ہے یعنی گھروں میں وہ ایک گڑھا ہے، ان اکثر ہنہ (زیادہ پیوں) فبالست القیم ناطلت الجلوس خشیت ان اقتضم فضیوت نہ ہو۔ یعنی لوگ یہ نہیں کر شراب پی ہوتی ہے، فقال ذم دد عبد القیس علی رسول اللہ صلعم فقال مرحبا بالقوم غیر خزا یا دلا الذم ای ذہ ذیل نہ شرمندہ اس لئے کہ جنگ سے مغلوب ہو کر نہیں آئے، فقالوا یا رسول اللہ ان بیننا و بین المشرکین من مضی و ان لا نصل الیک الا فی شہر الحرام حد ثنا بجھل من الکامر (روین کی باتیں فلاصہ کے طور پر) ان علنا بہ دخلنا الجنة و ندعو بہ من دوا۔ نا قال امرکہ باربعہ و انھا کم عن اربعہ الا ایمان باللہ هل تدرون ما الا ایمان باللہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ ربی ما یحیی و یدئی ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرار تخریس رسالت کا اقرار بھی شامل تھا، و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و ان تعطوا من المغانم الخمس انھا کر عن اربعہ ما انتبذ فی الد یا مدو النقیور و الخنم و الخمر۔ دیکھو نوٹ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴ حدیث کا اصل ضمنون ہی ہو ابتدا لی حصہ نہ ختم کا یہاں آیا ہے اور نہ م- ۲۱۲۸ کا معمولی لفظی اختلاف ہے قدم وقد عبد القیس علی النبی صلعم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحج من ربيعة و قد حالت بیننا و بینک کفار مضی فاستأخلفنا الیک الا فی شہر حرام فہرنا یا شہداء ناخذہا و ندعو الیہا من دواننا قال امرکہ باربعہ و انھا کم عن اربعہ الا ایمان باللہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و عقدوا احدہا را یکا نکلی بند کر لی، و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ و ان تواد اللہ خمس ما غنمتم و انھا کر عن الد باء و النقیور و الخنم و الخمر۔ ۱۷۵ کے قریبا انہی الفاظ میں حدیث ۱۷۵ کو دوہرایا ہے۔ و کنت

۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵

صلعم نے پیاس آدھیوں کے ساتھ عیینہ کو ان کی سزا ہی کے لئے بھیجا۔

۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵

صدقات توہنا کی جگہ ہے صدقات توہم او قومی یعنی یہ میری توہم کے صدقات ہیں

۴ اصوب مع عمر الناس عنہما سے مروی صحیح مارنا معلوم نہیں ہوتا بلکہ ان پر سختی یا سزائش کرنا مراد ہے۔ باقی کے لئے دیکھو نوٹ اس حدیث پر +

وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا آمِنًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا آمِنًا فَقَالَ لَا بَعْثَ مَعَكُمْ رَجُلًا

اور ہم سے ساتھ کسی قابل اعتماد و محض کو بھیجیں اور ہم سے ساتھ سوائے قابل اعتماد و محض کے دوسرے کو نہ بھیجیں آپ فرمایا میں تمہارے آمینا حق آمین فاستَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

ساتھ ایک ایسا قابل اعتماد و محض بھیجیں گا جو پورا قابل اعتماد ہو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فکر کرنے لگے آپ فرمایا

فَمَا يَا أَبَا عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا

ابو عبیدہ بن جرأح اٹھو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ (م- ۲۱۳۶) عَنْ حَدِيثٍ (متكرر) (۱۸۵۳) (م- ۲۱۳۶) ۵

اس امت کے امین ہیں ۱

عَنْ أَنَسٍ (متكرر) (۱۶۶۹) (م- ۲۱۳۷) ۳

دیکھو حدیث ۱۶۶۹ ۳

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر) (۱۱۱۲) (م- ۲۱۳۷) ۳

دیکھو حدیث ۱۱۱۲ ۳

الْيَمِينِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْمٌ مِثِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

اور ابو موسی نے بنی مصلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ مجھے ہے اور میں ان سے ہوں۔

(م- ۲۱۳۸) عَنْ أَبِي مُوسَى (متكرر) (۶۷۹) (م- ۲۱۳۹) ۳

دیکھو حدیث ۶۷۹ ۳

(متكرر) (۱۶۱۸) (م- ۲۱۴۰) عَنْ جَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (متكرر) (۱۲۳۳) ۳

دیکھو حدیث ۱۶۱۸ ۳

مستقر یہی لفظ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل امة امین و امین هذه الامة ابو عبیدة بن الجراح ۵

آئی ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاء مال الجرحین لقد اعطيتک هكذا وهكذا اثلثا فلم یقیم مال الجرحین حتی قبض رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فلما قدم علی ابی بکر امرنا و دنیا فنادی من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین او عداة فلیاتنی قال جابر بن جرحت ابا بکر فاخبرته

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لوجاء مال الجرحین اعطيتک هكذا وهكذا اثلثا قال فاعطانی قال جابر فلو قتلت ابا بکر بعد ذاک فسأته فلم یعطنی

ثم اتيته فلم یعطنی ثم اتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد اتيبتك فلم تعطني ثم اتيبتك فلم تعطني فاما ان تعطني داما او تقبل

عني فقال اقلت قبل عني و امی داء او ادو او من الجمل ركوبی بیاری بخل سے بڑھ کر ہے قالها ثلثا ما منعك من مرة الا وانا اريد ان اعطيتک و

عن عمرو بن محمد بن علی سمعت جابرا بن عبد اللہ يقول جنتہ فقال لی ابو بکر عداة ما فذل ذنوبنا خمسة فقالت خذ مثلها مرتين ۵

بھی اہل یمن میں سے ہی ہیں۔ اسے باب الشرکۃ فی الطہارۃ میں ہوا کیا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۱۱۲ وہاں اشعری لوگوں کی اس خوبی کا ذکر ہے کہ ان کے پاس

کھانے کی کمی ہو تو وہ سب کھانے کو ایک جگہ جمع کر کے تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑھایا ہے فہم منی وانہم منی یعنی چونکہ میں یہ خوبی ہے اس لئے

وہ مجھے ہے اور میں ان سے ہوں اعلیٰ درجہ کی نسبت کے انکار کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ۵

ان فاوی من الیمین فمکننا حیثا مانزلنا بن مسعود و امة الایمان اهل البیت من لکثرة دخولهم ولزومهم ۵

میں روایت زیدم کی ہے اور ابتدا او طرح پرکی ہے ۵۔ لما قدم ابو موسی اکرم هذا الحی من جرم دانالجرجوس عددا و هو بتعدای دجا جاد فی القوم رجل

جالس فدعاہ الی لعداء فقال انی رایتہ یا کل شیئا فقد ارتہ فقال ہم فانی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کله فقال انی حلفت لا اکله فقال

ہم اخبارک عن یسیرک انانا ایتنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نغرم من الاشعریین فاستحملناہ فانابن یحیمان فاستحملناہ فحلفت ان لا یحملنا ثم یولیت النبی

صلی اللہ علیہ وسلم ان اتی بنہب ابل فامرنا بنجس ذود فذلنا تبضنا ما قلنا فقفلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عینہا لا تقلم بعد ما اذنا فانیتہ فقلت لیک رسول

اللہ انک حلفت ان لا یحملنا وقد حملتنا قال اجل ولكن لا احلفت علی یمین فادی غیرہا خیر امنہا الالات الذی ہو خیر منہا رکبہم ثم ما قلنا

۵۔ میں ان کے لئے ایک جملہ اور آخر سے کچھ چھوڑ کر حدیث بیان کی جو ۵۔ جاءت بنو تمیم الی رسول اللہ صلعم فقال اشربوا یا بنی تمیم قال ما اذبتنا فانا غنا نغیر

وجہ رسول اللہ صلعم فجاء ناس من اهل الیمین فقال النبی صلعم اقبلوا البشیری اذ لم یقبلوا بنو تمیم قالوا انقلنا یا رسول اللہ رکبہم صلصل ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر

۱۔ اس موقع پر ابو عبیدہ کو بھیجا۔ اس کے بعد ورجی دفعہ جزیرہ کے مال کی وصولی کے لئے حضرت علی کو بھیجا جیسا کہ ابن النخعی کی روایت میں ہے ۱۔ ۲۔ یہاں اصل روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ جلد اہل جہان اے النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوا ابیعتنا فانا رجلا امیننا فقال لا یبعتن الیکم رجلا امیننا حق امین فاستقر ۱۔ ۲۔ لہ الناس فیعت حق امین فاستقر ۱۔ ۲۔ الجراح ۵

۱۵۲
 ۱۵۱
 ۱۵۰
 ۱۴۹
 ۱۴۸
 ۱۴۷
 ۱۴۶
 ۱۴۵
 ۱۴۴
 ۱۴۳
 ۱۴۲
 ۱۴۱
 ۱۴۰
 ۱۳۹
 ۱۳۸
 ۱۳۷
 ۱۳۶
 ۱۳۵
 ۱۳۴
 ۱۳۳
 ۱۳۲
 ۱۳۱
 ۱۳۰
 ۱۲۹
 ۱۲۸
 ۱۲۷
 ۱۲۶
 ۱۲۵
 ۱۲۴
 ۱۲۳
 ۱۲۲
 ۱۲۱
 ۱۲۰
 ۱۱۹
 ۱۱۸
 ۱۱۷
 ۱۱۶
 ۱۱۵
 ۱۱۴
 ۱۱۳
 ۱۱۲
 ۱۱۱
 ۱۱۰
 ۱۰۹
 ۱۰۸
 ۱۰۷
 ۱۰۶
 ۱۰۵
 ۱۰۴
 ۱۰۳
 ۱۰۲
 ۱۰۱
 ۱۰۰
 ۹۹
 ۹۸
 ۹۷
 ۹۶
 ۹۵
 ۹۴
 ۹۳
 ۹۲
 ۹۱
 ۹۰
 ۸۹
 ۸۸
 ۸۷
 ۸۶
 ۸۵
 ۸۴
 ۸۳
 ۸۲
 ۸۱
 ۸۰
 ۷۹
 ۷۸
 ۷۷
 ۷۶
 ۷۵
 ۷۴
 ۷۳
 ۷۲
 ۷۱
 ۷۰
 ۶۹
 ۶۸
 ۶۷
 ۶۶
 ۶۵
 ۶۴
 ۶۳
 ۶۲
 ۶۱
 ۶۰
 ۵۹
 ۵۸
 ۵۷
 ۵۶
 ۵۵
 ۵۴
 ۵۳
 ۵۲
 ۵۱
 ۵۰
 ۴۹
 ۴۸
 ۴۷
 ۴۶
 ۴۵
 ۴۴
 ۴۳
 ۴۲
 ۴۱
 ۴۰
 ۳۹
 ۳۸
 ۳۷
 ۳۶
 ۳۵
 ۳۴
 ۳۳
 ۳۲
 ۳۱
 ۳۰
 ۲۹
 ۲۸
 ۲۷
 ۲۶
 ۲۵
 ۲۴
 ۲۳
 ۲۲
 ۲۱
 ۲۰
 ۱۹
 ۱۸
 ۱۷
 ۱۶
 ۱۵
 ۱۴
 ۱۳
 ۱۲
 ۱۱
 ۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

(۱۲۱-۲) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (متكرر- ۱۲۹۳) (م- ۲۱۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۲۹۲)	دیکھو حدیث ۱۲۹۳	دیکھو حدیث ۱۲۹۲
(۱۲۳-۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۲۹۲) (م- ۲۱۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۲۹۲)	دیکھو حدیث ۱۲۹۲	دیکھو حدیث ۱۲۹۲
(۱۸۵۴) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَنَا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَبَجَّأَ خِتَابًا فَقَالَ يَا أَبَا	علقمہ سے روایت ہے کہ ہم ابن مسعود کے پاس بیٹھے تھے تو خواب آئے اور کہنے لگے ابو	
عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِسْتِطِيْعَ هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ اَنْ يَقْرَأَ كَمَا تَقْرَأُ قَالَ اَوْ اِنَّكَ لَوْ شِئْتَ	کہا یہ جوان اس طرح قرآن پڑھے جس طرح آپ پڑھتے ہیں؟ کیا اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کو	
اَهْرَتْ بَعْضُهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ اَجَلُ قَالَ اَفْرَا يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حَدْرَدٍ	کہوں کہ آپ کے سامنے پڑھے خواب نے کہا ابھی ابن مسعود نے کہا علقمہ پڑھو تو زید بن حدیر	
اَخُو زَيْدِ بْنِ حَدْرَدٍ اَمْرًا مَعْلُومًا اَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ يَأْتُرُنَا قَالَ مَا اِنَّكَ اِنْ شِئْتَ	زید بن حدیر کے بھائی نے کہا آپ علقمہ سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھے وہ تو ہم میں سے ہے ابھی چھوٹی نہیں ہے ابن مسعود نے کہا اگر تم چاہو	
اَخْبَرْنَاكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمِكَ وَقَوْلُهُمْ فَقَرَأَتْ مَخْمُوسِينَ اِيَّاهُ مِنْ	تو میں تجھے وہ بتاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم اور سب سے کہے ہیں تو میں نے سب سے سنا ہے اور میری بیگم	
سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى قَالَ قَدْ احْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا اَقْرَأَ شَيْئًا	آئین پڑھیں تو عبد اللہ نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے خواب نے کہا بہت اچھا پڑھا عبد اللہ نے کہا جو کچھ میں پڑھتا ہوں	
اِلَّا وَهُوَ يَقْرَأُ ثُمَّ التَفَتَ اِلَى خِتَابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَلَمْ يَأْنِ	وہ وہ بھی پڑھ لیتا ہے پھر عبد اللہ نے خواب کی طرف دیکھا اور وہ سونے کی انگلی پہننے ہوئے تھے تو عبد اللہ نے کہا کیا ابھی وقت	
لِهَذَا الْخَاتَمِ اَنْ يُلْقِيَ قَالَ اَمَّا اِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْقَاهُ رَوَاهُ عِنْدَ	نہیں آئے گا اس انگلی کو جو پہننے کے لیے آج کے بعد اس کو میرے پاس نہیں دیکھیں گے اور اس سے چھینک دیا گیا	
عَنْ شُعْبَةَ (۷۸) بَابُ قِصَّةِ دَوْرٍ وَالتَّفْطِيلِ بْنِ حَمْرٍ وَالدَّوْسِيِّ (م- ۲۱۲۵) عَنْ	باب ۷۸ دوس اور طفیل بن عمرو دوسی کا قصہ ۷۸	
اَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۱۲۶) (م- ۲۱۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۱۲۶) (م- ۲۱۲۶)	دیکھو حدیث ۲۱۲۶	دیکھو حدیث ۲۱۲۶
(۱۲۰) (۷۸) بَابُ قِصَّةِ وَفَدِطِيِّ وَحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَارِثِ	باب ۷۸ قیدیوں کے قصہ اور عدی بن حارث کا قصہ ۷۸	

مرا و علم ہے۔ دیکھو نوٹ ۷۸ صفحہ ۷۹۔ ۷۸ بیان اختصار ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بان والفتنة طهنا طهنا تطلم قرن الشيطان۔
 ۷۸ یعنی یہ مختصر ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا کہ اهل الیمن اصنعت قلوبا وادرق افئدة الفقهاء یان والحدیث یان الایمان یان
 کی بجائے ہے الفقہ یان یعنی دین کی سمجھ میں ہے۔ یعنی انحضرت صلعم نے اس کی قوم کی تعریف کی ہے۔ ان کی قوم صحیح تھی۔ سزا جس میں ابن مسعود
 کی روایت ہے ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون لہذا الحی من الغنم۔ ملا سونے کو مردوں کیلئے منع کیا گیا کہ تعیش میں نہ پڑ جائیں۔ ۷۸ پوس
 یمن کی ایک قوم ہے اور طفیل بن عمرو بن بیس تھے۔ یہ یہ سامان ہو گئے اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں مگر انہوں نے مانا نہ ملا۔ خفیف اختلاف
 لفظی سے دوسرا ہے۔ جاد الطغیل بن عمرو الی النبی صلعم فقال ان دو ساقن ہلکت عصت وابت فادعا اللہ علیہم فقال اللہ اھد دو ساقن ابتم۔ دیکھو
 نوٹ ۷۸ صفحہ ۷۸۔ اسی الفاظ میں حدیث کو دوسرا ہے حضرت ابو ہریرہ کے آئینہ ذکر ہے یہاں ہو لوجہ اللہ کی تکرار ہے ہو لوجہ اللہ ہے اللہ نے عدی بن حارث کے
 نبی صلعم کی خدمت میں شعبان بن عمرو بن بیس سے آئے اور وہ اقدی نے شعبان سلمہ بن عمرو کہا اور پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں نبی قوم کی زکوٰۃ لیکرے جب لوگ مرتد ہوئے

لگے تھے یا زکوٰۃ نہیں سے لگا کر رہے تھے۔ حدیث باب میں انکہ حضرت عمر کے زمانے میں انیکا ذکر ہے۔ حضرت عمر انہیں خوب بچانتے تھے جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔

ملکہ کر روایت
 میں تفصیلات
 زیادہ ہیں۔ اجل
 النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم عام الفتح
 وھو مرد و سائے
 علی القصواء و
 معہ مبلال و
 عثمان بن طلحة
 حتی انما عند
 البيت ثم قال
 لعثمان اشتنا
 بالفتح فجاہ
 بالفتح ففتح
 له الیاب فدخل
 النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم واسامة
 وبلال وعثمان
 ثم اغلقوا علیہم
 الباب فمکثت نھا
 طویلا ثم خرج
 وابتدوا التماس
 الدخول فصدقتہم
 فوجرت بلالا

(۲۱۵۰) عن ابن عمر رض (متکو - ۲۸۶) (م - ۲۱۵۱) عن عائشة رض (متکو - ۲۲۲)

دیکھو حدیث ۲۸۶ ملکہ دیکھو حدیث ۲۲۲ ملکہ

(۱۸۵) عن ابن عمر رض قال لکنا نتحدث بحجة الوداع والنبی صلی اللہ

ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم بین أظهرنا ولا تذرنی ما حجة الوداع فحمد الله وأثنی علیہ

ہم میں موجود تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کا کیا مطلب ہے اور آپ نے اللہ کی تعریف اور ثناء بیان

ثم ذکر الیسیم الذجال فأطرب فی ذکرہ وقال ما بعث الله من نبی الا أندر

کی پھر سب وہال کا ذکر کیا اور اس کا لہذا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے اپنی

أمتہ أندرہ نوحہ والذئیون من بعدہ ورائہ یخرج فیکو فمما حفری

امت کو فرمایا حضرت نوح نے اپنی امت کو فرمایا اور ان کے بعد نبیوں نے بھی اور وہ تم میں خرچ کرے گا سو اگر اس کی کو حالت تم پر

علیکم کو من شانہ فلیس یغنی علیکم ان ربکم لیس علی ما یغنی علیکم

غنی بھی رہے تو یہ تم پر پوشیدہ نہ رہے گا کہ تمہارا رب تم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا

ثلثان ربکم لیس باعور ورائہ أعور عین الیمنی کان عینہ عنبة طافیہ

تین مرتبہ فرمایا تمہارا رب کا نام نہیں ہے اور اس کی داہنی آنکھ کافی ہے اس کی آنکھ گویا کہ آنکھ کا پھولا ہوا دانہ ہے

الان الله حرم علیکم دماءکم وأموالکم حرمہ یومکم هذا فی

خوب یا دیکھو کہ اللہ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال حرام کر دیے ہیں جیسی تمہاری اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں

یکدم هذا فی شہرکم هذا الأهل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهدت لثنا

اس زمین میں ہے دیکھو کہ میں نے بات پہنچی وہی انوکھ کہاں فرمایا ہے اللہ گواہ رہ تین مرتبہ

وعلیکم أو ذبحکم انظر واکال ترجعوا بعد کفاراً یضرب بعصمکم رقاب بعض

ہائے انوس دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں ماریں گے

قائما من واما الباب فقلت له ابن صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلیا بین ذینک العمودین المقدمین وكان البيت علی استة اعمرة
 سطرین رخا دکھی پچھ ستونوں پر پتھا جو وقتا دروں میں تھے یعنی تین ستون فی تقاریر صلیا بین العمودین من السطر المقدم وجعل باب البيت
 خلف ظہرہ واستقبل بوجه الذی يستقبلک حين تلج البيت بیدنہ و بین الحد او قال ونسبت ان أسالہ کہ صلیا وعند المكان الذی صلیا
 فیہ مہرۃ حمراء من حدیث کے حجۃ الوداع کے باب میں لانے کی ظاہر وہ کوئی نہیں۔ کیونکہ اس میں عات طور پر مذکور ہے کہ یہ واقعہ عام الفتح کا ہے یعنی
 آٹھویں سال ہجرت کا۔ صلیا ملتے جلتے الفاظ میں روایت کو دہرایا ہے۔ ان صفیہ بنت حنیٰ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے
 حجۃ الوداع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احما استناھی فقلت انھا قد افاضت یا رسول اللہ وطافت بالبيت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فلذکرہ ملکہ ابن عمر کہتے ہیں کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے اور باوجود اس کے کہ اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا تھا اور ہم اس کا ذکر
 حجۃ الوداع کے نام سے ہی کرتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا مطلب میں سمجھ نہ آیا۔ جب آپ نے وفات پائی تو معلوم ہوا کہ اس کا نام
 حجۃ الوداع کیوں رکھا گیا اس کے بعد اس خطبے کا ذکر ہے جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا۔ اس میں اول وہال کا ذکر ہے۔ فتح اباری میں ہے کہ یہ صرف
 حضرت ابن عمر کی روایت میں ہی ہے۔ اور صحابہ کی جتنی روایات ہیں ان میں وہال کا ذکر نہیں۔ وہال کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا۔ اور اس بات کا
 بھی کہ اس کی داہنی آنکھ کے کاٹا ہونے سے کیا مراد ہے۔ وہال کے بعد مسلمانوں کے مالوں اور جانوں کی حرمت کا ذکر ہے اور اس پر سب
 احادیث کا اتفاق ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں بالخصوص نصیحت فرمائی تھی۔ اور آخر فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کو ہی مار کر فرزند
 بن جانا۔ یہاں کا فرق لفظ سخت تنبیہ کے لئے استعمال فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں ہے۔ ان طائفتین من المؤمنین اقتتلوا یعنی
 دو باہم جنگ کرنے والے گرد ہوں کہ مومن قرار دیا ہے۔ گویا باہم لڑتے رہنا کافروں کا کام ہے۔ تم نے یہ کام اختیار نہ کرنا۔ دیکھو یا دیکھو
 کا لفظ جتا ہے کہ آپ کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں تو تباہ ہوں گے

(م- ۲۱۵۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ (متکرر- ۱۷۴۵) (م- ۲۱۵۳) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۷۴۵

جَرِيْرَةَ (متکرر- ۱۰۶) (م- ۲۱۵۳) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متکرر- ۶۲)

دیکھو حدیث ۱۰۶

دیکھو حدیث ۶۲

(م- ۲۱۵۴) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (متکرر- ۴۱) (م- ۲۱۵۴) عَنْ

دیکھو حدیث ۴۱

عَائِشَةَ (متکرر- ۸۳۳) (م- ۲۱۵۴) عَنْ طَارِقِ بْنِ سَعْدٍ (متکرر- ۶۹۵)

دیکھو حدیث ۸۳۳

دیکھو حدیث ۶۹۵

(م- ۲۱۵۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر- ۹۰۱) (م- ۲۱۵۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر- ۹۰۱)

دیکھو حدیث ۹۰۱

دیکھو حدیث ۹۰۱

(م- ۲۱۵۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر- ۶۹) (م- ۲۱۵۷) عَنْ عُرْوَةَ (متکرر- ۸۸۱)

دیکھو حدیث ۶۹

دیکھو حدیث ۸۸۱

۱۷۴۵
۱۰۶
۴۱
۸۳۳
۶۹۵
۹۰۱
۶۹
۸۸۱
عمرت آپ کے غزوات کی تعداد کا ذکر ہے یہاں اس مضمون کو مختصر کر کے آپ کے حج کا ذکر رکھا گیا ہے ان انبیہ صلا اللہ علیہ وسلم غزواتہ عشوۃ غزوۃ و انہ حجین لہاجر حجۃ واحد قلم یحجب بعد ہا حجۃ الوداع قال ابو

اسلمتی وبعکۃ اُخری۔ آخریوں الفاظ رکھائے ہیں قال ابو اسلمتی وبعکۃ اُخری یعنی کہ میں بھی آپ نے ایک حج کیا تھا۔ تو اس کا منشا یہ نہیں ہو سکا کہ ایک ہی حج کہ میں کیا تھا کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر اب حج کرتے رہتے تھے۔ بلکہ فریاً ایک ہی لفظ میں یہ لفظ میاں ابتدا میں کچھ مضمون زیادہ ہے۔ عن النبی صلا اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار کھیتہ یوم خلق السموات والارض السنۃ اثنا عشر اشہراً ہنہا اربعۃ حرم ثلاثہ متوالیات ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والحرم مضوی الذی بین جمادی و شعبان اقی شہر ہذا اقلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیمیمہ بغیر اسمہ قال البین ذوالحجۃ قلنا بلی قال فای بلد ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیمیمہ بغیر اسمہ قال النبی البیلاۃ قلنا بلی قال فای یوم ہذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیمیمہ بغیر اسمہ قال النبی یوم النحر قلنا بلی قال فان دماؤکم وامواتکم قال محمد و احسبہ قال واعراضکم علیکم حرام حکومت یومکم ہذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا و استلقون ربکم فسیساکم عن اعماکم الا فلا ترجعوا بعکم صلاً لا یضرب بضعکم ذاب بعض الالیبیلع الشاہد الخائب فلعل بعض من یبیلعہ ان یکون او سخی لہ من بعض من سمعہ فکان محمد اذا ذکرہ یقول صدق محمد صلا اللہ علیہ وسلم ثم قال الاہل بلقت مرتین۔ ابتدائی حصہ و شعبان تک یہاں زیادہ ہے الزمان قد استدار ما نہ کھوم کر گیا ہے جس طرح اس نے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں چار ماہ حرمت کے قرار دیئے گئے تھے اب پھر اسی کے مطابق حکم دیا جاتا ہے۔ مشرکین عرب حرمت کے چار میمنوں کو اپنی اغراض کے لئے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے تو اسے آئندہ کیلئے منع کر دیا گیا۔ اور ان چار حرمت کے میمنوں کا صاف ذکر کر دیا گیا تین ماہ یعنی ذیقعد ذی الحج اور حرم اکٹھے ہیں اور رجب علیحدہ۔ جمادی اور شعبان کے درمیان اور اسے رجب مفر اس لئے کہ مفر قبیہ کے لوگ اس کی حرمت کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ بلکہ یہاں لفظ یوں ہیں۔ ان اناسا من الیہود قالوا لوزلت ہذا الایۃ فینا لاختنا ذالک الیوم عیدنا فقال جبرائیل فقالوا الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی فقال عمرانی کا علم ان مکان انزلت اور رسول اللہ صلعم واقع عرفۃ حجۃ الوداع کے متعلق ہی یہ واقعہ ہے جیسا کہ عرفہ کے لفظ سے ظاہر ہے۔ کیونکہ آپ نے میں سے ایک ہی حج کیا۔ یہاں لفظ خفیف سے تفسیر وہی لفظ آئے ہیں۔ خرچہ ماہ رسول اللہ صلعم فینا من اہل بصرہ و منا من اہل حجۃ و منا من اہل بصرہ و اہل رسول اللہ صلعم بالجہا ما من اہل بالچ و اجمع الحجۃ و العمرۃ فلم یخلوا حتی یوم النحر۔ عام حجۃ الوداع کے لفظ جو ابتدا میں یہاں پھیر دیئے ہیں ان کو دوسری روایت سے آخری بیان کیا ہے قال عمر رسول اللہ صلعم فی حجۃ الوداع۔ بلکہ بہت خفیف اختلاف لفظی سے حدیث کو دوہرایا ہے جس کا اثر میں پر کچھ نیچے جتنی ماجعل فی فی امراتک کی جگہ ہے۔ حتی الملقنۃ تجعلہا فی فی امراتک اس میں ذکر ہے کہ حجۃ الوداع میں سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تو آنحضرت صلعم ان کی خبر گیری کیلئے تشریف لے گئے اور جگہ کل مال کی وصیت کے ایک ٹکٹ کی وصیت کی ہدایت فرمائی۔ بلکہ یہاں حجۃ الوداع کا بالتشریح ذکر ہو کر مختصر ہے۔ ان رسول اللہ صلعم حجۃ الوداع فی حجۃ الوداع۔ بلکہ اسکے لفظ صلعم کے ہیں مگر فی حجۃ الوداع کی تشریح یہاں بھی ہے۔ طائفۃ کی جگہ لفظ اناس ہے۔ بلکہ یہاں کچھ اختصار سے کام لیا ہے۔ مگر فی حجۃ الوداع کی تفصیل رکھنا ہی ہے۔ انہ اقبل سید علی حمار و رسول اللہ صلعم علیہ سلم قائم یعنی فی حجۃ الوداع یصل بالناس فسار الحدادین علی بعض الصفت ثم نزل عنہ فصعب مع الناس۔ بلکہ مکرر روایت میں اختصار ہے۔ سنل اسامۃ وانا شاہد عن سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فقال لعنہ فاذا وجد فحجۃ نض۔ اصل حدیث میں حجۃ الوداع کا لفظ ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو اصل حدیث اور نوٹ ص ۸۴

(م- ۲۱۵۸) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (مترجم ۶۸۳ م، ۸۰) بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ

دیکھو حدیث م ۶۸۳ بابت تبوک کا غزوہ ص ۱ اور ہی

غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ (۱۸۵) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أُرْسِلُنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

غزوۃ العسرہ سے ص ۱ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْخِمْلَانَ لَهْمُ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشٍ لِعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ

کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سے ان کیسے سواریاں مانگوں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں العسرہ میں تھے اور یہ غزوہ

تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ أُرْسِلُونِي إِلَيْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَأَنْتَ الَّذِي

تبوک تمہاریں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں کوئی سواری دیں فرمایا اللہ کی قسم

لَا أَجْمَلُكَ عَلَى شَيْءٍ وَوَأَفْقَتُهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَسْتَعْرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا

میں تم کو کوئی سواری نہیں دے سکتا اور میں ایسے وقت آپ کے ملا تھا جب آپ ناراض تھے اور مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا اور میں گھبراہٹ میں آیا

مِنْ مَنْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى

اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نہ دی اور اس لئے بھی کہ مجھے ڈرتھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَنِي نَفْسِي عَلَى فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتَهُمُ الَّذِي

اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوئے ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا اور ان کو خبر دی جو

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَبْتِ إِلَّا سَوِيحَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَا أَيْتَادِي

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تھوڑا ہی ٹھہرا ہوں گا کہ میں نے بلال کی آواز سنی کہ وہ دیکھ رہے ہیں

أَيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے عبد اللہ بن قیس میں نے ان کو جواب دیا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو کیا فرماتے

يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرَيْنَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرَيْنَيْنِ لِسِتَّةِ

ہیں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا یہ دو اونٹ کا جوڑا لے اور یہ دو اونٹ کا جوڑا لے سے چھ اونٹوں

الْبَعْرَةِ ابْتِاعْتُهُنَّ جَيْنِزٍ مِنْ سَعْدٍ فَأُطْلِقَ بَيْنَهُنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْتُ إِنْ

کے متعلق رکھ کر بنی سعاد سے خریدتا تھا اور فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے جا اور کدے کر اشرے

اللَّهُ أَوْ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوَاكُمُ فَارْكَبُوهُمْ

یا نسرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ اونٹ سواری کیلئے دیتے ہیں اور تم ان پر سوار ہوجاؤ

فَأُطْلِقَتْ إِلَيْهِمْ بَيْنَهُنَّ فَقُلْتُ إِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوَاكُمُ

میں ان کے پاس وہ اونٹ لے گیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہ سواری کیلئے دیتے ہیں

یَسْتَعِينُكُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ تَقِي كَيْفَ تَخَافُ تَقِي - أَيْ كَيْفَ

سخت گری کا تھا اور جو کہ یہ قحط کے ایام تھے تیسرے سفر بہت لمبا تھا چوتھے پانی اور رسد کی قلت تھی اور لشکر کیلئے سواریوں کا انتظام بھی ناکافی تھا +

۶۸۳ م حضرت ابو ایوب کی حدیث ہے جمع صلوٰتین کے متعلق ہے اور ۶۸۳ م جس کی مکرر روایات سے تزاروایا گیا ہے حضرت ابن عمر کی حدیث ہے یہاں بھی روایت ابو ایوب کی ہے اور لفظ یوں ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا - ص ۱ تبوک ایک مقام ہے جو حجر اور شام کے درمیان ہے مدینہ سے یہ چودہ منزل کے فاصلہ پر ہے اور دمشق اس سے آگے گیارہ منزل پر ہے - اور یہ نام ایک چشمے کے نام پر ہے جو اس مقام پر ہے صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت

صلعم نے فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے۔ تو جب تم وہاں پہنچو تو کوئی اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ جاؤں غزوہ تبوک نبی کریم صلعم کا آخری غزوہ ہے۔ اور ابن سعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لئے جب سفرت ہجری میں جمعات کے دن نکلے اور اسکی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ روم نے شام میں ایک بڑی بھاری جمیعت اکٹھی کی ہے اور ہر قہقہے نے ایک سال کیلئے اس لشکر کا سامان جمع کر لیا ہے اور اسکے ساتھ عرب کے قبیلے خزرج اور جذام اور عامارہ و رھقان مل گئے ہیں اور کہ ان کے لشکر کا مقدمہ بقلار تک پہنچ گیا ہے تو آپ نے لوگوں کو نکلنے کیلئے حکم دیا اور جگہ کا بھی پتہ دے دیا تاکہ اس لیے سفر کے مطابق سب لوگ تیاری کر لیں اور یہ سخت گرمی کا موسم تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اس جنگ میں نہ نکلے مگر پھر نبی کریم صلعم کے ساتھ تیس ہزار صحابہ کا لشکر تھا جس میں دس ہزار سوار تھے۔ آپ نے ہاں میں ان ٹھہرے ہے مگر چونکہ دشمن کا لشکر سامنے نہیں آیا اسلئے آپ نے بھی جنگ کی ابتدا نہ کی بلکہ اسے غزوۃ العسرہ کہا جاتا ہے یعنی تنگ کا غزوہ۔ قرآن کریم میں اسی کے متعلق ہے الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ یعنی کئی لحاظ سے تھی۔ ایک کیم سخت گرمی کا تھا اور جو کہ یہ قحط کے ایام تھے تیسرے سفر بہت لمبا تھا چوتھے پانی اور رسد کی قلت تھی اور لشکر کیلئے سواریوں کا انتظام بھی ناکافی تھا +

وَالْكَبْرِ وَاللَّهِ لَا أَدْعُهُ حَتَّىٰ يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ مَنْ سَمِعَ مَقَالََةَ رَسُولِ اللَّهِ

مگر اس کی قسم میں تم کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ ان لوگوں کے پاس نہ جائے جنہوں نے رسول اللہ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ حَتَّىٰ تَكُونَ شِيَاكُمْ يَقُولُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تھا تاکہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تم سے کوئی ایسی بات بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنْ آتَاكَ عِنْدَنَا الْمَصْدُوقُ وَلِنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَا نَطْلُقْ أَبُو

موسٰی نے نہیں فرمائی انہوں نے کہا آپ ہمارے نزدیک سچے ہیں اور ہم اسی طرح کریں گے جس طرح تم چاہتے ہو تو ابو موسٰی ان

موسٰی بْنَ قَعْبَةَ لَهُمْ حَتَّىٰ آتَا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں سے جدا آدمیوں کو کبیر گئے یہاں تک کہ ان کے پاس گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تھا

مَنْعَهُمْ إِيَّاكُمْ ثُمَّ إِعْطَاهُمْ بَعْدَ فُجْدٍ ثُمَّ هَدَّ بِسَيْلٍ فَأَحَدَ تَهْمًا بِأَبِي مُوسَى

کہ آپ نے انکو دینے سے انکار کیا اور پھر بعد میں نے بھی دیے تو انہوں نے بھی ان سے وہی بات بیان کی جو ابو موسٰی نے بیان کی تھی

(۱۸۵۸) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىٰ تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ

سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے اور حضرت علی کو

عَلِيًّا فَقَالَ خَلْفِي فِي الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ لَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ

جانشین بنانا تو عرض کیا کہ کیا آپ مجھے غزواتوں اور جنگوں میں بھیجے چھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری مح

هُرُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيِّ بَعْدِي - ۱۸۵۹ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي

سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی ہاں پر بھیجے اور کبیر بعد کو نبی نہیں ملے دیکھو حدیث

(۱۱۰۲) (۸۱) بِأَبِي كَعْبٍ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَىٰ لثَلَاثَةِ

۱۱۰۲ علیؑ بابک کعب بن مالک کا نقل اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وعلى الثلثة الذين

الَّذِينَ خَلَفُوا (۱۸۵۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ

خلفوا علیؑ (التوبہ - ۱۱۰) عبد اللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے اور یہ کعب کے بیٹوں میں سے

مَنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ

کعب کی رہنمائی کیا کرتے تھے جب وہ نابینا ہو گئے کہ میں نے کعب بن مالک کو سنا کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا قصہ

قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

بیان کرتے تھے کعب نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

عَزْوَةٌ عَنَّا إِيَّاكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَزْوَةٌ عَزْوَةٌ عَزْوَةٌ عَزْوَةٌ عَزْوَةٌ عَزْوَةٌ

میں جو آپ نے کہا مجھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے البتہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا مگر اللہ نے

علاء بن جسر نے حضرت موسیٰ کو طہر پر جانا پڑا تو وہ حضرت ہارون کو غلیف بنا کے اسی طرح میں تم کو تبوک کی غیر حاضری میں اپنا جانشین بنا دیا ہوں گے یہ خلافت صرف امارت کے لئے ہے ہزت کیلئے نہیں اس لئے کہ میرے مشورہ ہونے کے بعد کوئی شخص اب نبی نہیں ہو سکتا۔
ابن جسر سے آخر تک چھوڑ دیا ہے باقی کو خفیف کی بجائی سے بیان کیا ہے۔ قال غزوات مع النبي صلعم العسوة قال كان يعطى يقول تلك الغزوة اوثق اعطاني عندئذ عطاء فقال صفوة قال يعطى فكان لي احياء فكانت انشاها بفضلها بدا الاخر قال اعطاه فاعدت اخره

صفوان ایہما عضل باخر ففسدته قال فان تدرع العضض يدك من في العاص فان تدرع احدك تبتديه فانها النبي صلعم فاهد رتبته قال عطاء وحسب انه قال قال النبي صلعم اريد يدك فيك تقضها كما تهاق في غلي يقضها معك كعب بن مالك اور بلال بن اميه اور مرارة بن بريح سلمانوں میں سے تین آدمی تھے جو غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے۔ ان کا ذکر آیت ہو تو فریب ہے بيفصل ذكر حديث باب میں ہے وبلکہ یہ صرف کعب کی خیال ہے قرآن کریم کی مزین شہادت اسکے خلاف ہے جہاں فرمایا واذ بعثناكم الله احبا الطائفتين یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ وعدہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کا مقابلہ ہوگا البتہ بعض مسلمان یہ چاہتے تھے کہ خدا کا فضل ہاتھ آجائے اور بلکہ سے متاثر نہ ہو تو دونوں ان غزوات الشوكة تکون لکم مگر ارادہ الہی ہی تھا اور یقیناً یہ رسول اللہ صلعم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ان کے شکر سے مقابلہ ہو کر قطعی فیصلہ ہو اور ان کے بڑے بڑے سردار تباہ ہو کر انہوں کی قوت کا خاتمہ ہو جائے وبقسط وابلو الکافرین۔

۱۔ یہ بیعت عقبہ
 ثانیہ کا ذکر ہے
 جہاں انصار نے
 آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے ساتھ
 عہد و پیمان کیا تھا
 کہ وہ آپ کی صفات
 اسی طرح کریں گے
 جس طرح اپنے پوی
 بچوں کی حفاظت
 کرتے ہیں۔ گویا
 نبیاد جنگ کی اسی
 دن رکھی گئی اس
 لئے کعب کہتے
 ہیں کہ وہ بدر میں
 حاضری سے کم
 نہیں مگر یہ ان کا
 اپنا خیال ہے۔
 ۲۔ بظاہر یہ بیعت
 معلوم نہیں ہوتا کہ
 ہر غزوہ کے مقام کو
 آپ بھی لکھتے تھے۔
 صرف فتح مکہ کے وقت
 تھا ہر مہینہ ہونے لیا
 گیا یا لیکن ہر کسی
 اور غزوہ میں بھی
 ایسا ہوا ہوتا وہی
 تو یہ ہے
 جسکے معنی ہیں ایسے
 لفظ سے مقام کو
 ظاہر کرنا کہ جسکے
 وہ مفہوم ہوں گے
 تو بعض وقت
 جنگی مصلحت
 کے لئے ایسا
 کرنے میں ہرج
 نہیں۔ اور اس
 میں جھوٹ قطعاً
 نہیں۔

حَتَّىٰ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ وَقَدْ شَهِدَتْ مَعَ رَسُولِ

یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو کسی وعدہ کے بغیر ایک دوسرے کے مقابل کرا دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْدَةَ الْعُقُوبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَىٰ الْأِسْلَامِ وَمَا أَحْبَبْتُ

عقبہ کی رات حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر عہد پیمان باندھا اور میں پسند نہیں

أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرًا أَذْكَرُ فِي لَدَائِسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَيْرِ بَرِيءٍ

کہتا کہ مجھے اس کے عوض بدر میں حاضری کا موقع ملنا اگر یہ بدر کی شہرت لوگوں میں اس سے زیادہ ہے ۱۔ میرا قصیدہ ہے

أَنْ لِي لَدَا كَنْ قَطْرٍ أَقْوَىٰ وَلَا أَسِيرٌ حِينَ تَخَلَّفَتْ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللَّهُ

کہ میں کبھی اتنا توانا اور دلدار نہ تھا جتنا اس وقت تھا جب میں آپ کے اس غزوہ میں پیچھے رہا اور اللہ کی قسم

مَا أَجْتَمَعْتُ عِنْدَ قَبْلِهِ رَاحِلَتَانِ قَطْرٌ حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَوْ كَيْنَ

اس سے پہلے میرے پاس کبھی دو اونٹنیاں اکٹھی نہیں ہوتیں اور اس غزوہ کے وقت میرے پاس دو اونٹنی تھیں اور رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَأَوْرَىٰ بَعْضُهَا حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ

کسی غزوہ کا ارادہ نہیں کرتے تھے مگر اسکو اس طرح چھپاتے تھے کہ لوگوں کو کسما و رقم

الْغَزْوَةِ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا

کا نیاں رہے ۱۔ یہاں تک کہ اس غزوہ کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شدت کی گرمی میں اختیار کیا اور وہود کے سفر

بَعِيدًا وَمَغَازٍ أَوْ عَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلِيَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ لِيَتَاهَبُوا أَهْبَةَ غَزْوَةٍ

اور غیر آباد جگہ اور بے شمار دشمن کا سامنا تھا تو کھل کر مسلمانوں کو ان کا کام بتا دیا تاکہ اپنے غزوہ کیلئے پوری تیاری کریں

فَاخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سلمان کو اپنا رخ جس کا ارادہ کرنا چاہتے تھے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بہت تھے

وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يَرِيدُ الدِّيَانَ قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجَلُ

اور کسی محفوظ رکھنے والی کتاب میں انکے نام اکٹھے نہیں تھے یعنی کسی رجسٹر میں درج نہ تھے کوئی کہا اور کوئی بھی نہیں

يُرِيدُ أَنْ يُتَغَيَّبَ الْأَخْلَاقُ أَنْ يَسْتَفْهَمَ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلُ فِيهِ وَرَحَىٰ اللَّهُ وَغَزَا رَسُولُ

غائب ہونا چاہتا تھا تو وہ یہ خیال کرتا تھا کہ علم کسی کو نہیں ہوگا جب تک اس کے بارہ میں کوئی وحی نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظَّلَالُ وَتَجَمَّسَ

یہ غزوہ اس وقت کیا کہ میوہ پک گیا تھا اور سایہ اچھا لگتا تھا اور رسول

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقَتْ أَخْدُ وَالْكِي أَجْمَعُ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی اور یہ بھی ہرج ہرج اٹھا کہ ان کے ساتھ تیاری کریں

مَعَهُمْ فَارْجِعْ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَىٰ

اور پھر واپس آجاتا اور کوئی کام پورا نہ کیا ہوتا اور میں ہوں میں کہتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو اسی طرح دن گزرتے رہے

بِي حَتَّىٰ اسْتَدْرَأَ النَّاسُ لِحُدُودِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ

یہاں تک کہ لوگوں نے کوشش میں تکلیف اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح نکلے

مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَارِزِي شَيْئًا فَفَلَّتْ أَجْمَعُ بَعْدَ كَابِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَحْمَمُ

اور میں نے ابھی کچھ تیاری نہیں کی تھی تو میں نے کہا آپ کے بعد ایک دو دن میں تیاری کر لوں گا پھر ان تک پہنچ جاؤں گا

فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ نَفَضُوا الْأَجْمَعُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَلَبَتْ

ان کے روانہ ہونے کے بعد میں نے صبح کو جا بکرتیاری کر لوں تو میں واپس ہوا اور کوئی بھی تیاری نہ کی پھر صبح کو چلا

ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا لَمْ يَنْزِلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَّ أَنْ

پھر میں لوٹا اور کوئی کام بھی پورا نہ کیا میں برابر اسی طرح رہا یہاں تک کہ لوگ جلدی کرتے ہوئے نکل گئے اور غزوہ میرے پاس سے نکل

أَرْجُلُ فَأَدْرَكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ كَمَا يَقْدِرُ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا أُخْرِجْتُ فِي النَّاسِ

گیا اور میں نے کوئی بارم قصد کیا کہ میں بھی راجت ہو جاؤں اور ان سے مل جاؤں اور کاش میں دیکھتا کہ تاگر میرے لئے مقدر ہوتا تو جب میں سولہ

بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَقْتُ فِيهِمْ أَحْرَنِي أَيْ كَلَّ أَرْبَعِ

صائم کے تشریف لیا جانے کے بعد لوگوں میں نکلتا اور ان میں پھرتا تو مجھے رنج ہوتا کہ میں صرف ان لوگوں کو دیکھتا

إِلَّا رَجُلًا مَعْتَصِمًا عَلَيْهِ الْتِفَافٌ أَوْ رَجُلًا مِنْ عَدْرِ اللَّهِ مِنَ الضَّعْفَاءِ وَلَمْ

جو کوئی تو ایسا شخص تھا کہ وہ تفاق سے معصوم تھا اور کوئی ایسا شخص تھا جسے ضعفا میں سے ہونے کی وجہ سے اللہ نے معذور

يَذْكُرُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهَجَا لِسِي فِي

بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ جو تک پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا اور آپ لوگوں میں بڑھ

الْقَوْمِ بِتَبُوكِ مَا فَعَلَ كَعَبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَيْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ

میں بیٹھے ہوئے تھے کعب کو کیا ہوا تو بنی سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اسے اس کی دو چادروں

بَرْدَاةٍ وَنَظَرَهُ فَعَضَّ عَضْفَهُ فَقَالَ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَسَّ مَا قُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور اپنی طرف دیکھنے کے روک لیا جملہ معاذ بن جبل نے کہا تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ اللہ کی قسم

مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعْبُ بْنُ جَبَلٍ

ہم تو اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کعب بن جابل نے کہا

فَلَمَّا سَلَفْنَا أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَائِلًا لِحَضْرَتِي هَيْمَى وَطَفِقْتُ أَتِدُّ كُرَّ الْكُزْبِ وَأَقُولُ

جب مجھے خبر پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میرا علم تازہ ہو گیا اور مجھ کو خیالات میرے دل میں آئے لگے اور میں کہتا

بِإِذَا أُخْرِجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا أَوْ اسْتَعْنَتْ عَلَيَّ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِّنْ أَهْلِي

تھا کہ کس بات سے میں کل آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اس کے لئے میں نے اپنے گھر والوں کے سب اہل الرائے سے مدد طلب

فَلَمَّا قَبِلَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَطْلَقَ قَادِمًا زَاغَ عَيْنِي لِإِبْطَالِ

کی جب یہ کہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی ولے ہیں تو باطل (خیالات) مجھ سے دور ہو گئے

وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أُخْرِجَ مِنْهُ أَبَدًا شَيْءٌ فِيهِ كِبْرٌ فَاجْمَعْتُ صَدَقَةً وَأَصْبَحُ

اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی بھی ایسی بات سے نہیں بچ سکتا جس میں جھوٹ ہو مگر میں نے آپ کے لئے کما

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِي بَدَأَ بِالسَّجْدِ

پختہ ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آپ جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے

فَيُرَكِّعُ فِيهِمْ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْخَلْقُونَ

اور اس میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے پھر لوگوں سے ملنے کے لئے بیٹھ جاتے سوجب آئے ایسا کیا تو جو مجھے رہ گئے تھے آگے پاس آئے

فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَانِيَةً وَمَا لِيَعْمَرُوا وَاسْتَعْمَرَهُمْ

تو جو انہوں نے ظاہر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مان لیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے مسخرفت کی

وَوَكَّلَ سِرًّا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَخِئْتُهُ فَلَمَّا سَلِمْتُ عَلَيْهِ تَكْتُمُ تَكْتُمُ الْمَغْضُوبِ

دعا کی اور ان کی مخفی باتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا میں بھی آپ کے پاس آیا جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ مسکرائے جھڑپے والے مسکرائے

۱۰
دو چادروں سے
مراو لباس کی
زمینت اور نظریہ
فی عطفہ سے
مراپے غرور یا
فخر یا اپنا حسن و
جمال
۱۱
یہی طریق سخن
ہے کہ اپنے بھائی
کی کمزوری پر پورے
ڈالا جائے
۱۲
یہی یون اور
منافق میں فرق
تھا

ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْتِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَفَكَ أَمْ لَمْ تَكُنْ

پھر میرا آؤ میں بیان ہوا کرتے آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اپنے فریاد میں کہ میں نے کچھ رکھا کہ تم نے

قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَىٰ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ خَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ

سواری نہیں خریدی تھی ہاں نے عرض کیا ہاں (خریدی تھی) اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دیکھتا ہوں کہ پاس بیٹھا ہوتا

الدُّنْيَا لَكُرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بَعْدَ رَوْكَةٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدًّا وَلَكِنِّي

تو میں یقین کرتا کہ میں اس کے غصے سے عذر بنا کر نکال جاؤں گا اور مجھے قوت استہلال دی گئی ہے

وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ أَلْيَوْمَ حَدِيثٍ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي لَيُوشِكُنَّ

اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں آپ سے بھولتی بات کہوں جس سے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو قریب ہے

اللَّهُ أَنْ يَسْخَطَكَ عَلَيَّ وَلَكِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صَدَقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ رَأْيِي

کہ اللہ ضرور آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا اور اگر میں آپ سے سچ بولوں جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میں اس

لَا رَجُوفِيهِ عَفْوُ اللَّهِ وَلَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَتَوَىٰ وَ

اللہ کے غصے کی امید لگتا ہوں نہیں اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور

كَأَسِيرٍ مَهْمِي حِينَ تَخَلَّفْتَ عَنكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَاهِدَا

ملا رہا تھی نہ تھا جتنا اس وقت تھا کہ جب میں آپ سے بچنے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو

فَقَدْ صَدَقَ فَمَنْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ فَقَمْتُ وَتَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ

تو اٹھ جا یہاں تک کہ اللہ شہید کرے یا میں فیصد کرے پس اٹھ آیا اور بنی سلمہ کے چند آدمی بھی اٹھے

فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذُنُوبًا قَبْلَ هَذَا وَقَدْ

اور میرے پیچھے آئے انہوں نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم میں تو کوئی علم نہیں کرتے اس سے پہلے بھی کوئی قصور کیا ہو اور تم

عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ عَدُوًّا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَّا

عاجز ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عذر نہ کیا جیسا

اعْتَدَرُ رَأْيِيهِ الْمَتَخَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَأَفِيكَ ذُنُوبِكَ اسْتَعْفَا رَسُولُ اللَّهِ

آپ سے انہوں نے عذر کیا جو پیچھے رہ گئے تھے تمہارے منہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و مغفرت تمہارے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَوْبُوؤُنِي حَتَّى أُرَدُّ أَنْ أَرْجِعَ

اللہ کی قسم وہ برابر مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ لوٹ کر

فَأَكْذِبُ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ قَالُوا نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا

جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلاؤں پھر میں نے کہا کیا کسی اور کو بھی میرے ساتھ آیا معاملہ پیش آیا ہے یعنی اور کسی نے قصور کا اقرار کیا ہے

مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتَ مِنْ هُمَا قَالُوا أَمْرًا ابْنُ

انہوں نے کہا وہ آدمی بنی جنوں نے تمہاری طرح کہا ہے تو ان سے بھی ایسا ہی کہا گیا ہے حضرت تم سے کہا گیا کہ کیا وہ کون ہیں ان کو کون سے امر کا

الرَّبِيعِ الْعَبْرِيُّ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَارِقِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَدَقَيْنِ قَدْ

ربیع عبوی اور ہلال بن امیہ واقفی تو انہوں نے ایسے دو آدمیوں کا ذکر کیا جو نیک تھے اور

شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أَسْوَجَةٌ فَصَبَّيْتُ حِينَ ذَكَرُوا هُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

بدر میں شریک تھے ان میں سے کسی کا) نونہ تھا جس وقت انہوں نے ان دونوں کا ذکر مجھ سے کیا تو میں جلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہاتھ کر کے کی فاطمتہ کو دی یعنی ہم ہیں ان کو یہاں سے جو آپ سے پیچھے رہ گئے تھے

فَاَجْتَبَيْنَا النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَنَاهَى النَّبِيُّ

تو لوگ ہم سے ایک ہو گئے اور ہم سے بدل گئے یہاں تک کہ زمین مجھے ادھری معلوم ہونے لگی تو کیا کہی وہ زمین نہیں ہے

أَعْرَفْتُ فَلَيْتَنَّا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ كَيْدَةً فَمَا صَاحِبَ أَيْ فَاَسْتَكْنَا وَاقْعَدْنَا فِي

مجھے میں جانتا تھا اس حالت پر ہم بچاں رات رہے میرے دونوں ساتھی تو کمر ہو گئے اور اپنے گروں میں بیٹھ کر

بَيَّوْرَهُمَا بِيَكْيِيَانِ وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشْبَهَ الْقَوْمِ وَأَجَلُّهُمْ فَكُنْتُ أَحْرَجَ فَالْتَهَمَهُ

روتے تھے اور میں لوگوں میں جوان اور بناور آدمی تھا تو میں نکلتا اور مسلمانوں کے

الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكْلِمُنِي أَحَدٌ وَاللَّيْلِ

نمازیں مشرک پہناتا بازاروں میں پھرتا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا اور

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ کو سلام کرتا اور آپ نماز کے بعد بائیں مجلس میں ہوتے

فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَزَنَ شَفْتِيهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أَصْبِرُ قَرِيبًا

میں اپنے دل میں کہتا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بونٹ مجھے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہلائے یا نہیں پھر میں آپ کے قریب ہوں

مِنْهُ فَاسَارِقُهُ الْبَطْرُ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبِلُ إِلَيْهِ وَإِذَا التَفَتُ خَوْفًا

گرمنا نہ پڑھتا اور چوری سے آپ کو دیکھتا جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف متوجہ ہوتے اور جب میں آپ کی طرف

أَعْرِضُ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسُورَتِ

دیکھتا تو آپ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے جب لوگوں کی روگردانی کی یہ حالت میرے لئے لمبی ہو جاتی تو میں چلتا

جِدَارًا حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ

اور ابوقتادہ کے باغ کی دیوار کو پھانسا زیادہ میرے چچا کے بیٹے تھے اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے میں نے انکو

قَوْلًا لِلَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ أَسْتَدْرِكُ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ مَا أَحَبُّ

سلام کیا اللہ کی قسم انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابوقتادہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تمہیں علم ہے کہ میں اللہ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَسَلَّمْتُ فَعَدَّتْ لَهُ فَسَلَّمْتُ فَعَدَّتْ لَهُ فَسَلَّمْتُ لَهُ فَسَلَّمْتُ لَهُ فَقَالَ

اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں وہ چاہتا ہے میں نے پھر ان سے کہا اور انہیں اللہ کا واسطہ زیادہ چاہتا ہے میں پھر ان سے کہا اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ دَوَّلِيَّتٌ حَتَّى تَسُورَتِ الْجِدَارَ قَالَ

اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں لوٹا یہاں تک کہ دیوار بھیانک چلنے لگا

فَمَيِّتًا أَنَا أَقْبَضِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَبْطَلْتِي مِنْ أَبْطَالِ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ قَرْنٍ

میں کسی وقت مدینے کے بازار میں جا رہا تھا تو شام کے کسوں میں سے ایک کسان ملا جو ان میں سے

بِالطَّعَامِ بَدِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَيَّ كَمْ بِنِ مَالِكَ نَطْفِقُ النَّاسَ

تھا جو مدینے میں بھیجنے کے لئے امان لاتے تھے وہ کہہ رہا تھا کون مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے گا تو لوگ میری طرف

يَسْتَأْذِنُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَافَرَنِي دَفَعَهُ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ قَلْبِ عَمْسَانَ فَذَابَ فِيهِ أَمَّا

اشائے کرنے لگے جب وہ میرے پاس آیا تو مجھے ایک خط دیا جو عسسان کے بادشاہ کی طرف تھا انہیں تھا اما بعد

بَعْدَ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ يُدَارِهُوَانِ وَلَا

مجھے خبر پہنچی ہے کہ تمہارے آقائے تم سے بدسلوکی کی ہے اور اللہ نے تمہیں دولت کی جگہ نہیں رکھا اور نہ بخاری

مُضِيْعَةٌ وَالْحَيُّ بِنَاؤُاسِكَ فَقُلْتُ لِمَا قَرَأْتَهَا وَهَذَا الْيَضَاءُ مِنَ الْبَلَاءِ

کی جگہ ہائے پائس تو تم سے اچھا سو کر کے جب میں نے وہ پڑھا تو کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے

۱۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد کچھ دیر تک لوگوں میں بیٹھ کر ان کے حالات دریافت کرتے یا کوئی اور بات کرتے

۲۔ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے کہ میں نمازیں آپ کی طرف دیکھوں

فَتَبَيَّنْتُ بِهَا النَّوْزَ فَنَجَّرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا امْضَيْتُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ الْمُخْسِنِينَ

اسے تیریس نے تیز میں بھونک دیا اور اس میں جلا دیا۔ جب پچاس میں سے چالیس راتیں گزر گئیں

إِذْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ أُمَّرَأَتَكَ فَقُلْتُ أَطْلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا

آپ کو حکم دینے ہیں کہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہو میں نے پوچھا کہ اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں کہا نہیں

بَلْ عَزَّزْتُهَا وَأَلَا تَقْرَبُهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَا مَرَأِيَ الْحَقُّ

بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ اور میرے دونوں صاحبوں کو بھی یہی حکم بھیجا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا

يَا أَهْلِكَ فَتَنَكَّرُوا عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَتْ كَعَبْتُ فَجَاءَت

اپنے کہنے والوں کے پاس چل جاؤ اور لکے پاس ہر بیان تک کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے تک عیب نے کہا

أُمَّرَأَةً هَلَالَ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ

إِنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَارِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ لَكَ كَلِمَةٌ أَنْ أَخْذَمَهُ قَالَ

ہلال بن امیہ بوڑھا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے تو کیا آپ کلمہ دے سکتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کروں

لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرُبُكَ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا يَهْجُرُكَ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ مَا نَزَالَ

نہا یا نہیں البتہ وہ تمہارے پاس نہ آئے گا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لئے بل بھی نہیں سکتا اللہ کی قسم وہ تو صوب سے

يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ بِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ

یہ واقعہ ہوا ہے آج تک اور ہے مجھ سے بعض میرے گھروالوں نے کہا تم سب

أَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّرَأَتِكَ كَمَا أَدْبَتُ لِمَرْأَةٍ

کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت مانگو کہ تمہاری خدمت کرے جس طرح آپ نے ہلال بن امیہ

هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

کی بیوی کو اجازت دی کہ وہ ان کی خدمت کرے میں نے کہا میں اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَذُرِّي وَيَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

ہاگت اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ جب میں آپ سے اس بارہ میں اجازت مانگوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا

أَسْتَأْذِنُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّى كَمَلْتُ

فرمایا گئے اور میں جوان آدمی ہوں اس کے بعد میں دس راتیں رہا یہاں تک کہ ہجرتی

لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حَيْثُ نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا

پچاس راتیں ہجرتی ہوئیں جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات کر چکی حالتت کر دی تھی

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَّخْتُ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيْوتِنَا

جب میں نے پچاسویں رات کی صبح کی نماز پڑھی اور میں اپنے مکانوں میں سے کسی مکان کی چھت پر

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحِوَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ

بیٹھا ہوا تھا اس حالت پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میرا دل تنگ ہو رہا تھا اور میں مجھ

الْأَرْضُ بِمَا رَحِمْتَ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْقَى عَلَى جَبَلٍ سَلَجٍ بِأَخْلَى صَوْتِهِ

کا وجود رکھتا وہ ہونے کے تک کہ ہونے لگی تھی اتنے میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلع پہاڑ پر چڑھ کر کہنے لگا اے اللہ

و اتنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ایک طرف زندگی وہ پھر ہو رہی ہے دوسری طرف ایک باؤشاہ پلانا اور زہرا بیٹی اور غنایات کا وعدہ کرتا ہے مگر صحا یہ کا ایمان ایک پہاڑ کی طرح تھا اس خط کو بھی جلا دیا

يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ اَسْبِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَسٌ وَادَّنَ

اے کعب بن مالک خوش ہو جا گھماتوں سجدے میں گر پڑا اور میں نے یقین کر لیا کہ مصیبت دور ہوگئی اور رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَواتَهُ الْفَجْرَ فَذَهَبَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کی نیکیا اعلان کروایا اسوقت کہ آپ صبح کی نماز پڑھی تو

النَّاسُ يَبْشِرُونَ نَنَا وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مَبْشِرُونَ وَرَكُضَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسًا

میں خوشخبری دینے کے لئے نکلے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے چلے اور ایک شخص نے میری طرف گھوڑا

وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْمٍ فَأَدْرَفِي عَلَى جَبَلٍ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعُ مِنَ الْفَرَسِ

دوڑایا اور قبیلہ اسلم میں سے ایک نے دوڑنا شروع کیا تو وہ پہاڑ پر چڑھا اور آواز گھونٹے سے تیز زنا رفتی

فَكُنَّا جَائِعِينَ لَيْلِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يَبْشِرُنِي نَزَعْتُ لَهُ تَوْبَةً فَكَسَوْنَاهُ يَا هُمَا

جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی کہ مجھے بشارت دیتا ہے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اس کیسے اتار دیے

يَبْشِرَاهُ وَاللَّهُ مَا أَهْلَكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعْرَبْتُ تَوْبَتَيْنِ فَكَلِمَتُهُمَا

اور دونوں اس کو بنا بیٹھے اور اللہ کی قسم ان دونوں کے سوا اس دن میرے پاس اور کوئی کپڑا نہ تھا اور میں نے دو کپڑے مانگ کر اپنے

أَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَّا لِقَائِي النَّاسُ فَوَجَّاهُ فَجَاءَهُ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور لوگ گردہ در گردہ مجھ سے ہتے جاتے اور مجھے تعجبیت

يَا تَوْبَةً يَقُولُونَ لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ

توبہ کی تمنا رکھ باؤ بیٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے کو مارا کہ جو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی کعب نے کہا میں مسجد میں داخل ہوا

فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے آپ کے گرد لوگ تھے طاہر بن عبید اللہ اٹھے

ابن عبید اللہ مَهْرُولٌ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَاتَانِي وَاللَّهُ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ

دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی اللہ کی قسم ہمارے میں سے کوئی بھی شخص

الْمُهْجِرِينَ غَيْرُكَ وَلَا أَسْأَهَا لَطْمَةً قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلِمْتُ عَلَى رَسُولِ

میرے طرف نہیں اٹھا سوائے ان کے اور لطمہ کا یہ احسان میں بھی نہیں دیکھوں گا کعب نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْشِرُ وَجَّهًا

کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کے چہرہ خوشی کے عالمے

مِنَ الشُّرُورِ ابْشِرْ بِحَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ آمَنْ

چکا ہاتھا کہ سب نرسے جو تم پر گزرتے ہیں جو بے تباری ماں نے تمہیں بنا بہتر دن کی تمہیں بشارت ہو کعب نے کہا آمین

عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ

عزیز کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْهُ قِطْعَةً قَبِيْرًا كُنَّا

صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ روشن ہوجاتا گو یا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑہ ہے اور میں اس

لَعَرَفْتُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي

بات کو آپ میں سمجھ لیتے تھے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کی وجہ

أَنْ أَخْلَعَهُ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

سے لےنے مال سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دینے کیلئے ایک ہونا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَرَأَيْتُ أُمْسِكْ مِنْهُ

اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنا وہ حصہ رکھ

الَّذِي يُحِبُّ بَرِّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا مَا تَجَانَنِي بِالصَّدَقِ وَإِنَّ هُنَّ

لین ہوں جو خیر میں ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اور میری توبہ

تُؤْتِيَنِي أَنْ لَا أُحَدِّثَكَ إِلَّا صِدْقًا وَمَا بَقِيَتْ قَوْلَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

میں یہ بھی ہے کہ جب مجھ سے زبیر رہوں سچ بولوں گا اللہ کی قسم! اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے مسلمانوں سے کسی پر بھی اتنا

أَبْلَاةَ اللَّهِ فِي صَدَقِ الْحَدِيثِ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فضل نہیں کیا جتنا مجھ پر کیا ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں سچ بولا

وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَاَنِي مَا تَعَمَّدَتْ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ هَذَا الَّذِي لَا رَجُوعَ لِي فِيهِ لِيحْفَظَ اللَّهُ فِيمَا

آج تک میں نے قصداً جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے محفوظ رکھے گا

بَقِيَّتِي وَأَنْزَلَ اللَّهُ صَلَّى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ

اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تائب کیا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قَوْلَ اللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ

اللہ کے قول کو تو اہم الصادقین تک (التوبہ - ۱۱۹) اور اللہ کی قسم اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے اسلام کی

رِعْمَةً قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صَدَقِي لِرَسُولِ اللَّهِ

طرف ہدایت کی تمنا بڑا احسان مجھ پر بھی نہیں کیا کہ میرے دل میں اس کی بہت عظمت ہو جتنا یہ کہ میں نے رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبًا فَاهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا اور آپ سے جھوٹ نہیں بولا ورنہ میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ جس طرح وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے جھوٹ

اللَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ لَوْحِي شَهْرًا مَا قَالَ لَا حَيْدَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

بولا کہ یہ کہ اللہ نے ان کے بارے میں جنہوں نے جھوٹ بولا جس وقت وحی انہاری سخت ترین کہیں کہیں کی نسبت کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ

سَيَجْلِقُونَ يَا اللَّهُ لَكُمْ إِذَا الثَّقَلَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرْضَى عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

نے فرمایا وہ تمہارے لئے جب تم لوگ کراؤ اللہ کی قسم لکھا میں نے اللہ کے قول تک فان اللہ الخ اللہ فاسقوں کے گروہ سے خوش نہیں ہوتا

قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا نَخْلُقُنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرٍ أَوْلَيْتُكَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ رَسُولٌ

(التوبہ ۹۷) کہتے تھے کہ اور ہم تین آدمیوں کا فیصلہ ان لوگوں کے فیصلے سے چھین لیا تھا جن کے عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَلَقُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَخَفُّوا لَهُمْ وَأَرْجَأَ

تبول کر لئے تھے جب انہوں نے آپ سے قسم لکھا تو آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کیلئے دعا کی و اللہ تعالیٰ

رَسُولٌ لِّلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ فَبَدَّلَكَ قَالَ اللَّهُ

کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مقدمہ کو تاخیر میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں فیصلہ کر دیا

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَقُوا وَلَيْسَ لِي ذِكْرُ اللَّهِ بِمَا خَلَقْنَا عَنِ الْغُرُثَانِ

اور میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علی الثلثة الذمین خلقوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا زمین الذمین خلقوا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگو

هُوَ خَلَقَهُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَمْرًا كَمَنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَّ رَأْيِي فَقَبِلَ مِنْهُ

سے چھوڑ گئے تھے بلکہ ہمارے حکم میں وہ چھوڑ گئے اور ان کے فیصلے سے ہمارا فیصلہ چھین لیا ہے جنہوں نے آپ سے قسم لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذر کیا اور آپ

صلی

کس قدر زبردست ایمان اللہ پر ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں سارا مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کس قدر شفقت ہے کہ فرمایا کچھ مال سے دو اور کچھ اپنے گزارہ کے لئے رکھو۔

صلی

سچائی کے ساتھ یہ محبت صحابہ کے دلوں میں پیدا کرونا آنحضرت صلعم کی قوت قدسی کے کمال کو ظاہر کرتی ہے۔

(۸۲) بَابُ نَزْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْحِي (م - ۲۱۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م - ۳۰۳)		باب ۸۲ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر میں اترنا	
(م - ۲۱۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م - ۳۰۳) (۳۰۳) بَابُ (م - ۲۱۶۲) عَنْ الْمُعَيْزَةِ ابْنِ		دیکھو حدیث ۳۰۳ ۲۱۶۱ ۲۱۶۲	
شَعْبَةَ (م - ۱۵۲) (م - ۲۱۶۳) عَنْ أَبِي حَمِيمٍ (م - ۹۶) (م - ۲۱۶۴) عَنْ أَنَسِ		دیکھو حدیث ۱۵۲ ۲۱۶۳ ۲۱۶۴	
ابْنِ قَالِبٍ (م - ۱۳۰) (۸۴) بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَسْرِي		دیکھو حدیث ۱۳۰ ۸۴	
قَيْصَرِ (م - ۲۱۶۵) عَنْ ابْنِ عِيَّانٍ (م - ۵۹) (۱۸۶) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ		دیکھو حدیث ۱۸۶ ۲۱۶۵	
قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ		دیکھو حدیث ۱۸۶ ۲۱۶۵	
الْحَبْلِ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنَا مَعَ أَصْحَابِ الْحَبْلِ فَاقْتُلْ مَعَهُمْ قَالَ لَنَا بَلِّغْ		دیکھو حدیث ۱۸۶ ۲۱۶۵	
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَكَرُوا عَلَيْنَ بِبَيْتِ كَسْرِي		دیکھو حدیث ۱۸۶ ۲۱۶۵	

علاحدیث ج ۲
کتاب المغازی
۶۴
کتاب المغازی
۶۴

کی وجہ سے عربوں کو محفوظ رکھتے تھے، واسوع السیرحتی اجازا الوادی + اسل یہاں لفظیوں ہیں :- قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز علیکم الا الحجرا کلہا کلہا اولاد المعزین بین الکان تکونوا بالکین ان یصیبکم مثل ما اصابہم + مکما س باب کی حدیثیں غزوہ تبوک کے متعلق ہی ہیں +
۵۷ یہاں یہ لڑھا یا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے۔ لفظیوں ہیں :- ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبعض حاجتہ فقمت اسکب علیہ الماء لانه لامله الا قال فی غزوة تبوک فضل فضله وذهب یغسل ذراعیه فضاق علیہ کم الخیبة فاخرجهما من تحت جفینہ فغسلهما ثم مسح علی خفینہ +
۵۸ ۵۹ کا صرف ایک گلہ یہاں دوہرایا ہے، اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک حتی اذا انصرفنا علی الدنیتة قال لھذا طایبة وھذا احد جبل یحبنا وخیبنا + مک کی کچھ اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجعت من غزوة تبوک فین اصر المدینة فقال ان بالمدینة اقواما مسرتم مسددا فلما قطعتم وادنا الا کالوا معکم قالوا یا رسول اللہ ہم بالمدینة فقال ہم بالمدینة فجلسہم العزیز + ۵۸ کسوا ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور یہ کسر کے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسری پر ویز بن ہرہ بن نوشریاں تھا جسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اور قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور قیصرے مراد یاں ہرقل ہے۔ یہ خطوط جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام کیلئے تعداد میں چھپے تھے۔ صاحب بن ابی لبیعہ کو مقوقش شاہ مصر کی طرف بھیجا۔ اور شجاع بن وہب کو ملک عسنان کی طرف۔ اور وحید کلیبی کو ہرقل قیصر روم کی طرف۔ اور عمرو بن امیر کو نجاشی کی طرف۔ اور عبد اللہ بن ہذا ذکری کسری کی طرف اور سیلاب بن عمرو کو ہودہ بن عمرو الخثعمی کی طرف۔ یہ خطوط سنہ ہجری میں مدینہ سے واپسی کے بعد لکھے گئے۔ مگر امام بخاری نے ترتیب میں انہیں غزوہ تبوک کے بعد رکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطوط سنہ ہجری میں لکھے گئے مگر وہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ہرقل کی طرف جو خط لکھا گیا وہ صاف طور پر مذکور ہے کہ اس وقت پہنچا جب ابوسفیان مدینہ کی صبح کے بعد شام میں تھرا تھا فاتحہ کے ساتھ پہنچا ہوا تھا اور یہ سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔ ایسا ہی مقوقش شاہ مصر کی طرف سے جو تائف بھیجے گئے تھے ان میں دو لوشیاں بھی تھیں جن میں سے ایک یعنی ماریہ قطیر حرم نبوی میں داخل ہوئیں اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم آٹھ ماہ کی عمر کو پہنچا کہ سنہ ہجری میں فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ سب واقعات تاریخی صاف بتاتے ہیں کہ خطوط کا لکھا جانا سنہ ہجری کے آخر کا واقعہ ہے۔
۵۹ لفظ عربی ہے سوائے اس کے کہ بحث بکتاہہ رجال کی جگہ ہے بحث بکتاہہ الی کسری مع عبد اللہ بن حذافة السہمی۔ دیکھو نوٹ ۵۸ ص ۱۷۔ ابن اسحاق نے کسری واسے خط کا مقنون بالفاظ ذیل دیا ہے :- من محمد رسول اللہ الی کسری عظیم فار من سلام علیک من اقم اللہ والامن باللہ ورسولہ وھذا ان لا اذ الا اللہ وان محمد عبیدہ ورسولہ وادعواک بدعا یہ اللہ فانی انا رسول اللہ الی الناس کا ذہ لیرین و من کان حیوانا و حیق القول علی الکافرین اسم تسل فان ابیت فعدلیک اثم الحجوس +

(م- ۲۱۶۹) عن ابن عباس (متکثر) ۱۶۲۲ (م- ۲۱۶۰) عن ابن عباس (متکثر)

دیکھو حدیث ۱۶۲۲

(۱۳۹۰) (م- ۲۱۶۱) عن ابن عباس (متکثر) ۹۹ (م- ۲۱۶۲) عن عائشة (متکثر)

دیکھو حدیث ۹۹

(۱۶۲۳) (م- ۲۱۶۳) عن عائشة (متکثر) ۱۸۶۱ (م- ۲۱۶۳) عن عائشة (متکثر)

دیکھو حدیث ۱۸۶۱

(متکثر) ۱۸۶۱ (۱۸۶۱) عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وهو صحيح يقول انه لم يقبض نبي قط حتى يرمى مقعدا من الجنة

جب آپ تدرست تھے تو کیا کرتے تھے کہ کسی نبی نے وفات نہیں پائی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا

ثم يمينا او يخذ فلما اشتكى وحضرة القبط وراى على فخذه عايشة عشتى

پھر وہ اس کے سر دیکھا جاتا ہے یا رکنا اس کو اختیار دیا جاتا ہے جب آپ بیمار ہوئے اور قبض ہو کر وقت آیا اور آپ کا سر عايشہ

عليه فلما افاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق

کی زبان پر تھا تو آپ کو عايشہ نے بوسہ کیا تو آپ کی نگاہ ٹھہر کر چھت کی طرف اٹھی پھر فرمایا اے اللہ رفیق اٹلے میں

الا على فقلت اذا الايمان وزنا فعرفت انه حديته الذي كان يمجدنا

تو میں نے کہا اب ہمارے پاس نہیں رہنا چاہئے تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ کی وہ بات ہے جو آپ تشریح کی

وهو صحيح (م- ۲۱۶۴) عن عائشة (متکثر) ۵۲۹

دیکھو حدیث ۵۲۹

علا وی الفاظ میں حضرت ابن عباس کے ہم قرآن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر کے استفسار پر فرمایا کہ اذ اجاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ غلط خفیف غلط نقلی سے حدیث کو دوہرایا ہے۔ یوم الخمیس وما یوم الخمیس شند برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجہ فقال الخونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا به عن انبأ افتنا زعموا ان یبلغ عند نبی

تنازع فقالوا اما شانه اھمرا استفھموا من ھبوا یروون علیہ فقال دعونی فالذی انا فیہ خیر مما انت دعونی الیہ واوصاھم ثلث قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجازوا اولاد یغوما کنت اجیرھم وسکت عن الثالثة او قال ففسینتھا اس کے لئے دیکھو نوٹ ۵۲۹ ولوث ۱۶ و ۱۷ صفحہ ۶۹ نوٹ ۱۶۹ ۱۷۹ ۱۸۹ ۱۹۹ ۲۰۹ ۲۱۹ ۲۲۹ ۲۳۹ ۲۴۹ ۲۵۹ ۲۶۹ ۲۷۹ ۲۸۹ ۲۹۹ ۳۰۹ ۳۱۹ ۳۲۹ ۳۳۹ ۳۴۹ ۳۵۹ ۳۶۹ ۳۷۹ ۳۸۹ ۳۹۹ ۴۰۹ ۴۱۹ ۴۲۹ ۴۳۹ ۴۴۹ ۴۵۹ ۴۶۹ ۴۷۹ ۴۸۹ ۴۹۹ ۵۰۹ ۵۱۹ ۵۲۹ ۵۳۹ ۵۴۹ ۵۵۹ ۵۶۹ ۵۷۹ ۵۸۹ ۵۹۹ ۶۰۹ ۶۱۹ ۶۲۹ ۶۳۹ ۶۴۹ ۶۵۹ ۶۶۹ ۶۷۹ ۶۸۹ ۶۹۹ ۷۰۹ ۷۱۹ ۷۲۹ ۷۳۹ ۷۴۹ ۷۵۹ ۷۶۹ ۷۷۹ ۷۸۹ ۷۹۹ ۸۰۹ ۸۱۹ ۸۲۹ ۸۳۹ ۸۴۹ ۸۵۹ ۸۶۹ ۸۷۹ ۸۸۹ ۸۹۹ ۹۰۹ ۹۱۹ ۹۲۹ ۹۳۹ ۹۴۹ ۹۵۹ ۹۶۹ ۹۷۹ ۹۸۹ ۹۹۹

(۱۸۶۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَيْتَ لَفْتًا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے

عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُذَاتِ وَهَسَمَ عِنْدَهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَيْتَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوْفِي فِيهِ

تو معرذات پر ہاتھ کرانے اور ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے جب آپ اس بیماری سے بیمار ہوتے جس میں آنکھیں وفات

طَوَّقَتْ أَنْفُسُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَهْسَمَ بِيَدِ النَّبِيِّ

ہاتی تو میں وہی معرذات پر ہاتھ کرانے اور ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ (۱۸۶۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

کاملاً (کیونکہ آپ پر پھیرتی تھی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنَدٌ لِي ظَهْرُهُ يُعْرَلُ

اور انہوں نے آپ کی طرف کان لگا کر سننا اس سے پیشتر کہ آپ وفات پانچ آدھار آنکھیں پٹیٹھا کا سہارا

اللَّهُمَّ اشْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَحْفَنِي يَا زَرَفِيْقُ (۱۸۶۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

پر دعا پڑھا تو فرما رہے تھے اے اللہ میری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے (بلند) رزق سے ملانے دے

متكرر (۳۰۴-۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۱۸۶۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

دیکھو حدیث ۳۰۴ دیکھو حدیث ۱۸۶۵

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (متكرر- ۳۰۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مَرَجَعَتِي إِلَيْكَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ ملا میں تکرار کیا اور میرے لئے زیادہ تکرار کرنے کا باعث ہوا تھا

أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَمُوتَ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا وَلَا

کہ میرے دل میں یہ بات نہ آتی تھی کہ لوگ آپ کے بعد اپنے شخص سے کبھی محبت کریں گے جو آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور میں یہ

كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا اشْتَكَيْتَهُمُ النَّاسُ بِهِ فَارْتَدَّتْ أَنْ

کبھی تھی کہ کوئی بھی آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو لوگ اسے تنوں میں پھینکے تو میں جانتی تھی کہ رسول اللہ

يُحْدِلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۸۶۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ

صلی اللہ علیہ وسلم اس وفات کو حضرت ابو بکر سے پھیریں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ

مسندتہ لے صدی میں نے اپنے سینے پر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ مگر اس سے پہلے حدیث یعنی ۱۸۶۱ میں سے دور اسے علیٰ فحش عائشہ یعنی آپ

کا سر عائشہ کی ران پر تھا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے آپ لپیٹے ہوئے تھے پھر آپ کی طبیعت کی وجہ سے آپ کا سر اوٹھا کر کے حضرت عائشہ نے اپنے سینے پر رکھا

آپ کو دیا یہ وصف بڑا اعلیٰ معرذات۔ جمع کا معنی ہے اور مراد سورہ قلم معرذات اللغظ اور قلم معرذات اللغظ ہیں یعنی بیماری میں آپ ہر قسم کی

شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ ملا اصغت الی معنی خاص طور پر کان لگا کر سننا معلوم ہوتا ہے نہ صرف کسی وقت آواز بہت تکی ہو جاتی تھی یہ

مسلکیاں اختصار بھی ہے اور کچھ زیادت بھی ہے قال النبی صلعم فی مرضہ الذی لم یقیمہ منہ لعن اللہ الیہود اھنذوا فہو را نھیا ہم مساجد قانت

عائشہ تو کہہ کر کہ لا محققہ خشی رسول اللہ صلعم کو خوف ہوا ان سخن مسجدا۔ یہاں آخر حضرت عائشہ نے یہ بڑھایا ہے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ

کی قبر بھی سجدہ بنی جائیگی تو قبر کو کھول دیا جاتا مین وہ زائرین کو نظر آتی۔ اس قبر کو بیڑنی عمارت سے ٹھونکا کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قبر کو دیکھ کر بے اختیار ریا فضل

ذکر نہیں جو توحید الہی کے خلاف ہے کس قدر توحید الہی کا جوش ہے کہ نزع کی گھبراہٹ میں بھی یہ نکر ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی پرستی کا نہ بن جائے

مگر قرینا ہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ مرث آخر خود خیر الی الناس کے بعد رائے فصلہم وخطبہم۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ وفات سے

پانچ دن پہلے کا تھا۔ عہ قرینا ہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ ملا اشارہ حضرت ابو بکر کے نام نظر کرنا جس کے کی طرف ہے جب نبی کریم صلعم جیسا کہ ابھی گذر

چکا بار بار کوشش کے باوجود اس قابل نہ ہوئے کہ خود جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ بدبار گئی تھ

زبانی ۱۸۶۲
فاستن بہ فما
رایت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
استن استنانا
قلہ احسن منه
فما عد ان فرغ
رفارغ ہوئے ہی
تھے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم وقرینہ
اور اصبطہ شہ
قال فی الریق
الاعلیٰ ثلاثا شہ
قنتہ وکانت
تقول مات بان
حافضتہ اضعف
حدیث کے آخر
ہے کہ آپ کون
نے اس حال میں
پہرا کر لیا جب آپ
حضرت عائشہ
کے ہاتھ اور
ذائقہ کے درمیان
تھے یعنی سینے اور
ٹھونکی کے درمیان
اور اسی حدیث کے
شرح میں جو آنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَتْهُ لَبِينٌ حَاقَتْهُ وَذَاقَتْهُ فَلَا أَكْرَهَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ

فی مسلمی اشرف علیہ وسلم نے وفات پائی اس حالت میں کہ آپ میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان تھے تو میں نبی مسلم کی ستمی کے

أَبْدَأُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۸۶۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ

بعد موت کی ستمی کو کسی کے لئے ناپسند نہیں کرتی ہے۔ عبد اللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے

الْأَنْصَارِيَّتِ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبِعَ عَلَيْهِمْ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ

اور کعب ان تینوں شخصوں میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی کہ عبد اللہ بن

إِبْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُلَيْبَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس نے مجھے خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے

فِي جَعْرِ الَّذِي تُوْفِيَ فِيهِ فَقَالَ لِنَاسٍ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

آپ کی اس بیماری میں نکلے جس میں آپ نے وفات پائی تو لوگوں نے کہا ابواحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْبَحْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِكًا فَاخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

تو کہا اللہ کی تعریف ہے مجھے میں تو عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا

فَقَالَ لَأَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَكَ لَتِ عِدَّةُ الْعَصَاورِ فِي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ان سے کہا اللہ کی قسم تم تین دن کے بعد لاشی کے غلام ہونگے علی اور اشرف کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سَوْتٌ يَتَوَفَّى مِنْ وَجُوهِ هَذَا الرَّقِيِّ كَأَشْرَفِ وَجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ

عنزہ یا اپنی اس بیماری سے وفات پا جائیں گے میں تو موت کے وقت عبد المطلب کی اولاد کے چہرے کو پہچان لیتا ہوں

الْمَوْتِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِنَسْأَلَهُ فِيْمِنْ هَذَا

اُو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سے پوچھیں کہ یہ امر یعنی امر اللہ

الْأَمْرَانِ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَا فَادْصَى بِنَا

کن ہیں جو گا اگر ہم میں ہوا تو ہمیں علم ہو جائے گا اور اگر ہمارے سوا کسی اور میں ہوا تو ہمیں اس کا علم ہو جائیگا اور آپ جانے

فَقَالَ عَلِيُّ إِنَا وَاللَّهِ لَبْنُ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْعَنَا هَا

معتقن (راہجے سلوک کی) رسمیت کو لیکر تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور آپ غلط ہم سے

يُعْطِينَا هَا النَّاسُ بَعْدَكَ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روک دیں تو آپ کے بعد لوگ تو ہرگز ہمیں یہ نہیں دیں گے اور میں تو اللہ کی قسم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گی علی

(۲۱۷۸-۲۱۷۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲۳۶)

دیکھو حدیث ۲۳۶

علی بنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی ستمی کے نہیں بچے تو اور کوئی کیونکر بچ سکتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ کی حدیث میں ہی آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک برتن تھا جس میں پانی تھا تو آپ اس سے پانی لے لے کر اپنے سر پر ریتے تھے اور کہتے تھے کا الہ الا اللہ ان لاموت مسکرات اور احمد و ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے اللهم اعننی علی مسکرات الموت علی بارکتاباً سے ہے جس کے معنی ہیں بیماری سے اچھا ہونا۔ عصا لاشی کو کہا جاتا ہے علیاً عصا یا عبد العصا ان توگوں کو کہا جاتا ہے تود و دوسرے کی حکومت تہری

کے نیچے ہوں۔ اس میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ حضرت علی خلافت کو مانگ کر لینا پسند نہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی امامت سے ہی محسوس کر لیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اہل سبھتے ہیں۔ ویسے بھی جو عمر میری حضرت ابوبکر کو صحابہ میں عام طور پر حاصل تھا وہ حضرت علی نے مخفی نہ تھا۔ علی نے صحابہ سے کہا کہ روایت کچھ اختلافات لفظی سے آئی ہے یہاں لفظ یوں ہیں: ان المسلمین بیننا ہم فی صلاة الفجر من یوم الاثنین و ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقہا ہم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کشف ستر صحیحہ عائشہ حفظ الیہم وہم فی صفوت الصلاة ثم یتقدم یضون فنکص ابوبکر علی عقبہ لیصل الصفت و نحن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم یرید ان یخرج الی الصلاة فقال انفس وہم المسلمون ان یفتنوا فی صلواتہم فرحاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشاد الیہم بیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتنا صلواتکم ثم دخل الحجره و ارجی الساترہ و دشنبہ کاوٹن تھا۔ اور ۲۳۶ کے آخر ہے جو یہاں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانگے۔ اور آپ کا چہرہ اس وقت ورتہ مصعوف تھا یعنی نہایت روشن اور آپ کے جسم فرمایا اسلئے کہ آپ اپنے صحابہ کو عبادت الہی میں مصروف پایا تو اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ آپ کی فیہ عافری میں بھی خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ باقی رہے (۱۸۶۲)

رم- ۲۱۸۴ عن انس بن مالك (متكرر- ۱۲۷۲) عن طلحة بن عبيد الله (متكرر- ۱۲۷۱)

دیکھو حدیث ۱۲۷۲ ح ۱ دیکھو حدیث ۱۲۷۱ ح ۱

رم- ۲۱۸۵ عن عمرو بن الخطاب (متكرر- ۱۲۷۰) عن ابي ابي بن قحافة

دیکھو حدیث ۱۲۷۰ ح ۱ اس سے روایت ہے کہ

لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتعشاه فقالت فاطمة عليها السلام

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ پر پیشانی طاری ہونے لگی تو حضرت فاطمہ علیہا السلام نے فرمایا

والكرب اباها فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا اباها

ہائے میرے باپ کی تکلیف آئی ہے میں نے کہا کہ بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب آپ وفات پاگئے تو حضرت فاطمہ رضوی

اجاب رباً دعاها يا اباها من جنة الفردوس ما واه يا اباها الى جبريل

اور کہتی تھیں ہائے میرے باپ آپ اپنے اپنے جہنم کے بلاتے ہو بلکہ کہا ہائے میرے باپ جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانا ہے ہائے میرے باپ ہم جبریل

تبعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا انس اطابت انفسكم

کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں جب آپ نے کہنے لگے تو حضرت فاطمہ علیہا السلام نے کہا اس کی بات لوگوں کے دلوں میں لے جاوے گی

ان تخطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثراب (۸۶) باب اخروا عنكم

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی نہ ڈالو

النبي صلى الله عليه وسلم رم- ۲۱۸۶ عن عائشة (متكرر- ۱۸۶۱) (۸۷) باب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھو حدیث ۱۸۶۱ ح ۱ باب

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رم- ۲۱۸۷ عن عائشة وابنت خباب (متكرر-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ح ۱ دیکھو حدیث

۱۷۱۲) رم- ۲۱۸۸ عن عائشة (متكرر- ۱۵۸۷) (۸۸) باب (رم- ۲۱۸۹)

۱۷۱۲ ح ۱ دیکھو حدیث ۱۵۸۷ ح ۱ باب

عن عائشة (متكرر- ۱۳۴۴) (۸۹) باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم

دیکھو حدیث ۱۳۴۴ ح ۱ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

مغزیت اخذت
لفظی سے دوسرا یا
ہے۔ ذکر حدیث
ان اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اوضی
الی علی فقالت من
قاله لقروایت
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم والی لسانہ
الی صدق رضی اللہ
عنا فانتحوت
تکلیف اوصالی
علی دیکھو نوٹ
۳۷ ص ۱۷
مغزیت قریشی انی لفظ

۱۸۶۱ ح ۱
دیکھو نوٹ ح ۱
صفحہ ۷۶۱۸
۱۷۱۲ ح ۱
مغزیت لفظی کی
مغزیت سے حدیث

کو دوسرا ہے۔
ما تترك رسول الله
صلى الله عليه وسلم
دينا وانكاد ادرها
ولا عهدا اذ كان امة

ابا بخله البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضها جعلها لابن السبيل صدقة. وفات کے وقت آپ کا پاس کوئی مال نہ تھا سوائے ایک سواری کے بچہ کے اور مٹیاریوں کے۔ باقی وہ زمین تھی جس سے آپ اپنا گزارہ لیتے تھے۔ یہاں ہے کہ اسے مسافروں کے لئے عہدہ کر دیا تھا۔ علماء ثلاث من اہل السبيل کا لفظ نہیں رہا۔ حضرت فاطمہ کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض سونا یا میت کے مقام بلینڈا ذکر کرنا محبوب نہیں۔ ہر چیز جب حد سے گزر جائے تو ہی محبوب ہوتی ہے۔ ان الفاظ قریشی وہی ہیں مگر آخر میں ایک جملہ بڑھا یا ہے کہ آخری بات آپ نے فرمائی، وہ کان اللہ صلعم بقول روضہ صحیحہ اند لم يقبض نبی حقی بری مفعولہ من الجنة ثم يخبر فلما نزل به وراسه علا فخرى غشوى عليه ثم اذان فاشخص بصيرة الى سقفة البيت ثم قال اللهم الرفیق الاعلى اقلعت اذ لا اختلف اذنا وعرفت انه الحديث الذي كان يحد ثنا وهو صحیحہ قالت فكانت الحركه تكلم بها اللهم الرفیق الاعلى ملا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی اور کب، چنانچہ بعض نسخوں میں عنوان باب یوں ہے۔ باب وفاة النبي صلعم وصق توفی واہن کہہ کے ایک مکرر روایت حضرت عائشہ اور ابن عباس کی ہے اور ۱۷۱۲ حضرت ابن عباس کی ہے اور ہشتموں میں فرق بھی ہے اور اختلاف بھی ۱۷۱۲ میں ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ پر نزل دی مشرّف ہوا اور آپ اس کے بعد تیرہ سال کہیں رہے پھر ہجرت کی اور اس سال مدینہ میں رہے، مگر مکرر روایت کے الفاظ یوں ہیں ان اللہ صلعم بعث بمكة عشو ستین في نزل عليه القرآن ويا لمدنية عشوا یعنی وہ اس سال آپ کہیں رہے۔ اور فرقان شریف آپ پر نازل ہوا رہا۔ اور اس سال مدینہ میں رہے صحیح وہی ہے جو ۱۷۱۲ میں بیان ہوا۔ عہدہ ہی لفظ میں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۶۳ سال کی تھی۔ ۱۷۱۲ مکرر روایت یوں ہے۔ توفی اللہ صلعم ودرعہ ہر وہو متحنا یہودی بثلاثين (صاعاً من شعير) اور بعد کے لفظ چھوڑ دینے میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے وقت نہ صرف آپ کی کوئی جائیداد تھی بلکہ تیس صاع جو آپ فرض لے ہوئے تھے جن کے عوض آپ کی زرہ رہن تھی۔ جو یہی چیز کا قرض لینا جاتا ہے کہ جو زمین آپ کے گزارہ کے لئے تھی اس سے اناج بھی اس قدر

م نہ آتا تھا کہ آپ آپ کی بیویوں کے لئے کفایت کر سکے۔ سادہ زندگی کی بے نظیر مثال ہے۔

عنا اس میں زیادہ ہے
 کو آنحضرت صلعم نے
 مرض الموت میں
 اس لشکر کا افسر
 مقرر کیا جسے شام
 کی طرف روانہ کیا
 حکم ہوا تھا اور یہ
 واقعہ آپ کی
 وفات سے صرف
 دو دن پیش ہوا ہے
 اور یہ ہفتہ کا دن
 تھا، مگر ابن اسحاق
 نے کہا ہے کہ جمعرات
 کے دن آپ نے
 اس لشکر کا لوہہ
 اپنے ہاتھ سے بانٹا
 اور اس لشکر میں
 بڑے بڑے مہاجرین
 اور انصار موجود
 تھے جیسے حضرت
 ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم
 ابن الجراح وغیرم
 تو ایک نوجوان کو
 جو ایک آزاد شدہ
 غلام کے فرزند تھے
 اس لشکر کا کمانڈر
 مقرر کرنا اور بڑے
 بڑے آدمیوں کو
 اس کے ماتحت کرنا
 بتاتا ہے کہ آپ
 اسلام کی اخوت

اسامة بن زيد بن عمرو بن نفيل (م- ۱۶۹) عن عبد الله بن عمر (م- ۲۱۹) عن ابن عمر (م- ۲۱۹) عن النبي صلى الله عليه وسلم
 اسام بن زید کو اپنی اس بیوی سے (سرگھر فرکر کے) بھیجا جس میں آپ نے وفات پائی علی

۱۶۹- (م- ۲۱۹) عن عبد الله بن عمر (م- ۲۱۹) عن ابن عمر (م- ۲۱۹) عن النبي صلى الله عليه وسلم
 دیکھو حدیث ۱۶۹۵ باب

عن أبي الخضر بن الحنفية قال قال له فتيها جوت قال خرجنا من اليمن فهاجر من قافلنا
 ابو الخضر سے روایت ہے کہ انور بخ منگھی سے بھاگا کہ آپ نے حجرت کی

أجحة فأقبلت إني فقلت له أخبر فقال ففنا الله عليه وسلم هذ
 پہنچے تو ایک سواری سامنے آیا جس نے اس سے پوچھا کوئی خبر ہے کہا ہم نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ دن بوسے دین کیا

قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال بن رباح
 میں نے پوچھا کیا آپ نے ایلا القدر کے ہائے میں کوئی شے کہا بلال بن رباح سے

الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر (م- ۱۹۱) باب
 کہہ (رمضان کی) آخری دس راتوں کی ساتویں میں ہے (یعنی ستیسویں میں) باب

وسلم (م- ۲۱۹) عن أبي إسحق (م- ۱۶۵) عن البراء بن عازب (م- ۱۸۰)
 دیکھو حدیث ۱۶۵۵ برادر سے روایت ہے کہ میں

مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة (م- ۱۸۱) عن ابن بريدة عن
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جنگوں میں شریک ہوا ابن بريدة سے روایت

أبيه قال غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة
 کرتے ہیں کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر سولہ جنگ کئے

۶۵- کتاب التفسیر

تفسیر قرآن کی کتاب ۶۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	اللہ بے انتہا رحم والے	بار بار رحم	رحمہ اللہ کے نام سے
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ وَالرَّاحِمِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ	دو نواں اسم ہیں رحمت سے نکلے ہیں الرحیم اور الراحم	ایک ہی معنی میں ہیں جیسے علیم	

اور مساوات کا عملی ثبوت دینا چاہئے تھے۔ ابھی یہ لشکر روانہ ہوا تھا کہ آنحضرت صلعم کی وفات ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو روانہ کیا
 عطا کر دو روایت بہت مختصر ہے۔ استعمال اللہ صلعم اسامۃ فقالوا فیہ فقال اللہ صلعم قد بلغنی انکم قد تم فی اسامۃ وانہ احب الناس لک معنا اس
 کے الفاظ قریشی وہی ہیں جو ۶۹ کے ہیں۔ عطا کر دو روایت میں اختصار ہے لفظیوں میں:- قال سالت زید بن ارقم کم غزوات مع رسول اللہ
 صلعم قال سبع عشرة قلت کم غزوات مع رسول اللہ صلعم قال سبع عشرة بغزوات وہ ہیں جن میں خود نبی صلعم نے شرکت فرمائی اور ان کی قیاد میں ہے اور بحث یعنی
 جب اپنے صرف لشکر بھیجا اور خود شرکت نہیں فرمائی جو ہمیں ہیں۔ مگر اس بارہ میں روایات میں کچھ اختلاف بھی ہے، عطا تفسیر کے لغوی معنی ہیں بیان
 یعنی کسی بات کو کھول کر واضح کرنا۔ امام بخاری کتاب تفسیر میں زیادہ تر انہی الفاظ کی تفسیر کرتے ہیں جو اس سورت میں آئے ہیں لیکن بعض وقت لفظی مناسبت
 سے یا معنی کی مناسبت سے کسی دوسری جگہ کوئی لفظ لیا گیا ہے تو اس کی بھی تفسیر کر دی ہے۔ ترجمہ میں خطوط و دوانی کے اندر جہاں صرف ایک ہی خبر ہے تو وہ
 اس سورت کی آیت کا نمبر ہے جس کی تفسیر ہے۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا حوالہ لیا گیا ہے تو علاوہ آیت کے نمبر کے سورت کا نام بھی دیدیا گیا ہے۔

وَالْعَالِمُ (۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ سُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابِهَا

اور عالم علی باب جو فاتحہ کتاب کے بارے میں آیا ہے اور ام کتاب بھی اس کا نام رکھا گیا ہے اس لئے کہ اس کے بعد

فِي الْمَصَاحِفِ وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ وَالَّذِينَ الْحَزَنُ فِي الْخَيْرِ وَالشُّرُكُمَا

میں اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے اور نماز کی ابتدا بھی اسی کے پڑھنے سے ہوتی ہے اور دین (۳) بلا ہے اچھا بویا برا جیسا

تَدْرِيئُ شِدَانُ وَقَالَ جَاهِدُ بِالَّذِينَ يُلْحِقُونَ بِكَ الْحَسَابَ فِي يَتِيمٍ مَحْاسِينِ (۱۸۶۲) عَنْ أَبِي

کرو گے ایسا سوکت تم سے ہوگا اور مجاہد نے کہا بالذین (الماعون - ۱) حساب کو (بھٹلا تا ہی) مدینین (الواقرہ - ۸۶) جن کی حساب دیا جائے

سَعِيدِ بْنِ الْمَخْدُومِ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ فِي الْمَسْجِدِ فَنَدَى عَلِيٌّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو سعید بن علی سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں حاضر ہوا

فَلَمَّا رَجَعْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ أَصِلُ فَقَالَ كُنْتُ أَصِلُ فَقَالَ كُنْتُ أَصِلُ فَقَالَ كُنْتُ أَصِلُ

تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اور رسول کی بات کو مانا تو جب

لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ فَتَمَّ قَالَ بِي لَا عِلْمَ لَكُمْ سُوْرَةُ هِيَ أَكْثَرُ الشُّوْرِ فِي الْقُرْآنِ

وہ تمہیں بلائے (الانفال - ۲۴) پھر مجھے فرمایا میں تمہیں اس کے کہ تم مسجد سے نکلیا ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے

قَبْلُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ

پہلے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ لیا

تَقُلُ لَا عِلْمَ لَكُمْ سُوْرَةُ هِيَ أَكْثَرُ الشُّوْرِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ لِحَدِّدِ اللهُ رَبِّ

آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے بڑھ کر عظمت والی ہے فرمایا الحمد لله رب

الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَوْثِقَتْهُ (۲) بَابُ غَيْرِ

العالمین یہی السبع المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے باب غیرو

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (۲۱۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۶۹)

المغضوب علیہم ولا الضالین دیکھو حدیث ۲۶۹

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

سورة بقره

(۱) بَابُ قَوْلِهِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۱۸۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

باب اللہ تعالیٰ کا قول و علم آدم اَلْاَسْمَاءُ كُلَّهَا (۳) اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

علاوہ نعت میں کسی چیز کی عزت جھکنا یا مانس ہونا ہے رحیم اور راجح عظیم اور عالم میں باریک غرق بھی ہے کیونکہ فیصل کے وزن میں ایک وصف کا ایک چیز کے اندر لازم ہوتا ہے۔ اور نازل کے وزن میں اس کا حدوث پایا جاتا ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں حق سے مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ایک طفلان کے وزن پر دو مکرر فیصل کے اور طفلان کا مبالغہ ایک عظمت کے استیلا اور غلبہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور فیصل کا سنگراہی کی وجہ سے اس لئے بچھن اپنے بیان ہوتا رحیم کے لفظ سے ہے اور رحیم باریا

رحم کرنے کے لفظ سے۔ مصلح سورہ فاتحہ کے نام علاوہ ام الکتاب کے حسب قول ہیں۔۔۔ لکن نوسا الوافیہ اس لئے کہ نماز میں پوری پڑھی جاتی ہے ہر سورۃ الحمد (راہی) ابتدا کے لفظ سے۔ سورۃ الصلوٰۃ۔ السبع المثانی رسالت آیتوں کے لفظ سے جو باریا باریا پڑھی جاتی ہیں، الشفا اور شفا فیہ۔ النافیہ کیونکہ یہ کلمت کرتی ہے، الاساس و نیا۔ کیونکہ سب سے پہلی سورت ہے، انشوال اس لئے کہ اس میں بندے کی طرف سے سوال ہے، الشکر۔ الذ عاقر کیونکہ یہ بہترین دعا ہے، امام بخاری نے ام الکتاب نام کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی کتابت سے قرآن شریف کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اور ام اصل کو کہتے ہیں تو اسے قرآن کریم کے لئے بطور صل قرار دیا ہے۔ مصلح دین کے معنی جزا اور حساب بھی ہیں اور اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ بطور عادت۔ عمل اور حکم۔ حال۔ حق۔ طاعت۔ قمر ملت و شریعت۔ و۔ مع۔ سیاست۔ ملک السبع المثانی۔ اور قرآن عظیم۔ بیان دونوں کو سورہ فاتحہ کی صفت بیان کیا گیا ہے، اور اشارہ اس آیت قرآنی کی طرف ہے۔ ولقد آتیناک سبعاً من المثانی والقراں العظیم راہیہ اور السبع المثالی کے معنی ہیں سات باریا و پڑھی گئی (بیتین) سورہ فاتحہ کی آیتیں سات ہیں اور وہ باریا نمازیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور القرآن العظیم اس لئے کہا گیا ہے کہ ان سات آیتوں میں تعلیم قرآنی کا کل خلاصہ موجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے السبع المثالی سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم مارا قرآن شریف۔ لفظ میں لفظ یوں ہیں۔ ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال لا اله الا الله ما غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله قول المؤمن الموقر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس میں الفاظ کی تشریح کوئی نہیں صرف ان الفاظ کے بعد امین کہنے کا حکم ہے امین، ام فعل ہے اور اس کے معنی ہیں اکتفا بخاری ما قبل قوله

علاء عنان بائگ
 تعلق تو صرف اس
 حصہ سے ہے جس
 میں حضرت آدم
 کے متعلق آتا ہے
 و علم آدم الہاماً
 کالہا مگر اس کا بھی
 کوئی تفسیر نہیں۔
 صرف حضرت آدم
 کے فضائل میں اس
 کا ذکر ہے۔ لیکن
 جن جن امور کا ذکر
 حضرت آدم کے
 متعلق ہے وہ ہر
 ایک انسان کے
 متعلق بھی ہیں اور
 تعلیم اسرار و
 انسان میں علم حاصل
 کرنے کی استعداد
 پیدا کرنا ہے باقی
 امور جن کا ذکر اس
 حدیث میں ہے تو
 یہ باقی عالم آخرت
 کے متعلق ہیں اور
 عالم آخرت کے
 متعلق اصولی بات
 یہ کہ کردہ مال عین
 و ات کامصدق
 ہے۔ یہ شفاعت
 کس طرح ہوگی اور
 آنحضرت صلعم کے
 رب کے حضور جانے
 سے کیا ملوے۔
 اور پھر آپ کے سجدہ
 کس رنگ کا ہے
 اس کو اس دنیا کے
 حالات پر قیاس نہیں
 کر سکتے۔ یہ بھی یاد
 رکھنا چاہئے کہ اس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا

کہ آپ نے فرمایا ایمان والے قیامت کے دن جمع ہوں گے تو کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حضور کسی شفیع

إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَمِينِهِ وَاسْتَجَدَّ

بنائیں ہتر ہوگا تو وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور

لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعِلْمُكَ أَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَشْفَعُ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يَرِيحُنَا مِنْ

اپنے فرشتوں سے آپ کی فرما ہر داری کرائی اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور شفیع بنیں کہ وہ ہمیں اس

مَكَانًا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَرُ نَبِيَّكَ فَيَسْتَسْقِي عَشْوًا حَافِيَةً أَوَّلَ

جگہ سے نکال کر آرام دے وہ نہیں گے میں اس مقام کا ہاں نہیں ہوں اور اپنا قبویر یا دیکھیں گے اور شرم کریں گے اور کہیں گے اگر فرج کے

رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَرُ

پاس جاؤ گیور نہ کہ پہلے رسول ہیں جنکو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس مقام کا ہاں نہیں ہوا ہوتا

سُؤَالَهُ رَبِّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَرُ نَبِيَّكَ فَيَأْتُونَهُ

وہ سوال یا کر کہیں گے جو آپ کے رب کی بات کے متعلق کیا تھا جس علم انہوں میں تھا اور وہ شرم کریں گے اور کہیں گے کہ خلیل الرحمن دارالرحم کے پاس

فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ أَيُّهَا مُوسَى عَمِدَا كَلِمَةَ اللَّهِ وَأَعْطَاكَ التَّوْرَةَ فَيَأْتُونَهُ

جاؤ وہ ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس مقام کا ہاں نہیں ہوں گے یا اس جاؤ جیسے ہند سے بنے جن سے خدا نے کام کیا اور ہمیں توریت دی ہے

فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَرُ نَبِيَّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَرُ نَبِيَّكَ فَيَأْتُونَهُ

ان کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس مقام کا ہاں نہیں ہوں اور وہ کہیں گے کہ اس کا مثل کرنا یا دیکھیں گے جو کسی انسان کے بدلے میں نہیں تھا اور اپنے

أَيُّهَا عِيسَى عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ أَيُّهَا

رب شرم کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے اس مقام کا ہاں نہیں ہوں اور اس کے رسول ہیں یا اس کا ہمارا رب کی طرح ہیں وہ کہیں گے میں اس مقام

حَمْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَحْفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا

کا ہاں نہیں ہوں جو ہمیشہ اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو آپ سے ہند سے بنے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور پچھلے قصوروں کی حفاظت کی

تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ فَإِذَا رَأَيْتَ رَبِّي

سو وہ میرے پاس آئیں گے تو میں چلوں گا میرا ملک کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت مل جائے گی

وَقَعْتُ سَاجِدًا أَيْدِي عُرِّي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَقَالُ رَفَعُ رَأْسِكَ وَسَلَّ تَعَطُّ وَقَدْ

جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا مجھے اللہ سے پوچھنا ہے کہ جب تک نہ جاے پھر فرمایا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور اب لوگوں سے

يَسْأَلُكَ وَأَشْفَعُ لَكَ ثُمَّ يَأْتِيكَ فَيَسْأَلُكَ بِحَبِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ

دیا جائے گا اور کہتا ہے کہ شفاعت کرو تو قبول ہوگی تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی کرے گا کہ وہ مجھے سکھائے گا پھر اس وقت

فَيُحَدِّثُنِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ

کروں گا تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا میں لوگوں میں اہل کرم کا پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤں گا جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اسے حج

فَيُحَدِّثُنِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي لِقَائِكَ

دیکھوں گا پھر میں شفاعت کروں گا تو وہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا میں لوگوں میں اہل کرم سے ہوں گا اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی کرے گا کہ وہ مجھے سکھائے گا پھر اس وقت

مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَيْسَى اللَّهُ لَا مَنْ حَبَسَهُ

کہو گی کہ فرج میں صرف وہی باقی رہے ہیں جنہیں قرآن نے روکا ہوا اور ان پر عذاب رہنا لازم ہے اور عذاب اللہ کے ہے کہ جو قرآن نے روکا ہے

الْقُرْآنُ ان يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى خَالِدِينَ فِيهَا وَمَا يَكُنْ لَكَ قَوْلٌ قَالَتْ فَجَاهِدْ إِلَى شَيْطَانِهِمْ

یعنی اللہ تعالیٰ کے قول نے مخالفین کو دیا ہے باطل

بابت مجاہد نے کہا

إلى مشايخنا عليهم (۱۱۴)

م حدیث میں جو بعض انبیاء کی نسبت لفظ ذنب آتا ہے تو ذنب کے معنی و معنی ہیں۔ کوئی فعل بلا ارادہ ہو یا بالارادہ دونوں پر حاوی ہے۔ (باقی بر صفحہ ۱۰۴۹)

أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللَّهُ جَامِعٌ لَهُمُ الْخَشِيِّينَ

ان کے ساتھی جو منافقوں اور مشرکوں میں سے تھے محیط بالکفرین (۱۹) اللہ ان کو اکٹھا کرے گا جو اللہ کے خوف والوں کے (۱۷۵)

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا قَالَ مُحَمَّدٌ يَقْوَىٰ يَعْلُ بِمَا فِيهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَرَضٌ شَدِيدٌ

سچے مومنوں پر مجاہدے کا بقیہ (۶۳) یعنی اس پر عمل کرے جو اس میں ہے اور ابو العالیہ نے کہا میں (۹) غلبے سے

صِبْغَةَ دِينٍ وَمَا خَلَقَهَا عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ لَا شَيْئَةَ فِيهَا إِلَّا بَيَاضٌ قَالَ غَيْرُكَاسِيَوْمٌ

صبغہ (۱۳۲) دین ہے وما خلقها (۶۴) ان کیلئے عبرت ہے جو باقی ہے لاشیئہ فیہا (۶۵) سفیدی نہیں اور اوروں نے کہا یسوم (۶۹)

يُولُو نَكَمُ الْوَلَايَةَ مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَايَةِ وَهِيَ التَّرْبُوتِيَّةُ وَرَأَى السُّبُوتِ الْوَاوُ

تم پرسلط کرتے تھے ولایۃ (۲۲) فتح سے ولایۃ کا مصدر ہے اور وہ ربوبیت ہے اور جب واو کا کسرہ ہو رہی

فِيهِ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْبَبُ الَّتِي تُوَكَّلُ كُلُّهَا فَوْمٌ نَادَىٰ أَرَأَيْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ

ولایۃ تو اس کے معنی امارت (مزار بنانام) ہیں اور معنی ہے کہا کہ وہ جو بہت کھائے جاتے ہیں فوم (۶۱) میں اور ارا تم (۶۲) تم

وَقَالَ قَتَادَةُ قِيَاءٌ وَقَالَ ثَعْلَبُ وَأَقَالَ خَيْرٌ لَا يَسْتَفْتَحُونَ لَيْسَ كُنْصِرُونَ شَرٌّ وَأَبَا عَوَا

نے اختلاف کیا اور قتا دہ نے کہا قیاء (۱۹) ٹوٹ گئے اور ثعلب نے کہا یستفتحون (۸۹) مردمان گنتے تھے شروا (۱۰۲) فریفت

رَاعِنًا مِنَ الرَّعُونَةِ إِذَا رَادُوا أَنْ يَحْمِقُوا أَلَسْنَا قَالُوا إِعْنًا لَا يَحْمِقُونَ لَا

کیا راعنا (۱۰۴) رعوت سے ہے رعب، جب کسی کو احمق بنانا چاہتے تکتے راعنا۔ لا یحمزی (۱۲۳) کچھ کام نہ

تَعْنِي رِبْتِي اِخْتَبِرْ خَطَوَاتٍ مِنْ اِخْطُوءِ الْمَعْنَى اِتَّارُهُ (۳) بَابُ تَوَلَّى تَعَالَى

آنے کی ابتلی (۱۲۴) آزما یا خطوات (۱۶۸) خط سے جو اور اس کے معنی ہیں اسکے آثار میں نعتی قدم باب اللہ تعالیٰ کا قول

فَلَا يُجْعَلُونَ لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳) ۱۸۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ

فلا تجعلوا الخ اللہ کے لئے مشرک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اس نے نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ بَدْنًا وَهُوَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے فرمایا یہ کہ تو اللہ کیلئے شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا

خَلَقَكَ قُلْتَ إِنَّ ذَلِكَ لِعَظِيمٌ قُلْتَ شَأْنٌ أَيْ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ

میں نے کہا یہ تو بیشک بہت بڑا گناہ ہے میں نے کہا پھر کونسا فرمایا یہ کہ تو اپنے بیوی کی بیوی سے بدکاری کرے

أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ قُلْتَ شَأْنٌ أَيْ قَالَ أَنْ تَرَانِي حَلِيمَةَ جَارِكَ (۲) بَابُ

کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا میں نے پوچھا پھر کونسا فرمایا یہ کہ تو اپنے بیوی کی بیوی سے بدکاری کرے

قَوْلِهِ تَعَالَى وَظَلَمْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى كَمَا هُنَّ

اللہ تعالیٰ کا قول وظلما الخ (۵۷) اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سوی تم پر اتارا ان سحری

طَلِبَتْ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَالَ

چیزوں سے تم کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے تھے اور مجاہد نے

فَجَاهِدُوا الْكُفْرَ صَمْعَةَ وَالسَّلْوَى لَطِيْرٌ (۴) ۱۸۷ عَنْ سُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

کہ امت کو مذہبے اور سلوی پرند سبید بن زید سے روایت ہے کہا

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفْرُ مِنَ الْكُفْرِ وَمَا هَا شَفَاعَةُ الْعَيْنِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہی حق میں سے ہے اور اس کا کوئی بچھڑے کے لئے دوا ہے

(۵) بَابُ قَوْلِهِ وَرَأَى قَتَادَةُ إِدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ بَشْتُمْ رَشْدًا

باب اللہ کا قول وا دخلنا الخ (۵۷) اور جب ہم نے کہا کہ اس میں میں داخل ہوا تو اس سے جہاں سے چاہو باغیخت کھاؤ

م لوگوں کا ذکر ہے وہ رحم الراحمین کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے

رقیہ صفحہ ۱۰۴۹
اور انبیاء بالاروہ
اللہ تعالیٰ کے کسی
حکم کے خلاف نہیں
کرے جتنا حضرت
آدم کے تعلق ہوا
سے موجود ہے۔
ففسی ولم یجد له
عزفا اور حضرت
یوحی کا ایک انسان
کو قتل کرنا وہ قتل
کے ارادہ سے نہ
تھا۔ آئیے اسے
صرف غلبے سے کا
تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ
بابت تھی کہ اس بابت
سے وہ ہو گیا اور
یہ حضرت صلعم کے
موت میں جو ذکر ہے
عقل اللہ لہما تقام
من ذنبہا وہا تاحظر
تو اس کی بحث اپنے
موفق ہونے کے
یعنی سورہ فتح میں
افہر او وہ ذنوب
میں جو لوگوں نے
آپ کی طرف نسبت
کئے یہ بھی یاد رکھنا
چاہئے کہ حدیث
فضیلت میں جو سوری
جگہ ہے وہی آتا ہے
کہ مومن اور انبیاء
اور ملائکہ سب حقیقتاً
کے ہیں جس کے تو پیرائے
تعالیٰ ایک جی ہو کر
لوگوں کو دوزخ سے
باہر نکال دے گا۔
اس لئے ما حلیہ
القرآن میں جن

(۱۰) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَازِبٍ فَعَرَّبْنَا بِهَيْمِ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمِعِيلَ رَبَّنَا

باب ۱۰ اللہ تعالیٰ کا قول و رازب سے اور ہیم کے لیے ہما میں اٹھاتا تھا اور اسمعیل (جی) کے لیے جلی سے

تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْقَوَاعِدُ أَسَاسُهُ وَاحِدٌ مَّا قَاعِدَةٌ وَالْقَوَاعِدُ

رب ہم سے قبول فرما بیشک تو سنتے والا جانتے والا ہے قواعد سے مراد اس کی بنیادیں ہیں اور اس کا واحد قاعدہ ہے اور قواعد

مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدٌ مَّا قَاعِدٌ ر- ۲۱۹۸ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۱۱) بَابُ

من النساء (النورہ ۶۰) جو قواعد کا لفظ ہی تو اس کا واحد قاعدہ ہے دیکھو حدیث ۸۴۲۲

قَوْلِهِ قَوْلًا أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ الْبَيِّنَاتِ ۱۸۷۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ

اللہ تعالیٰ کا قول قول البیِّنَاتِ (۱۸۷۶) کو جو بے شک کے لیے اور اس پر جو بھاری طرف تارا گیا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ

الْكِتَابَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُقْرَأُ بِهَا لِعَرَبِيَّةٍ لِأَهْلِ لِسَانِهِمْ

تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَقَوْلًا أَمَّا يَا لَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ الْآيَةَ ۱۲۱ بَابُ قَوْلِهِ سَيَقُولُ لَسُقَاهُمْ

اور کو ہم انہیں پیمان لائے اور اس پر جو تارا گیا خوشک

النَّاسِ مَا دَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

بول انھیں کے کسی چیز نے انکو کچھ بدلے سے پھر دیا جس پر وہ تھے کو مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ر- ۲۱۹۹ عَنْ الْبَرَاءِ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۳۷)

وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے دیکھو حدیث ۳۷۳۷

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ لِسَانٍ لِسَانًا لِيُعَلِّمَ

باب ۱۱ اللہ تعالیٰ کا قول و کذلک جعلنا لک لکل لسان لساناً لعلیہم

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

دیکھو حدیث ۱۵۰۸

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

مَنْ يَشَاءُ الرُّسُولَ يَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۱۵۰۸ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۵۰۸) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ

علا حدیث کو قرآنی
اشی الفاظ میں
دومر یا یو دیکھو
نوٹ ۳۷۳۷
علا مطلب یہ تھا
عربی میں ہے اور
پھر ہے بھی حرفت
بعض باتیں اس
میں ایسی بھی تھیں
جو تخریفات کر کے
داخل کر دی گئیں
اور پھر عربی میں
تفسیر کرتے وقت
بھی ان کے حلالہ
بعض باتیں اپنی
طرف سے داخل
کرتے تو اس لئے
فرمایا کہ انکی باتوں
کو باطل چھوڑ دو
کیونکہ ان میں سچ
اور جھوٹ ملا ہوا
ہے انکی تصدیق
کرنا اور نہ تکذیب
کرنا
مطلب پدافروہ ان
انہی صلح کان
اول ما قدم اللہ
نزل علی احدی الو
اقوال احوال الزمن
الانصار چھوڑ دیا
ہے اور وہ بیان
میں قدر دانگاہم

علا حدیث کو قرآنی
اشی الفاظ میں
دومر یا یو دیکھو
نوٹ ۳۷۳۷
علا مطلب یہ تھا
عربی میں ہے اور
پھر ہے بھی حرفت
بعض باتیں اس
میں ایسی بھی تھیں
جو تخریفات کر کے
داخل کر دی گئیں
اور پھر عربی میں
تفسیر کرتے وقت
بھی ان کے حلالہ
بعض باتیں اپنی
طرف سے داخل
کرتے تو اس لئے
فرمایا کہ انکی باتوں
کو باطل چھوڑ دو
کیونکہ ان میں سچ
اور جھوٹ ملا ہوا
ہے انکی تصدیق
کرنا اور نہ تکذیب
کرنا
مطلب پدافروہ ان
انہی صلح کان
اول ما قدم اللہ
نزل علی احدی الو
اقوال احوال الزمن
الانصار چھوڑ دیا
ہے اور وہ بیان
میں قدر دانگاہم

قبل البیت کے بعد یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے و کانت اليهود قد اعجبهم اذ کان یصلے قبل بیت المقدس و اهل الکتاب قتلنا ولی وجہہ قبل البیت انکروا ذوات
قال زھیر حدیثنا ابو اسحق عن البراء عن ابي حذیفه هذا العجبی چھوڑ دیا ہے۔ باقی لفظ قرآنی ایک ہیں۔ آخر آیت کو آخر تک نقل کیا ہے۔ دما کان اللہ لیضیح
اینا نکھران اللہ بالناس لروفت رحیم۔ ابتدائی حصہ میں تحریف لفظی اختلاف ہے۔ پوری روایت یوں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یدعی نوح یوم القیلة فیقول لبیک وسعدیک یارب فیقول هل بلغت فیقول نعم فیقال لا امتہ هل بلغکم فیقولون ما اتانا کم نذیر فیقول من
یشھد لک فیقول محمد و امتہ فیشھدون انہ قد بلغنہ و ینزل علیہم شہیداً و ان ذلک قولہ حل ذکرہ و کذلک جعلنا لک حجۃ کبرۃ و ما جعنا لک کو
شھداء علی الناس و ینزل علی الناس و ینزل علیہم شہیداً او الوسط العدل۔ تشریح کے لئے دیکھو نوٹ ۳۷۳۷ ص ۶۷

<p>۲۲۰۱-۲۲۰۲ (مکرر) (۲۹۲) باب قولہ قد تری قلب</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>وَجِهَكَ فِي السَّمَاءِ إِلَىٰ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۸۷۷) عَنْ أَبِي قَالٍ كَمَا يَبْقَىٰ مِنْ صَلَاةِ</p>	<p>یہاں تیرے آسمان کی طرف تُوڑ کر دیکھتے ہیں عَمَّا تَعْمَلُونَ تک</p>
<p>الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي (۱۶۲) بِأَسْمَاءَ ابْنَةَ بَرْزَةَ ابْنَةَ أَبِي قَالٍ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ</p>	<p>ابن سے روایت ہے کہ میرے سوائے ان میں سے جنہوں نے</p>
<p>مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذَا لِمَنْ الظَّالِمِينَ (۲۲۰۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ</p>	<p>دووں قبوں کی طرف نماز پڑھی کوئی باقی نہیں باقی باقی اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>(مکرر) (۲۹۲) باب قولہ الَّذِينَ آتَيْتَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>أَبْنَاءَهُمْ وَأَنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (۲۲۰۳)</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مکرر) (۲۹۲) باب قولہ وَلَا تَلْمِزُوا مَن يَدْعُوا إِلَىٰ سُبُطِ اللَّهِ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>وَجِهَكَ فِي السَّمَاءِ إِلَىٰ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۱۸۷۷) عَنْ أَبِي قَالٍ كَمَا يَبْقَىٰ مِنْ صَلَاةِ</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي (۱۶۲) بِأَسْمَاءَ ابْنَةَ بَرْزَةَ ابْنَةَ أَبِي قَالٍ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذَا لِمَنْ الظَّالِمِينَ (۲۲۰۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>(مکرر) (۲۹۲) باب قولہ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَطْرَةَ تَلْقَاؤِهَا (۲۲۰۵)</p>	<p>اور یقیناً تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اس سے بچنے نہیں جو تم کرتے ہو شطرا اس کی طرف</p>
<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مکرر) (۲۹۲) باب قولہ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۲۲۰۶) عَنْ</p>	<p>سجدہ حرام کی طرف پھیرتے اور جہاں کہیں تم ہو اپنے منوں کو اس کی طرف پھیر دو اللہ تعالیٰ کا قول ولعلکم تهتدون تک</p>
<p>ابْنِ عُمَرَ (مکرر) (۲۹۲) باب قولہ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۹۲۵</p>
<p>فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>مِنْ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ حَضَرَ عَمَلَكُمْ وَعِلْمَكُمْ وَأَنْ تَقُولُوا عَرَبٌ</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>
<p>مِنْ شَيْءٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ حَضَرَ عَمَلَكُمْ وَعِلْمَكُمْ وَأَنْ تَقُولُوا عَرَبٌ</p>	<p>یہاں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک</p>

کتاب التفسیر جلد ۱۵
 لفظی سے دوسری
 - بینا الناس
 یصلون الصبح
 فی مسجد قبا
 جادعاء فقال
 انزل الله علیہ
 صلواتہ علیہ وسلم
 قرانا و مستقبل
 الکعبة فاستقبلوا
 فوجهوا الی الکعبة
 یہاں لکھیے کہ
 انزل علیہ
 صلواتہ علیہ وسلم
 سے معلوم ہو گیا کہ
 قرآن کا لفظ قرآن
 شریف کے مرکب
 جہد پر بھی استعمال
 ہوتا تھا اس میں
 ہے کہ پہلی نماز جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 توہین قبائے بعد از
 پڑھی وہ نماز
 عصر تھی اور ۲۹۲
 اور اس کی مکرر
 روایات میں ہے
 کہ قرآن کی سورتیں
 لوگ نماز پڑھتے تھے
 جب انکو یہ خبر پہنچی
 اور صلوات وغیرہ
 میں ہے انزل
 علیہ اللیلۃ فان
 آج رات قرآن اترا

حالانکہ یہاں ہر جگہ کہ توحید کی آیات عصر سے پہلے اتر چکی تھیں۔ تو رات کا لفظ اس مناسبت سے استعمال کیا ہے کہ وہ بھی دن کا آخری حصہ تھا۔
 لفظ یہ بات حضرت انس نے اپنی آخری عمر میں کہی مگر عینی میں ہے کہ اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو بصرہ میں تھے۔ اور وہ مجاہدین اولین تھے۔
 اور کہ یہ ثابت ہے کہ اہل بادیا میں سے کسی کو لوگ جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی حضرت انس کے بعد زندہ رہے۔ حضرت انس کی وفات ۳۷ھ میں ہوئی اور ان کی عمر ۱۰۳ سال تھی۔ ۳۷ھ الفنا قریب قریب ۳۹ھ کے ہی ہے۔ ۳۹ھ کے الفاظ میں ۳۷ھ میں اختصار ہے؛ صلواتنا مع اللہ صلواتنا مع بیت المقدس ستہ عشری اوستہ عشری شہراشم صر قہ نحو القبلة ۳۷ھ میں لکھیے کہ ابھی کے لئے توجہ دہیرے قلب کی پیروی میں کر لیتے اس کے قول انک اذا لمن الظالمین تک
 وقال انزل اللیلۃ قرآن فامران یتقبل الکعبۃ فاستقبلوا واستداروا الیکتھم فوجهوا الی الکعبۃ وكان وجه الناس الی الشام مک الفنا قریب

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ شَعَائِرُ عِلْمَاتٍ وَأَحَدُهَا شَعْبِيرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَصَعْوَانٌ

تَوْفِيئًا لِشَرِّهَا قَدَرُونَ جَانِسٌ وَاللَّهِ شَعَائِرُ نَشَانٍ هِيَ اس کا واحد شعبیرہ ہے اور ابن عباس نے کہا الصغوان

الْحَجْرُ وَيُقَالُ لِلْحَجْرَةِ الْمَلْسُ لَرَبِّي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَالْوَاحِدَةُ صَعْوَانَةٌ لِمَعْنَى

پتھر ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر جو پاٹ چکے ہیں جن پر کچھ نہیں اگتا اور مفرد صغوان ہے صغوان کے معنی ہیں

الصَّفَا وَالصَّفَا الْجَمِيعُ (۲۲۰۷-۲۲۰۸) عَنْ عُرْوَةَ (مُتَكَوِّرٌ-۸۷۲) (۲۲۰۸-۲۲۰۷)

اور صفا جمع کیلئے ہے (واحد صفا ہے) دیکھو حدیث ۸۷۲ ص ۷۷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرٌ-۸۷۳) بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي

دیکھو حدیث ۸۷۳ ص ۷۷ بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي

مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا أَوْ أَحَدًا نَدْبٌ (۲۲۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرٌ-

میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اس کے ہمسر بنا لیتے ہیں انداد۔ مقابیل رک معنی ہیں) اس کا نذرہ نذر ہے دیکھو حدیث

۲۲۰۹) بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

أَمْحَرِبًا حَرْبٌ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَفِي تَرِكَ (۱۸۷۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ

کیا گیا ہے آزاد ہو تو آزاد اللہ کے قول عذاب الیم تک عفی۔ چھوڑ دیا جائے ابن عباس سے روایت ہے کہا

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لِقِصَاصٍ أَوْ تَكُنْ فِيهِمُ الرِّبَاةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ

بنی اسرائیل میں قصاص تھا اور ان میں دیت نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے لئے

الْأُمَّةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَمْحَرِبًا حَرْبٌ أَلْيَسَ

ارشاد فرمایا کہ تم پر مقتولوں کے ہائے میں قصاص مقرر کیا گیا ہے آزاد ہو تو آزاد اور غلام ہو تو غلام اور عورت ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَمْحَرِبًا حَرْبٌ أَلْيَسَ

تو عورت مگر جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کھڑے سنانی دی گئی ہے تو نفی ہے کہ قتل عمد میں دیت قبول کر لے

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْعَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يُتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدَّى بِإِحْسَانٍ

اور فاتباہ بالمعروف وادعاء الیہ باحسان رک معنی یہ ہیں کہ دیت کا مطالبہ دستبرکے مطابق یا اچھے طریق پر کیا جائے اور دینے

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمْ فَذَلِكَ قَوْلُكُمْ فَمِنْ أَعْتَدَى بَعْدَ

دیت دینی ہے، وہ نیک کے ساتھ اور نیکے الٹ تخفیف اور رحم ہے یعنی اس کے مقابل پر جو تم سے پہلوں پر بڑھتا

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَتْلٌ بَعْدَ قَبُولِ الرِّبَا (مُتَكَوِّرٌ-۸۷۹) (۱۲۵۹-۱۲۶۰)

کیا گیا، لیکن اعتقاد الخ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کیلئے روٹا کہ اس پر جو معنی دیت قبول کرے بعد قتل کرے دیکھو حدیث ۸۷۹ ص ۷۷

۱۲۵۹-۱۲۶۰ ایک
یہی حدیث ہے۔
میں اس کے
ابتدائی حصہ کو
دوہرایا ہے۔
قتل عائشہ زوج
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم وانا
یومئذ حدیث
السنن اوائت
قول اللہ تبارک
وتعالی ان الصفا
والمروة من شعائر
اللہ فمن حج البیت
واعتمر فلا جناح
علیه ان یطوف
بہما فما ارے
علی احد شیئاً
لا یطوف بہما
فقال عائشہ ہلا
وکانت کما تقول
کانت فلا جناح
علیہ ان لا یطوف
بہما انما انزلت
ہذا الایة فی
الانصار کما نوا
یہلون لمتاة
راحام میں منات
بنت کا نام پکارتے
وکانت متاة حدیث
قد یدرکہ سے

مدینہ کے رستہ پر ایک مقام کا نام ہے، دکاؤا یخروحون ان یطوفوا بین الصفا والمروة فلما جاءه السلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس کی تشریح کے لئے دیکھو اصل حدیث و نیز نوٹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۰ مکرر روایت اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ سالت انس بن مالک رث عن الصفا والمروة فقال کنا نرى انهما من امر الجاهلية فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة الى قوله ان یطوف بہما۔ مکرر روایت کے لفظ اور میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتہ وقت اخری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو یدعو عن دون الله نذا دخل النار وقتل اناعن مات وهو لا یدعو لله نذا دخل الجنة دیکھو نوٹ ص ۳۸۲ ص ۳۸۲ دیت یا تو نہما بل ارادہ قتل میں تو ہے ہی۔ مگر یہاں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قتل عمد میں بھی اگر عفو سے کام لیکر تو نہما قبول کرے تو اچھا ہے۔ مکرر روایت محقر ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب الله القصاص +

<p>(م-۲۲۱) عَنْ أَبِي حَنِيسَةَ (متکثر-۱۲۵۹) (۲۲۱) بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا</p>	<p>۱۰ قنوں سے اور</p>
<p>بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِطَوْلِ اللَّهِ عَزِيزٍ</p>	<p>اختلاف بغلی سے</p>
<p>كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (م-۲۲۱۲)</p>	<p>وہ ہر ایسے سے کہ ان کے</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۹۵۸) (م-۲۲۱۳) عَنْ عَائِشَةَ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>الربیع عتہ کسوت</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>ثلیثہ جاریۃ فصیبا</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>اللہ العنونی اور</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>فرض لارش</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>سائبرانا اور</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>رسول اللہ صلعم</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>وایو الالقصاص</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>فامرو رسول اللہ</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>صلعم بالقصاص</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>فقال اس بن</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>الضحی یا رسول اللہ</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>اکیس ثنیۃ الربیع</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>لا الذی یعاش</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>بالحق لا کسی</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>ثبت تھا حق رسول</p>
<p>عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر-۸۴۸)</p>	<p>اللہ صلعم علیہ</p>

قصاص ہے۔ اور یہ صرف یہودیوں پر فرض کیا گیا تھا۔ وکتبتنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعين واللائف باللائف والا ذن بالاذن والس بالسن والجور قصاص (المائدہ - ۴۵) اس میں سے النفس بالنفس کے حصے کو تو قرآن شریف نے یہاں بھی کتب علیکم القصاص فی القتل لیکن زخموں میں قصاص کو نہیں لیا۔ تو غالباً اس حدیث کی روایت میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور بہر حال نتیجہ تو یہ ہے کہ بجائے وائنت توڑنے کے جو قصاص تھا دیت پر فیصد ہوا۔ لہذا عمل اصول قرآنی کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ ہرگز کسی روای سے غلط فہمی ہوگی جو غلط ہے۔ علیٰ بیان الفاظ یوں ہیں: کان عاشوراء یصومہ اهل الجاہلیۃ فلما نزل رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه + من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه + من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه کان عاشوراء یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه + من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما نزل رمضان کان رمضان الغریضۃ و ترک عاشوراء فکان من شاء صامہ ومن شاء لم یصمه +

(م-۲۲۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مکریم ۸۱۸) (۲۹) بَابُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ

دروازوں سے آؤ اور اللہ کا تقویٰ کرو تاکہ تم کو میاں ہو
دیکھو حدیث ۸۱۸ م

أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (م-۲۲۲) (مکرر-۹۲۳)

بَابُ قَوْلِهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ

پھر اگر وہ رک جائیں تو موافقوں کے سوا اور کسی کے لئے نہیں ہے
بانی اللہ تعالیٰ کا قول دیکھو (۱۹) اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو

أَنْتُمْ وَلَا أَعْدَاءُ وَإِنَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (۸۸۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّكَ رَجُلَانِ فِي

میں ان کے پاس دو شخص آئے انوں نے کہا کہ لوگ تو دیکھا کیا کر رہے ہیں اور آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

فِتْنَةٌ ابْنُ الرَّبِّ فَقَالَ إِنْ النَّاسُ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ

تو کونسی بات آپ کو روکتی ہے کہ آپ انہیں انوں نے کہا مجھے یہ روکتا ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کے پیٹ

أَرْحَى فَقَالَ لَا تَفْعَلْ اللَّهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَقَالَ قَاتِلْنَا حَتَّى لَا نَكُونَ

کو حرام کیا ہے انوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے

فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَفْجُرُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

غیر اللہ کے لئے ہو جائے
نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور کہا اے ابو عبد الرحمن

الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ تَخْرُجَ حَامًا وَتَعْتَمِرَ حَامًا وَتَتْرِكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ

کس بات نے آپ کو اس پر آمادہ کیا ہے کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک چھوڑتے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَرْحَى بِنِي الْإِسْلَامَ عَلَى

ہیں معلوم آپ جانتے ہیں جو عزیز اللہ نے اس کی طرف دلائی ہے کہ میرے پیچھے اسلام کی ناپاکیاں جینوں پر ہے

خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پانچ نمازیں رمضان کے روزے زکوٰۃ کا دینا

وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ

بیعت اللہ کا حج کرنا کمالے ابو عبد الرحمن آپ وہ نہیں سنتے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اگر

طَارَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ

مومنوں کے دو گروہ جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرو اور اللہ تک راہنما رہو ان سے جنگ کرو

۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

تقریب ہو جو وہ کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی فریق کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں کسی کو دین اسلام سے باہر نکلنے پر مجبور نہ کیا جا رہا تھا لیکن ابن عمر کہتے ہیں کہ تم لڑتے ہو تاکہ دین غیر اللہ کے لئے ہو جس سے مراد ان کی سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ تم ایک دوسرے پر جبر کرنے کے لئے لڑتے ہو۔ اور وہ ممکن فتنہ میں فتنہ سے مراد بھی ہے کہ دین کی کسی کو دکھ نہ دیا جائے پس فتنہ کا رہنا اور دین کا اللہ کیلئے ہونا میرے ہی کو دین کیلئے کسی کو دکھ نہ دیا جائے۔ اور دین کا غیر اللہ کیلئے ہونا یہ ہے کہ کسی شخص کو دین کیلئے دکھ دیا جائے، لہذا جہاد سے مراد صرف جنگ کرنا ہی ہے اور اس جنگ میں شمولیت کا ذکر ہے جو آپ کی حدیث میں مذکور ہے۔

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

میان تک کہ فتنہ نہ رہے (۱۹۳) ابن عمر نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی طرح کیا اور اہل اسلام

الْإِسْلَامَ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُغْتَنُّ فِي دِينِهِ أَمَّا قِتْلُهُ وَرَأْمًا يُعَذِّبُ بُوَا حَتَّى كُنَّا

تھوڑے تھے تو ایک شخص کو اپنے زمین کے باغے میں دکھ دیا جاتا تھا یا اس کو قتل کرتے تھے یا اسے تکلیف دیتے تھے

الْإِسْلَامَ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عِبْرِي وَعَنْهُمْ قَالَ أَمَّا عَنْهُمْ فَكَانَ

میان تک کہ اہل اسلام زیادہ ہو گئے اور فتنہ نہ رہا بلکہ کیا تو علی اور عثمان کے باغے میں آپ کی کیا رائے ہے کہا حضرت عثمان کو تو اللہ نے

اللَّهُ حَفَا عُنْدَهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكِرْهْتُمْ أَنْ يُعْفُو عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَبْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

معاف کر دیا اور تم ناپسند کرتے ہو کہ اس کو معاف کرے اور حضرت علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَحْتَنَهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرُونِ الرَّسْمَ بَابُ

بھائی اور آپ کے دام میں اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھتے ہو

قَوْلِهِ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

اللہ تعالیٰ کا قول و انفقہ الخ (۱۹۴) اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو

الْمُحْسِنِينَ التَّهْلُكَةَ وَالْهَلَكَ وَأَجِدُ الرَّسْمَ ۱۸۸۳ عَنْ حَدِيثٍ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پیار کرتا ہے لہذا اور ہلاکت یعنی ایک ہی میں جتنی تباہی عذیب سے روایت ہے کہا و انفقوا فی سبیل اللہ ولا

تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي التَّفَقُّهِ ۲۲۲ بَابُ قَوْلِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

تلقوا بايديكم الى التهلكة خرچ کرنے کے باغے میں اتری ہے

مَرِيضًا أَوْ يَهُ أَوْ يَهُ مِنْ رَأْسِهِ ۲۲۲ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ (مُتَكَرِّرٌ) ۹۲۷ (۲۲۲)

بہن جو کوئی تریس سے بیمار ہو یا اس کے سر میں دکھ ہو

بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ تَشَرَّحَ بِالْعَمْرِ قَوْلًا لَوْ لَمْ يَجِدْ ۲۲۳ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (مُتَكَرِّرٌ)

بایں اللہ تعالیٰ کا قول من فتنتم الخ (۱۹۵) جو کج کے ساتھ مل کر فائدہ اٹھائے

۸۳۹ (۲۲۴) بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مَنِ زَكَاةً ۲۲۴

بایں اللہ تعالیٰ کا قول لیس علیکم الخ (۱۹۶) تم بیکوئی گناہ نہیں کر لینے رب کا فضل طلب کرو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرٌ) ۹۱۱ (۲۲۵) بَابُ قَوْلِهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقْبَضُ

دیکھو حدیث ۹۱۱

الْقَاسُ ۲۲۵ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرٌ) ۸۸۰ (۲۲۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

بوگ آتے ہیں دیکھو حدیث ۸۸۰ ابن عباس سے روایت ہے کہا

يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَاكًا حَتَّى يَهْلِكَ بِالْحَجِّ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمِنْ

انسان جب تک حرام نہ دیکھے طواف کرتا ہے

انسان جب تک حرام نہ دیکھے طواف کرتا ہے

ملہ فتنہ نہ رہا اور
دین اللہ کے لئے
ہو گیا حالانکہ نبوی
عیسائی مشرک بھی
تک موجود تھے مگر
اہل اسلام کی کثرت
کی وجہ سے اب
دین کے باغے میں
دکھ نہ دیا جاتا تھا
ملہ مطلب یہ ہے
کہ رعل کو اللہ کی
راہ میں خرچ نہ کرنے
کو اپنے ہاتھوں سے
ہلاکت میں ڈالنا
قراریا ہے
ملہ کہ مرطبت
زیادہ تفصیل اور
اختلاف لفظی سے
آئی ہے۔ قتال
محدث اہل لہجہ
ابن عمر تو فی ہذا
ابن ماجہ یعنی مسجد
الکوفہ خصالہ
عن فدایہ عن
صیام فقال حملت
الی لیسے صلہ اللہ
والقلینا فرطہ
وہی فقال فانت
ادوی ان الجهد
قد بلغنک ہذا
اما تجد شاة قلت
لا قال صم شاة
ایام ادا طعمتہ

مساکین نکل مسکین نصعت صامع من طعام واصلح واساک فنزلت فی خاصۃ وہی لکم عامۃ ملہ لفقوں میں کچھ اختلاف ہے۔ انزلت ایاہ المتعہ
فی کتاب اللہ ففعلنا ہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یزل قرآن یخبرہ ولم ینہ عنہا حتی مات قال رجل برأیہ ما شاء ویکبر نورث
ملہ صفحہ ۲۵۴ ملہ تھوڑے اختلاف الفاظ سے دوہرایا ہے۔ کانت عکاظ وجمہ وذوالحجاز اسواق فی الجاہلیۃ فاشموان یخبروا فی النہر اسم
فزلت لیس علیکم جناح ان تبغوا فضلا من ربکم فی مراسم الحج ملہ عمنہ کے کچھ حصہ کو اختلاف الفاظ سے دوہرایا ہے کانت قریش من ان یوینھا
یلقون بالہزولۃ وکانوا یسمون الحسن کان سائر العرب یقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر اللہ بنیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتی عرفات ثم
یقف ہا ثم یفیض منها فذلک قولہ تعالیٰ ثم افیضوا من حیث افاضنا من ملہ یعنی متع کی صورت میں

حَرَّثَ لَكُمْ فَأَتَوْا حَرَّثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدْ هَوَا لَأَنْفُسِكُمُ الْآيَةَ (۱۸۸۶) عَنْ نَافِعٍ قَالَ

تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں پس جب چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جانوں کیلئے آگے بڑھو اور فیر تک نافع سے روایت ہے

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُدْعِكُمْ حَتَّىٰ يَفْرَخَ مِنْهُ فَأَخَذَتْ عَلَيْهِ مِيرًا فَقَرَأَ

کہ ابن عمر جب قرآن شریف پڑھتے تو بات نہ کرتے یہاں تک کہ اس سے فرخ ہو جاتے میں نے ابن کے لیے قرآن لیا انہوں نے

سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَا أَنْزَلْتُ قُلْتُ لَا قَالَ أَنْزَلْتُ

سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک مقام تک پہنچے تو کہا جانتے ہو یہ آیت کس باب سے ہے میں نے کہا میں کما فلان

فِي كَذَا وَكَذَلِكَ مَضَىٰ (۱۸۸۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَّأ حَرَّثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ قَالَ يَا أَيُّهَا

فلان بات کے بالعموم میں اتنی پھر آگے چلے گا ابن عمر سے روایت ہے کہ نافع تو احوال کو حکم انہی شئتم کما اس کے پاس آئے

فِي (۱۸۸۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَاءَهَا مِنْ دَرَاهِمًا

جابر سے روایت ہے کما یہود کہتے تھے کہ جب عورت کے پیچھے کی طرف سے

حَاءَ الْوَلَدِ أَحْوَلُ فَزَلْتُ نِسَاءً لَمْ يَحْرَثْ لَكُمْ فَأَتَوْا حَرَّثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ

صحبت کرتے تو بچی بیچنا بھرا ہوتا ہے مثلہ تو یہ آیت اتنی تھی کہ حورث لکم نافع تو حورثکم انہی شئتم

(۲۷۰) بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْمَلُهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ

باب اللہ اللہ تعالیٰ کا قول واذا طلقتم النساء لعلن اجملھن اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی بیعت کو پہنچ جائیں تو انہیں مت دو

يُنْكِحُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ (۱۸۸۹) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِي أُخْتُ

کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کریں معقل بن یسار سے روایت ہے کما میری ایک بہن تھی جس کے نکاح کا

تَخَطَّبَ إِلَيَّ رُوَيْفِيُّ رَوَيْفِيٌّ رَوَيْفِيُّ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَطَلَتْهَا

پیغام مجھے دیا جاتا تھا اور حسن سے ایک روایت میں ہے کہ معقل بن یسار کی بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دی تھی

زَوْجَهَا فَزَلَّهَا حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَبَلَغَ مَعْقِلٌ فَزَلْتُ فَلَا

اور اسے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی تب اس نے اس کے نکاح کا پیغام بھیجا تو معقل نے انکار کیا اس روایت

تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ (۲۷۱) بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ

اتنی فلا تعضلوھن انہی نکحن اڑواجھن علیہ باطلی اللہ تعالیٰ کا قول والذین یتوفون منکم

وَيَذُرُونَ أَرْوَاجًا لِرَضْنٍ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِلَىٰ بَيْتٍ لَعْمَلُونَ

کی وفات ہو جائے اور وہ بیویاں پیچھے چھوڑیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار میں رکھیں (۲۳۴) بعا تعملون خیراتیک

خَيْرَاتُهُمْ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ (۱۸۹۰) عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعَامِرِ

یعقوب (۲۳۷) یہہہ کہ میں ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر نے کہا میں نے حضرت عثمان

ابْنِ عَمْرٍاءَ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَرْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخْتَهَا الْآيَةَ

بن عمرفان سے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون اڑواجا کو تو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے

الْأَخْرَىٰ فَلَمْ تَنْكُحْهَا وَأَتَدْعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُعِيدُ شَيْئًا مِنْهَا مِنْ مَكَانِهِ

تو آپ کیوں اسے لکھنے میں یا کیوں اسے (صحیح میں) چھوڑتے ہیں تو کہا میرے بھتیجے میں اس میں سے کچھ بھی اپنی جگہ سے بدلنے والا نہیں

ہی ذکر ہو جسے سچے بیبا ہو یہ بڑا کا خیال ہو کہ یہ بات کہ قرآن کریم کی آیت اسی کے معنی نازل ہوئی حضرت جابر کا خیال جو قرآن کریم میں یہ سارے مضمون طلاق کے مسائل کا تفسیر

میں ایک پرکٹ طریق پر بیان ہوا ہے۔ کما اس سے معلوم ہوا کہ مطلق عورت کا نکاح اپنے پہلے خاوند سے درست ہے۔ کما اس سے عاود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان

اس آیت کو منسوخ نہ سمجھتے تھے انکی دلیل یہ تھی کہ اس جگہ تو اس آیت کو ہی کریم نے فرمایا ہے خود لکھا یا میں اسے اسکی جگہ سے کس طرح بدل سکتا ہوں۔ ابن زبیر کا یہ کہنا کہ جب یہ آیت

منسوخ ہو تو آپ قرآن کریم میں کیوں لکھتے ہیں عمایا تاہی کہ تم سے کہ حضرت عثمان بن زبیر ابن الزبیر کے کسی جھگڑے منسوخ نہ سمجھتے تھے اور وہ دوسرے صحابہ کو عام جو لکھنے والے تھے اس میں منسوخ

ہے یعنی جنہوں نے پہلے قرآن شریف کو جمع کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت زید حضرت علی وغیر ہم سب کے پاس تاکہ قائل تھے کہ جو کچھ صحیفہ میں اس کا کئی حصہ منسوخ

۱۸۸۶ اس حدیث میں تصریح نہیں کر کے باب سے اتنی۔ اگلی میں کہ ہے کہ یہ آیت نافع تو احوال کو حکم انہی شئتم کما اس کے پاس آئے اس باب سے بعض احادیث ایسی ہیں جو قابل وثوق نہیں ان حدیث کے معنی اگر کیفیت شئتم لے جائیں یعنی جس طرح تم چاہو تو بھی اس کا مطلب سولے اسکے کچھ نہیں کہ جس طرح چاہو فطرت انسانی کا تقاضا ہے مگر انکی کے معنی میں ہیں اور بعض میں شحاک سے مروی ہیں اور حیض سے پاک ہونے کے بعد ان الفاظ کا لازمی ہی بنتا ہے اسباب تم چاہو یعنی اس کی احادیث نفس کی ہیں جن میں عورت کے ساتھ خیانت وضع فطرت کسی امر کی خواہش کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے اس حدیث کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں وضع فطرت کا

ہے یعنی جنہوں نے پہلے قرآن شریف کو جمع کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت زید حضرت علی وغیر ہم سب کے پاس تاکہ قائل تھے کہ جو کچھ صحیفہ میں اس کا کئی حصہ منسوخ

۱۸۹۱ عن ابن ابی نجیح عن جابر عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل منکم یؤتی فقیہاً من فقیہائنا فیکلمہ فیما یشاء من حدیثنا فیکتب لہ منہ ما یشاء من حدیثنا

ابن ابی نجیح جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ما والذین یتوفون منکم ویذرون اذواجاً

قال كانت هذه الجدة تعد عند اهل زوجها واجب فانزل الله والذین یتوفون

یذرون اذواجاً وصیۃ لاهلہا انما یتوفون اذواجہم من غیر ما یشاء من حدیثنا

انہم من غیر ما یشاء من حدیثنا اور وہ جو جاپے ہر کے عزیزوں کے ہاں گزارتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اذواج سے لے کر ان کے عزیزوں کے لئے سال تک رکھے ان کے لئے سال تک رکھے ان کے لئے سال تک رکھے ان کے لئے سال تک رکھے

فان خرجن فلا جناح علیک فی ما فعلن فی انفسہن من معروف قال جعل

وصیت کریں پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے بعد ازیں اپنے حق میں کیا ہے کما اشیئے سال پورا اللہ لہا تمام السنۃ سبعۃ اشھر وعشرین یکۃ وصیۃ ان شاءت سکتت فی

کرنے کے لئے سات مہینے اور بیس راتوں کی مدت وصیت کی بنا پر مقرر کی ہے اگر بیوی چاہے تو اپنے متعلق وصیت کے وصیہا وان شاءت خرجت وهو قول للہ تعالیٰ غیر اخراج فان خرجن فلا

واجب علیہن اور چاہے تو چل جائے اور یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے غیر اخراج فان خرجن فلا جناح

جناح علیک قال لولا انکما ہی واجب علیہما من ذلک عن جابر عن ابي

عبد اللہ بن مسعود ان ابن ابی نجیح نے یہ جابر سے روایت کیا ہے اور عطاء نے کہا

قال بن عباس سخط هذه الاية عند اهلها فتعدت حيث شاءت و

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت نے شوہر کے قریبیوں کے ہاں عورت کے عدت گزارنے (کی رسم) کو منسوخ کر دیا ہے جہاں چاہے عدت ہو قول للہ تعالیٰ غیر اخراج قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلہو

گزارے اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا غیر اخراج عطاء نے کہا اگر چاہے شوہر کے گھرانوں کے یہاں عدت گزارے اور

سکتت فی وصیۃ وان شاءت خرجت بقول للہ تعالیٰ فلا جناح علیک و

وصیت کے معانی ہیں اور چاہے تو چلی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر اس بلکہ میں گناہ نہیں

فیما فعلن قال عطاء ثم جاء الیہا ثم جاء الیہا ثم جاء الیہا ثم جاء الیہا

جو وہ کریں عطاء نے کہا پھر حکم میرا تھا آیا تو اس نے رہائش کو منسوخ کر دیا اور جہاں چاہے عدت گزارے

ولا سکن لہا روفی رواہ ابن مسعود عن ابن عباس قال سخطت هذه الاية عند اہلہا

روایت صحیح اس کو ہمیں عطاء اور ایک روایت میں ابن عباس سے ہے کہ اس آیت نے عورت کے اپنے شوہر دونوں کے

عن ابن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن ابي جابر عن عبد اللہ بن مسعود عن ابي جابر

محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انصار کے بڑے بڑے بزرگ تھے اور ان میں

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بھی تھے تو میں نے عبد اللہ بن عباس کی حدیث کا ذکر کیا جو

سببہ بنہ فخرجت فقال عبد الرحمن والکون عمنہ کان لا یقول ذلک

سببہ بنہ فخرجت حارث کے متعلق سے جبکہ تو عبد الرحمن نے کہا مگر ان کا بچا ایسا نہیں کہ تھا

۱۸۹۱ اس حدیث سے اس بات کو عانت کیا ہے کہ یہ آیت وصیۃ کا ذرا بہم منسوخ نہیں ہے بلکہ منسوخ وہ دم ہوئی جس کے رو سے عورت کے لئے ضروری تھا کہ وہ عدت شوہر کے قریبیوں کے ہاں گزارے۔ اس معاملہ میں اسے اختیار دیا گیا ہے چاہے وہاں گزارے جائے و دوسری جگہ لیس صحیح نہیں وصیت متاعاً الی الحول غیر اخراج حکم و رفتہ سے منسوخ نہیں بلکہ دونوں حکم اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ البتہ وصیت کا حکم سفارش کے رنگ میں معلوم ہوتا ہے بلکہ سیرین نے حارث سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے ان کا خاندانوں سے ہو گیا تو ہمیں دن بعد کہ ہاں چھوڑنا ہوا تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ تمہاری عدت چاہے جہاں جس دن ہے۔ وہ بھی کریم تسلیم کی

نہ حضرت میں حاضر ہوئیں تو اپنے فرمایا تمہاری عدت پوری ہوگئی۔ جہاں چاہو نکاح کرو

قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقَيْتُ فُلَيْكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَلَكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ

کہا پھر میں نکلا اور مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے ملا میں نے کہا عبداللہ بن مسعود

قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَتُونِ عَنْهَا زَوْجَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

اس عورت کے پاس میں کیا کہتے تھے جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ حاملہ ہو تو کہا کہ ابن مسعود نے کہا

أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرِّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقَصِيرُ

کہ تم اس پر سختی ضروری ٹھہراتے ہو اور اسے سہولت نہیں دیتے چھٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق (سورہ یعنی بقرہ)

بَعْدَ الطَّوْلِ (۲۲۲) بَابُ قَوْلِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى

کے بعد نازل ہوئی ہے۔ باب ۲۲۲ اشرفی کا قول حافظوں الخ (۲۳۸) اور تم اپنی نمازوں اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو

(م- ۲۲۲) عَنْ عَلِيٍّ (م- ۲۲۲) بَابُ قَوْلِهِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

دیکھو حدیث ۱۳۲۸ باب ۲۲۲ اشرفی کا قول وقوموا الخ (۲۳۸) اور اللہ

مُطِيعِينَ (م- ۲۲۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ (م- ۲۲۲) بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

کیے قانتین یعنی فرمانبراری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ دیکھو حدیث ۶۵۹ باب ۲۲۲ اشرفی کا قول

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَاكَ أَوْ رُكْبَانَ فَإِذَا رَكِبْتُمْ فَأُذِرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ قَالَ لَتَكُونُوا

فان خفت الخ (۲۳۹) اگر تم میں سے کوئی سوار ہو کر اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو یہ سکھایا جو

تَعْلَمُونَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ كَرِّسِيَّتِهِ عَلِمَةٌ يُقَالُ بَسَطَهُ زِيَادَةٌ وَفَضْلًا فَرِخٌ

تم نہیں جانتے تھے ابن جبیر نے کہا کرسیہ (۲۵۵) اس کا علم ہے کہا جاتا ہے کہ بسطہ (۲۴۶) زیادتی اور فضیلت ہے افزہ

أَنْزَلَ وَلَا يُؤَدُّهُ وَلَا يُثْقَلُهُ أَدْنَى ثِقَلَيْنِ وَالْأَدْوَالُ وَالْأَيْدُ الْقُوَّةُ السَّنَةُ نَعَاسٌ

(۲۵۵) اتار۔ دیکھا یوڈہ (۲۵۵) اس پر گرائیں نہیں ادنیٰ مجھ پر گراں ہوا اور ادوال (۲۵۵) قوت ہے السنۃ (۲۵۵) اونگھ

يَسْتَنُّهُ يَتَغَيَّرُ فَبِهِتَ ذَهَبَتْ مِحْنَتُهُ خَارِيَةٌ لَأَنْبَسٍ فِيهَا عُرْوٌ شَتَاهُ أَبْنَيْتُهَا

یستنہ بگڑتا ہے بہت (۲۵۵) اس کی دلیل رانگان) گئی یعنی ہار گیا خاوند (۲۵۹) اس میں رہنے والا کوئی نہیں عرو شہارہ (۲۵۹) اس کی

السَّنَةُ نَعَاسٌ نَشْرُهَا نَشْرُهَا أَعْصَارٌ زَيْجٌ عَاصِفٌ تَهْبُتُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى

عامر بن السنۃ (۲۵۵) اونگھ نشوونما (۲۵۹) تم اسے نکالتے ہیں اعصار (۲۶۶) تند ہوا جو زمین سے اُبھرنے کی طرف اٹھتی ہے

السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَدَ الْبَيْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ

جیسے ایک ستون جس میں آگ ہو اور ابن عباس نے کہا صلدا (۲۶۳) جس پر کچھ بھی نہ ہو اور عکرمہ نے کہا

وَأَبْلٌ مَطْرٌ شَدِيدٌ الظُّلُّ الشَّدَايُ وَهَذَا امْتِلَاحٌ مِمَّنْ أَسْمَاءُ مِمَّنْ يَسْتَنُّهُ يَتَغَيَّرُ

واہل (۲۶۵) زوری بارش ظل اوس اور یہ مومن کے عمل کی مثال ہے یستنہ (۲۵۹) بدل گیا یا بگڑ گیا

(م- ۲۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (م- ۲۲۳) بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ

دیکھو حدیث ۵۵۴ باب ۲۲۳ اشرفی کا قول والذین الخ

۱۔ سورہ طلاق میں ہے سورۃ النساء قصصی کہا ہے۔ اوکات الاحمال یعنی حمل والی عورتوں کی عدت صاف الفاظ میں یوں مذکور ہے کہ حمل وضع ہو جائے پس اگر نوما بعد وضع حمل ہو تو اتنی مدت سے انشطار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایک ماہ بعد وضع حمل ہو جائے تو پھر اسے یہ سہولت بھی ملنی چاہئے کہ وضع حمل کے ساتھ اس کی عدت کو پورا سمجھا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی میعاد باقی ہے تو وضع حمل تک عدت کو ضروری قرار دیا جائے تو پھر چار ماہ دس یوم کی عدت کو اس کے لئے ضروری ٹھہرایا جائے سورہ بقرہ ہے۔ جو قرآن کو یہی سب

سے لمبی سورت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں عام عدت بیوہ کی چار ماہ دس یوم قرار دی گئی لیکن جب سورہ طلاق نازل ہوئی تو اس نے حمل والی عورتوں کی عدت کو وضع حمل قرار دے کر سورہ بقرہ کے حکم عدت سے مستثنیٰ کر دیا۔ اس لئے محمد آگے پیچھے کرئیے ہیں۔ ان النبی صلعم قال یوم الخندق حسبنا عن صلوة الوسطی حتی غابت الشمس ملا اللہ تبارک و تعالیٰ و بہوہم ادا جواہم شکر عینی فاذا دیکھو نوٹ ۱۔ صلۃ ۶۶۱۔ تقریباً انی الفاظ میں حدیث کو دو مایا ہے۔ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ پہلے لوگ نماز میں کچھ ضرورت کی بات کر لیا کرتے تھے۔ ضرورت کی بات سے مطلب ایسی بات کا معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً کسی اسم علیکم کہا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم بھی سلام کا جواب دیدیتے تھے یا ایسا ہی کوئی اور ضروری امر ہوتا ہوگا جس میں اسی وقت جواب لینے کی ضرورت ہو۔ جب تو ہوا اللہ قانتین نازل ہوا تو اس سے روک دیا گیا یعنی اس وقت تو ہوا تمام نماز کی طرف ہونی چاہئے۔ صلۃ ۵۵۴ میں

رقبہ صفحہ ۱۰۶۱
 بیان وایت یون
 کان اذا سئل عن
 صلاة الخوف قال
 يتقدم الامام و
 طائفة من الناس
 فيصليهم الامام و
 ركعتا وكون طائفة
 منهم بينهم وبين
 العدو لم يصلا
 فاذا صلوا الذين
 معه وركعتا سألوا
 مكان الذين لم
 يصلا وادكا يستلوا
 ويتقدم الذين لم
 يصلا فيصلون
 معه وركعتا ثم ينصرف
 الامام وتدرج
 ركعتين فيقوم كل
 واحد من الطائفتين
 فيصليون لانفسهم
 وركعتين ان ينصرف
 الامام فيكون كل
 واحد من الطائفتين
 قد صلى ركعتين
 راسا من الخوف
 حصصا كالمؤمنين
 من غير خوف
 فان
 كان خوف هراشدا
 من ذلك صلوا
 رجلا قيا فاعط
 اقرارهم او كتبوا
 مستقبلة القبلة

يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ اَزْوَاجًا رَهْمًا - ۲۲۳۱ - عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَكَرِّرًا (۱۸۹۰)
 اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور عورتوں چھوڑیں
 دیکھو حدیث ۱۸۹۰

بَابُ قَوْلِهِ وَارِثًا قَالَ ابْنُ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَلَاحَظَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي حَرْبٍ فَلَمْ يَلْمِ أَحَدًا مِنْهُمَا فَهُوَ كَأَنَّكَ تَلْمِزُهُمْ
 ابشر تعالیٰ کا قول فاذا قال الخ (۲۶۷۰) اور جب حضرت پر ایمان لے عمن کیلئے میرے رب مجھے دکھا کر صلح توڑنے سے زبرد
 کرتا ہے
 دیکھو حدیث ۱۵۲۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا ۱۵۲۳) بَابُ قَوْلِهِ أَيُّذُ أَحَدِكُمْ أَنْ
 تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَتَفَكَّرُونَ (۱۸۹۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 جابر ہے کہ اس کا ایک بارخ ہوا اللہ کے قول يتفكرون تک
 ابن عباس اور عبید بن عمر سے روایت ہے

عُمَيْرٌ قَالَ عَمْرُوهُ يَوْمًا لَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا تَرَوْنَ هَذِهِ آيَةَ
 نَزَلَتْ أَيُّذُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا
 کہ حضرت عمر نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا
 کہ اس آیت ایوذا احدکم ان

تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ كَمَا تَكُونُ لَكُمْ جَنَّةٌ قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا
 نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ
 اور کہا کہ کوہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے تو ابن عباس نے کہا لے امیر المؤمنین میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات آئی ہے حضرت
 عمر کیا ابن امی قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعيل قال

عُمَرُ يَا ابْنَ أُمِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَيْلٍ قَالَ
 عمر نے کہا میرے بھتیجے کو اور اپنے تئیں حقیر مت سمجھو
 ابن عباس نے کہا یہ عمل کی مثال کے لئے بیان ہوئی ہے حضرت

عُمَرُ يَا ابْنَ أُمِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَيْلٍ قَالَ
 عُمَرُ يَا ابْنَ أُمِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَيْلٍ قَالَ
 عمر نے کہا کوہم عمل
 ابن عباس نے کہا کسی عمل کے لئے جو اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرتا ہے

جَلَّ ثَمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى آغْرَقَ أَعْمَالَكَ (۲۸)
 پھر اللہ اس کے لئے شیطان کو مقرر کر دیتا ہے مصلحت تو وہ گناہ کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پچھلے اعمال کو ڈبو دیتا ہے

بَابُ قَوْلِهِ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَقَّ يُقَالُ أَحْفَ حَلْفٌ وَأَحْفَانِي
 ابشر تعالیٰ کا قول لا يسألون الخ (۲۴۳) لوگوں سے پوچھ کر نہیں مانگتے کہا جاتا ہے المعن حلف والحف حلف واحفان بالمسئلة
 راس سے اگلے
 حصص کا مشورہ ہے

بِالسُّؤَالِ فَيُحْفِكُمْ يَحْفِكُمْ رَجْمًا (۲۲۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَرِّرًا ۲۹۵)
 دیکھو حدیث ۲۹۵

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبُورَ الْمَشْرُوعِينَ (۲۲۳۵)
 ابشر تعالیٰ کا قول واحل الله الخ (۲۴۵) اور اللہ نے بیع کو جائز کر دیا ہے اور سو کو حرام کر دیا ہے جس میں دیر لگی ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَرِّرًا ۳۲۲) بَابُ قَوْلِهِ يَسْتَحِنُّ اللَّهُ الرِّبَا بِلِيبِ هَبْءٍ
 دیکھو حدیث ۳۲۲

ادعير واستقبلها قال مالك قال نافع لا اري عبد الله بن عمرو ذكر ذلك الا عن رسول الله صلعم. زاد حفصه من يتايا به كرك خوف اس سے ہی زیادہ ہو یعنی
 آدھے آدمیوں کو بھی دشمن کے مقابل پر کھڑے ہونا کافی ہو تو ہر شخص جرمات میں ہونا زیادہ ہے خواہ منہ قبلہ کی طرف بھی نہ ہو اور خواہ سوار ہو یا پیل میں رہا ہو وہ
 رصفہ پڑا) ملے قریباً ہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ علی لبطان قلبی تک ۳۳۵ھ کو انہی الفاظ میں دہرایا ہے مگر یہاں سخن اسحق کے ساتھ بالمشاک کا لفظ بڑھایا ہے
 اس کیلئے دیکھو نوٹ ملاحظہ ۸۰۔ ۳۳۵ھ شیطان اسی کیلئے مقرر ہوتا ہے جو اس کی ہر حرکت قبول کر لیتا ہے یعنی مالدار آدمی جب لڑتا ہے تو بھی وہ احسان قتال ہے اور کبھی
 الشیطان یہ کہ انفس کے مطابق یہ شیطانی خیال اس کے دل میں آتا ہے اس طرح ماں بٹے جائیے اس کا مال کم ہو جائیگا یا مالدار مریضی و صدمہ اور گنہگار ارتکاب کرنا ہو
 یا تعیش میں پڑ جائے۔ ۳۳۵ھ کو ضیف اختلاف لفظی سے دہرایا ہے۔ قال النبی صلعم لیس المسکین الذی تزود التمران والتمران واللقمة کا اللقماص

الْمُطَهَّمَةِ الْحَسَانُ وَقَالَ ابْنُ جَبْرِ وَحْصُورًا لَا يَأْتِي لِنِسَاءٍ وَقَالَ عِكْرِمَةُ

(تفسیر صفحہ ۱۰۶)

مَنْ فُورَهُمْ مِنْ خَضِبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُخْرِجُ الْحَيَّ النَّطْفَةَ تُخْرِجُ

یوں ہیں۔

مَيْتَةٌ وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ الْأَبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَتَمَى مَبْدَأُ الشَّمْسِ أَرَاهُ

عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إِنِّي أَنْتَعَرْتُ بِرَبِّكَ يَا رَبِّكَ مِنْهُ آيَاتٌ فَحُكْمَاتٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْحَلَالُ

أحسبه ابن عمر أن تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

وَالْحَرَامُ وَأَخْرَجَ مُشَابِهَاتٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يُضِلُّ بِهِ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

رَأَى الْفَاسِقِينَ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَيَجْعَلُ لِلرَّجْسِ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

كَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى زَيْجًا بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ بِرَبِّكَ

ان تبتا واما في أنفسكم أو فتخوه قال نسخها الآية التي بعد ها

(۲۲۴۱-۲۲۴۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متكرر- ۱۱۴۲۷) (۲۲۴۲-۲۲۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

ابْنِ أَبِي أَوْفَى (متكرر- ۱۰۴۱۱) (۱۸۹۶) عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ

دیکھو حدیث ۱۰۴۱۱

كَانَتَا خِزْرَانٍ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحَجْرَةِ فَخَرَجَتْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ انْفَدَّ بِهَا شَقَا

فِي كَفْهًا فَأَدَعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرَفَعَهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَهَبَ دَمَاءُ

قُرُومِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكَرَهَا يَا اللَّهُ وَأَقْرَعُوا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ

اللَّهِ فَذَكَرَهَا فَأَعَارَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينُ

عَلَى لُدِّي عَالِيَهُ (۲۲۴۱-۲۲۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۱۴۲۷)

وَبَيْتُكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ سُوءًا قَصِيدًا (۲۲۴۱-۲۲۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۱۴۲۷)

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

دیکھو حدیث ۱۱۴۲۷

بعضی ضعیف حدیث
نقلی سے حدیث
کو دوہرایا ہے۔
قال رسول الله
صلی الله علیه وسلم
من حلفت بیدین
صبر لیتقطع بها
مال امرئ مسلم
تلق الله وهو علیہ
غضبان فانزل
الله تصدق بقرآنك
ان الذین یشترون
بعهد الله وایمانهم
ثم کفوا اولئك
لا یمس لهم
الاخرة الا بشر
الایة قال فدخل
الاشعث برقیب
وقال ما یجحدنک
ابوعبدالرحمن قلنا
کن اذک ان قال فی

انزلت کا تہی بقرنی اوض ابن عم لی قال النبی صلی الله علیه وسلم بینتک او یمینہ نقلت اذ اخیعت یا رسول الله فقال لیلہ صلی الله علیه وسلم من
حلفت علی یدین صبر لیتقطع بها مال امرئ مسلم وهو علیہ غضبان۔ اصل حدیث میں صرف یمین کا لفظ ہے۔ یہاں اس کی
بجائے یدین صبر ہے۔ صبر کے اصل معنی ہیں حبس یعنی اپنے آپ کو روکنا۔ یدین صبر وہ قسم ہے کہ اپنے آپ کو روک کر وہ قسم کھائی جائے
گویا وہ اپنے آپ کو پر لازم کر لی ہے اس لئے مراد بھوئی قسم ہے۔ اصل قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے، «صلی الله علیه وسلم حدیث ہے خدا مضمون
اس کا اور کئی روایت کا ایک ہی ہے۔ اور بیشتر حصہ کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں۔ مگر بعض جملوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور الفاظ میں کچھ تغیر و تبدل
ہے۔ ابتدائی حصہ میں یہاں کئی روایت میں ممکن نسبت تفصیل زیادہ ہے اور آخری حصہ کو بہت اختصار سے بیان کیا ہے۔ یہاں الفاظ میں احدثی
ابوسفیان من فیہ الی فی (مذہب و منہ یعنی براہ راست) قال نطلعت فی المدینۃ الی کا تہی و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فبیننا انما
بالشام اذ صحیح کتاب من النبی صلی الله علیه وسلم الی ہرقل قال وکان وحیۃ لکلیہ جاءہ فدفعہ الی عظیم بصوی فدفعہ عظیم بصوی الی
ہرقل ردو جیکھی کے خط لانے کا ذکر وہاں سبب جواب کے پورے، قال فقال ہرقل هل یهدنا احد من قوم هذا الرجل الذی یزعم انه نبی فقالوا نعم
قال قد عیت فی نفر من قریض فدخلنا علی ہرقل فأجلسنا بین یدیه فقال ایکہ اقرب نسبا من هذا الرجل الذی یزعم انه نبی فقال ابوسفیان نقلت انما
فاجلسونی بین یدیه واحسبوا اصحابی خلفی ثم دعایتھا نہ فقال قل لہم انی ما لہذا اعن هذا الرجل الذی یزعم انه نبی فان کذبی فکذبہ قال
ابوسفیان وایم الله لو ان یتنوا علی کذب لکذب لکن بت ثم قال لترجأ نہ سلہ کیف حسبہ ریح میں سبب کا لفظ ہے) فیکم قال قلت ہونفینا ذوصب
واس کے بعد کے سوالات اس ترتیب سے نہیں جس ترتیب سے مک میں ہیں) قال فہل کان من اباہ ملک قال قلت لا قال فہل کنتم تہمدونہ بالکذب قبل
ان یقول ما قال قلت لا قال ایتبہ اشرف الناس ام ضعفاؤہم قال قلت بل ضعفاؤہم قال یزیدون اذ یقصون قال قلت لا بل یزیدون
قال هل یرتد احد منهم عن دینہ۔ بعد ان یدخل فیہ سخطۃ لہ قال قلت لا قال فہل فانت تہتوبہ قال قلت نعم قال تکلیف کلکم ایاہ قال قلت
تکون الحروب بیننا و بینہ صحیحاً لیسب منا و نصیب منہ قال فہل یفرد قال قلت لا ونحن منہ فی ہذا المدینۃ لا ندی ما ہوصا نع فیہا
قال والله ما اہلک من کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذا قال فہل قال ہذا القول احد قبلہ قلت لا یر سوال قال ما ذا یامرکم اور اس کا جواب
قلت یقول اعہد الله وحدہ کا شکر کراہے شیئا و انکر ما یقول اباؤکم و ایا مرنا بالملوچ و الصدق و العفت و الصلۃ چھوڑ دیا ہے (باقی برصلا)

(تفسیر صفحہ ۱۰۶۵) ۱۰۶۶

لیکن جہاں آگے

ان سوا لوگوں کو درپوش کیا گیا ہے وہاں اسکی ذکر موجود ہے۔

قال لرحمہ اندقل لہ

انسان لک عن

حسبہ فیکم فرعمت

انہ فیکم وحید

کذا لک المرسل

تبعث فی احباب

قوجہا رہاں بھی

(۶) بَابُ قَوْلِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اِلَىٰ رِبِّهِ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ ۲۲۴۴ عَنْ

باب اشرفی کا قول لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ الخ (۱۹۱) تم راستبازی کو بزرگ حاصل نہ کرے گے میں تمک کہ اس سے خرچہ کر جس سے تم محبت رکھتے ہو

أَسْرَىٰ (مترکہ ۷۸۳) ۲۲۴۵ عَنْ أَسْرَىٰ (مترکہ ۷۸۳) ۷) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ فَاتُوبُوا لِلتَّوْبَةِ

دیکھو حدیث ۷۸۳ ع ۷ دیکھو حدیث ۷۸۳ ع ۷ باب اشرفی کا قول قُلْ فَاتُوبُوا الخ (۱۹۲) کتب

فَاتُوبُوا أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (مترکہ ۲۲۴۶) ۲۲۴۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مترکہ ۱۴۲۸) ۱۴۲۸) بَابُ

کہ تورات لے آؤ اور اسے بلا ہوا کرتے ہو دیکھو حدیث ۱۴۲۸ ع ۱۴۲۸ باب

قَوْلِهِ لَنْ تَنَالُوا خَيْرَ آيَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (۱۸۹) ۱۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْرَ آيَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

اللہ تعالیٰ کا قول لَنْ تَنَالُوا الخ (۱۰۹) تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بعد کی کہنے کا ہماری کسی نبی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم خیر آیت اخراجت للناس

قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَامِ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

کہ یعنی سب لوگوں کو تم کیلئے بہتر ہو ان کو انکی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ع ۱۸۹

بعد کے جموں کی ترتیب وہ نہیں جو ہم کی ہے) وسأنتك هل كان في آياته ملك فرعمت ان لا فقلت وكان من آياته ملك قلت رجل يطلب ملك آياته وسأنتك عن اتباعه اضعفا لهم ام اشرفهم فقلت بل ضعفا وهم واتباع الرسل وسأنتك هل كنتم تتهمونه بالكدب قيل ان يقول ما قال فرعمت ان لا تعرفت انه لو يكن ليدخلكن بعله الناس ثم يذهب فيكذب بعله الله وسأنتك هل يرون احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه محظنة له فرعمت ان لا وكان لك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب وسأنتك هل يزيدون ام ينقصون فرعمت انهم يزيدون وكان لك الايمان حتى يتم وسأنتك هل قاتلتموه فرعمت انكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سما لا ينال منكم ومناون منه وكذا لك الرسل تبطل انتم تكون لهم العاقبة ولكم في اس محله ووسأنتك هل قاتلتموه سے لیکر نہیں وہ پہلے (۱۸۹) وسأنتك هل بعد فرعمت انه لا يفد وكان لك الرسل لا تعذب وسأنتك هل قال احد هذا القول قبله فرعمت ان لا فقلت لو كان قال هذا القول احد قبله قلت رجل انتم يقول قيل قبله قال ثم قال به يا مكرم قال قلت لأمرونا بالصنوة والزكوة والصدقة والعقبات قال ان يك ما نقول فيه حقاً فإنه نبی ربه لفظ فانه نبی بکسر نہیں میں، وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اعلم انه لاهل اليه لاجبت لغناه ولو كنت عنده لغسلت عن قديمه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب في وجهي بلحبي او عظيم بعيرى كما ذكر اسی موقع پر آج ہے فقراءه فاذا اذ به باسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاتى ادعوك يد عاىة الا سلام اسم تسليم واسلم بوتك الله اجرنا مرتين فان توليت فان عليك اثم الارسبيين وبأهل الكتب تناولوا الى كلمة سوا به بيننا وبينكم كما لا نعيد الا الله الى قوله اشهدوا باننا مسلمون رخطا كالمضمون دونونو بغير ايك ہے) فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللغط وامرونا فاخرجنا قال فقلت لا صحابي حين خرجنا لنعن امر اول من اى كشيته انه ليجازى عنك بغيري لا صغر فمأزنت وقتاً ما مرسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيظهر حتى اذ دخل لله الى الاسلام راس کے بعد کے مضمون جس میں ابن ان فوراً فرسے اور پھر اس کے خواب کیجئے گا وغیرہ گیارہ اور کا ذکر ہے پھر وہی وہاں نہ نبی تک پھر آخری واقعہ کو دوہرایا ہے) قال لزهري فذا عا هرقل عظيم الروم فجددتم في ذواله فقال يا عسرى الروم هل لكم في الغلام والرشدا اخرا لا بد وان يثبت لكم منكم قال فاحصوا حيصه بحر الوحش الى الانواب فوضوها فاذ غلقت فقال على منهم فذا جهم فقال انى اقتبا اخبرت مشن لكم على وبيكم ففذل وابت منكم الذى احببت فنجيد واله وروضوا عنه (صعق بنوا) ع ۱۸۹ حدیث ۱۸۹ کو قرئنا نبی الفاطميين ويزاى به سوائے اس کے کہ مال راجح کی جگہ مال راجح ہے یعنی فنا ہو جو مال مال مگر حدیث کے آخر پر پڑھا گیا کہ دوسری روایت میں مال راجح ہے۔ ع ۱۸۹ حدیث ۱۸۹ کو روایت میں ہے لیکن کتاب لومایا باب من اذا دفع ادا وصی لا قاربہ میں ایک تعلیق کا مضمون اس کے مطابق ہے یہاں لفظ یہ میں قال فجعلها لحسان والى وانا اقر بليد لم يجعل لي منها شيئاً في لفظا ۱۸۹ کے آخری فقرہ قسمتها ليطول في قاربہ ونبى معه كى بطور تشریح ہے۔ ع ۱۸۹ حدیث ۱۸۹ کو روایت سے آئی ہے۔ ان اليهود جاؤا الى النبي صلعم يرجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تعذبون بين زنى منكم قالوا نختمهما وان كانا لا کرتے ہیں ۱۸۹ ع ۱۸۹ میں ہے فنضجهم انكروا سو کرتے ہیں) ونضجهم فقال لا تحبون في التوراة الزم فقالوا الا نحن فيها شيئاً فقال لهم عبد الله بن سلام كذبت ما قالوا للتوراة قاتلوا ان كنتم ضد قين فوضع مدوا سها الذى يرد وسها منهم كفه على آية الزم فطلق يقرا مادون بين دعا ودا عا ها دكاً يقرا آية الزم فلترعد بينه عن آية الزم فقال ما هذه فلما راوا ذلك قالوا هي آية الزم فامرهم بما فرما قرياً من حيث موضع الجنازة عند المسجد فرأيت صاحبها يجثا عليها يعقبها الجارية ويكفو ثوباً ع ۱۸۹ ع ۱۸۹ میں یعنی لوگ قید ہو کر بھی تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہارے نیک نمونہ کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ خیرامۃ للناس ہیں۔ تا نیک بیعت سے واقعات اس قسم کے ہیں کہ رسول اللہ صلعم کے پاس بعض لوگ قید ہو کر آئے تو آپ کے اطلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نبی اللہ عنہم میں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ البتہ آج مسلمان اپنی اس خصوصیت کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے

ع ہرگز نہیں کہ تم زبردستی قیدیوں کو مسلمان کر لیتے ہو نہ اس کی کوئی نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانہ میں ہے۔

(۹) بَابُ قَوْلِهِ إِذْ هَمَّتَ طَارَ الْفَتْرَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا (م- ۲۲۴۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

باب اللہ تعالیٰ کا قول اذ همت انما (۲۲۴۷) جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہاروں

عَبْدُ اللَّهِ (ممتکرر۔ ۱۷۷۷) (۱۰) بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (م- ۲۲۴۸)

باب اللہ تعالیٰ کا قول لیس لک من الامر شیء (۲۲۴۸) اس معاملہ میں تو کوئی دخل نہیں ہے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (ممتکرر۔ ۱۷۸۰) (م- ۲۲۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ممتکرر۔ ۱۷۹۲)

(۱۱) بَابُ قَوْلِهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْوَاكُمُ وَهُوَ تَابِيثٌ إِخْرَجَكُمْ وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ رَأَى أَحَدَ الْأَحْسَنِينَ قَتَلَ أَوْ شَهَادَةً (م- ۲۲۵۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ممتکرر۔

۱۳۸۴) (۱۲) بَابُ قَوْلِهِ لَعْنَةُ سَارِرٍ (م- ۲۲۵۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ممتکرر۔ ۱۷۷۹)

(۱۳) بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الْقَرْحُ الْجِرَاحُ اسْتَجَابُوا أَجَابُوا

يَسْتَجِيبُ حَيْبٌ (۱۴) بَابُ إِنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ الْآيَةَ (م- ۲۲۵۸) عَنْ

أَبْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهُمَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ

فِي النَّارِ وَقَالَ لَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

فَاخْشَوْهُمْ فَرَأَوْهَا وَمَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (م- ۲۲۵۲) عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ (ممتکرر۔ ۱۸۹۸) (۱۵) بَابُ قَوْلِهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْجُرُونَ

بِمَا آثَمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ سَيَطُوقُونَ كَقَوْلِكَ طَوْقَتُهُ بِطَوْقٍ

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

بِمَا آثَمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ سَيَطُوقُونَ كَقَوْلِكَ طَوْقَتُهُ بِطَوْقٍ

كَرْتِي هِيَ جَوَاطُنِي أَنَسِي أَسْفَعُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي خِيَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَقَوْلِكَ طَوْقَتُهُ بِطَوْقٍ

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

بَعْدَ الرُّكُوعِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبِئَاثَمُكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَدَّ وَطَأَتْكَ عَلَى مَضْرُوعٍ وَاجْتَابَهَا مِنْبَرٌ كَسْتِي يَوْسُفُ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ انْعَمْ فَلَا تَدْرُكُهَا وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ - وَيَكْفُرُ تَوْتُ عَلَى صَفْحَةِ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ما خفيف اختلا
نقلی سے روایا
ہے۔ یقول قینا
نزلت اذھمت
طائفتان منکم
ان تفسلا والله
ولہما قال یعن
الطائفتان بنو
حارثۃ وبنو سلمۃ
وما یؤذون قال سفین
مرۃ وما یسترن
انہما لمت نزل
لقول اللہ واللہ
ولہما
مما کمر روایت
کے الفاظ
کے ہی ہیں
۲۹۲ حدیث
کا صرف آخری حصہ
خفیف اختلاف
نقلی سے یہاں
دو روایا ہے۔ اول
آخری ۱۷۷۹
مضمون بڑھایا
ہے۔ نقلیوں میں
ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
کان اذا اراد ان
ینزع علی احد
رکعی یرد عاکری
او یدخل نحو کاحد
رکعی کے لئے
دعا کریں، فنت

۲۲۵۳

۶۶۹۱

(م- ۲۲۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- متکرر - ۴۷۷) (۱۶) بَابُ قَوْلِهِ وَكَلَّمَ مَعْنَى

دیکھو حدیث ۴۷۷، ۱۶ باب فی قولہ التعلیٰ کا قول وکلمتہ معنی

مِنَ الدِّينِ أَوْ قَوْلِ الْكُتُبِ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الدِّينِ أَشْرُوكًا أَدَّى كَثِيرًا (۸۹۹):

(۱۸۵) اور فرزندِ زمانہ لوگوں سے جنس تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنوں نے شرک کیا تب ہی دیکھ گئے وہ ابلیس بائیس سو گئے

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قُضَيْفَةٍ

اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر

فَدَكَيْتُهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَرَاءُكَ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ

فدک کی چادر تھی اور اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے سوار کیا سعد بن عبادہ کی عیادت کیلئے جا رہے تھے جو بنی حارث بن اسد میں

أَخْزَرَهُ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُوكٍ وَ

تھے یہ جنگ بدر سے پہلے تھا کہا میں اب تک کہ ایک مجلس پر سے گزرے جس میں عبد اللہ بن ابی اسلول تھا اور

ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَاذِافِيٍّ مَجْلِسَ أَخْلَاطٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ

یہ اس سے پہلے تھا کہ عبد اللہ بن ابی اسلول نے مجلس میں سے چلے ہوئے تھے یعنی مسلمان اور

الْمَشْرُوكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مشرک بت پرست اور یہود اور مسلمان اور مجلس میں عبد اللہ بن اسول

رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ حُجَابَةُ الدَّائِيَةِ سَخَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَكٍ بَرْدًا لَهُ

بھی تھے جب گدھے کے پاؤں کی گرد مجلس پر پڑی تو عبد اللہ بن ابی انفی نے ہمارے ابی ناک ڈھا تاکلی

ثُمَّ قَالَ لَا تَعْبُرُوا عَلَيْنَا فَنَسَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ

پھر کہا ہم پر گزرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا پھر ٹھہرے

فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي آيِنِ

اور اتر پڑے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنا یا تو عبد اللہ بن ابی اسلول نے کہا

سَلُّوا إِلَيْهَا الْمَرْعَةَ لَنَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِمِ فِي

اے شخص اس سے بہتر کھوپ نہیں جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ بھی ہو تو بھی ہم کو اس سے ہماری مجلس میں اڑان دو

مَجْلِسِنَا أَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمِنْ جَاءَكَ فَاقْضِصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

اپنے مکان پر لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے لئے یہ ذکر کرو عبد اللہ بن رواحہ نے کہا

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَشَّنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَأَرْنَا حُبَّ ذَلِكَ فَاسْتَبَتِ الْمُسْلِمُونَ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں تشریف لاکر یہ ہمیں سنا میں ہم اسے پسند کرتے ہیں اس سے مسلمانوں

وَالْمَشْرُوكُونَ وَالْيَهُودَ حَتَّى كَادُوا يَتَنَادَوْنَ وَرَوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور مشرکوں اور یہود میں گفت کھانی ہوتی یہاں تک کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّةً

برا برا نہیں دھیم کرتے رہے ۱۶ میں اب تک کہ وہ خاموش ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور چلے گئے

فَسَارَحَتْ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں اب تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا

يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا

سعد آپ نے نہیں سنا جو ابو حباب نے کہا آپ کی مراد عبد اللہ بن ابی تھا اس نے ایسا ایسا کہا

الفاظ عربیہ کے
ہی ہیں
۱۶

اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
کس قدر اخلاق
فاضلہ کے مالک
تھے کہ عبد اللہ
بن ابی کی اس
قدر سخت کلامی
کے باوجود آپ
زہری سے گفتگو
کرتے رہے

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَالَّذِي اَنْزَلَ

سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ سے معاف کر دیجیے اور اس سے درگزر فرمائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اَصْطَلَتْ اَهْلَ هَذِهِ

پر کتاب اتاری ہے کھ اللہ نے حق بھیجا ہے وہ جو آپ پر اتارا اس سببی والوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے تاج

الْبَحْرِ وَعَلَىٰ اَنْ يَّتَوَجَّهَ فَيُعْصِبُوهُ بِالْعَصَابَةِ فَلَمَّا اَبَىٰ لِلَّهِ ذَلِكَ يَا حَقُّ الَّذِي

پیمانوں اور بادشاہ کے طور پر اس کی دستا بندی کریں مگر جب اللہ کو یہ منظور نہ ہوا اس جی جی وجہ سے جو آپ کو

اَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِيْقًا بِذَلِكَ فَاذَلِكَ فَعَلَّ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ كَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللہ نے عطا کیا تو وہ اس سے مل گیا اور اس نے اس سے یہ کرایا جو آپ نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ يَعْتَفِرُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ

کرو یا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکین اور اہل کتاب کو معاف کر دیا کرتے

اَهْلَ الْكِتَابِ كَمَا اَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيُصَدِّقُونَ عَلَىٰ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِلَّهِ عَزَّ

تھے جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اور وہ کہی باتوں پر صبر کرتے تھے اللہ عزوجل نے فرمایا اور فرود تم ان لوگوں

مِنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذَىٰ لِشَيْءٍ الْاٰيَةَ

جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت سی دکھ دینے والی باتیں منو گئے ان باتیں

وَقَالَ اللَّهُ وَذَكِّرْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كَغَادِرِ اِحْلَامِكُمْ

تک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹ کر کافر بنا دیں اپنے حسد کی

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ اِلَىٰ اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَاوَلُ الْعَوْرَةَ

وجہ سے آخر آیت تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفور رحیم ہیں پس براہ ہوتے تھے

مَا اَمْرًا لَّهِ يَهْ حَتَّىٰ اٰذِنَ اللَّهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا خَرَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں اجازت دیدی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا

بَدْرًا فُقِتِلَ اللَّهُ بِهٖ صِنَادِيْدٌ كَغَارِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ اَبِي بِنٍ سَلُوْا وَمَنْ مَّوَعَهُ

غزوہ کی اور اللہ نے اس کی وجہ سے قریش کے سرداروں کو قتل کیا تو ابن ابی بن سلول اور دوسرے لوگوں نے جو اس کے

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ هٰذَا اَمْرٌ قَدْ تُوْجَّهَ فَيَا بَعُوْا الرَّسُوْلَ صَلَّى

ساتھ مشرکین اور بت پرستوں میں سے تھے کہا اور تو آپ ہی یعنی اسلام غالب ہو گیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْاِسْلَامِ فَاَسْلَمُوْا اَبَا بَكْرٍ قَوْلُهُ لَا تَحْسَبُوْنَ

اسلام پر بیعت کر لو تو وہ مسلمان ہوئے با بکھ اللہ کا قول لا تحسبن الخ (۱۸)

الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا ۱۹۰۰ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَا اَنْ رَجَا لَا

ہرگز خیال نہ کرے کہ جو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں جو انہیں کیا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کچھ آدمی

مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَاذِ الْخُرْجِ رَسُوْلُ

جو منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْعَزْوِ وَتَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ

غزوہ کی طرف نکلے تو وہ آپ کے پیچھے رہ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ بیٹھ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اَقْدَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَدُوْا رِجَالَهُ

پر خوش ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آتے تو وہ آپ کے سامنے غڈ کرتے

یعنی اسلام کی تعلیم ہی تھی کہ اگر مشرک اور اہل کتاب تمہیں ایذا پہنچیں اور ان سے تمہیں سبقت نہ ملے تو اس پر صبر کرنا چاہئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عطفی تعلیم منحوس ہو گئی بلکہ جب ان کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے تلوار اٹھائی تو بالفاظ مسلمانوں کو بھی تلوار اٹھانی پڑی +

۱۸۰

(۲۱) **بَابُ قَوْلِهِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِنسَانِ الْأَيْمَنِ (م-۲۲۵۷)**

باب اللہ تعالیٰ کا قول ربنا ای (۱۹۲) ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ایمان کیلئے بلاتا ہے آخر آیت تک

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر-۱۰۲)

سُورَةُ النَّسَاءِ

۲- سورہ نساء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے اہتمام والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ قَوْمًا قَوْمًا قَوْمًا مَعًا يَشْكُرُهُمْ لِهِنَّ سَبِيلًا لِيَعْرِفَ

ابن عباس نے کہا یسْتَنْكِفُ (۱۷۲) شکر کرتا ہے قَوْمًا قَوْمًا (۲۰) تمہاری تعداد کا موجب جس سے تمہارا گذران ہے سَبِيلًا لِيَعْرِفَ (۱۱) میں شکر کرنا شکر کے لئے اور کورے ہا کہہ کیلئے (۱۱) اور اوروں نے کہا مَنَّةً وَثَلَاثَ لِيَعْرِفَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَارْبَعًا وَارْبَعًا

الرَّحْمِ لِلذَّكْرِ وَاللِّبْرَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَنَّةٌ وَثَلَاثَ لِيَعْرِفَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَارْبَعًا وَارْبَعًا

(۱۱) میں شکر کرنا شکر کے لئے اور کورے ہا کہہ کیلئے (۱۱) اور اوروں نے کہا مَنَّةً وَثَلَاثَ لِيَعْرِفَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَارْبَعًا وَارْبَعًا اور

تُجَاوِزُ الْعَرَبَ رَبَّاعًا ۱۱ بَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْمَيْمَنِ

عرب رباع سے آگے نہیں بڑھتے باب اللہ تعالیٰ کا قول وان خفتم ان لا تقسطوا فی المیمین کے بارے میں انصاف د

(م-۲۲۵۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۱۱۹۲) (م-۲۲۵۹) عَنْ عُرْوَةَ (متکرر-۱۱۹۲)

کرکوکے دیکھو حدیث ۱۱۹۲ دیکھو حدیث ۱۱۹۲

(۲) بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

باب اللہ تعالیٰ کا قول ومن کان فقیرا فلأکل بالمعروف اور جو محتاج ہو تو وہ من سب طور پر دے پھر جب تم ان کے مال ان کے

أَمْوَالِهِمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَالْأَيَةُ وَبِذَارِ الْمَادِرَةِ أَعْتَدْنَا أَعْدَدًا نَأْخُذُكُمْ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ

جوائے کر تو ان پر گواہ رکھ لو آخر آیت تک دیکھا (۲) جدی کر کے اعتدال نارہم نے تیار کر رکھا ہے افعلا لکے وزن

مِنَ الْعَادِدِ (م-۲۲۶۰) عَنْ عَائِشَةَ (متکرر-۱۰۸۳) بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا

پرم عتاد سے دیکھو حدیث ۱۰۸۳ باب اللہ تعالیٰ کا قول واذا

خَضِرَ الرِّقْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْأَيَةُ (م-۲۲۶۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۸) اور جب رقیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں آخر آیت تک

(متکرر-۱۲۷۴) (۲) بَابُ قَوْلِهِ يَوْصِيكُمْ اللَّهُ (م-۲۲۶۲) عَنْ جَابِرٍ (متکرر-۱۵۸)

دیکھو حدیث ۱۲۷۴ باب اللہ تعالیٰ کا قول یوصیکم اللہ (۱) دیکھو حدیث ۱۵۸

اس کے لفظ
م ۲۲۵۷ کے ہیں
آیت دلا تو قاف
السفهاء امواتکم
التي جعل الله
لکم قیاما (۲)
میں ابن عباس
کی قرأت قواما
ہے اسی کو کہہ کر
امام بخاری نے
معنی کے ہیں قیام
کے بھی یہی معنی ہیں
لفظ تعزیرات
کی بحث اپنے
موقع پر ہوگی -
شکساری کا کوئی
علم قرآن شریف
میں نہیں ہے -
اور یہاں مجھل
اللہ لمن سبیلہ
میں یہ مراد بھی نہیں
ہو سکتی بلکہ سبیلہ
سے مراد تو یہ ہے
جس کا آگے ذکر بھی
ہے -
اس میں اختلاف
ہوا ہے یعنی آیا
خاص وغیر وہ کہا
جاسکتا ہے یعنی
میں ہے کہ عتبار
کا لفظ اشعار میں

استعمال ہوا ہے۔ مگر روایت اختصار سے اور اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ ان رجلا کا نکتہ لہ یتیمہ فنکھا وکان لہما عذق (مکھور کا خوشم) وکان یسکھا علیہ ولم یکن لہما من نفسہ شیء (اس سے محبت نہ تھی) فنزلت فیہ وان خفتہ ان لا تقسطوا فی البنای احیہ قال کانت شوکیکہ فی ذلک العذق وفی مالہ م م م اس کے لفظ قریب قریب ۱۱۹۲ کے ہیں صرف ذیل کا حصہ یہاں نہیں۔ والذی ذکر اللہ انہ یتیمہ علیکم فی الکتاب الا یہ الا ولی التی قال فیہا وان خفتہ الا تقسطوا فی البنای فاکتو ما طاب لکم من النساء م م م روایت کچھ اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ فی قولہ تعالیٰ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلأکل کل بالمعروف انہما نزلت فی مال الیتیم اذ کان فقیرا انہ یا کل منہ مکان قیامہ علیہ بمعروف م م م اخفارا وراختلاف لفظی سے آئی ہے۔ واذا خضر الرقیمہ اولو القربی والیتامی والمساکین قال ہی حکمتہ ولیست بمعروفہ تابعہ سعید بن ابن عباس م م م میں کچھ لفظ زیادہ ہیں۔ عادی النبی صلعم وابوبکر بنی سلمہ ہاشمی بن جعفر النبی صلعم لا اعقل فدعا بقاء فمضامنہ ثم رض علی فاذا فقلت ما تا مرنی ان اصنع فی مالی یا رسول اللہ نزلت یوصیکم اللہ فی اولادکم م

(۵) بَابُ قَوْلِهِ وَكَذُوْنُصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُهُ (م-۳۲۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

باب اللہ تعالیٰ کا قول دیکھو (۳۲۶) اور تمہارے لئے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویوں چھوڑیں

متکرر-۳ (۱۲۷۳) (۶) بَابُ قَوْلِهِ لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا اَلَا يَةً وَ

دیکھو حدیث ۱۲۷۳ باب اللہ تعالیٰ کا قول لا یجل لکم ان ترتوا النساء کرہا الایة و

يُدُّ كَرِهْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَعْضُوهُنَّ لَا تَقْهَرُوهُنَّ وَهُنَّ حَوَائِمٌ اَعْمَا تَعُولُوْنَ اَمِيْمًا اِنْ خَلَعَتْ

آیت تک اور ابن عباس سے ذکر کیا جاتا ہے کہ لا تعضوهن ر (۱۱۹) ان کو مجبور نہ کرو مٹو یا ر (۲) انہیں تھیلو (۲) جھکاؤ

النِّخْلَةَ الْمُهْرُ (۱۹۰۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوا

ابن عباس سے روایت ہے یا ایہا الذین آمنوا الخ اور ۱۹۰۲ میں لائے جو تمہارے لئے جائز

النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُوهُنَّ لَتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا اِذَا اَمَاتَتْ

نہیں کہ عورتوں کو زبردستی درشت میں لو اور نہ ان کو روک رکھو کہ اس کا کچھ حصے نہ جو تم نے انہیں دیا ہے کہا جب کوئی شخص مر جاتا تو

الرَّجُلُ كَانَ اَوْ لِيَاكُمَا اَحْسَى بِاَمْرَاتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرْتُوْجَهَا وَاِنْ شَاءَ وَا

اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتا اور اگر چاہتے تو اسکو

رْتُوْجَهَا وَاِنْ شَاءَ وَاَلَمْ يَزَوْجُوْهَا فَهِيَ اَحْسَى بِهَا مِنْ اَهْلِهَا فَزَكَتْ هَذِهِ

کسی کے نکاح میں دیتے اور چاہتے تو اس کا نکاح ہی نہ ہونے دیتے اور وہ عورت کے وارثوں کی نسبت عورت کے زیادہ حقدار تھے

اَلَا يَةً فِيْ ذٰلِكَ (۷) بَابُ قَوْلِهِ وَكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

قویہ آیت اس باب سے ہی اتری باب اللہ تعالیٰ کا قول دیکھو (۳۳) اور ہر ایک کے لئے اس میں سے جو وہ چھوڑے ہے تمہارا

وَالْاَقْرَبُوْنَ اَلَا يَةً مَوَالِيْ اَوْ لِيَاكُمَا وَرْتَةٌ عَاقِدَتْ هُوَ مَوْلَى لِيْمِيْنٍ هُوَ الْوَلِيْفُ

باب اور قریبی رشتہ دار بنائے ہیں آخر آیت تک موالی (۳۳) وارث عاقبت وہ جو تم سے وارث ہو اور وہ وہ ہے جس

وَالْمَوْلَى اَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْمَنْعَمُ الْمَعْتِقُ وَالْمَوْلَى

سے عہد ہو اور نیز موالی چچا کا بیٹا اور موالی احسان کرے والا آزاد کرنے والا اور موالی آزاد کیا ہوا غلام اور موالی

اَلْمَلِيْكُ وَالْمَوْلَى مَوْلَى فِي الْاَدِيْنِ (م-۳۲۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر-۱۱۱۰)

مالک اور موالی دین کا پیشوا دیکھو حدیث ۱۱۱۰

(۸) بَابُ قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِيْ زِنَةَ ذَرَّةٍ (۹۰۲) عَنْ ابْنِ

باب اللہ تعالیٰ کا قول ان اللہ الخ (۹) اللہ تعالیٰ ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ (۹) کہنے میں ذرہ کے وزن کے برابر

سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضَانَ اَنَا سَافِرٌ ذَمَّرْتُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ

ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ

هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَ هَلْ تَضَارَوْنَ

کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم کو دوہر کے وقت سورج

فِي رُوِيَةِ الشَّمْسُ بِالظُّهْرِ صَوْنٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا قَالِ هَلْ تَضَارَوْنَ

کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب روشنی ہو اور کوئی باہل اس میں رھاں نہ ہو کہا نہیں فرمایا کیا تم بدکن رات چاند کے دیکھتے

فِي رُوِيَةِ الْقَمَرِ كَيْلَةَ الْبَدْرِ صَوْنٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا قَالِ لَيْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب ایسی روشنی ہو کہ اس میں کوئی ابر رھاں نہ ہو انہوں نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ مَا تَضَارَوْنَ فِي رُوِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا كَمَا تَضَارَوْنَ

قیامت کے دن اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے دیکھنے میں مگر جو تکلیف تم کو ان میں سے

کیا تم کوئی تکلیف ہے

۱۲۷۳

۱۹۰۲

۱۱۱۰

۹۰۲

۹۰۲

۱۱۱۰

۱۱۱۰

۱۱۱۰

۱۱۱۰

فِي رُؤْيَا أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْنَىٰ مُؤَدِّنٍ تَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ

ایک روزی سورج اورد جائیگا کہ دیکھنے میں ہوتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکار پکار کر پھیلے گا کہ ہر ایک امت جس کی پرستش کرتی تھی اس کے

تَعْبُدُ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَسْأَفُونَ

پچھو جلی جائے تو جو اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کی پرستش کیا کرتا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر وہ آگ

فِي النَّارِ حَتَّىٰ إِذَا كَفَّ بُيُوتُ الْأَمْنِ كَانَ يُعْبَدُ اللَّهُ بَرًّا وَفَجْرًا وَغَيْرَاتٍ أَهْلُ

میں گر جائیں گے یہاں تک کہ جب کوئی بھی نہ رہے گا سوائے ان کے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے نیک ہو یا بد اور ان کتاب کے باقی ماندہ

الْكِتَابِ فَيُدْعَىٰ لِلْيَهُودِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا لَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ ابْنِ

لوگ تو یہ کہہ کر بلایا جائے گا ان سے کہنا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تو براہِ انشادی کی عبادت کرتے

اللَّهُ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا اتَّبَعُونَ فَقَالُوا

تھے تو ان کو کہا جانیگا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے کسی کو جو دنیا یا

عَطَشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيَسْأَرُ أَلَّا تَرُدُّونَ فَيَحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَانَتْهَا سَرَابٌ

ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہم کو پانی پلا تو آواز دیا کہ جانے گا کہ باقی پر جانے کیوں نہیں تو وہ آگ کی دھوت چلائے جائیں گے وہ سراسر ایک طرح

يُحِطُّ بِبَعْضِهَا بَعْضًا فَيَسْأَفُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَىٰ لِلصَّادِقِ فَيُقَالُ لَهُمْ

ہو گی جو بعض بعض کو توڑتی ہے وہ آگ میں گر جائیں گے پھر عیساؑ کو بلایا جائیگا تو ان سے کہا جائیگا کہ تم

مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا لَنْ نَعْبُدَ إِلَّا الْمَسِيحَ ابْنَ الْمَرْيَمِ اللَّهُ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ

کس کی پرستش کرتے تھے وہ کہیں گے ہم مسیح ابن مریمؑ کی پرستش کرتے تھے ان سے کہا جائیگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ

اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا اتَّبَعُونَ فَيَقُولُونَ كَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ حَتَّىٰ

تے کسی کو جو دنیا یا اور دنیا سے کہا جائیگا کہ تم چاہتے کیا ہو تو سرخ چلوں ساتھ ہوا اس طرح اللہ ساتھ ہوگا یہاں تک

بلا عنوان باب سے تزی تعلیق کا کہ اللہ تعالیٰ کا ان آئینوں کو آگ میں ڈالنا ظہر میں ہے کہ جس جس چیز کی جو عبادت کرتا تھا اس کے پچھے قیامت کے دن چلے گا تو وہ آگ ہوگی اور پرستار ان خدا کے واحد باقی رہ جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس رنگ میں ہوگی یہ دوسری زندگی کے رازوں میں سے ایک اڑے جس کو ہم اپنے موجودہ حوال کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے وہاں انسان کو ایسے حواس عطا کیے جائیں گے کہ اس دنیا کے وہاں انی امور سے نظر آنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی جو دنیا و زمان سے اس کا جلوہ بھی وہ کسی رنگ میں دیکھیں گے رب کے آئینے مراد اسکی تخلیق کا طور ہے جہاں علیٰ معنی میں ابی بن کنعک قول نقل کیا ہے کہ تخیل ہے اور حقیقت نہیں ہے چہرہ کو گزند کی طرح کر دینا گویا اس کی

ایک روزی سورج اورد جائیگا کہ دیکھنے میں ہوتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکار پکار کر پھیلے گا کہ ہر ایک امت جس کی پرستش کرتی تھی اس کے پچھو جلی جائے تو جو اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کی پرستش کیا کرتا تھا ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر وہ آگ میں گر جائیں گے یہاں تک کہ جب کوئی بھی نہ رہے گا سوائے ان کے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے نیک ہو یا بد اور ان کتاب کے باقی ماندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تو براہِ انشادی کی عبادت کرتے تھے تو ان کو کہا جانیگا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے کسی کو جو دنیا یا ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہم کو پانی پلا تو آواز دیا کہ جانے گا کہ باقی پر جانے کیوں نہیں تو وہ آگ کی دھوت چلائے جائیں گے وہ سراسر ایک طرح ہو گی جو بعض بعض کو توڑتی ہے وہ آگ میں گر جائیں گے پھر عیساؑ کو بلایا جائیگا تو ان سے کہا جائیگا کہ تم کس کی پرستش کرتے تھے وہ کہیں گے ہم مسیح ابن مریمؑ کی پرستش کرتے تھے ان سے کہا جائیگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس رنگ میں ہوگی یہ دوسری زندگی کے رازوں میں سے ایک اڑے جس کو ہم اپنے موجودہ حوال کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے وہاں انسان کو ایسے حواس عطا کیے جائیں گے کہ اس دنیا کے وہاں انی امور سے نظر آنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی جو دنیا و زمان سے اس کا جلوہ بھی وہ کسی رنگ میں دیکھیں گے رب کے آئینے مراد اسکی تخلیق کا طور ہے جہاں علیٰ معنی میں ابی بن کنعک قول نقل کیا ہے کہ تخیل ہے اور حقیقت نہیں ہے چہرہ کو گزند کی طرح کر دینا گویا اس کی

عقالت کنت انا وادی

من المستضعفين
بما لا يدرون حثيت
اشحنا ضلعي و تآئي في

فما لکم في المنفقين
ذتین رجب ناس
من اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
من احد وکان
انناس فیہم
فرقتین فریق
یقول اقتلہم
فریق یقول لا
تذولت فما لکم
فی المنافقین

باب قوله وما لكم لا تتقون في سبيل الله الى الظالم اهلها
بابك الشّرعانی كقولہ وما لکم الا جوارحکم (عذر) ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جنگ نہ کرو الظالم اهلہا تک

۲۲۶- عن ابن عباس رضی اللہ عنہما (۹۰۲) (۱۰۲) عن

ابن ابی ملیکہ أن ابن عباس تكرر الا المستضعفين من الرجال والنساء
ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا ایا المستضعفين من الرجال والنساء اور عورتیں

والولد ان قال كنت انا و ارمي من عند الله و يدك عن ابن عباس رحمة

ضامت تلوا السننك بالشفادة وقال غيره امرهم المهاجرون اعدت
تک ہو گئے تلوا (۱۲۵) یعنی ابن زبانون کو گواہی میں بیچ دو لینی بیچداریات کرو اور اوروں نے کہا ہوا تم راہ (۱۰) ہجرت کی کہ ہے

هاجرت قومي موقفا موقفا وقتة عليهم (۱۵) باب قوله فما لكم في المنفقين
ہاجرت میں نے اپنی قوم سے ہجرت کی موقفا موقفا (۱۰۰) وقتہ کے (مضمون) کے وقت ان کیلئے مقرر کئے۔ بابك الشّرعانی كقولہ فما لکم الا

فتنين والله اركسهم قال ابن عباس بددهم فنة جماعة (۲۲۶-۸) عن زهير
ذتین اور تمہارے لئے کیا وہ ہے کہمن نفوس کے پاس میں کرو دو جو نہ لکم اللہ لکنوا او نہ لکم لایا ابن عباس نے کہا توڑ پھوڑ و ان ذنبا کراں لمان (۱۳)

ابن ثابت رضی اللہ عنہ (متکرم ۹۵۴) (۱۶) باب قوله و اذا جاءهم امر من او الخوف
ابن ثابت سے روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا و اذا جاءهم امر من او الخوف اور جب کوئی امن یا خوف کی بات آئی تو

ادعوا به افشوه يستلبون له يستغجون حسیبا کا فیال لانا انما الموات حجرة او
ادعوا بہ افشوه (متکرم ۹۵۴) بابك الشّرعانی كقولہ و اذا جاءهم امر من او الخوف اور جب کوئی امن یا خوف کی بات آئی تو

مدرا و ما اشبهه هرید اتمرد ان لیبديك بقلة قطعة قیلا و قولا و احد طبع ختم
بجز جس جی چیز ہو یا جس ناسخی جلی چیز ہو یا اس (۱۱) کثیر فلیبديك (۱۱۶) بتکہ لے کاٹ دیا قیلا (۱۱۲) اور قولا ایک میں طبع (۱۵۵) مرگئی

(۱۷) باب قوله و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم رم- ۲۲۶۹ عن سعید
بابك الشّرعانی كقولہ و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم رم- ۲۲۶۹ عن سعید

ابن جبر رمتکر (۱۳۱) (۱۸) باب قوله و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام
ابن جبر سے روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا و لا تقولوا لمن القى اليكم السلام اور جو میں کو عمدا قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے

لست مؤمنا السلم و السلم و السلام و احد (۱۹۰۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
لست مؤمنا السلم و السلم و السلام و احد (۱۹۰۵) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس كان رجل في
تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس كان رجل في

غيمته له فليحه المسلمون فقال لسلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته فانزل
غیمتہ لہ فلیحہ المسلمون فقال لسلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته فانزل

الله في ذلك الى قوله عرض لحيوة الدنيا بلك الغيمة قرأ ابن عباس السلام
اللہ فی ذلک لى قوله عرض لحيوة الدنيا بلك الغيمة قرأ ابن عباس السلام

بارہ میں اپنا قول عرض لحيوة الدنيا بلك اتارا ملے و عرض ہی بکریاں ہی ہیں ابن عباس نے السلام پڑھا ہے

۱۰۷۵

۱۰۷۵

۱۰۷۵

۱۰۷۵

۱۰۷۵

۱۰۷۵

لے السلام علیکم بھی کہے تو اسے کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ آیت قرآنی اس غلطی کی اصلاح کے لئے نازل ہوئی۔ مگر افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ قرآن کی بڑا
ہے نہ حدیث کی۔ اور اسٹینین پڑھ جائے اپنے اپنے کفر کے ثمرے لئے کھڑے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو میچھ کے پیچھے ڈال کر خواہے +

(م۔ ۲۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر۔ ۲۹۲) بَابُ قَوْلِهِ وَلَا جَنَامَ عَلَيْكُمْ

دیکھو حدیث ۴۹۲ ص ۱ بَابُ اَشْرَفُ تَعَالَى كَمَا قَوْلُهُ وَلَا جَنَامَ (۱۲۲)

إِنْ كَانَ بَيْنَكُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ (۱۹۰)

اور تم کو کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو گمراہ اپنے ہتھیار اتار رکھو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ بَيْنَكُمْ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ابن عباس سے روایت ہے ان کاں بکم اذی من مطرا و کنت ممرضی کما عبد الرحمن بن عوف زعمی

بِئْسَ عَوْفٌ كَانَ جَرُّهُ قَالَ بَابُ قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْمَسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُقَاتِلُكُمْ

پہرے (قرہ آیت نزی) بَابُ اَشْرَفُ تَعَالَى كَمَا قَوْلُهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْمَسَاءِ (۱۲۴) اور تم سے عورتوں کے

فِيهِمْ وَمَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ فِي لِكُتُبِ فِي يَتَمَّى السَّاءِ (م۔ ۲۷۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا

باسم فتویٰ چاہتے ہیں مگر اللہ تم کو انکے پاس میں فتویٰ دیتا ہے اور تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ عورتوں کے تینوں بارہ میں ہے دیکھو حدیث

(۱۱۹۲) بَابُ قَوْلِهِ وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِ أَشْرَافِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ

بَابُ اَشْرَفُ تَعَالَى كَمَا قَوْلُهُ وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِ أَشْرَافِ الْأَوْلَادِ (۱۱۸) اور اگر ایک عورت کو اپنے خاوند کی زیادتی یا بے رغبتی کا ڈر ہو اور

ابن عَبَّاسٍ شِغَاقٌ تَفَاسَدُ وَأُحْضِرْتِ الْأَنْفُسَ الشَّيْءُ هُوَ الْكَلْبُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ

ابن عباس نے کہا شقاق (۳۵) فاد ہے واحضرت الانفس الشئ (۱۲۸) دشمن انسان کی خواہش ہے جیسی چیز کے متعلق ہرگز

عَلَيْهِمْ كَالْمُعَلَّقَةِ كَأَهْلِ آيَمِهِمْ وَلَا ذَاتُ رُوحٍ تَشُوْرُ الْبُغْضَا (م۔ ۲۷۷) عَنْ

ہے جس پر اس کو حرص ہوگا لمعلقہ (۱۲۹) کہ نہ بے شوہر ہوا در نہ شوہر والی تشوڑ والی تشوڑ (۱۲۸) یعنی

عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (م۔ ۱۱۹۷) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ

دیکھو حدیث ۱۱۹۷ ص ۱ بَابُ اَشْرَفُ تَعَالَى كَمَا قَوْلُهُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ (۱۲۵) منافق انکے سب سے نیچے

الْأَسْفَلَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلَ الْبَارِئِ نَقَا سِرُّ بَارٍ (۱۹۰) عَنْ الْأَسْوَدِ

کے طبق میں ہیں اور ابن عباس نے کہا لا درک الاسفل (۳۵) نفاق الامام (۳۵) سونگ اسود سے روایت ہے

قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةٍ عَبْدُ اللَّهِ فَمَجَّأَ حَدِيثًا يُفَعُّ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا نَسَمٌ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ

کہ ہم عبد اللہ اور ابن مسعود کے حلقے میں تھے تو حدیث آئی یہاں تک کہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور سلام کیا پھر کہا کہ نفاق

أَنْزَلَ الرِّفَاقَ عَلَيَّ قَوْمٌ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ يَقُولُ

ایسی قوم میں رہی (۱) آیا ہے کہ جو تم سے اچھے تھے (۱) تو اسود نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

۱۹۰۷

صدق ان الفاظ میں

۱۹۰۸

وہ ہر ایسا ہے۔

بیتنا النبی صلی اللہ

علیہ وسلم یصلی العطل

اذ قاتل سمع اللہ

لعمومہ کما تہم قال

قبل ان یسجد

اللہم جہ عیاش

۱۹۰۹

ابن ابی ربیعہ

اللہم جہ سلمہ

بن ہشام اللہم

جہ الولید بن

الولید اللہم جہ

المستضعفین

من المؤمنین

۱۹۱۰

اللہم اشد

و طاعتك علی

اللہم اجعلها

سبیل کسفیوسف

مطالعہ مکرر روایت

۱۹۱۱

اختلاف الفاظ سے

آئی جو دستہ افتخار

فی النار قل اللہ

یفتیکم فیہن الی

قوله وتقریوت

ان تکوھن

قالت هو الرجل

تکون عنده البیتة هو لہما وادہما فاھو کنتہ فی مالہ حق فی العزق فیرغب ان ینکحھا ویکیرہ ان ینزوجھا رجلا فینکحہ فی مالہ کنتہ

فیعضلھا فتلذت لھذا الایۃ + مطالعہ ہی لفظ ہیں۔ دیکھو نوٹ ۳۷ ص ۵۳ + عذ لہو کو احادیث متن سے خاص شفقت تھا اور ان کا مطلب یہ تھا

کہ لوگوں کو اپنی اپنی اصلاح کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف خصوصیت سے توجہ دینا چاہئے۔ کیونکہ جب انسان ایک عقیدہ ظاہر کرے اور اس

اعمال اس کے مطابق نہ ہوں تو بھی نفاق کا ایک رنگ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ نفاق ایسی قوم میں بھی داخل ہوگی جو تم سے اچھے تھے تو ان کی مراد صحابہ

رضی اللہ عنہم کے زمانے سے تھی یعنی حالانکہ اس قوم کی تعلیم و تربیت براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ مگر پھر بھی ان کے اندر

منافقین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا۔ ان کی مراد یہ ہرگز نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی کہ صحابہ میں نفاق تھا بلکہ یہ کہ ایسی پاک جماعت کے اندر بھی ایک گروہ منافقین

کھٹا تھا۔ یہاں کوئی وجہ نہیں دی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کس بات پر مسرگئے۔ آیا حدیث کے قول کی وجہ سے یا اسود کے قول کی وجہ سے۔ اگر

حدیث کے قول کی وجہ سے بھی ہو تو غالباً اس لئے کہ حدیث کے الفاظ ایسے تھے جن سے غلط فہمی پیدا ہوتی تھی کہ گویا نبی خدا ہوا یا حدیث صحابہ میں نفاق تھا۔

حالانکہ مطلب ان کا یہ تھا کہ صحابہ کے زمانہ میں بھی ایک گروہ منافقوں کا تھا۔ اور آخر یہی بھی صاف کر دیا کہ جو منافق تھے وہ بھی بالآخر تائب ہو گئے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ وَجَلَسُوا حَذِيقَةً

من فی آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہیں تو عبدا اللہ مسکرائے اور ہنرینہ مسجد کے ایک

فِي نَاجِيَةِ السَّبِيلِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَاتَيْتُهُ

کونے میں بیٹھ گئے اور عبدا اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کے شاگرد منتشر ہو گئے تو ہذیفہ نے مجھ کو لکھ کر اسے (راشدا سے) بلایا میں

فَقَالَ حَدِيثُ يَخْبِتُ مِنْ صُحْبِكَ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتَ لَقَدْ أَنْزَلَ لِبِزْفَانِي عَلَى قَوْمٍ

ان کے پاس گیا تو ہذیفہ نے کہا میں ان (عبدا اللہ) کے مسکرائے سے متعجب ہوں حالانکہ وہ جانتے تھے جو میں نے کہا لافاق ایسی قوم پر بھی

كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (۲۷) بَابُ قَوْلِهِ إِنْكَارًا أَوْ حِينًا

آیا جو تم سے اچھے تھے پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ نے ان کی توبہ قبول لی یا کلمہ اللہ تعالیٰ کا قول انا اوحینا الیک

إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ وَيُوسُفُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمِينَ (۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۳۵)

(۲۳) اللہ کے قول ویونس و ہارون و سلیمان تک دیکھو حدیث ۱۵۳۵

(۱۹۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مِنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کہ میں یونس بن

مِنْ يُونُسَ بْنِ هَمْتَى فَقَدْ كَذَبَ (۲۸) بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَتْ فِتْنَتُكَ قَوْلَ اللَّهِ يُعْتَبِرُكُمْ فِي

ممتی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا یا اللہ اللہ تعالیٰ کا قول لست فتنتك الخ (۲۷) مجھ سے فتنے جانتے ہیں

الْكَلَالَةِ إِنْ هُمْ فِي هَذَا لَيْسَ لَهُ وَكَذَلِكَ أَخْتٌ فَلَمَّا نَصَفَ مَا تَرَكَ وَهُوَ بِيَرْهَانَ

کہنے کہ اللہ تم کو کھلا کر بارہ میں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص راجعے اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بیوی ہو تو اس کی بیوی اس نے چھوڑا اس

لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَذَلِكَ الْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَرْتِدْ أَبَؤُا بِنٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِمَّنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ

کا نصبت ہے اور اگر عورت کی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا اور کھلا روہ شخص ہے جس کا تباہی وارث ہو نہ بیٹا اور وہ مسکرتی کلمہ اللہ النسب سے

(۲۷-۲۸) عَنْ الْبَرَاءِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۸۵۰)

دیکھو حدیث ۱۸۵۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحمانی بار بار کہنا کر نبیوں کے نام سے

۵- السَّائِدَةُ

۵ - السائده

حَرَمٌ وَاحِدٌ حَرَامٌ وَمِمَّا نَقَضَهُمْ بِنَقْضِهِمْ أَلَّتِي كَتَبَ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهُ تَبَوُّؤُ

حرم را کا مفرد حرام ہے مِمَّا نَقَضَهُمْ (۲۸) ان کے توڑنے سے اَلَّتِي كَتَبَ اللَّهُ (۲۸) جو اللہ نے مقرر کی ہے تبوؤ (۲۹)

تَحْمِيلٌ دَائِرَةٌ دَوْلَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ الْأَعْرَاءُ الشَّلِيظُ أَجْرُهُنَّ مَهْرُهُنَّ

توڑھے دائرہ (۱۵۳۷) زمانہ کی گردش اور وروں کے اناعراض (۲۸) مسقط کرنا اجروہن (۲۵) ان کے مہر

الْمُهَيَّمِينَ الْأَمِينَ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَا فِي

مہیمن (۲۸) امین قرآن کہ ہر ایک کتاب کو جو اس سے پہلے ہے محفوظ ہے سفیان نے کہا کہ قرآن کہ

الْقُرْآنُ إِنْ آيَةُ أَشَدُّ عَلَى مَنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

میں چھوڑا اس سے کوئی آیت زیادہ سخت نہیں لستم (۲۸) تم کسی صحابی پر نہیں ہو میں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اسے جو

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مُخَصَّصَةً فَمَا عَمَّنْ أَحْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا

تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتنا ہے مخصوصہ (۳) بھوک من احیاءا (۳۲) جس نے اس کے قتل کو حرام سمجھا

۱۷
میں لفظ یوں
ہیں، عن النبی
صلی اللہ علیہ
وسلم قال ما یبغض
لا حد ان یقول
انا خیر من یونس
بن ہمتی میں اس
بات سے روکا کہ
کوئی شخص اپنے
آپ کو حضرت
یونس سے بڑا کہے
اس لئے کہ ان
ایک غلطی ہو گئی
کیونکہ نبی ہونے
میں وہ بھی دوسر
انبیا کی طرح ہیں
اور اللہ تعالیٰ
نے سب انبیاء
کی طرف یکساں
رحمت کی نیز دیکھو
نوٹ ۳۲ صفحہ
۵۳۸
۲۷
میں لفظ یوں
ہیں۔ آخر سورة
نزلت بسرعة
والاخرایة
نزلت یستفتونک
قل للہ یفتیکہ
فی الکلالہ

رَأَى الْجَنَّةَ حَيْثُ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا شَرَعًا وَمِنْهَا جَائِسِيلاً وَسَنَّهُ (۱) بَابُ قَوْلِهِ

مگر جن کے ساتھ تو اس کی وجہ سے سالے نوگ زندہ ہے شرعاً و منها جائسلاً اور طریقہ باب الشرحی

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَصَّصَةَ فَجَاعَةً (م- ۲۲۸۰)

کا قول الیوم الا ۳ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور ابن عباس نے کہا مخصوصہ (۳) جوگ ہے

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (متکثر- ۲۱) بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا تَبَدَّدَ مَا فِي بَيْتِهِمْ صَبَعُوا

دیکھو حدیث ۲۱ باب الشرحی کا قول فلما تبدد ما فی بیتہم صبعوا

طَبَيًّا تَيْمَمُوا الْعَدُوَّ الْإِيمَانَ عَامِدِينَ أَهَمَّتْ وَتَيَمَّمَتْ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَسْتُمْ

پاک مٹی کا قصد کرو تيممو قصد کرو ایمان آئینہ آہممت اور تيممت ایک ریسے میں تيممت اور ابن عباس نے کہا لستم

وَتَمَسَّوْهُنَّ وَاللَّائِي دَخَلَتْ مِنْهُنَّ وَالْأَفْضَاءُ الْبِكَاسُ (م- ۲۲۸۱) عَنْ عَائِشَةَ (م- متکثر)

(۱۶) اور تمسوهن ر البقرہ - ۲۳۷ اور التي دخلت منهن والافضاء البکاس (م- ۲۲۸۱) عن عائشة (م- متکثر) دیکھو حدیث

۲۲۷۴ م- ۲۲۸۲ عَنْ عَائِشَةَ (م- متکثر- ۲۴) بَابُ قَوْلِهِ فَاذْهَبِ أَنْتَ زَيْنًا

۲۲۷۴ م- ۲۲۸۲ دیکھو حدیث ۲۴ باب الشرحی کا قول فاذهب انت ۲۲۷۴ سو تو اور

فَقَاتِلْ أَرَابًا هُنَا قَاعِدُونَ (م- ۲۲۸۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- متکثر- ۱۷۷۶)

تیرا رب جاؤ اور جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں دیکھو حدیث ۱۷۷۶

(۲) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي

باب الشرحی کا قول إنما جزاء المحاربين الله ورسوله ويسعون في

الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَلَى قَوْلِهِ أَوْ يَنْفَعُوا مِنَ الْأَرْضِ مُحَارِبِينَ

پھیلاتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کو سولی دی جائے اللہ کے قول اور ينفعون من الأرض محاربين اللہ کے

لِللَّهِ الْكَفَرِيَّةُ (۹۰۹) عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ

اللہ کا انکار ہے ابو قلابہ سے روایت ہے کہ وہ عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بیٹھے تھے

الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا وَقَالُوا وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخَلْفَاءُ فَانْتَفَتْنَا إِلَى

تو لوگوں نے (تیسرا) ذکر کیا اور ذکر کرتے رہے اور کہا اور کہتے رہے اور کہا خلفائے اس میں قصاص یا ہے تو انوں عمر بن عبد العزیز نے

أَبِي قَلَابَةَ وَهُوَ خَلْفٌ ظُهُرُهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَرِّئِدُ أَوْ قَالَ مَا

ابو قلابہ کی طرف دیکھا اور وہ اٹلی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور کہا عبد اللہ بن زید تم کی کہتے ہو یا کہا ابو قلابہ تم کی

تَقُولُ يَا أَبَا قَلَابَةَ قُلْتُ مَا عَلِمْتُ لَنْفَسًا حَلَّ قَتْلَهَا فِي الْأَسْلَامِ الرَّجُلُ زَنِ

کہتے ہو تو میں نے کہا میں ایسے انسان کو نہیں جانتا جس کا قتل اسلام میں جائز ہو مگر یہ شخص جو شادی شدہ

بَعْدَ احْتِصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بغيرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہونے کے بعد زنا کرے یا کسی شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے

بما خفيصا اختلافاً
نقلی سے حدیث
کو بیان کیا ہے
قالت اليهودی
انکر تقرؤن آیت
لو نزلت حینا
لا تخزنناھا عبد
فقال عمرانی
لا علم حیث انزلت
داین انزلت و
ابن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم حین انزلت
یوم عرفہ وانا
واللہ بعرفہ قال
سفین واشک
کان یوم الجمعة
ام لا الیوم الملک
لکھو دیکھو
ایک دو جگہ
یرائے نام فرق
سے انی الفاظ
سے حدیث کو
دو پر آیا ہے
متکثر روایت
اختلاف الفاظ
سے آئی ہے۔
سقطت قلابہ علی
بالبیضاء وخن
داخلون المدینة
فانما حروا واثم بها
ویام الخبیص صلعم و
نزل (مقام کیا)

فتنة راسه في بحري رافداً اقبل ابو بكر ففكر في ركم مارا كمنه مشد يديته وقال جست الناس في قلابة فبى الموت ريس مروه في طرح قتي عيني هتي ته قتي
لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعت ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتفت اليه فوجد في ذلك
ياها الذين امنوا اذا قدمت الي المصلاة الاية فقال اسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيك يا ابا بكر ما انتم الا بركة لهم ملكا ابتداني
ايك ووجهه جهورا في كوخ خفيص اختلاف نقلی سے بیان کیا ہے۔ قال لعقد اول يوم بدر يا رسول الله انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل
لسولى فاذهب انت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون ولكن امض ونحن معك فكانه سوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ بدر کا تھا بلکہ
حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ دیکھو نوٹ ۲۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

فَقَالَ عُنْبُسَةُ حَدَّثَنَا آتَشٌ يَكْنُ أَوْ لَدَا أَقْتُلُ رَأْيَايَ حَدَّثَ آتَشٌ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَيَّ

تو عنبسہ نے کہا مجھے آتس نے ایسی ہی حدیث سنائی میں نے کہا مجھ سے آتس نے بیان کیا کہ ایک قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلِمَةٌ فَقَالُوا قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هَذَا نَعْمُ

پاس آئی اور آپ سے گفتگو کی انوں نے کہا اس جگہ کی آب ہوا ہم کو موافق نہیں آئی آپ نے فرمایا یہ ہمارے

لَنَا فَخَرَجُوا فَخَرَجُوا فِيهَا فَاشْتَرَبُوا مِنْ الْبَابِ مَا دَأَبُوا لَهَا فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ

اور اٹھ بیس جو یا ہر حال سے ہیں تر رہی، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا وہ وہ اور پینشاپ ہیو وہ ان کے ساتھ گئے اور ان کا

أَبُو الْهَاءِ وَالْبَابِ مَا دَأَبُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَالُوا هَذَا وَاطْرُدُوا وَالنَّعْمُ فَمَا

پینشاپ اور ان کا وہ وہ ہیں اور اچھے ہو گئے اور چرواہے پر پل پڑے اس کو قتل کر دیا اور اڑھٹ بھگائے گئے تو ایسے

يَسْتَبِطُ مِنْ هَوْلِهِ قَدُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

لوگوں کے متعلق کیا تا بل ہو سکتا ہے انوں نے جان کو قتل کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول سے رطے اور رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ شَرِّ مَنِي قَالَ حَدَّثَنَا بَهْدًا آتَشٌ قَالَ وَقَالَ

علیہ وسلم کو ڈرا یا تو عنبسہ نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا تم مجھ پر غلطی کا الزام لگاتے ہو اس نے کہا اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا

يَا أَهْلَ كَذَا أَرَأَيْتُمْ لَنْ تَرَوْا الْوَالِدَ يُخَيِّرُ مَا لَبِقِيَ هَذَا مِنْكُمْ وَمِثْلُ هَذَا (۵) بَابُ قَوْلِهِ

کہا اور عنبسہ نے کہا فلان جگہ رشام کے رہنے والوں تم پر برا چھے رہو گے جب تک یہ تم میں موجود ہیں یا ان کی مانند

وَأَجْرُ وَحَقِصَاصٍ (۶) - ۲۲۸۴ عَنْ آتَشٍ (مكرر - ۱۲۵۹) بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا

ساقول والجر وحقصاص (۶) دیکھو حدیث ۲۲۵۹ بَابُ اللہ تعالیٰ کا قول یا ایہا

الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۹) بَابُ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مِمَّنْ حَدَّثَكَ

الرسول الخ) ۹) ہلے رسول پہنچانے جو تم پر ترے رب کی طرف سے آتا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جو تم سے کہے

أَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُمْ شَيْئًا مِمَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ جیسا یا جو آپ پر اتارا گیا تو اس نے جھوٹ کہا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ الْآيَةَ (۱۰) بَابُ قَوْلِهِ لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ

اے رسول پہنچانے جو تم پر اتارا گیا آخرت تک بَابُ اللہ تعالیٰ کا قول لا یؤخذکم اللہ باللعنة الخ

رَفِي أَيُّهَا نَكْمُ (۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مِمَّنْ حَدَّثَكَ الْوَالِدَ يُخَيِّرُ مَا لَبِقِيَ هَذَا مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

پرفلوع کے سبب جو تماری قوم میں ہو وہ افہرہ نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہو کہ آیت لا یؤخذکم اللہ باللعنة ایہا نکر اتاری گئی ہے

أَيُّهَا نَكْمُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبِئْسَ مَا لَبِقِيَ هَذَا مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ (۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مِمَّنْ حَدَّثَكَ

ان کے اس قول کے سلسلے میں لا والہ بلی والہ بلس حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے والد

كَانَ لَا يَحْتَسِبُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَعْنَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا أَرَى

قسم کو نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے قسم کا کفارہ اتارا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جو یہی

ہی تھی۔ ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی۔ کتاب الدیات میں تفصیل آئے گی۔ مٹل خفیف اختلاف لفظی سے حدیث کو بیان کیا ہے۔۔۔ کسوت

الربیع وہی عمدۃ آتس بن مالک ثنیۃ جاریۃ من الانصار فطلب القوم القصاص فاذا ائینصی صلی اللہ علیہ وسلم فامر

النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص فقال آتس بن النضر عم آتس بن مالک لا والله لا تسوسنہا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یا آتس کتاب اللہ القصاص فوضی القوم وقیلوا الارش فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ

من لو قسم علی اللہ لا یؤخذ۔ جرح میں قصاص کی بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ مٹل یعنی جو لوگ یونہی تکیہ کلام کے طور پر لاوا اللہ کہہ دیتے ہیں

یعنی قسم ان کی زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

رقبہ صفحہ ۱۰۷۹

قتاہت یہ ہے

کر قتل کے معاملہ

میں جب قاتل کا

پتہ نہ ملے اور مقتول

کسی قوم کے اندر

پایا جائے تو یا تو

مقتول کے وارثوں

میں سے پچاس

آدمی قسم کھائیں

کہ اس قوم نے

قتل کیا ہے اور

یا جن پر الزام ہے

ان میں سے پچاس

آدمی قسم کھائیں۔

مٹل عکلی و عزمینا

واقفہ احمد کے

قریب کا چچا و

زمانی سزاکے

بارے میں پہلے

یہودی شریعت

پر عمل ہوتا رہا۔

سورہ نور جس میں

زمانی کی سزا کا ذکر

ہے بعد میں نازل

ہوئی۔

صفحہ ۱۱۱

مٹل

یعنی عنبسہ نے

ابو فلان کی تصدیق

کی اور کہا کہ ہمیشہ

جو آتس نے

بیان کی تھی یوں

يَمِينًا أُرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قُلْتُ رَحْمَةً اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
 دیکھوں گا کہ میری قسم کے خلاف کسی بات کا کرنا اس سے بہتر ہے تو میں اللہ کی رحمت کو قبول کروں گا اور اسی کو کروں گا جو اچھا ہوگا

(۸) بَابُ قَوْلِهِ لَا تَخْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (۱۹۱۲) عَنْ عَبْدِ

بَابُ الشَّيْطَانِ وَالْمَيْسُورِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ وَالْحَمْرِ وَالْمَيْسُورِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ وَالْحَمْرِ

اللَّهُ رَضِيَ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا سَاءٌ فَقُلْنَا

عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبرک جنگ کیا کرتے تھے اور ہم کے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تھیں تو ہم نے عرض

أَلَا تَخْتَصِمِي فَيُهَيِّئُهَا لَنَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصْنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ

کیا کریں ہم اپنے نہیں ختمی نہ کریں تو آپ نے ہم پر کہا اس سے منع کیا اس کے بعد آپ نے ہم کو اعجازت دی کہ کہہ لیں کہ عوفن بھی کسی عورت سے

بِالْقُوبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

نکاح کریں مگر پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان سختی چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں

(۹) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسُورُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ حَمْرٌ مِنْ عَمَلِ

بَابُ الشَّيْطَانِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا زَلَامَ الْقِدَاحِ يُقْبَسُ مُمُونٌ بِهَائِنِي الْأُمُورِ وَالنَّصَبِ

کے عمل سے ہیں اور ابن عباس نے کہا الزام تیر ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی قسمت معلوم کرنا چاہتے تھے اور نصب

النَّصَابُ يَذْجُونُ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّلْمُ الْقِدَاحُ لَا رَيْبَ لَهُ وَهُوَ أَحَدُ

بت ہیں جن پر وہ ذبح کیا کرتے تھے اور اوروں نے کہا ہے کہ زلم تیر ہے جس پر بدن ہو اور وہ الزام کا لغز ہے

الْأَزْلَامُ وَالْإِسْتِقْسَامُ أَنْ يُحْمِلَ الْقِدَاحُ فَإِنَّ نَهْتَهُ انْتَهَى وَإِنَّ أَمْرَهُ

اور قسمت معلوم کرنا اس طرح تھا کہ تیروں کو پھراتے تو پھر اگر تیر سے اسے روک تو رک جانا اور اگر وہ لمبے حکم

فَعَلَ مَا تَأْمَرُهُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْبِسُ مُمُونٌ بِهَا وَفَعَلَتْ

دیتا تو اسے کرتا جو وہ اس کو حکم دیتا اور انہوں نے تیروں پر قسم قسم کی نشانیاں بنا رکھی تھیں ان سے قسمت معلوم کرتے تھے اور

وَمِنْهُ قَسَمْتُمْ وَالْقِسُومُ الْمَصْدَرُ (۱۹۱۳) عَنْ ابْنِ حَمْزَةَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ

منکرم کا صیغہ اس میں سے قسمت آتا ہے اور قسوم مصدر ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی

وَرَأَى فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ خَمْسَةَ أَشْرَبَاتٍ تَأْتِيهَا شَرَابُ الْعَنْبِ (م- ۲۲۸۵)

اور مدینہ میں اس وقت پانچ قسم کی شراب تھی اور اس میں انگور کی شراب نہ تھی

عَنْ ابْنِ مَالِكٍ (متكرد- ۱۱۷۵) (م- ۲۲۸۶) عَنْ جَابِرٍ (متكرد- ۱۲۹۶)

دیکھو حدیث ۱۱۷۵ م- ۲۲۸۶ دیکھو حدیث ۱۲۹۶

کے لئے اس سے معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی اور اس وقت پانچ قسم کی شراب تھی اور اس میں انگور کی شراب نہ تھی

یہاں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر اللہ نے تمہاری بیوی کو حرام کر دیا تو تمہاری بیوی کو حرام کر دو اور وہی

اعادیت میں جو یہاں آئی ہیں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ اس آیت کی بنا پر انہما اللہ والیسہ الا لایہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا اور اس حرمت کا عام اعلان میں

میں کر دیا بعض مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ آیت قرآنی میں تحریم کا لفظ نہیں اس لئے شراب کی قطع حرمت کوئی نہیں مگر یہ عروت خدا کے حکم کو ٹوٹنے کا ایک بہانہ ہے جس سے

علا لشیطان قصیدے سخت لفظ نہیں پھر جانتے ہو کہ عروج الفاظ موجود ہیں حرمت اور کس چیز کو کہا جائیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مانی ہو گیا حرمت کا اعلان تو ایسا کرنا

۱۹۱۲
 ۱۹۱۳
 ۱۹۱۴
 ۱۹۱۵
 ۱۹۱۶
 ۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰
 ۲۰۰۱
 ۲۰۰۲
 ۲۰۰۳
 ۲۰۰۴
 ۲۰۰۵
 ۲۰۰۶
 ۲۰۰۷
 ۲۰۰۸
 ۲۰۰۹
 ۲۰۱۰
 ۲۰۱۱
 ۲۰۱۲
 ۲۰۱۳
 ۲۰۱۴
 ۲۰۱۵
 ۲۰۱۶
 ۲۰۱۷
 ۲۰۱۸
 ۲۰۱۹
 ۲۰۲۰

یہاں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر اللہ نے تمہاری بیوی کو حرام کر دیا تو تمہاری بیوی کو حرام کر دو اور وہی اعادیت میں جو یہاں آئی ہیں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ اس آیت کی بنا پر انہما اللہ والیسہ الا لایہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا اور اس حرمت کا عام اعلان میں کر دیا بعض مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ آیت قرآنی میں تحریم کا لفظ نہیں اس لئے شراب کی قطع حرمت کوئی نہیں مگر یہ عروت خدا کے حکم کو ٹوٹنے کا ایک بہانہ ہے جس سے علا لشیطان قصیدے سخت لفظ نہیں پھر جانتے ہو کہ عروج الفاظ موجود ہیں حرمت اور کس چیز کو کہا جائیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مانی ہو گیا حرمت کا اعلان تو ایسا کرنا ہے کہ اور کسی سے معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی اور اس وقت پانچ قسم کی شراب تھی اور اس میں انگور کی شراب نہ تھی

(۱۹۱۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مَذْبَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذبح پر کھڑے

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خُمُسَةِ مِنَ الْعَنْدِ وَالْخَمْرُ

اما بعد اے لوگو شراب کی حرمت اتنی اور اس وقت وہ پانچ پیڑوں کی دہائی تھی انھوں سے اور کھجور سے

وَالْعَسَلُ وَالْخِنْطِقَةُ وَالشَّعِيرِيُّ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ رَأَى بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَى

اور عسل اور کھجور سے اور جو سے اور فروہ ہے جو عقل کو گھمانے کے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ يَجِبُ الْحُسَيْنَيْنِ

(۱۹۱۵) ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے کوئی گناہ اس میں نہیں جو انہوں نے کھا یا پلے اور اللہ جب محمد و جعفر

رَأَى بَابُ قَوْلِهِ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَسْيَاءِ

دیکھو حدیث ۱۱۰۵ باب اللہ تعالیٰ کا قول لا تسألوا عن احوال الانبياء

إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ رَأَى بَابُ قَوْلِهِ

کہ اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچے

قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفِرُ الرَّجُلُ

کہا کچھ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے طور پر پوچھا کرتے تھے

مَنْ رَبِّي وَيَقُولُ لِلرَّجُلِ تَضِلُّ نَاقَتَهُ آيِنَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ

پیرا باب کون ہے کوئی شخص صاحب وہ اپنی اونٹنی کو گھومتا میری اونٹنی کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہالے میں یہ آیت اتاری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَسْيَاءِ أَعْرَابٍ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ حَتَّى تَفْرَقَ مِنْ

یا ایہذا الذین امنوا لا تسألوا عن اسیاء اعراب ان تبدلکم تسؤکم

الْآيَةَ كَلِمًا رَأَى بَابُ قَوْلِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحْرٍ وَلَا سَابِغٍ وَلَا وَصِيلَةٍ

آیت سے فارغ ہوئے باب اللہ تعالیٰ کا قول ما جعل الخ ۱۱۰۳ اللہ نے نہ کوئی بیخود بنایا ہے اور نہ سامیہ اور نہ وصیہ

وَلَا حَامٍ وَلَا حَامٍ قَالَ اللَّهُ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ دَرَأْهُمْ نَاصِلَةَ الْمَارِدَةِ أَصْلُهَا

اور نہ حام داؤ قال اللہ ۱۱۰۱ اللہ کے گوارا میں قال اللہ ہے اور اذ انہاں پر زائد ہے فائدہ اصل میں مفعول کے

مَفْعُولَةٌ كَوَيْبَةَ رَاضِيَةٍ وَتَطْلِيْقَةٍ بِأَيْدِيهِ وَالْمَعْنَى هَيْدٌ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ

معنوں میں ہے جیسے عیشہ راضیہ اور تطلیقہ بآئینہ اور معنی ہیں یعنی اس کے صاحب کو اس سے بھلائی دی

خَيْرٍ يُقَالُ مَا دَنَى يَمِيدِي وَيُقَالُ بَنُ عَبَّاسٍ مُتَوَفِيكَ هَيْدُكَ رَأَى بَابُ قَوْلِهِ سَعِيدٌ

خوبی کہا جاتا ہے مادنی یمیدنی اور ابن عباس نے کہا متوفیک غیے مانے والا ہوں سید سعید بن سید

عَلَى رَأَى بَابُ قَوْلِهِ سَعِيدٌ

پہلے یہ روایت سنکر

مذکور سے زیادہ
تفصیل سے زیادہ
ہے ان الحشر
الرضیہ وزادنی
عن ابی نعیم
قال كنت سأتی
القوم فی منزل
الی طلحہ فنزل
تحریم الخمر فاحمر
مناذبا فسأذی
فقال ابو طلحہ
اخرج فانظر ما
هذه الصوت قال
فخرجت فقلت
لهذا اناذنی بادی
الان الخمر قد
حوت فقال لی
اذہب فاہرقها
قال فخرجت
سکت المدینة
قال وكان منہم
یوشم العضوی
فقال بعض لقم
قل قوم دہنی فی
بطونہم قال
فانزل اللہ لیس
علی الذین امنوا
وعملوا الصالحات
جناح فیما طعموا
علی رایت منفر

قوله لا تسألوا عن احوال الانبياء

ہے اور اختلاف لفظی سے آتی ہے۔ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلہا قط قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فضحك اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوهہم لہم خیرین رحمۃ کی آواز فقال رجل من ابی قال فلان فلنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اسیاء ان تبدلکم تسؤکم وانما الذمہ ودرجہ بن عبدالمطلب چون شجرۃ ہے جس کی چھٹی روایت حضرت انس کی اور حضرت ابن عباس کی ایک ہی واقعہ کے متعلق ہیں۔ یہ اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسول کرتے تھے حضرت ابن عباس ہ کی خیال ہے۔ چونکہ نبی لوگ تھے اور ان میں بعض بہت نادان قبیلے ہوتے اسکے اپنی کم علمی کی وجہ سے جس سوال کرتے تھے اور یہ بھی فروری نہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہو بلکہ کسی آیت کے کسی واقعہ پر چسپان ہونے پر بھی نزول کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ لہذا بیسے انی متوفیک میں حضرت ابن عباس نے متوفیک کے معنی ہیدک لئے ہیں یعنی تجھے موت لینے والا ہوں یا وفات لینے والا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کے وفات پا جانے کا ظنی ثبوت ہے رام بخاری نے اس آیت کو اس آیت کے ماتحت لاکر جس کا ترجمان باب میں ہے یعنی اذا قال اللہ للیسی بن مریم جن میں یہ غلط بھی آئے ہیں۔ فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم یہ بتا دیا ہے کہ توفیتنی کے معنی بھی یہی ہیں کہ جب تو نے مجھے وفات دی +

ابن المسيب قال البجيرة التي يمنة درها للعو اغيت فلا يجلبها احد من
سے روایت ہے کہ بجز وہ ہے جس کا دودھ بچوں کے لئے روک لیا جائے تو گوں میں سے کوئی بھی اس کو نہ دے

الناس والسائبة كانوا يسبونهم لا يحمل عليها شي قال وقال
اور سائبہ کو وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے اس پر کوئی بوجھ نہ لاد اجاتا تھا کہا اور ابیرہ

ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزازي
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الخزازی کو دیکھا

يخرج قصبه في النار كان اول من سبك السوائب والوصيلة الناقة البكر ثم في
کراچی اتریاں لگے اندر گھینٹا چلا جاتا ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے سوائب (ساتھوں) کو چھوڑا اور وصیلہ وہ جوان اونٹنی سے جو

اول يتاجر الابل ثم تلثني بعد ياتني وكانوا يسبونهم لخوا اغيتهم ان وصلته
پہلی بار اونٹنی چنے پھر دوسری بار اونٹنی چنے اور اس کو وہ اپنے بچوں کے نام پر چھوڑ دیتے جب وہ چلنے

احدا هيا يا اخري ليس بينهما ذكر والحام فحل الابل يضرب الضراب
میں ایک اونٹنی کو دوسری کے ساتھ ملا دیتی اور درمیان میں نر نہ ہوتا اور حام اونٹوں میں سے ہے جو ایک خاص قسم کی تھوڑی جھینگر

المعدود فاذا قضى ضرابه ودعوه للعو اغيت واعفوه من الحمل فلم
جب وہ اپنی جھینگر پوری کر چکا تو اس کو بچوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور بار برداری سے اس کو معاف کرتے اور اس پر

يحمل عليه شيء وسموه الحامي روزا في رواية سمعت النبي صلى الله
کوئی بوجھ نہ لادنے اور اس کا نام حامی رکھتے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عليه وسلم نحوه (۱۵۹) اب عن عائشة رضي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سے ایسا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رايت جهنم يحطم بعضها بعضا ورايت عمروا يجرح قصبه وهو اول من سبب
میں نے جہنم کو دیکھا اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھیل رہا تھا اور میں نے عمرو کو دیکھا کہ وہ اپنی اس میں گھینٹا ہوا بیجا رہا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائب

السوائب (۱۳۱) باب قوله وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني
چھوڑنے کی رسم نکالی ہے باب اللہ تعالیٰ کا قول وکنتم اللہ (۱۱) اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا پھر جب تو نے مجھے فات

كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد (م- ۲۲۹) عن ابن
دیدتی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے

عياض (م- ۱۵۵) (۱۴) باب قوله ان تعدلهم فاني عبادك و
دیکھو حدیث ۱۵۱۵ باب اللہ تعالیٰ کا قول ان تعدلہم اللہ (۱۱) اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ

ان تعجز لهم فارك انت العزيز الحكيم (م- ۲۲۹) عن ابن عباس (متكرر- ۱۵۵)
تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انکی حفاظت کرے تو بیک تو غالب حکمت اللہ ہے دیکھو حدیث ۱۵۱۵

اس کا پھل
حصہ ۱۹۱
گذر چکا ہے
اس مکرر روایت
کسی قدر اختلاف
افاضے سے آتی ہے
خطب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
فقال یا ایہا الناس
انکم محشورون
الی اللہ حفرة متولة
غولا ثم قال کما
بدانا اول خلق
تعبدا وعدا
علینا ان انکنا
فاعلمین الی
اخرا لایة ثم
قال الادات
اول الخلاق
یکلیه یوم القیلة
ابراہیم الاو
انہ یجاء برجال
من امتی یؤخذ
بهم ذات النعال
فاقول یا رب
اصحابی فیقال
انک لا تدری
ما احد توابعک
فانک انما قال
العبد الصالح
وکنتم علیہم
شہید انما دمت
فیہم فلما توفیتہ
کنتم ان الرقیب علیہم
فیقال ان ھولاء لم یزوالوا من علی اعقابہم
من امی یعنی میری امت کے لوگ لائے جائیں گے۔ شامٹا امتی
پرا صحابہ کا لفظ اپنی وصوت معنی کے لحاظ سے استعمال کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ بدعات صحابہ کے زمانہ میں نہیں بلکہ تیج تابعین کے بعد زیادہ تر
مکملیں۔ اس روایت نہایت مختصر ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم محشورون وان ناسا یؤخذونہم و ان
اللہ تعالیٰ کا قول کما قال العبد الصالح وکنتم علیہم شہید انما دمت فیہم الی قولہ العزیز الحکیم

۴- سُورَةُ الْأَنْعَامِ

۴ - سورہ الانعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارے امتیاز والے بار بار رحم کرینے کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فُتِنْتَهُمْ مَعَدْرَتَهُمْ فَعَرَّوْا شَاتٍ قَائِعَ عَرَشٍ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِ

ابن عباس نے کہا کہ تمہیں (۲۳) ان کا عذر معروضات (۱۲۲) جو چڑھائے جاتے ہیں انکو وغیرہ

ذَلِكَ حَمُولَةٌ قَائِمَةٌ عَلَيْهَا وَلِلْبَنَاتِ لَشَبَهَاتِنَا وَنُتَبَّعُونَ تَبَاعُدُونَ تَسْبُلُ

حمولہ (۲۳) وہ جس پر بوجھ لاداجائے اللہ بنا (۹) ہم شبہ میں ڈال دیں گے بنادوں (۲۷) دور ہو جاتے ہیں تسبیل (۲۰)

تَقْضِي أَسْبُلًا أَوْ فَضْحًا أَوْ بِسْطًا أَوْ أَيْدِيَهُمْ الْبِسْطُ الصَّرْبُ اسْتَأْذَنَتْكُمْ أَضَلَّكُمْ

رسوا کیا اسیلوں (۲۰) رسوا کئے گئے باسٹوا ایسٹہم (۹) بسط مارنا ہے استئذنتم (۱۲۹) تم نے بتوں

كَثِيرًا أَذْرَأَهُنَّ أَحْرَثَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ شَمْرَاتِهِمْ وَمَا لَهُمْ نَصِيبًا وَاللَّيْطَانِ

کو گرا کیا ذرا ان الحوث (۳۳) ایک حصہ اپنے بچوں اور اپنے مالوں میں سے انہوں نے اللہ کے لئے مقرر کیا اور ایک حصہ شیطان

وَالْأَوْثَانِ نَصِيبًا الْبَنَاتِ وَأَجْدَهَا كِنَانًا أَمَا اسْتَمَلْتِ لَعْنِي هَلْ تَسْتَمَلِ إِلَّا

اور بتوں کے لئے اکنہ (۲۵) اس کا مفرد کنان (۲۵) ہے اما استملت (۲۲) یعنی کیا رحمتوں میں زیادہ

عَلَى ذِكْرٍ أَوْ آتِي فَلَئِمٌ مَحْرَمُونَ بَعْضًا وَتَحْلُونَ بَعْضًا مَسْفُوحًا فَهَرَأَقَ صَدَفٌ

دونوں نہیں ہوتے تو پھر تم کیوں ایک کو حرام سمجھتے ہو اور دوسرے کو حلال مسفوحاً (۱۲۷) مہایا ہوا خون (۱۵۸) صدقہ

أَعْرَضَ أَلْبَسُوا أَوْ يَسُوا أَوْ أَسْلَمُوا أَسْرَمُوا أَدِيمًا اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ بَيَاتُونَ

منہ پھیل ایلوسا (۱۰) نامید کئے گئے اور اسیلوا پر لکے گئے سہوا (الفصل) ہمیشہ استهوترا (۱۰) سے گرا کر یا ریتوں

يَسْطُونَ وَقَرَّصَمَمٌ وَأَمَّا الْوَقْرُ الْحَمْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدٌ أَسْطُورَةٌ وَأَسْطَارَةٌ

لکھ کرتے ہیں وقرا (۲۵) ہر ابن اور وقروجر اساطیر (۲۵) اس کا مفرد اسطوره اور اسطارتہ ہے

وَرَهَى الثَّرَاهُ الْبِاسَاءُ مِنَ الْبِاسِ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ مَهْرَةً مُعَايِنَةُ الصُّورِ جَمَاعَةٌ

اور وہ بیہودہ افسانے ہیں الباساء (۲۲) بائیں (ضحی) سے ہے اور بؤس (تعمق) بھی ہو سکتا ہے جمہور (۲۰) کلمہ کھلا صور (۲۲)

صَوْرٌ كَقَوْلِهِ سُوْرَةٌ وَسُوْرَةٌ مَلَكُوتٌ قُلْ كَمِثْلِ رَهْبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحْمِوتٍ وَ

صورہ کی جمع ہے بیہودہ اس کا قول سورۃ اور سورہ ملکوت (۲۰) بادشاہت مثال ہے رهبوت (دور) خیر من رحوت (دہرانی) اور

يَقُولُ تَرَهَّبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ جَنَّ أَظْلَمُ يَقَالُ عَلَى اللَّهِ حُسْبَانَةٌ أَمْ حِسَابَةٌ

کہا جاتا ہے تیرا اور یا جانا ہتر ہے تجھ پر رحم کرنے سے جن رہے اندھیرا چھایا کہا جاتا ہے علی اللہ (اللہ) حسابانہ (۲۰) یعنی اس کا

وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِي وَرَجْمًا لِلشَّيْطَانِ مُسْتَقَرٌّ فِي الصُّلْبِ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي

حساب اور کہا جاتا ہے حسابانہ اور شیطان پر چھینکنے کے حوسے ہیں مستقر (۹۹) جائے قرار پھیلے ہیں اور مستودع (۵۹) جائے

الرَّحِمِ الْقَوْتُ الْغَدْقُ وَالْإِتْنَانُ قِنْوَانٌ وَالْجَمَاعَةُ أَيضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوَدٍ

(دہلیت) رحم میں قنوان (۱۰) خوش اور تشبیر قنوان ہے اور جمع بھی قنوان ہے جیسے صنو اور

صِنْوَانٍ رَأَى قَوْلَهُ وَجَدَهُ مَقَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (۲۲۹)

صنوان باب اللہ تعالیٰ کا قول دہندہ (۵۹) اور اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا

حَسَنَ ابْنِ حَمْرٍ مَتَكَرٍ (۵۸۶) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ

حسن ابن حمزہ متکر (۵۸۶) باب اللہ تعالیٰ کا قول قل (۶۵) کہنے کا انداز اس بات پر ہے

دیکھو حدیث ۵۸۶

ملل
کر روایت
اختلاف لفظی سے
آئی ہے۔
ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم قال
مفتاح الغیب
خمس ان اللہ
عندہ علم الساعة
ویزل الغیب
ويعلم ما فی
الارحام
وما تدری
لغس ما اذا
تکسب خدا
وما تدری
نفس بائے
ارض بتوت
ان اللہ علیہم
خبیر۔ دیکھو
نوٹ ۱
صفحہ ۲۲۶

تفسیر

عَلَيْكُمْ وَعَدَا مِنْ فَوْقِكُمْ ۝ الْآيَةُ لِيَسْئَلَكُمُ الْيَهُودُ لِمَ جَاءْتُمُوهُمُ ۝

شَيْعًا فَرَّقَا (۱۹۱۶) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُلُوهُ الْقَادِرُ

عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ أَوْ جِهَتِكَ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْ يَلْبِسُكُمْ شَيْعًا

وَيَذِيقُ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَعِيضٍ وَالْأُخْرَى لِيَسْئَلَكُمْ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ لِمَ جَاءْتُمُوهُمُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹) بَابُ قَوْلِهِ وَكَلِمَةُ يَلْبِسُ أَرَادَ يُسَلِّطُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹) بَابُ قَوْلِهِ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَعِيضٍ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَن هُمْ أَقْتَرُ

۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰

ملا حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ان عذابوں کے ذکر کو اپنی امت کے متعلق سمجھا یا یہ کہ ان کو عام سمجھا جس میں یہ امت بھی شامل ہے تو آپ نے آسمانی یا زمینی عذابوں سے پناہ مانگی اور آپس کی ٹھیٹھ کے عذاب کو آسان فرمایا جو آج وہی آپس کی ٹھیٹھ کا عذاب مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے شاید اس کو آسان کرنے میں یہ اشارہ ہو کہ آخر مسلمانوں کو سمجھ آ جائے گی اور وہ اس عذاب سے باز نکل آئیں گے لیکن آسمان یا زمین کا عذاب آتا تو پھر برباد ہی ہو گئے ہوتے۔

میں دوہرایا ہے یعنی آیت میں ظلم سے مراد مشرک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ۸۲۴۰ کے جس دیکھو نوٹ ۳ ص ۱۰۷۔ ۱۰۸ نیز نوٹ ۳ ص ۱۰۸۔ جنواں جاسکے تعلق ہے کہ یونس اور لوط کے متعلق قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم نے انہیں عالمین پر تعذیب دی۔ اسکے لئے آپ کو ان سے بڑا کسانا سب نہیں۔ اس کے لفظ پھیلے حدیث کے ہیں۔ یہ خفیف اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ ا۔ انہ سال ابن عباس ان فی حدیث صحیحہ اللہ عنہم اذ قال اللہ فیمہم اذ قال اللہ فیمہم

۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰

۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰
 ۲۰۰۱
 ۲۰۰۲
 ۲۰۰۳
 ۲۰۰۴
 ۲۰۰۵
 ۲۰۰۶
 ۲۰۰۷
 ۲۰۰۸
 ۲۰۰۹
 ۲۰۱۰
 ۲۰۱۱
 ۲۰۱۲
 ۲۰۱۳
 ۲۰۱۴
 ۲۰۱۵
 ۲۰۱۶
 ۲۰۱۷
 ۲۰۱۸
 ۲۰۱۹
 ۲۰۲۰
 ۲۰۲۱
 ۲۰۲۲
 ۲۰۲۳
 ۲۰۲۴
 ۲۰۲۵
 ۲۰۲۶
 ۲۰۲۷
 ۲۰۲۸
 ۲۰۲۹
 ۲۰۳۰
 ۲۰۳۱
 ۲۰۳۲
 ۲۰۳۳
 ۲۰۳۴
 ۲۰۳۵
 ۲۰۳۶
 ۲۰۳۷
 ۲۰۳۸
 ۲۰۳۹
 ۲۰۴۰
 ۲۰۴۱
 ۲۰۴۲
 ۲۰۴۳
 ۲۰۴۴
 ۲۰۴۵
 ۲۰۴۶
 ۲۰۴۷
 ۲۰۴۸
 ۲۰۴۹
 ۲۰۵۰
 ۲۰۵۱
 ۲۰۵۲
 ۲۰۵۳
 ۲۰۵۴
 ۲۰۵۵
 ۲۰۵۶
 ۲۰۵۷
 ۲۰۵۸
 ۲۰۵۹
 ۲۰۶۰
 ۲۰۶۱
 ۲۰۶۲
 ۲۰۶۳
 ۲۰۶۴
 ۲۰۶۵
 ۲۰۶۶
 ۲۰۶۷
 ۲۰۶۸
 ۲۰۶۹
 ۲۰۷۰
 ۲۰۷۱
 ۲۰۷۲
 ۲۰۷۳
 ۲۰۷۴
 ۲۰۷۵
 ۲۰۷۶
 ۲۰۷۷
 ۲۰۷۸
 ۲۰۷۹
 ۲۰۸۰
 ۲۰۸۱
 ۲۰۸۲
 ۲۰۸۳
 ۲۰۸۴
 ۲۰۸۵
 ۲۰۸۶
 ۲۰۸۷
 ۲۰۸۸
 ۲۰۸۹
 ۲۰۹۰
 ۲۰۹۱
 ۲۰۹۲
 ۲۰۹۳
 ۲۰۹۴
 ۲۰۹۵
 ۲۰۹۶
 ۲۰۹۷
 ۲۰۹۸
 ۲۰۹۹
 ۲۱۰۰

۱۹۱۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَخَيْرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا لَكَ حَرَمٌ الْقَوْلُ أَحَدٌ

عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے اور اسی لئے ہے جان کی باتوں

مَا ظَهَرُ مِنْهَا وَكَابُطُنْ وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِلذِّكْرِ مَدْحٌ نَفْسُهُ

کو حرام کر دیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپی ہوئی ہوں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو تعریف کرنا پسند نہیں اور اسی لئے اس نے اپنی تعریف

قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَكَيْلٌ حَفِيفٌ وَوَهِيظٌ

کی ہے میں نے اس سے سنا کہ تم راہداری، نے اس کو عبداللہ سے سنا کہا میں نے کہا انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہا ان دکیل (۱۱۳)

بِهَ قَبْلَ أَجْمَعٍ قَبِيلٌ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ زَخْرَفٌ

تکبیر اور اس پر حاظر کرنا اقبل (۱۱۳) قبیل کی جمع ہے اور مطلب یہ ہے کہ عذاب کے اقسام ہیں اور ان میں سے ہر ایک قسم قبیل ہے زخرف

كُلُّ شَيْءٍ حَسَنَةٍ وَوَشَيْئَةٌ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زَخْرَفٌ وَزَخْرَفٌ حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُونٍ

(۱۱۳) ہر وہ چیز جسے تو نصرت بنائے اور اسے آراستہ کرے اور وہ بیخ ہو تو اسے زخرف کہتے ہیں اور حرت حجر (۱۱۳) نصیبی جو حرام ہے

فَهُوَ حَجَرٌ فَكُجُورٌ وَالْحَجَرُ كُلُّ بِنَاءٍ بِنَيْتِهِ وَيُقَالُ لِلدَّائِمِ مِنَ الْحَجَلِ حَجْرٌ وَيُقَالُ

اور ہر ایک منہج کی ہوئی چیز حجر اور حجور ہے اور حجر ہر وہ عمارت بھی ہے جو تو بنائے اور گھوڑوں میں سے مادہ کو بھی حجر کہا جاتا ہے

لِلْعَقْلِ حَجْرٌ وَرَجْحِيٌّ وَأَمَّا الْحَجْرُ فَمَوْضِعٌ تَمُودٌ وَمَا حَجَّرَتْ عَلَيْكَ مِنَ الْأَرْضِ

اور عقل کو حجر کہا جاتا ہے اور رجھی بھی اور حجر مقام تمود بھی ہے اور جس زمین کو تو دو سروں پر اڑوک دے (جیسے چوگاہ)

فَهُوَ حَجْرٌ وَهَذِهِ سُمِّيَ حَطِيمَ الْبَيْتِ حَجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ حَطَطٍ مِثْلُ قَتِيلٍ

تو وہ بھی حجر ہے اور اسی سے بیت اللہ کے حطیم کا نام حجر رکھا گیا ہے گویا کہ وہ حطوط سے مشتق ہے جیسے قتل

مَنْ مَقْتُولٌ وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْرٌ (۸) بَابٌ قَوْلُهُ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ

مقتول سے اور حجو الیامامہ ایک بڑا واک نام ہے بابت اللہ تعالیٰ کا قول ہلا راہا) اسے گواہ بنا

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحَجَارِ هَلَمُوا لَوَاحِدٌ وَالْأَشْيَاءُ الْجَمِيعُ (۹) الْحَجْرُ أَبُو هُرَيْرَةَ

کو بلا و حلو حجاز والوں کی لغت ہے جو اعداد و تثنیہ اور جمع سب کے لئے ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجود گھڑی نہیں آئے گی بیان تک کہ سورج مغرب سے نکلے

مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَاهَا النَّاسُ أَمِنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو جو اس زمین پر ہیں وہ ایمان لے آئیں گے تو یہ وہ وقت ہے کہ کسی نفس کو اس کا ایمان

رَأَيْتُمْ نَهْلَكُمْ تَكُنْ أَمْنًا مِنْ قَبْلِ (۱۰) الْحَجْرُ أَبُو هُرَيْرَةَ (مستدرک) (۱۹۱)

فائدہ نہیں دیکھا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو

۴ - سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہائی واسطے بار بار رحم کر فرمائے کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَأَيْتُمْ نَهْلَكُمْ تَكُنْ أَمْنًا مِنْ قَبْلِ (۱۰) الْحَجْرُ أَبُو هُرَيْرَةَ (مستدرک) (۱۹۱)

ابن عباس نے کہا دریا (۲۷) مال ہے مہنگا (۵۵) وعائیں یا اور امور میں (۵۵) (مدت سے بڑھ جائزے کے عفو)

كثُرَتْ أَمْوَالُهُمُ الْفَقَاحُ الْقَاضِي فَتَمَّ بَيْنَنَا أَقْضَى بَيْنَنَا نَتَقَنَّا رَفَعْنَا الْجِسْرَ الْبَحْرَةَ

(۹۵) بہت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو گیا الفقاح (۲۶) قبیلہ کرنا الا فتم بیننا (۹۵) بدلے درمیان فیصد کر کے تقننا (۹۵) ہم نے اٹھایا

۱۹۱۷
 ۱۹۱۸
 ۱۹۱۹
 ۱۹۲۰
 ۱۹۲۱
 ۱۹۲۲
 ۱۹۲۳
 ۱۹۲۴
 ۱۹۲۵
 ۱۹۲۶
 ۱۹۲۷
 ۱۹۲۸
 ۱۹۲۹
 ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱
 ۱۹۳۲
 ۱۹۳۳
 ۱۹۳۴
 ۱۹۳۵
 ۱۹۳۶
 ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸
 ۱۹۳۹
 ۱۹۴۰
 ۱۹۴۱
 ۱۹۴۲
 ۱۹۴۳
 ۱۹۴۴
 ۱۹۴۵
 ۱۹۴۶
 ۱۹۴۷
 ۱۹۴۸
 ۱۹۴۹
 ۱۹۵۰
 ۱۹۵۱
 ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 ۱۹۵۴
 ۱۹۵۵
 ۱۹۵۶
 ۱۹۵۷
 ۱۹۵۸
 ۱۹۵۹
 ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱
 ۱۹۶۲
 ۱۹۶۳
 ۱۹۶۴
 ۱۹۶۵
 ۱۹۶۶
 ۱۹۶۷
 ۱۹۶۸
 ۱۹۶۹
 ۱۹۷۰
 ۱۹۷۱
 ۱۹۷۲
 ۱۹۷۳
 ۱۹۷۴
 ۱۹۷۵
 ۱۹۷۶
 ۱۹۷۷
 ۱۹۷۸
 ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰
 ۱۹۸۱
 ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳
 ۱۹۸۴
 ۱۹۸۵
 ۱۹۸۶
 ۱۹۸۷
 ۱۹۸۸
 ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰
 ۱۹۹۱
 ۱۹۹۲
 ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ۱۹۹۵
 ۱۹۹۶
 ۱۹۹۷
 ۱۹۹۸
 ۱۹۹۹
 ۲۰۰۰
 ۲۰۰۱
 ۲۰۰۲
 ۲۰۰۳
 ۲۰۰۴
 ۲۰۰۵
 ۲۰۰۶
 ۲۰۰۷
 ۲۰۰۸
 ۲۰۰۹
 ۲۰۱۰
 ۲۰۱۱
 ۲۰۱۲
 ۲۰۱۳
 ۲۰۱۴
 ۲۰۱۵
 ۲۰۱۶
 ۲۰۱۷
 ۲۰۱۸
 ۲۰۱۹
 ۲۰۲۰
 ۲۰۲۱
 ۲۰۲۲
 ۲۰۲۳
 ۲۰۲۴
 ۲۰۲۵
 ۲۰۲۶
 ۲۰۲۷
 ۲۰۲۸
 ۲۰۲۹
 ۲۰۳۰
 ۲۰۳۱
 ۲۰۳۲
 ۲۰۳۳
 ۲۰۳۴
 ۲۰۳۵
 ۲۰۳۶
 ۲۰۳۷
 ۲۰۳۸
 ۲۰۳۹
 ۲۰۴۰
 ۲۰۴۱
 ۲۰۴۲
 ۲۰۴۳
 ۲۰۴۴
 ۲۰۴۵
 ۲۰۴۶
 ۲۰۴۷
 ۲۰۴۸
 ۲۰۴۹
 ۲۰۵۰
 ۲۰۵۱
 ۲۰۵۲
 ۲۰۵۳
 ۲۰۵۴
 ۲۰۵۵
 ۲۰۵۶
 ۲۰۵۷
 ۲۰۵۸
 ۲۰۵۹
 ۲۰۶۰
 ۲۰۶۱
 ۲۰۶۲
 ۲۰۶۳
 ۲۰۶۴
 ۲۰۶۵
 ۲۰۶۶
 ۲۰۶۷
 ۲۰۶۸
 ۲۰۶۹
 ۲۰۷۰
 ۲۰۷۱
 ۲۰۷۲
 ۲۰۷۳
 ۲۰۷۴
 ۲۰۷۵
 ۲۰۷۶
 ۲۰۷۷
 ۲۰۷۸
 ۲۰۷۹
 ۲۰۸۰
 ۲۰۸۱
 ۲۰۸۲
 ۲۰۸۳
 ۲۰۸۴
 ۲۰۸۵
 ۲۰۸۶
 ۲۰۸۷
 ۲۰۸۸
 ۲۰۸۹
 ۲۰۹۰
 ۲۰۹۱
 ۲۰۹۲
 ۲۰۹۳
 ۲۰۹۴
 ۲۰۹۵
 ۲۰۹۶
 ۲۰۹۷
 ۲۰۹۸
 ۲۰۹۹
 ۲۱۰۰

مَتَابِرُ حَسْرَانٍ السِّيَاحِزْنَ تَأْسُ تَحْزُنٌ وَقَالَ غَيْرُهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ

متابیر حسران (۱۳۹) بخاری السیاحیز (۹۳) غم کھانوں تاس (۲۶) المائدہ (۲۶) غم کھانے کا اور اوروں نے کہا ما منعک ان لا تسجد (۱۳۹)

يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يَخْصِفَانِ أَخَذَ الْخِصْفَانِ مِنْ وَرْدٍ الْجَنَّةِ يُؤَلَّفَانِ

فرمایا کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا یخصفان (۲۲) دونوں نے جنت کے پتوں کا دو ٹونا بنا لیا پتوں کو جوڑتے

الْوَرْدِيُّ يَخْصِفَانِ الْوَرْدِيُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ سَوَّاهُمَا كِنَايَةٌ عَنْ قُرْبِيهِمَا

تھے (یعنی) پتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے جاتے تھے سوا تھما (۲۲) کہا ہے دونوں کی شریکگیوں سے

وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنٍ هُنَا إِلَى الْقِيَامَةِ وَالْحَيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى قَلِيلٍ

دہنایا علی حین (۲۲) (رے) یہاں مراد قیامت تک ہے اور حین عرب کے نزدیک ایک گھڑی سے لیکر اس مدت تک ہے

يُحْصَى عَدُّهَا الرِّيَاسُ وَالرِّبَاسُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ قَبِيلُهُ جَبَلُهُ

جس کی کوئی انتہا نہیں اور ریاس اور ریباس (۲۶) ایک ہیں اور وہ ظاہری لباس ہے قبیلہ (۲۶) اس کی

الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ إِذَا رَكِبُوا اجْتَمَعُوا وَمَشَاقُّ الْإِنْسَانِ وَالذَّابِقُ كَالْهَمِّ يَسْمَى

قوم جن میں سے وہ ہے اذ رکبوا (۳۸) اکٹھے ہوئے اور شان اور جانور کے سب سامات کو سموم (۳۸)

لَهُمْ وَمَا أَحَدٌ هَا سَمٌّ وَهِيَ عَيْنَاكَ وَهَنْجْرَاهُ وَقَمَةٌ وَأَذْنَاهُ وَدَبْرُهُ وَرَاحِلِيْلُهُ

سے مسموم کیا جاتا ہے اور ایک مفرد سم ہے اور سموم اسکی دونوں آنکھیں دونوں نچھتے اس کا منہ دونوں کان یا فانی راہ پیشاب کی راہ

عَوَائِشُ قَاعُشُوهُ إِيهَ نُشْرًا مُتَفَرِّقَةٌ نَكِدًا قَلِيلًا لَيَعْنُوهُ أَيْ عَيْنُوهُ أَحَقِيقٌ حَقٌّ

ہیں عواش (۴۱) وہ جس سے وہ ٹھکانے کے نشووار متفرق نکدا (۵۸) فویرا یعنی (۹۲) زندگی بسر کرتے ہیں حقیق (۱۰۵) حق

أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ تَلَقَّفَتْ تَلَقَّفَتْ طَارَتْهُمْ حَطَمَتْ طُوفَانٌ مِنَ السَّيْلِ

استرہبہم (۱۱۶) رھبتہ ڈرولنے سے نکلا ہے تلقت (۱۱۷) لہر بنا ہے طارہم (۱۳۱) ان کا حصر طوفان (۱۳۳) یعنی سیلاب

وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطُّوفَانُ الْقَتْلُ أَحْمَانٌ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحِمِّ عُرُوشٌ

اور کثرت سے موت کو بھی طوفان کہتے ہیں قتل (۱۳۳) چوڑیاں جو پھوٹی ہوئی کج بو ہوتی ہیں عروش (۱۵۹)

وَعَرُوشٌ بِنَاءٌ سَقَطَ كُلٌّ مِنْ شِدْمٍ فَقَدْ سَقَطَ فِي يَدِهِ الْأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي

اور عروش عمارت ہے سقط (۱۲۹) جو بھی کوئی بچائے تو کہتے ہیں سقط فی یدہ الا سباط (۱۶۰) بنی اسرائیل کے قبیلے

إِسْرَائِيلَ يَعْدُونَ فِي السَّبَبِ يَتَعَدُّونَ لَهُ يَجَاوِزُونَ تَعَدُّ نَجَارٌ وَشَرَعًا

یعادون فی السبب (۱۶۳) حد سے بڑھ جاتے اس نسبت کے معاملہ میں نجا و کر جاتے تھن (الکف - ۲۸) نجا و کر شوعا

نَسَّوْا رِعًا بَنِي سُدْيَةَ أَخْلَدَ قَعْدٌ وَتَقَاعَسَ سَنَسْتَدُّ رَجْمَهُ نَارِيَهُمْ مِنْ

(۱۶۳) تیرتے ہوئے بنی سدیہ (۱۶۷) سخت اخلد (۱۶۷) بیٹھ گیا اور بیٹھ بٹ گیا سنستد رجھم (۱۸۲) ہم ان پر اس جگہ سے آئیں گے

مَا مِنْهُمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا مِنْ جَنَّةٍ مِّنْ

جہاں سے انہیں ڈرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فاتاہم اللہ را بحضہ (۲۰) اللہ کے عذاب ان پر ماں سے آئے جہاں سے انکو گمان بھی نہ

جَنَّةٍ فَمَرَّتْ بِهَا اسْتَمَرَّتْ بِهَا أَحْمَلٌ فَاتَمَّتْهُ يَنْزِعُكَ يَسْتَحْقِنُكَ طَيْفٌ

تھا جنت (۱۸۰) جنوں شہرت بد (۱۸۹) اس کا حمل برابر اور اس کی مدت کو پورا کیا یزغحك (۲۰) تھے پھلانے طیف

فَلَمْ يَهْ كَسَمٌ وَيُقَالُ طَارَتْ وَهُوَ وَاحِدٌ يَمْدٌ وَهُمْ يَزِينُونَ وَخَيْفَةٌ خَوْفٌ

کسی کو سوسہ کا سے لگ جانا اور طارت (۲۰) بھی کہا جاتا ہے اور دونوں ایک ہیں یمد (۲۰) ان کو بچا کر کے دکھلانے ہیں

وَخَيْفَةٌ مِنَ الْأَخْفَاءِ وَالْأَصَالُ وَاحِدٌ أَصِيلٌ فَأَبَيْنَ الْعَصِي إِلَى الْعَرَبِ

وخيفه (۲۰) خوف (دو) ہے اور خفية (ان نعام - ۶) اخفوت میں اور اصال (۲۰) مفرد اصیل ہے جو عمر اور نفع کے دونوں سے

كَقَوْلِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (۱) بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ

جیسے اللہ کا قول بکرۃ واصلیلا (۱۰۵) بَابُ اِنَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِ قُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَمِعْتُمْ كَمِيسَةَ كَمِيسَةَ رَسُوْلِهِ رَسُوْلِهِ حَيَاتِي كَمِيسَةَ كَمِيسَةَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ (م- ۲۲۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۱۴) (۲) بَابُ قَوْلِهِ

کر دیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں دیکھو حدیث ۱۹۱۴ (۲) بَابُ اِنَّ تَعَالَى

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ

کا قول و لما جاء موسى لميقاتنا وقت مقررہ پر آیا اور اس کے رہنے اس سے کہہ کیا اس نے کہا میرے رب

وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَىٰ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ

مجھے (اپنا آپ) دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں گا تو مجھے نہیں کیوں سکتا لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تو مجھے بھی دیکھ لیا

جَعَلَهُ دَكَاةً وَكَرَّهِيًّا صَبَّحًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ

پس جب اس کے رہنے پہاڑ پر ختم فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسی بیہوش ہو کر گر گیا پھر جب ہوش میں آیا تو کہا تو پاک میں تیری طرف پہنچ

الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَىٰ رَبِّي أَعْطَىٰ (م- ۲۳۰۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (م- ۱۷۰۰)

کرنا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لایا لہذا ہوں ابن عباس نے کہا ادا رہی مجھے عطا فرما دیکھو حدیث

(۱۱۵۶) (۳) بَابُ قَوْلِهِ الثَّمَنُ وَالسَّلْوَىٰ (م- ۲۳۰۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ

۱۱۵۶ (۳) بَابُ اِنَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِ الثَّمَنُ وَالسَّلْوَىٰ (۱۶۰)

(م- ۱۸۴۳) (۴) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

دیکھو حدیث ۱۸۴۳ (۴) بَابُ اِنَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

الَّذِي لَكَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَلَا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوائے نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس اشرار

وَرَسُولَهُ النَّبِيُّ الْأَرَمِيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے وہ جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لانا ہے اور اسی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ

(م- ۲۳۰۲) عَنْ أَبِي لَدْرَةَ (م- ۱۶۳۶) (۵) بَابُ قَوْلِهِ وَقَوْلِهِ لَوْ حِطَّتْ

دیکھو حدیث ۱۶۳۶ (۵) بَابُ اِنَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِ لَوْ حِطَّتْ

(م- ۲۳۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۵۳۱) (۶) بَابُ قَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ

دیکھو حدیث ۱۵۳۱ (۶) بَابُ اِنَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ

بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الْعُرْفُ الْمَعْرُوفُ (۱۹۱۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

کہا اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے بڑھ کر عرفت نیک کام ابن عباس سے روایت ہے کہ

ملکہ قرینہ ہی لفظ
ہیں صرف مرفوع
ہونے کے ذکر کو
آخر میں لانے کے
بجائے پہلے بیان
کیا ہے
ملکہ مکرر روایت
کسی قدر اختلاف
لفظی سے آئی ہے
جادو جہل میں لفظ
الی لنبی صلی اللہ
علیہ وسلم تلامذہ
وجہہ و قال یا
محمد ان رجلاً
من اصحابنا من
الانصار وطم فی
وجہی قال ادعوا
فادعوا قال لم
لطمت وجہہ
قال یا رسول اللہ
انی مردت بالہو
فسمعتہ یقول
والذی اصطفی
موسلی علی البشر
فقلت و علی محمد
واخذتہ غیظتہ
فلطمتہ قال لا
تغیرونی موت
بین الابیاء
فان الناس
یصنعون یوم
القیامۃ فاكون اقل من یفیت فاذا انا بمری اخذ بقاضیة من قواہم العرش فلا ادوی افاق فیہ ام جزی بصعقۃ الطور۔ بیان آخری الفاظ
ممن استثنی اللہ کی بجائے ہے ام جزی بصعقۃ الطور یعنی طور پر بیہوش ہونا کافی سمجھا گیا یم ۴۹ کے مطابق ہے۔ تشریح کے لئے دیکھو نوٹ
۳ صفحہ ۵۲۸ ملے انہی الفاظ میں دوہرایا ہے + مکرر روایت کسی قدر اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ یکانہ بن ابی بکر و عمر صحابہ درۃ زکراہ
فان غضب ابوبکر عمر فانصرفت عنہ عمر غضباً فاتبعہ ابوبکر بسالہ ان یتسخر لہ فلم یفعل حتی اعلت باہ فی وجہہ فاقبل ابوبکر الی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فقال ابوالدرداء و نحن عندہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبک ہذا انقد غامر قال و ندیم عمر علی ما کان منہ فاقبل
حزب سلم و جلس الی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابوالدرداء و غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جعل ابوبکر یقول واللہ یا رسول اللہ انک انت اعظم
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تارکون صا حبی هل انتم تارکون صا حبی انی قلت یا ہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً فقد لتم
کذبت و قال ابوبکر صدق قال ابوعبید اللہ غامر سبق بالخیبر ۵ لفظ ۵۳۱ کے ہی ہیں۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۸۵ +

القیامۃ فاكون اقل من یفیت فاذا انا بمری اخذ بقاضیة من قواہم العرش فلا ادوی افاق فیہ ام جزی بصعقۃ الطور۔ بیان آخری الفاظ
ممن استثنی اللہ کی بجائے ہے ام جزی بصعقۃ الطور یعنی طور پر بیہوش ہونا کافی سمجھا گیا یم ۴۹ کے مطابق ہے۔ تشریح کے لئے دیکھو نوٹ
۳ صفحہ ۵۲۸ ملے انہی الفاظ میں دوہرایا ہے + مکرر روایت کسی قدر اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ یکانہ بن ابی بکر و عمر صحابہ درۃ زکراہ
فان غضب ابوبکر عمر فانصرفت عنہ عمر غضباً فاتبعہ ابوبکر بسالہ ان یتسخر لہ فلم یفعل حتی اعلت باہ فی وجہہ فاقبل ابوبکر الی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فقال ابوالدرداء و نحن عندہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبک ہذا انقد غامر قال و ندیم عمر علی ما کان منہ فاقبل
حزب سلم و جلس الی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابوالدرداء و غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جعل ابوبکر یقول واللہ یا رسول اللہ انک انت اعظم
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تارکون صا حبی هل انتم تارکون صا حبی انی قلت یا ہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً فقد لتم
کذبت و قال ابوبکر صدق قال ابوعبید اللہ غامر سبق بالخیبر ۵ لفظ ۵۳۱ کے ہی ہیں۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۸۵ +

قَدِمَ عَيْنَةَ بَرِّحَصِينِ بْنِ حَذِيفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَزْرَبِيِّ قَيْسٍ وَكَانَ

عینہ بن حصین بن حذیفہ آیا تو وہ اپنے بھتیجے حزن قیس کے پاس اترتا اور حرا بن حذ

مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْرِبُهُمْ عَمْرٌ وَكَانَ الْقُرَاءَةُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عَمْرٌ وَمَشَاوِرَتِهِ

آدیوں میں سے تھا جن کو حضرت عمرؓ پاسبان بٹھاتے تھے اور قاری د عالم قرآن ہوگا ہی حضرت عمرؓ کے ہم جلس اور مشورے

كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا فَقَالَ عَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ

دالے تھے بوڑھے ہوں یا جوان تو عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا جیتے اس امیر کے پاس میری عورت

هَذَا الْأَمِيرُ فَأَسْتَأْذِنُ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ہے میرے لئے ان کے پاس (حاضری کی) اجازت لے کہیں تمہارے لئے ان کے پاس رجائے کے لئے اجازت لے لوں گا ابن عباس نے

فَأَسْتَأْذِنُ الْحَزْرَبِيَّ عَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عَمْرٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ

کہا تو نے عینہ کے لئے اجازت مانگی تو حضرت عمرؓ نے اسے اجازت دی جب وہ ان کے پاس گئے تو کہا ابن الخطاب!

الْخَطَابُ فَوَاللَّهِ مَا تَعْطِينَا الْجَزَلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عَمْرٌ

اللہ کی قسم تو تم کو آپ زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کا حکم کرتے ہیں تو حضرت عمرؓ غصے ہوئے

حَتَّى هَمَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَزْرَبِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِيْنِي بِهِ صَلَٰةٌ

اور اس کے متعلق ارادہ کیا تو عرض کیا اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَرَأَتْ هَذَا مِنْ

عفو اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے مزید بچھڑے اور یہ جاہلوں میں سے

الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَاءَ وَزَهَا عَمْرٌ حِينَ تَلَاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقْفًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ

ہے اللہ کی قسم حضرت عمرؓ نے اس آیت کے حکم سے تجاؤ نہ کیا جب (پڑھے) وہ ان پر پڑھی اور آپ اللہ کی کتاب پر حکم من کر پڑھ گیا کرتے تھے

(۱۹۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ خِذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہما خذ العفو وأمر بالعرف کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے

رَأَى فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ (رَوَى رَوَايَةٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَ

اخلاق کے بارے میں اتارا اور ایک روایت عبداللہ بن زبیر سے ہے کہما کہ اللہ نے

اللَّهُ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَكَمَا قَالَ

اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں کے اخلاق (عادات) کے بارے میں عفو اختیار کریں یا کچھ ایسا ہی فرمایا

۸- سُورَةُ الْأَنْفَالِ - ۸ - سورة الانفال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱) بَابُ قَوْلِهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلْ لَا تُغْنِي لَكُمْ نَفْسُ اللَّهِ وَالرُّسُلُ فَاتَّقُوا اللَّهَ
بَابُ اللہ تعالیٰ کا قول میںلوں ان کے بارے میں سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ میرے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول
أَصْلِحُوا إِذَا تَابَ بَيْنَكُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ قَالَ قَتَادَةُ رَجُلٌ مِمَّنْ أَحْرَبَ
کے لئے ہے سوائے کہ تقویٰ کرو اور آپس میں صلح کروا بن عباس نے کہا انفال مال غنیمت ہے قتادہ نے کہا (بھیکم روم) لڑائی ہے
يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ (۱۹۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَوَ
کہا گیا ہے نوافل عطا ہے سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے کہا

حضرت عمرؓ متعلق یہ شہادت متعدد واقعات سے ملتی ہے کہ جب ان کی رائے کے خلاف ان کے سامنے قرآن شریف کی کوئی آیت پیش کی جاتی تو فوراً اپنی رائے کو کتاب اللہ کا حکم سن کر تبدیل کر لیتے

حدیث روایت
 ضیف اختلاف
 لفظی سے آئی ہے
 کنت اصلہ ضربی
 رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم
 خدا تعالیٰ فلما اتہ
 حق صلیت ثم
 اتیتہ فقال ما
 متون ان تاتی
 الم یقول اللہ
 یا ایہا الذین
 امنوا استجبوا
 للہ وللرسول
 اذا دعاکم ثم
 قال لا حول
 اعظم سورۃ
 فی القران
 قبل ان اخرج
 مذہب رسول
 اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم
 یخرج مذکور
 لہ وقال معاذ
 حدثنا شعبۃ
 عن خیب
 سمع حصصاً
 سمع ابوسعید
 رجلاً من
 اصحاب النبی
 صلی اللہ علیہ
 وسلم هذا
 وقال ہی
 الحمد للہ
 رب العالمین
 السبح المثانی

سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بُدْرِ الشُّوْكَةِ الْحَدُّ مُرْدِفِينَ فَوَجَّأ بَعْدَ فَوْجٍ

سورۃ الانفال تو کہا یہ بدر کے بائیں میں اتری ہے شوکہہ دوم بار ہرود فزین (۹) ایک فوج دوسری کے پیچھے

رَدِّفْنِي وَارْدَفْنِي جَاءَ بَعْدِي ذُو قُوَا بَاتِي وَوَاوَجَّر بُوَاوَكَيْسٌ هَذَا مِنْ

راہی ہی (۱۰) رد فنی اور ارد فنی میرے بعد آیا ذوقوار بوش (۵۲) سے لاد اور بخر کر د اور ہر منہ کے پھینکنے سے نہیں ہے

ذُو قُوَا الْقِمِّ فَايْرُكُمَهُ يَجْمَعُهُ شَرْدٌ فَرَّقَ وَرَانَ جَنَحُوا اطْبَعُوا يَخْنُ يَغْلِبُ وَ

ذوق کہہ رہا (۱۳) اس کو اٹھا کر تا ہے شرد (۵۷) ہر گندہ کتنے دان جنح (۶۱) طلب کریں سخن (۶۷) غالب

قَالَ مُجَاهِدٌ مَّا كَاءُ اِدْخَالَ اَصَابِعِهِمْ فِي اَفْوَاهِهِمْ وَتَصَدَّقُوا بِالصَّفَائِرِ لِيَسْتَبْرَأَ

ہوئے اور مجاہد نے کہا مکہ (۳۸) ان کا بیانی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈالنا اور تصدق یہ (۳۹) سیٹی لیبٹوک (۳۹) ہنگ

لِيَسْبُوكَ (۲) بِابِ قَوْلِهِ اِنَّ شَرَّ الدِّنَارِ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمُّ الْبِكْمِ الَّذِيْنَ كَايَعْلُوْنَ

باجب اللہ تعالیٰ کا قول ان شوال (۲۲) اب الخ (۲۲) ایک اللہ کے نزدیک سب جانداروں کا بدتر ہے۔

(۱۹۲۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ شَرَّ الدِّنَارِ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمُّ الْبِكْمِ الَّذِيْنَ كَايَعْلُوْنَ

ابن عباس سے روایت ہے ان شوال (۲۲) اب الخ (۲۲) اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر وہ ہے جس کے گونگے ہیں جو عقل سے

يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (۲) بِابِ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

کام نہیں لیتے یہ بنی عبد الدار کے چند آدمی تھے باجب اللہ تعالیٰ کا قول یا ایہا الذین امنوا (۲)

اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا حَيِّبُكُمْ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَجُوزُ بَيْنَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب تم کو اس کے لئے بلائے جائے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے

السَّرِيِّ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهٗ لَا يَدْرِي تَشْتَرُونَ اسْتَجِيبُوا اَجِيبُوا لِمَا حَيِّبُكُمْ وَتُصَلِّحُكُمْ

دل کے درمیان حاضر ہوتا ہے اور تم کسی طرف کھٹے کئے جاؤ گے استجبوا قبول کرو لہما یحبیکم جو تمہیں درست کرے

(۲۳۰) عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَفَرًا مُتَكَرِّرًا (۲) بِابِ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ باجب

قَوْلِهِ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا مِجَارًا

اللہ تعالیٰ کا قول واذ قالوا اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ سچی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پھر برسا

مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتُمْ اَبَدْنَا بَعْدَ ابِ اَرْيَمٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا سَمِعْتُ اللّٰهَ تَعَالَى مَطْرًا

یا ہم پر دردناک عذاب بھیج ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں

فِي الْقُرْآنِ اِلَّا عَذَابًا وَتَسْمِيَةً الْعَرَبُ الْغَيْثُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَنْزِلُ

ذکر صرف عذاب کے لئے کیا ہے اور عرب بارش کو غیث کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے

الغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا (۱۹۲۱) عَنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ ابُو جَهْلٍ لِلّٰهِ

الغیث من بعد ما قنطوا (۱۹۲۱) انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اللہ

اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا مِجَارًا مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتُمْ اَبَدْنَا

ان الخ (۳۸) اے اللہ اگر یہ سچی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پھر برسا

اَلْبَحْرِ فَانَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَيَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

تو یہ آیت اتری وہاں کہ ان کو عذاب سے اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے

لِيَسْتَعْجِرُونَ وَمَا لَهُمْ اَنْ لَا يَعْلَمُوا اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاَيَةُ

واللہم وراحمنا لیکر وہ استعفا کر رہے ہیں وہ ان کا کیا عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے اور وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں آخر آیت تک

یہاں سے لے کر اس تک

۱۹۲۰

۱۹۲۱

رہ) بَابُ تَوَلَّيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

بَابُ اِشْرَاقِ تَوَلَّيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ (۳۳) اِشْرَاقِ نَبِيٍّ كَرِهْتُمْ اِشْرَاقِ تَوَلَّيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

هُمْ يَسْتَعْصِمُونَ ر- ۲۳۰-۵ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَمْتَكْرَد- (۱۹۲۱) ر (۶) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۹۲۱

تَوَلَّيْهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ر (۱۹۲۱) ر (۶) بَابُ

اِشْرَاقِ تَوَلَّيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَلَفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور کہا ابو عبدالرحمن آپ سنتے نہیں جو اشرنے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اگر مومنوں کے دو گروہ ہوں تو میں

اِقْتَتَلُوا إِلَىٰ آخِرِ الْأَيَّةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ

جنگ کرس آخر آیت تک تو کوسی بات آپ کو روکتی ہے کہ آپ میں لڑتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا

أَخِي أَغْتَرِبْ هَذِهِ الْأَيَّةَ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرِبَ هَذِهِ الْأَيَّةَ السُّبْحِي

ہے تو انہوں نے کہا، سبھی میں اس آیت کی تاویل کروں اور نہ لڑوں تو مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ اس آیت کی تاویل کروں

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَىٰ آخِرِهَا قَاتِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ

جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن يقتل را النساء- (۹۳) جو شخص مومن کو عمدتاً قتل کرتا ہے آخر آیت تک اس نے کہا اللہ تو فرماتا ہے

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہم نے ایسا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْأَسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ أَمَا

ہی کیا جب راہیں اسلام تنگ ہوتے تھے اس وقت ایک شخص کو اپنے دین کی وجہ سے دکھ دیا

يَقْتُلُوهُ وَأَمَا يُؤْتِقُوهُ حَتَّىٰ كَثُرَ الْأَسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا

جاتا تھا یا اسکو قتل کرے یا اس کو قید کرے یہاں تک کہ راہیں اسلام کی کثرت ہو گئی اور دکھ دینا نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ راہیں

يُؤْتِقُوهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلِكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي

اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتے جو وہ چاہتا ہے تو کہا آپ حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابن عمر نے کہا حضرت

عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَمَا عُثْمَانَ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَكَرِهْتُمْ أَنْ يُعْفَوْا عَنْهُ وَأَقَامَا

علی اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہوں حضرت عثمان کو تو اللہ نے عفو سے عفو کر دیا اور تم نے عفو سے عفو کر کے اور

عَلِيٍّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنَهُ وَأَشَارَ بِبِيَدِهِ وَهَذَا

حضرت علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکے بیٹے ہیں اور آپ کے ہاتھوں اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ آپ

ابنته أو بيته حيث ترون (۱۹۲۲) ر (۶) بَابُ

کی بیٹی ہے یا ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھتے ہو

ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَىٰ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ

تو ایک شخص نے کہا فتنے کی جنگ میں آپ کا کیا خیال ہے کہا تم جانتے ہو فتنہ ہے کیا چیز

كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً

محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے جنگ کرتے اور ان کے پاس جانا فتنہ روکنا اٹھانا تھا

وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمَلِكِ ر (۱۹۲۳) ر (۶) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ حَرْصُ السُّوْمِيَّةِ

اور وہ تمہاری لڑائی کی طرح بادشاہت پر نہ تھی بَابُ اِشْرَاقِ تَوَلَّيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

۱۹۲۱

مکرر روایت کے
نقطہ دہی ہے
اس حدیث کا
کچھ حصہ
میں اور کچھ
۱۸۸۳ میں گذر
چکا ہے
یہاں ہر شخص
خارج میں سے
تھا جو حضرت علی
اور حضرت علی
دونوں کو بڑا کہتے
تھے حضرت علی
کے گھر کی طرف
اشارہ کیا کہ یہ وہ
گھر ہے جہاں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صاحبزادی تھیں
تھیں یا یہ کہا کہ
یہ ان کا گھر ہے

عَلَى الْقِتَالِ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا تَمَّتْ إِنْ لَيْسَ

کی ترقیب دو اگر تم میں سے ہیں مہر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو جو کافر میں ان

مِنْكُمْ وَمَا تَغْلِبُوا الْقَائِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا تَتْلُونَ (۱۹۲۳)

میں سے دو سو پر غالب آئیں گے یہ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَا تَمَّتْ

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری ان یکن (۶۶) اگر تم میں سے ہیں مہر والے ہوں تو دو سو پر غالب آئیں گے

فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُفِرُّوا وَاحِدًا مِنْ عَشْرَةٍ فَقَالَ سَفِينٌ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يُفِرُّوا وَاحِدًا

تو مہر والوں پر فرض ہوا کہ ایک آدمی دس سے نہ بھاگے اور سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ ہمیں دو سو سے نہ

مَنْ قَاتَلْتُمْ ثُمَّ نَزَلَتْ أَلَّا نَحْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الْآيَةَ فَلْتَبَّ أَنْ لَا يُفِرُّوا وَاحِدًا مِنْ

بھاگیں پھر اتر اَلَّا نَحْفَ اللَّهُ الْآیَةُ (۶۶) اس وقت اللہ نے تم پر تکلیف کی آخر آیت تک تو فرض ہوا کہ ایک سو دو سو سے نہ

قَاتَلْتُمْ زَادَ سَفِينٌ مَرَّةً نَزَلَتْ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ

بھاگیں مہر والوں نے ایک مرتبہ پڑھا یا کہ یہ اتر حرض المؤمنین (۶۶) مومنوں کو جنگ کے لئے ترقیب دو اگر تم میں سے

عَشْرُونَ صَابِرُونَ قَالَ سَفِينٌ وَقَالَ ابْنُ شَابَرَةَ وَأَرَى لَأَمْرًا لَمْ عَرَفْتُ

میں مہر والے ہوں سفیان نے کہا اور ابن شبرہ نے کہا کہ میں امر بالعدوت

وَاللَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا (۸) بَابُ قَوْلِهِ أَلَّا نَحْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنْ فِيكُمْ

اور نبی عن المنکر بھی اسی طرح سے سمجھتا ہوں مہر ثابت اللہ تعالیٰ کا قول اَلَّا نَحْفَ اللَّهُ (۶۶) اس وقت اللہ نے تمہارا بوجھ بھلا

ضَعُفًا الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (۵) (۲۳۰۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكُونَ) (۱۹۲۳)

کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے آخر آیت اللہ کے قول مع الصابرين تک دیکھو حدیث ۱۹۲۳ ص ۱۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے پکارنا اور رحم کرنے والے کے نام سے

۹ - سُورَةُ بَرَاءَةِ

۹ - سورہ براءت

وَلِيَّةٌ كُلِّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ الشَّقَّةُ الشَّقَرُ الْخَبَالُ الْفَسَادُ وَالْخَبَالُ الْكُوثُ

ولیعہ (۶۶) ہر چیز جو تمہارے دوسرے چیزوں میں داخل کر دو الشقة الشقرة الخبال الفساد والخبال الكوث ہے

وَلَا تَقْتَتِي لَأَتُوَّ بِحَبْنِي كَرَهَا وَكُرَهَا وَاحِدًا مَدْخَلًا يُدْخَلُونَ فِيهِ يَجْحَتُونَ

ولا تقتنی (۶۸) مجھ کو مت چھوڑ کرھا اور کرها ہر ایک میں زبردستی، مدخلارہ ۵۰ جس میں لوگ اہل کفر کے ہوتے

يُسْبِرُونَ وَالْمُوتِفَكَاتِ اتْفَلَّتْ أَنْقَلَبْتُ بِهَا الْأَرْضُ أَهْوَى الْقَاهِ فِي

ہیں بجھتے (۵۰) تیزی سے جا میں والموتفكات روت اتفلتت انقلبت بها الارض اهوى القاه في

هُوَ عَدْنٌ خَلْدٌ عَدْنٌ يَأْرِي أَي أَمَّتْ وَهِنَّ مَعْدِنٌ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنٍ

پھینک دیا معدن (۵۰) مہینگی عدت بارض میں راس زمین میں رہ پڑا اور اسی سے معدن ہے اور کہا جاتا ہے فی معدن

صَدَقَ فِي مَعْدِنٍ صَدَقَ الْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَعَدَّ بَعْدَ فِي

صدق صحابی کے آگے کی جگہ میں الخوالف (۸۰) رواد الخالف وہ جو میرے پیچھے رہا اور میرے بعد بیٹھ رہا

مہر اس کو بچائے
اخبار سے حکم کا رنگ
دیا گیا ہے مگر اس
صورت میں میں نسخ
کوئی نہیں اس لئے
کہ ایک حکم موجود
حالات کے لئے تھا
جب مہر والوں میں
جنگ کے طور پر کار
اور سامان جنگ کم
تھا اور ایک مہر
حالات کے لئے جب
یہ کمی پوری ہوگئی
مہر یعنی جس طرح
جنگ کیلئے ترقیب
دینے کا حکم ہے
اسی طرح امر بالعدوت
اور نبی عن المنکر
کے لئے بھی ترقیب
دینے کا حکم ہے
۱۹۲۳
تفسیر
۱۹
لغوی ہے۔ قال
لما نزلت ان یکن
منکم عشرون
صابرون یغلبوا
ما تممت شق
ذلک علی المسلمین
حین فرض علیہم
ان لا یفرّوا و احد
من عشرة فجاه
التخفيف فقال
الان خفف الله
عنکم و علم ان
فیکو ضعفان
یکن منکم فاشق
صابرون یغلبوا
ما تممت قال لما

خفف الله عنهم العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم آخری فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مقابلہ میں تعداد کو کم کر دیا گیا یعنی وہ چند کی بجائے دو چھٹکا مقابلہ ضروری ٹھہرایا تو اتنا ہی صبر یعنی دشمن کے مقابلہ پر کار رہنے میں کمی ہوگئی۔

وَمِنْهُ يَخْلُقُهُ فِي الْغَابِرِينَ وَيُحْزَنُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْخَالِقَةِ وَإِنْ كَانَ

اور اسی سے ہے مخلوق فی الغابریں اور ہو سکتا ہے کہ خالق سے مراد عورتیں ہوں اور وہ خالفتہ کی جمع ہو اور اگر خوالفت

جمع الذکور فائتہ کم یوجد علی تقدیر جمعہم الا حروفان فارس و قو ارس

نذر کی جمع ہو تو اس جمع کے وزن پر عرت دو نذر کی جمع آئی ہیں فارس کی جمع، قو ارس

وهالك وهو ايك الخيرات واحدها خيرة وهي الفواضل مروجون مؤخرون

اور هالك کی جمع، هوالک۔ اور الخیرات (۸۸) اس کا مفرد خیرتہ ہے اور اس سے مراد فضیلت کے کام ہیں مروجون (۱۰۶) ان کا

الشفاء شفیر وهو حدة والحرف ما تجرف من السيول والاولدية هارها ثمر

سماہل شوی کہا گیا شفا (۱۰۹) شفیر ہے یعنی کفارہ اور جرف وہ ہے جو سیدوں اور نالوں کے باؤ کی وجہ سے کھولے ہوئے ہار یعنی

يقال مؤورت اليتراذ انهدمت وانهار مثله لا واه شفقاً وفرقا وقال

ہاؤگر نیولی کہتے ہیں تھوڑا البتہ جب وہ گر جائے اور اٹھا رہا رہا، بھی اسی طرح ہے لا واه (۱۱۴) ہمت، آہ و زاری کرنا، خوف اور ڈر سے ڈر

راذا ما قمت ارحلها بکيل

جب میں رات کو اٹھ کر دشمنی پر پالان ٹھاتا ہوں تو وہ ٹھگین مرو کی طرح آہ و زاری کرتی ہے

باب قول براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين

باب اللہ تعالیٰ کا قول براءتہ (۱۰۹) یہ علیحدگی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منکوں میں سے ان لوگوں کی طرف

قال بن عباس اذن براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين

اور ابن عباس نے کہا کہ اذن (۶۱) براءتہ کا یعنی کہ تم سے عہد کیا گیا تھا (۱۰۳) کہ تو ان کو اس سے پاک کرے ایسے مترادف

الطاعة والاخلاص لا يؤثرون الزكوة لا يشهدون ان لا اله الا الله يضرهم

انفاق ہست ہیں اور زکوٰۃ وہ) کے معنی اطاعت اور اخلاص ہیں لا یؤثرون (زکوٰۃ رقم - ۷) لا اله الا الله کی کو یہ نہیں جانتے بلکہ یضاهون (۴)

يستبهون رم- ۳۰۷ عن البراءة متكرر- ۲۱۸۵۰ باب قوله فسبحوا في

اسی طرح کی بات کرتے ہیں دیکھو حدیث ۲۱۸۵۰ باب اللہ تعالیٰ کا قول فسبحوا (۲۱) بن بن

الارض ربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي لله وان الله مخزي للكافرين

میں چار مہینے چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنا نہیں اور کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے

سبحوا اسبروا رم- ۳۰۸ عن ابي هريرة متكرر- ۲۴۶ باب قوله

سبحوا چلو پھرو دیکھو حدیث ۳۰۸ باب اللہ تعالیٰ کا قول

واذا نزل من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خیر لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي لله و

پس اگر تم تو کہو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر جاؤ تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور

الحجۃ فی یوم النحر
یذنبون بمئی ان
لا یحجر یصل العام
مشوک ولا یطوف
بالبیت عربیان
قال حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب وامر ان یؤذن ببراءة قال ابو ہریرة فاذا نزل من اللہ علی یوم النحر
فی اہل مینى ببراءة وان لا یحجر یصل العام مشوک ولا یطوف بالبیت عربیان + اس کے لفظ ۲۳۰۸ کے ہیں +

(۲۳۱۰-۲۳۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۲۶۶) بَابُ قَوْلِهِ فَقَاتِلُوا أُمَّةً

دیکھو حدیث ۲۳۱۰ باب اللہ تعالیٰ کا قول فقَاتِلُوا أُمَّةً (۲۳۱۰) میں

الْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَا آيْمَانَ لَهُمْ (۲۳۱۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ

کفر کے بزاروں کے ساتھ جنگ کرو انکی تمہوں کا راہ اعتبار بھی کچھ نہیں زید بن وہب سے روایت ہے کہ ہم حذیفہ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا

وَابْقَى مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْأَيَّتِ الْأَثَلَاثَةِ وَكَأَنَّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةً فَقَالَ

کہ اس آیت والوں میں سے چھ مرتبہ تین شخص رہ گئے اور تین فقروں میں سے بھی چار ہی آدمی رہ گئے تو ایک

أَعْرَابِيٌّ رَأَى أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبِرُونَنَا فَرَأَى نَذْرِي فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ

دیہاتی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ہمیں بتاؤ کیونکہ ہم نہیں جانتے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا

الَّذِينَ يَبْعُرُونَ بِيَوْمِنَا وَيَكْسِرُونَ أَعْلَاقَنَا قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلُكُمْ

جو ہمارے گھروں میں نقب زنی کرتے ہیں اور ہمارے عمدہ عمدہ مال چرائیتے ہیں فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں ان دشمنوں

يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ

میں سے صرف چار آدمی رہ گئے ہیں ایک ان میں سے بہت بوڑھا ہے اگر وہ ٹھنڈا پانی پیے تو اس کی ٹھنڈک نہیں

بُرْدَةٌ (۲۳۱۲) بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ يَأْتِي

ڈالتا باب اللہ تعالیٰ کا قول وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ (متكرر - ۲۳۱۲) میں

سَبِيلَ اللَّهِ فَيَسْتَرِهُمُ بَعْدَ آيِ الْيَوْمِ (۲۳۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۲۳۱۱)

میں خفیہ نہیں کرتے ہیں ان کو روٹناک عذاب کی خبر دو دیکھو حدیث ۲۳۱۱

(۲۳۱۲-۲۳۱۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۲۶۰) بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَسْئَلُ

دیکھو حدیث ۲۳۱۲ باب اللہ تعالیٰ کا قول یَوْمَ يَسْئَلُ عَزَّ وَجَلَّ (۲۳۱۲) میں

عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَمَا كَانُوا فِيهَا حَبِيبًا هَرَبًا وَجَنُوبًا هُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ

اس مال کو جنہم کی آگ میں گرم کیا جائیگا پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کے پیلو اور ان کی پٹھیں داغی جائیں گی یہ وہ ہے

فَذُو قَوْمًا مَّا كَانَتْ تَكْتُمُونَ (۲۳۱۳) عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ (متكرر - ۲۳۱۳)

جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا جو تم جمع کرتے تھے اس کا وہ دیکھو دیکھو حدیث ۲۳۱۳

(۲۳۱۴) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

باب اللہ تعالیٰ کا قول إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (۲۳۱۴) میں

بلا خفیف اختلاف لفظی ہے اور

حضرت علی کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔

ان آیا بکرہ بعثہ فی الحجۃ السنی

امروہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل

حجۃ الوداع فی رھط یثرون فی

الناس ان لا یسجن بعد العام

مشرك ولا یطو یا لیلیت عربیان

نکان حمید یقول یوم النحر یوم الحج

اکابر میں اجل حدیث الیہدیۃ

یعنی ائمہ کفر میں رہ گئے ہیں۔

کیونکہ عنوان باب میں ہی آیت ہے

میں میں روایت ہے مختصر ہے۔ اللہ

سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یقول یومہ کتف احد کم یوم القیامۃ

شیخا عا اقوم رغبنا سانپ

مکے مکرر روایت اختصار سے آئی ہے۔

بہ مرورت علی ابی ذر بن ابرینہ

ابی ذر بن ابرینہ

قلت ما انزلت ہذا ہذا قینا ما ہذا کہ الا فی اہل الکتاب قال قلت انہا لغینا

و فیہم ۶۵ میں اعراب کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ قال خر جنا ہم عبد اللہ

ابن عمر فقال ہذا قبل ان تنزل الزکاۃ فلما انزلت جعلہا اللہ طہرا للاموال لا

تقریباً وہی لفظی ہے مکے خفیف اختلاف لفظی ہے قال کنت مع ابنی صلعم فی الغار فرأیت آثار المشرکین قلت یا رسول اللہ لو ان احدہم وقع قدمہ

یوم النحر یوم الحج اکابر میں اجل حدیث الیہدیۃ یعنی ائمہ کفر میں رہ گئے ہیں۔ کیونکہ عنوان باب میں ہی آیت ہے میں میں روایت ہے مختصر ہے۔ اللہ سہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یومہ کتف احد کم یوم القیامۃ شیخا عا اقوم رغبنا سانپ مکے مکرر روایت اختصار سے آئی ہے۔ بہ مرورت علی ابی ذر بن ابرینہ

(۲۳۱۶-۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ **(متکرر ۱۹۲۴، ۱۹۲۵)** عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

ابن ابی ملکہ سے روایت ہے اور دونوں دیکھو حدیث ۱۹۲۴

وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَخَدَّوْتِ عَلِيٍّ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَنْ تَرِيدَ أَنَّ تَقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ

رحمہ اللہ! ابن زبیر اور عبد اللہ بن عباس کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا تو میں صبح کو ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں

فَعَلَّ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُخْتِ مُحَمَّدٍ وَرَأَى اللَّهُ

اور اللہ تعالیٰ کے حرم کی بیخیزی کریں تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ! اللہ نے تو یہی لکھا تھا کہ ابن زبیر اور بنو امیہ ہی رہیں، جو جنتی کریں اور میں تو اللہ کی قسم

لَا أَجِدُهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ لِلنَّاسِ بَالِيغُ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَكْمَرُ

مجھے بھی حرم کی بیخیزی نہیں کروں گا ابن عباس نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی بیعت کرو تو میں نے کہا کہ یہ امر خلافت، ان سے

عَنْهُ أَمَا أَبُوكَ فَخَوَارِئُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَا جُرْمُهُ

دور نہیں ہے ان کے باپ بنی سلی اللہ علیہ کے خوار ہی تھے ان کا مطلب زبیر سے تھا اور ان کے نانا

فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ وَأُمُّهُ فَذَاتُ الْبَطَائِقِ يُرِيدُ أَسْمَاءَ وَأُمَّا

رفیق غار تھے ان کی مراد حضرت ابو بکر سے تھی اور ان کی ماں ذات النطاق تھیں ان کی مراد حضرت اسماء تھیں اور انکی

خَالَتُهُ قَامَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

خالہ ام المؤمنین ہیں یعنی حضرت عائشہ اور ان کی چھوٹی سوہنی سلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَدِيجَةَ وَأَمَّا عَمَّتُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتُهُ يُرِيدُ

ان کی مراد حضرت خدیجہ تھیں اور بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیوی ان کی مراد حفصہ بنت

صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيفٌ فِي كِلَا سَلَامٍ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي

عبد المطلب تھیں پھر وہ خود اسلام میں یا کرا من رہے قاری قرآن ہیں اور اللہ کی قسم بنو امیہ اگر مجھ سے اچھا سلوک کریں

مِنْ قَرِيْبٍ وَإِنْ كَرِهْتُ رُبِّي أَكْفَاءُ كُرَاهِمُ فَأَكْرُ التَّوْبِيَّاتِ وَالْأَسْمَاتِ وَ

تو قریب کی رشتہ کی وجہ سے انکو مجھ سے اچھا سلوک کرنا چاہئے اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو برابر کے عزت والے مجھ پر حکومت کریں گے اور

الْحَمِيْدَاتِ يُرِيدُ ابْنَ مَرْثَدَةَ وَابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنَ أَبِي سَلَمَةَ

ابن زبیر کے تو قریبات اور اسماء اور حمیدات کو زہم پر مقدم کرنا ان کی مراد بنو اسامہ بنو اسامہ بنو اسد کی شاخیں ہیں

إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزِيْتَشِي لَقَدَ وَمِيَّةٌ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَرَأَى

اور ابوالعاص کا بیٹا تھا ہر پڑا اس کا قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے ان کی مراد عبد الملک بن مروان تھے اور اس

كَلِمَةٍ ذَنْبٌ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ ر- ۲۳۱۶ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ **(متکرر ۱۹۲۴)**

کلمہ ذنبا کی ہے یعنی ابن زبیر کے کلمے دیکھو حدیث ۱۹۲۴

ابن الحنفیہ اور عبد اللہ بن عباس حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کہیں ہی مقیم تھے۔ تو جب عبد اللہ بن زبیر نے اپنی خلافت پر بیعت لی تو انہوں نے

ان دونوں سے بھی بیعت چاہی مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک لوگوں کا اجتماع ایک غلیظ رنہ ہو جائے ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ تو ابن زبیر نے

ان پر سختی کی اور ان کو قید کر لیا۔ اہل بدیشی القدیہ یعنی شرف اور فضیلت میں اس کا قدم آگے ہے۔ لوی ذنیہ دم مروڑی ہے یا دم وبالی ہے یعنی

اس کے مقابل میں طاقت کا اظہار نہیں کر سکے۔ عبد الملک کے بادشاہ ہونے پر عراق وغیرہ عبد اللہ بن زبیر کی حکومت سے نکل گئے۔ اہل بدیشی مکررواایت

اختلاف لفظی سے آئی ہے اور مختصر بھی ہے۔ -۱- دخلنا علی ابن عباس فقال الا تجعون لابن الزبیر قاص فی امره هذا فقلنا لا احاسبن نفسه

لہ را پنے آپ کو ان کیسے اس سخت اور سختی میں ڈالوں گا، ما حاسبتہا لابی بکر ولا لعمر ولہما کا نانا اولی بكل خیر منہ وقلت ابن عمہ اللہ بنی صلی اللہ

علیہ وسلم وابن الزبیر وابن ابی بکر وابن اخی خدیجہ وابن اخت عائشہ فاذا هو بیعت علی ولا یرید ذلک فقلت ما كنت اظن ابی اعرض لهذا

من نفسہ فیدعہ وما اراہ یرید خیرا وان کان لا بد لابن ابی بکر رجحہ پر حکومت کریں، بنو عقی احتیالیٰ من ان یرثنی غیرہم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

۱۱۱) بَابُ قَوْلِهِ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَاكَلَفُهُم بِالْعَطِيَّةِ (م-۲۳۱۸)

۱۱۱) میں ہوت
وہ حصصاً مختصراً

باب ۱۱۱) اشرفی سَعِيدٌ رَضِيَ عَنْهُ (م-۱۵۱۱) بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ

بیان کیا ہے جس
میں تالیف قلوب

۱۱۲) بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ يَلْمِزْهُمْ وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ يَلْمِزْهُمْ (م-۲۳۱۹)

کا ذکر ہے، بعث
الی الشیخ صلواتہ

۱۱۳) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۰)

علیہ وسلم بشیخ
نقسمہ بین اربعۃ

۱۱۴) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۱)

وقال أتالغفم
فقال لجل ما علنا

۱۱۵) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۲)

ضمضی هذا
قوم یسرقون من

۱۱۶) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۳)

الذین +
مکر روایات

۱۱۷) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۴)

اختلاف لفظی سے
آئی ہے۔ قال

۱۱۸) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۵)

لما أمرنا بالصدق
لنا نعامل برزوی

۱۱۹) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۶)

پر پوجہ اٹھایا کرتے
تھے، فجاء برعقل

۱۲۰) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۷)

بصفت صاخر
جاء انسان باکثر

۱۲۱) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۸)

منہ فقال لما تعزلا
ان الله لغفی عن

۱۲۲) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۲۹)

صدقة هذا اوما

۱۲۳) بَابُ قَوْلِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (م-۲۳۳۰)

فعل هذا الأخر لا رتاء فان قلت الذين يلمزون المطوعين من الثمانيين في الصدقات والذين لا يجيدون الاجهرهم الاية و...
اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ قال کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالصدقة فيجتال احدنا حتى يجي بالصدق وان لا حرمهم اليوم
مائة الف كان يعرض بنفسه و...
الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه قبيصة فيقن فيه اياها فاعطاه ثم سأله ان يعطيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه فقام عمر
فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهأتك ربك ان تعطي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما خير لي ان يعطيه فقال استغفر لهم اولا ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة وسأني ان اعطى السبعين قال انه منافق قال فضيلة عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ولا تعطي احد منهم مات ابد اولا تقدم على قبره و...
مكر روایت حنیف اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ ان قال لما توفي عبد الله بن ابي جراح ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه
وامره ان يكفنه فيه ثم قام يعطيه فاحض عمر بن الخطاب بثوبه فقال فضيلة عليه وهو منافق وقد نهأتك الله ان تستغفر لهم قال انما خيرني الله
واخيرني فقال استغفر لهم اولا ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة قالن يعفوا الله لهم فقال سأني ان اعطى السبعين قال فضيلة عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وصليت امة ثم انزل الله عليه لا تعطي احد منهم مات ابد اولا تقدم على قبره انهم كثر ابا الله ورسوله وما تو ادهم فاسقون و...
مك بيان اختصار سے مراد وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں کوئی سچ بولنے کا ذکر کیا ہے۔ عن كعب بن مالك حياض تخلف عن نبوتك والله ما انعم الله عليكم نعمته
بعد اذ هديت في اعظم من صدق رسول الله صلعم ان لا اكون كذبة فاحلك كما هلك الذين كن يواحيهم انزل الوحي سيحلقون بالله لكر اذا انقلبتم اليهم لالف

اٰخَرَسِيْمًا عَسَىٰ لِلّٰهِ اَنْ يُّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (م- ۲۳۲۵) عَنْ

دوسرا برا ملا یا قریب ہے کہ اللہ ان پر رحمت سے متوجہ ہو کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

سَمُوْرَةُ بِنْتُ جَنْدَبٍ (متکثر۔ ۳۳۳) (۱۶) بَابُ قَوْلِهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ

دیکھو حدیث ۳۳۳۱۔ باب اللہ تعالیٰ کا قول ما کان للنبی والذین

اٰمَنُوْا اَنْ يُّسْتَغْفَرَ وَالتَّمِيْرِيْنَ (م- ۳۳۲۶) عَنْ اَسِيْبِ بْنِ خُرَيْبٍ (متکثر۔ ۳۱۹)

شایاں نہیں اور نہ ان کیلئے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کیلئے استغفار کریں دیکھو حدیث ۳۱۹

(۱۷) بَابُ قَوْلِهِ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ

باب اللہ تعالیٰ کا قول لقد تاب اللہ الخ (۱۷) اللہ نے نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر رحمت سے توجہ فرمائی جنہوں نے

فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ

تسکلی کی گھڑی میں اس کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھرتے پھرتے پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا

يَهِيْمُ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ (م- ۳۳۲۷) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ (متکثر۔ ۲۷۵) (۱۸) بَابُ

بیشک: ان پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے دیکھو حدیث ۲۷۵

قَوْلِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خَلَفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ

اللہ تعالیٰ کا قول وعلى الثلاثة الخ (۱۸) اور ان تین پر جو پیچھے رکھے گئے تھے یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور

ضَاغَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُوْا اَنْ لَا مَلْجَا مِنْ اللّٰهِ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آگئے اور یقین کر لیا کہ اللہ کی مروت سے اس کے کوئی بچاؤ نہیں ہے رحمت سے ان پر پیر آیا تاکہ وہ بھی

لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (م- ۳۳۲۸) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (متکثر۔ ۱۸۵۹)

پھر ایسی بیشک اللہ رحمت سے پھر آیا تاکہ وہ اللہ کے رحم کرنے والا ہے دیکھو حدیث ۱۸۵۹

۳۳۲۵ میں
جس قدر واقعات
کے روایا میں دیکھنے
کا ذکر ہے اس کا
یہاں ذکر نہیں اور
جس واقعات کا یہاں
ذکر ہے اس کا ذکر
۳۳۲۶ میں نہیں
قال رسول الله
صله الله عليه وسلم
لنا اتانى الليلة
التي انى فابتغاني
الانتمون لى لى
جنگیام فانتھینا
الى مدينة تبني
بلين ذهب لى
فضة فلنقانا
رجال شطرم
خلقهم كاحسن
ما انت راع
راواهدن مات
خوبصورت تھا

و شطرا كما فجر ما انت راع قال لهم اذ هموا افقعوا في ذلك النهرو فقعوا فيه ثم رجعوا اليها فاذ ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في احسن صورة قال لى هذا
جنة عدن وهذا منزيك قال اما القوم الذين كانوا شطرمهم حسن و شطرمهم قبيح فانهم خلطوا عمدا لصالحا و اخرسا شقا و اقر الله عنهم
ملا قريبا منى الفاظ منى حدیث کو دہرا یا ہے مروت یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضنا علیہ و یجود ان بتلك المقالة حتى
قال ابو طالب اخروا ما هم به ههنا على امة عبد المطلب و اى ان يقول لا اله الا الله و الله ما كان في روايت كعب بن مالك في حديثه عن النبي صلى الله
ابن كعب وكان قال كعب من بيته حين سمى قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في اخروا ما هم به ان من توفى ان
انخلع من فالى صدقة الى الله و درسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسماك بعض ما ان فهو خير لك و ملك يمان كعب بن مالك كان ذكر ان الفاظ منى
كے و هو احد الثلاثة الذين تيب عليهم۔ و روايت كعب بن مالك في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من توفى ان من توفى ان
غزاهما قط غير غزوة و غزوة بدر قال فاجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريم لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
كرايا حتى وكان فلما يقدم من سفر سافر الى الاضحية وكان يبدأ بالسبح فيركم ركعتين و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهي و كراهي صاحب
ولم يبه عن كلام احد من المتخلفين غير انما جئت لئلا س كلاما فقلت كذلك حتى طال على الامر و ما من شئ اهم الى من ان اموت فلا
يصل على النبي صلى الله عليه وسلم و اموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني احد منهم ولا يصيد على راسي
سلام كما يكف و ايت من يسلم على منى و بعض منى يصلي على منى يرها ہے جس کے معنے یہ ہوں گے کہ میرا جازہ نہ پڑھا جائے گا۔ فانزل الله تو بقنا على منى صلى
الله عليه وسلم حين بقى الثلث الاخر من الليل و رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام سلمة و كانت ام سلمة محسنة في شئ معذبة رموك نوايس
في امرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمة تيب على كعب قالت افلا ارسل اليه و ابشوه قال اذا خطبكم اننا من روك يوم كرايم كرايم فممنوعونكم
التوم سائر الليلة حتى اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الفجر اذن بتوبة الله علينا وكان اذا استمشوا استنار وجهه حتى كان قد قطع من القرو و كنا
ايها الثلاثة الذين خلفوا عن الامر الذي نبل من هؤلاء الذين اعدنا و احين انزل الله لنا التوبة فلما ذكر الذين كن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من المتخلفين و اعدنا روايا ليا طل و كوا و ابشوه ما كرهية احد قال الله سبحانه يعن دون اليكم اذا رجعت اليهم قل لا تعتذر لى ان تؤمن لكوننا ان الله من

۱۹) بَابُ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور جو ایمان لائے ہوں اللہ کا تقویٰ کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

(۳۳۲۹-۳۳۲۹) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (متحدہ-۱۸۵۹) ۲۰) بَابُ قَوْلِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ

دیکھو حدیث ۱۸۵۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول لقد جاءکم الرسول

رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَافِظًا

یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جو تمہیں دیکھ پختہ ہے وہ اس پر شان گذرتا ہے وہ تمہلے لئے تمہاری جان بھلائی کا بہت خواہشمند ہے

مِنَ الرَّافِقَةِ (۱۹۲۵) عَنْ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ تَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ رَضًا وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ

موتوں پر عمر بانی حم کہ نبی اللہ پر رونق رافقہ ہے جو زید بن ثابت انصاری سے روایت ہے اور وہ ان میں سے تھے جو نبی کو لکھا

الرُّسُلَ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مَّقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ يُؤَكِّدُ

کرتے تھے کما اہل یمامہ سے لڑائی کے زمانہ میں حضرت ابو بکر نے مجھ کو بلا بھیجا اور ان کے پاس حضرت عمر بھی تھے جو حضرت

رَأَىٰ عُمَرُ أَنِّي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْوَىٰ يَوْمَ الْيَمَامَةِ يَا لَيْتَ النَّاسَ رَأَىٰ أَحْتَوَانِ

ابو بکر نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت لوگ قتل ہو گئے اور مجھ کو لڑنے سے کہہ کر میرا دل

يَسْتَحْوَى الْقَتْلَ بِالْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَن

میں بھی قاریوں میں قتل کی گرم بازواری ہو تو قرآن کا بہت سا حقتہ جاتا رہے سوائے اس کے کہ

يُجْمَعُ وَرَأَىٰ لَا زِيَّ نَ تَجْمَعُ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتَ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا

اس کو جمع کر دو اور میری یہ سچتہ رائے ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرادیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے عمر سے کہا کہ میں کیسے وہ کام کر سکتا

لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ اللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَنْزِلْ عُمَرُ

ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پس عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ اچھا ہے اور عمر برابر بار بار

يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ لِي ذَلِكَ صَدْرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ

یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے اس بات کو دیکھا جسے عمر نے دیکھا تھا زید بن ثابت

تَابِتِ عُمَرَ عِنْدَهُ جَالِسًا لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابَتْ عَاقِلُ وَلَا تَهْمُكَ

نے کہا اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے تھے بات نہیں کرتے تھے جو حضرت ابو بکر نے رکھے، کہا کہ تم جو ان عقلمند آدمی ہو اور تم پر

كُنْتُ لَكْتُبُ الرُّسُلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ

کوئی تخت نہیں رہتی سب کو پورا اعتماد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھا کرتے تھے میں تم قرآن کو تمہارا شکر کرو اور اسے اکٹھا کرو یہاں تک کہ

كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَّا أَمْرِي بِهِ مَن جَمَعَ الْقُرْآنَ

قسم اگر ابو بکر مجھ کو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے دوہرنے پر رکھتے کہتے تو وہ مجھ پر اس سے زیادہ گراں نہ ہوتا جسکی انہوں نے مجھ کو حکم دیا

قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُ يَا شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ

میں نے کہا آپ دونوں کیونکر یہ کام کر سکیں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ابو بکر نے فرمایا یہ کام اللہ

وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ لِي صَدْرِي الَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرِي

کی قسم اچھا ہے پس برابر میں بار بار ان سے کہتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لئے کھول دیا جس کے لئے ابو بکر اور عمر کا سینہ

أَبَى بَكْرٍ هُمُ مَرَقَمَتْ فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ أَنْ اجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْكَتَابِ الْعَسْبِ

کھولا تھا پس میں اٹھا اور قرآن کو تمہارا شکر کرنے لگا اور اسے جمع کرنے لگا پرچوں سے اور شانوں کی پٹیوں سے اور

وَصَدُّورِ الرِّجَالِ حَتَّىٰ وَجَدْتُ مِنَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَاتٍ مَّعَ خَرِيْمَةِ الْأَنْصَارِيِّ

کھپڑوں کی ڈالیوں تک اور لوگوں کے سینوں سے یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی وہ آیتیں

فرمائی انصاری کے پاس پائیں

بَابُ

بَابُ

بَابُ

اس میں سورہ ۱۸۵۹ کا صحت ایک چھٹا سا کلام آیا ہے۔ صحت حسین مختلف عن قصہ تبرک خواہ اللہ ما اعلم احد الہیالہ اللہ فی صدق الحدیث احسن مما باللہی ما تعدد صحت مذکرمت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومئذ کذبنا فانزل اللہ عزوجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اتاہ اللہ علی النبیذ الی المہاجرین الی قولہ وکونوا مع الصدقین +

صحیح بخاری میں سورہ بارہ

لَمْ أَجِدْ هَمًّا مَعَ أَحَدٍ خَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

ان کے سوا اور کسی کے پاس وہ نہیں رہیں (یعنی) لقد جاءك رسول من انفسكم عزير عليه ما عنيتكم علیک

حَرْيِضٌ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ أَخْرَجَهُمَا وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي

آخر وہ آیت تک ملے اور وہ صحیفے جن میں قرآن جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر کے

بِكْرٍ حَتَّىٰ تَوْفَاَهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّىٰ تَوْفَاَهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ مَرْزُوقٍ

پاس تھے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دی پھر حضرت عمر کے پاس تھے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں وفات دی پھر حضرت حفصہ بنت عمر کی

رَوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي رَاهِمٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ مَعَ أَبِي خُرَيْبَةَ الْأَنْصَارِيِّ

صحابہ جزادی کے پاس تھے اور عبدالرحمن بن خالد اور ابی راہم کی روایت میں ابی شہاب سے ہے کہ ابی خریبہ انصاری کے پاس

رَوَى رَوَايَةَ عَنْ أَبِي رَاهِمٍ مَعَ خُرَيْبَةَ أَوْ أَبِي خُرَيْبَةَ

اور ایک روایت میں ابی راہم سے ہے خریبہ یا ابی خریبہ کے پاس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرے تو اس کے نام سے

سُورَةُ يُونُسَ

سورہ یونس

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ رَأَى بَابَ وَقَالَ الْخَلَدِيُّ

اور ابن عباس نے کہا (۲۲) فاختلط (۲۲) پس پانی سے ہر ایک قسم کا پھل (۲۲) بابل (۲۲) وقالوا الخ (۲۲) کہتے

اللَّهُ وَلَدٌ اسْمُهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ مُحَمَّدٌ

پس اللہ نے بیٹا بنا دیا وہ اس سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے اور زید بن اسلم نے کہا کہ قدم صدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ آيَاتٌ يُعْنَى هَذِهِ أَعْلَامٌ

اور مجاہد نے کہا یہی درود ہے (۲۲) کہا جاتا ہے تلک آیات (۲۲) یعنی یہ قرآن کی نشانیوں میں

الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِرَبِّهِمْ أَلْمَعْنَى بِكُمْ

اور اسی طرح ہے حتیٰ اذا كنتم في الفلك (۲۲) وجرت بهم (۲۲) بمعنی بکم

دَعَاؤُهُمْ دَعَاؤُهُمْ أَحْيَيْتُهُمْ دَعَاؤُهُمْ مِنَ الْهَلَكَةِ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

دعواہم (۲۲) ان کی دعا (۲۲) احییتہم (۲۲) ہلاکت کے قریب ہونے جیسے (۲۲) احاطت بہ خطیئتہ (۲۲) اللہ سے

فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتَّبَعَهُمْ وَاحِدٌ عَدُوٌّ مِنَ الْعَدُوِّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُعْجِلُ اللَّهُ

فاتبعہم اور اتبعہم (۲۲) ایک ہیں (۲۲) عدو واحد من العدو (۲۲) سے ہے یعنی زیادتی اور مجاہد نے کہا عجیل اللہ (۲۲) من الشمر

لِلنَّاسِ الشَّمْرُ اسْتَعْجَلُوا لَهُمْ يَا خَيْرُ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لَوْلَا هُوَ وَمَالُهُ إِذَا غَضِبَ

استعجلوا لهم یا خیر (۲۲) انسان کا غصے کی حالت میں اپنی اولاد اور مال کی نسبت یہ کہتا

اللَّهُمَّ لَا تَتَّكِرْ فِيهِ وَالْعَنَةُ لِقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ لَا هَلِكَ مِنْ دَرَجَةٍ عَلَيْهِ

کرے اللہ اس میں برکت نہ ڈالے اور اس پر لعنت کر لیتی ہے لقیضی الیہم (۲۲) اجلہم (۲۲) ہلاکت کا دیا جاتا ہے پر بد دعا کی گئی ہے

وَلَا مَا تَنَّىٰ الَّذِينَ أَحْسَبُوا الْحَسَنَةَ مِثْلَهَا حَسَنِيٌّ وَزِيَادَةٌ مُعْفَرَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ

اور اللہ تعالیٰ سے مار ڈالے ان اللذین احسبوا الحسنه (۲۲) جنہوں نے کبھی کی ان کے لئے اس کی مانند نیک بد دعا ہے زیادتی اور حضرت تراویح اور

النَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِهِ الْكَبِيرِ كَمَا فِي الْمَلِكِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ وَجَاءَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ

کامزیا دہا اللہ کی ذات کو دیکھنے ہی اور کبریٰ بزرگوار (۲) باب قولہ (۲) وجاء وزینب بنتی رسول اللہ (۲) اور ہم نے بنی اسرائیل کو

یہاں اس روایت کا ذکر صرف اسی آیت کی مناسبت کے لحاظ سے کیا گیا ہے اس پر مفصل بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ یہ شعر عربی نسخہ تھا جس کے جمع کرنے کی فکر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو تھی۔ جیسا کہ روایت کے آخری حصہ سے ظاہر ہے۔

الْبَحْرُ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ

دریا پار کر دیا پھر فرعون اور اس کے لشکروں نے زیادتی اور ظلم کے لئے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جیسا سے غرق ہونے لگا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں

نَجْمِكَ تُلْقِيكَ عَلَىٰ جُبُوتِهَا مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ النَّشْرُ الْمَكَانُ الْمَرْتَقِعُ

نجم (۹۲) مجھے زمین میں بشوہ (راہِ جہنمی جگہ) پھینک دیں گے اور بشوہ لشکر یعنی بلند مکان کو کہتے ہیں

(۵-۲۳۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مترکر-۱۰۰۸)

دیکھو حدیث ۱۰۰۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

کر نبیوں کے نام سے

۱۱ - سُورَةُ هُودٍ

سورہ ہود

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ الْأَوَّاهُ الرَّحِيمُ بِالْحَبَشَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَادِي التَّرَاوِي

اور ابو ميسره نے کہا کہ اوواہ (رحیم) حبشی لغت میں ترائی کو کہتے ہیں اور ابن عباس نے کہا بادی التراوی (۲۰) جو

مَا ظَهَرَ لَنَا وَقَالَ هَاهُنَا الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْحَزِيرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ

میں بلانا نظر آتا ہے اور جی ہونے کا کہ جوادی (۳۴) ہاٹ ہے جزیرہ میں ہے اور حسن نے کہا کہ انک لانت الحليم (۲۰)

أَحْلِيمٌ يَسْتَهْزِءُونَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَقْلِيحٌ أَمْسِكْ عَصِيبٌ شَدِيدٌ لَا

(کہہ کر) وہ حضرت شعیب سے تمسخر کرتے تھے اور ابن عباس نے کہا اقلیحی (۳۴) تمم جا عصبیب (۲۰) سخت کا چرم

جَرْمٌ بَلِيٌّ وَقَارًا التَّنُورُ رَبِيعَ الْمَاءِ وَقَالَ عِلْرَمَةُ وَجْهَ الْأَرْضِ (۱) بَابُ

(۲۲) مفرد اور فار التَّنور (۲۰) پانی پھوٹ نکلا اور عکرمہ نے کہا ارتور (زمین کی سطح سے) باب

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَخْفُونَ مِنْهُ يَنبَأُهُمُ اللَّهُ

اَلَا انہم (۲۰) سنو یہ اپنے سینوں کو دھم کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں سو نبی پر اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں وہ جانتا ہے

مَا يَسْتُرُونَ وَمَا يَجْلَنُونَ إِلَيْهِمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَقَالَ عَيْرَةُ وَحَاقَنُزَلْ

جو یہ چھپاتے ہیں اور چھانپتے ہیں کیونکہ وہ سینوں کی باتوں کو جانتے والا ہے اور اوروں نے کہا حاق (۲۰) ارتور

يُخَيِّقُ يُنْزِلُ يُؤْتِسُ فَعُولٌ مَنْ يَأْتِسُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَبِتْسٌ تَحْزَنُ يَثْنُونَ

یخیق (۲۰) ہے یوس (۲۰) ہول (کہ وزن ہے) یئتس (نا امید ہونا) ہے اور مجاہد نے کہا لابتس (۳۶) تمم کیا یثنون

صُدُورَهُمْ شَاكٌ وَأَمْرٌ أَوْ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ الشُّطْرَ أَعْوَاهُ

صدور (۲۰) تمم کی میں شاک اور شیم کرنا ہے لیسخفوا (۲۰) یعنی شمس سے چھپ جائیں اگر انکی حالت میں ہو

۱۹۲۶) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ

محمد بن عبد بن جعفر سے روایت ہے کہ انوں نے ابن عباس کو سنا پڑھتے تھے

تَشْنُونِي صُدُورَهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَسٌ كَانُوا لِيَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا

تشنونی صدور (۲۰) کہتا رہا کہ ابن عباس سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ کچھ لوگ تھے کہ شرماتے تھے کہ وہ قضاے حاجت کریں

فِي قُضْوَى السَّمَاءِ وَأَنْ يَمُوعُوا إِسَاءَهُمْ فَيَفْضُلُوا السَّمَاءَ فَزَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ

تو پناہ آسمان کی طرف کھولیں اور یہ کہ غوروں سے نصیحت کریں تو پناہ آسمان کی طرف کھولیں جس سے انہیں بارہ میں اترا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

(۲۳۳۱-۲۳۳۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مکتوبہ ۱۹۲۶، ۱۹۲۷) عَنْ عُمَرَ وَقَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ

وکیچو حدیث ۱۹۲۶ اور اسے روایت ہے کہ ابن عباس نے پڑھا

اَلَا اِنَّهُمْ يَشْتَوْنَ صَدْرَهُمْ لَيْسَتْ خَفَاؤُ امْنَهُ اَلَا حِينَ يَسْتَشْفُونَ ثِيَابَهُمْ وَقَالَ

اِلا انہم یشتون صدورہم لیست خفوا امنہ الا حین یستشون ثیابہم اور اوروں

غیر کہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ یستشون یعنی اپنے سروں کو ڈھانک لیتے تھے سٹی بہم (۷۷) اپنی قوم سے برکمان ہوا

وَضَاقَ بِهِمْ يَاضِيًا فَهَبَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اُنْيَبُ اَرْجِحُ (۲)

وضاق بہم (۷۷) یعنی لپٹے لپٹے ہماؤں کو کھینک کر بچید ہوا (بقطع من اللیل (۸۱) رات کی سیاہی میں اور مجاہد نے کہا انیب (۸۸) رجوع

بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (۱۹۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

باب اللہ تعالیٰ کا قول وکان عرشہ علی الماء (۷) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللهِ مَلَأَى لَكَ

نے فرمایا کہ اللہ عرشہ و جل نے فرمایا کہ خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا اور فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ پھرا ہوا ہے

تَغِيْضُهَا نَفَقَةً سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالتَّهَادُ وَقَالَ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

خرچ کرے گا اس میں کی نہیں ہوتی رات دن بغیر جا رہی رکھا ہے اور فرمایا تھا وہ جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو کچھ خرچ کرتا رہا

فَاِنَّهُ لَمْ يَغِيْضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيْدِهِ الْبَيْزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

یعنی ہتھوڑے، اس نے اسے کم نہیں کیا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی حکومت پانی پر تھی اور اس کے ہاتھ میں زلفات کا ہتھوڑا ہے کسی کو نیچا

اعْتَرَاكَ اَفْتَعَلْتَ مِنْ عَرْوَتِهِ اَي اَصْبَدْتَهُ وَهِنَّ يَعْرُوهُ وَاَعْتَرَانِي اِخْتَدَبْنَا صِيْتَنَا

اعتراك (۸۵) افتعلت کے وزن پر ہے عروۃ سے اور صفت میں نے اسکو پایا اور اس سے ہی عروۃ اور اعترائی اخذ بنا صیتنا (۸۵)

اَي فِي مَلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَيْنِدُوْهُ وَعَمُوْدُوْهُ اَحَدٌ هُوَ تَاكِيْدُ الْجَبْرِ اسْتَعْمَرَكُم

یعنی اس کی حکومت اور اس کے تعزوت میں اور عیندو اور عمود اور عائد (رضمن) ایک ہی ہیں اور وہ جبر کی تاکید ہے استعمروکم

جَعَلَكُمْ عُمَرًا اَعْمَرْتَهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمَرَى جَعَلْتَاهُ لَكَ لَكَ هُمْ وَاَنْتُمْ لَهُمْ

(۷۱) تمہیں آباد کر دیا ہے احدت الدار یعنی میں مکان اس کو عمر بھری دیا اور انکو ہم اور انکو ہم اور انکو ہم (۷۱)

وَاحِدٌ كَمَيْدٍ مَّجِيْدٍ كَاَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ فَاَجِدُ حَمُوْدٌ مِنْ حَمْدٍ سَجِيْلٌ الشَّدِيْدُ

اجلی سجا، ایک ہی ہیں حمید مجید (۸۳) فعیل کے وزن پر ہیں مجید ہستے فاجد (بزرگ) ہے اور حمید محمود ہے حمد سے سجیل

الْكَبِيْرُ سَجِيْلٌ وَبِسَجِيْنٍ وَاللَّامُ وَاللُّوْنُ اَخْتَارَ وَقَالَ مَيْمٌ بِنُ مَقِيْلٌ

(۸۲) کھنت اور بڑا سجیل اور بسجین (بیک لایم) اور لون نہیں ہیں ایک دوسرے بدل جلتے ہیں اور مئیم بن مقبل نے کہا

وَرَجَلَةٌ تَضْرِبُ نَوْنَ الْبَيْضِ ضَا حِيَةً ضَرْبًا وَاصِبًا اَلْاَبْطَالُ سَجِيْدًا

اور بہت سے پھیل خودوں پر روز روشن میں ایسی سخت رکھیں، ماہرین کرنے میں جنگی وصیت پہلوانوں نے کی ہے

وَرَالِيْ مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شَحِيْبًا رَالِيْ اَهْلِ مَدِيْنٍ لَانَ مَدِيْنٍ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ وَاَسْأَلُ

اور الی مدین اخاهم شحیبا (۸۲) یعنی مدین والوں کی طرف اس نے کہ مدین شہ ہے اور اسی طرح واسال انقریۃ

الْقَرْيَةِ وَاَسْأَلُ لِعَوِيْذٍ يَعْزِيْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعَوِيْذُ رَأَى كَمْ ظَهَرَ يَأْيَقُوْلُ اَمْ تَلْتَفِقُوْا

ریوسف (۸۲) اور اسال العوید (۸۲) سے مراد لوگوں والے اور قائلو والے وراؤ کہ ظہر یا یقول ام تلتفقوا

رأیہ و یقول اذا لم یفضل للرجل حاجتہ ظهرت بجاحتی وجعلتني ظهرياً

الصفات نہیں کیا اور جب کوئی شخص کسی کا کام نہ کرے تو کہا جاتا ہے ظہرت بجاحتی اور جعلتني ظہریاً

۱۹۲۶-۱۹۲۷

۱۹۲۸

۱۹۲۸

روایت کو یہاں
کچھ مختصر کیا ہے
روایت محمد بن
بن جعفر کی ہے۔
ان بن عباس
قرآ الا انہم
شفتونی صدہم
قلت یا ابا العباس
عانت شفتونی
صدورہم قال
کان الرجل
یحامع امراتہ
فیستحی ویخجل
فیستحی ہزلت
الا انہم یشتون
صدورہم

وَالظَّهْرِيُّ هَهُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةٌ أَوْ عَاءٌ تَسْتَظْهِرُ بِهِ أَرَادَ لَنَا سِقَاظًا إِجْرَائِيًّا

اور ظھری سے مراد یہاں جو کہ تو ایک جانور یا برتن کو ساتھ رکھے جس سے بوقت ضرورت مدد سے ادا کرنا ہے جو ہم میں سے ذیل میں

هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَمْتُ الْفَلَكَ وَالْفَلَكَ وَاحِدٌ وَهِيَ

ہیں اجرائی (۳) اجرت سے مصدر ہے اور بعض کہتے ہیں جرمت سے فَلَكَ اور فَلَكَ ایک ہیں اور یہ

السُّغَيْنَةُ وَالسُّفْنُ مَجْرَاهَا مَدْفَعُهَا وَهُوَ مَصْدَرٌ رَاجِعٌ إِلَى جَرَمْتُ وَارْسِيْتُ حَبْسَتْ وَ

کشتی اور راجع کشتیاں میں مجرہا (۴) کے معنی ہیں اس کا پلانا اور وہ مصدر ہے اجرت کا اور ارسیت میں نے روک لیا اور

يَقْرَأُ مَرَسًا هَا مِنْ رَسْتٍ هِيَ وَجَرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ وَجَرَّهَا وَهِيَ مَرَسِيهَا مِنْ

مرساہا (۴) پڑھا جاتا ہے دست سے روہ رکھی اور مجرہا جرت سے روہ چل پڑی اور جَرَّهَا اور مَرَّسِيهَا بھی پڑھا گیا ہے

فَعَلَّ بِهَا الرَّاسِيَاتُ تَابِيَاتٌ (۳) بَابُ قَوْلِهِ دَيُّقُولُ الْأَشْهَادُ هُوَ لَا الَّذِينَ

رہیں یہ تم قابل فعلی بھلا راضی معروض سے (اسیسا راسیاں) جی ہوں بابت اشرقتی کا قول و یقول الخ (۴) اور کوہ میں گہری ہیں جنہوں

كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمُ الْآلِعْنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ وَاحِدٌ الْأَشْهَادُ شَاهِدٌ

اپنے رب پر جھوٹ بولا سنو اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے اشہاد (۴) واحد شہاد ہے

مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ (۳-۲-۳۳۳) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَرْثَدٍ (مَتْرُكٌ ۱۱۶۲)

یسے صاحب اور اصحاب دیکھو حدیث ۱۱۶۲

بَابُ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ أَجْزُرِيكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْأَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ

بابت اللہ تعالیٰ کا قول و کذلک الخ (۳) اور اسی طرح تیرے رب کی گرفت ہے جب وہ بستیوں پر گرفت کرتا ہے اور ظالمیہ

أَخَذَكَ الْإِيمُ شَدِيدٌ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ الْعَوْنُ الْمَعِينُ رَفْدٌ أَعْنَتُهُ تَرْكُوهَا

ظلم کریندلی ہوں بیشک تیرے رب کی گرفت دردناک و رحمت ہے الرفد المرفود (۹۹) دو جہی جاتے رفد تیرے نے اسکی مدد کی ترک کرنا (۱۱۳)

تَمِيلُوا فَلَوْ لَا كَانَ قَهْلًا كَانَ أَتْرَفُوا أَهْلَكَ أَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ زَفِيرٌ

جھکو فلولا کان (۱۱۶) کیوں نہ ہوتا اتر فورا (۱۱۶) ہلاکت کے لئے اور ابن عباس نے کہا زفیر و شہیق (۱۰۶)

شَهِيْقٌ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيْفٌ (۱۱۶) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ

زور کی آواز اور کم زور آواز ابو موسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ يَمْلِكُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَكَ لَمْ يَقْلِبْهُ

وہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس پر مواخذہ کرنا ہے تو اسے

قَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْأَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخَذَكَ

نہیں پھیرتا پھر اپنے پڑھا کذلک الخ اور اسی طرح تیرے رب کی گرفت ہے جب بستیوں پر گرفت کرتا ہے اور وہ ظلم کریندلی ہوں بیشک اشد کی گرفت

الْإِيمُ شَدِيدٌ (۱۱۶) بَابُ قَوْلِهِ أَرِقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي لِنَهَارٍ رَوْزًا مِنَ اللَّيْلِ وَالْحَسْبُ

سخن توروہ تک ہے باب اللہ تعالیٰ کا قول و ارقم الصلوة الخ (۱۱۶) اور دن کے دنوں میں اور راتوں کے راتوں کا تو تم کو

يَدُ هَبْنِ السِّيَابِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ وَزُلْفَا سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ

کیونکہ تم کیساں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت قبول کرنا یوں کے لئے نصیحت ہے اور زلفا (۱۱۶) اوقات کے بعد اوقات میں

ملہ و الظھر سے
ههنا والا فقره
بخاری کے بعض
سخنوں میں نہیں
اور شارحین نے
لکھا ہے کہ یہ وقت
بھی نہیں یعنی ظہری
کے معنی یہاں یہ
نہیں ہیں۔ گویا معنی
لفظ ظھری کے
آتے ہیں۔ لیکن
اس معنی کے یہاں
قبول کر لینے میں کئی
پر حرج بھی نہیں۔
یعنی یہ کہہ کر تو تم
اپنا مال کا وفاق
نہیں سمجھتے بلکہ
اس جانور کی طرح
سمجھتے ہو جس سے
بوقت ضرورت
کام لے لیا جائے
کیونکہ جب نصیبت
پڑتی ہے تو پھر خدا
کو پکارتے ہیں
ملہ ضعیف
اختلاف لفظی
ہے۔ وقال
یدینا ابن عمر
یطون اذ عرض
رجل فقال
یا ابا عبد الرحمن
اد قال یا ابن
عمر سمعت
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فی
النجوه فقال

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ید فی الثومن من ربہ وقال هشام ید فوالہ من حتی یضع علیہ کتفہ راہنی رحمت کا پردہ اس پر
قال دیکھا دیکھو ٹوٹ ملے صفحہ ۵۳۵، فقیرہ بن زویہ تعرف ذلک ان یقول اعرف بقول رب اعرف مرتین فیقول ستزئها فی الدنیا و اخرها لک الیوم ثم
تطوی صحیفہ حسنۃ واما الاخرن اذ الکفای فینا ذی علیہ رؤسہ اشہاد دھولہ الذین کذبوا علیہم +

وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْمَرْدَلَةُ الْزُّلْفُ مَزْنَلَةٌ بَعْدَ مَزْنَلَةٍ وَأَمَّا زُلْفِي فَمَصْدَرٌ مِنْ

اور اسی سے زلف کا نام رکھا گیا اور زلف مرتبہ کے بعد مرتبہ اور زلفی (ص ۲۵) مصدر ہے زبیدی کے

الْقُرْبَى زِدْ لِقَوَا جَمَعُوا أَزْلَفْنَا جَمَعْنَا (م ۳۳۲) حَسَنُ أَبِي سَعْدٍ (متاثر ۳۵۳)

معنی میں ازلفوا جمع ہو گئے ازلفنا (شعر ۴۴) ہم نے جمع کیا دیکھو حدیث ۳۵۳

۱۲- سُورَةُ يُوسُفَ

۱۲- سورہ یوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ فَضِيلٌ عَنْ حَصْبَيْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ مَتَّكَ الْأَلْ تَرْجُحُ قَالَ فَضِيلٌ الْأَلْ تَرْجُحُ بِالْحَبَشِيَّةِ

اور فضیل نے مجاہد سے بواسطہ حصین روایت کرتے ہوئے کہا کہ متکا (۳۱) ترحج ہے فضیل نے کہا ترحج کو حبشی زبان میں متکا کہا جاتا ہے

مَتَّكَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَتَّكَ كُلُّ شَيْءٍ قَطَعَ بِالسَّكِينِ وَ

اور ابن عیینہ نے ایک شخص کے ذریعہ سے مجاہد سے روایت کی ہے کہ متکا ہر وہ چیز ہے جو پھری سے کاٹی جائے اور

قَالَ قَتَادَةُ كَذُو عِلْمٍ عَامِلٍ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ ابْنُ جَبْرِ صَوَاعِمُ مَتَّكَ الْفَارِسِيِّ

قتادہ نے کہا کذو علم (۶۸) اس پر عمل کرنے والا ہے جو اس نے سیکھا اور ابن جبیر نے کہا صواعم (۶۲) مکوں گ رہی نام فارسی ہے

الَّذِي يَلْتَقِي طَرْفَاكَ كَأَنْتَ تُشْرَبُ بِهِ الْأَعْرَابُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَفْهَمُونَ

وہ جس کے دونوں کونے مل جاتے ہیں عجم لوگ اس میں پانی پیتے تھے اور ابن عباس نے کہا تفہم (۹۷)

بِجَهْلُونَ وَقَالَ عِدْرَةُ غِيَابَةٌ كُلُّ شَيْءٍ خَبِبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غِيَابَةٌ وَاجِبٌ

جاہل قرادو اور اوروں کے کما غیابہ (۱۰) ہر وہ چیز جو تجھ سے دوسری چیز غائب کرے وہ غیابہ ہے اور جب (۱۰)

الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تَطْوِ بِمَوْنٍ لَنَا بِصَدْرِكَ أَشَدُّ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي

وہ کنواں ہے جس کی منڈیر نہ بنی ہو بمومن (۱۰) اسی جاتے والا اشہد (۲۲) وہ زمانہ جو اخطا متزوع ہونے سے

الْقَصَارِ يُقَالُ بَلَغَ أَشَدُّهُ وَبَلَغُوا أَشَدَّهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاحِدٌ هَا أَشَدُّ

ہے ہو کہا جاتا ہے بلغ اشہد و بلبغوا اشہدہم یعنی جوانی کو پہنچا یا پہنچے اور بعض نے کہا کہ اس کا واحد اشہد ہے اور

الْمَتَّكَ مَا تَكَاتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لَطَعَامٍ وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ الْأَلْ تَرْجُحُ

متکا (۳۱) وہ ہے جس پر تو سہارے پینے کے لئے یا بات کرنے کے لئے یا کھانے کیلئے اور اس کو باطل کہا جس نے کہا کہ وہ ترحج ہے

وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَلْ تَرْجُحُ فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الْمَتَّكَ هُنَّ مَارِقٌ فَرَوُوا

اور عرب کے کلام میں الترحج (ترج) ہے نہیں مٹا اور جب ایک شخص نے ان کے خلاف یہ دلیل پیش کی کہ متکا مسند یا تکبیر ہے تو

إِلَى شَرِّ مَنَّهُ فَقَالُوا أَلَيْسَ هُوَ الْمَتَّكَ سَاكِنَةُ النَّاءِ وَإِنَّمَا الْمَتَّكَ حَرْفُ الْبَطْرِ

اس سے اور زیادہ غلط منہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ متکا سے مراد متکا ہے تاہم کے سکون کے ساتھ علا کہ حرکت عوت کی

وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتَّكَ وَأَبْنُ الْمَتَّكَ فَإِنْ كَانَ شَمُّهُ تَرْجُحُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمَتَّكَ

شمرکا کے کہنے کو کہتے ہیں اور اسی لئے عوت کو متکا اور مرو کو ابن المتکا کہتے ہیں اور گروہاں ترحج تھا بھی تو وہ تکبیر کہنے کے بعد ہو گا

شَعْفَهَا يُقَالُ لِي شَعْفَانِهَا وَهُوَ غَلَاظٌ قَلْبِهَا وَأَمَّا شَعْفَهَا فَمِنْ الْمَشْعُوفِ أَصْبُ

شعفہ (۳۰) مراد ہے اس کے شعفات تک پہنچ گیا اور وہ اس کے دل کا شعفا ہے اور شعفہا مشعوف سے ہے (اصب ۳۳)

أَوْ مِيلٌ أَصْفَاتٌ أَحْلَامٌ قَالُوا تَرَوِيلُ لَكَ وَالضُّغْتُ مِلٌّ لِي مِنْ حَمِيئَتِي

مائل ہو جاؤ لگا اصفاغات (احلام) وہ ہے جس کی کوئی تعمیر نہ ہو اور ضغث مٹھی بھر گھاس

۱۲۳۳۵

۱۱

قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے

۱۱

اس کی ترویج کی گئی ہے چنانچہ عینی میں ہے کہ صاحب التوضیح نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ عجائبات میں سے ہے۔ کیونکہ محکم میں ہے کہ متکا ترحج ہے۔ اور ایسا ہی اخص سے روایت ہے اور جامع میں بھی ہے

وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ وَخُدُّ بِيَدِكَ ضَعْفًا لَأَمِنْ قَوْلِهِ أَضْعَافُ أَحْلَامٍ وَوَاحِدُهَا

یا اس کی مانند ہے اور اس کی ہتھیلی میں ایک ضعفتا (۲۴۴) اس قول سے اضغاث احلام اس کا مفروضت ہے

ضَعْفٌ مِمَّا يَمِينُ الْمِيْرَةِ وَنَزْدَادُ كَيْلٍ بِعَيْرٍ مَا يَجِيْلُ بِعَيْرٍ أَوْ يِ كَيْلِهِ ضَمُّ رَالِيهِ

نمبر ۵۱۰ (۱۰) کے لیے اور نزداد کیل بجز ۵۱۰ (۱۰) اس قدر کہ اونٹ اٹھا سکے 'اوی الیہ (۶۹) اپنے سے ملایا

السَّقَايَةُ مِكْيَالٌ تَغْنَأُ لَا تَزَالُ اسْتِيَا سَوَا يَسُوَا لَا تِيَا سَوَا مِنْ رُحْمِ اللَّهِ مَعْنَاهُ

سقا یا (۶۰) باپ تھا لغتاً (۵۸) ہمیشہ ہو گئے استیا سوا (۸۰) اب ہو گئے لا تیا سوا من روم اللہ (۶۰) اس کے معنی میں سید

الرَّجَاءُ مَخْلُصُوا أَجْمَعًا اعْتَرَا لَوَاجِحًا وَأَجْمِعُ أَرْجِيَةٌ يَكْتَابُونَ الْوَاحِدُ نَجِيٌّ

رکھن خالصاً (۸۰) مشور کرتے ہوئے ایک ہو گئے اور جمع ارجیۃ ہے یکتا جنون والمجاہد (۸۰) اور واحد نجی ہے

وَالْإِثْنَانُ وَالْجَمِيعُ نَجِيٌّ وَأَرْجِيَةٌ حُرْضًا حُرْضًا يَبِيكُ الْهَمُّ تَحْسُسُوا تَحْبُرُوا

اور تثنیۃ اور جمع نجی اور ارجیۃ دونوں میں حرضاً (۸۰) محضاً رہنمائی سے بلاکت کو پہنچا ہوا (۸۰) غم تھجے بھلا دے گا

مُرْجَاةٌ قَلِيلَةٌ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَآمَةً مَجْلَلَةٌ رَأْبُ قَوْلِهِ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ

مختصراً (۶۰) پتہ کا و مر جاتہ (۸۰) تھوڑی غاشیۃ من عذاب اللہ (۱۰۰) عام (عذاب) جو کھیر نیلا ہو باب اللہ تعالیٰ کا قول و یتم نعمة (۶۰)

عَلَيْكَ وَعَلَى آلٍ يَعْقُوبَ كَمَا آتَتْهَا عَلَى أَبِيكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

اور اہلی نعمت تجھ پر پوری کرے اور یعقوب کی اولاد میں طرح اس نے پہلے تیرے دادا اور باپ ابراہیم اور اسحاق پر سے پورا کیا

ر-۳۳۳۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَتَكَرَّرٌ (۱۵۲۶) (۲) بَابُ قَوْلِهِ لَقَدْ كَانَ

دیکھو حدیث ۱۵۲۶ باب اللہ تعالیٰ کا قول لقد کان الخ

فِي يَوْمٍ وَخُوفٌ وَأَخْوَاتِيهِ آيَاتُ السَّائِلِينَ ر-۳۳۳۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكَرَّرٌ) (۱۵۱۷)

دیکھو حدیث ۱۵۱۷ باب اللہ تعالیٰ کا قول قال یل سولت الخ (۱) اس نے کہا کہ تمہارے دلوں کے تمہارے لئے ایک (ری) بات کو ابھار دکھایا

ر-۳۳۳۵ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ (مَتَكَرَّرٌ) (۱۲۴۶) ر-۳۳۳۶ عَنْ

سولت ابھار دکھایا دیکھو حدیث ۱۲۴۶

أُمِّ رُوْمَانَ مَتَكَرَّرٌ (۱۵۹۶) (۴) بَابُ قَوْلِهِ وَرَأَوْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

دیکھو حدیث ۱۵۹۶ (۴) باب اللہ تعالیٰ کا قول و رأوتہ الخ (۲۳) اور اس نے جس کے گھر میں

عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْبَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ هَيْتَ لَكَ

وہ تھا اسے اپنے رازہ سے پھیرنا چاہا اور دروازے بند کر دیے اور کہا ادھر آؤ اور عکرمہ نے کہا ہیت لک

بِأَحْوَرَانِيَّةٍ هَلُمَّ وَقَالَ بِنُ جَبْرِ تَعَالَى (۱۹۳۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

حورانی زبان میں ہلہم آ جا کے معنی میں بخاور ابن جبیر نے کہا تھالہ (آ جا) عبد اللہ بن سعید سے روایت ہے کہا

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْآفَافِ الْعَشْرِي الْآيَاتِ ۛ كَم ۵۹۶ كَو ۳۶۷ كَلِي كَمُر رَوَيْت

قراردیا گیا ہے۔ مگر ۳۶۷ حضرت عائشہ کی لمبی حدیث ہے اور ۱۵۹۶-ام رومان کی اور گودوں میں واقعات تک کا یہی ذکر ہے لیکن ام رومان کی حدیث پر بجائے ۱۵۹۶ کے نمبر ۱۵۷۷ ہونا چاہئے تھا۔ اور یہ سہو ہوا ہے کہ اسے بجائے ۱۵۲۶ نیا نمبر دینے کے ۱۵۹۶ نمبر دیا گیا۔

۱۵۹۶ یا ۱۵۲۶ صفحہ ۸۲، نوٹ ۱۷ میں نقل کی گئی ہے۔ یہاں بہت اختصار ہے۔ اہم لفظوں میں :- قالت بینا أنا وعائشة اخذتنا الحنة فقال لنتصله الله عليه سلم لول في حديث تحوت قال نعم دعوت عائشة قالت مثل ومثلكم كيعقوب بنيه والله المستعان على ما تصفون ۛ

۱۷
دونوں حدیثوں کے ایک ہی لفظ میں *
۱۸
قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے
۱۹
۳۶۷ امی حدیث ہے۔ یہاں نہایت اختصار سے وہ حصہ دیا ہے جس میں فصیح و جلیل کے الفاظ آتے ہیں عن حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فذراها الله كل حدثي حقة من الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت بریة من ذنوبك الله وان كنت فاسقة من ذنوبك الله وتوبی الیہ قلت انی والله لا اجد مثلاً الا ایا یوسف

هَيْتَ لَكَ قَالَ وَرَأَيْتُمْ نُفُوسَهُمْ كَمَا عَلَّمْنَا هَامُومًا مَقَامَهُ وَالْقِيَامَ وَجَدَكَ

الفؤاد بأولهم الرشفة - ۶۹ اور الفؤاد البقرة - ۱۱۰ اور ابن سعید سے روایت ہے بل عجبت و یسخرون (م - ۳۳۳)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَكَرِدًا (۵) (۵) بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاءَكَ الرَّسُولُ قَالَ

رُجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ لِسْمَةِ الْبَنَاتِ لِيَسْأَلَنَّ أَبَوَهُنَّ إِنْ رَزَقْنِي بَنَاتٍ هُنَّ

عَلَيْهِمْ قَالَ مَا خَطْبُكِ إِذْ رَأَوْنَهُنَّ يُوسِفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ حَاشَ

وَحَاشَىٰ تَرْبِيَةٍ وَاسْتَبْنَا بِرُحْمِ رَبِّهِمْ - ۳۳۸ مَعْنَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۶) بَابُ قَوْلِهِ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ رُءُوسَهُمْ عَرَضُوا بِرُءُوسِهِمْ

بَابُ اللَّهِ الرَّعْدُ - ۱۳ - سُوْرَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا سَطَّ كَفَيْهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَيْدَ مَعَ اللَّهِ الْهَاجِرَةَ

كَمَثَلِ الْعُطَشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَىٰ حَيَالِهِ فِي لَمَاءٍ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ

يَشْرَبَ وَلَا يَقْدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَخَّرَ ذَلِكَ مَتَىٰ وَرَأَتْ مُتَدَانِيَاتُ الْكَلْبَاتِ

وَاحِدٌ هَا مَثَلَةٌ وَهِيَ الْأَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالُ وَقَالَ الْأَمْثَالُ أَيَّامُ الَّذِينَ خَلَوْا

بِمَقْدَارِ بَقْدَرٍ مَعْقِبَاتٍ مَلَائِكَةُ حَفَظَةُ تَوَقُّبِ الْأُولَىٰ مِنْهَا الْأَخْرَافُ وَمِنْهُ

وَهُضَّتِ الْبُطْحَةُ مَثَلٌ مُخْتَلَفٌ جَمَلُونَ كِي تَرْبِيَةٍ وَهِيَ نَيْسٌ أَوْ خَفِيْفٌ سَا اِخْتَلَفَ لَفْظِي هِيَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْحًا لَعْنًا كَانَتْ

يَأْتِي إِلَىٰ رُكْنٍ مُتَدَانٍ وَدُوْلَتٌ فِي السَّبِينِ مَا لَيْتَ بِي سَعِدْتُ لِأَجِبْتُ الدَّاحِي دَخِنَ احْتَمَىٰ مِنْ أِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ تَوْفِقْ قَالَ بَلَىٰ وَكَأَنِّي لَبِيْطٌ مَدِينٌ

قَلْبِي مَثَلٌ خَفِيْفٌ اِخْتَلَفَ لَفْظِي هِيَ - ان عائشة ربه قالت له وهو سألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيساس الرسل قلوت أنزلوا أمكن بوا قالت عائشة كذا بوا قلت فقد استيقنوا ان قومهم كذا بوهم فما هو بالنظر قالت اجل نعمرى لقد استيقنوا بذا لك نقلت لها وضحى اللهم وان كذا بوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذه الآية قالت هم اتباع الرسل لان من المعاد بربهم وصد قوهم فقال صلبيهم انزلوا راسخا عنهم التصريح حتى اذا استيساس الرسل من كذا بهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذا بوهم جاءهم نصي الله عن ذلك روفي روايته نقلت

وَهُضَّتِ الْبُطْحَةُ مَثَلٌ مُخْتَلَفٌ جَمَلُونَ كِي تَرْبِيَةٍ وَهِيَ نَيْسٌ أَوْ خَفِيْفٌ سَا اِخْتَلَفَ لَفْظِي هِيَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْحًا لَعْنًا كَانَتْ

يَأْتِي إِلَىٰ رُكْنٍ مُتَدَانٍ وَدُوْلَتٌ فِي السَّبِينِ مَا لَيْتَ بِي سَعِدْتُ لِأَجِبْتُ الدَّاحِي دَخِنَ احْتَمَىٰ مِنْ أِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ تَوْفِقْ قَالَ بَلَىٰ وَكَأَنِّي لَبِيْطٌ مَدِينٌ

قَلْبِي مَثَلٌ خَفِيْفٌ اِخْتَلَفَ لَفْظِي هِيَ - ان عائشة ربه قالت له وهو سألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيساس الرسل قلوت أنزلوا أمكن بوا قالت عائشة كذا بوا قلت فقد استيقنوا ان قومهم كذا بوهم فما هو بالنظر قالت اجل نعمرى لقد استيقنوا بذا لك نقلت لها وضحى اللهم وان كذا بوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذه الآية قالت هم اتباع الرسل لان من المعاد بربهم وصد قوهم فقال صلبيهم انزلوا راسخا عنهم التصريح حتى اذا استيساس الرسل من كذا بهم من قومهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذا بوهم جاءهم نصي الله عن ذلك روفي روايته نقلت

وَهُضَّتِ الْبُطْحَةُ مَثَلٌ مُخْتَلَفٌ جَمَلُونَ كِي تَرْبِيَةٍ وَهِيَ نَيْسٌ أَوْ خَفِيْفٌ سَا اِخْتَلَفَ لَفْظِي هِيَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْحًا لَعْنًا كَانَتْ

يَأْتِي إِلَىٰ رُكْنٍ مُتَدَانٍ وَدُوْلَتٌ فِي السَّبِينِ مَا لَيْتَ بِي سَعِدْتُ لِأَجِبْتُ الدَّاحِي دَخِنَ احْتَمَىٰ مِنْ أِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ إِذْ لَمْ تَوْفِقْ قَالَ بَلَىٰ وَكَأَنِّي لَبِيْطٌ مَدِينٌ

عنه
بیاں کوئی نہایت
نہیں
مطلوبہ کوئی
قدرا اختلاف لفظی
سے بیان کیا ہے
ان قریشیوں نے
ابطوا عن المنجہ
صلی اللہ علیہ وسلم
بالاسلام قال
اللهم اکتفیہم
یسعدہم
فاصلتہم سنۃ
حضرت کل شی
حق اکابر العظام
حتى جعل الرجل
ینظر الی السماء
فیری بنیہ وبنیہا
مثل الدخان
قال اللہ فارقب
یوم تأتي السماء
بدخان مبین
قال اللہ انما کاشفوا
العذاب قليلا
انکم عادون
افکشف عنهم
العذاب یوم
القیامۃ یعنی
قیامت کا عذاب
تو اس طرح ملے
کانیں تو مراد ہیں
دنیا کا عذاب
وقضی اللعنان

قِيلَ لَعْقِيبُ يُقَالُ عَقِبْتُ فِي الشَّرِّ إِحْمالٌ لَعْقُوبَةٌ كَبَّاسُطٌ كَفَيْهِ رَأَى لَمَاءَ لَعْقِيبٍ

عقيب کا لفظ ہے کیا جاتا ہے عقبیت فی الشرہ میں اس کے نشان قدم کے چھپے چلے اور محال (۱۳) غلاب ہے کببساط کفیفہ الی لماء (۱۴) تاکہ

عَلَى لَمَاءٍ رَأَيْتُ مِنْ رَبِّ يَرِيءُ أَوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ الْمَتَاعُ مَا تَمَتَّعَتْ بِهِ جَفَاءً أَجْفَاتٍ

پانی سے راہبیا (۱۴) ربی بریوس ہے اور متاع زید (۱۴) متاع وہ ہے جس سے تو فائدہ اٹھائے جفا (۱۴) اجفأت القلا

الْقَدْرُ إِذَا عَكَتْ فَعَلَاهَا الزَّيْدُ ثُمَّ تَسْتَكِنُ فَيَذْهَبُ الزَّيْدُ بِهَا مَدْفَعَةً فَكَذَلِكَ

جب ہانڈی جوش مائے اور جھاگ اوپر آجائے پھر وہ بیٹھ جائے اور جھاگ کوئی نفع پہنچانے بغیر چلا جائے سو اسی طرح حق باطل

يَمِيلُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ لِهَذَا الْفِرَاشِ يَدْرُونَ يَدْفَعُونَ دَرَأَتَهُ دَفَعَتْهُ سَلَامٌ

سے جدا کیا جاتا ہے مہاد (۱۸) چھوٹا ہے یدرون (۲۲) دور کرتے ہیں درأتہ میں نے اسے دور کیا سلام علیکم

عَلَيْكُمْ أَمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ تَوْبَتِي أَفَلَمْ يَبْأَسْ لَمْ يَتَبَيَّنْ قَارِعَةٌ

(۲۴) زرفشتے کہیں گے سلام علیکم والیہ متاب (۲۴) میری توبہ ہے افلم یبأس (۲۴) واقع ہوا قارعتہ (۲۴)

دَاهِيَةٌ فَا مَلَيْتُ أَطْلُتْ مِنَ الْبَلِيِّ وَالْمَلَاوِدُ وَفِيهَا مَلَبَةٌ يُقَالُ لِلْوَأْسِ الطَّوِيلِ

صہبت فاملیت (۲۴) میں نے ڈھیل دی ملی اور ملاوۃ سے ہے اور اسی سے ملہا (۲۴) ہے اور میں میں سے کشادہ

مِنَ الْأَرْضِ مَلَى مِنَ الْأَرْضِ شَقٌّ أَشَدُّ مِنْ الْمَشَقَّةِ مَعْقِبٌ مَعْرِبٌ وَقَالَ لِحَاجِهِ

اور بے قطعہ کہتے ہیں ملی من الارض اشق (۱۴) بہت سخت رہے ام تقفیل مشقہ سے ہے معقب (۲۴) بدلنے والا اور

مُتَمَِّرَاتٌ وَرَأَتْ حَبِيبَهَا وَخَيْبَتِهَا السَّبَاخُ صُنُونٌ الْفُخْتَانِ أَوْ الْكُرْفِ فِي أَصْلِ وَاحِدٍ

مجاہد نے کہا متماورات (۲۴) کچھ عمرہ (قطع) اور کچھ ناقص صنون (۲۴) دو چھوڑ کرے ورحمت یا زیادہ بن کی جڑ ایک ہو

وَغَيْرِ صُنُونٍ وَحَدَّهَا بِمَاءٍ وَاحِدٍ كَصَارِ الْجَبْرِ بَنِي آدَمَ وَخَيْبَتُهُمْ أَبُوهُمْ وَاحِدٌ

دغیر صنون (۲۴) جو اکیلا ہو بے ماد واحد (۲۴) جیسے بنی آدم میں سے نیک اور بد ہوتے ہیں (حالاکہ ان کا باپ ایک ہے

السَّوَابُ الثَّقَالُ كَذَا فِيهِ الْمَاءُ كَبَّاسُطٌ كَفَيْهِ يَدْعُو الْمَاءَ بِلِسَانِهِ وَيَشَارُ إِلَيْهِ

سوا ب (ثقال (۱۴) وہ ربا دل ہے جس میں پانی ہو کببساط کفیفہ (۱۴) اپنی زبان سے پانی پانی پکارتا ہے اور اپنے ہاتھ

بِيَدِهِ فَلَا يَأْتِيهِ أَبَدًا سَأَلْتُ أَوْ دِيَّةً بِقَدْرِهَا تَمَلُّ الْبَطْنُ وَإِذَا زَبَدًا زَبَدًا زَبَدًا

سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے پاس پانی کبھی نہیں آئیگا سالت اودیۃ بقدرہا تملل البطن (۱۴) دادی کے پیچے کو پھر تیا جو زیل

السَّيْلِ خَبَثٌ الْحَدِيدُ وَالْحَلِيَّةُ رَأَى أَبَابُ قَوْلِهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى

۱۱
ان لفظ میں ہیں
ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
قال معاذ بن جبل
نفس لا يعلمها
الا الله ولا يعلم
ما في غير الا
الله ولا يعلمها
تفضل الارحام
الا الله ولا يعلم
متى ياتي لسطر
احد الا الله
ولا تدري
نفس باء
ارض شمت
ولا يعلم متى
تقوم الساعة
الا الله

وَمَا تَعْيِضُ الْأَرْحَامُ غَيْضٌ نَقِصٌ (م- ۲۳۴۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر- ۵۸۶)

میں لیتی ہے اور جیسے رحم تکمیل کو نہیں پہنچانے غعیض رھو۔ (۲۳۴۷) کم کیا گیا دیکھو حدیث ۵۸۶

سورة ابراهيم

سورة ابراهيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشر ہے انتہا رحم دل سے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَقَالَ لِمَ أَجَاهِدُ لِمَا لَا يَكْفُرُ لِي وَلَا يَنْصُرُنِي اللَّهُ أَلَمْ أُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ إِنَّهُ يَنْقَضُ الْمَوَاضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَذْخِرُ الْبَاطِلَ

ابن عباس نے کہا ہاؤد (۷) بلا نیولا اور مجاہد نے کہا صدیق (۱۶) پیچہ اور خون ہے اور ابن عیینہ نے کہا اذکرہ انعمۃ اللہ

نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيَا دِي اللَّهِ وَعِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ وَقَالَ لِمَ أَجَاهِدُ لِمَا لَا يَكْفُرُ لِي وَلَا يَنْصُرُنِي اللَّهُ أَلَمْ أُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ إِنَّهُ يَنْقَضُ الْمَوَاضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَذْخِرُ الْبَاطِلَ

علیکم (۱۶) اللہ کی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اور اس کے واقعات اور مجاہد نے کہا من کل ما سألتموه (۱۶) (۳)

رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فَبِغْوْنَهَا عِوَجًا يُلْطَمُونَ لَهَا عِوَجًا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ

جس کی طرف تھے رغبت کی بیغونہا عوجاً (۳۱) اس کیلئے بڑھا ہین تماشا کرتے ہیں (۳۰) اور تاذن ربکم (۳۰) تم کو خبردار کیا جسے

إِذْ كُنْتُمْ رُذُلًا وَآيَاتِهِمْ فِي آفَاقِهِمْ (۳۱) یہ ایک مثال ہے (یعنی اس سے بڑے جسے حکم انکود یا گیا تھا، معانی (۱۰))

حَيْثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ قُدَامِهِ كَمَا تَبِعَا وَاجِدْهَا تَابِعٌ مِثْلُ

وہ جگہ جہاں اللہ اسے اپنے سامنے رکھ کرے گا (من وراءہ (۳۱) اس کے سامنے لکہ تبا (۳۱) اس کا واحد تابع ہے جسے

غَيْبٍ وَغَائِبٍ بِمَصْرٍ خَلِمٌ اسْتَصْرَخْتَنِي سَتَعَاثِنِي يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الظُّرَاهِ

غیب اور غائب (بمصر خلم (۳۲) تمہارا رخ باندھنے والا) استصخرختنی میری فریاد سنی يستصخره صواخر (۳۲) اور غائب

وَلَا خِلَالَ مَصْدَرِهَا لَتَنَّهُ خِلَالًا وَيُجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خَلَّةٍ وَخِلَالٍ اجْتَدتْ

سے ہے ولا خلال (۳۱) خاللہ خلال کا مصدر ہے اور یہی ہو سکتا ہے خلة کی جمع ہو اور خلال (وہ ستیاں) اجتتت

اسْتَوْصَلتْ (۱) بَابُ قَوْلِهِ كَشَيْبَةَ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ

(۳۶) ہر سے اٹھا دیا گیا (باب اللہ تعالیٰ کا قول کشفہ الخ (۳۶) پاکیزہ و رحمت کی طرح کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور شعلے آسمان میں

تَوَدَّتْ أَكْثَرُهَا كُلَّ حِينٍ (م-۱) ۳۳ ۳۳ ۳۳ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مكرر-۵۵) بَابُ قَوْلِهِ

یہی ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے (بکھیر حدیث ۵۵) بَابُ اللہ تعالیٰ کا قول

يَنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (م-۲) ۳۳ ۳۳ ۳۳ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مكرر-۵۶)

نبئت الخ (۲) اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقینی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے (بکھیر حدیث ۵۶)

(۳) بَابُ قَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَكَرُوا عِدَّةَ اللَّهِ تُفَرِّقُ أَلَمْ تَعْلَمْ قَوْلَهُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول الم ترا الخ (۳) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی فکر نہ کی یہ (الم ترا کے مستصحب)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا الْبُؤَارَ الْهَلَاكُ بَادِي بُؤَرًا قَوْمًا بَادِي لِيَكِينِ

کی تو نہیں جانتا جیسے الم تریکین (الغین-۱) الم ترا لی الذین خرجوا البؤر (۳) بادی بؤر (۳) قوما بؤرا (الغین-۱)

(م-۳) ۳۳ ۳۳ ۳۳ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مكرر-۴۵۲)

(دیکھو حدیث ۴۵۲)

۱۵- سُورَةُ الْحَجْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۵- سورة الحج (۱۵) اللہ تعالیٰ کے نام سے (بار بار رحم کرے گا) کے نام سے

وَقَالَ فُجِّرْ هَذَا عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ أَحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ يَا مَعْ مَعْ

اور مجھ دے گا (صراط علی مستقیم (۳۱) حق اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اس کا راستہ اللہ ہے (یا مَعْ مَعْ مبین

مگر کچھ اختلافات
لفظی سے اور
زیادہ تفصیل سے
دو برابر ہے۔
قال کنا عند
رسول اللہ صلعم
فقال اخبرونی
بشجرة تشبه اد
کالمحل المسلم
لا یخات ودرقها
راس کے پتے رتے
نہیں) ولا ولا فلا
رہی نہیں ہوتی
بھی نہیں یہ بھی
نہیں) توئی اکلمنا
مل حدیث قال بن
عمر فوقع فی نفسی
انہا الخلة ورایت
ابا بکر وشدرا
یتکلمان فکرت
ان انکم فلما لم
یتولوا شیئا قال
رسول اللہ صلعم
ھی الخلة فلما قمت
قلت لعمری یا ابتاہ
والہ لقد کان
وعم فی نفسہ انہا
الخلة ورایت ما
منعک ان تکلم
قال لم ادکم
مکتمون فکرت
ان انکم وادقول
شیئا قال عمران
نکن قلتها احب
الی من کن اولکنا
لم یانفدوا من
ان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القدر یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانك قوله یشرت الله الذین امنوا
بالقول الثابت فی الحياة الدنیا و فی الآخرة۔ مثل یان صرف حدیث کا ابتدائی جملہ یا یہی۔ الم ترا لی الذین بن لو انعمت اللہ لفران ہم نغارا هل مکة۔

۱۔ اس روایت کے متعلق صراحت سے بیان نہیں کیا کہ ابو ہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا کیسے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پھلتے پھلے کھجور کی پتی کا احتمال کی صورت ہے جس وجہ سے ایسے لفظ اختیار کئے۔ یہاں شروع یوں کیا ہے۔ اذاً قضی اللہ الامر فی السماء جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے حکم پر عاجزی سے اپنے پر اٹھائے لگتے ہیں جیسے زمین پر عبادت پر تھک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ادروں نے کہا صفوان (نام کی زبردستی ہے) اس فرشتوں تک حکم پہنچاتا ہے جب تک وہ ان گھراٹے اور ہوجاتی ہے کہتے ہیں کیا ہے جو تمہارے رہنے کہا اس سے جس نے پوچھا تھا کہتے ہیں تو اور وہ (خدا) بلند اور بڑا ہے پس اسے چھب کر سننے والے کی روایت میں یہ صراحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجے کیسے کلام کرتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اول تو وحی اہلی کو سن کر بخوبی ایک کھجور کے ساتھ کرنا چھوٹا لاسکتا ہے۔ وہ وحی اہلی کی کیفیت دوسری اجاڑیٹ سے اور طرح پر معلوم ہوتی ہے تو یہ بائبل شاہد

لِلنَّاطِرِينَ سَكْرَتٍ عَشِيَّةٍ بَرُوجًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ الْقَمَرِ لَوَاقِحَ مَلَاحِمَ مَلْفَحَةٍ
 دیکھئے اور کہنے سکر ت (۱۵) دُھائی گئیں بروج اور چاند کی منزلیں (۲۲) بھینے لواقح ملاحم کر توالی
 حَمَلُ جَمَاعَةٍ سَمَاءٍ وَهُوَ الظِّينِ المَتَغَايِرِ وَالْمَسْنُونِ المَصْبُوبِ تَوَجَّلَ تَخَفًا اِزْدَادًا
 حلقہ ہزار (۲۲) سماء کی جمع ہے اور وہ ہر دو ہوا کر تے اور مسنون (۲۶) ڈال گیا تو جمل (۵۳) ڈرڈا (۲۲) ایزد
 اِخْرَابًا مَامًا مُبِينًا اَلْاِمَامَ كُلِّ مَا اَشْتَمَتَ دَاهْتَدَيْتَ بِهٖ الصَّبِيحَةَ اَلْهَلَكَةَ
 آخر لہا امام مبین (۴۹) امام ہر وہ شخص ہے جس کی توبہ ہر وہی کرے اور اس سے راہ پائے الصبحہ (۴۳) ہلاکت
 رَا بَابٌ قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ (۱۹۳۱)
 باب اللہ تعالیٰ کا قول الا من استرقى السمع الخ (۱۹) ہاں جو چھب کر کچھ سن سے تو اسے روشن کرنا اور انکار لانا ہے
 عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُهُ بِهٖ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَى اللهُ اَمْرًا
 ابو ہریرہ سے روایت ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے فرمایا کہ جب اللہ کسی امر کا فیصلہ آسمان میں
 فِي السَّمَاءِ صُرِبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاجْنِحَتِهَا خُضَعًا لِقَوْلِهِ كَالسَّنْسَلَةِ عَلَى صَفْوَانَ
 کرتا ہے تو فرشتے اس کے حکم پر عاجزی سے اپنے پر اٹھائے لگتے ہیں جیسے زمین پر عبادت پر تھک رہے ہیں
 قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَاذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا
 علی رضوی نے کہا اس کے علاوہ ادروں نے کہا صفوان (نام کی زبردستی ہے) اس فرشتوں تک حکم پہنچاتا ہے جب تک وہ ان گھراٹے
 مَا اذْا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الَّذِي قَالَ حَقٌّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَعَهَا مَسْرُوقًا
 اور ہوجاتی ہے کہتے ہیں کیا ہے جو تمہارے رہنے کہا اس سے جس نے پوچھا تھا کہتے ہیں تو اور وہ (خدا) بلند اور بڑا ہے پس اسے چھب کر سننے والے
 السَّمْعِ وَمَسْرُوقًا السَّمْعُ هَكَذَا اَوْ اَحَدًا فَوْقَ الْاُخْرَى وَصَفَّ سَفِينًا مَبْدُوءًا فَوَجَّحَ
 سن لیتے ہیں اور چھب کر سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے منہ پر ہوتے ہیں اور سفیان نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے
 بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْهِ اَلَيْمَنَ نَصَبَهَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرَبَّمَا اَدْرَكَ الشَّهَابُ
 دلہنے ہاتھ کی انگلیاں کھول دیں اور بعض کو بعض کے اوپر کر دیا پس بھی شعلہ سننے والے کو پہنچ جاتا ہے
 الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِي بِهَا اِلَى صَاحِبِهِ فَيُرْقَا وَرَبَّمَا لَمْ يَدْرِكْهُ حَتَّى
 اس سے پہلے کہ وہ بات کو اپنے اچھے والے یا ساتھی تک پہنچائے پس شعلہ اسکو جلا دیتا ہے اور بھی شعلہ سننے والے تک
 يَرْمِي بِهَا اِلَى الَّذِي يَلِيهِ اِلَى الَّذِي هُوَ اسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يَلْقَوْهَا اِلَى
 پہنچے سے پہلے ہی وہ اس بات کو اسکی طرف چھینکے دیتا ہے جو اس کے قریب ہے یعنی اس کی طرف جو اس کے نیچے ہے یہاں تک کہ وہ اس
 اِلَى اَرْضٍ رَبَّمَا قَالَ سَفِينٌ حَتَّى تَلْتَقِي اِلَى اَرْضٍ فَتَلْقَى عَلَى فِيمَ السَّاحِرِ
 بات کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں اور بھی سفیان رضوی نے رملیقون کی جگہ کہا حَتَّى تَلْتَقِي اِلَى اَرْضٍ رہا تھا کہ وہ بات زمین تک پہنچ
 فَيَكْذِبُ مَعَهَا مَائَةٌ لَذِي بَرٍّ فَيَصْدَقُ فَيَقُولُونَ اَلَمْ يُخَيِّرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا
 جاتی ہے (۱) پہنچے ہاں تک کہ وہ زمین میں ڈالی جاتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ سوچوٹ ملا کر بھوٹ بولتا ہے اور گواہ کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس

اسے ہم نے نقل کیا ہے اور اس حدیث سے بھی زیادہ روشنی نہیں پڑتی یہ ہم نہیں سکتا کہ شیطاں کو اس قدر طاقت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنا چاہے تو وہ انکے کے پیچھے سے پہلے پہلے بھاگ نکلیں۔ خدا کے بقا تو ان پر بڑے زبردست ہیں اور کوئی چیز ان سے باہر نہیں رہ سکتی یا ہمشیر الجن والانس ان استطعم ان تنغذوا من اقطار السنون والارض لغزوة لا تنغذون الا بسطان والرحمن - ۱۳۳ جن ہوں یا انسان وہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے اس لئے فرمایا کہ اگر نکل سکتے ہوتے تو ان کو دکھاؤ نہ نکل تو ہی سکتے ہو کہ تم کو خدا پر غلبہ حاصل ہوا اور یہ ہے نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ بخوبی کی بھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے سوائے سوائے نکل چھو باتوں میں سے ایک کھجور کی پتی تو یہ کوئی بیحد امر نہیں +

تھا۔ قدر کے بعض معاملات کے متعلق ہوں عام روحانی میں وہ امور کس طرح ہوتے ہیں انکا سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور اس حدیث سے بھی زیادہ روشنی نہیں پڑتی یہ ہم نہیں سکتا کہ شیطاں کو اس قدر طاقت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرنا چاہے تو وہ انکے کے پیچھے سے پہلے پہلے بھاگ نکلیں۔ خدا کے بقا تو ان پر بڑے زبردست ہیں اور کوئی چیز ان سے باہر نہیں رہ سکتی یا ہمشیر الجن والانس ان استطعم ان تنغذوا من اقطار السنون والارض لغزوة لا تنغذون الا بسطان والرحمن - ۱۳۳ جن ہوں یا انسان وہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے اس لئے فرمایا کہ اگر نکل سکتے ہوتے تو ان کو دکھاؤ نہ نکل تو ہی سکتے ہو کہ تم کو خدا پر غلبہ حاصل ہوا اور یہ ہے نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ بخوبی کی بھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے سوائے سوائے نکل چھو باتوں میں سے ایک کھجور کی پتی تو یہ کوئی بیحد امر نہیں +

يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَا هَذَا حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعْتُ مِنَ السَّمَاءِ (وَفِي رَوَايَةٍ)

کہ ایسا یا ہوگا اور اسے ہم نے سچ پایا یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے بھیجی گئی تھی اور ایک روایت میں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ أَقْضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَزَادَ الْكَاهِنُ رَوْفِي رَوَايَةً إِذْ أَقْضَى

ابو ہریرہ سے ہے اذ قضی اللہ الامر اور اس کے بعد کاهن نے زیادہ کیا اور ایک روایت میں ہے اذ قضی

اللَّهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسَفِينٍ أَنْتَ سَمِعْتَ كَمَا وَقَالَ سَمِعْتُ

اللہ الامر اور کہا علی فم الساحر میں دعی بن عبد اللہ نے سفیان سے کہا آپ نے عمر کو سنا کہ اس نے کہا کہ میں نے

عِلْمِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسَفِينٍ إِنَّ نِسَاءً نَأَدُّوهُ عِنْدَكَ

علم سے سنا اس نے کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہا میں نے دعی بن عبد اللہ نے سفیان سے کہا ایک آدمی تم سے روایت کرتا ہے

عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عِلْمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُرْفَعُهُ اللَّهُ فَرَأْسُهُ قَالَ سَفِينٌ هَكَذَا

عمر سے علم سے ابو ہریرہ سے اور اس کو مرفوع کرتے ہیں کہ انہوں نے کوثر کو پڑھا ہے سفیان نے کہا عمر نے ایسا

قَرَأَ عُمَرُ وَفَلَا أَدْرِي سَمِعْتُهُ هَكَذَا أَمْ لَا قَالَ سَفِينٌ وَهِيَ قَرَأَتْ (ر۲)

پڑھا سو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا ہی سنا یا نہیں سفیان نے کہا یہ ہماری قرأت ہے

بَابُ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (ر۳) - ۳۳۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

باب اشرفی کا قول و کذا کذب اور یہ تک جرو ابوں نے رسولوں کو جھٹلایا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مكرر - ۳۰۳) (۳۰۳) بَابُ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ كَذَّبَ أَصْحَابُ

عبد اللہ بن عمر (مکرر - ۳۰۳) (۳۰۳) باب اشرفی کا قول و کذا کذب اور یہ تک جرو ابوں نے رسولوں کو جھٹلایا

الْمَثَلِيِّ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ (ر۴) - ۳۳۳ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (مكرر - ۱۸۴۲)

باب اشرفی کا قول و کذا کذب اور یہ تک جرو ابوں نے رسولوں کو جھٹلایا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ الْقُرْآنِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن

بمعنی بجائے فرعون قلوبہم رانہن - ۸۷ کے فرعون قلوبہم پڑھا یعنی جب قرأت ہو جاتی ہے قرآن میں صرف ابتدا میں یہ قرآن ہے ان رسول اللہ صلعم قال لا صحابہ الحجر یعنی اپنے جو کچھ حدیث میں فرمایا وہ اصحاب حجر کے متعلق تھا۔ غیبت لغوی اختلاف و دہرایا ہے عربی النبی صلا اللہ علیہ وسلم وانا اصلہ ذہانی فلم انا حصہ صلوتی ثم آیت فقال فاعتكف ان اتاني فقلت كنت اصله فقال الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجبوا لله ولسر رسول ثم قال الا اعلمك اعلم سورة في القرآن قبل ان اخرج من المسجد فذهب اليه صل الله ليجز من المسجد فنكرته فقال اعلم

بمعنی بجائے فرعون قلوبہم رانہن - ۸۷ کے فرعون قلوبہم پڑھا یعنی جب قرأت ہو جاتی ہے قرآن میں صرف ابتدا میں یہ قرآن ہے ان رسول اللہ صلعم قال لا صحابہ الحجر یعنی اپنے جو کچھ حدیث میں فرمایا وہ اصحاب حجر کے متعلق تھا۔ غیبت لغوی اختلاف و دہرایا ہے عربی النبی صلا اللہ علیہ وسلم وانا اصلہ ذہانی فلم انا حصہ صلوتی ثم آیت فقال فاعتكف ان اتاني فقلت كنت اصله فقال الم يقل الله يا ايها الذين امنوا استجبوا لله ولسر رسول ثم قال الا اعلمك اعلم سورة في القرآن قبل ان اخرج من المسجد فذهب اليه صل الله ليجز من المسجد فنكرته فقال اعلم

۱۴۔ سُورَةُ النَّحْلِ

سورہ النحل

۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

استرے انتارحم والے

بار بار

رحم کر نوا کے نام سے

رُوحُ الْقُدُسِ جِئْتُكَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِیْنُ فَضِیْقٌ یَّقَالُ أَمْضِیْقٌ وَ

روح القدس (۱۱۳) جبرئیل میں نازل بہ الروح الامین والشعراء (۱۹۳) میں جبرئیل ہی مراد ہیں، فی ضیق (۲۷) کہ پاتا ہے

ضِیْقٌ مِّثْلُ هَیْرٍ وَهَیْرٌ وَكَلْبٌ وَكَلْبٌ وَكَلْبٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي

امرضیق اورضیق جیسے ہین اورہین اورکین اورکین اورمیت اورمیت اورابن عباس نے کہا فی

تَقْلِبُهُمْ اِخْتَلَفَهُمْ وَقَالَ جَاهِدٌ تَبِيدُ تَلْقَا مَفْرُطُونَ مَتَسَيُّونَ وَقَالَ

تقلبہم (۱۶۶) ان کے آنے جانے میں اورمجاہد نے کہا تبید (۱۵) اٹ جلتے مفرطون (۶۲) بھلائے گئے اور اورول

غَيْرُهُ فَاذْا قرأت القرآن فاستعدوا لہذا ہذا مقدم و مؤخر و ذاک آت

نے کہا فاذا قرأت القرآن فاستعدوا لہذا (۹) کہ یہاں تقدیم و تاخر ہے اور یہ اس کے کہ

الاستعاذۃ قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله وقال ابن عباس في

اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہے اور اس کا مطلب اللہ کی مضبوط پکڑنا ہے اور ابن عباس نے کہا

تَسْبِيْمُونَ تَرْعُونَ شَاكِرْتُمْ نَاجِحْتُمْ قَصِدُ السَّبِيلِ الْبَيَانُ الْذِّفُّ مَا اسْتَدْفَاتُ

تسبیون (۱۶) جرات ہے شاکرتہ ربی امراہ (۱۰۲) ہے طریق پر قصد السبیل (۹) یعنی اس کا بیان کرنا ذف (۵) وہ ہے جس سے

تَرْجُمُونَ بِالْعَبَثِيِّ سَمِعُ حُونَ بِالْعَدَا اذْ بِشِقِّ يَعْنِي الْمَشَقَّةَ عَلٰى مَخَوف

ترجمی (۱۶) ہے ترحون (۶) شام کو رات ہے سماع حون (۶) سمجھنے کے لیے ہے بشفق (۲) مشقت سے مخوف (۲) خوف (۲)

تَنْقِصُ الْأَنْعَامِ اَجِبْرَةٌ رَهْمِي تَوْنَشَا شَدَا لَرَا وَكَذٰلِكَ النِّعْمُ بِالْأَنْعَامِ

الانعام (۱۶۶) انعام ذکر مؤنث دونوں کے لئے ہے اور اس طرح نعم ہے

جَمَاعَةُ النَّعْمِ سَرَابِيلٌ قَمِيصٌ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ

اور انعام نعم کی جمع ہے سرابیل (۱۸) سرابیل (۱۸) قمیں جو تھوگرے سے بچاتی ہیں اور سرابیل (۲۱) جو تھوگرے سے بچاتی ہیں

فَدَّرَهَا الرُّوحُ وَدَخَلَ بَيْنَكُمْ كُلِّ شَيْءٍ لَمْ يَصْحَبْ فَهُوَ دَخَلَ قَالَ ابْنُ

اس سرابیل سے زر میں مراد ہیں دخلا بینکم (۲) ہر وہ بات جو نا جا کر ہے اس کو دخل کہتے ہیں ابن عباس نے

عَبَّاسٍ حَفْدَةٌ مَنْ وَكَلَّ الرَّجُلُ الشُّكْرَ مَا حُرِّمَ مِنْ شَرَّتْهَا وَالرِّزْقُ

کہا حفدہ (۲) آدمی کی اولاد ہے شکر (۱۶) وہ جو اس کے پہلے سے حرام کیا گیا اور رزق حسن

الْحَسَنُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ أَنَّكَافَاهِي

(۶) وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور ابن عیینہ نے صدقہ سے روایت کی انکا تافا ہی (۶۲) زکوٰۃ

حَرْقَاءٌ كَانَتْ اِذَا اَبْرَمَتْ غَزَلُهَا نَقَضَتْهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْأُمَّةُ مَعَالِمٌ

حرقا (۲) یہ خرقا نام ایک عورت تھی جب اپنا سوت کا تلیبی تو اسے توڑ دیتی اور ابن مسعود نے کہا امۃ معالیم (۶۲) نیکی کا علم

الْخَيْرِ وَالْقَائِدُ الْمَطِيحُ رَأى بَابٌ فَوَلَّاهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرَى دَرَامِي رَدَلٍ مَعْبُورِ

ہے اور قائد (۱۲) نسرہ ماہر وار باب اللہ تعالیٰ کا قول و منکر الخادم (۶) اور میں سے کچھ ایسے ہیں جنکو نمانت

(۵-۲۳۴۶) عَنْ أَبِي شَرِيحٍ (متكرر- ۱۳۰۰)

وہی حدیث ۱۳۰۰

۱۴
لفظوں میں کچھ
کمی بیشی ہے۔
ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم کان یدعو
اعوذ بک من
البحل والکسل
وارذل العمر
وعذاب القبر
وفتنۃ الدجال
وفتنۃ المحیا
والممات۔

۱۴

۱۰- سُورَةُ الْأَنْعَامِ

سورہ بنی اسرائیل

۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰۱

اللہ کے نام سے

بار بار رحم

کرمیوں کے نام سے

(۱۹۳۴) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ فِي بَيْتِ اسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرِيَدِ الْاَنْهَارِ

ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے بنی اسرائیل اور کھفت اور مرید کے معنی فرمایا کہ وہ ان ہوتے

مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلْكَ اُمَّةٍ قَالِ ابْنُ عَبَّاسٍ سَيُنْخَضُونَ الْاَنْهَارَ

میں سے ہیں جو پہلے پہلے نکریں، نازل ہوئیں اور یہ پوری پرفانی یا وہی بنی اسرائیل کے کہا فسیخضون (۱۵) ہلائیں گے

وَقَالَ غَيْرُهُ نَغَضَتْ سُنَّتَكَ اَيْ خَرَكْتَ وَفَضَيْتَا اِلَى بَيْتِ اسْرَائِيلَ اَخْبَرَنَا هُمُ

اور اوروں نے کہا ہم نے بغضت سنک سے ہے تیرا ذات بل گیا وفضینا الی بنی اسرائیل (۱۲) ہم نے ان کو خوری

اَنْهَمُ سَيَفْسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلٰی وُجُوهِهِمْ وَقَضَى رَبُّكَ اَمْرًا رُبُّكَ وَفِيهَا الْحُكْمُ

کہ وہ فاسد کریں گے اور قضا کے معنی ہیں قضا ربک (۱۳) تیرے رب نے حکم دیا اور اس سے نیک کرنا

اِنَّ رَبَّكَ لَيَقْضِيْ بَيْنَهُمْ وَمِنَهُ اَخْتَلَفْتُمْ فَقَضَاهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ لِّعِبَادٍ لِّمَنْ لَمْ يَرْحَمْ

بھی ہے جیسے ان ربک لقیض بینہم (۱۴) اور اس میں خلق پیدا کرنا، جیسے قضا من سبع سموات رحم (۱۲) نفاہ (۶) وہ

مَعَهُ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولٰٓئِكَ اَمْ اَعْلَوْا اَحْصِيْرًا اَحْصِيَ اَحَقَّ وَجِبْ مَيْسُورًا لِّبَنِي

جوڑنے کے لئے اس کے ساتھ نکلیں، لیتا تذکار، جس پر وہ غالب ہوں سے تیکڑوں حصیہ (۸) تیار، جبل حق (۱۲) ثابت ہوا میسور

خَطَا اَتَمًا وَهُوَ اَسْمٌ مِنْ خَطِيْئَةٍ وَاَخْطَا مَقْتُوْحًا مُّصَدَّرًا مِنْ اَلَا تَنْهَوْنَ عَنْ

(۱۲) تم خطا (۱۳) گناہ اور وہ اسم مصدر ہے خطرت سے اور خطا کے ساتھ اس کا مصدر ہے (یعنی گناہ کریں گے خطرت

بِعَنْ اَخْطَا تَخْرُقُ تَقْطَعُ وَاَذْهَبُ نَجْوٰی مُّصَدَّرًا مِنْ نَّاجِيْتٍ فَوَضَّعْنَاهُمْ

کے معنی میں اخطات میں نے قصور کیا، تخرق (۱۴) لے کر کٹا واذہب نجوی مصدرا من ناجیت (۱۲) نجی میں ان کو مصدر کے

بِهَآءِ اَلْمَعْنٰى يَتَنَا جَوْنَ رَفًا تَا حَطًا مَا وَاَسْتَفْزِرُ اَسْتَجْتَبْتُ بِحَيْلِكَ الْفُرْسَانَ

لفظ سے بیان کیا اور معنی یہ ہیں وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں رفانا (۱۴) ریزہ ریزہ استغفر (۱۲) خفیف کرے بحیلتک (۱۲) (۶) (۱۲)

وَالرَّجُلُ الرَّجَالَةَ وَاَجْدَهَا رَا جِلًّا مِّثْلَ صَاحِبِ صَحِيْحٍ تَا جِرًا وَتَجْرًا صَابًا

سوار اور رجل اور رجالة (۱۲) ان کا واحد رجل ہے صیغہ صاحب اور صحبا اور صیغہ تاجر اور تجر (۱۲) صاحب (۱۲)

الرِّبِيْحِ الْعَاصِفُ وَالْحَا صِبُ اَيْضًا مَا تَرَفَّى بِهٖ الرِّبِيْحُ وَمِنَهٗ حَصَبٌ مِّثْلُ

تمہ ہوا اور حاصب وہ بھی ہے جسے ہوا ٹکا کر لائے اور اس سے حصب ہوا (۱۲) حصب (۱۲) حصب (۱۲)

يُرْفَى بِهٖ فِي جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصْبُهَا وَيُقَالُ حَصَبٌ فِي الْاَرْضِ ذَهَبٌ وَالحَصْبُ

(۱۲) سے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کا ایذا ہے اور کہا جاتا ہے حصب فی الارض زمین میں، چٹانیاں اور حصب

مُسْتَقٌّ مِّنْ اَحْصَابِ وَاَلْحَجَارَةُ تَادَةٌ مَّرَّةٌ وَجَمَاعَةٌ تَبِيْرَةٌ وَتَارَاتُ الْاَحْبَانِ

حصبا سے نکلا ہے جس کے معنی میں سنگیزے اور تھمر تادہ (۱۴) ایک مرتبہ اور اس کی جمع تیرق اور تارات ہے (۱۲) (۱۲)

لَا سَتَا صَلَّيْهُمْ يُقَالُ حَنْتَكَ فَلَا تَا عِنْدَ فَلَانٍ مِّنْ عِلْمِ اسْتَقْصَاةٍ طَا بَرُوْحًا

جزہ سے کھینچنے والوں کا کہا جاتا ہے احنتک فلان ما عند فلان من علم استقصا طابروحا (۱۲) اس کا مصدر (۱۲)

قَالَ بَرَكِيْتَا بِسْ كُلِّ سُلْطَانٍ فِي لِقَاؤِ اَنْ فَهُوَ حِجَاةٌ وَّلِيٌّ مِّنَ الدَّلٰلِ لَمْ يَخْلَفْ اَحَدًا

ابن عباس نے کہا سلطان (کا لفظ) جہاں بھی قرآن میں ہے وہ دلیل ہے دلی من الدال (۱۱) اس کے مرکز دلی کی وجہ سے

۱۰۱

۱۱

نمایہ میں ہے۔ اراد یا لعناق الاول السور التي انزلت او لا ہمکة یعنی عتاق الاول سے مراد وہ سورتیں ہیں جو شروع شروع میں مکہ میں نازل ہوئیں یعنی ابتدائی سورتیں کی ہیں

۱۰۱

(م- ۳۳۴۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۵۲۹) (م- ۲۳۴۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۵۲۹

عَبْدِ اللَّهِ (متکرر- ۱۷۲۱) قَاصِفًا رِيحٍ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَزْمًا وَ أَكْرَمًا وَاحِدًا

دیکھو حدیث ۱۷۲۱ قاصفاً (۶۹) ہوا جو ہر ایک چیز کو توڑتی ہو کونہارہ اور اکرمنا دونوں کے ایک ہی

ضَعَفَ الْحَيَاةَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضَعَفَ السَّمَاتِ عَذَابِ السَّمَاتِ خِلَافًا

دو اور خلفت کے ایک ہی معنی ہیں اور تالی (۴۳) دور ہوا شا کلنتہ (۴۸) پس طرف پر اور وہ مشکبہ سے نکلا ہے صہ فنار (۸۹) ہم

وَخَلَفَكَ سَوَاءٌ وَنَايَ تَبَاعَدَ شَا كَلْتَهُ نَاحِيَتَهُ وَهِيَ مِنْ شَكْلِهِ صَرَفْنَا وَجْهَنَا

سائے لائے قبیلہ (۹۲) تمھوں کے سائے اور ورو اور روانی کو، قابلہ کہا گیا ہے اس لئے کہ وہ معنی والی کے مقابل ہوئی

الْإِنْفَاقِ أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلِقَ وَنَفَقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ قَتُورًا مُتَقَرِّرًا لِلْأَذْقَانِ

ہے اور اس کے بچے کو بیتی خشیتہ، الإنفاق (۱۰۰) انفق الرجل نفسہ اور نفق الشيء ختم ہوئی متوار (۱۰۰) جیل للاذقان (۱۰۹)

مُجَمَّعًا لِلْحَيَمِينَ وَالْوَاحِدُ ذَنْقٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَوْذِرًا وَافْرًا تَبِعًا ثَابِرًا وَقَالَ

جہاں دونوں جبر سے جمع ہوتے ہیں اور اس کا واحد ذنق ہے اور مجاہد نے کہا موفور (۷۳) پورا تلبعا (۶۹) بدلیسنے والا اور ابن

أَبْنُ عَبَّاسٍ تَصِيدٌ أَخْبَتُ طِفْئْتُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تَبْدُرُكَ تَنْفِقُ فِي الْبَاطِلِ

عباس نے کہا مدوکار خبت (۹۷) بچھرنے اور ابن عباس نے کہا لا تبدر (۲۶) باطل پر خرچہ کرنا

أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رَزَقَ مُتَبَوِّرًا مَلْعُونًا لَا تَقْفُ لَا تَقْفُ لِمَا سَوَّاهُ تَبِعُوا بِيْرَجِي الْفَلَاحُ

ابتغاء رحمة (۳۸) روزی رکھی شرم متبورا (۱۰۲) لعنت کیا گیا رائد گیا لا تقف (۳۶) مت کرنا سوا (۵۹) قصدا بیزجی الفلاح

يُجْرِي لِفُكِّكَ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوَجْهِ رَأَى بَابٌ قَوْلُهُ وَرَأَى أَرْدَكَ أَنْ

یجرى لفقک کو چلاتا ہے یخرون للاذقان (۱۰۹) منہ کے بل دگرتے ہیں باب اللہ تعالیٰ کا قول و اذا الخ (۶۷) اور جب ہم

تَهْلِكَ قَرِيْبَةٌ أَمْرًا مَثْرَفِيهَا الْآيَةُ (۱۹۳۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لِنَقُولَ لِمَجِي

اروہ کرتے ہیں کسی سب کو ہلک کر دین تو اس کے اسودہ حال لوگوں کو حکم بھیجتے ہیں عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب کوئی

رَأَى الْكُرْمَ وَافِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمْرٌ بِنُفْلَانِ رَأَى بَابٌ قَوْلُهُ ذَرِيَّةٌ مِنْ حَمَلْنَا

بئید زیادہ ہو جاتا تھا تو ہم جاہلیت میں امر بنو فلان کہتے تھے بنو فلان زیادہ ہو گئے باب اللہ تعالیٰ کا قول ذریۃ الخ (۳۷) ان کی سلتین

مَعَ تَوْحُّجِ رَأَيْهِ كَانَ عَبْدًا اشْكَرًا (م- ۳۳۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۵۰۹)

ہم نے توح کے ساتھ سواریا بھیتا وہ مکر گدا رہتا تھا دیکھو حدیث ۱۵۰۹

۱۵۱۱

۱۵۱۲

۱۵۱۳

۱۵۱۴

۱۵۱۵

۱۵۱۶

۱۵۱۷

۱۵۱۸

۱۵۱۹

۱۵۲۰

۱۵۲۱

۱۵۲۲

۱۵۲۳

۱۵۲۴

۱۵۲۵

۱۵۲۶

۱۵۲۷

۱۵۲۸

۱۵۲۹

۱۵۳۰

۱۵۳۱

۱۵۳۲

۱۵۳۳

۱۵۳۴

۱۵۳۵

۱۵۳۶

۱۵۳۷

(۳) بَابُ قَوْلِهِ وَاتَّبَعُوا دَاوُدَ زَبُورًا م۔ ۱۳۵۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۳۲)

باب شترتالی کا قول و اتینا الم ۵۵ اور داؤد کو ہم نے زبور دیا
بَابُ قَوْلِهِ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونَهُ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ

باب شترتالی کا قول قل ادعوا الخ ۵۶ کو انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا لے (معبود) قرار دیتے ہو تو توہم سے تکلیف دور
الضُّرِّ وَعَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (۱۹۳۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَبِّهِمْ أَوْ سِيلَةَ قَالَ

کریکا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (اسے) بدل دیتے گا
عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے الی ربہم الوسیلة ۵۷ کا
كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنْ الْإِنِّ فَأَسْلَمَ الْإِنُّ وَنَمَسَكَ

انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے کہ وہ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پرستش کیا کرتے تھے تو جن اسلام لائے اور وہ لوگ
هُوَ كَأَبٍ بِرَبِّهِمْ (وَفِي رَوَايَةٍ) قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ رَبًّا

اپنے دین پر قانع رہے اور ایک روایت میں الی ربہم الوسیلة کی بجائے قل ادعوا الذین زعمتم رباً
قَوْلِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ الْأَيَّاتِ

اللہ تعالیٰ کا قول اولئک الخ ۵۷ وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں
خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں

بقیہ صفحہ ۱۱۱۲
ابو البشر خلقک
اللہ میں ہر دفعہ
فیک من روحہ
وامر الملائکۃ
فیحذ الک اشغف
لنا الی ربک الا
تتری الی ما نحن
فیہ الا تتری الی
ما قد بلغنا فیقول
ادم ان ربی قد
غضب الیوم غضباً
لم یغضب قبلہ

مثله ولن یغضب بعدہ مثله وانہ نما فی عن الشجرة تعصیته نفسی نفسی اذہوا الی غیری اذہوا الی نوح قیا تون نوحاً فیقولون یا نوح
انک انت اول الرسل الی اهل الارض وقد سماک اللہ عبداً اھل الارض اشغف لنا الی ربک الا تتری الی ما نحن فیہ فیقول ان ربی عزوجل قد غضب
الیوم غضباً لم یغضب قبلہ مثله ولن یغضب بعدہ مثله وانہ قد کانت لی دعوة ودعوتھا علی قومی نفسی نفسی اذہوا الی غیری اذہوا
الی ابراہیم قیا تون ابراہیم فیقولون یا ابراہیم انت نبی اللہ وخیلیہ من اهل الارض اشغف لنا الی ربک الا تتری الی ما نحن فیہ فیقول لہم انت
ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلہ مثله ولن یغضب بعدہ مثله وانہ قد کانت ذب تک کذ بات فذکرہن ابو حیان فی الحدیث نفسی
نفسی اذہوا الی غیری اذہوا الی موسی قیا تون موسی فیقولون یا موسی انت رسول اللہ فضلك اللہ برسالتہ وبکلامہ علی اناس من اشغف
لنا الی ربک الا تتری الی ما نحن فیہ فیقول ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلہ مثله وین یغضب بعدہ مثله وانہ قد قتلت نفساً
لم اوھر یقتلھا نفسی نفسی اذہوا الی غیری اذہوا الی عیسی قیا تون عیسی فیقولون یا عیسی انت رسول اللہ وکلمتہ القاھا الی مریم
وروح منہ وکلمت الناس فی المهد صبیباً اشغف بنا الی ربک الا تتری الی ما نحن فیہ فیقول عیسی ان ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبلہ مثله ولن
یغضب بعدہ مثله ولم یدکر ذنباً نفسی نفسی اذہوا الی غیری اذہوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیا تون محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وحاتم الانبیاء وقد غضب اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر اشغف لنا الی ربک الا تتری الی ما نحن فیہ
فا نطلق قاتی تحت العرش فاقم ساحداً لربی عزوجل ثم یغفر اللہ علی من عھما مدہ وحسن الثناء علیہ شیئاً لم یغفر علی احد قبیلہ ثم یقال
یا محمد ارض راسک سل تطعہ واشغف تشغف فارحم راسی فاقول امتی یارب امتی یارب یقال یا محمد ادخل من امتک من لا حساب
علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنة وهم شوکا عالناس فیما سوی ذلک من الابواب ثم قال والذی نفسی میں ان ما بین المصلحین
رہبنا ملک کے دونوں تھے من مصاریح الجنة کما بین مکة وحمیرا وکما بین مکة وبعصری۔ اس حدیث کے لئے ویکھو ذب ۷۶ ص ۷۶۔
رسول خدا صم کے ایسی شفاعت کرنا جو کوئی دوسرا نبی نہیں کر سکا آپ کی اس اصلاح سے ظاہر ہے جو آپ نے اس وقت کیا کہ کھانی کو اور کسی نبی کو وہ
میسر نہیں آئی۔ اس حدیث میں وہ کوتاہیاں جن کا مختلف انبیاء کے متعلق ذکر ہے حسب ذیل ہیں حضرت آدم کی نافرمانی رجب کو اللہ تعالیٰ نے خود نفسی
کے ماتحت لاکر قابل معافی سمجھا ہے حضرت نوح کا اپنی ساری قوم پر بددعا کرنا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر میں ڈھک دیا۔ مگر قرآن کریم میں اس کا ذکر
محل ذم پر نہیں ہے حضرت ابراہیم کا تین جھوٹ بولا تھا حالانکہ قرآن کریم ان کو صدیق قرار دیتا ہے اور صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے اور قرآن کریم میں
کیوں ذکر نہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا حالانکہ ان واقعات کا ذکر ہے جنہیں لوگوں نے جھوٹ قرار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ایک شخص کو قتل کرنا جس
کے قتل کرنے کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کے متعلق خود قرآن شریف میں ذکر ہے فغفر لہ اور حضرت عیسیٰ علی شفاعت سے انکار کرتے ہیں ولم یدکر
ذنباً اور اپنی کسی کوتاہی کا ذکر نہیں کیا حالانکہ قرآن شریف میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن یہ پرسش کی جائے گی انانت قلت
للناس اتخذوننی وابی المہین من دون اللہ۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث قصص میں سے ہے جن میں بعض وقت
راویوں کے خیالات کا اثر الفاظ حدیث پر پڑ گیا ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۱۱۱۳) ہاں لفظ یوں ہیں۔ بخفف علی داؤد القرانہ فكان یا مریم ابیہ
لسبحہ فكان یقر قبل ان یقر یعنی القرآن۔ باقیہ کی مشقت سے لگا کر کھانے کا ذکر کیا نہیں ہے

۱۱ بیان لفظ
یوں ہیں۔ یعنی
ہذا الایة
الذین یدعون
بیتون الی
الوسیة قال
ناس من الجن
یعبدونہ و قالوا
لما یعبودونہ
منہ بیان کیا ہے
وما جعلنا الذریا
القی اربابک الا
فنتہ للناس
قال ہی رؤیا
عان اور ہوا رسول
اللہ صلے اللہ علیہ
وسلم ہذا اس کے
بہ والشجرة
الملعونة شجرة
الزقوم -
دیکھو قول
صفحہ ۹۱۳
مطرق قریباً
الفاطمین حدیث
آپ کو دہرایا ہے
۱۱ مکرر روایت
مختصر ہے اور
انفاستہ کی ہے
ان الناس
یضربون
یوم القیمة

(م- ۲۳۵۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر - ۱۹۳۶) بَابُ قَوْلِهِ وَ مَا جَعَلْنَا الذُّرِّيَّ

دیکھو حدیث ۱۹۳۶ باب اللہ تعالیٰ کا قول وما جعلنا الذریا (۶)

الَّتِي أَرْبَابُكَ إِلَّا فَتَنَةً لِلنَّاسِ (م- ۲۳۵۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر - ۱۷۲۲)

اور ہر نے اس روایا کو جو تجھے دکھا یا صرف لوگوں کے لئے فتنہ بنایا دیکھو حدیث ۱۷۲۲

(م- ۲۳۵۳) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرُ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ مُجَاهِدٌ صَلَوَاتُ الْفَجْرِ (م- ۲۳۵۳)

باب اللہ تعالیٰ کا قول ان قرآن الفجر (۸۸) بیشک صبح کے قرآن میں حضور ہوتا ہے مجاہد نے کہا اور بخاری نمازی

(م- ۲۳۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۴۲۲) بَابُ قَوْلِهِ عَسَى أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ

دیکھو حدیث ۴۲۲ باب اللہ تعالیٰ کا قول عسی الخ (۶۹) ایسے ہی برابر

مَقَامًا مَحْمُودًا (م- ۲۳۵۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرر - ۷۹۳) (م- ۲۳۵۵) عَنْ

تجھے بڑی تعریف کے مقام پر رکھ کر کہنے دیکھو حدیث ۷۹۳

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر - ۴۲۰) بَابُ قَوْلِهِ وَقُلْ جَاءَ أَحْسَنُ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ

دیکھو حدیث ۴۲۰ باب اللہ تعالیٰ کا قول و قل جاء احسن اور کون آگیا اور باطل ہلاک ہو

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا يَهْتَقُ بِعِدَّتِكَ (م- ۲۳۵۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

جیسا بیشک باطل ہلاک ہوتا ہے لہذا ہی تمہاری عہد شکنی ہلاک ہو جائے گا

(متکرر - ۱۱۸۱) بَابُ قَوْلِهِ سَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ (م- ۲۳۵۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۱۸۱ باب اللہ تعالیٰ کا قول و سئلونک الخ (۱۸) اور تم سے روح کے متعلق پوچھے ہیں

(متکرر - ۱۰۹) بَابُ قَوْلِهِ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا (م- ۲۳۵۸) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۰۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول ولا تجہروا بصلواتکم اور بیکار کیا رکھنا اور نہ چپکائی رہ

ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا قَالَ نَزَلَتْ وَ

عباس سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ولا تجہروا بصلواتکم ولا تخافوها کہا (یہ آیت اتاری اور

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتِ عِدَّتِكُمْ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پچھے رہتے تھے جب آپ اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو اپنی آواز کو قرآن

يَا الْقُرْآنُ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سُبُوَ الْقُرْآنِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ

کے ساتھ بلند کرتے تھے تو جب مشرک سنتے تو قرآن کو اور اس کو جس نے اسے اتارا اور جو اسے لایا گیا وہ کہتے تھے تو اللہ

اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ أَوْ يَبْقَرُونَ كَيْسِمَةَ الْمُشْرِكِينَ

تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی آواز نمازی

بہی فرماتے سے بلند نہ کرو مشرک من میں گئے

یہی فرماتے سے بلند نہ کرو مشرک من میں گئے

یہی فرماتے سے بلند نہ کرو مشرک من میں گئے

چنگا رکروہ گروه / کل امة تتلعن بنبیہا یعولون یا فلان اشفع حتی تنتمہی الشفاعة الی النبی صلے اللہ علیہ وسلم فذلک یوم بیعتہ اللہ المقام المحمدرہ / ہمتی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے / ملا قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے مگر آیت مندرجہ عنوان کو پورا نقل کرنے کے بعد پڑھایا ہے وہاں میں ہی الباطل وما یعبدونہ اور ما یعبودونہ سے دوہرایا ہے بینا اقامہ اللہ علیہ صلے اللہ علیہ وسلم فی حرث ربان خرب الندییۃ یعنی مدینہ کا ویران حصہ وہو متکی علی عیبہ از ما لہود فقال بعضهم لبعض سلوا عن الروح فقال ما رایتکم الیہ وقال بعضهم لا یستقبلکم شیئاً تکرہونہ فقالوا سلوا سلوا عن الروح فاسک النبی صلے اللہ علیہ وسلم فلم یرد علیہم شیئاً فغلبت اللہ یوسی الیہ فغتمت معافیہ فلما نزل الوحی قال ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما أدبیتم من العلم الا قلیلاً بیان جو لفظ آتے ہیں ما رایتکم الیہ وہ اصل حدیث میں نہیں اور ان الفاظ کی قرائت بھی مختلف ہیں کسی نے کہا ما رایتکم الیہ یعنی شک میں ڈالا اور بعض نے کہا ما رایتکم اللہ تمہیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ ما رایتکم الیہ کے معنی ہوں گے تمہاری رائے اس کے متعلق کیا ہے +

فَيَسْتَبِئُ الْقُرْآنَ وَلَا يَخَافُهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ وَإِن تَبَخَّرْتَهُمْ ذَلِكَ
تو وہ قرآن کو گالیاں دیں گے اور نہ اسے اس قدر ہلکا کرے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سنیں اور اس کے درمیان رستہ علیہ

سَيِّئًا (۱۹۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُتِرْتُ ذَلِكَ فِي الدَّعَاءِ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت دعا کے بالے میں آتی
کر دیا

۱۸- سُورَةُ الْكَهْفِ

سورہ الکہف - ۱۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرَضُهُمْ تَتَرَكُهُمْ وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ ذَهَبٌ وَفِضَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةٌ
اور مجاہد نے کہا تقرضہم تترکہم ان کو چھوڑ دیتا تھا وہاں نہ شمر (۳۲) سونا اور چاندی اور اوروں نے کہا کہ شمر شمرۃ کی جمع

الْهُمُ بَأَخْمٍ قَهْلِكَ أَسْقَاتٌ مَا الْكَهْفُ الْفَخْرُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيمُ الْكِتَابُ مَرْقُومٌ
ہے باخم (۶) ہلکا کر نیوالا اسفار (۶) ندامت سے کہف (۹) کھوہ جو پہاڑ میں ہو اور رقیم (۹) کتاب ہے (یعنی مرقوم یعنی)

مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ لَضَلُّوا
مکتوب رقم رکھنے سے ربطنا علی قلوبہم (۱۲) ہم نے ان کے دلوں میں مہر کا انعام کیا (یعنی) لولا ان ربطنا علی قلوبہم لاضلوا

سَطَطًا فَرَاطًا مَرْفُوقًا كُلُّ شَيْءٍ أَرْتَفَقَتْ بِهِ تَرَاوُرْتُمِلُ مِنَ الزُّورِ وَالْأَزْوَارِ
سططا (۱۲) جس سے بڑھ جانا مرفوق (۱۶) پروہ چیز ہے جس پر توہر و سہر کے تراور (۱۱) ہٹ جاتا تھا زور سے ہے اور ازور (۱۱)

الْأَمِيلُ فَجْوَةٌ مَلْتَسَمَةٌ وَالْجَمِيعُ فُجْوَاتٌ وَفَجَاءَ وَمِثْلُ رَكُوعَةٍ وَرُكُوعٌ الْوَجْدُ الْغَدَاءُ
یعنی والا فجوة (۱۱) کھلی جگہ اور جمع فجوآت اور فجاء ہے جیسے رکوعہ اور رکاہ وصید (۱۸) من ہے

بِجَمْعِهِ وَصَائِدٌ وَوَصْدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُوَصَّدَةٌ مُطْبَعَةٌ أَصْدُ الْبَابِ
اس کی جمع و صائد اور وصد ہے اور کہا جاتا ہے کہ وصید دروازہ ہے موصدۃ (البلدہ - ۲۰) بند کی ہوئی اصدا لباب

وَأَوْصَدْنَا بَعَثْنَا هُمُ أَحْيَيْنَاهُمْ أَزْنَى الْكُثْرِ وَيُقَالُ أَحْلُ الْكُثْرِ نِعَاقٌ قَالَ
وَأَوْصَدْنَا (رواؤہ بند کرو یا) بعثنا ہم (۱۹) ہم نے انکو زندہ کر دیا (ازنی) زیادہ کی، الکر نعرک اور کہا جاتا ہے خوب حال اور کہا جاتا

ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْهَأَ وَكَمْ تَخْلُمُ لَمْ تَنْقُصُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّقِيمُ
ابن عباس نے کہا اکھاہا (۳۳) وہ تظلم (۳۳) کہ نہیں ہوا اور سعید نے ابن عباس سے روایت کی کہ رقیم

اللُّوحُ مِنْ رِصَاصٍ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ فَضَرَبَ
لیسے کی تختی ہے رصص میں، ان کے حکم نے ان کے نام لکھے تھے اور پھر اسے اپنے خزانہ میں ڈال دیا فضرب

اللَّهُ عَلَى إِذْنِهِمْ (۱۱) پس وہ سو گئے اور اوروں نے کہا وَأَلَّتْ تَبِلٌ تَجْوٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَرُّوْا لَهْرًا
اللہ علی اذنہم (۱۱) اور تابل (۱۱) اور تابل نجات پانا اور مجاہد نے کہا مہر (۸) محفوظ مقام

لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لَا يَعْقِلُونَ (۱) بَابٌ قَوْلُهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْكُثْرُ شَيْءٌ
لا یستطیعون سمعاً (۱۰) عقل سے کام نہیں لیتے بَابُ الشَّرْفَالِيِّ كَقَوْلِهِ وَكَانَ الْخُرْمُ ۵۸ وَأَوْشَاقٌ زِيَادَةٌ رَجَحُوا

جَدُّ لَامٍ - ۲۳۵۸ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۶۱۸) رَجَحْنَا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَسْتَبِئْ
دیکھو حدیث ۶۱۸ رَجَحْنَا بِالْغَيْبِ (۳۲) دیکھو حدیث (۳۲) ان پر خود واقع

فَرَطًا سَدًّا مَا سُرِدَتْهَا مِثْلُ السَّرَادِقِ وَالْحَجْرَةُ النَّبِيُّ تُطِيفُ
سواد قہار (۲۹) قناتوں کی طرح اور اس کے کسے کی طرح جسے جیبوں سے لپیٹ لیا گیا ہو

نَبِيُّ فَرَطًا (۲۸) ندامت

۱۹۲۷
اسکی حدیث میں
حضرت عائشہ کی
ہے یہ ہے کہ یہ
حکم دعا کے بالے
میں ہے یعنی
جب اللہ تعالیٰ
سے دعا کرو تو نہ
تو مت ہی بلند
آواز سے جلاؤ
اور نہ ہی اسے
با کھلی آغوشی
صورت میں رکھو
بلکہ درمیان
آواز سے دعا
کرو تو آپ کا
منشا بظاہر
تسائی میں دعا
کرنا ہے ابن
عباس سے
ابتدائی ہی حالت
پر چسپاں کرتے
ہیں
۱۹۲۸
میں صرف ابتدائی
جملہ ہے ان
رسول اللہ صلعم
حرکت فاضلہ قال
اکان تضلیان

یہ احادیث
قصص میں سے
ایک لمبی حدیث
ہے۔ اور یہاں
تخفیف اختلاف
لفظی سے یا کچھ
جملے آگے پیچھے
ہو کر کر آئی ہے
البتہ آخر میں کچھ
زیادت بھی ہے
یہاں لفظیوں
میں۔۔۔ قال قلت
لابن عباس
ان نوحا البکالی
یزعم ان موسی
صاحب الحضرة
ہیں ہو موسی

بِالْفَسَاطِيطِ يُجَادِرُهُ مِنَ الْمَخَاوِرَةِ لَيْكُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي أَمْ لَيْكُنَ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي
 یجادرہ (۳۶) مخاوریہ سے ہے لکننا ہوا اللہ ربی (۳۸) دراصل لکن انا ہوا اللہ ربی تھا
 ثُمَّ حَذَفَ الْأَلْفَ وَأَدْعَمَ أَحَدِي لَتَوَدَّ بِنِي الْأَخْرَى زَلَعًا لَا يَثْبُتُ فِيهِ
 پھر (انکا) الف حذف کیا گیا اور دونوں میں سے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا۔ زلعاً (۳۰) جس پر پاؤں قرار نہیں پاتا
 قَدَّمَ هُنَاكَ الْوَلَايَةَ مُصَدِّرًا الْوَلِيَّ عُقْبًا عَاقِبَةً وَعُقْبِي وَعُقْبَةَ وَاحِدٌ
 ہنالك الولاية (۳۲) (روایت) ولی کا مصدر ہے عقیباً (۳۴) عاقبت ہے اور عقیبی اور عقیبۃ ایک ہی ہیں
 وَهِيَ الْأَخْرَى قَبْلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا اسْتَبْنَا فَلْيَدْخُوا إِلَيْنَا الدَّخْضُ
 اور وہ انجام ہے قبلاً اور قبلاً (۵۵) اور قبلاً سامنے آنا لیدخضوا (۴۷) تاکہ درگزیں دحض
 الزُّلْقُ (۳۲) بَابُ تَوَلَّاهُ وَادَّ قَالَ مُوسَى لِقَبْتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 بھلسنا ہے بَابُ اسْتَعَانَ كَقَوْلِهِ وَادَّ قَالَ الْخَزْرَجِيُّ (۶۰) اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں
 أَوْ أَقْضَىٰ حَقِّي زَمَانًا وَجَمَعَهُ أَحْقَابُ (۳۵۹-۳۶۰) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ (مَتَدْرَجًا ۱۰۷۰)
 تک کر دو دریاؤں کے گہنیوں کی جگہ پہنچ جاؤں یا برس چلایا رہوں گا (حق) زمانہ اور اس تک حق ادا ہے ویسے حدیث ۱۰۷۰
 (۳۶۰) بَابُ تَوَلَّاهُ فَلَمَّا بَلَغَا الْبَحْرَ (۶۱) بَابُ تَوَلَّاهُ وَادَّ قَالَ مُوسَى لِقَبْتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 بَابُ اسْتَعَانَ كَقَوْلِهِ فَلَمَّا بَلَغَا الْبَحْرَ (۶۱) پس جب وہ ان دونوں دریاؤں کے اکٹھے ہو گئے جگہ پہنچے وہ اپنی چھلی بھول گئے تو

صاحب بنی اسرائیل فقال ابن عباس كذب عد والله حدثني ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قام خطيبا في
 بني اسرائيل فسل اي الناس اعلم فقال انا نعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فادعى الله اليه ان لي عبد اجمع البحر هو اعلم منك قال موسى
 يارب تكفي لي به قال تاخذ منك حوتا فتجمله في مكثل فحيدما فتذرت الحوت فتحوث فهاخذ حوتا فجعله في مكثل ثم انطلق وانطلق معه بقناه
 يوشع بن نون حتى اذا اتيا الصحرة وضعا رؤسهما فناما واضطرب الحوت في المكثل فخرج منه فسقط في البحر فاخذ سبيله في البحر سببا و
 امسك الله عن الحوت جريرة السماء فصارع عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه ان يجذره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتما حتى
 اذا كان من الغد قال موسى لغتاه اتنا عندنا اونا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجيب موسى النصب حتى جاؤا المكان الذي امر الله
 به فقال له فتاه ارايت اذ اوتينا الى الصحرة فاني نسيت الحوت وما لتانيه الا الشيطان ان اذكركه واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكانت
 لغوت سرىا ولموسى لغتاه عجبا ربه فقره وهاں سے آگے ہے مگر اس کا درست مقام یہی ہے فقال موسى ذلك ما كنا نبيخ فارتاعنا على اثارهما
 قصصا قال رجعا يقصان اثارهما حتى انتهيا الى الصحرة فاذا رحل محبي ثوبا فسلم عليه موسى فقال الحضرة انا بارضك السلام قال انا
 موسى قال موسى بنى اسرائيل قال نعم اتيتك ليتعلمن مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى انى علم من علم الله
 علمتبه لا تعلمه انت وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه فقال موسى سجدنى ان شاء الله صابرا ولا اعصم لك امر فقال له
 الحضرة فان اتبعته فلا تلتى عن شئ حتى احذ لك منه ذكورا فانطلقا يشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلوهم ان جملوهم
 فخرها الحضرة فملوه بخير نول فلما ركبا في السفينة لم يبق الا والحضرة قد قلع لوجها من الواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم
 حملونا بخير نول عمدت الى سفيتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال السم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تاخذنى
 بما نسيت ولا ترهقنن امرى عسوا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اولى من موسى نسيانا قال وجاء عصافور فوقع
 على حوت السفينة فخرى البحر فخرى فقال له الحضرة ما علمى وعلمك من علم الله الا مثل فانقص هذا العصفور من هذا البحر حتى ياب
 اگيا ہے، ثم خرجا من السفينة فبيناهما يشيان على الساحل اذ ابصر الحضرة غلاما يلعب مع الغلمان فاخذ الحضرة راسه بينه فاقتله بسره
 فقتله فقال له موسى اقلت نفسا ذكوية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال السم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال وهذا الشد من الاولى قال
 انما نسيت عن شئ بعد ما قتلنا صاحبى قد بلغت من لذة عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعنا اهلها فابوا ان يبضغوها فوجد
 فيها جدرا يريد ان يبعض قال ما نل نقام الحضرة فاقتله بينه فقال موسى قوم اتيناهم فلم يطعمو نادل بضيغونا لو شئت لا تحنت عليه اجرا قال هذا
 فراق بينى وبينك الى قوله ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا ان موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبره
 يراى خبره بركى ہے، قال سعيد بن جبیر فكان ابن عباس یقرأ بكون اما هم ملك یاخذ كل سفينة صالحة نصبا وكان یقرأ او الغلام فكان كافر اذ كان ابنة

بَابُ تَوَلَّاهُ وَادَّ قَالَ مُوسَى لِقَبْتَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

سَرَّ بِأَمْرِهِمَا لَيْسَ رُبُّ يَسْلُوكُ وَهَمْنُهُ وَسَارِبٌ بِاللَّهَارِ (رہ - ۶۰ ۳۳ ۲۰ عن سعید)

(سریا) چلنے کا راستہ بے سرب چلتے اور سی ہے و سارب بالہار (ارد - ۱۰)

ابن جبیر (متکدر - ۱۰۷) (۴) بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاكَ إِنَّمَا عَدَاؤُنَا

دیکھو حدیث ۷۰۷۰ باب فی الشرفانی کا قول فلما جاوذا (۲۲) جب دونوں آگے نکل گئے نبوی نے

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا انْصَابًا لِي قَوْلِهِ حَبِيبًا صُنْعًا عَمَلًا حَوْلًا لَقَالَ

مچنے فی حوان سے کیا ہمارا بیچ کا نام شتر ہے؟ ہمیں اس سفر سے تمکان ہو گئی ہے اللہ کے قول عجیباً تک صنعا (۱۰۲) کام حولا (۱۰) ہونیکا

ذَلِكَ مَا لَكُنَّا نَبْغُ فَإِنَّكَ أَعْلَىٰ أُنْأَدِهَا قَصَصًا أَمْرًا وَتَكْرًا أَدَاهِيَةَ يُنْقَضُ

یہ ہے جب تک ہم تلاش کرتے تھے سو وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشاںوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس مجھے اھرا (۱۰۱) اور تکر (۲۵) ہمیں

يُنْقَاضُ كَمَا يُنْقَاضُ السِّنُّ لِي تَخَذَتْ وَاتَّخَذَتْ وَاحِدٌ رَحْمًا مِنْ الرَّحْمِ

والی ربا سے ینقض (۲۵) اور ینقاض رہا ہے جیسے کہتے ہیں، تنقاض السن (سن روات ہتا ہے) لحنزت (۷۷) اور اتخذت ایک ہی میں

قد سمعته من عنده عن سعید - الفنا حدیث یوں ہیں :- انا لعن ابن عباس فی بیته اذ قال سلونی قلت ای ابا عباس جئناک فی ذاکم فزجل

فاض یقال له ذون بزم انہ لیس موسیٰ بنی اسو ایل اما عمرو فقال لی قال من کذب عدو الله واما یحییٰ فقال لی قال بن عباس من حدثنی ابی بن کعب

قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موسیٰ رسول الله علیه السلام قال ذکرنا لئاس یومنا حجتا اذا فاضت العیون ورتت العقوب دلی رقیق زائد

ہے، فادر کہ رجل فقال ای رسول الله صل فی الا رض احد اعلم منک قال لا فکتب علیا ذلم یرود العلم الی الله قبل علی قال ای رب فاین قال بہ جمع

البحرین قال ای رب اجعل لی علما اعلم ذک بہ فقال لی عمرو قال حیث یفارتک الحوت وقال لی یحییٰ قال خذ نوناً مینا حیث ینفخ فیہ الروح رحل

حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ کچھ مروی بھی اور زائد ہونا اسکا نشان تھا بلکہ کچھ کے بھول جانے کو ہی نشان قرار دیا گیا ہے، فاخذ حوتاً فجل فی مکتل فقال

لفتا کلا کلفک الا ان تغربنی بحیث یفارتک الحوت قال ما کلفت کثیراً لای کتفو علی اهل حدیث میں نہیں، ذنک فزجل ذکرہ واذ قال موسیٰ

لفتا کلا یوشع بن زور لیس عن سعید قال فیما ہوں فی ظل صحفۃ فی مکان ثریان رسی لک۔ غالباً ایسی جگہ تھی جہاں دریا کا پانی زیادہ ہوتا جاتا تھا

اذ تغرب الحوت وموسیٰ نائم فقال فتاہ الا اذ ظہر یہ تفصیل بھی اهل حدیث میں نہیں، حتیٰ اذا استیقظت شی ان یغبرہ ونضی علی الحوت حتی

دخل الحوت مسک الله عند حرقۃ المحرقۃ کان اثرہ فی بحرہ قال لی عمرو کذا کان اثرہ فی بحرہ حلی بن ابی ہامیہ التین تیباً تمہا رہی بھی اهل حدیث سے زائد تفصیل ہے،

لقد لقینا من سفرنا ہذا انصبا قال قد تصدق اللہ عنک النصب ریشع کا یہ جواب اهل حدیث میں نہیں، لیس ہذا عن سعید اخبرہ فرجاً فوجا اخبرہ قال لی

عثمان بن ابی سلیمان علی طغشۃ خضر اء ربزہ بچھو نے پر اهل حدیث میں یہ نہیں، حلی کب الی البحر در پر یعنی عین اس کے اندر اهل حدیث میں یہ بھی نہیں، قال

سعید بن جبیر سخی، ثرہ ہذا جمل طرفہ تحت رجبہ وطرفہ تحت راسہ فسلم علیہ موسیٰ کتبت عن وجہہ وقال ہل بارضی من سلامہ من انت قال

انا موسیٰ قال موسیٰ بنی اسرائیل قال نعم قال فما شاک قال جئت لیقتلک مینا علمت رشدنا قال اما یحییٰ ان التورۃ بیدیک وان لونی با تیک

اما یحییٰ سے یہاں تک ۷۰۷۰ میں نہیں، یا موسیٰ ان لی علم لا یبغی لک ان تعلمہ وان لک علم لا یبغی لی ان اعلمہ فاخذ نوطاً ثریبنا عداہ

من البحر وقال والله ما علی وما علیک فی جنب علم اللہ الا کما اخذ ہذا الطائر ینقارہ من البحر حتیٰ اذا ركب فی السفینۃ وجہا معا برصاً وا

زچھوئی چھوئی کشتیاں۔ ان کو کوئی ذکر نہیں میں، تحمل اهل هذا الساحل الی اهل هذا الساحل الا خور فرہ فقاوا عبد الله العمار قال قلت

لسید خضر قال نعم لا غملہ باجر فخر قہا وودنا فیہا وتکرا ہیراس میں بخ گدی یعنی عیب وار بناو یا یہ بھی زائد تفصیل ہے، قال موسیٰ اخبرتمہا لتوفق

اہلہا لقد جئت شیئاً امراً قال ما ہذا ہکترا قال الم اقل انت من تستطيع معی صبراً کانت الا دلی نسباً کا و الوسطی شرطاً والتالۃ عمداً اریہ

فرہ یہاں بے محل ہے، قال لا تقاخذنی لی بما سنیت ولا ترھق من امری حسوا لقیاً غلاماً فقتلہ قال یحییٰ قال سعید وجد غلاماً ثابلاً یبصون فاخفہ

غلاماً کا فزا طریقاً فاضیہ شہ ذمہہ بالسکین رقیق بھی زائد ہے، قال اقلت نفساً ذکبۃ بخیر نفس لم تحمل بالحث وکان ابن عباس قواہا

ذکبۃ زاکبۃ مسلمۃ کقولک غلاماً ذکباً فانطلقا فوجرا احد الی ابرین ان ینقض فاقامہ قال سعید ببیدہ ہکذا و در فریدہ فاستقام قال علی حسب

ان سعید ان قال فسمیہ ببیدہ فاستقام لوشنت لا تحزت علیہ اجراً قال سعید اجراً ناکلہ وکان وراءہم وکان اما ہم قراہا ابن عباس اما ہم ملک

یزعمون عن غیر سعید انہ ہڈ دین بردا الغلام المقتول اسمہ یزعمون جیسو زانیہ نام بھی اسمی وایت سے خاص میں ملک باخذ کل سفینۃ عمراً

فارتدت اذا ہی موت بہ ان یرء فی العینہا فاذا جاد واد الصلحوا فاستغوا بہا ومنہم من یقول سد وھا بقار وریہ زائد تفصیل ہے بغیشہ تکا کر

قالی ہک کہ کو بند کر دیا، ومنہم من یقول بالقدارال سے، کان ابواہ مؤمنین وکان کافرماً فخشیت ان یرہقہما علیاً فاذا کفر ان یجہدما حجتہ علی اربابہ

علی دینہ فاروانا ان ینزلہما رہما خیراً منہ زکوة لغولہ اقلت نفساً ذکبۃ واقرب رحماً واقرب رحماً ما بہ ارجم منہما بالادل الذی قتل خضر وزعم

۱۱۱۷ اس مکرر روایت میں تفصیل زیادہ ہے اور اصل حدیث کی بعض تفصیلات کو چھوڑ بھی دیا ہے سعید بن جبیر کے دورادی میں یحییٰ ابن سلم اور عمرو بن دینار اور ان کے متعلق ہونیدیا احد ہما علی صاحبہ وغیرہما

قد سمعته من عنده عن سعید - الفنا حدیث یوں ہیں :- انا لعن ابن عباس فی بیته اذ قال سلونی قلت ای ابا عباس جئناک فی ذاکم فزجل فاض یقال له ذون بزم انہ لیس موسیٰ بنی اسو ایل اما عمرو فقال لی قال من کذب عدو الله واما یحییٰ فقال لی قال بن عباس من حدثنی ابی بن کعب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم موسیٰ رسول الله علیه السلام قال ذکرنا لئاس یومنا حجتا اذا فاضت العیون ورتت العقوب دلی رقیق زائد ہے، فادر کہ رجل فقال ای رسول الله صل فی الا رض احد اعلم منک قال لا فکتب علیا ذلم یرود العلم الی الله قبل علی قال ای رب فاین قال بہ جمع البحرین قال ای رب اجعل لی علما اعلم ذک بہ فقال لی عمرو قال حیث یفارتک الحوت وقال لی یحییٰ قال خذ نوناً مینا حیث ینفخ فیہ الروح رحل حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ کچھ مروی بھی اور زائد ہونا اسکا نشان تھا بلکہ کچھ کے بھول جانے کو ہی نشان قرار دیا گیا ہے، فاخذ حوتاً فجل فی مکتل فقال لفتا کلا کلفک الا ان تغربنی بحیث یفارتک الحوت قال ما کلفت کثیراً لای کتفو علی اهل حدیث میں نہیں، ذنک فزجل ذکرہ واذ قال موسیٰ لفتا کلا یوشع بن زور لیس عن سعید قال فیما ہوں فی ظل صحفۃ فی مکان ثریان رسی لک۔ غالباً ایسی جگہ تھی جہاں دریا کا پانی زیادہ ہوتا جاتا تھا اذ تغرب الحوت وموسیٰ نائم فقال فتاہ الا اذ ظہر یہ تفصیل بھی اهل حدیث میں نہیں، حتیٰ اذا استیقظت شی ان یغبرہ ونضی علی الحوت حتی دخل الحوت مسک الله عند حرقۃ المحرقۃ کان اثرہ فی بحرہ قال لی عمرو کذا کان اثرہ فی بحرہ حلی بن ابی ہامیہ التین تیباً تمہا رہی بھی اهل حدیث سے زائد تفصیل ہے، لقد لقینا من سفرنا ہذا انصبا قال قد تصدق اللہ عنک النصب ریشع کا یہ جواب اهل حدیث میں نہیں، لیس ہذا عن سعید اخبرہ فرجاً فوجا اخبرہ قال لی عثمان بن ابی سلیمان علی طغشۃ خضر اء ربزہ بچھو نے پر اهل حدیث میں یہ نہیں، حلی کب الی البحر در پر یعنی عین اس کے اندر اهل حدیث میں یہ بھی نہیں، قال سعید بن جبیر سخی، ثرہ ہذا جمل طرفہ تحت رجبہ وطرفہ تحت راسہ فسلم علیہ موسیٰ کتبت عن وجہہ وقال ہل بارضی من سلامہ من انت قال انا موسیٰ قال موسیٰ بنی اسرائیل قال نعم قال فما شاک قال جئت لیقتلک مینا علمت رشدنا قال اما یحییٰ ان التورۃ بیدیک وان لونی با تیک اما یحییٰ سے یہاں تک ۷۰۷۰ میں نہیں، یا موسیٰ ان لی علم لا یبغی لک ان تعلمہ وان لک علم لا یبغی لی ان اعلمہ فاخذ نوطاً ثریبنا عداہ من البحر وقال والله ما علی وما علیک فی جنب علم اللہ الا کما اخذ ہذا الطائر ینقارہ من البحر حتیٰ اذا ركب فی السفینۃ وجہا معا برصاً وا زچھوئی چھوئی کشتیاں۔ ان کو کوئی ذکر نہیں میں، تحمل اهل هذا الساحل الی اهل هذا الساحل الا خور فرہ فقاوا عبد الله العمار قال قلت لسید خضر قال نعم لا غملہ باجر فخر قہا وودنا فیہا وتکرا ہیراس میں بخ گدی یعنی عیب وار بناو یا یہ بھی زائد تفصیل ہے، قال موسیٰ اخبرتمہا لتوفق اہلہا لقد جئت شیئاً امراً قال ما ہذا ہکترا قال الم اقل انت من تستطيع معی صبراً کانت الا دلی نسباً کا و الوسطی شرطاً والتالۃ عمداً اریہ فرہ یہاں بے محل ہے، قال لا تقاخذنی لی بما سنیت ولا ترھق من امری حسوا لقیاً غلاماً فقتلہ قال یحییٰ قال سعید وجد غلاماً ثابلاً یبصون فاخفہ غلاماً کا فزا طریقاً فاضیہ شہ ذمہہ بالسکین رقیق بھی زائد ہے، قال اقلت نفساً ذکبۃ بخیر نفس لم تحمل بالحث وکان ابن عباس قواہا ذکبۃ زاکبۃ مسلمۃ کقولک غلاماً ذکباً فانطلقا فوجرا احد الی ابرین ان ینقض فاقامہ قال سعید ببیدہ ہکذا و در فریدہ فاستقام قال علی حسب ان سعید ان قال فسمیہ ببیدہ فاستقام لوشنت لا تحزت علیہ اجراً قال سعید اجراً ناکلہ وکان وراءہم وکان اما ہم قراہا ابن عباس اما ہم ملک یزعمون عن غیر سعید انہ ہڈ دین بردا الغلام المقتول اسمہ یزعمون جیسو زانیہ نام بھی اسمی وایت سے خاص میں ملک باخذ کل سفینۃ عمراً فارتدت اذا ہی موت بہ ان یرء فی العینہا فاذا جاد واد الصلحوا فاستغوا بہا ومنہم من یقول سد وھا بقار وریہ زائد تفصیل ہے بغیشہ تکا کر قالی ہک کہ کو بند کر دیا، ومنہم من یقول بالقدارال سے، کان ابواہ مؤمنین وکان کافرماً فخشیت ان یرہقہما علیاً فاذا کفر ان یجہدما حجتہ علی اربابہ علی دینہ فاروانا ان ینزلہما رہما خیراً منہ زکوة لغولہ اقلت نفساً ذکبۃ واقرب رحماً واقرب رحماً ما بہ ارجم منہما بالادل الذی قتل خضر وزعم

غیر سعید انہما ابد لا جاریہ واما داؤد بن ابی عاصم فقال عن غیر واحد انہا جاریہ رہی بھی زائد تفصیل ہی اس کے بعد کا حقد چھوڑ دیا ہے ہ

علی اس مکرر روایت میں بھی کہیں اختصار ہے اور بعض تفصیلات بڑھائی ہیں یا نقل یوں ہیں :- قلت لابن عباس ان زوفاً البکالی یزعم ان موسی بنی اسرائیل لبس بموسى الخضوع قال کذب عدو الله حل ثنا ابی بن کعب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قام موسی خضیفاً بنی اسرائیل فقيل له ان التماس علم قال انما غلب الله علیه اذ لم

وَهِيَ اَشَدُّ مَبَالِغَةً مِّنَ الرَّحْمَةِ وَنُظِنُ اَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ وَتَدْعَى مَكَّةَ
اور اس میں رحمت کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رحیم سے نکلا ہے اور مکہ کو ام رحم کہتے ہیں
اَمْ رَحِمَ اَيُّ الرَّحْمَةِ تَدْرُلُ بِهَا رَمَ - ۱۳۶۱ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (متکرر - ۱۰۰)
یعنی وہاں رحمت نازل ہوتی ہے دیکھو حدیث ۱۰۰۷
(۱۵) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا (۱۳۸) عَمْرٍو مَقْصُوعٍ
باب ۱۵: اللہ تعالیٰ کا قول قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا (۱۳۸) عَمْرٍو مَقْصُوعٍ
قال سالت ابي قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا هُمُ الْاَحْرُورِيَّةُ
مصعب سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ہل نبیوں کو بلا خیرین اعمال (میں) غار جہوں کا ذکر ہے
قال لا هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
کہا نہیں یہ یہود اور نصاریٰ ہیں یہود نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی
وَسَمُّهُ وَاَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا يَا بَجْتَةَ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَا
اور نصاریٰ نے جنت کا بھی انکار کیا اور کہہ کر جنت میں نہ کیا نام ہے اور نہ پینا اور
الْاَحْرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدُ
حورورہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور سعد
يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ ۱۶ بَابُ قَوْلِهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَيْتَ رَبِّهِمْ وَاَقْرَابَهُ
ان کا نام فاسق رکھتے تھے باب ۱۶: اللہ تعالیٰ کا قول اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا بَيْتَ رَبِّهِمْ وَاَقْرَابَهُ اور

یرو العلم الیہ وادعی الیہ بنی عبدمن عبادی مجحد الجورین هو اعلم منك قال ای رب کیت السبیل الیہ قال تاخذ حوتانی مکتل فحیدما فقدت الحوت فانتیجہ قال فخرج موسی ووجه فتاة یوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهیا الی الصحرة فذلا عندھا قال فوضع موسی راسه فنام راس الحوت فی حوض من حوضات یوشع بن نون وریاں سے لیکر تک العین تک ۱۰۰۰ میں نہیں اور نہ کسی اور مکرر روایت میں اور یہ ہے بھی قیاس) قال سفین و فی حدیث غیر عمرو قال فی اصل الصحرة عین یقال لها الحیاة لا یسبب من ما ثبأ شئی الا حی فاصاب الحوت من ما عتک العین قال فخرج واسل من المکتل فدخل البحر فلما استقیظ موسی قال لغتھا اتنا عن الایة قال ولم یجین النصب حتی جاوز ما امریہ قال له فتاة یوشع بن نون ارایت اذ ادینا الی الصحرة فانی نسبت الحوت الایة قال فرجعا یقمان فی آثارھا فوجدنا فی البحر کائنا فی صحرا وریاں میں چھٹی کے رستے کا لما کی طرح بن جانا ہے اس میں مذکور نہیں) فكان لغتھا عجباً والحوت سوراً قال فلما انتهیا الی الصحرة اذ هما برجل مجعی بثوب تسلم علیہ موسی قال والی بارضک السلام فقال انا موسی قال موسی بنی اسرائیل قال نعم قال هل اتبعک علی ان تعلمنی ما عننت رشدا قال له الخضری یا موسی انک علی علم من علم الله علمکہ الله لا اعلمه وانا علی علم من علم الله علمتہ الله لا تعلمه قال بل اتبعک قال فان اتبعنت خلاصاً لئنی عن شئی حتی احدث لك منه ذکراً فانا نطلقا یشبان علی لساحل فمرت بہما سفینة فخرجت الخضری فحمدوہم فی سفینتہم بخیر نزل یقول بخیر ارجو فکذا فی السفینة قال ووقع عصفرور علی حوت السفینة فغضب منقاد البحر فقال الخضری لموسی ما عدک وعلی وعلم الخلاق فی علم الله الا مقدار ما غمس هذا العصفرور منقادہ قال فلم یغیا موسی اذ عمد الخضری الحن فذوم رسول) فخرج السفینة فقال له موسی قوم سمولنا بخیر نزل عمدت الی سفینتہم فخرتھا لتخرق اهلها لقد جئت الایة فانطلقا اذھا بخلاص یلتب مع الغلمان فاخذ الخضری براسه فقطدہ قال له موسی اقبلت نفساً زکیة بخیر نفس لقد جئت شیئاً کذا قال انہ اقل لك انک لمن تستطیع معی صبراً الی قولہ قالوا ان یضیفوہما فوجد انیھا جد الا برید ان ینقض فقال لی ان یخذلنا فاقامہ فقال له موسی انا دخلنا ہذا کة القریة فلم یضیفونا ولم یطعنونا لو شئت لاخذت علیہ اجر قال هذا فراق بینی وبنیک سابقاً بتادیل ما لم تسطع علیہ صبراً فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم وودنا ان موسی صبر حتی یقض علینا من امرھما قال وكان ابن عباس یقرا وكان اماھم ملک یاخذ کل سفینة فی صحرا یغضبنا واما الخلام فكان کافراً یصل جیسا اکل بیت میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش و نیکی زندگی پر صرف ہوتی یعنی مادہ پرست جن کی نظر آخرت اور دنیایت کی طرف نہیں اٹھتی اور یہ اصل میں تو عیسائی ہی ہیں اور یہ وہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں +

اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے

فَحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ **الآية ۱۹۳۹** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

سوان کے عمل کام نہ آئے ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لِي رَجُلًا عَظِيمَ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ

فرمایا قیامت کے دن بڑا آدمی موٹا تازہ آئے گا اس کی قدر

عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ قَرَأَ وَأَفْلَأَ لِقِيمِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَا

اللہ کے پرش کے برابر نہ ہوگی اور فرمایا پڑھو فلا لقیمہم یوم القیامۃ وزنا

۱۹۔ کے ملے

۱۹ - سورۃ ترمیم

سَلِّ اللَّهُ النَّحْ مِنْ الرَّجِيءِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرینے والے کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمْ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا

ابن عباس نے کہا اسمع بہم و ابصر اللہ فرماتا ہے وہ آج کے دن نہ سنتے ہیں اور نہ

يَبْصُرُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ

دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے قول اسمع بہم و ابصر سے مراد ہے کہ کافر اس دن

أَسْمِعْ شَيْءًا وَأَبْصُرْ كَأَنَّكَ لَا تَرَى شَيْئًا وَرَبُّنَا مَنْظُرٌ أَوْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ عَلِمْتُ

خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے لا ذرہم انہم کا درمیان میں سمجھے تحت سست کون کا درمیان میں منظر اور ابواہل نے کہا حضرت

مُرِيْمٌ أَنْ التَّقِيَّةَ ذُو نَهْبِهِ حَتَّى قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

مریم کو علم تھا کہ تقیہ ہے غفلت ہوتی اس لئے انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مستحق ہے اور

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَوَّرَهُمْ أَزْأَرْتَهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي رَزَعَا جَاوَّ قَالَ مُجَاهِدٌ

ابن عباس نے کہا توڑھم از اڑھم انہیں گناہوں کی طرف اکساتے ہیں اور مجاہد نے کہا

إِذَا عَوَّجَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَدَّ إِعْطَا شَأْنًا نَأَانَا كَأَنَّكَ إِذَا قَوْلَهُ لَا عَظِيمًا رَزَا

اور (۹۹) بیوی روٹ اور ابن عباس نے کہا ورد (۸۲) پیاسے انا فنادم مال احاد (۸۹) بیوی رضا ناک بات رزوا

صَوْنًا غَنَّا خَيْرًا نَأَانَا جَمَاعَةً بَاكٍ صِرَاطًا صَلِيًّا يَصِلُ نَدِيًّا وَالتَّادِي مَجْلِسًا

(۹۸) (خفیف) آواز غیا (۹۹) نقصان کیا (۸۰) ہاکی رفتی والا کی جمع ہے صلیبا (۸۱) بڑا گین نہیں ہونے والے صلیبی رستہ ہے (۸۲) نڈیا اور

(۸۱) بَابُ تَوَلَّاهُ وَآذَنَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرِ قَوْلُهُ ۱۹۴۰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فِي

باب اللہ تعالیٰ کا قول و آذنهہم اور انہیں انیس کے دن کی خبر ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَأْتِي السَّمُوتُ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَمَ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو بھڑکاتے ہوئے چکرے میں سے لایا جائے گا

فَيُنَادِي مَنْ أَدْبَارًا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْمَعُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا

پھر ایک پکار رہا ہے اے جنت والو! وہ جھانک کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا اس کو جانتے ہو

فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا السَّمُوتُ وَكُلُّهُمْ قَدْرًا أَهْلُ النَّارِ فَيَسْمَعُونَ وَيَنْظُرُونَ

وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر ایک سے دیکھ چکا ہے پھر پکارے گا اے آگ والو! جس کو جھانک کر دیکھیں

يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا السَّمُوتُ وَكُلُّهُمْ قَدْرًا أَهْلُ

تو وہ کہے گا اس کو جانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان میں سے ہر ایک سے دیکھ چکا ہے

یعنی امیر اور دنیا کی عزت کا مالک

۱۹۳۹
۱۹۴۰

فَيَذَرُكُمْ شِمًا يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خَلُّوْا فَمَا مَوْتٌ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خَلُّوْا فَمَا مَوْتٌ

پھر اسے ذبح کیا جائیگا پھر وہ کہے گا اے جنّت والو! اب خلو دو۔ اور اے دوزخ والو! اب خلو دو۔ موت نہیں ہوگی

ثُمَّ قَرَأُوا نِزْرَهُمْ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُوَ لَا يُفِي غَفْلَتَهُمْ

پھر اپنے پڑھنا ان دنوں پڑھو۔ یوم الحسرة اذ قضی الامر (یعنی) یہ لوگ اپنی دنیا غفلت میں ہیں

أَهْلَ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِالْمُرْسَلِ

اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ بَابُ قَوْلِهِ وَمَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِالْمُرْسَلِ (۲) اور ہم تیرے رب کے سوا نازل نہیں ہوتے

كُفْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوَدَّ بَعْضُكُمْ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ

اے کفریو! یا ایہذا جنہو نے کفر کیا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ہمیشہ مالی اور اولاد دیتے رہیں گے

(۳) بَابُ قَوْلِهِ أَطْلَعُ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ مِنْ عِنْدِ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالُوا مُتَقَاتِلًا

یا سب! اللہ تعالیٰ کا قول اطلع الغیب الخ (۳) کیا اسے غیب کی اطلاع ہو یا اس نے رحمان سے عہد لیا ہے (عہد مضبوط اقرار)

عَنْ خَبَائِثٍ (مكرر- ۱۰۴۳) بَابُ قَوْلِهِ كَلَّا سَدَّكُنَّ مَا يَقُولُ وَلَمْ نَدْرِكْ

دیکھو حدیث ۱۰۴۳۔ بَابُ قَوْلِهِ كَلَّا الخ (۴) ہرگز نہیں ہم کہتے ہیں گے جو وہ کہتا تھا

لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا (م- ۲۳۶۶) عَنْ خَبَائِثٍ (مكرر- ۱۰۴۳) بَابُ

ہے اور اس کیلئے عذاب میں مدد بھیج دیا جائیگا

قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْتَأَى مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْجِبَالُ

اللہ عزوجل کا قول و تر تآی ما یقول الخ (۵) اور ہم اس چیز کے وارث ہیں گے جو وہ کہتا ہے اور وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا اور ابن عباس نے کہا الجبال

هَذَا أَهْدَى مَا أُرْمَى (۲۳۶۶) عَنْ خَبَائِثٍ (مكرر- ۱۰۴۳)

ہذا (۲۳۶۶) (۲۳۶۶) (۲۳۶۶) (۲۳۶۶) دیکھو حدیث ۱۰۴۳۔

۲۔ سُوْرَةُ طه

۲۰۔ سورۃ طہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضَخَّكَ بِالسُّبْحَةِ طه يا رجل يقال كل ما لم ينظره حزن

ابن عبّاس اور ضخاک نے کہا یعنی زبان میں طہ کے معنی ہیں، اے مرد

أَوْفِيَتْ تَمَّتْ أَوْ فَاةٌ فَهِيَ عَقْدَةٌ أُرْزِي ظَهْرِي فَيَسْتَوْدِعُكَ يَهْلِكُكَ الْمَثَلُ

یادت رہو ہر جو یا فافہ پرک رک کر بولتا ہو تو اسے عقدہ کہتے ہیں ازری (۳) میری پیٹھ خستہ کر (۴) تمہیں ہلاک کر دے گا (۵) مَثَلُ (۶)

و شعبة و حفص و ابو موسى و دوكيع عن ابي عمير

قال كنت تينا بمكة فعملت للعاصي بن وايل السهمي سيفا فحنت اتقاضها فقال لا اعطيك حتى تكفر بعمدتي قلت لا انكف بصد صلعم حتى يدينك الله ثم يحميك قال اذا ماتني الله ثم بعثته ولي مال وولد فانزل الله افرايت الذي كفر بايتنا و قال لا وتين ما لا اولاد اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا لم يقل الا شجعي عن سفين سديقا ولا موثقا

م- ۱۰۴۳ کے نظر قریبا ۱۰۴۳ کے

۱۔ بیان نفل پر
ہیں۔ قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جبریل
ما یستعمل ان
توردا اکثر صفا
تورد فان نزلت
وما تنزل الا
بامر ربك له علیہ
ایں تینا و ما خلفنا
بنا ابترانی و
نقرے چھو کر
غنیف اختلافت
لفظی سے و و ہر یا
ہے۔ قال جنت
العاصی بروالہ
السہمی اتقاضها فقال
حقالی عندنا فقال
لا اعطيك حتى
تکفر بعمدتي
اللہ علیہ وسلم
فقلت لا حتى یورث
ثم تبعت قال و
افی لمیت ثم
مبعوث قلت نعم
قال ان لی هناك
ما لا اولاد
فاقضیکہ فمزنت
هذه الایة
افرايت الذی
کفر بایتنا و قال
لا وتین ما لا
ولدا و رواه الترمذی

تَأْنِيثُ الْأَمْتَلِ يَقُولُ بِدَيْبِكُمْ يُقَالُ خُذِ الْمَثْلَةَ خُذِ الْأَمْتَلَ ثُمَّ اتَّوَصَفَا
امثل کا مؤنث ہے جبے ملزم کہتا ہے کہ تارون رخا کر دیکھا جاتا ہے خذ المثلۃ خذ الامتل (مذکورہ) ثم اتوا صفا (۶۴)

علم خفیت اختلا
لفظی سے دوہرا یا
ہے۔ عن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال التثقا

يُقَالُ هَلْ آتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمَصْلَةَ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا فَادْجَسْ ضَمْرُ
کہا جاتا ہے کیا تو آج صف میں گیا تھا یعنی نماز کی جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے فَادْجَسْ (۶۵) دل میں

ادوم و موسی
فقال هو سنی لا اوم
انت الذی اشدت
الناس واخر حجتهم

خَوْفًا فَذَهَبَتْ الْوَاوُ مِنْ خَيْفَةً لِكُسْرَةِ الْخَاءِ فِي جُدُوْعٍ اُمِّي عَلَا جُدُوْعٍ
خوف معلوم کیا (خائفۃ) میں (واوری) سے بدل گیا کیونکہ کسر کا کسر ہے فی جند و جرد یعنی شافوں پر

من الجنة قال له
ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

خَطْبِكَ بِالْكَ مَسَاسٌ مَصْدَرٌ مَسَا سَا لَمَّا سَاكَ مَسَا سَا لَمَّا سَاكَ لَمَّا سَاكَ لَمَّا سَاكَ لَمَّا سَاكَ
خطبک (۶۹) تیرا مال مساس میں پھونکا مصدر ہے ماسہ ماساسا کا لسنسقتہ (۶۹) کبھی لہیں گے قاعا (۷۰)

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصِفُ الْمَسْبُوعُ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِنْ زَيْنَةَ الْقَوْمِ
دھول جس پر پانی بڑھ جائے اور صفصفت (۷۱) ہوا زمین اور مجاہد نے کہا من زینۃ القوم (۷۰)

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

الْحُلِيِّ الَّتِي سَتَعَادُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَقَدَّ فْتَهَا فَالْقَيْتَهَا أَلْفَى صَنَعَتْ فَنَسِي
وہ زیور جو انہوں نے فرعون والوں سے لٹک کر لیا تھا فَقَدَّ فْتَهَا (۷۱) میں نے اسے ڈالا الفی (۷۱) کیا فنیسی (۷۲)

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

مُوسَى هُمْ يَقُولُونَ زَكَ أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا العجل همس حش
موسی (رجول) گئے گئے کہ موسی رب (رجول) سے جو کہ گیا (لا يرجع إليهم قولا) یعنی پھرتا (همسار) (۷۲) پاؤں

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

الْأَقْدَامِ حَشْرَتِي أَعْلَى عَنِ حَجْرِي وَقَد كُنْتُ بَصِيرًا فِي لَدُنِّيَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
کی آہٹ حشروتی (اعلیٰ) (۷۳) میری دلیل سے راندا تھا یا ہم (وقد كنت بصيرا) یعنی دنیا میں (بصيرا) ہوتا تھا اور ابن

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

يَقْبِسُ ضَلُّوا الضَّرْبُ دَكَاؤُا شَاتَيْنِ فَقَالَ إِنَّ لَمْ أَحْجِدْ عَلَيْهَا مِنْ دَهْرٍ الطَّرِيقِ
عباس نے بقبس (۷۴) دکی تفسیر کرتے ہوئے کہا وہ رستہ بھول گئے تھے اور ان میں بڑی گدی گدی تھی تو موسی نے کہا اگر وہاں ایسا شخص بیہوش

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

إِنَّكُمْ بِنَارِ تُوْقِدُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمْطَلَهُمْ أَعْدَلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَضَمًا لَا
رستہ بھولے تو میں تمہارے پاس آگ لے آؤں گے تمہارا رستہ بھول گئے اور ابن عبین نے کہا امطلہم (۷۵) ان میں سے اعلیٰ وجہ الا اور ابن عباس

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

يُظَمُّونَ فِيهِمْ مِنْ حَسَنَاتِهِ عَوْجًا وَإِدْيَا أَمْثَلًا بِيَةِ سِدْرَتِهَا حَالَتَهَا الْأَدْوَى الثَّمَرِي
نے کہا ہضم (۷۶) اس پر ظم نہیں کیا جائیگا کہ اسکی نیلیاں تلف کی جائیں عوجا (۷۶) واوی یا پست میدان (امتارہ) (۷۶) یعنی ہوتی نہیں

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

الْتَقَى ضَنْكَا الشَّقَاءِ هَوَى شَقِي الْمَقْدِسِ الْمُبَارِكِ طُوى سَمِ الْوَادِي مَمْدُكِنَا
نہی (۷۷) تو نے ضنکا (۷۷) بدبختی ہوئی (۷۷) بدبخت ہوا مقدس (۷۷) برکت والی طوی (۷۷) واوی کا نام ہے بلکنارہ (۷۸)

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

يَأْمُرُ نَامِكَا نَا سَوَى مَنصَفٍ بَيْنَهُمْ يَسْبَأُ يَا يَسْبَأُ عَلِيٌّ قَدْرُ مَوْعِدٍ لَا تَسْبَأُ تَضَعَا
اپنے امتار سے مکا (۷۹) سوئی (۷۹) ان کے درمیان برابر قاعدہ پر بیسارہ (۷۹) سوکھا علی (۷۹) مقرر وقت پر کا امتار (۷۹) مذکور ہی نکلا

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

رَأَى بَابٌ قَوْلُهُ إِصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (م- ۳۳۶۸) حَنْ إِلَى هَرِيرَةٍ (متكرر- ۱۵۳۳) الْيَوْمَ الْبَحْرُ
باب اللہ تعالیٰ کا قول واصطنعتک (۸۰) اور میں نے تجھے اپنے لئے کمال توئی میں بنایا (۸۰) ویکو حدیث ۱۵۳۳ علی (۸۰) (۳۹) دریا

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

بَابٌ قَوْلُهُ لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ حَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَسْبَأُ
باب اللہ تعالیٰ کا قول ولقد اوحینا (۸۱) اور ہم نے موسی کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات بھاگ پھرائیں سمندر میں خشک رستہ پر

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

أَضَلَّ فِرْعَوْنَ تَوَدَاهُ وَمَا هَدَى (م- ۳۳۶۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۰۰۸)
ڈھانک لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور پیدھا رستہ ڈھانک لیا (۸۲) ویکو حدیث ۱۰۰۸ علی

ادوم انت الذی اصطفى
اللہ بربا لہ واصطفاه
لنفسه وانزل
علیک التورۃ

(۳) باب قوله فلا يخرجنكمما من الجنة فتشقق (م- ۳۳۷۰) عن أبي هريرة (متكرر ۱۵۳۳)

باب الشققی کا قول فلا الخ (۱۱۲) سورہ بقرہ میں دو قولوں کو جنت سے نہ نکلوانے دیکھو حدیث ۱۵۳۳ ع

۲- سورة الانبياء

سورة الانبياء ۲۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الشربہ التارجمہ والے بار بار رحم کرنا والے کے نام سے

(م- ۳۳۷۱) عن أبي هريرة (متكرر ۱۹۳۲) وقال قتادة جذا اذا قطعهن و

دیکھو حدیث ۱۹۳۲ ع اور قتادہ نے کہا جذا اذا (م- ۱۵۸) انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا

قال الحسن في ذلك مثل فلانة البغزل يسبحون يدورون قال ابن

اور حسن نے کہا میں نے اس کے بارے میں سورت کاتے کا چرف بسبحون (۳۳) قول پھر کاتے ہیں اور ابن عباس

عباس نقشت رخت يصحبون يمينون امثلة امرة واجدة قال دینک

نے کہا نقشت (م- ۷۸) چرخیں بصحبون (۳۳) بچائے جائیں گے امثلة امرة واجدة (۹۲) فرمایا تمہارا دین ایک ہے

دين واحد وقال عكرمة حصب حطب بالحبيشية وقال عذرة احسوا

اور عکرمہ نے کہا حصب (م- ۹۸) حبشی زبان میں ایندھن ہے اور عذروں نے کہا احتسوا (۱۲)

توقعوا من احسنت خا مدين ها مدين حصيد مستاصل يقع

توقع پائی احسنت زمین نے محسوس کیا ہے خا مدين (۱۵) مجھے بڑے حصید (۱۵) جڑ سے اٹھا لیا گیا

على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسرون لا يعيون ومنه حصيد

واحد متشبه (بجین شیروں) پر پولا جاتا ہے لا يستحسرون (۱۹) میں نشتے اور اسی سے ہے حصید دھکا

وحسرت يعزى عيين بئيد نكسوار و اصنعة لبوس الدروع تقطعوا

ہوا اور حسرت بجزوی میں نے اپنے اونٹ کو دھکا و بئید نكسوار (۲۷) اور لبوس (۲۵) وہیں لوٹنے گئے صنعة لبوس (۸۰)

امرهم اختلفوا الحسيس والحش والجرس والهلس واحد وهو من

زر میں بنانا تقطعوا امرہم (۹۳) اختلاف کیا حسیس (۱۰۲) اور حش اور جرس اور ہلس (۱۰۸) ایک ہی معنی ہیں اور

الصوت الحفي اذ ناك اعلمناك اذ نكك اذ اعلمتته فانت وهو على

دو پرت اور اسے اذ ناك (م- ۳۷۰) مجھے خبر ہے میں اذ نكك کہا جاتا ہے جب تو اسے خبر داری ہے پس تم اور وہ برابر

سواء لم تغدرو قال عمار هذا لعلكم تستلون تعهون ارتضى رضى

ہو گئے تو نے کوئی دغا نہیں کی اور عمار نے کہا لعلكم تستلون (۱۳) میں سمجھا جائے ارتضى (۲۸) راضی ہوا

الثمار مثل الاضنام السجل الضحيفة را باب قوله كما بدأنا اول خلقنا

تماثیل (۵۲) بت السجل (۱۰۸) خط باب الشققی کا قول كما بدأنا الخ (۱۰۲) جس طرح ہم

(م- ۳۳۷۲) عن ابن عباس (متكرر ۱۵۱۵)

دیکھو حدیث ۱۵۱۵ ع

علا یہ مکرر روایت ہے
بھی تقدے اختلان
لفظی سے آئی ہے۔
عن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم
قال حاجہ موسی
ادم فقال له
انت الذی اخرجتہ
الناس من الجنة
بن نیک عاشقینہم
قال قال ادم یا
موسی انت
الذی صطفاک
اللہ برسالتہ و
بکلامہ اتومنی
علی امرکتہ باللہ
علی قبل ان
تخلقہ اذ قدرة
علی قبل ان
تخلقہ قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فخرج ادم
موسی -
دیکھو نوٹ ۷۸
صفحہ ۷۷۸
۲ لفظ وہی ہیں
مگر بنی اسرائیل
کف مریم کے
ساتھ ملے اور
الانبیاء کا نام
بڑھایا ہے
۳ لفظ سورہ
خم السجدة میں ہے
میں اذ نیک علی
سواء (۱۰) کی
مناسبت اس کی
تفسیر لائی گئی ہے
وہا خفیف سا اختلاف
علا ہے
قال خطیب النبی صلعم فقال
انکم محشورون الی اللہ
حفاة عمراة غرلا كما بدأنا
اول خلق نعیده
وعلا علینا انا کنا
فعلین ثم ان اول من
یکسبہ یوم القیمة ابرہیم
الا اندیجاہ برجال من
امتی روہاں سے اناس
من اصحابی فیخرجنہم ذات
الشمال فانزل یارب
اصحابی فقال لا تدری ما
احد او ادرک ما قول
کما قال العبد الصائم وکنت
علیہم شہید املہمت الی
قوله شہید فیقال ان
لہو لاء

بسم یزوالہ امرتین علی
نہما و اولتہم دیکھو نوٹ
صفحہ ۷۷۸

تفسیر لائی گئی ہے وہا خفیف سا اختلاف علا ہے قال خطیب النبی صلعم فقال انکم محشورون الی اللہ حفاة عمراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعیده وعلا علینا انا کنا فاعلین ثم ان اول من یکسبہ یوم القیمة ابرہیم الا اندیجاہ برجال من امتی روہاں سے اناس من اصحابی فیخرجنہم ذات الشمال فانزل یارب اصحابی فقال لا تدری ما احد او ادرک ما قول کما قال العبد الصائم وکنت علیہم شہید املہمت الی قوله شہید فیقال ان لہو لاء

۲۲۔ سُورَةُ الْحَجَّةِ

سورۃ الحج ۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور ابن عیینہ نے کہا مختصین (۳۴) سکون (طلب) والے اور ابن عباس نے کہا فی اہنیۃ (۵۲)
وَقَالَ بَنُ عَیْنَةَ الْمُخَبِّرِیْنِ الْمُطَبَّرِیْنِ وَقَالَ بَنُ عَمَّارٍ فِيْ اٰمِنِيَّتِهِ

اذا حذت اللف الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقى لشيطان ويحكم
جب رسول بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں القاء کرتا ہے اور اس سے جو شیطان نے کہا اور اپنی آیتوں

آياته ويقال امنيته قراءته الا ما في يقرءون ولا يكتبون وقال مجاهد
کو قائم رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اہنیۃ رسول کا پڑھنا ہے الا امانی (البقرہ - ۱۷۸) پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہا جسے کہا

مشيد بالقصة وقال غيره يسطون يقرطون من السطوة ويقال يسطون
مشید (۲۵) (دفعہ کیا گیا) چوزے اور اوروں نے کہا یسطون (۷۲) زیادتی کرتے ہیں (یہ) سطوت سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ یسطون

ييطشون وهذا الى الحبيب من القول (۲۴) احوالہم کیا گیا اور ابن عباس نے کہا بسبب (۱۵) رسی
لالي سقبت البيت تدهل تشغل را باب قوله وترى الناس سكارا

وهم لا يعلمون
جو گھر کی چھت تک لگی ہو تازا ہل (۲۴) مشغول بولے باب اللہ تعالیٰ کا قول وتری الناس (۲۴) اور تو لوگوں کو توڑے سمجھ گیا

(۲۳) عن ابن سريج (متا ۱۵۱۴) باب قوله ومن الناس من يعبد
دیکھو حدیث (۱۵۱۴) باب اللہ تعالیٰ کا قول ومن الناس (۱۱) اور

الله على حرف ساء فان اصابه خيرا اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على
لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خیر کو بھی ٹھکیرا کر اٹھاتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے

وغيره خيرا الدنيا والاخرة الى قوله ذلك هو الضلال ليعبدوا لغيرنا هم ولسنا بهم
تولینے میرا پھر جاتا ہے دنیا اور آخرت میں گمٹھے میں رہا اللہ کے قول ذلك هو الضلال اللعین تک اترونا ہم را ليعبدوا لغيرنا هم ولسنا بهم

(۱۹۴) عن ابن عباس قال ومن الناس من يعبد الله على حرف قال
ابن عباس سے روایت ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف (کا ذکر کرتے ہوئے)

كان الرجل يقدم المدينة فان ولدت امرأته غلاما وشجحت خيلة
بعض لوگ مدینہ آتے تو اگر کسی کی بہوی لڑکا منی اور اسکی گھوڑیاں نیچے خنٹیں

رکاوٹ پیدا ہوگی مگر روایت کسی قدر اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عزوجل یوم القيمة یا ادم
یقول لبدک دنیا وسعدیک فیما اذی بصوت ان اللہ یا مرک ان تخرج من ذریک بعث الی النار قال یا رب وما بعث النار قال من کل
البت اذ اذ قال سمعا ثمة وتسعة وتسعين فخذین تضع الیما مل حملها ویشیب الولید وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا
لکن عذاب اللہ شدید فشق ذلك علی الناس حتی تعیروا وجوههم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یا جوج وها جوج تسعین
وتسعة وتسعین منکم واحد ثم انتم فی الناس کیا لشعرة السواد اع فی جنب الثور الامیض ادکا لشعرة البیضاء فی جنب الثور
الاسود والی لا رجوان تکووا ربعا اهل الجنة فکبرنا ثم قال ثلث اهل الجنة فکبرنا ثم قال شطرا اهل الجنة فکبرنا قال ابواسامة عن الاعمش ترے
الناس سکارا وما هم بسکارا وقال من کل العت سمعانة وتسعین وقال جریر وعیسیٰ ابن یونس وایمویة سکری وما هم بسکری وکعبون وکعبون

الحج برجال بیان
وحی الکی کا ذکر
نہیں کہ شیطان
اس میں القاء کرتا
ہے بلکہ حدیث
کا لفظ استعمال
کیا یعنی رسول
جو باتیں کرتا ہے
تو اس سے زیادہ
سے زیادہ یہ نتیجہ
نکالا جاسکتا ہے
کہ احادیث نبوی
میں بعض ایسی
باتیں داخل نہیں
اور پھر ان کا اصل
کو دینا یہ ہے کہ
قرآن کریم پر پیش
کرنے سے ان کا
باطل ہونا ظاہر
ہو جاتا ہے اس
لئے کہ ایسی باتیں
کو قائم رکھنے کا
ذکر ہے اور اس
بات یہ ہے کہ
امنیۃ آرزو ہے
اور شیطان کا
القائمی کی
آرزوؤں میں اس
کا دخل دینا ہے
تاکہ نبی جو چاہتا
ہے اس کا وہ میں

تاریخ

۱۱

بعض لوگوں کا ذکر ہے بہر قوم میں ایسے جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں۔
 ۱۳۹۷ میں جو
 بن قیس حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کی مکرروایات میں بھی وہ حضرت علی سے اور بھی ابوذریعہ سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ ۱۸۸۱ اور ۱۸۸۳ اور ۱۸۸۴ اور ۱۸۸۲ میں اور حضرت علی سے یہاں ۲۳۷۲ ابوذریعہ سے روایت ہے۔ اور ۲۳۷۵ میں حضرت علی سے سب کا مشہور ہے کہ یہ روایت ہے۔ ہذا ان خصمان بد کے دن مقابلہ حضرت علی اور حمزہ اور عبیدہ کا ہفتا کے بین آدمیوں سے ہوا ان کے متعلق ہے اس سبب دیکھو تفسیر صفحہ ۹۳۸

قَالَ هَذَا دِينٌ صَالِحٌ دَرَانٌ لَمْ تَلِدِي امْرَأَةً وَلَمْ تُنْتِجِي خَيْلَةً قَالَ هَذَا دِينٌ

تو اس یہ ایمان ہے اور اس کی بیوی نہ بنتی اور اس کی گھوڑیاں بھی نہ بنتیں تو کہا یہ دین

سُورَةُ (۳۱) بَابُ قَوْلِهِ هَذَا إِنَّ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَجْمِهِمْ (۵-۴۷-۳۳) عَنْ

ابراہیم علیہ السلام اشرفی کا قول ہذا ان (۱۹) یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رجم کے بارے میں جھگڑا کیا

أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ (مُتَكَرِّرًا - ۱۷۹) (۵-۴۵-۳۳) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۷۹)

دیکھو حدیث ۱۷۹ دیکھو حدیث ۱۷۹

۳۳- سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سورہ المؤمنون - ۲۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبَعٌ طَرِيقٌ سَبْعٌ سَمَوَاتٌ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمْ

اور ابن عباس نے کہا سب سے طر (۱۷) سات آسمان لہا سابقون (۱۶) ان کے لئے پہلائی ہے جاتی ہے

السَّعَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ خَالِفِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ هَاتِيهِمَا تَبَعِيدُ

تو یہم وجلہ (۱۶) دُور تے ہیں اور ابن عباس نے کہا ہیجات ہیجات (۳۶) دور ہے

بَعِيدًا فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَنَأْكُبَنَّكَ الْعَادُوْنَ كَالْحَدَّادِ عَادِيْنَ هُنَّ

دور ہے فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ (۱۱۳) رکنے والے (۱۱۳) لٹا کیوں (۱۱) رستہ سے) ہٹ کے ہیں کا لحن (۱۱۳) گڑھے ہوئے

سَلٰكَةِ الْوَالِدِ وَالنُّطْفَةِ الْمَلَائِكَةُ وَالْجُنَّةُ وَالْجَنُّونُ وَاحِدٌ وَالْعُثَاكُ الْزَبَدُ

مذ والے من سلاۃ (۱۲) ولد اور نطفہ سلاۃ (۱۲) جنت (۲۵) اور جنوں کے معنی ایک ہیں اور عُثَاكُ (۳۱) جھاگ ہے

وَمَا اَرْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ يَجَارُونَ يَرْفَعُونَ اَصْوَاتَهُمْ كَمَا يَجَارُ

اور ہر وہ چیز بھی جو پانی کے ادا ہو جائے اور ہر وہ چیز جو کام نہ آئے جَارُونَ (۲۴) اپنی آواز نکالتے ہیں جیسے گائے

الْبَقَرَةِ عَلَى اَعْقَابِكُمْ رَجَعُ عَلَى حَقْبَيْهِ سَامِرٌ مِنَ الشَّمْرِ وَالْجَمِيْعُ السَّمَارُ

دشمنی کے وقت آواز نکالتی ہے عَلَا اعْتَقَابُ بقرہ (۲۶) وہ اٹھ باؤں پھر گیا رجاور ہے سَامِرٌ (۲۶) سمر سے بنا اور اجمیع سمار ہے

وَالسَّامِرُ هُنَا فِي مَوْضِعِ الْجَمْعِ تَسْمُرُونَ تَعْمُونَ مِنَ السَّحْرِ

اور سامر یاں جمع کے معنی میں ہے تَسْمُرُونَ (۸۹) اندھے ہو رہے ہو سحر سے ہے

۲۴- سُورَةُ النُّوْرِ

سورہ النور - ۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ خَلَالِهِ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِ السُّحَابِ سَنَابِقُ الرَّحْمٰنِ سَنَابِقُ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ

من خلالہ (۲۳) باؤں کے پردوں کے تقاب سے سَنَابِقُ الرَّحْمٰنِ (۲۳) اس کی بجلی کی روشنی من عنین (۲۹) عاجزی

لَيَسْتَسْتَفِيضِي مِنْ عَيْنِ اَسْتَأْتَا وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى وَشَتَّى

کرنیوالے کو من عنین کہا جاتا ہے اَسْتَأْتَا (۲۱) اور شتَّى (۵۳) اور شتات اور شت کے ایک ہی معنی ہیں اور ابن عباس نے کہا

یہاں ۲۳۷۲ میں ہذا ان خصمان اختصموا فی رجمہم نزلت فی حمزہ و صاحبہ و عبیدہ و صاحبہ یوم برونہ فی یوم بدو اور ۲۳۷۵ کے لفظ ۱۷۹ کے ہیں

سورۃ انزلناھا بیتاھا و قال غیرہا سُمی القرآن بجماعۃ السور و سُمیت السورۃ

سورۃ انزلناھا بیتاھا، معنی کہ تم نے اسے کہا قرآن نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ سورتوں کو اکٹھا کرنا لایا ہے اور سورت نام

لائھا مقطوعۃ من الاخری فلما قرین بعضھا لالی بعض سُمی قرانا و قال

اسلئے رکھا گیا کہ وہ دوسری سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور جب بعض سورتیں بعض سے مل گئیں تو اس کا نام قرآن رکھا گیا اور سعد بن

سعد بن عباد الشماخی البشکاة الکوفیہ بلسان الحبستہ و قوله تعالی ان

علیما ثمالی نے کہا کہ مقطوعہ ۲۵ حبشی زبان میں طاقی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول ان

علینا جمعا و قرانہ تالیف بعضہ الی بعض فاذا قرانا کا فایعہ قرانہ فاذا

علینا جمعا قرانہ (القلم ۱۰) یعنی ہم پر اس کے بعض حصوں کا بعض کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے فاذا قرانا وہ فاتحہ قرانہ (یعنی جب ہم

جمعا کا و الفکاء فایعہ قرانہ امی ما جمع فیہ فاعمل بما امرک و انتہی

اس کو اکٹھا کریں اور تکرار کریں فاتحہ قرانہ تو تم اس کی پیروی کرو جو اس میں جمع کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرو جو کتاب میں حکم دیا اور اس

نہاک اللہ و یقال لیس بشعرہ قران امی تالیف و سُمی الفرقان لانه یفرق

سے رک جاتی ہے، شے میں روکا ہے اور کہا جاتا ہے لیس شعرہ قران یعنی اس کے شعروں میں جو نہیں اور فرقان اس نام رکھا گیا کہ وہ

بین الحق والباطل و یقال للمرأة ما قرأت بسلاقط امی کم تجمع فی فطیما

حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اور عورت کی نسبت کہا جاتا ہے ما قرأت بسلاقط یعنی اس نے اپنے پیٹ میں کچھ کبھی نہیں رکھا

و کذا و قال فرضناھا انزلنا فیہا قران محتلفہ و من قرأ فرضناھا یقول

اور کہا فرضناھا را، ہم نے اس میں مختلف فرما لیں اور جس نے پڑھا ہے فرضناھا را، سمجھتے ہیں کہ ہم نے تم پر اور ان

فرضنا علیکم و علی من بعدکم قال مجاہد او الطفل الذین لم یظہروا لم

پر جو تمہارے بعد آئیں گے فرض کر دیا ہے اور مجاہد نے کہا او الطفل الذین لم یظہروا را، جن کو تم سنی کی وجہ سے

یدرد المرابہم من الصغر و قال الشعبي اولی الاربابۃ من لیس لہ ارب

(تعلق ازواج) کا علم نہیں اور شعبی نے کہا رخیوں اولی الاربابۃ (۳) وہ جن کو حاجت ازواج نہ ہو

و قال طاؤس هو الاصح الذی لا حاجۃ لہ فی النساء و قال مجاہد لا

اور طاؤس نے کہا کہ وہ اصح جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہے اور مجاہد نے کہا جس کو

یؤمنہن الا بطنہ و لا یحاف علی النساء را، باب اللہ تعالیٰ کا قول والذین الحد (۲) اور جو لوگ

آذوا جہم ولکہ یکن لہم شہد اعداؤہم انفسہم فشہادۃ احبم اربع شہادات

اپنی شہادیں پر تمہارے گواہوں اور سوائے اپنے آپ کے ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے

یا للہ انہ لکن الصادقین (۱۹۲) عن سهل بن سعد ان غویمرًا اتی حاصم

ساتھ چار بار گواہی دے کہ وہ سچوں میں سے ہے سهل بن سعد سے روایت ہے کہ غویمر نام بن عدی کے پاس آیا

ابن عدی و کان سید بنی عجلان فقال کیف تقولون فی رجل و جدمع

اور وہ بنی عجلان کا سردار تھا تو کہا کہ تمہارا اپنے شخص کے بارہ میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ

امرآتہ رجلا ایقنلہ فتقولونہ ام کیف یصنع سئل فی رسول اللہ صلی اللہ

کسی شخص کو پانے کہا وہ اسے قتل کرنے تو پھر تم اسے قتل کرو گے یا پھر وہ کیا کرے تم میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

علیہ وسلم عن ذلک فاتی حاصم البی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول

اس کے متعلق دریافت کرو تو حاصم بن علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ

۱۱۲۵

اللَّهُ فُكِرَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلُ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرُ فَقَالَ رَأَتْ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کو ناپسند کیا عویر نے عام سے دریا فت کیا تو عام سے جواب

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ دَعَا بِهَا قَالِ عُوَيْمِرُ وَاللَّهِ لَا أَتَمْنَى

وایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کو ناپسند کیا اور محبوب سمجھا تو عویر نے کہا اللہ کی قسم میں رک نہیں سکتا

حَتَّى آسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فِجَاءَ عُوَيْمِرُ فَقَالَ يَا

یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھوں عویر حاضر ہوا اور عرض کیا

رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ يَبْتَغِي يَصْنَعُ فَقَالَ

رسول اللہ ایک شخص ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھا تو کہا وہ اسے قتل کرنے تو میرا آپ اسے قتل کرے گا یا وہ کیا کرے تو

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن اتار دیا ہے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن اتارا اور دونوں کو

فَأَمْرُهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَلَأَعْنَةَ بِمَا سَمِعَ لِي اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

آپ نے ان کے لئے حکم دیا جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے پس اس نے اپنی

فَلَا عَنَّا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُمَا فَقَدْ ظَلَمْتُمَا فَطَلَقْتُمَا فَمَا كُنْتَ

بیوی سے لگا کر عویر نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اسے روکے رکھوں تو میں اس پر ظلم کروں گا تو اس نے اسے طلاق دی پس

سُئِلَ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي نِسَائِهِمَا ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ان کے بعد ان کے بیویوں میں میری طرف لیا جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ أَنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمُ أَدْعِيهِ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمِ الْأَلَيْتَيْنِ خَدَّيْهِ

دیکھو رہو اگر وہ دعوت اسانوار کالی آنکھوں والا بڑے سرین والا سونے پتھر لہلہ

السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا لَأَقْدَمُ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمِرُ كَأَنَّ

دالا رجبہ جیسے تو میں سمجھوں گا عویر نے اس کے متعلق کچھ کہا اور اگر وہ سرخ گڑھی کی طرح رجبہ جیسے

وَحَرَّةٌ فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا لَأَقْدَمُ كَذَبَ عَلَيْهَا فِجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي

تو میں سمجھوں گا عویر نے اس پر افترا کیا ہے پھر اس عورت نے اس شکل پر بچھ جانا

نَعْتِ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویر کی تصدیق میں بیان کیا تھا پس وہ بچھ بعد میں اس کی

يُنْسَبُ إِلَى أُمَّهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ مِنْ

طرف منسوب ہوتا تھا باب اللہ تعالیٰ کا قول والحادیہ الحامسہ اور پانچویں (بار) کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو اگر وہ

الَّذِينَ يَأْتُونَ رِبَاً وَمَنْ يَأْتُونَ رِبَاً وَمَنْ يَأْتُونَ رِبَاً وَمَنْ يَأْتُونَ رِبَاً وَمَنْ يَأْتُونَ رِبَاً

جوہڑوں میں سے ہو دیکھو حدیث ۱۹۴۲ باب اللہ تعالیٰ کا قول

يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ

دیندار اگر مرد اور عورت سے یہ بات مزاکوٹال سختی ہے کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار کہے کہ وہ (مرد) جوہڑوں میں سے ہے

(۱۹۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِرَالَةَ بِنْتُ أُمِّ مَيْمُونَةَ قَدَفَتْ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی بیوی پر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكَ بَرِّسِحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْمُونَةُ أَوْحَدٌ

شریک بن سحما کے ساتھ زنا کا الزام لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحما (لاؤ) یا تیری بیٹی پر

۱۷
مکر روایت اخفا
سے آئی ہے اور
ایک دو فقرے
زیادہ بھی ہیں۔
ان رجلاً انی
رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
فقال یا رسول
اللہ ارایت رجلاً
راہی مع امراتہ
وجلا ایقتلہ
فتقتلوا ذاکم
یقول فانزل
اللہ فیہما ما ذکر
فی القوان
من التلاعن
فقال لہ رسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم قد
قضی فیك و فی
امراتک قال
تلاعننا وانا
شاہد عند رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فقارحما
تکانت سنة ان
یقرین بین المتلاعنین
وكانت حاکماً
فانکر حملها وکان
ابنہا یبغی الیہا
ثم جوت السنة فی
المیراث ان تخطا
وتوفت منه ما
فرض اللہ لہا

۱۹۴۲
۱۹۴۳

فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَرَايَ أَحَدًا عَلَى مَرَاتِهِ رَجُلًا يَنْطَرِقُ بِلَيْتِمُسْ

صگے گی تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے

الْبَيْتَةِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِبَيْتَةِ وَرَأْسِ أَحَدٍ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ

جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے گواہ بلائی اور نہ تیسری پہنچ پر حد لگے گی تو بلال

هَلَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِأَحْسَنِ لِي لَصَادِقٍ فَلْيَزِنَنَّ اللَّهُ مَا يَزِنُهُ ظَهْرُهُ

نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں سچا ہوں اور ضرور اللہ تعالیٰ وہ انارنگا جو میری بیٹھ کو حد سے

مِنَ الْحَدِّ فَتَنْزَلَ حَبْرًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى

بری کرے پس جبریل نازل ہوئے اور آپ پر یہ آیت اتاری اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں (۶)

بَلَعَهُ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَانصُرْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ لِيهَا

تو اپنے پر پھا یا تاکہ ان کان من الصادقین تک پہنچے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوئے اور اس دعوت کو قبول بھیجا

فَجَاءَ هَلَالَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا كَمَا

پس بلال آیا اور اس نے گواہی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک جھوٹا

كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ تَأْتِيكُمُ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

ہے پس کیا تم میں سے کوئی توہم کر نیوا لہے پڑھ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے گواہی دی جب باپچوں کو ہی آئی تو لوگوں نے

وَقَفُّوْهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ فَتَلْكَاتٌ وَكَصَبَتْ حَقِّي ظَنًّا

اُسے روکا اور کہا کہ یہ گواہی رذالہ ہے واجب کر نیوالی ہے ابن عباس کہتے ہیں تو وہ جھجکی اور رک گئی یہاں تک کہ بہنے خیال

أَنَّهُمْ تَرَجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَمُ قَوْمِي سَأْتِ الْيَوْمَ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کیا کہ وہ گواہی سے پھر جائیگی پھر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو ساری عمر سوا نہیں کر سکتی پس وہ (گواہی) دے گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرُ وَهَذَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهَا أَحْمَلُ الْعَيْنَيْنِ سَابِغًا لَا لِيَتَبَيَّرَ خَدَّيْ

نے فرمایا اسے دیکھتے رہو اگر اس نے کالی آنکھوں والا موٹے سر میں والا موٹی پٹریا

السَّاقَيْنِ هُوَ شَرُّ رِيكٍ بَيْنَ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهَا كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

والا جنا تو وہ شریک بین سحما کا ہے پس اس نے ایسا ہی رچھم جنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ (۴۴) بَابُ قَوْلِهِ وَ

اگر اللہ کا حکم نہ آیا ہوتا تو میرا اس کے ساتھ کچھ اور سلوک ہوتا بابت اللہ تعالیٰ کا قول

الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱۹۴۴) عَنِ

والخامسة (۱۹) الخ اور پانچویں دہائیہ کہ اللہ کا غضب اس پر ہو اگر وہ بچوں میں سے ہے ابن عمر سے

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا رَمَى مَرَاتِهِ فَانْتَفَعْنَا مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ

روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا اور اس کے بچہ کا باپ ہونے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَاعَنَا

(سے) انکار کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے متعلق حکم دیا پس دونوں نے جان کیا

كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ (۵) بَابُ قَوْلِهِ إِنْ

جس طرح اللہ نے فرمایا پھر آپ نے بچہ کے متعلق فیصلہ دیا کہ عورت کا ہے اور لعان کر نیوالوں کو جدا کر دیا بابت اللہ تعالیٰ کا قول

الَّذِينَ جَاءُوا بِأَكْبَابِكُمْ فَكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ خَيْرٌ لَكُمْ

ان الذین (۱۱) جن لوگوں نے جھوٹا بنا یا وہ ہمیں میں سے ایک گروہ ہے اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے

۱۹۶۱

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ

ان میں سے ہر ایک کیلئے وہی ہے جو اس نے گناہ کیا اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ لیا اور لیا اس کیلئے بڑا دکھ ہے افاک کتاب

عَظِيمٌ اَفَاكُ كَذَا ب (م- ۲۳۴۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (مکرر- ۱۲۴۶)

ہے بہت جھوٹا بولنے والا دیکھو حدیث ۱۲۴۶ ع

(۶) بَابُ قَوْلِهِ وَ لَوْ كَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَكْتُمُ بِهَذَا سُبْحَانَكَ

باب ۱۱۲۸ اشرف تعالیٰ کا قول دلو لا الخ (۱۱۲۸) اور جب تم نے اسے سنا کیوں نہ تم نے کہا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ اس کے متعلق چاہیں کریں

هَذَا اِبْهَتَانٌ عَظِيمٌ لَوْ كَا جَاءَ وَعَلَيْكُمْ يَا رُبْعَةَ شَهِدَا فَاذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالْشَّهَادَةِ

تو پاک ہے یہ بڑا بہتان ہے کیوں نہ اس پر جاگروا لائے پس جب گواہ نہیں لائے

فَاذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالْشَّهَادَةِ عِنْدَ اللّٰهِ هُمْ الْكٰذِبُوْنَ (م- ۲۳۴۸) عَنْ اَبْنِ شَهَابٍ (مکرر- ۱۲۴۶)

تو اللہ کے نزدیک یہ یقیناً جھوٹے ہیں ع دیکھو حدیث ۱۲۴۶ ع

(۷) بَابُ قَوْلِهِ وَ لَوْ كَا فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ لَمْ تُكْرَمُوْا

باب ۱۱۲۹ اشرف تعالیٰ کا قول دلو لا فضل الخ (۱۱۲۹) اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس بات کا

فِيْمَا اَفْضَيْتُمْ فِيْهِ عَدْلٌ عَظِيْمٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَلَقَّوْهُ نَهْ يَرُوْهُ بَعْضُكُمْ عَنْ

تم نے جو چاہا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچا ہوتا اور مجاہد نے کہا تعلق نہ (۱۱) تم ایک دوسرے سے روایت کرتے

بَعْضٌ تَقْبِضُوْنَ تَقْوُ لُوْنَ (م- ۲۳۴۹) عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ (مکرر م- ۱۵۹۶)

تقبضون (رواں- ۱۶۱) تم کہتے تھے دیکھو حدیث ۱۵۹۶ ع

(۸) بَابُ قَوْلِهِ اِذْ تَلَقَّوْهُ بِالْسِّنْتِكُمْ وَ تَقْوُ لُوْنَ يَا قَوْمِ اِهْكُمْ فَا لَيْسَ لَكُمْ فِيْهِ

باب ۱۱۳۰ اشرف تعالیٰ کا قول اذ تعلقو الخ (۱۱۳۰) جب تم اپنی زبانوں سے اسے لیتے تھے اور اپنے مونوں سے وہ بات کہتے تھے

عِلْمٌ وَ تَحْسِبُوْهُ نَهْ هَيْبًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (م- ۲۳۸۰) عَنْ اَبْنِ اَوْمِيَةَ (مکرر-)

جس کا میں علم نہ تھا اور تم اسے آسان سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بھاری بات تھی دیکھو حدیث

(۱۱۴۹۸) بَابُ قَوْلِهِ وَ لَوْ كَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَكْتُمُ

باب ۱۱۴۹۸ اشرف تعالیٰ کا قول دلو لا اذ سمعتمو الخ (۱۱۴۹۸) اور جب تم نے اسے سنا کیوں نہ تم نے کہا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ

بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا اِبْهَتَانٌ عَظِيْمٌ (م- ۱۱۹۴۵) عَنْ اَبْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ

کہ اس کے متعلق چاہیں کریں تو پاک ہے یہ بڑا بہتان ہے ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہا

اَسْتَاذَنُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَيَّ عَائِشَةَ وَ هِيَ مَغْلُوْبَةٌ قَالَتْ اَخْشَى

ابن عباس نے حضرت عائشہ کی وفات سے پہلے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی اور وہ بیمار تھی مغلوب ہو چکی تھیں تو میں نے کہا میں نے تو

ع ۱۲۴۶ حدیث
لمبی حدیث ہے۔
یاں اسکے ابتدائی حصہ کے ایک فقرہ کو دوہرایا ہے۔
والذی تولى کبره
قال عبد الله
ابن ابی بن موله
ع ۱۲۴۶ گواہ تھے
نه کوئی قرینہ تھا۔
اور یہ مرثا یا ایک بیان تھا۔
حدیث ۱۲۴۶
حضرت عائشہ پر
اکٹکے تھے میں ہے
اور حضرت عائشہ
نے ہی سے بیان
کیا ہے۔ یاں
مکرر روایت کو
بہت تخفیف لکھا
لفظی سے بیان کیا
ہے۔ صرف ایک دو
جگہ تفصیل کی زیادہ
ہے۔ مثلاً جہاں
صفحات کے حضرت
عائشہ کو دیکھنے اور
اور اس طرح کا
ذکر ہے وہاں
بڑھا یا ہے۔
نخبرت وہ بھی
جلبا بی واللهما

کلمتی کلمة ولا سمعت منه کلمة غیر استرحا عا یا ہر قضائے حاجت کیئے جائیے تو کہیں ہے۔ ۱۔ کنا ننا ذی بالکنت ان متخذنا عند موتنا یعنی گھروں کے قریب یا فاندہانے میں ہم تکلیف محسوس کرتے تھے۔ ام سطح کے ذکر میں بڑھا یا ہے داعھا بنت حفص بن عامر خالة ابی بکر الصديق وابھا مسطح ابن اثانة۔ آنحضرت پر حضرت عائشہ کی بریت کی وجہ کے نزول کے ذکر میں ہے کہ آپ کو سردی کے دن میں بھی وحی کے وقت پسینہ آجاتا تھا یاں اس کی وجہ بڑھائی ہے۔ من قتل القول الذی ینزل علیہ یعنی اس وحی کی شدت کی وجہ سے جو آپ پر نازل ہوتی تھی اور آخر پر زینب بنت جحش کے ذکر کے بعد بڑھا یا ہے و طغقت انتھا صفة قتلاب لها فہلکت فیہن ہلک من اہباب الافک ہ ملک م ۵۹۶ کو ملاحظہ کی مکرر روایت صرف اس لحاظ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں جن جملہ کا ذکر ہے وہ مکتوب کے ذکر و واقعات میں سے ایک ہے مگر وہ روایت حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان کی ہے اور حدیث ۱۲۴۶ حضرت عائشہ کی اپنی حدیث ہے۔ یاں ام رومان سے صرف یہ ایک جملہ مروی ہے اھا قالت لما رويت عائشة حوت متشكبا علیها لیکن م ۱۹۹ میں ام رومان کی روایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ دیکھو نوٹ ۲۵ صفحہ ۹۰۵ م ۱۹۹۷ کا صرف پہلا جملہ یہاں ہے۔ سمعت عائشة در لوی ابن ابی ملیکہ میں اور وہی ۱۹۹۷ کو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں تقریبا اذ تلقونه بالسننکم م ۱۹۹۷ میں مزید تصریح ہے کہ لونی جس سے تلقونه نکلا ہے کذا جب مکرر قرآن کریم میں لفظ تلقونه ہے۔

أَنْ يَتَنَبَّأَ عَلَيَّ فَقِيلَ ابْنُ عَمْرٍو رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَمِّنَ فِي جَوْهٍ

کہ وہ میری تعریف کریں گے کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھکے بیٹے ہیں اور مسلمانوں میں بڑے

الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِنَّ نُوَالَهٖ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِيْكَ قَالَتْ بِخَيْرٍ اِنْ اَلْقَيْتُ

آؤمیوں میں سے ہیں تو فرمایا انہیں اجازت دیدو ابن عباس نے کہا آپ کی کیا حال ہے فرمایا اگر تقویٰ پر ہوں تو خیر ہی ہے

قَالَ فَاَنْتِ بِخَيْرٍ اِنْ شَاءَ اللهُ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ

راہن عباس نے کہا پھر تو اللہ چاہے تو خیر ہے (آپ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور آنحضرت صلی

يَكْفِيْكُمْ يَكْرًا غَيْرِكُمْ وَنَزَلَ عُدْرُكُ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَةً فَقَالَتْ

نے آپ کے سوا کسی کوٹاری سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی برأت آسمان سے اتری اور ابن عباس کے پیچھے ابن زبیر داخل ہوئے تو حضرت

دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتَّشَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ اَنْيْ كُنْتُ نَسِيًا مِّنْ سَيِّئَاتِهِ اَبَا ب

عائشہ نے کہا کہ ابن عباس آئے اور میری تعریف کی اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھولی بھولی ہوتی ہوں

قَوْلِهِ يَعْظُمُ اللهُ اَنْ تَعُوذُوا بِمَثَلِهِ اَبْدًا ر-م-۲۳۸۱ عَنْ عَائِشَةَ ر

راہن (متکرر-۱۷۹۹) باب قولہ وَيُمَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْاٰلِيَّتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

راہن (متکرر-۱۷۹۹) باب قولہ اِنَّ الدِّيْنَ

يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّيْنِ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْاَلِيْمِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَ

اللَّهُ رُوْفٌ رَحِيْمٌ تَشِيْعٌ تَطَهَّرَ ر-م-۱۱۱۱

وَالسَّعَةِ اَنْ يُوْتُوْا اَوْلِيَ تَقْرُبِيْ وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

وَلِيَعْفُوْا اَوْ لِيُصْفُوْا اَلَا يُحِبُّوْنَ اَنْ يُعْفَرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

حفت عائشہ کو اتنا بھی پسند نہ ہوا کہ موت کے وقت کوئی شخص ان کی تعریف کرے اور اس لئے انہوں نے حضرت ابن عباس کا آنا پسند نہ کیا اور آخر جب

اجازت دی اور انہوں نے ایک دفعہ معمولی کلمات تعریف کے کہے تو آپ نے فرمایا اس سے بتر تھا کہ میرا کوئی نام لینے والا ہی نہ ہوتا۔ یہ حدود ہر کانسا رہے جو رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دونوں کے اندر پیدا کر دیا تھا حضرت عمر کے کارنامے مرووں میں اور حضرت عائشہ کے جو توڑوں میں بے نظیر ہیں۔ مگر دونوں نے وفات

کے وقت اس بات کو پسند نہ کیا کہ کوئی ان کے مز پر تعریفی لکھ لکھے۔ اسی بیان حدیث کچھ اختصار سے اور کچھ نقلی اختلاف سے آئی ہے، قالت حار حسان ابن

ثابت یساذن علیہا قلت انا ذابن لهذا قالت اولیس قد اصابہ عذاب عظیم قال سفیان تعنی ذهاب بصوہ فقال - حسان ذوان ما تخرق بریة + وتصبر غری من محوم الخواقل - قالت لکن انت + ۱۷۹۹ میں یہ تفریح موجود ہے کہ جب مشرق نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں جس نے آپ پر ایک ہانڈھنے میں ہمدلیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا انہ کان یا ناخر اوہماجی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی تفریح آگے مکرر روایت میں موجود ہے۔ وقد کان یود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم + ۱۷۹۹ بہت تخفیف اختلاف لفظی سے ۱۷۹۹ کو دوہرایا ہے +

علا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھانٹتے ہیں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ باوجود اپنے عظیم شان کارناموں کے وہ یہ پسند نہ کرتے تھے کہ کوئی شخص ان کی تعریف کرے حضرت عمر کی وفات کے وقت جب کسی شخص نے ان کی یوں تعریف کی اور شیوا امیر المؤمنین بشیر نے اللہ ان سے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قد علمت شہ دلیت بعد لت شہ شہادۃ تو اپنے فرمایا و دقتا ان ذلک کفایت کا علی و کالی یعنی یہ سب خدمات ایک طرف رکھ کر میری مکروریوں کا کفارہ ہو جائے تو میرے لئے جس سے یہاں

عَلَىٰ جَبْرِ مِمَّنْ (۲۳۸۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۱۹۲۶) ۱۹۲۷ عَنْ عَائِشَةَ

اور حسنین اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَأَنَّهُ تَقْوَدُ كَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَيَضُوبُ بِخَطْمِهَا عَلَىٰ

ہے

جَبْرِ مِمَّنْ أَخَذَنَ أُرْدَاهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قَبْلِ الْحَوْشِيِّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا

تو عورتوں نے اپنے اوردہ گروہوں سے بھاڑے اور انہیں اور حسنین بنا لیا۔

۲۵- الفُرْقَانُ

۲۵- (سورہ فرقان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

قَالَ بَنُ عَتَابٍ هَبْ أَلَمْ تَنْظُرْ أَمَا لَسْتَ بِأَنَّ الرِّيحَ مَدَّ الظِّلَّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

ابن عباس نے کہا ہب! متصور؟ وہ ہے ہوا اڑا لیجائے رگرو عقیان حد الظل (۲۵)

إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ لَكُنَّا دَائِمًا عَلَيْهِ دَلِيلًا طُلُوعِ الشَّمْسِ خَلْفَهُ مَنْ فَاتَهُ مِنْ

طلوع آفتاب تک

الليل عمل أدركه بالتهاد أوفاته بالليل وقال الحسن هب

لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا فِ طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا هِيَ إِلَّا لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرَىٰ جَبْرًا

لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا (۲۵) اللہ کی فرما جو بار ہی سے رات کی عین کی ٹھنڈک بنا اور کوئی چیز مومن کی آنکھ کو اس سے زیادہ ٹھنڈک نہیں پہنچا

طَاعَةِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُبُورًا أَوْ يَكُونُ وَقَالَ غَيْرُهُ السُّعْدِ مَوْلَىٰ النَّعْرِ

سکتی کہ اپنے دست کو اللہ کی طاعت میں دیکھیے اور ابن عباس کا نوبور اور ابن عباس کا سعد اور ابن عباس کا نعير اور سعد

اللَّهُ بَيْنَهَا فَذَاتِهَا أَمَّا اخْتِهَا حَمَةٌ فَهَلْكَتِ نَيْمِ هَلْكَتِ وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ مَسْطُوحٌ وَحَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دَهْرٍ

الذی کان یستو شیبہ راس پر ہاتھ پڑھاتا) ویجھہ زاد اسے جمع کرتا یعنی اس کا بانی مانی تھا) وهو انی ذلی کبرہ عنہم ہو وحمنہ قالت خلف

ابوبکر ان کا بیغم مسطح بناؤۃ ابنا فانزل الله عزوجل دلا یا تل اولوا الفضل منک انی اخر الا لایة یبغی ابابکر والسعة ان یو ثاولی القوی

والمساکین یعنی مسطح الی قولہ الا تخجون ان یعقر الله لکم واللہ غفور رحیم حتی قال ابوبکر لیلی واللہ یادنا انا نحب ان تعزلنا وعودہ بما

کان یصلحہ (حاشیہ صفحہ ۱۸) لضعیف اختلاف لفظی ہے۔ قالت یوم الله ساء المفاوضة الادلی لما انزل الله ویضون بخنجر من علی جبریل

شققن مروطهن فاخترن بہ بہ۔ اور یہاں ہے اخذن اردھن فشققنہا من قبل الحواشی فاخترن بہا۔ خاردہ چیز ہے جس سے سر ٹھکانا جاتا ہے۔ نہا۔ میں ہے کہ حدیث میں ہے انکان بیس علی الخف والخمار اراد بہ

العمامة لان الرجل یضعی ہمارا سے کہا ان البراة تغطي جندارہا اور ازاد ہند ہے۔ اور مروطہ بڑی چادر۔ اور عینی میں ہے کہ عرب میں رواج یہ تھا کہ عورتیں کرتوں کے گریبان اس قدر کھلی تھیں کہ سینہ اور اس کے ارد گرد کا کچھ حصہ نکلا رہتا تھا۔ اور خمار یعنی سر کی اوڑھنی کو وہ اس طرح پہنتی تھیں کہ اس کی جوانب پیٹھ کی طرف پڑی رہیں۔ اور سامنے کا حصہ سینہ وغیرہ کا با وجود خمار کے نکلا رہتا تھا۔ ثوبی انھتھیقت ینکم کہ اپنی خمار اور حسنیوں کو اپنی جوب (رگیبوں) پر ڈال لیں۔ اس لئے تھا کہ سینہ کھلا نظر نہ آئے۔ مولوی وحید الزمان اپنے ترجمہ صحیح بخاری میں اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ عرب کی عورتیں کرت پہنتیں جس کا گریبان سامنے سے کھلا رہتا۔ اس میں سے سینہ چھاتیوں پر نظر پڑتی۔ اس لئے اوڑھنی کے گریبان ڈھانچنے کا حکم دیا گیا۔ اگر عورت کوٹ یا شروانی پہنے جو سامنے سے بن ہوتی ہے تب اوڑھنی کی ضرورت نہیں۔ لیکن سر کے بال سر بند سے چھپالے۔ باقی منہ اور دونوں کف دست اور پاؤں کا چھپایا تا فرس نہیں۔ اور اوڑھنی یا خمار چونکہ چھوٹی ہوتی ہوگی جو گریبان کو نہ ڈھانک سکتی ہو اس لئے اس کی بجائے مروطہ یا ازاد کو استعمال کیا گیا

۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰

مل عاتقہ کا لفظ
سورہ احقر میں
آتا ہے۔ اما عاد
فالحکو ابرہہ
صحر عاتقہ -
فرشتے و فرود
کے قانون کو نافذ
کرنے والے ہیں
اس لئے فرشتوں
سے سرکش ہونے
کے اگر کوئی متھے
ہو سکے ہیں تو عزت
یہ کہ وہ اس قدر
سند موافقی کہ
عمولی قانون کہ
توڑ دیا۔ با الفاظ
و غیر غیب مولی
سخت آمدی
گردہ بھی خدا کے
علم کے تحت
تھی۔ اور اس حکم
کو عمل میں لانے
والے ہی فرشتے
ہی تھے +
مطلقت ان
ذکر یعظم کو

وَالْأَضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ نَمِلُ عَلَيْهِ تَقَرُّ عَلَيْهِ مِنْ أَمَلِيَّتٍ وَأَمَلْتُمْ

اور اضطرام جوش مار کر لگانا ہے قتلہ علیہ (ہ) اس پر پڑھا جاتا ہے اور (ہ) املیت اور املت ہے

الرُّسُلُ لِمُعَدَّنْ جَمْعُهُ رَسَاسٌ قَالِيبًا يُقَالُ مَا عَمَاتُ بِهِ شَيْئًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ

رس (۳۸) کان ہے رساں اس کی جمع ہے قایب (۱) کہا جاتا ہے ما عبات بہ شئی اس کا کچھ پروا نہیں کی جاتی

عَرَامًا هَلَاكًا وَقَالَ فُجَاهَةٌ وَعَتُوا طَعُوا وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةَ عَاتِيَةٌ عَمَّتْ

عراما (۶) ہلاکت اور مجاہدے کا دعوت (۱۲) سرکش کی اور ابن عینہ نے کہا عاتقہ را لجا تو (۷) خازن (۸) فرشتوں سے

عَنِ الْخَزَائِنِ (۱) بَابٌ قَوْلُهُ الَّذِينَ يَشْهَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ

سرکش ہو گئی ہلا بآبِ اللہ تعالیٰ کا قول الذین الخ (۳۴) وہ لوگ جو اپنے دونوں کے بنی روزخ کی طرف اٹھے گئے جائے گی

شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (۱۹۷۴) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پڑھا دے اور سستہ سے بہت دور ہے ہونے ہیں اس بن ہک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا

يَأْتِيهِ اللَّهُ فِي الْخَبْرِ الْكَاْفِرَ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ لِرُؤْيَىٰ أَمْشَاهُ عَلَىٰ

یا نبی اللہ کی خبر کا کفر کا مشرق است کہ کن اس کے منہ کے بن ہو گا فرمایا کیا وہ جس نے سے وہاں دو پاؤں پر چلا

الرُّجُلِينَ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَىٰ أَنْ يُمِثِّيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ

اس بات پر تورا نہیں کہ اسے تیرا ست کہ کن اس کے منہ کے بن چلائے تمنا وہ (اس کے ادبی) نے کہا کیوں نہیں

بَلَىٰ وَعِزِّي ذَرِينَا (۲) بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا

ہم سے رسائی عزت کہ قسم بآبِ اللہ تعالیٰ کا قول والذین الخ (۷۸) اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

یکولے اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کر کے قتل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ انسان چاہے اور زمانہ میں کرتے اور جو کوئی اب کرے وہ راجعہ

يَلُوْا آثَامًا الْعِثْوِيَّةَ (۲۳۸۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا ۱۸۷۳) (۲۳۸۴) عَنْ الْقَاسِمِ

عن ہی سزا باجگوارا تھا) عثوت میں لگانا کی تروایو دیکھو حدیث ۱۸۷۳

ابْنِ أَبِي بَرزَةَ (مُتَكَرِّرًا ۱۷۱۳) (۲۳۸۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ (مُتَكَرِّرًا ۱۷۱۳)

دیکھو حدیث ۱۷۱۳

پھوڑ کر حدیث کو تقریباً اسی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ اور آخر پر پڑھا یا ہے۔ قال و نزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذين لا يدعون مع الله الها ائخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق + لعل ملئك سعيد بن جبیر کی روایت ہے۔ انہوں نے ابن
عباس سے قتل مومن کی دو آیتوں کے متعلق دریافت کیا۔ سورہ فرقان کی آیت جس کا ذکر عنان باب میں ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت وہن
یقتل ھونما متھدق ارا النساء۔ ۹۳ مکرر روایت قاسم بن ابی بڑہ کی ہے کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے دریافت کیا کہ مومن کے قتل عمدا میں توبہ ہے
یا نہیں تو سعید بن جبیر نے ابن عباس سے دریافت کرنے اور ان کے جواب کا ذکر کیا۔ یہاں لفظ یوں ہیں انہ سال سعید بن جبیر ہل لمن قتل
مرومنا متھدق امن توبہ فقرات علیہ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق فقال سعید قرأناھا علی ابن عباس کما قرأناھا علی فقال
هذه ملكية نخطها آية مدنية التي في سورة النساء. یہاں حضرت ابن عباس کا جواب سعید بن جبیر کو یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آیت کی ہے اور
سورہ نساء کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ مگر علیہ میں جو جواب حضرت ابن عباس کا مذکور ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فرقان کی آیت نوکھا رکے لئے ہے
جنہوں نے حالت کفر میں قتل وغیرہ کئے تو اسلام لاکر جب توبہ کی تو وہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔ اور سورہ نساء کی آیت مسلمان کے
متعلق ہے کہ اسلام اور شریعت کو جان لینے کے بعد وہ قتل کرنا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ آیت میں توبہ کے بقول ہونے یا نہ ہونے
کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے لئے دیکھو ٹوٹ حصہ ۹۰۳۔ بہر حال منسوخ کوئی آیت بھی نہیں۔ لعل مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ قال اختلاف
اهل الكوفة في نفي المؤمن فرحلت في ابي ابن عباس رمن فقال نزلت في اخروما نزل ولم ينسخها شئ. یہاں عرف یہ ذکر ہے کہ
سورہ نساء کی آیت منسوخ نہیں وہ آخری حکم ہے +

۲۳۸۶-۲۳۸۷ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (متکرر۔ ۱۱۳۳) (۳) بَابُ قَوْلِهِ يُضَاعَفُ لَهُ

دیکھو حدیث ۱۱۳۳ سے بَابُ الشَّرِّ تَعَالَى كَمَا تَوَلَّى يَضَاعَفُ (۶) اور میں قال است

العذاب يوم القيمة ويجلد فيه مائة مرة۔ ۲۳۸۷ عَنْ ابْنِ أَبِي (متکرر)

اس کے لئے قیامت کے دن دو چاند عذاب ہوگا اور اس میں ذلیل ہو کر رہے گا دیکھو حدیث

۱۱۳۳-۱۱۳۴ بَابُ قَوْلِهِ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ

بَابُ الشَّرِّ تَعَالَى كَمَا تَوَلَّى اِلَّا مَنْ تَابَ الْاِثْمُ، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کرتا رہا تو ایسے

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (م۔ ۲۳۸۸) عَنْ سَعِيدِ

لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکوں میں بدل دیگا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

ابن جبیر (متکرر۔ ۱۱۳۳) (۵) بَابُ قَوْلِهِ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا هَكَذَا

دیکھو حدیث ۱۱۳۳ سے بَابُ الشَّرِّ تَعَالَى قَوْلُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (۷) اور لزام ہاگت ہے

۲۳۸۹-۲۳۹۰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر۔ ۵۷۸)

دیکھو حدیث ۵۷۸ سے

۲۴- الشُّعْرَاءُ

۲۴- (سورہ) شعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَعْبَثُونَ تَبْنُونَ هُضِيمٌ يَتَفَتَّحُ إِذَا مَسَّ حَسْرَتُ بْنُ الْمَسْحُورِينَ لَيْكَةً وَ

اور مجاہد نے کہا تعبتون (راویوں نے) بنا تے ہو ہضیم (۱۲۸) جب لیسے جھوٹا ہاتھ توڑت جاتا ہے مسحورین (۱۵۲) اور لیکے لیکے

الْاَيْكَةَ جَمْعٌ اَيْكَةٌ وَهِيَ كَجَمْعِ شَجَرٍ يَوْمَ الظُّلَّةِ اِظْلَالٌ لِعَذَابِ اِيَّاهُمْ مَوْزُونَ مَعْتَدُونَ

اور ایک - ایک کی جمع ہے اور ایک وہ ہے جہاں بہت سے درخت ہوں يوم الظلة (۱۰۹) عذاب کا ان پر سایہ کرنا موزون (۱۰۹)

كَالظُّوْدِ الْجِبَلِ لِشُرْمَةِ طَارِفَةِ قَلِيْلَةٍ فِي السَّجْدِ مِنَ الْمُصَلِّينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

معدن کا لظود (۲۳) پہاڑ کی طرح الشؤمة (۵۲) چھوٹا گروہ فی الساجدین (۲۱۹) نمازیوں میں ابن عباس نے کہا

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَالْكَلْبِ الرَّيِّحِ الْاَيْقَاعُ مِنَ الْاَرْضِ وَمِمَّا رِيحٌ وَاَرِيَاعٌ وَاِحْدُ الرِّيْعِ

لعلکم تخلدون (۱۱۹) (لعلکم یعنی) گو یا کر ہے، الريح (۱۲۸) زمین سے بلند ہونے والا اور اریع ریحہ سے اور اریع ریحہ کا واحد ریحہ

مَصْرِيحٌ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ فَرُهَيْنٌ مَرْحِيحٌ فَارُهَيْنٌ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ فَارُهَيْنٌ

مصانع (۱۱۹) جو بھی عمارت ہو وہ مصنوعہ ہے فرھین (۱۲۸) ازلے سے فرھین (۱۱۹) کے بھی ریحی معنی ہیں اور کہا جاتا ہے فارھین (۱۱۹)

باقی سب احادیث میں یہ ذکر ہے کہ خود عبد الرحمن بن ابی زبیر نے سعید بن جبیر سے کہا تھا کہ وہ ابن عباس سے دریافت کریں۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ سئل

ابن عباس عن قولہ تعالیٰ ومن یقتل مؤمنا متعمداً مجزاً وہ جہنم وقولہ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتی بلغ الام من تاب فسألتہ

فقال لما نزلت قال اهل مكة فقد عد لنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق واثبتنا الغواحي فانزل الله الا من تاب وامن وعمل

عمداً صالِحاً الى قوله غفوراً رحيماً۔ یہ مکرر روایت مختصر ہے مگر مضمون عطا کیا ہے۔ قال امرؤ بن عبد الرحمن بن ابی زبیر ان اسال ابن عباس عن

ہا تین الا یبین ومن یقتل مؤمنا متعمداً فسألتہ فقال لم یبھن شیء وعن والذین لا یدعون معہم اللہ الھما اخو قال نزلت فی اهل الشرك ہ

۱۱۳۳ کے آخری جہد کو ان الفاظ میں دوہرایا ہے۔ خمس قن مضین الذخان والقعود الروم والبطشة والزام فسوت یكون لزماً۔ وہاں ہے

کہ دخان (دھواں اور بطشہ (بدر) اور لزام (رجس) غائباً مراد فتح مکہ ہے) اور اریع الروم (روم کے غالب آنے کی پیشگوئی) گذر گئے یعنی چار باتوں کا ذکر ہے

دیکھو نوٹ صفحہ ۲۴۱ میں پانچ باتوں کا ذکر ہے اور پانچویں کو انہر کہا ہے اور مراد اس سے شیخ قمر کا نشان ہے۔ ۱۱۳۳ میں ہی ہے کہ مفرین کی

۴ ایک جماعت کے نزدیک ریحہ واحد ہے اور اس کی بیع اریع اور ریحہ ہے اور ریحہ جمع بھی ہے اور اس کا واحد ریحہ ہے۔

۱۱۳۳ میں لفظ

ابن عباس عن

قولہ تعالیٰ فجزأه

جہنم قال لا قیة

لہ وعن قولہ جیل

ذکرہ لا یدعون

مع اللہ الھما اخر

قال کانت ہذا

فی الجاہلیۃ۔

گو حضرت ابن

عباس نے مجزأہ

جہنم سے یہ مثال

کیا کہ اسکی توبہ نہیں

ہے اس کا مضمون

اور الفاظ ۱۱۳۳

سے ملتے جلتے ہیں

مگر میں ابن عباس

سے دریافت کرنے

والے سعید بن جبیر

نہیں۔ جیسا کہ اوپر

کی احادیث میں

اور ۱۱۳۳ میں ہے

بلکہ سعید بن جبیر

کہتے ہیں کہ مجھ سے

عبد الرحمن بن ابی زبیر

نے بیان کیا کہ حضرت

ابن عباس سے

سوال کیا گیا یہ ذکر

نہیں کہ سوال کرنا

کون تھا۔ حالانکہ

یہ ۱۵۱۶ کا
 میں عرض ایک
 جلدان الفاظ میں
 دوہرایا ہے۔ عن
 النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال
 ان ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام
 راى آية يوم
 القيمة عليه
 العبرة والفتوة
 الذبوة هو الفتوة
 میں حدیث
 کو سوائے آخری
 حصہ کے اختصار
 سے دوہرایا ہے
 عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال
 یلیق ابراہیم آیاتہ
 فیقول یا رب انک
 وعدتہنی الکا
 تخزنی یوم یبعثون
 فیقول اللہ انی
 حرمت الجنة علی
 الکافرین
 یہ اس وقت کی
 شہادت ہے جب
 آپ صوبی نبوت
 کر چکے تھے اس وقت
 تک بھی آپ کے صدق
 ہونے اور ہمیشہ
 ہونے کا ایسا گواہ
 سب قوم پر تھا کہ
 ساری قوم میں سے
 ایک شخص نے بھی

حَادِقِينَ تَتَوَاتَرُ أَشَدُّ الْفَسَادِ عَاثُ يَعْيْتُ عَيْثًا الْجِبَلَةُ أَلْخَلْقُ جِبَلٌ خَلِقَ وَمِنْهُ جِبَلٌ

حَادِقِينَ رِبْرِشِيْرَكَ رِيْغِيْ مِيْن تَعْنِيْ ۱۱۳۳) سَمَحْتُ فَادَعَا فِ يَعْيْتُ عَيْثًا الْجِبَلَةُ ۱۸۴) غَمَفْتُ جِبَلٌ مِيْدَا كِيَا كِيَا اِدْرَا سِيْ مِيْ جِبَلًا

وَجِبَلًا وَجِبَلًا يَعْني الْخَلْقُ رَا بَابٌ وَقَوْلُهُ لَا تَخْزِيْ يَوْمَ يَبْعَثُونَ (م- ۲۳۹) عَنْ

اِدْرَجِيْلًا اِدْرَجِيْلًا يَعْني مَخْلُوْقٌ بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَلَا تَخْزِيْ اَلْحَرَمَ ۱۸۴) اِدْرَجِيْلًا سَمَحْتُ سَوَادٌ كَوِيْ جَمْرِيْنٌ وَكَمَا طَهَّ اَلْحَرَمُ

أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكْرَرٌ- ۱۵۱۶) (م- ۲۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكْرَرٌ- ۱۵۱۶) (۲) بَابٌ

قَوْلُهُ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ ابْنُ جَانِبِكَ (۱۹۴۸) عَنِ

اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْنَا نَزَلَتْ وَأَنْزَلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُمَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبَطْوُنَ قَرِيْبِيْ حَتَّى اجْتَمَعُوا

عَبَّاسٌ مِي رَوِيَتْ مِي كَمَا نَزَلَ بِنَا وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ تَوَفَّى صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا يَنْظُرُ مَا هُوَ فِيْ أَيْدِي

لَهَبٍ وَفَرَبِيْنٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُمْ أَنَّ خَيْلًا يَأْتِيْ أَدِي تَرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ

عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ مُصَدِّقِيْ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي سَدِّيزٌ

تُكْمُ بَيْنَ يَدَيْ عَدَا بٍ شَدِيدٌ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّ لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ الْهَذَا

جَمَعْنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

۲۴- التَّمَلُّلُ (م- ۲۳۹۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكْرَرٌ- ۱۲۷۴)

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

بَابٌ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلِ وَابْنُ زَعْنَبٍ رَأَيْتُكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ (۲۱۵) اِيْنَا يَوْمَ نَزَمَ كَرَسِيْ

نہیں کہ اگر ماننے کے قاب بات ہوگی تو مان لیں گے بلکہ غیر کسی اختلاف کے سب کے منہ سے ہی نکال کر جو کچھ آپ کہیں گے اسے سچ مانیں گے حالانکہ آپ ان کو ایسی بات کہہ رہے تھے جسے وہ بظاہر مان نہ سکتے تھے کیونکہ اگر وادی میں کوئی لشکر کہیں سے آیا ہوتا تو انکو اس کا ضرر و خطر ہوتا۔ مگر جو بات ان کے نزدیک درست تھی اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتے تو پھر ان کا یہ اقرار تھا کہ ہم اسے درست مانیں گے۔ یوں پہلی ساری عمر کی بھی شہادت مل گئی کہ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اھ کسی نبی کی زندگی میں ایسی کھلی شہادت راستبازی کی نہیں مل سکتی۔ مکرر روایت کے لفظ ۱۲۷۴ کے ہی ہیں۔

وَالصُّرُحُ الْقَصِيرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَلِمَاتُ عُرُوشٍ سُرُوحٌ كَرِيمٌ

اور صروح غل بھی ہے اور اس کی جمع صروح ہے اور ابن عباس نے کہا دلہا عروش (۲۳) یعنی نہایت مروحت

حَسَنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ رَدَتْ اقْتَرَبَ جَاهِدَةً

بست اچھا بنا ہوا اور بیش قیمت مسلمان (۳۱) فرمانروار (دوت ۶۲) قریب آپس جاؤ (۲۸)

قَائِمَةٌ أَوْ زَعْنَى جَعَلَنِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ نَكَّرُوا وَخَيْرٌ وَأَوْ تَبْنَا الْعِلْمَ يَقُولُهُ

اپنی جگہ پر بکھڑے ہوئے اور زعنہ (۱۹) مجھے رایا، بنا لے اور مجاہد نے کہا نکرُوا (۲۱) اس کی ہیبت بدل دو اور تَبْنَا الْعِلْمَ (۲۲) یہ حضرت

سَلِيمٌ الصُّرُحُ بَرَكَةٌ مَاءٌ ضَرَبَ عَلَيْهَا سَلِيمٌ قَوْلًا رِيًّا لِبَسْمِهَا رِيًّا

سَلِيمٌ کہتے ہیں صروح (۲۲) پانی کا حوض جس پر حضرت سلیمان نے شیشے لگا دیئے تھے جن سے اس کو ڈھانک دیا تھا

۲۸- الْقَصَصُ

۲۸- القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا رَاكِعُونَ اِلَيْكَ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا رَاكِعُونَ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا رَاكِعُونَ اِلَيْكَ

كُلُّ شَيْءٍ هَدَايَكَ اِلَّا وَجْهًا اِلَّا مَلَكَةً وَيُقَالُ اِلَّا مَا اُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ

کُلُّ شَيْءٍ اِلَّا (۸۸) ہر چیز ہلک ہو جاتی ہے سوائے اچھے کے اور کئے (یعنی سوائے اچھے سے) اور کما جاتا ہے اور کما سے (یعنی سوائے اچھے کے) اور کما سے

قَالَ مُجَاهِدٌ اَلْاَنْبَاءُ اَلْحَجَّجُ رَايَا بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنْ

مقتدر رضائے آئی ہو اور مجاہد نے کہا اَلْاَنْبَاءُ (۹۶) وہیں باب اَلشُّعْرَىٰ كَقَوْلِ اِنَّكَ اَلْحَجَّجُ (۵۷) تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہے تو کت

اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۹۶-۳۳۵) حَسْبُ سَعِيدٍ نَبِئِ الْمَسْكِبِ (متكرر - ۱۷۹)

رکتا ہو کہین اشریبے جاتا ہے ہدایت دیتا ہے دیکھو حدیث ۱۷۹

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَدَى الْقُوَّةُ لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنْ الرِّجَالِ لَتَنْوَعُ لَتَنْقَلُ فَاَرَعَا اَلَا

ابن عباس نے کہا اولى القوۃ (۹۶) مردوں کی ایک طاقتور جماعت انہیں نہیں اٹھا سکتی تھی لکن وہ (۹۷) بوجھل ہوئی نصیب نازقا

مَنْ ذَكَرَ مُوسَىٰ تَفَرَّجَ لِفَرَجَيْنِ السَّرْحَيْنِ فَوَصِيَّةُ اَبِي بَكْرٍ اَشْرَكَ وَوَلَدٌ يَكُونُ اَنْ يَقْصُرَ

(۱۰) یعنی موسیٰ کے ذکر کے سوائے اور کوئی خیال نہ تھا) فوجین (۹۶) اترانے والے نصیبہ (۱۰) اس کے پیچھے چل اتریں ہوتا ہے کہ ایک شخص کلام کا بھیجا

اَلْكَلَامُ لَنْ نَقْصُرَ عَلَيْكَ عَنْ جَنْبٍ عَنْ جَنْبٍ عَنِ جَنْبٍ وَاجِدْ وَعَنْ جَنْبٍ اَيْضًا

رکتا ہے (یعنی اسے بیان کرتا ہے) عن نقص عليك (۱۰) اور سے اور عن جانب یعنی یہ ہے اور عن جانب بھی

يَبْطِشُ وَيَبْطِشُ يَأْتِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ الْعِدَا وَالْعِدَاءُ وَالْتَعْدَىٰ اِحْدَا اَسْ

يَبْطِشُ اور يَبْطِشُ (دووں درست ہیں) یا متشاورون (۲۳) مشورہ کرتے ہیں عدوان (۲۳) اور عداء اور التعدى (۲۹) اش (۲۹)

اَبْصَرَ اِحْدَا وَرَقِطَةٌ عَلِيْظَةٌ مِنَ الخَشَبِ كَيْسٌ فِيهَا لَهَبٌ وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ

دیکھا احدا (۲۹) کلمہ کی کاہتا ہوا) مؤنکلمہ جس میں شعلہ ہو اور شہاب (۲۰) اور شہاب (۲۰) میں شعلہ ہوتا

وَالْحَيَاتُ اَجْناسُ اَلْحَيَاتِ وَالْاَفَاعِي وَالْاَسَاوِدُ رَدُّ اَمْعِينَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ہے اور اس کی قسم کے ہوتے ہیں حیات (۳۱) ایلے (یا ایک) اور افعالے (۳۱) اور اس کا راد اور ابن عباس نے کہا

لِيَصْرِفَنِي وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَسُدُّ سَنَعِيكَ كَمَا عَزَزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا

یصردقی (۳۱) بڑھا ہے اور اولوں نے کہا سنسد (۳۱) ہم تیری مدد کریں گے جب بھی تم کسی چیز کو قوت دو تو تم اس کے لئے عضدا (۳۱)

مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ وَصَلْنَا بَيْنَهُمَا وَاتَّمَنَاهُ جِيءَ يَجْلِبُ بِطَرْتِ فِي اَهْمَا

بنائے جو مقبور حیات (۳۱) ہلک کئے گئے وصلنا (۵۱) ہم نے اسے بیان کیا اور ہم نے اسے پورا کر دیا یعنی (۵۱) کھینچ جاتے ہیں بطرت (۵۱) اتالی

قریب انہی الفاظ میں عرفان کو دیا ہے جس میں ابو طالب کا وفات کے وقت کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے انکار ہے اور علامہ عبدالمطلب نے کا ذکر ہے۔ نیز یہ لفظ بڑھانے میں جن کا تعلق عنوان باب ہے۔ وائزل اللہ فی ابی طالب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تمہدے من احببت لکن اللہ یمدی من یشاء +

رَسُولًا أَمْ الْقُرَى مَلَكَةً وَمَا حَوْلَهَا مَكْرُنٌ خَفِيٌّ أَكْنُتُ الشَّيْءِ أَخْفِيَتَهُ وَكُنْتَهُ

رسول (۵۹) ام القرى مکہ ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے مکن چھپائی میں اکنت الشیء میں نے اسے چھپایا اور کنتہ

أَخْفِيَتَهُ وَأَخْفَرْتَهُ وَيَكُنُّ اللَّهُ مِثْلَ أَمِّ تَرَانٍ اللَّهُ يَسْبُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

میں نے اسے چھپایا اور سے ظاہر کیا دیکھنا کہ اس طرح کے لئے چھپاتا ہے

وَيَقْدِرُ رِزْقَهُ عَلَيْكَ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

رزق کو فروغ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے باب اللہ تعالیٰ کا قول ان الذي فرض عليك القرآن

الْقُرْآنَ الْآيَةُ (۱۹۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قَالَ إِلَى مَلَكَةٍ

لرؤا ان الی معاد (۱۹۴) ابن عباس سے روایت ہے لرؤا ان الی معاد یعنی مکہ کی طرف

۲۹- الْعُنُكُبُوتُ

۲۹ - العنکبوت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشربے انتارجم وانے بار بار رحم کرنا الہ کے نام سے

قَالَ فَجَاهِدْ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ضَلَّةً فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ عِلْمَ ذَلِكَ النَّهْيِ

مجاہد نے کہا دکانوا مستبصرین میں راہ گمراہ تھے ضلۃً فلیعلمنن اللہ علم ذلك النهی

بِمَنْزِلَةِ فَلْيَمِيزْ اللَّهُ كَقَوْلِهِ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ اتَّقُوا اللَّهَ مَعَ اتَّقُوا لَكُمْ أَوْزَارَكُمْ

دائر انگ کر دیگا جیسے اللہ تعالیٰ کا قول بسم اللہ الخبیث اتقوا اللہ مع اتقوا لکم اوزارکم ان کے اپنے بوجھ

۳۰- التَّغْلِيْبُ الرُّومِ

۳۰ - التم غلبت الروم (الروم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشربے انتارجم وانے بار بار رحم کرنا الہ کے نام سے

فَلَا يُرِيدُ مَنْ أَعْطَى الْيَتِيمَ أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرَهُ فِيهَا قَالَ فَجَاهِدْ فَجَاهِدْ وَنَسْتَعْمُونَ

فلا یریدو من اعطى الیتیم افضل فلا اجرہ فیہا قال مجاہد مجاہد نے کہا مجاہدوں (۱۵) تمہیں ہی

يَهْدُونَ وَيَسْوُونَ الْمُضْجِعَ الْوُدَى السُّطْرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَكُونُ مَا

جاہدوں گی بھیدوں (۳۴) آرام جو میں تجاہد کرتے ہیں ودق (۳۰) بارش ہے ابن عباس نے کہا هل تكون ما

مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ فِي الْإِلَهَةِ وَفِيهِ نَحْنُ فَوْزُهُمْ أَنْ يَرْثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

ایمان لکھ (۲۸) بیٹوں اور اللہ تعالیٰ کے بارہ میں ایک حال ہے نحا فوزہم (۲۸) یعنی کیا تمہیں سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے وارث بن جائیں گے جیسے

يَصْدَعُونَ يَتَفَرَّقُونَ فَاصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ضَعْفٌ وَضَعْفٌ لَعْنَتَانِ وَقَالَ فَجَاهِدْ

یصدعون (۲۴) جہاد جہاد جہاد ہے فاصدع (۲۴) دھوکہ دیکھ بیان کرنے اور ضعت اور ضعت دو قرآن میں اور جہاد نے

السُّورَى الْإِسَاءَةَ جُزْأً الْمُسْتَسْمِينَ (۲۳۹) عَنْ مَسْرُوقٍ رَمَتْ كُرًّا ۵۷۸

کما السورای السیئۃ جزاۃ المستسمین (۲۳۹) عن مسروق رمت کورا ۵۷۸ دیکھو حدیث

۱۔ یعنی معاد سے
۲۔ اور مکہ کے اور یہ
۳۔ پیگمونی ہے کہ ہجرت
۴۔ کے بعد اللہ تعالیٰ
۵۔ پھر آپ کو مکہ کی طرف
۶۔ لوٹانے کا نام
۷۔ یعنی مکہ کی طرف
۸۔ مستبصر تھے اور اس
۹۔ پر فخر کرتے تھے اور
۱۰۔ خوش ہوتے تھے
۱۱۔ اور فرمائے کہ آپ
۱۲۔ کہ وہ عقلاء ذوی
۱۳۔ ابصار تھے۔ اور
۱۴۔ بعض کے نزدیک
۱۵۔ معنی یہ ہیں کہ وہ
۱۶۔ اپنے آپ کو حق
۱۷۔ اور ہدایت پر سمجھتے
۱۸۔ تھے حالانکہ باطل
۱۹۔ پر تھے
۲۰۔ اس مکرر روایت
۲۱۔ کی ابتدا میں کچھ
۲۲۔ برطصایا ہے اور یہ
۲۳۔ ہے کہ کو خفیف
۲۴۔ اختلاف لفظی سے
۲۵۔ بیان کیا ہے اور
۲۶۔ آخر میں کچھ تفسیریں
۲۷۔ زیادہ کی ہے۔
۲۸۔ یاں نظریوں میں
۲۹۔ قال بیہما رجل
۳۰۔ یحدث فی کذا
۳۱۔ رکوز میں ایک موضع
۳۲۔ ہے اور مکہ ایک
۳۳۔ قبیلہ کا نام ہے
۳۴۔ شاید انہی میں بات
۳۵۔ کر رہا ہو فقال

بحجۃ دخان یوم القیامۃ فی اخذ یا ساء الحنا فقیل و انصارہم یاخذ المؤمنون کھینۃ الکام ربہ وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا یوم تاقی السعد بدخان
مہین، ففرعنا قاتیت ابن مسعود وكان متکنا فغضب را بن مسعود تاراض ہونے اس لئے کہ قیامت میں جو کچھ ہوگا اسے کوئی شخص اٹھل پھل پوچھ بیان نہیں کر سکتا۔
خدا نے ایسا فرمایا ہوتا غیر صادق نے کہا ہوگا اس کی سند قرآن و حدیث میں کوئی نہیں، فجلس فقال من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم فان من
العلم ان تقول لئلا یعلم لا یعلم فان اللہ قال للبیہ صل اللہ علیہ وسلم قل ما استکبر علیہ من اجرو ما انا من المتکلمین و باقی بر صفحہ ۱۱۳۷

۱۱ باب قوله لا تبدل خلق الله ليدن الله خلق الاولين دين من الاولين

باب اللہ تعالیٰ کا قول لا تبدل خلق اللہ (۳۱) یعنی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں خلق الاولین (الشعراہ ۱۳) یعنی پہلوں کا

۱۲ وَالْعَصَاةُ الْاِسْلَامُ (م- ۲۳۹۵) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (م- متکرر- ۶۱۸)

دین اور نافرست اسلام ہے دیکھو حدیث ۱۱۸۷

۳۱- لَقْمَانُ

(سورہ لقمان ۳۱)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشرف انعام والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۱۱ باب قوله لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم (م- ۲۳۹۶) عَنْ

باب اللہ تعالیٰ کا قول لا تشرك باللہ (۱۱۳) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ شریک بناؤ تم سے

عبد الله (م- متکرر- ۲۲۹) ۱۲) ۱۳) ۱۴) ۱۵) ۱۶) ۱۷) ۱۸) ۱۹) ۲۰) ۲۱) ۲۲) ۲۳) ۲۴) ۲۵) ۲۶) ۲۷) ۲۸) ۲۹) ۳۰) ۳۱) ۳۲) ۳۳) ۳۴) ۳۵) ۳۶) ۳۷) ۳۸) ۳۹) ۴۰) ۴۱) ۴۲) ۴۳) ۴۴) ۴۵) ۴۶) ۴۷) ۴۸) ۴۹) ۵۰) ۵۱) ۵۲) ۵۳) ۵۴) ۵۵) ۵۶) ۵۷) ۵۸) ۵۹) ۶۰) ۶۱) ۶۲) ۶۳) ۶۴) ۶۵) ۶۶) ۶۷) ۶۸) ۶۹) ۷۰) ۷۱) ۷۲) ۷۳) ۷۴) ۷۵) ۷۶) ۷۷) ۷۸) ۷۹) ۸۰) ۸۱) ۸۲) ۸۳) ۸۴) ۸۵) ۸۶) ۸۷) ۸۸) ۸۹) ۹۰) ۹۱) ۹۲) ۹۳) ۹۴) ۹۵) ۹۶) ۹۷) ۹۸) ۹۹) ۱۰۰)

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (م- متکرر- ۲۲۶) ۲۷) ۲۸) ۲۹) ۳۰) ۳۱) ۳۲) ۳۳) ۳۴) ۳۵) ۳۶) ۳۷) ۳۸) ۳۹) ۴۰) ۴۱) ۴۲) ۴۳) ۴۴) ۴۵) ۴۶) ۴۷) ۴۸) ۴۹) ۵۰) ۵۱) ۵۲) ۵۳) ۵۴) ۵۵) ۵۶) ۵۷) ۵۸) ۵۹) ۶۰) ۶۱) ۶۲) ۶۳) ۶۴) ۶۵) ۶۶) ۶۷) ۶۸) ۶۹) ۷۰) ۷۱) ۷۲) ۷۳) ۷۴) ۷۵) ۷۶) ۷۷) ۷۸) ۷۹) ۸۰) ۸۱) ۸۲) ۸۳) ۸۴) ۸۵) ۸۶) ۸۷) ۸۸) ۸۹) ۹۰) ۹۱) ۹۲) ۹۳) ۹۴) ۹۵) ۹۶) ۹۷) ۹۸) ۹۹) ۱۰۰)

۳۲- تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ

(سورہ تنزیل السجدہ ۳۲)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشرف انعام والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۱۱ وَقَالَ جَاهِدْ مَا يَرْغَبُ لِيُطْعِمَ تَطْفَةَ الرَّجُلِ ضَلَمْنَا هَلَكْنَا وَقَالَ بَرِئٌ

اور مجاہد بنے گا تمہیں (۸) گز در (۷) مرد کا لفظ ہے ضلانا (۱۱) ہم ہلاک ہو جائیں اور ابر بن عباس نے کہا

رَبِّقِيص ۱۳۷
وان قريظا بطيئا
عن الامر مرفعا
عليهم النبي صلى
الله عليه وسلم
فقال اللهم اعني
عليهم بسيركبير
يوسف فاخذتهم
سناحتي فهلكوا
فيها واكلوا الميتة
والعظام ويرى
الوصل ما بين العلم
واكدهم كهيشة
الرخان فجادك
ابوسفيان فقال
يا محمد حيث تأمل
بصلة الرحم وان
قرمت قد هلكنا
فادع الله فقرا
فارتقب يوم تألق
الساد بن حان
مبين الى قوله
عاشرون انكففت
عنهم عذاب

الآخرية اذ اجازتم عاودوا الى كفرهم فذا لك قوله تعالى يوم نبطش لبطشنا انكفرت يوم يدركون ايامهم يدركون انكفرت الورد والروم فنضض
وكيفونوث ۲۴ صفحہ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

أَجْرُ الَّذِي لَا تُعْطَرُ إِلَّا بِمَطَرٍ إِلَّا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا تَقْدِيرًا بَابُ قَوْلِهِ

جَزْرًا (۲۷۰۲) نہ زمین ہے جس پر بارش میں ہوتی مگر اتنی (تھوڑی) کہ اسے کچھ فائدہ دے نہ (۲۷۰۲) ہم بین کرتے ہیں بَابُ اشْرَقَالِي كَا

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ (م-۲۳۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۲۷۱)

قَوْلُ خُرَيْجِ بْنِ خَالِدٍ (۱۶) كَوْنِي تَخْفَى نَفْسٌ جَانِبًا جِوَسَ كَيْفِيَّةٍ جَعَلَهَا كَمَا كَانَتْ

رَدِّهِ (۲۳۰۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۷۱) (م-۲۳۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۷۱)

دیکھو حدیث ۱۲۷۱ م ۲۳۰۱

۳۳ - الْأَحْزَابُ

۳۳ - (سورہ الاحزاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے اہتمام والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ مَقَامِهِمْ (۱) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ أُولَىٰ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ

اللہ کے ہونے کا مہیا صیہم (۲۳۰) ان کے تعلق محل بَابُ اشْرَقَالِي كَا قَوْلُ النَّبِيِّ الْحَزْرِيُّ بِيَوْمِئِذٍ يَرَانِ كَبَانُوتَ زِيَادٍ

أَنْفُسِهِمْ (م-۲۳۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۱۱۴) (۲) بَابُ قَوْلِهِ إِذْ عَوْهُمُ

تقریباً ہے دیکھو حدیث ۱۱۱۴ م ۲۳۰۲

لَا بَارَ لَهُمْ (۱۹۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمُرَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ

انہیں اپنے بایوں کی طرف منسوب کر دیا اور ابن عمر سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نُنزَلَ الْقُرْآنُ

نہم کو ہم زید بن محمد ہی کا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا

إِذْ عَوْهُمُ لَا بَارَ لَهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (۳) بَابُ قَوْلِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ تَضَوَّعَتْ

ادعوہم الخ انہیں ان کے بایوں کی طرف منسوب کر دیا کہ نزدیک یا وہ ان کی بات سے باطلہ اشْرَقَالِي كَا قَوْلُ فَمِنْهُمْ (۲۳) سوان میں سے

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مَا بَدَلُوا بِهَا لِيَأْخُذَ بِهِمْ هَذِهِ أَقْطَارُهَا جَوَانِبُهَا الْفِتْنَةُ

یعنی ایسے ہیں جن سے اپنی نذر کو بدلا کر دیا اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں اور انہیں کبھی تبدیلی نہیں کی تھی اپنا قصد

لَا تَوَّاهَا لِأَعْطَوْهَا (م-۲۳۰۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۲۹۱)

انھیں دیا (۱۲) ان کے کانے الفتنة لا توھا (۱۲) سے دیکھو حدیث ۱۲۹۱

رَدِّهِ (۲۳۰۴) عَنْ زَيْدِ بْنِ زَيْدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۹۲) (۲) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ لَا ذُوَ جَنَاحِ إِنْ

دیکھو حدیث ۱۲۹۲ م ۲۳۰۴

بَابُ اشْرَقَالِي كَا قَوْلُ قُلْ لَا ذُوَ جَنَاحِ الخ (۲۳) ابھی

علاقہ قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔
مطلح حدیث نقل نہیں کی۔ قال قال للہ مثلہ کہ کرنا دیا ہے کہ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح اوپر اس کے بعد پڑھا یہی ہے قبل سفیان روایۃ قال فای شیء یعنی سفیان سے کہا گیا کہ یہ اخفرت صلعم کی حدیث ہے تو انہوں نے کہا تو اور کیا۔ اور آخر پر سے قرأ ابو ہریرۃ قرأت یعنی ابہرہ نے قرۃ اعین کی جگہ قرأت اعین پڑھا۔
مطلح الفاظ قریباً کے ہی ہیں علی قلب شیء اور شہ قرأت کرین۔ یہ لفظ پڑھا ہے ذخرا ما اطلع علیہ ذخر الکملن علیہ ذخر الکملن

كَذَلِكَ تُرْدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَى لَيْنَ أُمَّةٍ تَحْكُمُونَ وَأَسْرَخْتُمْ سَمَاحًا

یہوں سے کہنے کے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامانِ دوزخ اور نہیں اچھی طرح سے رخصت کروں

بِحَيْلَا الْغَابِرِ أَنْ تُخْرَجَ فَمَا سَهَا سَنَةَ اللَّهِ اسْتَأْذَنَّا جَعَلَهَا (۱۹۵۱) عَنْ عَائِشَةَ

تبرج (۲۳۳) یہ ہے کہ عورت اپنے حاسن کو نمایاں کر کے ظاہر کرے سنۃ اللہ (۳۰) استنہار سے یعنی اسے طریقہ نکالنا۔ حضرت عائشہ

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اڑت

جَيْنَ أَمْرٍ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ زَوْجًا فَبَدَأَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تشریح لائے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار کریں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شروع کیا

فَقَالَ لِي ذَاكَ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَجْعِلِي حَتَّى تَسْتَأْذِنِي أَبِي

اور فرمایا کہ میں آپ کے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ جلدی کریں یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ لیں

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَوِي لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِيمَا أَقْبَهُ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ

اور آپ کو یقین تھا کہ میرے ماں باپ ایسے نہیں کہ وہ مجھے آپ کے ہوا میں حکم دیں گے حضرت عائشہ نے کہا ہمارے لیے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا زَوْجًا إِلَى تَمَامِ الْأَيَاتِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا

پاؤں اللہ نے قلب کا ذکر کیا جو آپ کے اخیر تک تو میں نے عرض کیا کہ اس میں سے کس بات میں

اسْتَأْذِنُ أَبَوِي فَإِنَّ أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَةَ الْآخِرَةَ (۱۹۵۱) بَابُ قَوْلِهِ وَ

میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دوزخ کو چاہتی ہوں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے

إِنْ كُنْتُمْ تُرْدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَةَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ

وہ دن کنفتن (۲۹) اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تمہیں سے نیک کرنے والوں کے لیے

مَنْكَنَ أَجْرًا عَظِيمًا وَقَالَ تَنَادَتْهُ وَأَذْكُرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

۱۹۵۱) اور تفریق کرے اور تفریق نہ کرے اور اذکار میں آیتیں اور یاد رکھو جو تمہارے گھر میں آیتیں اللہ

وَالْحِكْمَةُ الْقُرْآنِ وَالسَّنَّةُ (۲۳۰۵) عَنْ عَائِشَةَ (۱۹۵۱) رَمَتْ كَرْدَ

اور کت سے پرکھا جاتا ہے مراد قرآن اور سنت ہے دیکھو حدیث ۱۹۵۱

(۲) بَابُ قَوْلِهِ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَعَزُّ

پاس اللہ تعالیٰ کا قول دیکھئے (۳) اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرے وہ لاہتیا اور تو لوگوں کو رام

أَنَّ مَشَاهِدًا (۱۹۵۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ

کہ تو اس سے ڈرے انس بن مالک سے روایت ہے کہ یہ آیت دیکھئے فی نفسک

میں اس سے معلوم ہوا کہ جو جفا خانے فطرت آنحضرت صدم کی بیویوں کچھ مال دنیا یا کچھ زیب و زینت کے سامانوں کی خواہش ظاہر کی لیکن ان کے دلوں میں ان چیزوں سے کوئی محبت نہ تھی بلکہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے تھی اس لئے جب وہ چیزوں میں مقابلہ کا سوال آیا حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ اس بار میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لوں میں تو خدا کا اس کے رسول کے لئے سولے کو کسی چیز کو نہیں چاہتی۔ جو لوگ نبی صدم کے بعد اور زوج پر اعتراض کرتے ہیں ان کیلئے بھی سوچنے کا موقع ہے کہ اگر آپ نے شایاں حیا نفس کیلئے کی تھیں تو یہ تو بیویوں کو زینت و آسائش کے سامان سے کہ خوش ہونے نہ یہ کہ زینت اور آسائش کا سوال آیا تو بیویوں کو الگ کر دینے

۱۹۵۱

۱۹۵۲ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَخَارِعُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنِ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں ان خوروں پر غیرت لگاتی تھی جو اپنے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ أَتَبَّ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَرَجَّحِي مَنْ

بجین و تبتیں۔ اور میں کہ کرتی تھی کہ کیا غیرت اپنے نہیں تبتیں کسی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے امارا ترجیحی من

تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوَدُّنِي إِلَيْكَ مِنْ شَاءٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مَعْنَى عَزَلْتِ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ

تشاء منہن و تو دوی الیک من شاء و من ابتغیت معنی عزلت فمن ابتغیت ومن ابتغیت من عزلت فلا جناح علیک

قُلْتُ مَا أَرَى رَيْكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ (۱۹۵۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

تو میں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو چھوڑ کر تپتا ہے اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مَتَابَعِدُ أَنْ تُزَلَّتْ هَذِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کی باری ہوتی اس سے اجازت مانگتا ہے اس آیت کے اترنے کے بعد

الْآيَةُ تَرَجَّحِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوَدُّنِي إِلَيْكَ مِنْ شَاءٍ وَمَنْ ابْتَغَيْتِ مَعْنَى عَزَلْتِ

ترجیحی ان تشاء منہن و تو دوی الیک من شاء و من ابتغیت معنی عزلت اور ہے تو ان میں سے

فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ فَعَلْتُ لَهَا مَا كُنْتُ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ

جائے جن سے تو نے علیحدگی اختیار کی تھی تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں تو میں (عجاذہ ربی) نے ان سے کہا آپ کیا جواب تبتیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوگر

رَأَى فَرَأَى كَأَزِيدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تُرْعِيكَ أَحَدًا مِنْ بَابِ قَوْلِهِ لَا تَدْخُلُوا

ایک اختیار رکھے ہے تو یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی کہ میں آپ پر کسی کو مقدم کروں یا نہ ہاں اللہ تعالیٰ کا قول لا تدخلوا

بِيَوْمِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ أَيْهَةً وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ

ہی کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ کہیں کھانے کیلئے اجازت دی جائے مگر اس کے بھی کچھ کا انتظار کرنا ہے نہ ہو مگر جب نہیں بلایا

فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِبِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى

جائے تو داخل ہو پھر بیٹھ کھانا کھا چلو تو منفرقی ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ یہ بات ہی کہ نہایت ہی کو نہایت ہی

النَّبِيِّ فَيَسْخَبُونَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْخَبُ مِنْ أَحَدٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

مگر وہ تم سے سچا کرنا ہے اور طریق بات سے شرم نہیں کرتا اور جب نہ ان سے کوئی چیز مانگو

فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَائِكُمْ وَقَوْلُهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ

تو پردہ کے تجھے سے ان سے مانگو یہ تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو زیادہ پاکیزہ کرنے کا موجب ہے اور نہیں مناسب

تُوذُوا وَرَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ حِجَابًا وَإِنَّكُمْ إِذْ لَمَّا كُنْتُمْ

نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دہاؤ اور نہ ہی کہ اس کی بی بیوں سے اس کے بعد کبھی نکاح کرو یہ بات اللہ کے نزدیک

۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰

ہے۔ مگر خواہش کو پردہ کرنا ہی آیت جبرک ذکر حضرت عائشہ نے کیا وہ آیت ہے تو جن میں تشاء تھے اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہے چھوڑ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ سے اتر جائے تو ان میں سے تو نے علیحدگی اختیار کی تھی تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے پس خواہش کسی بی بی کے اپنے آپ کو بہر کر لینے کے متعلق نہیں اور وہ اوقات بھی اسی کے موافق ہیں کیونکہ جن بیبیوں نے اپنا معاملہ ہی علیہم کے سپرد کیا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ نے نکاح نہیں کیا۔ اگر آپ کی خواہشیں یہ ہوتی کہ کچھ بیسیاں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کریں تو چاہئے یہ تھا کہ آپ فدا ان کے نکاح کیے گوارا کیا ابھی نکاح ثابت نہیں۔ بہر حال آپ کی خواہش کا متعلق ترجیحی من تشاء والی آیت سے ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کی باری میں اس سے اجازت طلب کیا کرتے تھے لیکن اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ پر سے باری کی پابندی اٹھادی گئی تھی تو پھر اجازت طلب کرنا ہی معنی ہے۔ غلبہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ جس طرح بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو الگ ہو جائیں آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ جسے چاہیں الگ کر دیں مگر آپ نے کسی کو الگ نہیں کیا کیونکہ آپ کا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ بیسیاں جنہوں نے مال دنیا پر لات مار کر آپ کے گھر میں رہنا پسند کیا انہیں الگ کیا جائے۔ مگر دیکھو بھلا نوٹ +

عند الله عظيمًا يقال إناه راد رآلة أنا يا ربني آناة لعل لساعة تكون قريبًا إذا

بہت بری ہے کہا جاتا ہے آنا اس کا پلٹنا (آنا یا انانہ سے ہے۔ لعل الساعة تكون قریباً ۴) جب

وصفت صفة الموتى قلت قريبة وراذ جعلته ظرفاً وبدلاً ولم ترد الصفة

قریباً قریب کو موت کی صفت مگر بیان کرو تو کہ گے قریبہ اور جب تر استے فوت یا بدل مگر او اور صفت کا ارادہ نہ ہو

توعت الهاء من الموتى وكذلك لفظها في الواحد والاثنين جميعاً للذكر

تو تارنا تیس کو موت سے نکال ڈالو گے اور اسی طرح یہ لفظ واحد اورثنیہ اور جمع مذکورہ موت کیلئے (کہاں ہوگا)

الاثنى (م- ۲۲۰۶) عن ابن مسعود (م- ۲۲۰۷) عن ابن مسعود (م- ۱۹۵۴)

دیکھو حدیث ۲۲۹۱ دیکھو حدیث ۱۹۵۴

عن ابن مسعود (م- ۱۹۵۴) عن ابن مسعود (م- ۱۹۵۴) عن ابن مسعود (م- ۱۹۵۴)

دیکھو حدیث ۱۹۵۴ اس سے روایت ہے کہ زینب بنت جحش ہی سنی اللہ علیہ وسلم

عليه وسلم زينب ابنة جحش بخبر وحيم فادسنت على الطعام داعياً فجي قوم فياكون

کے کھلائی نہیں تو وہ اور گوشت کی (دعوت دی گئی) کھے کھانے کیلئے لوگوں کو بلائے بھیجا گیا تو ایک جماعت آئی وہ کھانا کھا کر

ويخرجون ثم يرحي قوم فياكون ويخرجون فدعوت حتى ما تجد احداً دعوت فقلت

اور جلی ہائی پھر ایک جماعت آئی اور کھا کر ایل جاتی تو میں بتا رہا یہاں تک کہ کوئی بھی ذرا بچے میں بلاؤں تو میں نے

يا قوم الله ما تجد احداً دعوت فقلت يا قوم الله ما تجد احداً دعوت فقلت

عرین کیا باقی اشرف راب کسی راوی کو نہیں بتا ہے بلاؤں تو فزا یا کر یا کھا نا اٹھا اور تین آدمی رہ گئے وہ آدھے گھوس بائیں کر رہے

في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق الى حجره عائشة فقال سلام

تھے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکھر حضرت عائشہ کے گھر میں گئے اور فرمایا السلام علیکم

عليكم اهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله وجدت

اہل البیت ورحمتہ اللہ تو انوں نے کہا وعلیک السلام ورحمتہ اللہ اپنے اپنے گھر والوں کو کہا

اهلك بآرك الله لك فقترى محرمين انهم يقولون انهم يقولون لعائشة وبقول

پایا انشاید کہ برکت ہے آپ نے سب بیویوں کے گھروں کا دورہ کیا اور سب سے وہی فرماتے جو حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اور سب

له كما قالت عائشة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثلثة رهط في البيت

وہی جواب دہ تھیں جو حضرت عائشہ نے دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے تو راجع ہوئے تین آدمی تھے جن میں ایک بائیں

يتخذون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فخرج منطلقاً نحو حجره

کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر سے کی طرف چلے

عائشة فما أدرى خبرته أو أخبران القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله

ہوئے تھل پڑے میں میں جا تا کہ میں نے آپ کو خبری یا آپ کو کسی اور صحابی کی کہ وہ رگ چلے گئے تو آپ لوٹ آئے یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں

۱۹۵۴ کا مرتبہ ایک مکرر بیان کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں قال عرضي لله فقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاخر فلو امرت اصحاب المؤمنين بالحجاب فانزل الله الآية الحجاب على ابناي حديث كونه اختصاراً بيان کیا ہے۔ قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يجردون واذا هو كأنه يتنمى للقيام فلم يقروا فإذ رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقد نلتهم فغضبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقت فخرجت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت

ادخل فالق الحجاب سبني وبينه فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا بيه على ابناي كونه اختصاراً اور اختلاف الفاظ ہے انما سلم الناس لهذه الآية آية الحجاب لما هديت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاماً ودعا القوم فطعموا واستجدون فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ثم يرجع وهم قعود يجردون فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه الى قوله من وراء حجاب فغضب الحجاب وقام القوم۔ اس حدیث کے آخری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تب لوگ اپنے گھر میں نہ تھے اور اس کی مکرر روایت م ۲۲۰۶ میں صاف ذکر ہے کہ لوگ اٹھ گئے تب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آیت اس کے بعد نازل ہوئی

(۱۰) **بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا**

بَابُ اشْتِقَائِي كَقَوْلِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (۵۶۲) إِسْرَارُ اس كَفَرَشْتِي نِي بِرْمَلُوَّةٍ صَحِيحِي يَسِ اسے گو جو ایمان لائے ہو اس پر صلوة

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلَوَةُ اللَّهِ تَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَوَةُ

بِحُجْرٍ أَوْ سَلَامٍ بِحُجْرٍ أَيْ سَلَامٌ أَبُو الْعَالِيَةِ مَا كَرَّ اشْتِكِي صَلَوَةُ اشْتِقَائِي كَافْرَشْتُونَ كَسَانَسِي نِي كِي تَوَلِيَتِي كَرَّ سِي اور

الْمَلَائِكَةِ الذُّعَاءُ قَالَ بَنُو عَبَّاسٍ يُصَلُّونَ يَدْرِكُونَ لِنَجْرِيَتِكَ لِنَسْلَطْنِكَ (م-۲۴۱۱)

فَرَشْتُونَ كِي صَلَوَةُ ذُعَاكَ نَسِي ابْنِ عَبَّاسٍ سَمَا يَصَلُّونَ بَرَكَتِ كِي ذُعَاكَ نَسِي لِنَجْرِيَتِكَ مَزْوُومٌ كُجْرًا كَغَابِ كَرِي سِي كِي

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (م-۱۵۲۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ

دیکھو حدیث ۱۵۲۱ م

مُتَكَرِّرًا (م-۱۵۲۱) عَنْ يَزِيدَ مُتَكَرِّرًا (۱۱) بَابُ قَوْلِهِ لَا

دیکھو حدیث ۱۵۲۱ م دیکھو حدیث ۱۵۲۱ م بَابُ اشْتِقَائِي كَقَوْلِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى (م-۲۴۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲۱۵)

تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى (م-۲۴۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲۱۵) دیکھو حدیث ۲۱۵ م

۳۴- سَبَا

۳۴- (سورہ) سَبَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بار بار رحم کرنا اے کے نام سے

يَقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ بِمُعْجِزِينَ بِفَاتِنِينَ سَبِقُوا فَا تَوَالَا يُعْجِرُونَ

کے جاتے ہے معاجزین (۳۸) کے بڑھنے والے معجزین (۳۸) رہا تھے سے نکل جاہولے سبقوا لانفال - ۵۹۰ ہاتھ سے نکل گئے لا

لَا يَفْقَهُونَ سَبِقُوا فَا تَوَالَا يُعْجِرُونَ وَمَعْنَى مُعَاجِزِينَ

یَعْجِرُونَ (لانفال - ۵۹۰) ہائے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے سَبِقُوا (۳۸) اور کعب بن عجرہ کے سب سے نکل جاہولے اور

مُعَاجِزِينَ يَرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ نَجْرًا صَاحِبَهُ مَعْتَشِرًا عَشْرًا وَلَا كَلِمَةً

مُعَاجِزِينَ ایک دوسرے پر غلبہ چاہنے والے ہر ایک ان میں سے چاہے کہ اپنے مقابل کو کر دے دیکھانے معتنارہ (۲۵) دسواں اکل (۱۱)

الْشَّرَّ بَاعِدًا وَبَعْدَ وَاحِدٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يُعْزَبُ إِلَّا يَغِيبُ الْعَرَمُ السُّدَّ مَلَأَ أَحْمَرُ

پہلے باعد اور بعد ایک ہیں اور مجاہد نے کہا لا یعزب (۳) غائب نہیں ہوتا عرم (۱۶) بندریں، سرخ پانی تھا

أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السُّدِّ فَشَقَّعَهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الْوَادِي فَازْتَفَعْنَا عَنِ الْجَنْبِئِينَ غَابَ

اِسْتَنْتَنِي اسے اس بندر پر بھیجا تو اسکو توڑ دیا اور گرا دیا اور وادی کو گڑھا بنا دیا تو بارغ، دووں طرف سے اونچے ہو گئے اور پانی

عَنْهُمْ مَاءٌ فَيَسْتَأْوِكُمْ لِيَكُنَ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِّ وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا

ان سے غائب ہو گیا اور دونوں سوکھ گئے اور وہ سرخ پانی بند کا نہیں تھا بکہ عذاب تھا

ملا روایت کو
یہاں قدر سے
اختصار سے
بیان کیسے، قبل
یا رسول اللہ صلی
السلام علیک
فقد عرفناہ
تکلیف الصلوٰۃ
قال قولوا اللّٰهم
صل علی محمد
وعلی آل محمد
کما صلیت
علی آل ابراہیم
انک محمد عبید
اللّٰهم بارک
علی محمد وعلی
آل محمد کما
بارکت علی آل
ابراہیم انک حمید
مجید
ملا یہ روایت
کعب بن عجرہ کی
نہیں بلکہ ابو سعید
خدری کی ہے۔
لفظ یہ ہیں، بقائنا
یا رسول اللہ ہذا
التسلیم تکلیف
نصلی علیک قال
قولوا اللّٰهم صل
علی محمد وعلی
آل محمد کما
صلیت علی آل
ابراہیم وبارک

علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم قال ابو صالح عن الیث علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم
صرف یزید راوی کی مزید تصریح ہے۔ وقال کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
ملک ۱۵۱ میں حضرت موسیٰ کے تمنا میں غسل کرنے کا ذکر ہے۔ مگر اس کی مکرر روایت م ۱۶۰۵ نبی الفاظ سے شروع ہوتی ہے جن سے
یہ شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے آخر میں بھی وہی الفاظ ہیں جو یہاں ہیں۔ یہاں روایت یوں ہے، ان موسیٰ کان رجلاً حیاً وذلک قولہ
تعلیٰ یا ایہا الذین آمنوا لا تکلوا کل لذیت اذوا موسیٰ فایراہ اللہ مما قالوا کان عند اللہ وحیہا

أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ شَرْحَبِيلٍ الْعَرْمُ السَّنَاءُ بِالْحَمْدِ
جو ارشاد شان پر جہاں سے چاہا بھیج دیا اور عمر بن شرحبیل نے کہا عرم عربوں کی زبان میں بندو

أَهْلِ لَيْمٍ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرْمُ الْوَادِعُ السَّيْفَاتِ الدَّرُوعُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ
کہتے ہیں اور اوروں نے کہا عرم وادی ہے سیافات (۱۱) زہریں اور محمد نے کہا

يُحَازِي يُعَاقِبُ أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَثْنَى وَفَرَادَى وَاجِدًا وَائْتِنِينَ
یحازی (۱۲) غراب یا جانا جو اعظم کو واحدہ (۱۳) یعنی اشترکی فرمانبرداری کی نصیحت کرتا ہوں مثنیٰ وفرادی (۱۴) دو دو اور ایک

التَّائِشُ لِرُؤْيِهِ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ ذَلِيلٍ أَوْ
ایک تنائوش (۱۵) آخرت سے دنیا کی طرف آتا دین ما یشتہون مال یا اولاد یا زینت

زَهْرَقٌ يَا شَيْعَهُمْ يَا مَتْلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَأَجْرَابٍ كَأَجْرَابِةٍ مِنَ الْأَرْضِ
یا شیعہم (۱۶) ان جیبہ لوگوں سے اور ابن عباس نے کہا کاجراب کاجرابیہ جیسے زمین میں جوئی

أَحْمَطُ الْأَرَاكُ وَالْأَثَلُ الطَّرْقَاءُ الْعَرْمُ الشَّدِيدُ الرَّابِ بَابٌ قَوْلُهُ حَتَّى إِذَا
خبط (۱۷) پیلو کا درخت اور اثل (۱۸) جھاڑ عرم (۱۹) سخت زور کا باب الشرحی کا قول حتی اذا الخ (۲۰)

فَرَسًا عَنْ قَوْلِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (م-۵-۳۷)
یہاں تک کہ جب انکو دیکھ کر اسٹ دور ہو جائے گی کہیں گے کیا ہے جو تم سے رب تمہارے کیسے ہے (فرمایا ہے) وہ وہ بلند اور شاہ

عَنْ عِكْرِمَةَ (م-تکرر-۱۹۳۱) بَابٌ الشَّرْحِيُّ قَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ
دیکھو حدیث ۱۹۳۱ باب الشرحی کا قول ان هو الخ (۲۱) وہ صرف نہیں ہے بل نذیر ہے

يَدُّ نَعْنُ عَزَابٍ شَدِيدٍ (م-۲۲۱۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (م-تکرر-۱۹۳۸)
دیکھو حدیث ۱۹۳۸

۳۵- الْمَلَكَةُ

(سورہ المائدہ) الملائکہ (فاط)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ بجا نامہ والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

قَالَ مُجَاهِدٌ الْقَطِيْرُ لِفَاقَةِ التَّوَادِعِ مُثْقَلَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ الْحَرُودُ
مجاہد نے کہا قطیر (۲۲) کھلی (۲۳) پٹیا ہنزار جھکاں مثقلة (۲۴) بوجھ سے دبا ہوا اور اوروں کے کہا حرود (۲۵)

بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَرُودُ بِالنَّيْلِ وَالشَّمُومُ بِالنَّهَارِ
دگرئی جو دن کو دھوپ ہوتی ہے اور ابن عباس نے کہا حرود رات کی اور شوموم دن کی دگرئی ہے

شَرَابِيْبُ أَسَدٌ سَوَادٌ الْخَرِيْبِيُّ شَدِيْدٌ السَّوَادُ
شرابیب (۲۶) رجم ہے بہت سیاہ خرابیب (مفروم) بہت سیاہ

اور ك الشهاب قبل ان يلقمها وريهما الغاهما قبل ان يردكه فيكذب معها مائة كذبة فيقال ليس فذا قال لنا يوم كذا وكذا كذا او
كذا لفيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء - ويكفونك على صفحہ ۱۱۰۰ - على ما روايت كوكسى قدرا اختصارا سے بيان کیا ہے - قال
صدر النبي صلى الله عليه وسلم الصفاوات يوم فقال يا صبا حاة فاجتمعت اليه قرش قالوا مالك قال ادريتم لو اخرجتمكم ان
العدو يصيبكم او يسيبكم اما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهيب ثبالت الهذا
جمعنا فانزل الله تثبت يداي الهمي +

۱۔ ابتدائی حدت
قریباً انہی الفاظ
میں ہے کچھ حصہ
میں کچھ لفظی اختلاف
ہے۔ یہ بقول
ان نبی اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم
قال اذا قضی
اللہ الامر فی
السماء ضربت
الملكۃ باجھتھا
خضعنا لقولہ
کا کہ سلسلہ
علی اصغوات
فاذا فرغ عن
قوله
قلوبہم قالوا ما
ذا قال ربکم
قالوا لذلک
قال الحق وهو
العلی الکبیر
فیسمھا استرق
السمع وھستق ما
السمع فکذا
بعضہ فرق بعض
ووصفت سفین
بکفہ فخرھا وید
بہا اصابع فیسمع
الکلمۃ فیلقھا الی
من تحتہ ثم یلقھا
الاخر الی من
تحتہ حتی یلقھا
علی لسان الساحر
او الکاھن قریبا

۳۳ - سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

۳۳ - (سورہ) رحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنا والے کے نام سے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ قَعَزْنَا شَدَّذًا يَا حَسْرَةً عَلَىٰ الْعِبَادِ كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ وَسْهْرًا يُؤْتَمِرُونَ

اور مجاہد نے کہا قعزنا (۱۳) ہم نے قوت دی (۱۳) اور علیٰ العباد (۳۰) رسولوں سے انکار امتزاکرنا ان کے لئے موجب افسوس

يَا لِرُّسُلٍ اَنْ تَذُرُنَا الْقَمَرَ لَا يَسْتَرْضَوْنَ اَحَدًا مِنْهَا ضَوْءٌ الْاٰخِرُ وَلَا يَنْبِغُ لَهَا ذٰلِكَ

یوں ہی ان تکبارک القمر (۳۰) ان میں سے ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو نہیں چھو سکتی اور زمان کے لئے یہ حاصل ہے

سَابِقٌ لِّهَا رَيْطُ الْبَكَانِ حَتَّىٰ يَنْتَبِذَ نَسْلَهُمْ خَرَجَ اَحَدُهُمَا مِنَ الْاٰخِرِ وَيُجِبُ كُلَّ وَاحِدٍ

سابق النہار (۳۰) تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے گئے ہیں نسلہم (۳۰) ان میں سے ایک کو دوسرے سے نکالتے ہیں اور ہر ایک ان میں سے

مِنْهُمَا مِنْ مِّثْلِهِ مِنَ الْاَنْعَامِ فَكَمْ هُمْ مَعْجُونٌ جُنْدٌ مَحْضُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ

چل رہے من مثله (۳۰) چار یا پوں میں سے کھنوں (۵۵) خوش جند محضون (۵۳) حساب کے وقت حاضر کئے جائیں گے

يَذْكُرُ عَنْ حِكْمَةِ الْمُشْكُونَ الْمُؤَقَّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَرَفٌ كَرِهَ مَصَابِكُهُمْ يَسْتَوُونَ

اور ذکر مر سے ہے کہ مشکون (۳۰) بھری ہوئی اور ابن عباس نے کہا طرّف (۱۹) تمہاری مصیبتیں یسلون (۵۵)

يَخْرُجُونَ مَرْقَدًا فَخَرَجْنَا اَحْصِيَانَا حَفْظَانَا مَكَانَتَهُمْ وَمَكَانَتَهُمْ وَاجِدُ الْاَبَابِ

نکل پڑیں گے مرقدا (۵۵) ہماری نکلنے کی جگہ احصیانا (۱۳) ہمارے اسکو محفوظ کر لیا جو مکان تھم اور مکان تھم ایک ہی باب

قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲۴۱-۲۴۰) عَنْ

اللہ تعالیٰ کا قول والشمس تجری (۲۴۰) اور سورج اپنے مقرر سے پر چلتا رہتا ہے یہ غالب علم والے کا اشارہ ہے

اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۴۷) (۲۴۱۸) عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۴۷)

دیکھو حدیث ۱۲۴۷ دیکھو حدیث ۱۲۴۷

۳۴ - وَالصّٰفٰتِ

۳۴ - (سورہ) الصافات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنا والے کے نام سے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَيَقْدُفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَقْدُفُونَ مِنْ

اور مجاہد نے کہا ويقذفون بالغیب من مکان بعیاد السبا (۵۳) ہر ایک جگہ سے ويقذفون من کل

كُلِّ جَانِبٍ يَرْمُونَ وَاَصْبَدَ اَتْصَدُ لَازِبٌ لَازِمٌ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ يَغِي السُّحُفُ

جانب (۸) رے جاتے ہیں واصل (۱۹) ہمیشہ لازب (۱۱) لازم تاتوننا عن اليمين (۲۰) حق بات کی طرف سے

الْكُفَّارِ تَقُولُ لِلشَّيْطَانِ غَوْلٌ وَجَعُ بَطْنٍ يَتَزَفُونَ لَا تَذْهَبُ عَقْوُهُمْ فَرِيضٌ شَيْطَانٌ

رقی سے ذکے کیلئے یہ بات کا فریضان کہیں گے غول (۱۴) پیش کا اردو یزفون (۱۴) انکی حق بیکار ہوگی قرین (۵) شیطان

يَهْرَعُونَ كَهَيْئَةِ الْهَرُولَةِ يَتَزَفُونَ السَّلَانُ فِي الْمَشْنِيِّ بَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَا قَالَ كَفَّارٌ

بہر عون (۵) ہڑت سے بھاگتے ہوئے کی طرح یزفون (۱۴) جیسے میں تیزی سے سارانا و بین الجنة نسا (۱۵) انکار قریش نے کہا

فَرِيضٌ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَاَصْحَابُ بَنَاتٍ سَوَادَاتٍ الْحَنُّ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

کفر ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں جنوں کے سرواڑوں کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

صرت ابتدائی حدیث
دومر ایسے ہے۔
قال كنت مع النبي
صلى الله عليه وسلم
في المسجد عند
غروب الشمس
نقال يا ابا ذر
ان ذرى ابن اعراب
الشمس قلت الله
ورسوله اعلم قال
فانها تذهب حتى
تصل تحت العرش
فذلك قوله تعالى
والشمس تجري
لمسقر لها ذلك
تقدير العزيز العليم
دیکھو نوٹ ۱
ص ۲۶

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِيَّاهُمْ مُخَضَّرُونَ سَخَّضُوا الْحَسَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَغْنٌ

دلقد علمت الجن انہم مخضرون (۱۵۸) یعنی حساب کے لئے خاک کے جائیں گے اور ابن عباس نے کہا لغن الصافون

الصَّافُونَ الْمَلَكُوتُ صَوَاطِئُ الْحَجِيمِ سَوَاءُ الْحَجِيمِ وَوَسَطُ الْحَجِيمِ لَشَوْبًا يَجْلُطُ

(۱۶۶) کہنے والے فرشتے ہیں صواطئ الحجیم (۳۳) سواء الحجیم (۵۵) کے بیٹے وسط الحجیم ہیں یعنی دوزخ کے دریا

طَعَامُهُمْ وَيَسَاطِئُ الْحَجِيمِ مَدْحُورٌ أَمْطَرُ وَدَابَّيْضٌ فَكُنُوزٌ الْتَوَلَّوْا الْمَكْنُونِ وَتَرَكْنَا

لشویار (۶۷) ان کا کھانا کھوتے پانی کے ساتھ ملا یا جھانکا مدحور (۱۸) دھونکے لئے بیض کنون (۳۹) محفوظ کے لئے ہوتی وتراکنا

عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَيْنِ يَبْدَأُ كَرْمٌ يَجْرِي سَيْخَرُونَ بِسَخْرٍ وَبَعْلَاءٌ رُبَّ الْأَسْبَابِ الشَّمَاءِ (۱۶)

علیہ فی الآخرین (۱۶۹) بطلانی سے کیا جائے گا بیستخرون (۱۷) سخی کرتے ہیں بجلاد (۱۷۲) رب اسباب (۱۰۰) آسمان

بَابُ تَوَلَّاهُ وَإِنْ يُوَسِّسُ لِمَنْ الْمُرْسَلِينَ (۲۲۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵)

باب اللہ تعالیٰ کا توں وان یوسس لہم (۱۱۳۹) در یوسس بیٹک سولوں میں سے ہیں دیکھو حدیث ۱۵۳۵

(م - ۲۲۲۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵)

دیکھو حدیث ۱۵۳۵

۳۸ - ص

۳۸ - (سورہ) ص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں

(م - ۲۲۲۱) عَنْ الْعَوَّامِ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۷) (م - ۲۲۲۱) عَنْ الْعَوَّامِ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۷)

دیکھو حدیث ۱۵۳۷

عَجَابٌ عَجِيبٌ الرِّقْطُ الضَّحِيْقَةُ هُوَ لَهْمُنَا صَحِيْقَةُ الْحَسَنَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي

عجاب (۱۶) عجیب (۱۶) قسط (۱۶) صحیفہ ہاں اس سے مراد نیکیوں کا صحیفہ ہے اور مجاہد نے کہا

عَزَّةٌ مُعَاوِزٌ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ مِلَّةٌ قَرِيْبَةٌ لِاخْتِلَاقِ الْكُذِبِ الْأَسْبَابِ طَرِقٌ

(۳۲) یعنی کرنے والے مِلَّة الْآخِرَةِ (۳۲) قریش کا دین اختلاق (۳۲) جھوٹ (۳۲) اسباب (۱۰۱) آسمان کے

السَّمَاءِ فِي أَبُو إِسْحَاقَ جَدُّ مَا هَذَا لَكَ مَهْزُومٌ يَعْنِي قَرِيْبًا أَوْلِيْكَ الْأَحْزَابِ الْقُرُونِ

رستے (۳۲) اسکے دواڑوں میں (۳۲) جند ماہناک مہزوم (۱۱) یعنی قریش اولئک الاحزاب (۱۳) گذشتہ قریش

الْمَاضِيَةِ فَوَاقٍ رُجُوعٌ قَطْنَا عَدَا بِنَا لِنَحْنُ نَاهُمْ سَخْرِيًّا أَحْطَانًا بِهِمْ أَتْرَابٌ أَمْثَالُ

فواق (۱۵۵) رجوع (۱۶) قطنا عذاب (۱۶) ناناہہ سخریا (۱۳) ہم نے ان کا احاطہ کیا ہے اقواب (۵۲) ان

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْاَيْدِ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الْاَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي اَمْرٍ اَللَّهُ حَبَّ الْخَيْرِ

جیسا اور ابن عباس نے کہا اید (۱۷) عبادت میں قوت ہے ابصار (۲۳) اللہ کے امر و معادوں کو ہمیں غور کرنا حب الخیر

عَنْ ذِكْرِ رَبِّي مَنْ ذَكَرَ طِفْحٌ مَسْمًا يُسْمَعُ اَعْرَافَ الْخَيْلِ وَسَعْرًا قِيْبَهَا الْاَصْفَادُ الْوَنَادِ

عن ذکوری (۳۲) ذکر رب (۳۲) طیفح مسم (۳۳) گھوڑوں کے پاؤں اور ان کے ایال پر ہاتھ پھیرنے کے اصفا (۳۸) سب سے باندھا ہے

(م - ۲۲۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵) (م - ۲۲۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵)

دیکھو حدیث ۱۵۳۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵) (م - ۲۲۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا - ۱۵۳۵)

دیکھو حدیث ۱۵۳۵

ملک لفظ ہیں۔
ما یضبط لاجدان
کیوں خیرا ہر ابن
حق۔ دیکھو نوٹ
صفحہ ۵۲۸ و
نوٹ ۲۷
۲۲ میں لفظیہ
ہیں۔ من قال
انا خیر من یوس
ابن ہنّے فقد کذب
۳۲ خفیفت احد
لفظی ہے۔ قال
سالت مجاہد عن
السجدة فی ص
قال سئل ابن
عباس فقال
اولئک الذین
هدا اللہ فیہا
اقتدا وکان ابن
عباس یسئل فیہا
۳۲ کچھ تفصیل
زیادہ ہے۔
قال سالت
مجاہد عن
سجدة فی ص فقال
سالت ابن عباس
من این سجدة
فقال او ما تقرؤ
من ذریقہ داؤد
وسلیمان اولئک
الذین هدانا اللہ
فیہم اقدرا
فکان داؤد من
امرئیکہ صلوات
علیہ وسلم ان
یقتدی بہ فیہما
رسول اللہ صلوات
علیہ وسلم
۳۲ انی لظالمین

(۲۲۲۳-۲۲۲۴) عَنْ قَسْرُوقٍ رَمَتْ كُرًّا (۵۷۸)

دیکھو حدیث ۲۲۲۳

۳۹- الزُّمَرُ

۳۹- (سورہ) الزمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام پر پڑھو

بار بار تم

قرینہ الے کے نام سے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا مَنْ يَتَّبِعُ بَوَّجَهَهُ يُجْرَى عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَمَّنٌ

اور فرماتے کہ انہیں تیری بوجھ (۲۲۲) اپنے منہ کے منگ میں گسیٹا جائے گا اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اَمَّنٌ الْحُجْرُ ۲۰۰

تَلْعِقُهُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيهِ الْإِنْتِزَاعُ عِوَجًا لَيْسَ رَجُلًا سَلِمًا لِرَجُلٍ مِّثْلُكَ الْيَوْمَ

کیا وہ بہت ہے جو آگ میں ڈالا جائے یا وہ جو امن کی حالت میں آئے (ذی عوجہ (۲۲۲) نہیں) بشر میں درجہ بالا سلیمان (۲۲۹) یہ مثال جو ان کے

الْبَاطِلِ وَالْإِلَهِ الْحَقُّ وَيُجَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بِالْأَوَّلِ ثَانٍ خَوْلَانَا عَطِينًا

معبودان یا اعلیٰ اور معبود حق کی دیکھو فونک بالذین من دونہ (۳۹) یعنی نبیوں سے خولنا (۲۲۹) ہم نے دیا

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ الْقُرْآنَ وَصَدَّقَ بِهِ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا

والذی جاء بالصّدق (۳۳) یعنی قرآن و صدق بہ مومن سے جو قیامت کے دن آئے گا یہ کہتا ہوا یہ وہ ہے

الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمَلًا بِمَا نَفَيْتُ عَنْكَ الْكُفْرَ وَالشُّكْرَ لَعَسَى أَلَّا يَرْضَى بِالْإِنصَافِ

جو تو نے مجھے دیا تھا جو اس میں تمہا میں نے اس عمل کو مٹا دیا (۲۹) ہندی بہت مدنی جو انصاف پر راضی نہیں ہو

وَرَجُلًا سَلِيمًا يُقَالُ سَلِمَ صَارَ حَالًا أَشْمَأَزَّتْ نَفْسُكَ بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوَازِ حَافِيًا

اور رجلاً سلیماناً (۲۹) اور سالما میں پڑھا جائے صلح (یا سائے کا سارا) اشمازت (۲۵) نفرت کرتے ہیں مفازتہم (۲۱) فوز سے ہے حافیان

أَطَاؤِيهِ مُطِيفِينَ بِحَقَائِقِهِ يَجُودُ إِنْ يَمُوتَ مَتَشَا بِهَا لَيْسَ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ وَلَكِنْ تَشْبِيهٌ

(۵۵) اسے گھیرے رکھا اسکی چٹائی من یا اس کی چٹائی عبادت کرینا لے متشا ہوا (۲۳) استثناء سے نہیں ہے بلکہ درجہ سے کہ تصدیق میں

بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصَدِيقِ رَأَى قَوْلَهُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

کا ایک حصہ دوسرے سے ملتا ہے باطل اللہ تعالیٰ کا قول یا عبادی (۲۳) اسے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب کی گناہ بخش دیتا ہے ان وہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے

(۲۲۲۲-۲۲۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۱۷۱) بَابُ قَوْلِهِ وَمَا قَدَّرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ

دیکھو حدیث ۱۱۷۱ باطل اللہ تعالیٰ کا قول وما قدروا اللہ حق قدرہ (۲۲۲۲) اور ابی

(۱۹۵۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عبداللہ سے روایت ہے کہا علماء (یہود) میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

کتاب التفسیر ۱۵
کئی مثنوی اور کچھ
تقریبات کے ساتھ
بیان کیا ہے مثنویوں
قرینہ الے ہے جو
م ۲۲۹ کا ہے
مگر کہیں کہیں اختلاف
الفاظ ہے۔ قال
دخلنا على عبد الله
ابن مسعود قال
يا هذا الناس من
علم شيئاً فليقل به
ومن لم يعلم فليقل
الله اعلم فان
من العلم ان يقول
لما لا يعلم الله اعلم
قال الله عز وجل
لنبييه صلى الله عليه
وسلم قل ما اسئلكم
عليه من اجروما
ان امن المتكلمين
رعوان بابك فتن
اسی سے ہے،
وساحد تنکر عن
الذخات ربانك
بعض میں نہیں ہے
ان رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دعا
قریشاً الى الاسلام
فابطوا عليه
فقال اللهم اعني
عليهم يسبهم كسبهم
يوسف فاخذتهم

سنة فحصدت كل شئ حتى اكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يزى بينه وبين السماء دخاناً من الجوع قال الله عز وجل فانقلب يوم نأى الامم سكان
مبين ليحشى الناس هذا عذاب اليم قال قد عواربنا اكلت عذاب العذاب اناموهن انى لهم الذمى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا
معلم ينجون انانا كضفوا العذاب قليلا انكر عائدون انيكهفت العذاب يوم القيمة قال كضعت ثم عادوا في كفرهم فاخذهم الله يوم يدركهم الله
تعالى يوم ينطق ليطشة الكذبي انامنتعمون (ابوسفان) کے انکا ذکر چھڑوایا ہے، مطلب یہاں روایت کسی قدر اختلاف سے آئی ہے ان ناسا من اهل النبوة کا نواتد
قتلوا الذواذوا والذواذوا فاقوا محمد اهل الله عليه سلم فقالوا ان الذى نقول وننعموا اليه نحن لو تخبرنا ان لنا عننا كفارة فذلل والذين لا يدعون مع الله الها اخر
ولا يقتلون النفس التحرم الله الا بالحق ولا يزون ونزل قل يا عبدك الذين امنوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يُجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَحٍ وَالأَرْضِينَ

اور کہا کہ میں تمہاری کتابوں میں پاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو ایک انگلی ہر گھنٹے کا اور زمینوں کو ایک

عَلَى إصْبَحٍ وَالشَّجَرِ عَلَى إصْبَحٍ وَالمَاءِ وَالثَّرَى عَلَى إصْبَحٍ وَسَائِرُ الخَلْقِ عَلَى

انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر

إصْبَحٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضِيحُكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ وَأَجْدَةٌ

اور پھر فرمایا میں بادشاہ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت نظر آنے

تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرَةِ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

اس کے قول کی تصدیق کے لئے علم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وہ ماقدون اور انور اللہ کی قہر

قَدْرَهُ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ

نبی کی جو اس کی قدر کا حق ہے اور زمین قیامت کے دن سب اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ پاک ہے اور

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۳) بَابُ وَقْدِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ

اس بند ہے جو وہ شریک کرتے ہیں باب اللہ تعالیٰ کا قول کہ زمین اور آسمان (۲) اور زمین سب قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی

مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ (۱۹۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور آسمان اس کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقْبُضُ اللَّهُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ

فرماتے تھے اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو داہنے ہاتھ میں پیٹ لے گا پھر فرماتے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے

مَلِكُ الأَرْضِ (۴) بَابُ وَقْدِهِ وَفِي الصُّورِ فَصْنِقُ مَرُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ

بادشاہ کہاں ہیں باب اللہ تعالیٰ کا قول دفعہ (۲) اور صور میں پھونکا جائے گا میں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں

أَلَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَفْخَرُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا أَهْمَ قِيَامُ يَبْظُرُنَ (۲۰۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

جو چاہیں گے سوئے اس کے جو اللہ چاہے پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تب وہ کھڑے ہونے دیکھ رہے ہوں گے

مَتَكُونَ (۱۱۵۶) (۱۹۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ التَّفْعَتَيْنِ

دیکھو حدیث ۱۱۵۶ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ پھونکنے کے درمیان چالیس

أَرْبَعُونَ قَالَ أَيْكَأَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ بَيْتٌ قَالَ رِبْعُونَ سَنَةً قَالَ أَيْبِتٌ قَالَ

رکھ دو دفعہ ہوگا، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ چالیس سال کا دفعہ کہا میں کہ سنا پھر پوچھا چالیس سال کا کہا میں نہیں سنا پوچھا چالیس

أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ بَيْتٌ وَيَبْلُغُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الأَنْسَانِ الأَعْجَبُ ذُنُوبُهُ فِيهِ يَرْكَبُ الخَلْقُ

بیسے گا میں نہیں کہتا اور انسان میں سے ہر ایک صدمہ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا سراسی سے اس کا ڈھانچا کھڑکایا جائے گا

یُنْجَى عَنِ التَّجْبِيعِ إِذَا كَانَتْ كَيْفِيَّةً ۲۰۲۶ میں تصدیق کیے ہنسنا بے محل ہے خواجہ سے عموماً مراد اتالی یا چار ڈاڑھیں سمجھی

جاتی ہیں جو بلوغت کے بعد کھتی ہیں۔ مگر نہ یہ ہے کہ صبح یہ ہے کہ اس سے مراد سب دانت میں یا بالخصوص وہ دانت جو نسنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ الملاحظہ من الانسان

الضواحك وهي التي تورد عن الضحك والاكثر الامعاء انها اضمحلت لاسنان والمواد الاولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے کہ وہ عموماً ہنس پھونکتا تھا۔ ۱۱۵۶

کا مرتبہ آخری حدیث کی قدر اختلاف لفظی سے بیان کیا ہے، عن النبي صلعم قال اني اقول من يرضع راسه بعد التفتحة الاخرة فاذا انا ابرمى متعلق بالعرش فلا ادوية

اكد ذلك كان ام بعد ان التفتحة ذهني بيهوش هوئي في نفس يافوخه بعد بوش من تسيه ملطيه اخرى انفاذا ابو هريره كسي معلوم هو تسيه بوش بوش من ان كسي متعلق

متعلق تو یہ کہ کبھی جا سکتا ہے کہ انکی ایک خاص بڑی بطور صل قائم رکھی جاتی ہے لیکن کہ روٹھ بالا شیش جو جلانی جاتی ہیں ان میں اس کے باقی بے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، علو

ازیں جس صورت میں قبوس قرابے عذاب کے سلسلے میں کوئی شیشیں اور وہ باوجود اس جسم کے گل جانے کے ہوتا رہتا ہے تو قیامت میں اسی خاص جسم کی قرابے عذاب کے

لئے ضرورت نہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جس قسم کا جسم ہوگا۔ اور یہ جو کما جانے کے جو جسم انسان کا مرتبہ وقت تھا وہی بجال کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ

مشکل نظر آتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہو کر کھنت کر دے ہو کر مرتا ہے یا بہت بڑھا ہو کر اس کا جسم جک جاتا ہے یا اندھا ہو کر کھنتی حالت میں وفات پاتا ہے رہا تو ہر صفحہ ۱۱۲۹

عَلَى تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ
رَأَى كَمَا أَجْنَحِيالٍ
بِهِ عَيْنِي مِمَّنْ هُوَ
كَهَيْزَلٍ عِبَادَتُهُ
كَهَيْزَلٍ سَائِرِينَ
لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ عَيْدِي
كَهَيْزَلٍ مِمَّنْ هُوَ
كَيْ هُوَ. اَوْرَاسِ
مِنْ لَفْظِ تَصْدِيقًا
لِقَوْلِهِ لَيْسَ آتِي
اَوْرَسُولُ هَذَا صَلَّمَ
خُودُ فَرَمَا كَمَا كَرَمِ
كِي بَاتُونَ كِي تَصْدِيقِ
كَرُونِ مَكْرِبِ كَرُونِ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّمَ
اَوْرَتَرَانِ كَرِيمِ كِي
آيَتِ بَرِيهِ جِي
كَرَبِ كَرَمَا كَرَمِ
اَوْرَزِيْنِ اس كَالِي
مَطْوِيَّاتِ مِمَّنْ هُوَ
اس كَالِي كَامِلِ
قَصْرَتِ مِمَّنْ هُوَ
اِنْسَانِ كَالِ قَصْرِ
مِنْ دَهْ جِيْرِي
هِي جِيْرِي
هِي شَايَا كِي
لَيْسَ كِي كِي
عَالِمِ اس
مَرَادِ كِي
اِن جِيْرِي
كِي كِي

یگانہ یعنی تجبید اور انکار کیلئے ۲۰۲۶ میں تصدیقاً تعجباً دونوں لفظ آتے ہیں۔ مگر تصدیق کیلئے ہنسنا بے محل ہے خواجہ سے عموماً مراد اتالی یا چار ڈاڑھیں سمجھی جاتی ہیں جو بلوغت کے بعد کھتی ہیں۔ مگر نہ یہ ہے کہ صبح یہ ہے کہ اس سے مراد سب دانت میں یا بالخصوص وہ دانت جو نسنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ الملاحظہ من الانسان الضواحك وهي التي تورد عن الضحك والاكثر الامعاء انها اضمحلت لاسنان والمواد الاولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے کہ وہ عموماً ہنس پھونکتا تھا۔ ۱۱۵۶ کا مرتبہ آخری حدیث کی قدر اختلاف لفظی سے بیان کیا ہے، عن النبي صلعم قال اني اقول من يرضع راسه بعد التفتحة الاخرة فاذا انا ابرمى متعلق بالعرش فلا ادوية اكد ذلك كان ام بعد ان التفتحة ذهني بيهوش هوئي في نفس يافوخه بعد بوش من تسيه ملطيه اخرى انفاذا ابو هريره كسي معلوم هو تسيه بوش بوش من ان كسي متعلق تو یہ کہ کبھی جا سکتا ہے کہ انکی ایک خاص بڑی بطور صل قائم رکھی جاتی ہے لیکن کہ روٹھ بالا شیش جو جلانی جاتی ہیں ان میں اس کے باقی بے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، علو ازیں جس صورت میں قبوس قرابے عذاب کے سلسلے میں کوئی شیشیں اور وہ باوجود اس جسم کے گل جانے کے ہوتا رہتا ہے تو قیامت میں اسی خاص جسم کی قرابے عذاب کے لئے ضرورت نہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جس قسم کا جسم ہوگا۔ اور یہ جو کما جانے کے جو جسم انسان کا مرتبہ وقت تھا وہی بجال کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی یہ مشکل نظر آتی ہے کہ ایک شخص بیمار ہو کر کھنت کر دے ہو کر مرتا ہے یا بہت بڑھا ہو کر اس کا جسم جک جاتا ہے یا اندھا ہو کر کھنتی حالت میں وفات پاتا ہے رہا تو ہر صفحہ ۱۱۲۹

۲۰۔ المؤمنین

۲۰۔ (سورہ ۵) المؤمنین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو مہربان و مہربان ہے

قَالَ مُجَاهِدٌ حَمْدُهَا جَاهُزٌ وَأَوَّلُ السُّورَةِ يُقَالُ بِلُحْنٍ هُوَ اسْمُ الْقَوْلِ شَرِيحُ ابْنِ

مجاہد نے کہا اس طرح ہے جیسے سورتوں کے شروع میں لہجہ میں فرق ہے اور لہجہ کا نام ہے شریح بن

أَبِي أُوَيْسٍ الْعَبْسِيُّ

ابن اویسی کے قول کی بنا پر

يُذَكِّرُنِي حَامِيمٌ وَالرَّحْمَ شَجَرٌ

جب نذرہ ہلنے لگا تو وہ مجھ کو حامیم یاد دلاتا ہے

التَّوَالِيَةُ لِلْفَضْلِ دَاخِرِينَ خَاضِعِينَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِلَى الْجَاهَةِ الْإِيمَانُ كَيْسٌ لَكَ

تو والیہ فضل کرنا دآخرین (۶) خوار و ذلیل اور مجاہد نے کہا الی الجاہۃ (۴) ایمان کی طرف لیس لہ

دَعْوَةٌ لِّعِبَادِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ تَوْقِدَهُمْ النَّارُ تَمْرُوحُونَ تَبْطُرُونَ وَكَانَ الْعَلَاءُ ابْنَ

دعوت (۳۳) یعنی بت کیلئے بیچرون (۲۱) ان سے آگ جلائی جائیگی تمہارے (۵) اترتے ہوا اور علاء ابن زیاد لوگوں کو آگ سے

زِيَادٌ يُذَكِّرُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تَقْنِطُ النَّاسَ قَالَ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَقْنِطَ النَّاسَ

ذرا یاد دلاؤ کہ آگ کی طرف لوگوں کو ناپسند کرتے ہو تو کیا میری طاقت ہے کہ میں لوگوں کو ناپسند کر سکوں؟

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يُعَادِلُ الَّذِينَ آسَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَهُمْ

جسکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغابہی الذین الی الذہم (۵۳) اے میرے بند جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت

اللَّهُ وَيَقُولُ وَأَنَّ الْمَسْرِقِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ كَيْفَ يَأْتِيهِمْ

نار سجدت ہو اور یہ بھی فرماتا ہے کہ زیادتی کرنے والے آگ والے ہیں (۴۳) ہاں تم پسند کرتے ہو کہ تم کو کب سے اعمال پر بھی تبت کی بشارت

عَلَيْهِمْ مَسْرُومٌ أَمْحَرَكُوا وَرَبَّنَا بَعَثْ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ

دی جائے اور اللہ تعالیٰ نے محمد صل اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اے جنت کی خوشخبری دینے کیلئے جو آپ

أَطَاعَكَ وَمُنذِرًا لِلنَّارِ مِنْ عَصَاكَ (۲۰) ۲۲۶ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ (متحدہ ۱۶۴۲)

کی اطاعت کرے اور اسے آگ سے ڈرانے کے لئے جو آپ کی نافرمانی کرے

۲۱۔ حم السجدة

۲۱۔ (سورہ ۸) حم السجدة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو مہربان و مہربان ہے

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَبَيَّنَا طَوْعًا أَعْطِينَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ هُنَّ رُخْشَى

اور طاوس نے ابن عباس سے روایت کی آتینا طوعا (۱) خوشی سے دو قائلتا آتینا طائعتین ہم نے رخصی سے دیا

وَقَالَ لِمَنْهَالٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ

اور منہال نے سعید سے روایت کی کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میں قرآن میں کچھ ایسی باتیں پاتا ہوں کہ جن میں

مختلف علیہ قَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

مختلف اختلاف نظر آتے رہے (۱) تو اس دن ان میں رشتہ داریاں نہ رہیں گی اور وہ ایک دوسرے سے حال و احوال پت کریں گے (۱۰) المؤمنین

رقبہ صفحہ ۱۱۴۸
حالانکہ وہ مومن ہیں
ہے توقیرت میں
یہ عیب اس کے
ساتھ نہ ہوں گے
یہ سب امور جو عالم
آزیت سے تعلق
رکتے ہیں ایسے
کہ ان کا علم حوالہ
بجدا کرنا پڑتا ہے
رحاشہ صفحہ ہذا
مطالعہ تھوڑے اختلاف
لفظی سے بیان کیا
ہے جس کا مفہوم یہ
کوئی اثر نہیں پڑتا
لفظیوں میں -
قلت لجد اللہ بین
عمدون العاص
اخباری بائد ما
صنم المشوکون
برسول اللہ صلے
اللہ علیہ وسلم قال
بینا رسول اللہ
صلعم یصلہ بذات
الکعبۃ اذ اقبل
عقبۃ بن ابی معیط
فاخذ بمنکبہ سویل
اللہ صلعم ولولہ
ثوبہ فی عنقہ
فخسفت خنقا شدیدا
فاقبل ابوبکر فاخذ
بمنکبہ وود نعم عن
رسول اللہ صلے
اللہ علیہ وسلم
وقال انقلون
رجلا ان یقول
ربی اللہ وقد
جاءک بالمشیقات
من ربکہ آیت

يَتَسَاءَلُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يُبَدِّلُهُمْ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ فَقَدْ كَتُمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ

پوچھیں گے (الطفت - ۲۲) پھر فرماتا ہے) اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے (النساء - ۴۲) اور (یہ بھی ہے) ہم نے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے (الانعام

وَقَالَ اٰرَمَ السَّمَاءِ بِنَاهَا اَلَى قَوْلِهِ دَحَا هَا فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْاَرْضِ ثُمَّ

۳۳- اس آیت میں انہوں نے بات چھپائی اور فرمایا ارم السماء بناها ا لى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الارض ثم

قَالَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ كَفَرًا وَنَا الَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَئِذٍ طَائِفِينَ فَاذْكُرْ هَذِهِ

پہلے ہونا بیان کیا پھر فرمایا کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا طائیفین تک (۱۱) پہلے اللہ نے اس آیت میں

خَلَقَ الْاَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَحِيمًا عَزَّ وَجَلَّ اَحْكَمًا سَمِعًا صَادِقًا

بیان کیا کہ زمین کی پیدائش آسمان کی پیدائش سے پہلے ہے اور اللہ نے فرمایا وکان اللہ عفوًا رحیمًا عزیزًا حکیمًا

فَكَانَ كَانٌ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا اَسَابَ بَيْنَهُمْ فِي التَّغْيْرِ الْاَوَّلَى ثُمَّ يَنْفِرُ فِي الصُّورِ

گویا کہ اللہ ایسا تھا پھر وہ زمانہ گذر گیا ابن عباس نے کہا فلا اسباب بينهم یہاں بار بھونکنے کے وقت ہوگا پھر صور بھونکا جائے گا تو جو

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا اَسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا

آسمانوں اور زمین میں ہیں بیخوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ چاہے تو اس وقت لنگے درمیان رہتے نہ رہیں گے اور نہ وہ

يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي الْكَلْبَةِ الْاٰخِرَةِ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَاَمَّا قَوْلُهُ مَا كُنَّا

ایک دوسرے سے پوچھیں گے پھر دوسری صورت پھونکا جانے کے بعد بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا

مُشْرِكِينَ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ فَانَ اللَّهُ يَخْفِضُ اَهْلَ الْاِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْمَشْرِكُونَ

یہ قول کہ ما کنا مشرکین اور ولا یکتُمون اللہ حدیثا سوا اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کے لئے ان کے گناہ بخش دیا تو مشرک نہیں گئے

تَعَالَوْا اِنْقُولْ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخَنِمَ عَلَيْهِ اَوْ اِهْرَمَ فَتَنَطَّقْ اَيُّنْ يَلْمُهُمْ فَمَنْ ذَكَرَكَ عَرَفْتَ

آؤ ہم بھی کہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے موبوں پر سر رکھا دیکھا تو ان کے باقر قبول انہیں گے تو اس وقت مہم ہو جائیگا

اَنَّ اللَّهَ لَا يَكْتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوْمَ الدِّينِ كُفْرًا وَالْآيَةُ وَخَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَئِذٍ ثُمَّ

کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی اور اسی وقت وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں کو کفر کیا کاش وہ مسلمان ہوتے اور اللہ نے زمین کو دو دن میں

خَلَقَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَئِذٍ اٰخَرِينَ ثُمَّ دَحَا الْاَرْضَ

پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو اور دو دن میں ٹھیک کیا

وَدَحَا هَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِبَالَ وَالْاَكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور اس کا کھیلنا یہ ہے کہ اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اور اونٹ اور چیلے اور جو ان کے درمیان ہے

فِي يَوْمَئِذٍ اٰخَرِينَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ دَحَا هَا وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَئِذٍ فَجَعَلَتْ

دو اور دن میں پیدا کیا اور اللہ کے قول دحاها سے ہی (۱۱) ہے اور اس قول خلق الارض فی یومئذ الارض فی یومئذ کا یہ مطلب ہے پہلے زمین اور

الْاَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمٍ وَكَانَ اللَّهُ

چوتھیاں میں ہے چاروں دن میں پیدا کئے گئے اور آسمان دو دن میں پیدا کئے گئے اور اللہ کا قول وکان اللہ

عَفْوًا رَحِيمًا اَسْمَى نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ اَمْي لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَانَ اللَّهُ لَمْ يَرِدْ شَيْئًا

عفوًا اللہ نے یہ اپنا نام رکھا اور یہی اس قول کا مطلب ہے یعنی ہمیشہ سے اسی طرح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ نہیں

اِلَّا اَصَابَ بِهِ الَّذِي ارَادَ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَاَنْ كَلَّا مَنْ عِنْدَ اللَّهِ

کہنا اگر اس چیز کو اس کا ارادہ ہو گا جاتا ہے پس تجھے قرآن میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے کیونکہ سارا اللہ کی طرف سے ہے

۱۔ اس توہم کے
۲۔ اس سے زمین
۳۔ آسمانوں سے پہلے
۴۔ پیدا کی گئی مگر اس
۵۔ کا دحو بعد میں ہوا
۶۔ اور دحو اس میں سے
۷۔ پانی اور چارہ
۸۔ نکالنے کو قرار دیا
۹۔ گیا ہے مگر یہ سب
۱۰۔ نہیں کیونکہ سورہ
۱۱۔ حم العنكبوت میں ہے
۱۲۔ زمین اور آسمان کے
۱۳۔ بنانے کا ذکر ہے
۱۴۔ زمین کے دو دن
۱۵۔ میں بنانے پھر چار
۱۶۔ دن میں اس کے
۱۷۔ اندر پھاڑ وغیرہ
۱۸۔ بنانے اور اس کے
۱۹۔ اندر اس کی اقوات
۲۰۔ وغیرہ پیدا کرنے
۲۱۔ کے ذکر کے بعد ہے
۲۲۔ تم استوی الے
۲۳۔ السعادت۔ اور پانی
۲۴۔ اور چارہ کا نکالنا
۲۵۔ بھی اسی کے ہم معنی
۲۶۔ ہے۔ اور سورہ بقرہ
۲۷۔ میں ہے هو الذي
۲۸۔ خلق لكم ما من
۲۹۔ الارض جميعا
۳۰۔ ثم استوى الى
۳۱۔ السماء رابعه۔
۳۲۔ یعنی سب
۳۳۔ کچھ پیدا کرنے کے
۳۴۔ بعد تم استوی
۳۵۔ آتے تو اصل
۳۶۔ بات یہ ہے کہ تم
۳۷۔ کا لفظ ہمیشہ ترتیب
۳۸۔ کے لئے نہیں آتا جیسا کہ معنی میں صاف مذکور ہے۔ اور یہی حالت یہاں ہے کہ ایک اور واقعہ کا ذکر مقصود ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے بعد ہوا۔ اور
۳۹۔ والارض بعد ذلك دحاها میں صاف کر دیا کہ زمین آسمان کے بعد بنی +

کے لئے نہیں آتا جیسا کہ معنی میں صاف مذکور ہے۔ اور یہی حالت یہاں ہے کہ ایک اور واقعہ کا ذکر مقصود ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے بعد ہوا۔ اور والارض بعد ذلك دحاها میں صاف کر دیا کہ زمین آسمان کے بعد بنی +

وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِّنْهُمْ مَحْسُوبٌ أَقْوَاتُهُمْ أَرَادَ أَهْلُهَا فِي حُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ

اور محمد نے کہا محسوب (۱۲) سب کیا ہوا (۱۱) اقوات (۱۰) اس کے رزق (۹) فی کل سماء (۸) اہرہا (۷) یعنی جو کچھ حکم دیا

بِحَسَابٍ فَشَاءُوا لِيَوْمِ قِيَامَتِهِمْ قِرَاءَةً فَرَأَاهُمْ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُ عِنْدَ

حسابات (۱۶) محسوس وقیضنا لهم قرآنہ (۱۵) کافزوں کے ساتھ شیطان کئی نیچے تنزل علیہم الملئکۃ (۱۴) موت کے وقت ملا

الْمَوْتِ أَهْتَرَتْ بِاللَّبَاتِ وَرَبَّتْ اِرْتَفَعَتْ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَكْمَاهَا حِينَ تَطْلُعُ

(ہفتزد (۱۳) سوزہ سے اٹھانے لگی) دوبت (۱۲) اور اوڑوں نے کہا من اکما ہما (۱۱) جس وقت دوڑا رہے

لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى كَيْسٍ لِّعَمَلِي أَنَا مُحَقَّقٌ بِهَذَا سُوءِ السَّائِلِينَ قَدَّ رَهَا سُوءًا

لیقولن ہذا الی (۱۰) یعنی میرے عمل کی وجہ سے اور میں اس کا حقد ابرہوں سو اہل سائلین (۹) اس کا اندازہ برابر کیا

فَهَدَيْنَاهُمْ وَلَلنَّاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشُّرُكُ كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ الْجُدَيْنِ وَكَقَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ

فہدیناہم (۸) ہم نے ان کو اچھا اور برا بتا دیا جسے اللہ کا قول ہدیناہم (۷) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۶) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۵) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا

السَّبِيلِ وَاللَّهُ الَّذِي هُوَ الْاِرْشَادُ يَمُنْزِلُوْا اَصْعَدْنَا هُنَا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ اُولَئِكَ الَّذِينَ

السبیل (۴) اللہ اور وہ ہدایت جو کئی پرکھ دینے کے معنی میں ہے وہ اصعدنا ہنہا کے معنی میں جیسی سے اللہ کا قول ہے اولئک الذین

هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ اَمَّا قَدْ كَانُوا يُؤْذِنُونَ مِنْ اَكْمَاهَا قَتَرُ الْكُفْرَى هِيَ لَكُمْ وَ

ہدی اللہ فیہم (۳) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۲) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۱) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا

قَالَ غَيْرُهُ وَيُقَالُ لِلْعَنْبِ اِذَا خَرَجَ اَيْضًا كَا فَوْرٍ وَكُفْرَى دَلِيٌّ حَمِيمٌ الْقَرِيبُ مِنْ

اوروں نے کہا کہ انکو جب نکلے تو اس کو بھی کافر اور کفری کہتے ہیں دلی حمیم (۲) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۱) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا

حَمِيمٍ حَاصٌّ حَادٍ مَرِيَّةٌ وَ مَرِيَّةٌ وَاحِدَةٌ اِلَى مَا تَرَاءُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اَعْمَلُوا اَمَا تَسْتَمُّ اَوْ جَعِدُوا

حمیم (۱) حاص (۲) حاد (۳) مریۃ (۴) مریۃ (۵) اور مریۃ (۶) ایک ہی میں یعنی شک اور مجاہد نے کہا اعملوا (۷) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۸) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا

وَقَالَ بِنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سَمِعَ اَحْسَنُ الصَّادِعِ عِنْدَ الْعَفْوِ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ فَاذْ اَفْعَلُوْهُ

اور ابن عباس نے کہا اللہ ہی احسن (۳) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۲) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا (۱) اللہ نے ان کو سب سے اچھا اور برا بتا دیا

عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعُ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَا تَابَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ رَا بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوُونَ

تو اللہ کی حفاظت کرے گا اور دشمن ان کا تابع ہو جائے گا گویا کہ وہ دوسروں سے بابل اللہ تعالیٰ کا قول دعا کنتم (۱۲) اور

اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وَسَمِعَكُمْ وَلَا ابْصَارَكُمْ وَلَا اَجْلُوْكُمْ وَلَا كُوْلُوْكُمْ لَكِن تَضَنَّتُمْ اَنْ اَللَّهُ لَا يَجْعَلُ

اس لئے نہ بھیجتے تھے کہ تم نے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا منہ غلاف گواہی دیں گے لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ تمہاری جگہ سے ایسی باتیں نہیں

كَثِيْرًا اِمَّا تَعْمَلُوْنَ (۱۹۵۸) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

جانتا جو تم کرتے ہو ابن مسعود سے روایت ہے دعا کنتم تسترون ان يشهد عليكم سمعكم الخ

سَمِعَكُمْ الْاٰلِيَةَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنُ لِهَمَا مِنْ ثَقِيْفٍ اَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيْفٍ

قریش میں سے دو آدمی تھے اور ان کا عورت کی طرف سے ایک رشتہ دار ثقیف میں سے تھا یا دو آدمی ثقیف

وَخَتَنُ لِهَمَا مِنْ ثَقِيْفٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ حَلِيْنًا

میں سے تھے اور ان کا ایک عورت کی طرف سے رشتہ دار قریش میں سے تھا یا رشتہ دار ثقیف میں سے تھا انوں نے ایک دوسرے سے کہا یا تم

قَالَ بَعْضُهُمْ لِسَمْعٍ بَعْضُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ بَعْضُهُ لِقَدْ سَمِعَ كَلِمَةً

سمجھتے ہو کہ اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے تو ان میں سے کسی نے کہا کچھ سنتا ہے اور کسی نے کہا کچھ سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے

فَاَنْزَلَتْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرْوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمِعَكُمْ وَلَا ابْصَارَكُمْ الْاٰلِيَةَ

تو یہ آیت انہی دعا کنتم تسترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الخ

تفسیر

۱۱

اگلے الفاظ سخن اولیاد کہہ کر فی الجملہ دنیا بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے مومنوں پر نازل ہوتے ہیں۔ اور لہم البشوی فی الجملہ الدنیائوس ۲۵۔ سے اگلے تا یہ ہوتی ہے

۱۹۵۸

یہ کسی قدر
اخلاف الفاہ
کے ساتھ حدیث
کو دوہرایا ہے
قال اجتمع عند
البلیت (پہلی حدیث
میں ہے کہ وہ ایک
گھر میں تھے یہاں
یہ سے کہ وہ بیت
اللہ کے پاس
اکٹھے ہوئے،
قرشیان وثقف
او ثقفیان -
قرشی کثیرۃ شم
بطونہم بیٹوں
میں چری بہت
تھی یعنی کھاتے
پیتے خوب تھے)
قلیلۃ وفد قلوبہم
فقال احدہم
انرون ان الله
سبہم ما تقول قال
ابوخریسیم ابن
چہرنا ولا سبہم
ان اخیفنا وقال
الآخران کان
سبہم اذ ابھرتنا
فانہ سبہم اذا
اخیفنا فانزل
الله عزوجل وما
کنتم تستترون
ان یشھد علیکم
سعدکم لا ابصارکم
ولا جلودکم ولا الایۃ
وکان سفیان

(۲) **بَابُ قَوْلِهِ وَذَلِكَ ظَنُّكُمْ الْاِلَیَّةَ (م- ۲۲۷۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۹۵۸)**

باب اللہ تعالیٰ کا قول وذلک ظنکم الایۃ (۲۲۷۷) عن عبد اللہ (مکرر- ۱۹۵۸) دیکھو حدیث ۱۹۵۸

(۳) **بَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَصِدُوا فَإِنَّا لَأَنذَرْتُمُوهُمْ الْاِلَیَّةَ (م- ۲۲۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۹۵۸)**

باب اللہ تعالیٰ کا قول فان لَمْ یصدوا فاننا لآنذرتموهم الایۃ (۲۲۷۸) عن عبد اللہ (مکرر- ۱۹۵۸) دیکھو حدیث ۱۹۵۸

۲۲ - لحم عسق
(۲۲ - سورہ ۵۵) لحم عسق (الشوری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

وَيَذُرُّكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَقِيمًا لَا تَدْرُو حَاقِنًا آمَرْنَا الْقُرْآنَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَذُرُّكَ

اور ابن عباس سے بیان کیا جاتا ہے حقیماً (۵۵) جو نہیں بنتی روحاً من آمراً (۵۲) قرآن اور مجاہد نے کہا یذُرُّكَ فیه

فِيهِ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلِ الْأَحْمَجَةِ بَيْنَنَا لَا خِصُومَةَ طَرَفٍ خَفِيٍّ ذَلِيلٍ وَقَالَ غَيْرُكَ

(۱۱) ایک نسل کے بعد دوسری نسل لا حجة بیننا (۱۵) کوئی جھگڑا نہیں طرف خفی (۲۵) کمزور (۲۵) اور اوروں نے کہا

فَيُظَلِّنُ رُؤُوسَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ يُحَرِّكُنْ وَلَا يَجْرِيَنَّ فِي الْبِحْرِ شُرَعُوا ابْتَدَعُوا (بَابُ

فیظللن رؤوسهم علی ظہورہم (۳۳) ہنڈریں حرکت کرتی ہیں اور چلتی نہیں شُرَعُوا (۲۱) نیا نکالا باب

قَوْلِهِ إِلَّا الْاَلْمُودَةَ فِي الْقُرْبَى (م- ۲۲۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۱۹۵۵)

اللہ تعالیٰ کا قول الا المودۃ فی القربی (۲۲۷۹) عن ابن عباس (مکرر- ۱۹۵۵) دیکھو حدیث ۱۹۵۵

۲۳ - حم الزخرف
(۲۳ - سورہ ۴۱) حم الزخرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمَامَةٍ وَقِيلَ يَا رَبِّ تَفْسِيرُهُ أَلَا تَسْمَعُونَ

اور مجاہد نے کہا علی امة (۲۲) ایک امام پر وقیلہ یاد رہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آیتوں سے

وَسَمِعْتُمْ وَنَجُوا أَهْمُ وَلَا تَسْمَعُونَ قِيلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لَأَنَّ كُنُونَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ

اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے اور نہ ان کی گفتگو سنتے ہیں اور ابن عباس نے کہا لو کہ ان کیوں الناس امة واحدة (۳۳)

لَوْ لَأَنَّ جَعَلَ النَّاسُ كُلَّهُمْ كَقَارِ الْجَحْلِ لَسَيُوتُ الْكُفَّارُ سَقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجُ

اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ بات سب لوگوں کو کافر بنا دے تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی سے بنا دیتا اور معارج

مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ وَسُورٌ وَفِضَّةٌ هُمُورٌ مِّنْ مَّطِيعِينَ اسْفُونًا اسْفُونًا يَعْتَبِعِينَ

یعنی میٹھی ہیں چاندی کی کردیتا اور چاندی کے تخت زینا (۱۳) مفرقین (۱۳) طاقت رکھنے والے اسفونا (۵۵) ہم کو غصہ و لادیا یعنی (۳۶) انہما

وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَضْرِبْ عَنْكَ الذِّكْرُ أَمْيٌ تَكْذِبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا تَعَابُونَ

بن علی اور مجاہد نے کہا افضوب عنک الذکر (۵) یعنی کیا تم قرآن کی تکذیب کرتے رہو گے پھر بھی تم کو اس پر عذاب نہیں دیا جائیگا

مجد تھا ہذا فیقول حدیثاً منصور او ابن ابی نجیداً وحمیداً احدہم اذا قتان منہم ثم ثبت علی منصور و ترک ذلک مراراً غیر واحدۃ

۱۲ حدیث کو دوہرایا نہیں صرف بخاری نے پر اتقا کیا ہے ۱۳ ضعیف اختلاف فقہی سے دوہرایا ہے انہ مثل عن قولہ الا المودۃ فی القربی فقال

سعد بن جبیر قرنی ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابن عباس عجلت ان انبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یطرن من قریش الا کان لہ فہم

قرابۃ فقال الا ان تصدوا ما بینہ دینہم من القرابۃ - دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۸۱۱

عَلَيْهِ وَمَضَى مِثْلَ الْأَوَّلِينَ سِتَّةُ الْأَوَّلِينَ مُقَرَّبِينَ يَعْنِي الْأَيْلَ وَالْحَيْلَ وَالْبَغَالَ

و مضی مثل الاولین (۸۶) طریق عمل جو پہلوں سے برتا گیا مقربین (۱۳۳) طاقت رکھنے والے یعنی اونٹ اور گھوڑے اور چر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ هُنَّ الرَّحْمَنُ وَلَوْ أَفْكَيْفَ تَحْسَبُونَ

اور گدھوں پر بیشافی الحلیہ (۸۶) یعنی بیٹیاں تم نے ان کو رحمان کی اولاد ٹھہرایا پس تم کس طرح فیصد کرتے ہو

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ لَعَنُوا اللَّهُ تَعَالَى مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ

لو شاء الرحمن ما عبادناهم (۲۰) یعنی تیروں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لهم بذلك من علم (۲۰)

عِلْمٍ إِلَّا وَثَانٌ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فِي عَقِيْبِهِ وَكَانَ مُقَرَّبِينَ يَسْتَوْنَ مَعًا سَأَلُوا قَوْمَ

یعنی تیروں کو کچھ علم نہیں فی عقبتہ (۲۸) لاسکی اولاد میں مقربین (۸۶) اٹھے چلے ہوئے سلفا (۵۶)

فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكْفَارِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَثَلًا عِبْرَةً لِيُصَدِّقُوا

فرعون کی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کافروں کے لئے پیشرو ہے اور مثلاً (۵۶) عبرت یصدون (۵۶) چلا

يُضَيِّقُونَ هَاهُنَا يُجْعَلُونَ أَوَّلَ الْعَابِدِينَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَرَأْتُ النَّاسَ مِنْ

ایٹھتے ہیں مہربوں (۹۹) مضی و فیصد کرنا یعنی اول العابدین (۸۶) سب سے پہلے ایمان لائیں لا اننی برأهم من تعبدون (۳۶)

الْعَرَبِ تَقُولُ هُنَّ مِنْكَ الْبِرَاءُ وَالْخَلَاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْكَائِنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمَذْكُورِ

عرب کہتے ہیں ہم تم سے براء یعنی بے سزا ہیں اور خلاء یعنی الگ ہیں واحد اور متضام اور جمع

وَالْمَوْتُ يُقَالُ فِيهِ بَرَاءٌ لِأَنَّهُ مُصَدَّرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِيٌّ لَقِيلَ فِي الْأَثْنَيْنِ بَرِيَانٌ

اور موت ان سب میں براء کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ مصدّر ہے اور اگر کہے برفی تو متضام میں بریان

وَفِي الْجَمِيعِ بَرِيُونَ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بَرِيٍّ بِالْيَاءِ وَالزُّخُوفُ الذَّهَبُ مَلَكَةٌ

اور جمع میں بریون کہا جاتا ہے اور عبد اللہ نے اننی بری پائے پڑھا ہے اور زخوف (۳۵) سونا ہے ملکة

يَخْلُقُونَ يَخْلَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا رَأَى بَابُ اسْتِغْنَاءِ كَقَوْلِ دَاوُدَ الْإِسْرَاءِ ۖ وَأَنْ يَكْرَبَ

خالقین (۲۰) فرشتے بعض بعض کے خلیفے ہوئے باب استغناء کا قول دَاوُدَ الْإِسْرَاءِ اور یکراب کے اسے ایک تیراب

رَبِّكَ الْآيَةَ رَمَى - ۲۷۳۰ عَنْ يَعْلَى رَمْتَكُرًا - ۱۴۶۱ وَقَالَ قَتَادَةُ مَثَلًا

پارہ کام تمام کر رہے دیکھو حدیث ۱۴۶۱ اور قَتَادَةُ نے کہا مثلاً للآخرین (۲۷)

لِلْآخِرِينَ عِظَةٌ وَقَالَ عِيْزَةُ مُقَرَّبِينَ ضَابِطِينَ يُقَالُ فَلَانَ مُقَرَّبِينَ لِفَلَانٍ

رضی نصیب ہے اور اوروں نے کہا مقربین (۱۳۳) قابوس رکھنے والے کہا جاتا ہے فلاں فلاں کے لئے مقرب ہے

ضَابِطَةٌ وَالْأَكْوَابُ الْبَارِقُ الَّتِي لِأَخْرَاطِيمَ لَهَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ أَنْ

یعنی اسکو ضبط میں رکھے والا اور اکواب (۱۶) کوزے میں جن میں ٹوٹی نہ ہو اول العابدین (۸۶) یعنی رحمن کا کوئی بیٹا

مَا كَانَ فَاَنَا أَوَّلُ الْكَافِرِينَ وَهُمَا الْغَتَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبْدٌ وَقَرَأَ

میں سب سے پہلے میں اس سے عا کرتا ہوں اور دونوں طرح آتا ہے رجل عابِدٌ وَعَبْدٌ اور عبد اللہ نے

عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ وَيُقَالُ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ الْحَاجِدِينَ مِنْ

پڑھا ہے وقال الرسول (۳) اور کہا جاتا ہے اول العابدین (۸۶) حاجدین یعنی سب سے پہلا انکار

عَبْدٌ يَعْبُدُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ أَصْلُ الْكِتَابِ فَتَضَرَّبُ

کہنوا لعبد اللہ سے ہے اور قَتَادَةُ نے کافی ام الكتاب (۲۷) کل کی کتاب اور اصل کتاب انضوب

عَنْكُمْ الذِّكْرُ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ تَوَاصُرُونَ مُتَشَرِّكِينَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

عنكم الذکر صفحاً ان کنتم تو ماصرون (۲۷) متشرکین میں اللہ کی قسم اگر یہ قرآن

لا صرف استغناء میں ہے۔ سمعنا علیہ السلام یقرأ علی المدبر دنا دعایا مالک لیقف علی مالک

الذکر

رَفَعَ حَيْثُ رَدَّهٗ أَوْ اِنْبَلٰ هٰذِهِ الْاُمَّةُ لِيَهْلِكُوْا اِذَا هَلَكْنَا اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمِطَّةً

اگر یا جاتا جب اس امت کے پئے لوگوں نے اسے رد کر دیا تھا تو وہ ہلک ہوا جتنا ہلکنا اشد منہم بٹشا و مٹتی

مَثَلِ الْاَوَّلِيْنَ عِقُوْبَةُ الْاَوَّلِيْنَ جُزْءٌ عَدْلًا

مثال الاولین (۸) پہلوں کی سزا ججزاً (۸) سادی برابر

۴۴- الدُّخَانُ

۴۴- (سورہ الدخان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحیم والے اور بار رحم کرے

دَقَالَ جِهَادٌ زَهْوًا طَرِيقًا يَّا بَسًا عَلٰى الْعَالَمِيْنَ عَلٰى مَنْ بَدَّ ظَهْرِيْهٖ فَاَعْتَلَوْهٗ

اور جہاد نے کہا (۲) دھوا (۲) خشک رستہ علی العالمین (۲) ان پر جو اس وقت موجود تھے فاعتلوه (۲)

اِدْقَمُوْهُ وَاَزُوْجُهُمْ يَجُوْرُوْنَ اَنْكُنَّا هُمْ حُوْرًا عِيْنَا يَحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ تَرْمُوْنَ الْقَتْلَ

اس کو دھکیلو وہ (۲) ذوق جنہم (۲) ہم نے ان کا نکاح کر یا ایسی خوبصورت عورت سے کہ نگاہ اس میں چران بھاتی ہے ترمون (۲) قتل ہے

وَرَهْوًا سَاكِنًا وَقَالَ بِنُّ عَبَّاسٍ كَهَمَلُ الزَّيْتِ وَقَالَ غَيْرُهُ تَبَّعَ مَلُوْكَ

اور دھوا (۲) اور بن عباس نے کہا کاهمل (۲) زیتون کے تیل کی پیمٹ کی طرح کالا اور اوروں نے کہا تبع (۲) تیل کے

الْبَيْمِ كُلِّ وَاِحِدٌ مِنْهُمْ يُسَمٰى تَبَّعًا لَا اَنَّهُ يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ وَالظَّلُّ يُسَمٰى تَبَّعًا لَا اَنَّهُ

بارشہ ان میں سے ہر ایک تبع کہتا ہے اسلئے کہ وہ اپنے صاحب (یعنی بادشاہ) کے بعد ہوتا ہے اور سایہ کو بھی تبع کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ سورج

يَتَّبِعُ الشَّمْسَ رَاۤى بَابٌ يُّوْمَ تَاۤى السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ قَالَ قَتَادَةُ فَاَرْتَقِبْ

کا تابع ہوتا ہے بَابٌ يُّوْمَ تَاۤى السَّمَاءِ (۱) جس دن آسمان کھلا دھواں لائے قاتدہ نے کہا فارتقب (۲)

فَاَنْتَظِرْ ر- ۴۴۳۱ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مُرْتَكِر- ۵۷۸) بَابٌ قَوْلُهُ

انتظار کر دیکھو حدیث ۵۷۸۷ بَابٌ اللہ تعالیٰ کا قول

يَقْتَضِي النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ الْيَمِيْنِ ر- ۴۴۳۲ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مُرْتَكِر- ۵۷۸)

یعنی لوگوں کو جو کبھی تک بیگانہ ہو کر نہ گناہ عذاب ہے دیکھو حدیث ۵۷۸۷

(۳) بَابٌ قَوْلُهُ رَبَّنَا كَشَفْنَا عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ر- ۴۴۳۳

بَابٌ اللہ تعالیٰ کا قول ربنا کشف الخ (۳) ہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لایا ہے میں

مَسْرُوْقٌ (مُرْتَكِر- ۵۷۸) بَابٌ قَوْلِهِ اِنِّي لَكُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ

دیکھو حدیث ۵۷۸۷ بَابٌ اللہ تعالیٰ کا قول انی لکم الذکری (۳) ان کے لیے نصیحت کہانے دور کرے میں

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولٌ شَرَعَ لَكُمْ دِيْنًَا مَّا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم رسول اللہ استسق اللہ لعضو فاما انت

هٰذِهِ اُمَّةٌ مِّنْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكَ لَمَّا اَرْسَلْنَا فِيْهَا رُسُلًا

ہذا قوم ہے ان کے لئے جس سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے لئے رسول بھی بھیجا گیا

وَمِنَ الْاُمَّةِ مَن لَّمْ يَرْسَلْنَا فِيْهَا رُسُلًا وَلَٰكِن يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

اور ان میں سے قومیں بھی ہیں جن کے لئے رسول بھیجا گیا تھا لیکن وہ لوگوں کو

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

بَارُءٌ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ يَّاتِيهِمُ الْبَٰرُءُ

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم رسول اللہ استسق اللہ لعضو فاما انت
هذک قال لعضو انک الجوهی (دیر ہے یعنی ایسے سخت دشمنوں کے لئے دعا کے لئے کہتے) فاستسقی را اپنے بارش کے لئے دعا کی فسقوا فارتزل
انکر عا دن فلما اصابتهم الرفاهية رأ سائش عادوا الى حالهم حين اصابتهم الرفاهية فانزل الله عز وجل يوم نبطني البطشة
الكرهية انما منتقمون قال يعنى يوم بدر يوم لست اس مضون م ۴۳۹ سے لست ہے مگر آخری حصہ چھوڑ دیا ہے میں فقہیوں میں:- قال دخلت على
عبد الله فقال ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله علم ان الله قال لنبية صل الله عليه وسلم قل ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلمين ان
قریشا لما علمنا النبي صل الله عليه وسلم واستصوا عليه قال اللهم اعني عليهم يسبحك سبعين يوسف فاخذتهم سعة اكلوا فيها العظام والميتة
من الجهد حتى جعل احد هم يرعى ما بينه وبين السماء كهيشة الدخان من الجوع قالوا ربنا انكشف عذابنا فمؤمنون فضيل له ان كشفنا عنهم
باواد اذ عاربه وكشف عنهم فادوا فاسم الله عنهم يوم بدر فذلك قوله تعالى يوم تاتي السماء بدخان مبين ان قوله جل ذكره انما منتقمون

رَسُولٌ مُّبِينٌ الذِّكْرُ الذِّكْرَىٰ وَاحِدٌ (م- ۲۴۳۲) عَنْ مَسْرُوقٍ (متکثر- ۵۷۷)

کہوں کہ بیان کرنا رسول آیا ذکر اور ذکر ہی ایک ہی میں دیکھو حدیث ۵۷۷

(۵) بَابُ قَوْلِهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَقَالَ لَوْ اَمَعْتُمْ فَتَجْتَوُونَ (م- ۲۴۳۵) عَنْ مَسْرُوقٍ

باب اللہ تعالیٰ کا قول تھا تو لو اعنہ الخ (۱۲) پھر وہ اس سے پھرتے اور کہتے تھے گھبرا پڑے تو لو انا نے

(متکثر- ۵۷۷) (۶) بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ نَبِّطِشُ الْبِطْشَةَ الْكَبْرَىٰ اِنَّا مُتَّبِعُونَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول ہوں (۱۶) جن میں سخت گرفت سے پڑے تھے ہم سزا دینے والے ہیں

(م- ۲۴۳۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکثر- ۵۷۷)

دیکھو حدیث ۵۷۷

۲۵- النِّيَابَةُ

۲۵- (سورہ) النبی شیخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جَائِيَةٌ مُّسْتَوْفِيزِينَ عَلَىٰ الرُّكْبِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ نُسَأُ كَذَرَ كَلِمَةٍ

(جائیتہ) ۲۸) گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے اور بی ہرے کہا نستلسن (۲۹) ہم کہتے ہیں نسا کر (۳۰) ہم نے گھٹنوں پر بیٹھے

(۱۱) بَابُ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الذُّهْرُ الْآيَةُ (۱۹۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

باب وما یہلکنا اڑا اور سوائے نماز کے میں کچھ ہلاک نہیں کرتا ابو ہریرہ سے روایت ہے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْدِي عِرْيَانُ اِيَّامٌ لَيْسَبُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے این آدم ہے ایذا دیتا ہے وہ نہ کو برا

الذَّهْرُ وَاَنَا الذَّهْرُ يَبِيدُ لِأَمْرٍ أَقْبَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

کتاب ہے اور میں ہی زمانہ کا مالک ہوں ہلکا کام میرے ہاتھ میں ہے کی برات اور دن کو میرا پھیر کر لاتا ہوں

۲۶- الْأَحْقَافُ

۲۶- (سورہ) الاحقاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العز اب يوم القيمة قالوا البيضة الكبرى يوم بدره

عاندون انكشفت عذابا لاخرة فقدمضى الدخان والبيضة والوزم وقال احمدهم القبر وقال الكافر الروم

نفس قدمضين الزم والروم والبيضة والعرو الاخان يودى دینی جہاز کے رنگ کا کام ہے یعنی ایسی بات کہتا ہے کہ گویا مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی وہ اس سے پاک ہے۔ انا الدھر ایا ہے جیسے اللہ نور السموات والارض حالانکہ مراد حق تور ہے۔ اس طرح انا الدھر سے مراد صاحب الدھر ومدبر الامور ہے (یعنی) مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمانہ میں ہو رہا ہو وہ ایک برابر لا رہا ہے جی کے تصرف سے ہو رہا ہے اپنے آپ میں ہو رہا ہے بعض وقت انسان کو ایک مکروہ امر پہنچے تو وہ مانہ کہ کوئی شرعی کرنا ہے حالانکہ وہ امر بھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کی تربیت کا موجب ہی ہوتا ہے

کون کسی قدر اختلاف
لفظی سے آئی ہے
قال دخلت على
عبد الله ثم قال
ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم لما
دعا قريشا كان بؤرا
واستعصوا عليه
فقال اللهم اعن
عليهم بسبع سبعين
يوسف فاصابهم
سنة حصدت بعين
كل شئ حتى كانوا
ياكلون الميتة
فكان يقوم احد
فكان يركع بينه
وبين السماء مثل
الدخان من جهده
والجوع ثم قرا
فازرقب يوم تاتي
السماء بدخان
مبين يمشي الناس
هذا احد ابان لهم
حتى بلغه انا كاشفوا
العذاب قليلا
انكم عاشدون
قال عبد الله
افيشفت عنهم

حرف

حرف

حرف

حرف

حرف

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَفِيضُونَ تَقُولُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَشْرَقَ وَأَشْرَقَتْ وَأَشْرَقَتْ رَيْبِيَّةٌ عَلِيٌّ

اور مجاہد نے کہا تفیضون (م) کہتے ہو اور بعض نے کہا اشرق اور اشرقا اور اشراقا (م) بقیہ علم ہے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَعَ امْنِ الرَّسُولِ لَسْتُ بِأَوَّلِ الرَّسُولِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأَيْتُمْ هَذِهِ

اور ابن عباس نے کہا بدع امْنِ الرَّسُولِ میں پیدا رسول نہیں ہوں اور اوروں نے کہا ارایتکم (م) اور ابن

الْأَلْفِ إِثْمَاهُ تَوَعَّدُ أَنْ مَادَّعُونَ لَا يَسْتَعْقِبُونَ أَنْ يُعْبُدُوا وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأَيْتُمْ

بجزہ ڈرانے کیلئے ہے (یعنی) اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو جس کو تم بگاڑتے ہو وہ مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے اس قول اور ایت

بِرُدِيَةِ الْعَيْنِ إِثْمَاهُ أَعْلَمُونَ أَنْ مَادَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْئًا

میں آنکھ کی رویت مراد نہیں اس کے معنی میں کیا جاتے ہو کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا جس کو تم بگاڑتے ہو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے

دَا بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيَةُ أَوْ لَوْلَا دِيَةُ ابْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتْ

باب اللہ تعالیٰ کا قول والذی (م) اور وہ جو اپنے ماں باپ کو کتا ہے تم میرا فرس کیا تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکال کر لایا جاؤنگا

الْقُرْآنُ مِنْ قَبْلِي وَهِيَ اسْتِغْنَاءُ اللَّهِ وَبِكَ الْإِيمَانِ وَعَدَّ اللَّهُ حَقَّ فَيَقُولُ مَا

اور مجھ سے پہلے اتنی ہی نہیں گذری تھی اور وہ دونوں اللہ سے فرمایا کرتے (ہوتے) کہ میں تم پر فرسوں ایمان لا اللہ کا وعدہ کیا ہے تو وہ

هَذَا أَرَأَيْتُمْ أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ (۱۹۶۰) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَهُذَابَ قَالَ كَانَ مُرَدًّا

کتاب ہے یہ کچھ نہیں مگر یہ لوں کی کتابیاں ہیں یونس بن یہذاب سے روایت ہے کہ مراد ابن حجاز کا حکم تھا

عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مَعُوبَةَ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَدُ كُرَيْبِ بْنِ مَعُوبَةَ لِيَكُنَّ بِسَائِحٍ لَهُ

معاویہ نے اسے حاکم بنا لیا تھا اس نے خطبہ دیا اور لایہ بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ لوگ اس کے پاس آجائیں

بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ شَيْئًا فَقَالَ خَذُوهَا فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ

بعد اس کی بیعت کریں تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسے کچھ کہا تو اس نے کہا اسے پکڑو وہ حضرت عائشہ کے گھر چلے

فَلَمَّا يَقْدِرُوا فَقَالَ مُرَدُّانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيَةُ

گئے اور وہ لوگ قہر نہ پا سکے تو مراد نے کہا یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت انا والذی قال لولا دية

أَوْ لَوْلَا دِيَةُ ابْنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَرَدُّانُ الْحِجَابُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا شَيْئًا

ان لکھا اتنا ہی تو حضرت عائشہ نے یہ کہہ کے پیچھے سے فرمایا کہ اللہ نے قرآن سے پہلے اسے متعلق کچھ نہیں آتا

مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَذَابِي بِرَأْسِ بَابِ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَوْهَا عَارِضًا

سوئے اس کے کہ اللہ نے میری برائت اتنی باب اللہ تعالیٰ کا قول فلما رآها (م) اور وہ

مُسْتَقْبِلًا أَوْ دَبَّيْتَهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطَرِّئٌ نَابِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْتَجَلْتُمْ بِهِ رِيحًا فِيهَا

جب اسے ایک بادل کے رنگ میں دیکھا جو ان کی وادوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے ہم پر میرا سنانے والا بلکہ یہ وہ ہے

عَذَابُ آلِ يَمٍّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَارِضٌ السَّحَابُ (۱۹۶۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

جس کیلئے تم جلدی کرتے تھے ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے ابن عباس کا معارض بادل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا تالو

أَرَى مِنْهَا لَهَوَاتِمَنَا كَانَ يَنْبَسُّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى عِيْمًا أَوْ رِيحًا عَرُوفًا فِي رِيحِهِ

نظر آئے آپ صوفت مکرایا کرتے تھے فرمایا اور جب آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے سے معلوم ہوجاتا حضرت

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْعِيمَ فَرَحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونُوا فِيهِ النَّظَرُ

عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی

وَأَرَاكَ إِذْ أَرَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ
 امر میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے میں تکلیف منعم ہوتی ہے فرمایا ہے عائشہ کو کسی بات سے جو کچھ نہیں کہتی ہے
 حَدَابِ عَذَابٍ تَوْمًا بِالرَّيْبِ وَقَدَّرَ أَيُّ تَوْمٍ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَذَابُ مَنْ مَرَّ بِهَا
 کہ اس میں عذاب ہو گا ایک توم کو ہوا سے عذاب یا کسی اور ایک توم نے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر میں برسائے والا ہے

۴۷- الَّذِينَ كَفَرُوا

۴۷- (سورہ) الذين كفروا محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ایشیے افتخارم والے بار بار رحم کرئیوں کے نام سے

أَوْزَارَهَا أَتَاهَا حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْإِسْلَامِ فِيهَا عِصْمَةٌ لِّهَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَوْلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا
 اوزارہا (۴۷) یعنی گناہ یہاں تک کہ مسلمان کے سوا کوئی باقی نہ رہے مگر عیسیٰ (۴۷) سے بیان کر دیا اور مجاہد نے کہا مولى الذين امنوا (۴۷)

وَلِيْلَهُمْ عِزْمُ الْأَمْوَاجِ لَوْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانَتُمْرًا فَتَنُوا وَلَا تَنْصُرُوهُمُ أَوْ قَالَ بَنُو عُبَايَةَ ضَعُفًا لَهُمْ
 ان کا ولی مددگار عزم الامور (۴۷) معاملہ ہونے والا تھا (۴۷) کہ وہ نہ ہو اور ابن عباس نے کہا اخضعوا لهم (۴۷)

حَسَدُهُمْ أَسْرَسُ لَمْ يَخْبِرُوا يَا بَنِي تَوْبَةَ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ر ۱۹۶۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 ان کا حسد اس (۴۷) بگڑا ہوا یا بے اللہ تعالیٰ کا قول و تقطعوا ارحامكم (۴۷) ابو ہریرہ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحْمُ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے مخلوق پیدا کی جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی تعین فرماتے

فَأَخَذَتْ حَقْفُوا الرَّحْمَ فَقَالَ لَهُمَ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِينَ مِنَ الْقَطِيعَةِ
 کھرا ہوا اور رحمن کی پناہ چاہی مگر اللہ نے اس سے کہا کیا ہے عرض کیا یہ اس کا مقام ہے جو قطع سے تیری پناہ چاہتا ہے

قَالَ لَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قِطْعِكَ قَالَتْ بَلَىٰ يَا رَبِّ
 اللہ نے فرمایا کیا تو ارضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور اس سے توڑوں جو تجھے توڑے مگر اس شخص نے کہا یا اے میرے

قَالَ ذَٰلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرَأَيْتُمْ نَهَلْتُمْ نَهْلَ عَسِيدَتِي إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسُدُوا
 رب اللہ نے فرمایا تو ایسا ہی ہوگا ابو ہریرہ نے کہا یا ہوا تو ہر اھلو نھل الخ (۴۷) ہیں اگر تم بھراؤ تو قریب ہے کہ زمین میں فساد

فِي الْأَرْضِ تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ر ۱۹۶۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) (۱۹۶۱)
 کھیلو اور اپنے رحموں کو قطع کرو دیکھو حدیث ۱۹۶۱

فوق الذين كفرنا الى يوم القيامة ۱۰ ملے یہ سب کلام بطور تشبیہ ہے۔ مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہونے سے مراد نہیں کہ بیٹے کام میں لگا ہوا تھا پھر اسے
 کوئی کام نہ رہا بلکہ مطلب مرث یہ ہے کہ جیسا انسان کو پیدا کیا تو جسم کا کھڑا ہونا بھی بطور استعارہ ہے اور رحم و رحل تعلقات قرابت کا نام ہے۔ پناہ چاہنے کے
 لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی استعارہ ہے اخذت بحق الرحمن عینی میں ہے کہ اکثر روایات میں اخذت کے لفظوں کا ذکر نہیں ہوا حق الرحمن کا لفظ
 نہیں۔ حق انسان کی اس جگہ کہتے ہیں جہاں وہ ازار بند باندھتا ہے۔ یہاں نہ کیڑے نہ والا جسم ہے بلکہ وہ محض ایک صفت ہے اور جس چیز کو کچھ لپے وہ بھی جسم
 نہیں۔ اور عینی میں ہے کہ یہ کلام بطور استعارہ ہے۔ گویا تعین قرابت کو ایسے شخص سے مثال دی ہے جو دوسرے کی پناہ مانگتا ہے۔ اور پناہ مانگنے کا وہ طریق بیان کیا
 ہے جو کلام عرب میں سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ کہہ کر عرب لوگ مجاہدہ کے طور پر کہتے ہیں جہاں کمال حمایت کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر ہذا یعنی ہذا اور پناہ
 میں ہے کہ حق ہوا یا مجازاً اور تشبیہ ہے کیونکہ عرب کہتے ہیں عذت بحق فلان اذا استنجرت به واعتصمت یعنی کسی شخص کے حقوق کو کچھ لپے پناہ لینے سے مراد اس کے
 ساتھ پناہ لینا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اسی سے انسان یا مخلوق میں رحم ہے۔ اسی لئے یہاں لفظ بھی حق الرحمن استعمال
 کیا ہے۔ حق اللہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ مگر گویا یہاں ہے کہ خدا سے اس انسان کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے جو تعلقات قرابت کو قائم رکھتا ہے۔
 محض عبادت سے نہیں جبکہ اس کے ساتھ تعین قرابت کا توڑا جاتا ہو۔ یوں انسانی تعلقات کو خدا کے ساتھ تعلق کا معیار بٹھا دیا ہے۔ مگر کہ روایت کے لفظ ہیں۔
 عن ابی ہریرۃ ہذا اشم قال واصل اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اقر مدان شدتم نھل عسیدتم یعنی بغیر حدیث کو وہ ہر لپے کے کہا کہ ابو ہریرہ نے یہی حدیث بیان کی

۱۰ ملے اوزارہا کے
 عام سے ہتھیار
 کئے گئے ہیں اور
 یہاں لفظ میں۔
 حتی تضم المویب
 اوزارہا اور ریب
 کے لفظ کے لئے
 یہی معنی اسب
 ہیں۔ اوزار کے
 معنی یہاں آٹام یا
 گناہ امام بخاری
 نے ہی کئے ہیں۔
 اور اس سے کئے گئے
 کہ تشریح یہ کی ہے
 کہ مسلمان کے
 سوائے کوئی باقی
 نہ رہے۔ غائب اس
 سے مراد جویرہ
 العرب ہو گا کہ
 وہاں سوائے مسلمانوں
 کے اور کوئی باقی
 نہ رہے گا۔ اور نہ
 دنیا میں ہی وہ خدا
 کا قیامت کھٹتی
 رہنا قرآن شریف
 کی نص صریح سے
 ثابت ہے۔ جو اصل
 الذين اتبعوا

(۳) **بَابُ قَوْلِهِ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مَبَشِّرًا وَّاذْنِبًا (م-۲۴۳-۲۴۴) عَنْ**

باب اشرفی کا قول انا ارسلناک (م) ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مکرر- ۱۰۵۸) (۴) **بَابُ قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِينَةَ**

دیکھو حدیث ۱۰۵۸

باب اشرفی کا قول ہوا الذی انزل السکینۃ (م) جو ہے جس نے تسکین نازل کی

(م-۲۴۴) عَنْ الْبِرَاءِ (مکرر- ۱۶۱۸) (۵) **بَابُ قَوْلِهِ اِذْ يَبْرَأُ يَجُوزُكَ تَحْتَ**

دیکھو حدیث ۱۶۱۸

باب اشرفی کا قول اذ ینبرأ یجوزک (م) جب وہ وقت

الشَّجَرِ (م-۲۴۵) عَنْ جَابِرٍ (مکرر- ۱۸۰۰) (۱۹۴۳) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ**

دیکھو حدیث ۱۸۰۰

عبداللہ بن معقل مزی سے روایت ہے

الْمَزْنِيِّ (م) **شَهِدَا الشَّجْرَةَ نَهَى لَيْثِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُذْفِ وَعَنِ**

کہیں ان میں سے ہوں جو درخت کی بیٹ میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدیاں پھینکنے سے منع فرمایا اور

عُقْبَةَ بْنِ صُهَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ الْمَخْضِلَ الْمَزْنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي

عقبہ بن صہبان سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن معقل کوٹا

الْمُخْتَسِلِ (م-۲۴۶) **عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّمَّانِ (م) (مکرر- ۱۸۰۶)**

دیکھو حدیث ۱۸۰۶

(م-۲۴۷) **عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (مکرر- ۱۴۴۱)**

دیکھو حدیث ۱۴۴۱

۴۹- الْحَجَرَاتُ

۴۹- (سورہ) الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشرفی انشراح والے بار بار ہم

وَقَالَ فُجَاهِدٌ لَا تَقْدَمُوا لَّا تَقْتُلُوا عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

ادھر جاؤں گا لا تقدموا (م) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے براہ کرا تین ذکر وہلا

يَقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ آمَنَ أَخْلَصَ تَبَا بَرَّو اِيْدَعِي يَا كُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

کہ اللہ آپ کی زبان پر فیصلہ صادر فرمائے آمین خالص کیا تبابرو اور (م) کہ اسلام کے بعد کفر سے پکارا جائے

بَلْكُمْ يَنْقُصُكُمْ آلَتَنَا نَقْصَانًا، **بَابُ قَوْلِهِ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ**

بلکہ تم کو کم کر کے دینگا (تقارن طور پر) ہم نے تم کو کم کر دیا یا باب اشرفی کا قول لا ترفعوا اصواتکم (م) اور اذن کو نہیں کی آواز پر بلند نہ کرو

عمل مکرر روایت
ما ابتدائی حصہ کچھ
اختلاف نقلی سے
آیا ہے۔ پچھلا حصہ
قریباً انہی الفاظ
میں ہے مگر آخری
تشریح فقرہ چھوڑ
دیا ہے۔ غظروں
میں ان ہفتہ آیات
المنی فی القرآن
یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہداً
ومبشراً واذنباً
یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہداً
ومبشراً واذنباً
للأممیین انت
عبدی ورسولی
سمیتک المستطاب
لیس یغظوہ ولا
غلظ ولا غتاب
بالاسواق ولا
یدفع السبۃ
بالسبۃ ولکن
یغظوہ لیغضوہ
یقضیہ اللہ حتی
یقیم بہ السلۃ
الحجرات باب
یعولوا الا الا
اللہ فیغضوہا

اعینا عیناً واذ انما حمماً وقلوباً غلظاً... مکرر روایت کسی قدر تفسیر الفاظ سے آئی ہے۔ قال بینما رجل من اصحاب النبی صلعم یقراؤ فیہ من مروط فی الدار
فجعل ینقر فخرج الرجل فنظر فلم یرشیا وجعل ینقر فلما اصبح ذکرو ذلک لنبی صلعم فقال تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ مغلطاً میں نے ذکر ہے کہ اس نے مگر
میں بادل یا کسی سی کیفیت دیکھی تو اسی کے متعلق نبی صلعم سے ذکر کیا۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۸۳۰۔ ۸۳۱ میں صرف ایک جملہ دیا ہے۔ قال کنایم الحدیثیہ
الفاد اربعاً ثمانۃ مگر میں صرف یہ نقل ہے وکان من اصحاب الشجرۃ۔ ۱۵۵ ابتدائیں کچھ زیادہ ہے اور آخر میں کچھ حصہ کم ہے۔ باقی ضمیمہ کی پیشی سے ۱۴۴۱
کو درہا یا ہے۔ قال اثبت ایادئنا اسالہ فقال کنایم حدیثین فقال رجل الم ترالی الذین ینہیون الی کتاب اللہ فقال علی نعم فقال سهل بن حنیف اجمعوا
انفسکم لقلوبنا وابتناؤم الحدیثیہ یعنی الصلعم الذی کان بین النبی صلعم والشوکیون دونوی قتالاً لقاتلنا فیہ عمر فقال السناعلی الحق وهم علی الباطل المیس
مقلاتانی الجنۃ وقللام فی النار قال بلی قال فغیم اعطی لدینہ فی دیننا ورجع ولما حکمک اللہ بیننا فقال یا ابن الخطاب الی رسول اللہ ولن یضییعہ اللہ
ابداً فوجم معنیہ فلم یصبر حتی جاء ابا بکر فقال یا ابا بکر السناعلی الحق وهم علی الباطل قال یا ابن الخطاب اشرفی اللہ صلعم لعلہم ولولیکم

۱۱۱

التَّيَّةُ الْآيَةُ تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ وَهِنَّ الشَّاغِرَاتُ ۱۹۶۴ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ

تشرعون (۲) جانتے ہو اور اسی سے شاعر ہے ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ

كَأَدَّ الْخَوَازِرَ أَنْ يَهْلِكَ آبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

قریب تھا کہ وہ بہت تک آدھی ہلاک ہو جاتے (یعنی) ابو بکر اور عمر دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند کیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي نَسِيمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَبِ حِينَ

جس وقت آپ کے پاس بنو نسیم کے سوار آئے دونوں میں سے ایک نے اقرب بن عباس کے متعلق مشورہ دیا

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ شَرِيحٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ أَخْرَجَ النَّافِعَ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ

جو یحییٰ بن یحییٰ کے خاندان سے تھا اور دوسرے نے کہا اور آدمی کے متعلق مشورہ دیا نافع کہتا ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الْخُرَافِيَّ قَالَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا ذَلِكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا

تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا تم ہی چاہتے ہو کہ میری مخالفت کرو حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہ تھا میں دونوں کی آوازیں اسی

فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ كَمَا يَسْمَعُ الْآيَةُ قَالَ بَرْدُ الزُّبَيْرِ

بارہ میں بلند ہوئیں پس اللہ نے امارا یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم کما

فَمَا كَانَ عُمَرُ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ

تو حضرت عمر اس آیت کے بعد راستہ آہستہ بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکتے یہاں تک کہ آپ ان سے پوچھا کرتے تھے

(م-۲۲۲۸) عَنْ أَبِي سُرَيْبٍ (م-۲۲۲۹) بَابُ تَوْلَاهُ أَنَّ الَّذِينَ يَبْنَادُونَكَ

بَابُ تَوْلَاهُ قَالَ ابْنُ أَبِي نَجْرٍ إِنَّ الَّذِينَ يَبْنَادُونَكَ الْخُرَافَةَ

مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (م-۲۲۲۹) عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لوگ جو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے

(م-۱۸۵) بَابُ قَوْلِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

بَابُ قَوْلِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

(م-۱۸۵) بَابُ تَوْلَاهُ قَالَ ابْنُ أَبِي نَجْرٍ إِنَّ الَّذِينَ يَبْنَادُونَكَ الْخُرَافَةَ

بَابُ تَوْلَاهُ قَالَ ابْنُ أَبِي نَجْرٍ إِنَّ الَّذِينَ يَبْنَادُونَكَ الْخُرَافَةَ

۵- سُوْرَةُ ق

۵۰- سُوْرَةُ ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے والے کے نام سے

رَجَعُ بَعِيدًا رُدُّ فَرْجٍ مُتَوَكِّفٍ وَاحِدٌ مَا فَرْجٌ وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ الْجَبَلُ الْجَبَلُ لِقَاتِ

رجوع بعید (۱۲) لوٹ کر آنا فروج (۱۲) متوکف اس کا مفسر فروج ہے وہیں (۱۲) ان کے حلق میں ہے اور جبل کدھ کی رگ ہے

وَقَالَ مُحَمَّدًا مَّا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ بَصِيرَةٌ بَصِيرَةٌ حَبُّ الْحَصِيدِ

اور مجاہد نے کہا ما تنقص الارض من عظامهم بصیرت (۸) بصیرت حب الحصيد (۹)

الْحِنْدَةُ بِاسْقَاتِ الطَّوَالِ أَفْعِينَا أَفْعَابًا عَلَيْنَا وَقَالَ قُرَيْبُهُ الشَّيْطَانُ

گندم باسقات (۱۱) پس افعیینا (۱۵) ہم پر شکل ہوئی وقال قریبہ (۲۳) وہ شیطان جو اس کے لئے

الَّذِي قَبِضَ لَهُ فَنَقَبُوا ضِرْبًا أَوْ الْقِي السَّمْعَ لَا يَجِدُ نَفْسَهُ بَعْدَ كَيْدِ الشَّيْطَانِ

مقرر کیا گیا ہے فقبحوا (۳۰) جے پھرے أو القی السمع (۳۰) اس کے دل میں اس کے سولے اور کئی بات نہ ہو اور سخن

وَأَنشَأَ خَلْقَكَ رَبِّ قَبِيحٌ عَتِيدٌ رَصْدٌ سَاتِقٌ وَشَهِيدٌ الْمَلِكُ كَانَتْ كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ

الاولی جب تمیں پیدا کیا اور پیدائشی ابتدا کی قبیح عتید (۱۸) پیریا رساتق (۲۱) و شہید (۲۱) و درشتے ہیں کہنے والا اولی

الاولی جب تمیں پیدا کیا اور پیدائشی ابتدا کی قبیح عتید (۱۸) پیریا رساتق (۲۱) و شہید (۲۱) و درشتے ہیں کہنے والا اولی

کلمت روایت کو
اسی الفاظ میں
دوہرایا ہے
قریبی اسی الفاظ
میں حدیث کو
دوہرایا ہے

وَسَقَطْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ أَنْتَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَسَاءِ مَنْ

غریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے تیری رحمت سے اپنے بندوں میں سے جس پر یا بڑنگا

عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتَ عَذَابٌ بِكَ مِنْ أَسَاءِ مَنْ عِبَادِي وَإِلَى

رحم کروں گا اور دوزخ سے فرمایا کہ تو عذاب ہے جس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور دونوں

وَإِحِدٍ مِّنْهُمَا مَلُوهَا فَمَا النَّارُ فَلَا تَسْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رَجُلَهُ مَقْعُودٍ قَطِيقًا

میں سے ہر ایک کیلئے اس کی پھرتی ہوگی سو دوزخ تو نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ قدم رکھے تو وہ گئے کسی بس بس بس

فَهَذَا لِكَ تَسْتَلِي وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يُظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَسْخَلَةً

تو اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ کسی طرف سمٹ جائے گا اور اللہ عزوجل میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا

أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْشِئُ لَهَا خَلْقًا (۲۳) بَابُ قَوْلِهِ

اور یہی جنت تو اللہ اس کے لئے راہ میں مخلوق پیدا کرے گا بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا قَوْلُ

سَيِّدِي مُحَمَّدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (۲۷۵-۲۷۶) عَنْ

سید محمد (۲۷۶) اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شیعہ کے کلمے سے پیدا ہونے سے پہلے

جَبْرِ بَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۳۶۹) (۱۹۶۵) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ

دیکھو حدیث ۳۶۹ مجاہد سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا

عَبَّاسٍ أَمْرًا أَنْ يُسَبِّحَ فِي آدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِي قَوْلَهُ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ

اللہ نے نبی کریم صلوٰۃ کو حکم دیا کہ روزانہ نمازوں کے ہر سب سے پڑھا کرے اور اللہ کے اس قول سے ہے داد یا با السجود

۵۱- وَالذَّارِيَاتِ

۵۱- (سورہ) والذاریات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کیا جاوے گا اور اللہ کے نام سے

قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرِّيَاحُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَذْرُوهُ تَفْرِقُهُ وَفِي أَنْفُسِكُمْ تَأْكُلُ

علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاریات، ہوا میں اور اوروں نے کہا تذرؤہ تفرقہ اور اللہ نے کہا تفرقہ یعنی اللہ کے ہر ایک میں

تَشْرِبُ فِي مَدْخَلِ أَحَدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ فَرَأَى فَرَجَ فَصَلَّتْ فَجَمَعَتْ أَصْلَابَهَا

رستہ سے کھاتے پیتے ہیں اور فرج دو جگہوں سے ہوتا ہے فرج (۲۷۶) روایت کیا فصحت (۲۷۶) اس نے اپنی انگلیاں اٹھی

فَضْرِبَتْ جَمْعَهَا وَالرَّمِيمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذْ أَيْسُ وَدَيْسُ لِمُوسَى لَمُوسَى أَيْ الدُّوسَى

گھسی اور اپنی پیشانی کو مارا اور رمیم زمین کی گھاس ہے جس سے سوکھ جائے اور دوسئے لیسے لیسوں (۲۷۶) یعنی دوسرے دلی

وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَوْسَى قَدْرُهُ يَعْنِي لِقَوِي زَوْجَيْنِ الذَّكْرُ وَالْأُنْثَى دَاخِلَاتٍ

اور اسی طرح علیہ الموسی قدرہ البقرہ (۲۷۶) یعنی طاقت والا ذریعہ (۲۷۶) مذکر اور مؤنث اور دونوں کا

الْأَوَانِ حُلُوهَا وَمَا مِضٌ فَهِيَ أَرْوَجَانِ فَفَسَّ وَأَنَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَّا لِيُعْبَدَ

اختلاف میں مینھا اور کھٹا یہ بھی دوزخ میں فغرد إلى الله (۲۷۶) اللہ سے اللہ کی طرف ہے اور الی اللہ (۲۷۶) الی اللہ (۲۷۶)

مَا خَلَقْتَ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفِرْيَاقِينَ إِلَّا لِيُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ

میں نے نیک بندوں کو دوزخ فرقی (جن اور انس) میں سے مرنے اور اس لئے پیدا کیا کہ میری توحید کو قائم کریں اور بعض نے کہا

خَلَقَهُمْ لِيُؤْخَذَ مِنْهُمْ أَوْ لِيُفْعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ بَعْضٌ وَكَيْسٌ فِيهِ حِجَّةٌ لِأَهْلِ الْقُدْرَةِ وَالذُّؤْبِ

انکو پیدا کیا کہ وہ ایسا کریں تو بعض نے (ایسا) کہا اور بعض نے نہیں کیا اور اس میں قدرہ کیسے کوئی دلیل نہیں ہے اور ذؤب (۲۷۶)

۱۔ اسے کثرت کی بنا پر مانا گیا ہے۔
۲۔ گرماء و گرمیوں اور وہ لوگ
۳۔ جو دوسروں پر ظلم کرنے کی بجائے ان کا نظم سے ہیں اور جو لوگ کے خوب
۴۔ ہیں۔ کیونکہ حکماء و جبار کے بافتاب
۵۔ یہی سنتے ہیں یہاں تک کہ دیکھیں وہی عذاب پر ٹوٹ جاتے ہیں بعض کے بعض کی طرف سمٹ جاتے ہیں یہی مراد معلوم ہوتی ہے کہ اس پر نفاذ جائے گا یہ مخلوق وہی
۶۔ اہل نارا ہیں جو دوزخ کے خابہ جنت میں چلے جائیں گے
۷۔ گندہ فریاد ہی لگا ہے۔ گندہ یعنی تفرج ہے کہ یہ جو دعویٰ رات کا چاند کھاتا
۸۔ فنظر الی القمر لیلۃ اربع عشرة
۹۔ آخری تشریحی جملہ
۱۰۔ الی الاعلیٰ والا بیسور یا ہے۔ دیکھو
۱۱۔ بوط کا کلمہ ۱۵۰
۱۲۔ لہذا لہذا تو وہ سب سے بڑا ہے اور نہ کرنے کے بعد ہی سب کو حکم دیتا کہ نماز میں جلا
۱۳۔ حال ہونی اور اس آیت ایک مرتبہ نکل جائے

اللَّو الْعَظِيمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَرَّةٌ صَبِيحَةٌ ذُو بَاسٍ سَيْلًا الْعَقِيمِ الرَّبِّي لَا تَلِدُ وَقَالَ

ابن عباس وأجبتك استواءها وحسنها في غمرة في ضلالتهم يتمادون وقال

غيره نواصوا نواصوا وقال مسومة معلمة من السيماء قتل نحر اصون لونها

۵۲- وَالطُّورُ

۵۲- (سورہ) والطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ قَتَادَةُ مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الطُّورُ الْجَبَلُ يَا شَرِيًّا نَبِيًّا رَقِي

مَشْهُورٌ صَحِيفَةٌ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ سَمَاءُ الْمَسْجُورِ الْمَوْقِدُ قَالَ الْحَسَنُ لَسِيخٌ حَتَّى

يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلْيَتَّبِعْ فِيهَا تَطْرَةً وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْتَنَاهُمْ نَقْضًا وَقَالَ غَيْرُهُ

تَمُودٌ تَدْرَأُ حِلَامَهُمُ الْعُقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبُرِّ اللَّطِيفُ سَفْقًا قَطْعًا الْمُنُونُ

الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ ر- ۲۲۵۲ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَمَتْكَر-

۳۲۶- ر- ۲۲۵۳ عَنْ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ رَمَتْكَر- (۲۷۱)

۵۳- وَالْبَحْمُ

۵۳- (سورہ) والبنم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذُو مِرَّةٍ ذُو قُوَّةٍ قَابٌ قَوْسَيْنِ حَيْثُ أَلْوَتْ مِمَّنِ الْقَوْسِ ضَيْزِرَةٌ

عَوَاءٌ أَوْ كَذَى قَطْعَ عَطَاءٍ رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مَرْزَمُ الْجَوْزَاءِ الَّذِي وَفَى وَفَى

مَا فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْزَفُ الْأَرْزَفَةِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ سَامِدَةٌ الْبُرْطُمَةُ وَقَالَ

عَلَمَةٌ يَتَعَقُونَ بِالْحَمْدِ تَبِيَّةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَيْمٍ ائْتَمَرُوا نَهْ أَيْ ائْتَمَرُوا نَهْ

انہی الفاظ میں
مدیرت کو دوہرایا
ہے
یہاں کچھ تفصیل
زیادہ ہے۔
سمت النبی صلی
اللہ علیہ وسلم
یقرانی المغرب
بالطور فلما بلغ
هذه الآية ام
خلقا من غير
شي ام ثم اني نقول
ام خلقا السموات
والارض بل
لا يوقنوت ام
عند هم خزائن
ربك ام هم
المسيطرون
كاد قلبى ان
يخبر ردى رواية
سمعت النبي صلى
الله عليه وسلم
يقرانى المغرب
بالطهر لم اصحه
زاد الذى قالوا
لى
تفسیر میں لفظ
برطمة ہے۔
جس کے معنی
نہاں میں دیئے
ہیں۔ الا تنفخ
من الخضب
تکبر کرنا۔ او کھنٹی
میں اعراف ہی
اس کے معنی
دیئے ہیں۔

وَمَنْ قَرَأَ آفْتَمُوهُ نَهَ يُعْنِي أَفْتَجَّ حَدُّهُ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ بِصَرِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور جس نے پڑھا افتمونه تو سنے میں کیا تم اس کا انکار کرتے ہو ما ذاعا البصر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ (میں بھری)

وَسَلَّمَ وَمَا ظَنُّهُ وَلَا جَاوَزَ مَا رَأَى فَمَا رَأَى كَذِبًا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا هَوِيَ غَابَ

دعا ظنی (۱۱۶) اور ذرا اس سے بڑھی جو دیکھا فتمارو القدر (۳۶) جھٹلایا اور حسن نے کہا (اذا هوى را غاب ہوا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَى وَأَقْنَى أَعْطَى فَارَضَى (۱۹۶۵) ابْنُ حَسَنٍ قَسْرُورٌ قَالَ

اور ابن عباس نے کہا اخبى واقنى اعطى فارضى دیا اور ابھی کیا اسروق سے روایت ہے کہ

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ

میں نے حضرت عائشہ سے کہا اے اماں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو انہوں نے کہا جہات

قَعَتْ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ حَدِّكَ مَنْ فَقَدْ كَذَبَ مِنْ حَدِّكَ مَنْ

تو نے کہی اس سے میرے روٹھے ٹوٹے ہو گئے تین باتوں کو تم کیوں نہیں سمجھ سکتے جس نے بھی تم سے وہ بیان نہیں کیا تو اس نے جھوٹ کہا جس نے تم

أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ لَا تَدْرِيكَ إِلَّا ابْصَارُ

سے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا اس کے بعد انہوں نے پڑھا لا تدری کہ الا بصار الخ

وَهُوَ يَدْرِيكَ إِلَّا ابْصَارُ وَهُوَ اللطيف الخبير وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

(الانعام - ۱۰۴) نگاہ میں اس کا اہل نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا املکار بنا جو اور وہ باریک نظر کا جاننے والا خبر داتا ہے اور کسی شے کو نہیں نہیں کہ اشارت

أَوْ مِنْ ذُرِّيَةِ حَاجِبٍ مِنْ حَدِّكَ أَنْتَ يَعْلَمُ مَا فِي عَدْفٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَا تَدْرِي

کہاں کرے سوائے اسکے کہ وحی سے ہو یا پڑے کہ تمہیں اور شہری (۱۵۱) اور جس نے تم سے بیان کیا کہ اپنے دوستی کو چھپایا یا تو اس نے جھوٹ کہا اور انہوں نے پڑھا یا تھا الرسول الخ

نَفْسٌ مَادَا أَكْسِبُ عَدْفًا وَمَنْ حَدِّكَ أَنْتَ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا اور جس نے تم سے بیان کیا کہ اپنے دوستی کو چھپایا یا تو اس نے جھوٹ کہا اور انہوں نے پڑھا یا تھا الرسول الخ

بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي حَيْثُ الْوُتْرَيْنِ

دائشہ - ۶۷) بلے رسول سے پہنچا جسے جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتار گیا البتہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اس کی

صَدْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ (۱) بَابُ قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى حَيْثُ الْوُتْرَيْنِ

صورت میں دو مرتبہ دیکھا باب اللہ تعالیٰ کا قول فكان قوسين او ادنى حيث الوترين الخ

الْقَوْسِ (م- ۲۲۵۴) عَنْ زَيْدِ رَمْتَكُرٍ (۳۴) بَابُ قَوْلِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَى الْعِبَادِ

چھٹا مکان سے ہوتا ہے دیکھو حدیث ۲۲۵۳ ع باب اللہ تعالیٰ کا قول فأوحى إلى العباد الخ

مَا أَوْحَىٰ (م- ۲۲۵۵) عَنْ زَيْدِ رَمْتَكُرٍ (۳۴) بَابُ قَوْلِهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ

اپنے بندے کی طہت دی کی جو وحی کی دیکھو حدیث ۲۲۵۳ ع باب اللہ تعالیٰ کا قول لقد رأى من الخ

آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (م- ۲۲۵۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۳۴) بَابُ قَوْلِهِ

اپنے رب کی بڑی بڑی آیتوں کو دیکھا دیکھو حدیث ۲۲۵۶ ع باب اللہ تعالیٰ کا قول الخ

أَتْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (۱۹۶۶) ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ كَذَبَ

ابن عباس سے اللہ کے قول اللات والعزى کے بارہ میں روایت ہے کہ الخ

اللَّاتُ رَجُلَاتٌ تَبْتُحُّ سَوِيْقَ الْحَابِثَةِ (۱۹۶۶) ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ

نات ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لئے سوتا بنا کر کا تھا ابوبکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَلْفٍ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سے فرمایا جس نے تمہارا بیوی اور اپنی قسم میں یوں کہا کہ لاتت اور عزی کی قسم تو اسے چاہئے کہ لا اله الا الله کے

۱
۱۹۶۳ کے لفظ

۱
۱۹۶۳ کے لفظ
۱۹۶۳ کے لفظ

۱
اس کے لفظ
قرینا دی ہیں

۱
لفظ قرینا ۱۹۶۳

۱
کے ہی میں تال
راہی در قرینا اخضر

۱
قد سد الافاق
قرآن شریف میں

۱
را الرضن - ۲۶
نعمتے جنت کے

۱
ذکر میں و مکتبہ
علی رفوت خضر

۱
سبز قالینوں پر
مکتبہ لکھے ہوئے

۱
ہوں گے رفوت
جنت کی ایک

۱
نعمت ہے -
آد - یہ معراج میں

۱
آب گو رکھائی
گئی

۱
اس پھر کوس کے
باس شہید کردہ

۱
سناتا تھا اسی نام
(لات) سے

۱
تو سنا جانے لگا -
کہا گیا ہے شخص

۱
عمرو بن لعی تھا -
یا ربیع بن

۱
بارشہ -
۱۹۶۲

۱۹۶۳ کے لفظ

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَصِدَّقْ (۵) بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَاةُ الثَّالِثَةِ

اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے اڈ ہم تم پر احمیس تو وہ صدقہ سے ملے۔ بَابُ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَا قَوْلِ وَمِنَاةُ الثَّالِثَةِ

الْاَخْرَجِي (۵-۲۷۵۷) عَنْ عُرْوَةَ (مَتَكَ-۸۷۲) (۲۷) بَابُ قَوْلِهِ فَاسْجُدْ لِلّٰهِ وَاعْبُدْ

الاخرے (۲۷) دیکھو حدیث ۲۷۵۷-۸۷۲ بَابُ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَا قَوْلِ فَاسْجُدْ لِلّٰهِ وَاعْبُدْ (۲۷) سَوَابِغُ كِتَابِ

(۵-۲۷۵۸) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكَ-۵۹۲) (۵۹۲) (۲۷) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مَتَكَ-۵۹۲)

دیکھو حدیث ۲۷۵۸-۵۹۲ دیکھو حدیث ۲۷۵۹-۵۹۲

۵۷- اقتربت الساعة

۵۷- (سورہ) اقتربت الساعة والقرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے کے نام سے

قَالَ مُحَمَّدٌ مُّسْتَمِرٌّ ذَاهِبٌ مُّزْجَرٌ مُّتَنَاةٌ وَازْدَجْرًا فَاسْتَطِيرَ حَتَّى نَادَى اَصْلَاحَ

اور محمد نے کہا مستمر (۲) دور ہو جا نیوالا مزدجر (۳) غایت درجہ کا نرواز مزدجر (۴) تو اسے جنوں ہو گیا (دوسرے ۱۱۳) کشتی کے

السَّفِينَةِ لَمَّا كَانَ كَقَوْلِ يَقُولُ لِكُفْرٍ لَهٗ جَزَاءُ مِمَّنْ اللّٰهُ مُحْتَضِرٌ يَحْضُرُ النَّاسَ وَ

تھتے لہٰذا کان کفر (۱۱۳) اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ جس کا انکار کیا گیا تھا (مختصر ۲۷) پائی پر آتے تھے اور

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهَطِيعِينَ السَّلَاحُ اَلْحَبِيبِ السِّمَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَالَى فَعَاطَهَا

ابن عباس نے کہا مہطحین (۸) ریز مینے کو نسلان خیب سماء رکھتے ہیں) فتعالی ۲۷ اس پر ہاتھ چلایا

بِيدَهُ مَعْقَرَهَا اَلْمَحْتَضِرُ كَحَظَرٍ مِّنَ الشَّجَرِ فَحَقَّرَتْ اِذْ جَرَّ اَقْتَعَلَ مِنْ رَجْوَتِ كُفْرٍ

اور اسے مار دیا (محتظر ۳) مہی درخت کی چل ہوئی یا (اذ جرجر ۴) اقعل کے وزن پر) رجوت سے ہے کفر

فَعَلْنَا بِهِ وَيَهْمُ قَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صَنِعَ يَنْوَجٌ وَاَصْحَابِهِ مُسْتَقَرٌّ عَدَا بَ حَقِّ يُقَالُ

(۱۱۳) حضرت نوح اور ان کی قوم سے جو سلوک بہرے کیا اس لئے کیا کہ بدلتھا ان جو نوح اور انکے مہی کیا کہ کیا تھا مستقر ۳) ثابت شد عدا

الْاَشْوَابِ الْمَرْحُ وَالْتَجَابِرَا) بَابُ قَوْلِهِ وَالشَّقُّ الْقَمُورَانِ يَدُورَانِ اَيُّ لِيَعْرِضُوا (۵)

اشو (۲۵) اترانا اور خود پسندی ہے بَابُ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَا قَوْلِ دَانَشِقُ الْاِزْرَا) اور چاند بھٹ گیا اور گوہ کوئی نشان ہمیں توڑ پھیر

(۲۷۶۰) عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ (مَتَكَ-۱۶۲۸) (۱۶۲۸) (۲۷) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (مَتَكَ-۱۶۲۸) (ب)

دیکھو حدیث ۲۷۶۰-۱۶۲۸ دیکھو حدیث ۲۷۶۱-۱۶۲۸

قابل معانی ہو جاتا ہے۔ اور مجھ کھینے کا خیال جس نے کیا تو اسے علاج یہ بتایا کہ بجائے مال کو بیٹے میں تباہ کرنے کے اسے صدقہ سے ملے۔ مٹا کتر روایت کچھ اختلاف اور اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ قلت لغائفة (فراریت ان الصفا والمروة کے متعلق استفسار ہے جیسا کہ ۸۷۲ میں ہے) فقالت انما كان من اهل بمناة الطاغية التي بالمشكل لا يطوفون بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائره فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال سفيان مائة بالمشكل من قديروني رواية) نزلت في الانصار كانوا هم وعسان قبل ان يسلموا يملون لمناة مثله وقد رواه (كان رجال من الانصار ومن كان يهل لمناة وهنات صنم بين مكة والمدية قالوا يا نجى الله لنا لانظف بين الصفا والمروة قطيما لمناة نحو مائة) اختصار ہے۔ قال سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بالجمد حين معه المسلمون والمشركون والجن والانس دیکھو نوٹ ۱۶۲۵ ص ۲۵۰ مٹا یاں بھی کچھ لفظی اختلاف ہے۔ قال اول سورة انزلت فيها عبدة والتجم قال سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلتها لا وجلاديته اخذت من تراب نبي عليه فرأيت بعد ذلك قتل كافرا هو امية بن خلف (دیکھو نوٹ ۱۶۲۵ ص ۲۵۰ مٹا یاں لفظیوں میں۔ قال اشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما شهدوا واشهدوا دیکھو نوٹ ۱۶۲۵ ص ۲۵۰ مٹا یاں۔ قال اشق القمر مع النبي صلى الله عليه وسلم نصار فرقتين فقال لنا اشهدوا واشهدوا دیکھو نوٹ ۱۶۲۵ ص ۲۵۰ مٹا یاں۔

ملیہ اصل میں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور پرانی باتیں ابھی تک ان کے دل سے نہ نکلی تھیں۔ لات اور عروے کی قسم کھانا تو شرک تھا تو جس سے انما شرک کا نفل بھی سرزد ہوا اس کے لئے علاج یہ بتایا کہ وہ اقرار توحید کرے۔ گویا اقرار توحید سے وہ شرک کا شائبہ دور ہو گیا۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر بنانے کے لئے زور لگاتے ہیں ان کے لئے مقام غور ہے کہ مسلمان سے شرک کا نفل بھی سرزد ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کے اقرار سے وہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عربی لفظ میں
قال اشق العبر
فی زمان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
سال ۱۲۹۹ کے
لفظ میں
سال قمری
قال اشق القسطنطینی
فرقتین
سال عینی میں ہے
کہ خطی نے قادی
سے روایت کی
ہے ابقی اللہ
عذوجل سفینة
بیاقرین من ارض
الجزیرة عبدة
الایة حتی نظرت
الیها وادخلتھا
الامامة وکمن
سفینة کانت
بعدها مضارت
وما داء
یہ قال کات
النبی صلعم یقرأ
فهل من مدکر
آخری لفظ مثل
قراءة العامة بیان
پھر دیتے ہیں
ملا لفظ ۲۴۶
کے ہی میں
بک ابتدا میں کہی
زیادہ کیا ہے
عن ابی اسحق
انه سمع رجلا
سال الاسود مثل

(م- ۲۴۶۲) عن ابن عباس (متکرر ۱۶۱۲) (م- ۲۴۶۳) عن انس بن مالك (متکرر ۱۶۲۹) (م- ۲۴۶۴) عن انس بن مالك (متکرر ۱۶۲۹) (م- ۲۴۶۵) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۶۶) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۶۷) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۶۸) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۶۹) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۰) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۱) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۲) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۳) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۴) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۵) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۶) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۷) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۸) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۷۹) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰) (م- ۲۴۸۰) عن عبد الله (متکرر ۱۵۱۰)

بہرے اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے
بہرے اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے
بہرے اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے

من مدکر او مدکر فقال سمعت عبد الله يقولها فهل من مدکر قال وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولها فهل من مدکر الا انہ لم یسم ۲۴۶۸ اور م ۲۴۶۹ کے لفظ ایک ہیں عن النبی صلعم قرا فهل من مدکر یہاں یوں ہے۔ قال قرات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل من مدکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل من مدکر۔ لفظ میں یوم ہر کے لفظ ہی موجود ہیں۔ ہونے والے اور کسی جگہ مرثب (پڑنے پھرنے) سے ہی اللہ کے دیکھو نوٹ ۲۴ صفحہ ۶۵۹

بِسْمَةِ دَرَاتِي لِحَارِيَةِ الْعَبِّ بِلِ السَّاعَةِ مُوَعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْحَى وَأَمْرٌ

اور میں لڑکی بھی کہیں رہی تھی بِلِ السَّاعَةِ موعدهم والسَّاعَةُ ادھی داهر

(۲۴۷۲-۲۴۷۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مکتور-۱۳۴۳)

دیکھو حدیث ۱۳۴۳

۵۵- سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

۵۵ - سورة الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہے انتہا رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُحْسِبَانِ كَحُسْبَانِ الرَّسْحِيِّ وَقَالَ غَدْرَةٌ وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ يَرِيدُ لِسَانَ

اور مجاہد نے کہا جسبان (۱۵) جی کے گھر سے کی طرح اور وہوں نے کہا واقیموا الوزن (۱۶) مطلب ترازو کی زبان

الْبَيْزَانِ وَالْعَصْفُ بَقْلٌ الزَّرْجُ إِذَا أَقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ

جے والعصف (۱۲) جی کہتے ہیں جب اس میں سے کچھ کاٹا جائے اس سے پہلے کہ وہ تک پہنچے

الْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ وَرَقَهُ وَالْحَبُّ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ

یہ عصف ہے اور ریحان (۱۲) اس کے پتے ہیں اور حب (۱۳) وہ ہے جو اس سے کھا یا جاتا ہے اور ریحان زبان عرب میں رزق کہتے ہیں

الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يَرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ التَّضْيِيمُ

اور بعض نے کہا والعصف (۱۲) سے مراد وہ ہے جو کھاتے ہیں اور ریحان وہ کچھ ہے (۱۴)

الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحَنْظَلَةِ وَقَالَ لُفْطَاكُ الْعَصْفُ

نہیں کھاتے اور وہوں نے کہا کہ عصف گیہوں کے پتے ہیں اور لفظ (۱۵) عصف بھوسا

الْبَيْزَانِ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبِتُ تَسْمِيَةً لِلْبَطْحِيِّ هَبُورًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ

جے اور ابو مالک نے کہا عصف گیہوں کا وہ سبز پھل آگتا ہے اسے کسان بھور کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا

الْعَصْفُ وَرَقُ الْحَنْظَلَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهْبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ

عصف گیہوں کے پتے ہیں اور ریحان رزق اور مارج (۱۶) آگ کی وہ زرد یا

الَّذِي يُعَلَوُ النَّارَ إِذَا وَقَدَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ رَبُّ الْمَشْرِقِ رَبُّ الشَّمْسِ

پہلے ہے جو آگ جلائے کے وقت اوپر چلتی ہے اور بعض نے مجاہد سے روایت کی ہے رب المشرقین (۱۷) سورج کے لئے

فِي لَيْسَاءٍ مَشْرُوقٍ وَمَشْرُوقٍ فِي الضَّيْفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِ فِي الْمَغْرِبِ وَالشَّمْسُ وَالضَّيْفُ

جائزے میں ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مشرق گری میں ہوتا ہے و رب المغربین اس کا مغرب جائزے اور گری میں

لَا يَبْعَثَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ الْمُنْشَاتُ مَا رَفَعَتْ قَلْعَةً مِنَ الشُّغْنِ فَاَمَّا مَا لَمْ يَرَفَعْ قَلْعَةً

لا یبعثان (۱۸) مل نہیں جاتے المنشات (۱۹) وہ کشتیاں جن کا بادبان چڑھا یا گیا ہو اور وہ جن کا بادبان نہ چڑھا یا گیا ہو

فَلَيْسَ بِمُنْشَاةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَالْفَخَّارِ كَمَا يُصْنَعُ الْفَخَّارُ الشَّوْاطِ لَهْبٌ مِنْ نَارٍ

تو وہ منشات نہیں کہتا تھا اور مجاہد نے کہا الفخار (۲۰) جس طرح فخر کیا جاتا ہے شواط (۲۱) آگ کا شعلہ

وَمِنْهَا الضَّغْفَرُ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ يُعَذِّبُونَ بِهِ خَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ

وہاں (۲۲) میں سے لگتا ہے ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اس کے ساتھ انکو عذاب بھیجا خات مقام ربہ (۲۳) تباہ کن ہے

بِالْمَعْصِيَةِ فَيَدْرَأُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُتْرَكُهَا مَدَامَتَانِ سَوْدَاوَانٍ مِنَ الرِّبِيِّ

ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے مدامتان (۲۴) شادابی کی وجہ سے سیاہ

۱۳۴۳

۱۳۴۳ کے لفظ ہیں۔ دیکھو نوٹ ۲۶۵۹

صَلَّاءٍ طَيِّبٍ خُلِطَ بِرَمِيلٍ فَصَلَّصَلْ كَمَا يُصَلِّصَلْ لِنَحَارٍ وَيُقَالُ مَنْزِلٌ

صلصال (۱۲) کا راجرہ سے ملا گیا جو تودہ آواز دیتا ہے جس طرح ٹھیکری آواز دیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بربود اور کھجور

یُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلَّ صَلَّ صَلَّ كَمَا يُقَالُ صَلَّ صَلَّ صَلَّ كَمَا يُقَالُ صَلَّ صَلَّ صَلَّ

ہے ان کی راہ ہے کہ یہ صل راہم سے ہے رکشت ہو گیا اور صلصال کہا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے صل الیاب عند الاغلاق اور صل

مِثْلُ كِبْكِبَةٍ يُقَالُ كِبْكِبَةٌ فَالْكِهَةُ وَالْمِثْلُ وَالْمِثْلُ وَالْمِثْلُ وَالْمِثْلُ وَالْمِثْلُ وَالْمِثْلُ

جیسے کبکبہ جیسے کببہ فاکہہ دخل ودمان اور بعض نے کہا کہ انار اور کھجور میں میل نہیں ہیں

بِالْقَاكِهَةِ وَالْمَا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعْدُّهَا فَالْكِهَةُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ حَافِظُوا أَعْمَالَ الصَّلَاةِ

اور عرب دونوں کو چلن شمار کرتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول حافظوا عظیم الصلوات

وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى فَاْمَرُهُمْ بِالْحَافِظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَعَادَ الصَّوْتِ شَرِيحًا

والصلوة الوسطی والبقیہ ۳۳۸ گھوم نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا اور پھر صحت دوبارہ ذکر کیا دوبارہ حفاظت

لَهَا كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلَهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ

کی غرض سے اسی طرح نخل اور دھان کا دوبارہ ذکر کیا اور اسی طرح ہے المیزان اللہ جس نے من فی السموات ومن

فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَقَدْ ذُكِّرُوا بِهِ عَنَى

فی الارض (۱۸) اور اس کے بعد فرمایا وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب حالانکہ ان کا یہ قول

أَوَّلُ قَوْلِهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ قَالَ غَيْرَهُ أَفَنُتَانَ أَعْصَانِ وَجَنَى

من فی السموات ومن فی الارض میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا افنان (۲۸) شافعی دجنی

الْجَنَّتَيْنِ بَأْتِيْتَهُنَّ قَرِيبًا وَقَالَ الْحَسَنُ بَأْتِي الْآلَاءَ نَعِيمًا وَقَالَ قَتَادَةُ رَتَلْنَا بِهِنَّ

الجنتین (۵۵) ردان جو چننا یا چننا قریب ہوگا اور من نے کہا قباہی الآلاء (۵۵) یعنی اس کی نعمتیں اور قتادہ نے کہا رتکنا میں مراد

الْحَنِّ وَالْأَسْرِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يُعْفَرُ ذَنْبًا وَيَكْشَفُ كَرْبًا

جن اور اس میں اور ابو الدرداء نے کہا کل یوم ہونی شان ۱۶۰ میں ہوا کہ بخفا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے

وَيُرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ الْآخَرِينَ وَقَالَ بَنُ عَبَّاسٍ بَرَزَتْ حَاجِرَاتُ الْأَنَامِ الْخَنَزِيرَاتُ الْخَنَزِيرَاتُ

اور ایک قوم کو عزت دیتا ہے اور دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اور ابن عباس نے کہا بروز خنزیرات ۱۲ روک انام (۱۲) مخلوق تضاحتان ۴۷

فَيَأْتِيَانِ ذُو الْجَلَالِ ذُو الْعِظْمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَا رَجَّحَ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ يُقَالُ

جوش سے بیٹے طے ذوالجلال (۲۸) بزرگی والا اور اردوں نے کہا ما رجع خالص من النار

مَرَجَ الْأَمِيرَ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ بَعْدَ وَابْتَضَّهِمْ عَلَى بَعْضِ مَرَجٍ أَمْرًا ثَابِتًا مَرَجٌ

مرج الامیر رعیتہ جب انہیں چھوڑے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کریں مرج امر الناس روگ کی معاملہ مشتبہ ہو گیا، مرج مرج (۵۸)

مَلْتَسِ مَرَجٌ أَمْرًا مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ مَرَجٌ

مشتبہ مرج البحران (۱۹) ردو دریا مل گئے مرجت اللہ اہت سے ہے تو لے جا تو کو چھوڑ دینا سفیر کھرم ہمارا حساب میں گئے

لَا يَشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَا تَفُوتُكَ لَكَ وَمَا

اللہ کو کوئی کام دوسرے کام سے روک نہیں سکتا اور یہ دعا ہے کلام عرب میں مشتبہ ہے کہا جاتا ہے کہ لا تفوتن لک من شئ

بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ

۱۱۶۸

درستی صحیح بخاری

مِنْ فَضْةٍ اِنَّتِيهْمَا وَمَا فِيهَا وَجَلَّتْ اَنْ مِنْ ذَهَبٍ اِنَّتِيهْمَا وَمَا فِيهَا وَمَا بَيْنَ

ان کے برتن اور جو عمان میں ہے چاندی کے ہیں اور دو باغ راہ میں ان کے برتن اور جو عمان میں ہے سونے کے ہیں اور لوگوں اور ان

الْقَوْمِ وَيَبْنَونَ اَنْ يَنْظُرُوا اِلَى رَبِّهِمْ اِلَّا رَدَّ اَعْيُنَ الْكِبْرِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ فِى جَنَّةٍ عَدِنَ

کے اپنے رب کی طرف دیکھنے کے درمیان جنت عدن میں جلال کی چادر ہوگی جو اس کے منہ پر ہوگی

(۲۱) يَا هٰٓؤُلَاءِ مَقْصُورَاتٌ فِى الْبَحْرِ مُمِجَاتٌ وَّقَالَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِنْ كُنَّا حُرًّا لَّاصَدَقَّا

باب اللہ تعالیٰ کا قول خدا (۲۱) اور جو جہنوں میں رکھی ہوئی ہیں اور ان عباس کے کہ جو سیاہ اکھڑے والے ہیں اور مجاہد

مَجَاهِدٌ مَّقْصُورَاتٌ فَجَبُوسَاتٌ قَصِرَ طَرْفُهُنَّ وَاَنْفُسُهُنَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ قاصِوَاتٌ

نے کہا مقصورات روکی گئی ہیں ان کی نگاہ اور ان کی جان اپنے شوہروں تک محدود ہوگی (خاصوات ۵۷)

اَلَّذِيْنَ يَخْتَفِيْنَ عَنَّا اَوْ اَوْجِهِنَّ (۳-۴) عَنْ عِبْدِ اللّٰهِ بِنِعْمَتِهِ (متکرر- ۱۲۷۰)

اپنے شوہروں کے سوا کسی کی خواہش نہیں کریں گی (متکرر ۱۲۷۰)

۵۴- الْوَاقِعَةُ

(سورہ) الواقعه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہے انتہا رحم والے بار بار رحیم کہنے کے نام سے

وَقَالَ مَجَاهِدٌ رَجَعَتْ رُزْلَتُ بَسَّتْ فُتَّتْ لَمَّتْ كَمَا لَمَّتْ السَّوْبِقُ الْمَخْضُودُ

اور مجاہد نے کہا رجعت (۳) ہلانی جائے بشت (۴) ریزہ کے جانگے اور میں نے جانگے جس طرح سوا کہ میں پاجا تا ہی مخصود (۴)

الْمُؤَفَّرُ حَمَلًا وَيُقَالُ اَيْضًا لَا شَوْكَ لَهُ مِنْ صُود الْمَوْزِ وَالْعَرَبُ الْحَجَبَاتُ اِلَى

بوجہ سے لڑے ہوئے اور یہ بھی کہا جانتے کہ جس میں کا شان نہ ہو مخصود (۲۹) کیلے (عرب ۲۹) اپنے فائدوں کی

اَزْوَاجِهِنَّ ثَلَاثَةٌ اُمَّةٌ يَخْتَمُوْنَ دُخَانَ اَسْوَدٍ يُصْرُونَ يَبْشُرُونَ الْهَيْمَ الْاَبْلُ

پاریاں (۳) گزہ عجم (۲۳) کا لادھواں یسروں (۳۹) ہمیشہ کرتے تھے الہیم (۵۵) سیاہ سے

الظَّمَاةُ الْمَغْرُومُونَ لَمْ يَلْمُومُونَ رَوْحَ جَنَّةٍ وَّرِجَاءٌ وَّرِيحَانٌ الْبَرِيقُ وَنَشَأَ كَمْ فِي

اونٹ (مغروم ۶۶) دھانے ساتھ غذا کم گیا (دوم ۸۹) جنت اور آرام (ریحان ۸۹) بریق و نشا کہ (۶۱) پہلی

اَيُّ خَلْقٍ تَشَاءُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَقْلَهُونَ تَجْوُونَ عَرًّا مَثْقَلَةٌ وَاَحَدُهَا عَرَبٌ وَمَثَلٌ

پیدا نہیں میں ہم جاہیں اور اردوں نے کہا تکلہون (۶۵) توج کرتے ہو عربا (۳) ایک مکر کے ساتھ اس کا منہ عربا سے تھے

صَبُورٌ وَصَبْرٌ لِيَمِيَهَا اَهْلُ مَكَّةَ الْعَرَبِيَّةَ وَاَهْلُ لُبْدِ بِنَةِ الْغَنِيَّةِ وَاَهْلُ الْعَرَا وَالشَّكِلَةَ

صبور اور صبر کہ والے انہیں عربیہ سے سوز کرتے ہیں اور بطنے والے غنیہ اور عراق والے شکیلہ

وَقَالَ فِى خَاوِضَةِ لَقَوْمٍ اِلَى النَّارِ وَاَفْعَتُ اِلَى الْجَنَّةِ مَوْضُوْنَةٌ فَمَنْسُوجَةٌ وَّمِنْهُ

اور خاوضہ (۳) کے بارے میں کہا کہ ایک قوم کا گ کی طرف تھے لجا نبولی اور رافعتہ (۳) جنت کی طرف الجانیوالی موضو نہا ہائے تھے اور تھے

وَضِيْنٌ النَّاقِيَةُ وَالْكُوْبُ لَا اِذَانَ لَهُ وَّلَا عُرُوَّةٌ وَّلَا اِيَّارِيقٌ ذَوَاتُ الْاِذَانَ

وضین الناقیہ (۱) کو ب (۱) جس کی نہ توئی تراوردہ کٹا اور ایاریق (۱) کوزے (۱) ٹونٹی اور کٹے والے

وَالْعَرَى مَسْكُوبٌ جَارٌ وَّفُرْشٌ مَّرْفُوعَةٌ بَعْضُهَا فَرِيْقٌ بَعْضٌ مَّا فَرِيْقٌ مَتَمِّعِيْنَ

مسکوب (۳) ہٹا ہوا اور فرش مرفوعہ (۳) بعض جن کے اوپر ہوں گے متربین (۳) فاندہ (۳) اٹھانے والے

مَا تَشْتَمُونَ هِيَ التُّفَّافَةُ فِى اَرْحَامِ التِّسَاءِ لِلْمَقُوْبِيْنَ لِلْمَسَافِرِيْنَ وَالنَّعْنَ الْقَفْرِ

ماتشتون (۵) نظیفہ جو قوم عورتوں کے جمع میں ڈالتے ہو للمقوبین (۳) مسافروں کے لئے اور فی بے آبگیاہ (۱) بان

یاریاں نقیابوں میں
ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان فی الحجۃ
خیمۃ من لولۃ
مجوفۃ عرضها
ستون میلانی
کی زادیۃ متھا
اہل حایرون
الآخرین یطون
علیہم التوعون
راس سے بوجہ کا
حصہ بھی گذر چکا
ہے میں نہیں
رجستان مہ نصف
انہی نماز و نما
نیہما رجستان
من کل زانیتھا
دما ہما ربا میں
القوم وہین ان
بشرد الی الہیم
اکار داء الکبر
علی و صہ و صحنہ
علی وہ رکھوٹ
زیرا موصوہ ۴۶
گنہارت کا اس
و نیکی نماز اور
وہاں کے ساری کالی
کے پاں پر یقین تھی
چاہیے اور اس سے
بھی ظاہر ہے کہ اس
لفظ میں ہوں مرد
موس خور میں دون
شامل ہیں +

۱۱۶۹

بِمَوَاقِعِ الْجُودِ بِمُحْكِمِ الْقُرْآنِ وَيُقَالُ بِسُقُوطِ الْجُودِ إِذَا سَقَطَ وَهِيَ مَوَاقِعُ

بمواقِع الجود (۷۸) قرآن کی محکم آیتوں کی اور کہا جاتا ہے تاروں کے ڈوبنے کی جگہ جب وہ ڈوب جائیں اور مواقِع اور

مَوَاقِعٌ وَأَحَدٌ مَدْرَهُنَّ مَكْدُبُونَ وَمِثْلُ كُؤْتَدَهُنَّ فَيَدُّهُنَّ فَسَلَامٌ لَكَ أَوْ مَسْمُومٌ

موقع ایک ہی معنی میں مدھنوں (۸۱) جھٹلاتے ہو جیسے نوٹدھن میں ہنوں (۸۹) سلام لک (۱۹) یعنی تیرے لئے سلام

لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَلْقَيْتُ الرَّانَ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُولُ أَنْتَ مَصْدُوقٌ

ہے کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے ان کے گرد یا گیا اور اس کے معنی قائم ہیں جیسے تم ایک شخص کے جواب میں

مَسَافِرٌ عَنْ قَبِيلٍ إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ رَأَيْتُ مَسَافِرًا عَنْ قَبِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ

کہا انت مصدق مسافر عن قبیل جب کہ میں تیری دیر کے بعد سفر کرنے والا ہوں اور میں یہ (نفس سلام) اس کہنے والے کے لیے

لَهُ كَقَوْلِكَ فَسَقِيًّا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ الدُّعَاءِ تَوَرُّونَ

ہوتا ہے جیسے تیرے ہو فسقیا (سختی سے) من الرجال اگر سلام مرفوع پڑھے تو وہ دعا کے لئے ہے (تورون) (۸۱)

تَسْتَجِزُونَ أَوْ رَيْتُ أَوْ قَدْ لَعَوًا بِاطْلَاتٍ تَأْتِيهَا كَذِبًا (بَابُ قَوْلِهِ وَظِلٌّ

نکالتے ہو اور بیت میں نے راگ، طائی لغوار (۲۵) باطل تا تہما (۲۵) جھوٹ باب اللہ تعالیٰ کا قول وظل

مَمْدُودٌ (م-۲۷۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرَأَ (ممتکر-۲۷۷۷) (۱۲۷)

مدد و در (۳) دیکھو حدیث ۱۲۷۷

۵۷- الْحَدِيدُ

۵۷- (سورہ) الحديد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ مُحَمَّدٌ جَوَادٌ مَسْتَخْفِيٌّ مَعْبُودٌ فِيهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الصَّلَاةِ

مجاہد نے کہا جملہ مستخفی (۷۸) اس میں نہیں آباد کیا من الظلمات الی النور (۷۸) اگر ہی سے ہدایت کی طرف

إِلَى الْهُدَى وَمَنْ أَعْرَضَ لِلنَّاسِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ فَهُوَ كَأَمْرِ أَوْلَى بِكَ لِأَنَّ أَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِيَعْلَمَ

دعا منہ للناس (۲۵) ڈھال اور ہتھیار مولا کہ (۱۵) انہا کے لئے کتاب ہے لئلا یعلم اہل الکتاب (۲۵) تاکہ ان کتاب

أَهْلَ الْكِتَابِ يُقَالُ لَطَّاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَنْظَرُونَا

جہاں میں کہا جاتا ہے الظاهر (۳) ہر شے پر علم کی رو سے الباطن (۳) ہر شے پر علم کی رو سے (انظر انوار) (۱۳)

۵۸- الْمُجَادَلَةُ

۵۸- (سورہ) المجادلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجَادُونَ وَيُشَاكُونَ اللَّهُ كَيْتُوا أَحْزُوا مِنَ الْخِزْيِ اسْتَوْذَعْلَبٌ

اور مجاہد نے کہا مجادون (۵) اٹکی مخالفت کرتے ہیں کیتوا (۵) اخڑوا (۵) سوئے گئے، خزی سے ہے (استوذعلب) (۹) غاب ہوا

۵۹- الْحَشْرِ

۵۹- (سورہ) الحشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ يَبْدَأُ تَعْمُدُ

اللہ بے ابتدا نمودار ہے

آخری فقرہ جھوٹا ہے
ہے لفظیوں میں
یلمع وہ انبیسے
جیلے اللہ علیہ
رسلم قال ان
فی الحجۃ شجرۃ
یسیر الراکب
ظاہر امامتہ تعالم
لا یقطعہا
واقروا ان
سنتہم وظل
مسدد و

أَجْلَاءُ الْأَخْرَاجِ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضٍ ۱۹۷۷ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ

جلاء (۱۲) ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نکال دینا

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ لِتُوبَةِ هِيَ الْقَاضِيَةُ مَا زِلْتَ تُنْزِلُ وَهُمْ

میں نے ابن عباس سے کہا سورۃ التوبہ کے متعلق آپ کی کہے ہیں تو کہا التوبہ تو رسوا کرنا ہے اس میں برابر تارا باہر ان میں

وَهُمْ حَتَّى ظَنُّوْا أَنَّهُمْ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا ذَكَرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةٌ

رکھ لیے ہیں اور ان میں کچھ ایسے ہیں یہاں تک کہ خیال کرنے لگے کہ اس پونے ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا مگر اس میں اس کے ذکر ہے

الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَيْتِ النَّصِيبِ

میں نے کہا سورۃ الانفال تو فرمایا کہ بدر کے متعلق اتنی ہے کہ اس نے انیس سو حر فرمایا کہ بنو نصیب کے بارہ میں اتنی

(۵-۲۷۷۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (مُتَكَرِرٌ ۵۷۵۷) (۱۱) يَا بُ أَيُّ قَوْلِهِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ

دیکھو حدیث ۵۷۵۷ ۱۱ باب اللہ تعالیٰ کا قول ما قطعتم من لینۃ

لَيْنَةٍ تَخْلَقُ مَالَهُمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بَرِّيَّةً (۵-۲۷۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِرٌ ۱۱۳۰)

(۵) یعنی وہ کھجور کا درخت جو چھ اور بربری نہ ہو ۱۱۳۰ دیکھو حدیث ۱۱۳۰

(۲) يَا بُ قَوْلِهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (۵-۲۷۷۷) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (مُتَكَرِرٌ ۱۱۳۹)

باب اللہ تعالیٰ کا قول ما افاء اللہ علی رسولہ (۲) دیکھو حدیث ۱۱۳۹

(۳) يَا بُ قَوْلِهِ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه (۱۹۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ

باب اللہ تعالیٰ کا قول وما اتاكم الرسول فخذوه (۱۹۷۸) عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ نے

الْوِشْمَاتِ وَالْمُؤَشَّمَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحَسَنِ الْمُغْدِرَاتِ خَلَقَ

لعنت کی ہے گدنا گدنیالی اور گدنیالی پر اور خوبصورتی کے لئے بال نکالنے والی والی انہوں کو سون سے) جد کرنے والی بر اللہ کی خلقت کو

اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَبَغْدِي

بڑنے والی پر یہ بات بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہتے تھے وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے

أَنَّكَ لَعْنَتْ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ آپ نے یہی ایسی عورت پر لعنت کی ہے انہوں نے کہا میرے لئے کیا روک ہے کہ اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ

نے لعنت کی اور جو کتاب اللہ میں ہے اس نے کہا جو دو لوحوں کے درمیان ہے اسے تو میں نے پڑھا ہے اس میں تو میں نے

فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَبْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتُ وَمَا أَتَاكُمْ

وہ نہیں پایا جو آپ کہتے ہیں ابن مسعود نے کہا اگر تم نے پڑھا ہوتا تو وہ پائیں گی تم نے نہیں پڑھا

الرَّسُولُ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا أَقَالَتْ بلى قَالَ فَاتَّهَ قَدْ نَهَى

ہے اُسے لے لو اور جس سے تمہیں روکتا ہے رکھا جاوے اس نے کہا ہاں پڑھا ہے فرمایا تو آپ نے اس سے روکا ہے

عَنْهُ قَالَتْ فَأَتَى أَرْضِي أَهْلَكَ يَقَعُونَ قَالَ فَأَذْهَبِي فَأَنْظِرِي فَذَهَبَتْ

عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تیری بیوی بھی یہی کرتی ہے فرمایا جا اور دیکھو وہ گئی

فَنظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جِئْتِمْ

اور دیکھا نہ وہ بات نہ دیکھی جو چاہتی تھی عبد اللہ نے کہا اگر وہ ایسی ہوتی ہاں سے ساتھ نہ رہ سکتی تھی

علاقہ قرینا وہی تھا
میں سورہ الحشر
کو سورۃ النصر کہلا
کے شکر کو ماننے کے
یہاں آیت قرآنی
ما قطعتم من لینۃ
کا ذکر کیا ہے ان
رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم عرض
نخل بنی النضیر
قطع وہ البریۃ
ما قطعتم من لینۃ
اور ذکر ما قاتلہ
اللہ ولینجزی
الفاائقین -
دیکھو نوٹ ۵۱۱ +
دیکھو نوٹ ۱۱
صفحہ ۶۷۵
یہ قرآن شریف کو
پنڈرا حرام دونوں
کے درمیان روکا کہ
پڑھا جاتا ہے جسے
رہل کہتے ہیں
علاوہ حدیث آگے
کتاب اللباس میں
آئی ہے اور امام
اور حدیث کا ذکر
یہ وہاں میں گزرا کہ
ہے وہ شہ ہے
کو سنی وغیر کے

زیر سے چڑے کو ہٹا کر کہاں تک کروں یہ نکلے سر مرہ یا کوئی اور چیز پھری جانے متنصۃ ہے کہ بالوں کو اٹھانے والی اور متعلیٰ انہوں کو سون سے جدا کرنے والی
دیکھو نوٹ ۷ ص ۷۵ مزید بحث کتاب اللباس میں آئے گی +

مک و اصل روہ
عورت جو بایوں کو
زیادہ کرنے کے
نے ان میں اور بال
لکائی ہے کا ذکر
کر کے ام یعقوب
والے داتوں کو
اشارہ کی ہے۔ قال
لن رسول الله صلی
الله علیه وسلم
اواصلة فقال
سامعته من امرأة
یقال لها ام یعقوب
عن عبد الله مثل
حدیث منصوره
۱۱۷۳
صدیق ہے اس کا
آزوی صراحتاً
لفظی سے دہرایا
ہے۔ قال عمر
اوصی الخلیفة
بالمهاجرین ان لا یزوجوا
ان یعرف لهم
حقیقہ و اوصی
الخلیفة بالانصار
الذین یتوؤن الذلار
والایمان من قبل
ان یماجر النبی
صلی الله علیه وسلم
ان یقبل من
عسائهم و یخونو

۲۴۸-۸۷ عن عبد الله بن عمر (متکرم-۱۹۶۸) باب قولہ والذین یتوؤن الذلار
دیکھو حدیث ۱۹۶۸

۲۴۹-۸۷ عن عمرو بن ميمون (متکرم-۳۹) باب قولہ یوؤنوا
دیکھو حدیث ۳۹

۲۴۹-۸۷ عن عمرو بن ميمون (متکرم-۳۹) باب قولہ یوؤنوا
دیکھو حدیث ۳۹

عَلَىٰ الْفَلَاحِ عَجَلٌ قَالَ الْحُسَيْنُ جَبْتُهُ حَسَدًا (م-۲۳۸۰) عن ابي هريرة (متکرم-۱۶۹۰)

عجل الفلاح رکا میانی کے لئے جلدی آؤ اور جن نے کہا حسد (۹۷) حد
دیکھو حدیث ۱۶۹۰

۴۰- الْمُنْتَجِنَةُ (سورہ الممتحنہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللہ کے نام سے

وَقَالَ فَجَاهِدْ لَّا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَّا تَعْبُدُنَا يَا يَهُودَ يَا نَصَارَىٰ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ
اور جہاد کرنے کا
لا تجعلنا فتنة (ہ) ہم کو ان کے ہاتھوں سے عذاب نہ دو یہاں تک کہ وہ کہیں کہ اگر حق ہو تو

عَلَىٰ الْحَقِّ مَا آصَابَهُمْ هَذَا بَعْضُهُمْ لَكَوٰفِرٌ مَّرْءٍ اصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
توان کو پڑھتے ہیں
بعض انکو افروا

بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كَنُوٰفِرٍ مِّنْكُمْ لَوْ اَنَّكُمْ نَرَا لَاسْتَحْتَدُوا عِدْوِي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءُ
کہیں یہ یوں کہ جو کسی حالت میں تمہیں چھوڑیں
باب اللہ تعالیٰ کا قول لا تتخذوا الیوم منکم اولیاء و دشمنوں کو

۲۴۸-۸۱ عن عبد الله بن عمر (متکرم-۳۷) باب قولہ اذ اجاءکم
دیکھو حدیث ۳۷

الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ ر ۹۶۸ عن عائشة رض زوج النبی صلی اللّٰهُ علیہ وسلم
عن عورین تمکے پاس ہجرت کرتی ہوئی آئیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَسْتَحْنُ مِنْ هَاجِرَاتِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
ان مومن عورتوں کا امتحان جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں اس آیت سے لیتے

وَهٰذِهِ الْاٰیةُ یَقُوْلُ اللّٰهُ يَا یٰمُھَا النَّبِیُّ اذِ اجَاءتِ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعُنَّکَ لِیْ قَوْلِہ
یعنی اللہ کے قول یا یا مہا النبی الخ لے ہی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کریں
اللہ کے قول

عن مسیئہم مسلط مکرر روایت کی قدر اختلاف الفاظ سے آئی ہے:- قال افرج رجل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال يا رسول الله اصابتني الجهاد فانسل الي نساءه فلم يجد عندهن شيئاً فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا لا رجل يضيئت هذا اللبلة برحمة الله فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله فذهب الي اهله فقال لا امراته ضيقت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تخزيه شئنا اس كل شيء روک نركم قالت والله ما عندى الا قوت الصبية قال فاذا اراد الصبية العشاء فزمهمهم وتعالى فاطفي السواج ونطوي الحوننا خود بيوكة رس كى اللبلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لقد حمب الله عز وجل اوضحك من فلان وفلانة فانزل الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ۱۱۷۴ انكرو حفيظ اختلاف لفظي سے دہرایا ہے۔ ما طیک عذر میں سے صرف ایک فقرہ چھوڑ دیا ہے۔ ولا رضى بالكفر بعد الاسلام اور حضرت لکھ کے بعد پڑھایا ہے۔ قال عمرو وزلت فيه يا مہا الذین الاموالا تتخذوا عداوی وعدوکم قال لا ادري لا یتنی الحدیث اول قول عمرو۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت لائے ہیں:- قیل لسفیان فی ہذا افزت لا تتخذوا عداوی قال سفیان ہذا فی حدیث الناس حفيظته من عمرو وما تركت منه حرفا وما

عَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبُ هَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ نیک عرود نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں میں سے جو ان شرطوں کا اقرار کرتی تو

لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتِكِ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا هَسْتِ بِدَاةٍ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اسے فرماتے تھے کہ میں نے تیری بیعت کی اور اللہ کی قسم آنحضرت کے ہاتھ نے بھی کسی عورت

يَدِ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يَبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتِكِ عَلَى ذَلِكَ (۱۳) بَابُ

کے ہاتھ کو بیعت کرتے وقت نہیں چھووا ان کی بیعت صرف اپنے اس قول سے لیتے کہ میں نے اس شرط پر تماری بیعت کی

قَوْلِهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ (۱۹۶۹) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ

اللہ تعالیٰ کا قول اگرچہ ان (۱۳) جیسے مومن عورتوں سے پاس آئیں تیری بیعت کریں امام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يَشْرُكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَايَنَا عَنِ التَّبَلُّغِ

علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے یہ آیت ہم پر پڑھی ان کو لایا شکر کن باللہ شئیئا اور ہم کو نہ کرنے سے منع فرمایا

فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدْتَنِي فَلَانَهُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ

تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس نے عرض کیا کہ ایک عورت نے (نہ کرنے میں) میری مدد کی تھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ اتاروں تو

لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَا نَطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا (۱۹۷۰) عَنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں فرمایا تو وہ چلی گئی اور پھوٹ کر آئی اور آپ کی بیعت کی

ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه

ابن عباس سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے قول ولا يعصينك في معروف (۱۳) کے بارہ میں کہا یہ ایک شرط تھی کہ اللہ نے عورتوں

اللَّهُ لِلنِّسَاءِ (۲۴۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (متكرر - ۱۷) (۲۴۸۳)

کے لئے لگانے کا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۵۶۳)

دیکھو حدیث ۵۷۲۳

۶۱ - سُورَةُ الصِّفِّ

۶۱ - سورہ الصفت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہاء والے

نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ اس بات سے اس کے اسلام میں کچھ فرق آیا۔ دوسرے یہ کہ یہ لوگ کیا مرد اور کیا عورتیں اپنی بات کے کہنے کے تھے جس بیعت پر عمل نہ

ہو سکتا تھا اس کا اقرار ہی نہیں کیا اور جب کیا تو اس پر عمل کر کے دکھایا یا اسے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے بھی یہ شرط لگانا کہ وہ امر معروف میں حکم کو

مانیں یا اس کے اختلاف الفاظ سے وایت کو دوہرایا ہے۔ قال لکن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتبایعونی علی ان لا تشوکوا باللہ فینا ولا تنواذکوا

تسو تو اور قرآنیۃ النساء و اکثر لفظ سفیان قرآن الایۃ فمن وثق منک فاجز علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فهو حق فهو كفارة له ومن اصاب منها فینا

من ذلك فستره الله فهو الى الله ان شاء عنده وان شاء غفر له ۵۶۳ ابن عباس کی روایت ۵۶۳ بہت مختصر ہے جو یہاں مکرر روایت کا پہلا جملہ ہے

اس کے ساتھ پھر ۵۶۳ کے مضمون کو کچھ پیشی کے ساتھ دوہرایا ہے۔ لفظ یوں ہیں۔ قال شهدت الصلوة يوم الفطوح رسول الله صلى الله

عليه وسلم دانی بکرم و عثمان کلکلم بصلیہا قبل الخطبة ثم یخطب بعد فاذل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانی انظر الیہ حیث یجلس

الرضال بیدہ ثم اقبل بشفقهم حتی اتی النساء مع بلال فقال لایها لنبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسوقن

ولا یزینن ولا یقلعن اولادهن ولا یأتین بهتان یغتر به بین ابیدهن وارجلهن حتی فرغن من الایة کلها ثم قال حیث فرغ ان اتان علی

ذلك وقالت امرأة واحدة لم یجبهه غیرها نعم یا رسول الله لا یدری الحسن من هی قال فتصدقن وبسط بلال ثوبه فجلعن یلقین

الفتخ والحواتیم فی ثوب بلال ر ۶

ملحد اور ہر کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ عورتوں سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبان سے لیتے تھے اور عورت کے ہاتھ کو نہ چھوتے تھے مگر یہاں صرف مذکور ہے کہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں ہاتھ پر بھی آپ کی بیعت لی ہے۔ یہ عورت خود امام عطیہ تھیں ۶۱ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ اسلام کی تعلیم میں کسی قدر وسعت تھی کہ جب ایک عورت نے بیعت کے الفاظ پر عمل کے قابل اپنے آپ کو نہ پایا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ مِنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُنْصَوِّصٌ

اور مجاہد نے کہا من انصادی الی اللہ (۱۳۷) اشک کی طرف جاتے ہیں کون میرا اتباع کرنے والا ہے اور ابن عباس نے کہا منصو ص (۴۲)

مُلْتَصِقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ قَالَ غَيْرُهُ بِالرِّصَاصِ رَأْبَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِي

ایک دوسرے سے ملا ہوا اور اردوں نے کہا سیسہ پلا کر رچھا ہوا (۱) باب اللہ تعالیٰ کا قول من بعدی

اسمہ احمد (م-۲۴۸۴) عن جابر بن مطعم (متکدر-۱۵۸۴)

اسمہ احمد (۶) دیکھو حدیث ۱۵۸۴

۶۲- الجمعة

۶۲- (سورہ) الجمعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انشاء بابتارم والے بار بار رحم کرنا اے کے نام سے

(۱) بَابُ قَوْلِهِ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْفَعُونَ مِنْهُمْ دَعِمُ فَامُضَوُّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

باب اللہ تعالیٰ کا قول و الآخیرین منہم لہم دعا عم فامضو الی ذکر اللہ

(۱۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَتْ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے

عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْفَعُونَ مِنْهُمْ دَعِمُ فَامُضَوُّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

جمعہ آپ پر اتری و آخرین منہم لہم دعا عم فامضو الی ذکر اللہ ابو ہریرہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (آخرین) کون

فَلَمْ يَزِدْ جَعَهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ وَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

میں نے اسے جواب دیا یہاں تک کہ انوکھ تین مرتبہ پوچھا اور ہم میں سلمان فارسی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَيْمَانُ عِنْدَ الثَّرَاتِ لَأَكْرَجْنَا

ایمان بختم سلمان پر رکھا پھر فرمایا اگر ایمان خریا پر ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ

أَوْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ لَوْ كَانَتْ رُؤْيَى رَوَيْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كُنَّا رَجُلًا

یا ایک شخص اس تک پہنچ جائیں گے مگر اور ایک روایت میں ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے

مَنْ هُوَ كَأَنَّ (۲) بَابُ قَوْلِهِ وَآذَانُ تِجَارَةَ (م-۲۴۸۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکدر-۱۵۵۱)

اس تک پہنچ جائیں گے باب اللہ تعالیٰ کا قول و آذ (ا) و آذ تِجَارَةَ (۱) دیکھو حدیث ۱۵۵۱

۱۔ وہی لفظ ہیں
خمسة اسماء کی
جائے اسماء
ہے۔ دیکھو نوٹ
۱۔ صفحہ ۸۳۰
۱۔ طابعتین فاسحا
کی جگہ یہ پڑھا باطل
تفسیر تھا کہ کہ نہ
کے لئے دو ذکر کرنا
منع ہے
۱۔ حضرت
ابو ہریرہ سے
بخاری میں آئے تو
سورہ جمعہ یعنی طو
پر پہلے یاد دوسرے
سال ہجرت کی ہے
پس ابو ہریرہ کی
موجودگی میں اس
کا نازل ہونا درست
نہیں۔ شاہ نزات
سے مروی ہیں
اس قدر ہو کہ اس
وقت رسول اللہ
صلعم نے اسے
پڑھا۔ آخرین
منہم لہم دعا عم
ہم کے الفاظ وہام
ہیں اور صحابہ کے

بعد ان کے اندر آجاتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں چند خاص لوگوں یا ایک شخص کی طرف خصوصیت سے اشارہ فرمایا اور لوگوں کو ایمان محلت بالذریعہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس خاص شخص کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب ایمان خریا پر اٹھ جائے گا۔ آخری زمانہ کے متعلق یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اس وقت اسلام کا صرف نام ہی نام رہ جائے گا۔ اور چونکہ احادیث میں ایک خاص شخص یعنی مسیح کے آنے کا ذکر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اسی زمانہ سے ہے۔ اس طرح پر یہ حدیث احادیث نزول ابن مریم کی موید ہے۔ اس حدیث کو امام ابوحنیفہ اور امام بخاری پر بھی حسیان کیا گیا ہے۔ مگر یہ زمانہ ایمان تھا کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس وقت ایمان خریا پر اٹھ گیا تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ آپ نے ایسے شخص کا فارسیوں میں سے ہونا بیان کیا ہے۔ شاید آپ کی مراد سب عجمی ہوں یا خاص فارس کے لوگ۔ لفظ جلتے لفظ ہیں۔ قال اجملت غیر يوم الجمعة و سخن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنادی الناس ألا اتعشرو رجلا فانزل الله و اذا راد الحجاره او لهدا انقضوا الہا۔ میاں ہے کہ جمعہ کے دن قافلہ یا حب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور علاقہ میں سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ خطبہ میں بے تھے مگر دیکھو نوٹ ۱۔ صفحہ ۲۴۸۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو اس طرح چھوڑ دوں۔ تجارت کا کام تو زیادہ تر ماہرین کرتے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر شتر داروں کو، گھر بار کو، جائیدادوں کو تجارتوں کو غرض ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ ان کے متعلق ایسا گمان کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو یا خطبہ کو تجارت کی خاطر چھوڑ سکتے تھے صحیح نہیں۔

۶۳۔ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقِيْنَ

۶۳۔ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اشارے استہداج والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

(۱) يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جِآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا اَشْهَدُ اَنَّكَ لَرَسُوْلٌ لِّلّٰهِ اِلٰى الْكَافِرِيْنَ
باب اللہ تعالیٰ کا قول اذا جاءك المنفقون (۱) جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے

(۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ غَزَاةٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيٍّ يَقُوْلُ لَا
زید بن ارقم سے روایت ہے کہ میں ایک غزوہ میں تھا تو میں نے عبد اللہ بن ابی کو سنا کہ تھا کہ ان پر

تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْقُضُوْا مِنْ حَوْلِهِ وَاَوْرَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لِيُخْرِجَنَا
خروج نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ اس کے پاس سے بکھر جائیں اور اگر ہم اس کے پاس سے لوٹ کر عاشر توڑت

اَلَا عَزْمٌ مِنْهَا اِلَّا ذَلٌّ فَاذْكُرْتُ ذٰلِكَ لِعَلِّيْ اَوْ لِعَلْفَرْدٍ كَرِهَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
والے ذیل لوگوں کو اس روایت سے نکال دیں گے تو اس بات کا میں نے اپنے چچا یا حضرت عمر سے ذکر کیا اور انہوں نے اس کا ذکر نہ ہی لیا اللہ علیہ

وَسَلَّمَ فِدَاعِيٌّ فَاذْكُرْتُ ذٰلِكَ لِعَلِّيْ اَوْ لِعَلْفَرْدٍ كَرِهَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
وسلم سے کیا تو آپ نے مجھے بلا یا میں نے آپ سے وہ بات بیان کی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی اور اس

اِبْنِيْ وَاَصْحَابِيْهٖ مَخْلُفُوْا مَا قَالُوْا فَكَذَّبَنِيْ رَسُوْلٌ لِّلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ
کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے قسم کھائی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسکی تصدیق

فَاَصَابَنِيْ هَمٌّ لَّمْ يُصِبْنِيْ وَمِثْلُهُ قَطُّ نَجَسْتُ فِيْ لَبِيْثٍ فَقَالَ لِيْ عِيْسَى
کی تو مجھ کو اتنا رخ پہنچا کہ ایسا رخ مجھ کو کبھی بھی نہیں پہنچا سو میں گھر بیٹھا رہا تو میرے چچا نے مجھے سے کہا تیرا کیا

اَرَدْتُ اِلٰى اَنْ كُذِّبَكَ رَسُوْلٌ لِّلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَّتْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى
ارادہ تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور تجھ پر ناراض ہونے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امارا

اِذَا جِآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ اِلٰى
اذا جاءك المنفقون الی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا بھیجا اور فرمایا زید اللہ نے مجھے

صَدَقَّكَ يَا زَيْدُ (۲) يَا زَيْدُ اِخْتَدَا اَيْمَانَهُمْ جَنَّةٌ يَّجْتَنُّوْنَ (۳) (متکرر۔ ۳۲۸۶)
باب اللہ کا قول اخذوا ايمانهم جنة (۲) ان کے ذریعے سے آپ کو بچاتے ہیں

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ (متکرر۔ ۱۹۷۲) يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جِآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ
دیکھو حدیث ۱۹۷۲۔ باب اللہ تعالیٰ کا قول اذا جاءك المنفقون (۳) یہ اس کے وہ ایمان لائے

فَطَبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (۴) (متکرر۔ ۱۹۷۲)
پھر کا فر ہوئے تو ان کے دلوں پر لہر لگائی گئی سو وہ سمجھتے نہیں

(۴) يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جِآءَكَ اَجْسَامُهُمْ وَانْ يَقُوْلُوْا اَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ كَاثِمٌ خَشَبٌ
باب اللہ تعالیٰ کا قول واذا ارايتهم الخ (۴) اور جب تو انہیں دیکھتا ہے تو کہنے جسم سمجھے تو علم ہوتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تو انکی بات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراھا علیہم قال ان اللہ قد صدقتک ۱۔ یہاں حدیث کو ذرا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قال لما قال عبد اللہ
ابن ابی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ وقال ایضاً لئن رجعتنا الی لعدنۃ اخبرت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا منی الا انصار ورجعت
عبد اللہ بن ابی ما قال ذلک فرجعت الی المنزل فسمعت فدا عافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فایتیہ فقال ان اللہ قد صدقک وانزل ہم
الذین یقولون لا تنفقوا الا یۃ وقال ابن ابی سلیمان عن زید عن ابن ابی سلیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ کچھ لفظی کمی بیشی کے ساتھ حدیث کو دوہرایا ہے۔ قال كنت ممنوعی فسمعت عبد الله ابن ابی بن رسول يقول لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفصوا وقال ایضاً لئن رجعتنا الی المدينة ليعزبن الاعراب منها الا ذل ان ذلک لعی فذکر عی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عبد المطلب الی واصحابہ مخلصوا ما قالوا فصدقهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکن بنی فاصابنی هم لم یصیبنی مثله فجلست فی بیعتی فانزل اللہ عزوجل اذا جاءك المنفقون الی قولهم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله الی قول لیسرج الاعراب منها الا ذل فانزل الی

مُسْتَدْرَأٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَبِيَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدَاؤُ فَاحْذَرَهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ أَتَى تَوْكُونَ

دہنیں) باس پنا گیا جو وہ پر آ کر پناہ (تباہی) نیا کرتے ہیں وہ دشمن ہیں سو ان سے بچنا رہ ایشا نہیں بلکہ کرے کس طرح اٹھے پھر جاتے ہیں

(م- ۲۲۸۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَمَتُكَ (۱۹۷۲) (۱۹) بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا

دیکھو حدیث ۱۹۷۲ ۱۹ باب اشرقتالی کا قول واذا قيل لهم تعالوا اور جب انہیں کہا

يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُدَّ آدَامُ وَرَأْسَهُمُ وَيَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَلَذُونَ حَزَلُوا

جاتا ہے اؤ اللہ کا رسول تمہارے لئے استغفار کرنے اور وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور تو انہیں بھیجے گا کہ وہ (دوسرے کو بھی) روکتے ہیں اور وہ بیکر کر لیتے ہیں

اسْتَهْزَؤُا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْرَأُ بِاللَّحْمِيَّةِ مِنَ كُوَيْتٍ (م- ۲۲۸۹) عَنْ

لوہا کے پھرنے سے، اپنے ہنسی ٹھٹھے سے لانے لگا اور غیر تشدد کے بھی پڑھا گیا ہے جو نوبت سے ہے (مترجم لیا)

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَمَتُكَ (۱۹۷۲) (۶) بَابُ قَوْلِهِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ

دیکھو حدیث ۱۹۷۲ ۶ باب اشرقتالی کا قول سواہم انہما ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لئے استغفار کرے

أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

یا ان کے لئے استغفار نہ کرے ایشا نہیں بخشے گا ایشا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا

(م- ۲۲۹۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۵۷۹) (۷) بَابُ قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ

دیکھو حدیث ۱۵۷۹ ۷ باب اشرقتالی کا قول ہم الذین انہما

يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَيَتَفَرَّقُوا وَاللَّهُ خَزَائِنُ

ہو وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ چلے جائیں اور متفرق ہو جائیں اور اسانوں اور زمین کے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (۱۹۷۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

خرا انے اللہ کے لئے ہی ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے انہیں مالک سے روایت ہے

يَقُولُ حَزَنْتُ عَلَى مَنْ أَصِيبُ بِالْحَرْبِ فَكُتِبَ لِي زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَبَلَّغَهُ شَدَاةَ حُرَيْلٍ

کہا کہ رقم حہ پر ہوتا ہے گئے ان کا بھوکہ بت راج ہوا تو زید بن ارقم نے مجھے کہا اور ان کو میرے تحت راج کی خبر

يَذُكُرُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ

جو جنگی انہوں نے کر لیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت فرماتے تھے اے اللہ تو انصار

وَالْأَنْصَارِ الْأَنْصَارِ وَشَكَ ابْنُ الْقَضَلِ فِي أَنْبَاءِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ نَسَابَ بَعْضِ

اور انصار کے بیٹوں کی مخالفت کر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے بارہ میں بن فضل کو حکم تھا اور اس سے بعض ان لوگوں نے پوچھا

الْمُنْفِقُونَ فَذَهَابَ

اللَّحْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّارُ وَسَهْمٌ وَقَوْلُهُ خَشِبَ مُسْتَدْرَأٌ قَالَ كَأَنَّهُ جَاءَ الْأَجْمَلُ شَيْئًا مَطْلُ يَمَانِ لَفْظِي يَوْمَ هِيَ - قَالَ كُنْتُ مَعَ

عمی فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تستغفروا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدينة ليجزحن الا عزمها الا اول ذكركت ذلك لعمى غذا كرمي للتيه صلى الله عليه وسلم وصدتهم فاصابني غم ليصين مثله قط فجلست في بيته وقال عمى ما اددت الى ان كذا بك النبي صلى الله عليه وسلم ومفتك فانزل الله تعالى اذا جاءك المنفقون قالوا انشهد انك لرسول الله ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقراها وقال ان الله قد صدقك مطل تومرا سا اختلاف لفظي ہے اور خرچہ پڑھا یا ہے - قال کتا فی غزاة قال سفین موة فی جيش نكس رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كس رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعواها فاعلمت منته فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فلوها اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليجزحن الا عزمها الا ذل فخلد النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعه لا يحقث التام ان محمد ايقتل اصحابه راس من الكفا حقه ۱۵۷۹ میں نہیں ہے) دكانت الانصار واكثر من المهاجرين حين قري بها المدينة ثم ان المهاجرين كثروا بعد قال سفين فحفظت من عمرو وقال عمرو سمعت جابرا انك امر النبي صلى الله عليه وسلم

۱۔ کچھ کی بیٹی
روایت کو وہ پرایا
ہے۔ قال خرونا
مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر
اصاب الناس
فيه شدة فقال
عبد الله بن ابي
اصحابه لا تنفقوا
على من عند رسول
الله حتى ينفضوا
من حوله وقال
لئن رجعنا الى
المدينة ليجزحن
الا عزمها الا اول
فانبت النبي صلى
الله عليه وسلم
فاخبرته فارسل
الى عبد الله بن
انفساله فاجتهد
مديته ما فعل قالوا
كذب زيد رسول
الله صلى الله عليه
وسلم فوقع في نفسي
مما قالوا منته
حتى انزل الله
عز وجل تصدق
في اذا جاءك
المنفقون فذاهم

اللحمة صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلوار وسهم وقوله خشب مستدرأ قال كأنه جاء الأجمل شيئاً مطل يمان لفظي يوم هي - قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تستغفروا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدينة ليجزحن الا عزمها الا اول ذكركت ذلك لعمى غذا كرمي للتيه صلى الله عليه وسلم وصدتهم فاصابني غم ليصين مثله قط فجلست في بيته وقال عمى ما اددت الى ان كذا بك النبي صلى الله عليه وسلم ومفتك فانزل الله تعالى اذا جاءك المنفقون قالوا انشهد انك لرسول الله ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقراها وقال ان الله قد صدقك مطل تومرا سا اختلاف لفظي ہے اور خرچہ پڑھا یا ہے - قال کتا فی غزاة قال سفین موة فی جيش نكس رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كس رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعواها فاعلمت منته فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فلوها اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليجزحن الا عزمها الا ذل فخلد النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعه لا يحقث التام ان محمد ايقتل اصحابه راس من الكفا حقه ۱۵۷۹ میں نہیں ہے) دكانت الانصار واكثر من المهاجرين حين قري بها المدينة ثم ان المهاجرين كثروا بعد قال سفين فحفظت من عمرو وقال عمرو سمعت جابرا انك امر النبي صلى الله عليه وسلم

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي

جو ان کے پاس تھے تو انہوں نے کہا کہ زید بن ارقم وہی شخص ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ وہی شخص ہیں

أَوْفَى اللَّهِ لَكُمْ بِأَذْنِهِ (۸) بَابُ قَوْلِهِ يَقُولُونَ إِنَّ رُجْعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُحْزِنُ

جس کے کان کو اللہ نے سجا کیا ہے۔ باب اللہ تعالیٰ کا قول بقولہ الخ (۸) کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو غم و غم کے

الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ

ذلیل لوگوں کو اس سے نکال دیں گے اور عتد اللہ کے لئے ہی ہے اور اس کے رسول کیلئے اور مومنوں کے لئے لیکن منافق

لَا يَعْلَمُونَ (۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۵۷۹)

نہیں جانتے (۹) ۲۷۹۱ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ (۱۵۷۹) دیکھو حدیث ۱۵۷۹

سُورَةُ الطَّائِبِينَ وَالطَّلَاقِ

۶۵ و ۶۴ - سوره الطائبين والطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ

اور علقر نے عبد اللہ سے روایت کی وہن الخ (۱۱) اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے یہ وہ شخص ہے

مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَتْمَاهُمْ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ

کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو راضی (قبضہ الہی) ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجاہد نے کہا کہ تغابن یہ ہے کہ جنت والے

أَهْلُ النَّارِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَحْيِضُ أَمْ لَا أَحْيِضُ فَالَّذِينَ قَعَدُوا

دوزخ والوں کے مقامات) کو لے لیں ان اذنیتم (۱۲) اگر تم کو علم نہ ہو کہ اسے حیض آتا ہے یا نہیں

عَنِ الْحَيْضِ الَّذِي لَمْ يَحْضَنْ بَعْدَ فَعَدْتُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَبِالْأَمْرِ اجْزَاءَ

ہوں یا وہ جن کو بھی حیض نہیں آیا تو ان کی عدت تین ماہ ہے وہاں امرہا (۱۳) اپنے کام

أَمْرَهُمَا (۱۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ

کی سزا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور

هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ

وہ حالت حیض میں تھی تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرْاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ يَحْيِضُ

اس بارہ میں ناراض ہوئے پھر عرض کیا کہ بیوی کی طرف رجوع کرے پھر اسے اپنے دسے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آجائے

فَتَطْهَرُ فَإِنْ بَدَأَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيَطْلِقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا فَبَلَكَ

پھر پاک ہو جائے پھر اگر اس کا یہی خیال ہو کہ اسے طلاق دیدے تو اس کے پاس جانے سے پہلے طلاق کی حالت میں اسے طلاق سے سویر عدت

الْوَعْدَةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ (۱۵) بَابُ قَوْلِهِ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے (۱۵) باب اللہ تعالیٰ کا قول و اولات الخ (۱۶) اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل وضع

۱۹ جیسا کہ ۱۹
میں ذکر ہے کہ انہوں
نے من نفین کی بات
سن کر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے
کہ یہ نہیں بلکہ رسول
بن ابی نے قسم کھا
لی تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے
نیز کو جھوٹا سمجھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے
زید کی تصدیق کی
۱۲ روایت بخاری
سی کی بھی کیا ہے
آئی ہے۔ یہی کہ
کتابی غنائی کہ
رجل من المهاجرین
رجلا من الانصار
فقال الانصار
یا للانصار وقال
المهاجری یا
للہاجرین فسمعہا
رسولہ صلے
اللہ علیہ وسلم
قال ما هذا فقالوا
کسر رجل من
المهاجرین رجلا
من الانصار فقال
المهاجرین یا
للہاجرین فقال
النبی صلے اللہ علیہ
وسلم دعواھا فانھا
منتتة قال جابر
وكانت الانصار

طہار

حین قدم النبے صلے اللہ علیہ وسلم اکثر ثم کثر المهاجرون بعد فقال عبد اللہ بن ابی اوقد ففعلوا والله لئن رجعنا الى المدينة ليجزى من الاعز
منها الاذل فقال عمر ابن الخطاب وعنی یارسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق قال النبے صلے اللہ علیہ وسلم دعوا لا یستحق ان الناس
ان محمد ایقتل اصحابہ ۶۵ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق صرف ایک ہی دفعہ دی جاتی ہے۔ اور اس کا حالت طہر میں دینا ضروری ہے اور
طلاق دینے کے بعد فوراً عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اس عدت کے اندر دوسری طلاق بے معنی ہے +

حَمَلُهَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ وَاحِدُهَا

کریں اور جو شخص اللہ کا تقویٰ کرتا ہے وہ اس کے معاملہ میں آسانی پیدا کرتا ہے اور اولاد الاحمال کا واحد

ذَاتُ حَمْلٍ (۱۹۷۵) عَنْ أَبِي رَسْمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

ذات حمل ہے ابوسلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور ابو ہریرہ ان کے

جَاءَ لِيَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي مَرَأَةٍ وَكَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بَارِعِينَ كَيْفَ تَكُونُ

پاس پہنچے ہوتے تھے تو کہا کہ مجھے ایسی عورت کے بارہ میں فتویٰ دیجئے کہ اپنے خاوند کے مرنے کے چالیس دن بعد اس نے بچہ جنا تو ابن

ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجُوا الْأَجْلِينَ قُلْتُ أَنَا وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

عباس نے کہا دو عدوتوں میں سے آخری عدوت میں نے کہا حمل والی عورتوں کی عدوت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل وضع

حَمَلُهُنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسْلَمَةَ فَارْسَلَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ غَلَامَةً

کریں ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے یعنی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں تو ابن عباس نے اپنے غلام کرب کو حضرت

كُرْبِيًّا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سَبِيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حَمْلٌ وَوَضَعَتْ

ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھے تو انوں نے فرمایا کہ سبیعہ اسمیہ کا شوہر قتل ہوا اور وہ حاملہ تھی سو شوہر کے مرنے

بَعْدَ مَوْتِهِ بَارِعِينَ كَيْفَ فَحُطِّبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

کے چالیس دن بعد اس نے بچہ جنا تو اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا اور ابو السائب

أَبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا (۲۴۹۲) عَنْ مُحَمَّدٍ (متكرر) (۱۸۹۲)

بھی ان میں سے تھے جو شوہر سے نکاح کا پیغام بھیجا دیکھو حدیث ۱۸۹۲

۶۶- سُورَةُ التَّمِيمِ

۶۶ - سُورَةُ التَّمِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنا اللہ کے نام سے

۱۱، بَابُ يَأْكُلُهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَ مَرَضًا أَوْ جَاكُ

باب اللہ تعالیٰ کا قول یا کھا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے جو ہالٹے تیرے لئے حلال کیا ہے کیا تو اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا

وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيْعَةٌ (۱۹۷۶) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

سے اور اللہ بخشنے والا مکرر کرنا لایا ہے سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس نے نبوی کو حرام کئے کے بارہوں

قَالَ فِي حُرَامِ يَكْفُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

فرمایا کہ کفارہ دے اور ابن عباس نے کہا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے

حمل یعنی ایک مدت حمل والی کی ہے کہ وہ بچہ جسے اولاد ایک عدت عام ہے تین قسم کے اور اگر وہ بچے کے چلتے ہوئے ہو تو عدت نہیں ہوتی بلکہ روایت اولاد لفظی سے آئی ہے۔ قتال کت فی حلالۃ فیہا عبد الرحمن بن ابی نعیم وکان اصحابنا یظنونه ذنبا لآخرہ اجلین حدیث حدیث سبیعۃ بنت الحویت عن عبد اللہ بن عتقہ قال رضخ لی رجاوش یعنی کوکنا بعض اصحاب قال محمد فظننت له نقلت الی اذنا لیسوی ان کذبت علی عبد اللہ بن عتقہ وهو فی کفۃ الکوفۃ فاستحیا وقال لکن عمہ لم یقل ذاک فلقت ابانۃ

ملاحظہ فرمائے کہ ذہب بخاری حدیث سبیعہ نقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا فقال لنا عند عبد الله فقال اجعلون عليها التعليل ولا تجعلون عليها الرخصة لئلا تفسد سورة النساء القصوى (يعني سورة طلاق) بعد الطولى واولات الاحمال اجملهن ان يضع حملهن امام بخارى... (The text continues with a detailed commentary on the hadith, explaining the context of the question and the answer given by Ibn Abbas and the Prophet Muhammad.)

۲۴۹۳ عن عائشة (متکرم ۲۰۶۲) باب تبتغی مروضات ازواجک قد

دیکھو حدیث ۲۰۶۲ باب تبتغی مروضات ازواجک قد

فرض لله لکد تجلہ ایما نکد ۲۴۹۴ عن ابن عباس (متکرم ۱۱۷۷)

پے اللہ نے تم کے لئے تماری شوکر کا گوارہ مقرر کر دیا ہے

۱۱) ازاجوم امراتہ
۱۲) ایس لہی جس سے
۱۳) معلوم ہوا کہ حمل
سے مراد زوریہ کا

اسنے اور ایک وقت کے لئے حرام کرنا ہے۔ اور لکن بعد حواہن عباس کا قول لائے ہیں لہذا کان لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ تو اس سے اسی کی مزید تائید ہوتی ہے، پس لہ قہوم ما احل اللہ لک سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو جنس اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اپنے اور بیویوں سے حرام کرتے ہیں۔ اور یہ اشارہ ایلا دوائے واقعو کی طرف ہے جب نبی کریم صلعم نے تم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاسو گے اور اس کی وجہ ان کا وہ مطالبہ تھا کہ انہیں نفقہ زیادہ دیا جائے جس میں سب بیویاں شامل تھیں اس کی تفصیل آگے م ۲۴۹۴ میں آتی ہے۔ (صحیح بخاری) حلال اصل حدیث آگے کتاب الطلاق باب لم قہوم ما احل اللہ لک میں آتی ہے۔ یہاں قدر سے اختصار ہے۔

قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثوب عسلا عند زلیب ابنۃ جحش ویکت عنہا فراطیت انا وحفصۃ عن ابنتہا فدخل علیہا فلتعن لہ اکلت سنا ذوالی ایچد منک دیم مغافیر قال لا ولکنی کنت اشوب عسلا عند زلیب ابنۃ جحش فلن اعود لہ وقد حلفت لا تخبری بذلک احدًا۔ اس حدیث اور علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ نے ایک سازش کی تھی کہ رسول اللہ صلعم زلیب کے گھر سے شہدہ کی آئین تو لیا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہوا آتی ہے۔ مغافیر مغفور کی جمع ہے۔ اور عین میں ہے کہ وہ مکات کی ایک قسم ہے یعنی کھمبی کی۔ یا وہ ایک قسم کی گوند ہے اور اس سے بو آتی ہے۔ مگر یہ بات کہ حضرت عائشہ مدیقہ حبیبیہ راستباز عورت ایسی سازش کرے جس میں جھوٹ بھی بولا جائے اور پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلعم کو اپنا زوریہ جائے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ اور خواہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن اس کو کسی صورت میں صحیح تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ایک راوی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا آسان ہے یہ نسبت اس کے کہ صدیقہ حبیبیہ راستباز بی بی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے۔ اگر اس ہفتہ کی کچھ صلیبت ہے تو وہ عورت اس قدر ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے حضرت زینب کے گھر کوئی اس قسم کا شہدہ دیا جو جس میں ہو تو اس کی وجہ سے حضرت عائشہ یا حفصہ یا سوسنہ یا کابو۔ اور پھر کسی غلطی یا غلط فہمی سے اس روایت نے موجودہ صورت اختیار کر لی۔ مگر مکرر روایت کچھ کی پیشی کے ساتھ آتی ہے۔

انہ قال سکنت معہ اربعا ان اسال عمرو بن الخطاب عن ایۃ قما استطیع ان اسالہ ہیبۃ لہ حتیٰ یرجوا ما یخرجت معہ فلما رجعت وکن ببعض الطريق عدلی الی الامامک لاجلہ لہ قال فوقف لہ حتیٰ فرغ ثم سوت معہ فقلت یا امیر المؤمنین من اللتان تظاہر علی اللیۃ صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ فقال تلک حفصۃ وعا شۃ قال فقلت واللہ ان کنت لاریدن ان اسالک عن لہذا منذ سنۃ فما استطیع ہیبۃ لک قال ذلک لقععل ما ظننت ان عدلہ من من علم قاسا لک فان کان لی علم خبر تک بہ قال ثم قال عمرو واللہ ان کنتی فی اہلیۃ ما نعد للنساء امرًا عورتوں کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے تھے اور ان کی کسی معاملہ میں رائے وغیرہ دلیلتے تھے، حتیٰ انزل اللہ فیہن ما انزل راس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کے مرتبہ کو کسی قدر بلند کر دیا، مگر انہوں نے اس سے مال کا حصہ نہیں دیا، انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے اس سے سوچ رہا تھا، اذ قالت امراتی لوصفت کن اوکن ا قال فقلت لہا مالک ولما لہنما فیما لہنک (دخل ودر عقولت) بی امرا ریدہ فقلت لی عجیبًا لک یا ابن الخطاب ما تردین ان تراجم انت (تماری بات کو ٹوٹا یا جائے) وان ابنتک لتراجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یظن یومہ غضبان فقام عمر فارخ واداءہ مکا دحتیٰ دخل علی حفصۃ فقال لہا یا بدیۃ انک لتراجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یظن یومہ غضبان فقلت حفصۃ واللہ ان لاراجعہ فقلت تعلمین انی احذرک عقوبۃ اللہ وغضبہ سولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بدیۃ لا یغرنک ذلک و لقریبتی حینما حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایا ما یرید عائشۃ قال ثم خرجت حتیٰ دخلت علی ام سلمۃ لقریبتی منہا فقلت ہا ذلک التام سلمۃ عجیبًا لک یا ابن الخطاب قلت فی کل شیء حتیٰ تبتغی ان تنخل بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ تاخذننی واللہ انک لکنی عن بدیۃ ما است اجہار مرافقہ کچھ کر لیا، فخرجت من عدلہا وکان لی صاحب من الانصار اذ اغبت اتانی بالی بواذ اغاب لک ان اتیہ بالی بواذ اغبت منہ من سواک فاشکان ذکرنا انہ یرید ان یرید لہنا فقد امتلات صدرہا ما نہ فاذا اصابعہ لا تصارید الی اب فقلت فخرجت فقلت جاد العسالی فقال بن ارضہ من ذلک انزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ فقلت رحمۃ اللہ علیہم فانزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہشرون و لہ یکتے علیہا لاجلہ رحم پر ایک زمین سے چڑھا جاتا تھا، وغلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود علی اور اور درجۃ فقلت: قال من انظر من الخطاب فان لی قال عمر فقصص علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا الحدیث فلما بلغت حدیث ام سلمۃ تسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واذا علی حصید ما بینہ وینہ شئی وحتت راسہ ورساۃ من ادم حشوا لہ یقنوا ان عند رجلیہ قرظا ما یرتاز یحون ما ایک ڈھیر، صنعا واداءہ اہد کے چڑھے معلقات فرایت اثر الحصدی فی جنبہ رہ وہ وقت ہے کہ آپ صرک بادشاہ ہو چکے ہیں اور سارے عرب آپ کی بادشاہت کو تسلیم کر چکے ہیں، فلیکت فقال لہا لک فقلت یا رسول اللہ ان کس فی اقصیٰ فیما ہما فیہ وامت رسول اللہ فقال اما ترضی ان یکن اہم الذی سادنا الاخرۃ۔ اس حدیث سے باقی واضح کر دیا کہ لم قہوم ما احل اللہ لک کی تفسیر صحیح امام بخاری کے نزدیک وہی واقعہ ایلا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے کچھ وقت کیلئے علیحدہ ہو جانا۔

(۳) بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ زَوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول واذا سئل النبي الى بعض زواجه حديثا فلما نبأت به و

أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّتْ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ هُنَّ

دیدی اور اللہ نے اسے رسول کو اس پر آگاہ کر دیا تو اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصے سے اعراض کیا سو جب اسکو اسکی خبر دی تو اس نے

أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ أَخْبِرَ فِيهِ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا تو کہا کہ مجھے علم والے خبردار نے بتایا اس بارہ میں حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں

(م-۲۷۹۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۱۷۷) بَابُ قَوْلِهِ إِنْ تَتُوكَا

باب اللہ تعالیٰ کا قول ان تتوکیا

إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا صَعَوْتُ وَأَصْعَيْتُ مَلْتُ لَتَصْغُرَ لَتَمِيلَ وَ

اگر تم دونوں اللہ کی طرف جھک جاؤ تو تمہارے دل مائل ہی ہو چکے ہیں صغوت واصصیت میں جھک بڑا التصغر والا تعالیٰ ۱۱۷۷ تاکہ جھک

إِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ

پڑیں اور اگر تم اس کے علاوہ کسی دوسرے کی مدد کرو تو اللہ ہی اس کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومن بھی اور جتنے اس کے بعد مددگار

بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ عَوْنُ تَظَاهَرُوا وَقَالَ فَجَاهِدُوا نَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

پس (ظہریوں مددگار تظاہرون اپنے دوسرے کی مدد کرتے ہو اور مجاہدے کہا قوا انفسكم واهليكم ۲۷۹۵) اپنے

أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَادَّبُواهُمْ (م-۲۷۹۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر)

آپ کو اور اپنے گھروالوں کو اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ

(۱۱۷۷) بَابُ قَوْلِهِ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَ زَوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول عسی ربہ ان یردہ شایدا من رب ایزدہ نہیں طلاق دیدے تو اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں

مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَابِحَاتٍ نِيَّاتٍ وَابْكَارًا

مسلمہ فرما خبردار تو یہ کہنے والیاں، عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں بیوہ اور کنواریاں

(م-۲۷۹۷) عَنْ أَنَسٍ (متكرر- ۲۹۱)

دیکھو حدیث ۲۹۱

۶۷- تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ

۶۷- (سورہ تبارک الذی بیدہ الملک الملک)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم

التَّقَاوُتُ وَالْإِخْتِلَافُ وَالْتِفَاوُتُ وَالْتَقَوُتُ وَاحِدٌ تَمْدِيدٌ تَقَطَعُ مِنْكَ بِجَوَانِبِهَا

تفاوت (۳) اختلاف تقاووت اور تقوت ایک ہی ہیں تمیز کرنے پر لگے ہوئے مناکہ اہرام اسکے تاکہ

تَدْعُونَ وَتَدْعُونَ مِثْلَ تَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَيَقْبِضُ يَضْرِبُ بِنَاحِيَّتِهِمْ

تدعون اور تدعون کے ایک ہی معنی ہیں جیسے تھم تھم اور تھم تھم دیکھو قبض (۱۹) اپنے پڑوں کو مارنے میں

ملکیاں صرف اس حصے کو دہرایا ہے جس میں حضرت ابن عباس حضرت عمر سے پوچھنے اور آپ کے جواب دینے کا ذکر ہے یقول اودت ان اسال عمر فقلت یا امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اتعمت کلما حتی قال عائشہ یا ایہذا وحفصہ

اور کئی بار الرضہ ذکر کرتے بالاداء وہی تجلست اسکی علیہ ورایت موضعاً فقلت یا امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاہرتا قال ابن عباس فما اتعمت کلما یعنی ان عائشہ وحفصہ ۲۹۱۔ میں تین باتوں میں وحی الہی کے ساتھ حضرت عمر کے توافق کا ذکر ہے یہاں ان میں سے صرف آخری بات مذکور ہے۔ اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخیرۃ علیہ فقلت یہن علی ربہ ان طلقن ان یبدلہ زواجا خیرا منک ان ذلک ہذا آلا یہ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ صَافَاتٍ بَسَطَ أَخْبَثَهُنَّ وَنَعُورًا لِكُفُورٍ

اور مجاہد نے کہا صافات (۱۹) ان کے پردوں کا کھولنا ہے (نفع در (۲) انکار ریالانگری)

۶۸ - وَالْقَلَمِ

۶۸ - (سورۃ) ن وَالْقَلَمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے اہتمام والے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَنَا فِتْوُنَ يَتَجَوَّنُ الشَّارِدُ وَالْكَلَامُ الْخَفِيُّ وَقَالَ قَتَادَةُ

ابن عباس نے کہا یگانا فتنوں (۲۳) چھپ کر اور پرشیدہ طور سے گفتگو کرتے تھے اور قتادہ نے کہا

حَرْدٌ حِدْرٌ فِي أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ أَنَّ أَضْلَانًا مَكَانَ جَنَّةٍ وَقَالَ

حدود (۳۵) اپنے نفسوں میں کوشش اور ابن عباس نے کہا لٹکانوں (۲۶) ہم اپنے باغ کی جگہ بھول گئے اور اوروں

غَيْرُهُ كَالصَّوْبِ كَالصَّبْرِ النَّصُومُ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلُ النَّصُومُ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ أَيضًا

نے کہا کالصبوب (۳۲) صبح کی طرح جو رات سے کٹ جاتی ہے یا جیسے رات دن سے کٹ جاتی ہے اور صوب (۳۲)

كُلُّ رَمَلَةٍ أَنْصَرَمَتْ مِنْ مَعْظِمِ الرَّمْلِ وَالصَّوْبُ مِثْلُ قَيْلٍ

ریت کے ہر اس رچھوٹے تودہ کو بھی کہتے ہیں جو بڑے تودہ سے کٹ جاتا ہے صوب صوبم کے معنی میں بھی ہے جیسے قیل اور

وَمَقْتُولٍ رَأَى بَابَ قَوْلِهِ عَتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٌ ۱۹۷۲ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ

ماقتول اللہ تعالیٰ کا قول عتل الخورساخت بھڑا لوالو کے علاوہ شرارت میں مشہور ابن عباس سے روایت ہے

عَتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٌ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنْمَةٌ مِثْلُ زَنْمَةِ الشَّاةِ

عتل بعد از زنبیم کا گروہ قریش میں ایک شخص تھا بکری کے گوشت کے ٹکڑے میں لگائے کی طرح اس پر گوشت کا ٹکڑہ تھا مال

۱۹۷۲ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حارث بن وہب خزاعی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

يَقُولُ لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اسْتَمَّ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ أَلَا

فرماتے تھے کہ جنت والوں کے متعلق تو کو خبر نہ دوں ہر کیس عاجزی کرے والا جو اگر اللہ کے بھروسہ پر تمہارا بیٹھے تو اللہ سے پرکڑے مال

أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتِلٍ جَوَّاطٍ مُسْتَلْبِرٍ ۱۹۷۳ بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ

کہا دورخ والوں کے بارہ میں تم کو خبر نہ دوں ہر ایک بھڑا لوالو موٹا سفید اور

سَاقٍ ۱۹۷۴ رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ظاہر ہوگی ابو سعید سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

يَقُولُ يَكْشِفُ رُئُوسَهُنَّ عَنْ سَاقِهِمْ فَيَسْجُدْنَ لَهُ كُلُّ مَوْءُودٍ وَمُؤْمِنَةٌ وَيَقِيْعُ مَنْ كَانَ

فرماتے تھے ہمارا رب اپنی سختی ظاہر کرے گا مالط پس ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ رہ جائیں گے

يَسْجُدْنَ فِي الدُّنْيَا رِئَاءَهُ وَسَمْعَةٌ فَيَدْهَبُ لِيَسْجُدَّ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

جودنیاس دکھائے اور شرت کے لئے سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو ان کی پیٹھ ایک تختی کی طرح ہوجائے گی مالط

مل زمانہ نمایاں میں ہے کہ وہ چیز ہے جو بکری کے کان سے کاٹی جاتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ لٹکی ہوئی چھوڑ دی جاتی ہے اور زنبیم کی شرح اس لفظ سے کی ہے اس لئے کہ زنبیم وہ ہے جس کو کسی دوسری قوم کے نسب میں ملا لیا جائے اور وہ ان میں سے نہ ہو یہ شخص بعض کے نزدیک لین بئین بغیرہ اور بعض کے نزدیک اخس بن شریق اور بعض کے نزدیک اسود بن یغوث ہ طبعی بظاہر بہت غریب ازریکس سا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عقاب ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم بھی کیا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے

ابن جریر نے کہا صحابہ اور تابعین کے قول نقل کئے ہیں کہ کشف عن الساق کے معنی امر شدید کا ظاہر ہونا ہے اور حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جاہلیت میں یہ محاورہ اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا بلکہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے اس دنیا میں بھی یہ حالت ہے کہ جب انسان ایک امر کا عادی ہوجاتا ہے تو اس کے خلاف کرنا بھی چاہے تو اس سے ہون نہیں سکتا

۶۹- الْحَاقَّةُ

۶۹- (سورہ) الحاقۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اشربے انتارم والے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

عِشَّةٌ رَّاضِيَةٌ يَّرِيدُ فِيهَا الرِّضَا الْقَاضِيَةَ الْمَوْتَةَ الْاُولَى لَتِي مُتَهَاكِمٌ
عیشۃ راضیہ (۲۱) مراد ہے کہ اس میں وہ راضی ہوگا القاضیہ (۲۴) وہ موت جو ہو چکی اس کے بعد میں

اَمْحَى بَعْدَهَا مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرَيْنِ اَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِوَاوِاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ
زندہ نہ کیا جاتا من احد عنہ حاجرین (۲۴) جمع اور مفرد دونوں کے لئے آتے اور ابن عباس نے کہا

عَبَّاسِ الْوَتَيْنِ نَبَاطُ الْقَلْبِ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ طَغَى كَثْرًا يُقَالُ بِالطَّغْيَةِ
دو تین (۲۴) رنگ، جس کے ساتھ دل کی حیات وابستہ ہے ابن عباس نے کہا طغی (۱۱) حد سے بڑھ گیا اور کہا گیا ہے بالطغیۃ

بَطْعِيَانِهِمْ وَيُقَالُ طَفَّتْ عَلَيَّ الْخَزَانُ كَمَا طَفَّ الْمَاءُ عَلَيَّ وَهَرَجَ
(۵) ان کی مرضی کی دھ سے (اور کہا گیا ہے راندھی) جو اس پر تفرق کرنے والوں کو تباہ سے نکل گئی جیسے پانی قوم نوح پر قابو نہ لگا سکا

۷۰- سَأَلَ سَأَلٌ

۷۰- (سورہ) سأل سأل (المعارج)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اشربے انتارم والے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

الْفُصَيْلَةُ اصْغَرُ اَبَائِهِ الْقُرْبَى الْيَهُودِيَّةُ مِنْ اَشْتَمَى لِلشَّوْى الْيَدَانِ وَ
فصیلۃ (۳۱) قریب کے داداؤں میں سے نزدیک کا دادا جس کی طرف کسی کو نسبت دی جاتی ہے شوی (۱۹) دو ہاتھ اور

الرَّجُلَانِ وَالْاَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتُلٍ
دو پاؤں اور اطراف اور سر کی کھال کو شواۃ کہا جاتا ہے اور جس عضو کے کاٹنے سے انسان

فَهُوَ شَوَى وَالْعِزُّونَ الْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَّةٌ
نہیں مرنے تو وہ شوی ہے اور عزیزین (۳۶) گروہ گروہ اس کا مفرد عیزۃ ہے

۷۱- اِنَّا اَرْسَلْنَا

۷۱- (سورہ) انا ارسلنا نوح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اشربے انتارم والے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

اَطْوَارًا طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ عَدَا طَوْرًا اَمَى قَدْرَهُ وَالكِبَارُ اشْدُ مِنْ
اطوار (۲۱) کبھی ایک حالت میں کبھی دوسری حالت میں کہا جاتا ہے عدا طورۃ اپنے اندازہ سے بڑھ گیا کبار (۲۳) کہا سے زیادہ سخت

الكِبَارِ وَكَذَلِكَ جَمَانٌ وَجَمِيلٌ لَانْهَآ اَشْدُّ مَبَالِغَةً وَكِبَارٌ الْكِبَارُ وَكِبَارٌ اَيْضًا
اسی طرح جمال بہت خوبصورت اور جمیل ہے کیونکہ وہ مبالغوں میں زیادہ ہے اور کبار بڑا اور کبار تخفیف رہا، کے

يَا لَتُخْفِيفِ الْعَرَبُ تَقُولُ رَجُلٌ حَسَانٌ وَجَمَالٌ حَسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجَمَالٌ مُخَفَّفٌ
ساتھ ہی بڑا اور عرب کہتے ہیں رجل حسان بہت خوبصورت اور جمال اور جمال حسان اور حسان تخفیف (س) کے ساتھ اور جمال

دَيَّارٌ مِنْ دُوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيَعَالٌ مِنَ الدَّوْرَانِ كَمَا قَرَأَ عُمَرُ الْحَمْدُ الْقِيَامَ دَهِيٍّ مِنْ
تخفیف (س) کہتے ہیں (یہی لہجہ ہے) دیار (۲۱) دور سے نکلا، گروہ فعال رکھنے پر ہی دوران سے میرے لئے الحی القیام پڑھا ہے اور وہ

قمت وقال خيرة ديارا احدا تبارا اهلا كما وقال ابن عباس مديرا ايتيم بعضه

قمت سے ہے اور اوروں نے کہا ديارا کسی کو بھی نہ چھوڑے تبارا (۲۸) ملک اور ابن عباس نے کہا مديرا (۱۱) چھ درجے

بعضا وقار اعظمة باب ودا او لاسوا عا ولا يغوث ويعوق (۹۷۸) ابن عباس

وقار (۱۳) بزرگی باس (۲۳) ود کو اور ن سوا ع کو اور ن يغوث اور يعوق کو ابن عباس سے

عباس صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في لغرب بعد افاود كانت لكلب

روایت ہے کہ وہ بت جو نوح کی قوم میں تھے وہ بعد میں عرب میں آئے ود (قبیلہ) کلکب (بت) تھا

يد ومة الجندل اما سوا ع كانت لهديل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني

دو مہ الجندل میں اور سوا ع ہذیل کا تھا اور يغوث مراد کا تھا پھر بنی غطفان

غطفان بالجوف عند سبأ واما يعوق فكانت لهمدان واما نسر فكانت لهذيل

کار ہونگیا جوف میں بھی سبأ کے پاس رہے اور يعوق ہمدان کا تھا اور نسر حمیر کا تھا

لال ذي الكلاء اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى

جو ذی الکلاء کی اولاد میں سے تھے اور یہ نوح کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے جب وہ مر گئے تو شیطان نے

الشیطان الى قومهم ان نصبوا الى محاسنهم التي كانوا يجلسون انصابا و

ان کی قوم جالوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی جگہوں میں جاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت کھڑے کر دو اور

سموهم باسمائهم ففعلوا فلما بعد حتى اذ اهلك اولئك وتنتخ العلم عبادت

انہی کے ناموں سے انکو موسوم کر دو سو انوش ایسا ہی کیا انکی پرستش نہ ہونی تھی یہاں تک کہ جب وہ مر گئے اور اس بات کا علم جا تا رہا تو انکی پوجا ہونے لگی

۷۲۔ قل وحي الي

۷۲۔ (سورہ) قل اوحی الی (ابن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے کے نام سے بار بار رحم

قال نزل عنك من بعد اعرافا (م) ۲۹۸ عن ابن عباس (م) متكرر (۲۷۵)

ابن عباس نے کہا نزل (۱۹) دروکار دیکھو حدیث ۲۷۵

۷۳۔ سورة المزمل

سورہ المزمل - ۷۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے کے نام سے بار بار رحم

وقال مجاهد وتبطل (۸) فخلص بوجا اور صحن نے کہا انکا لا یؤود (۱۲) بیڑیاں منقطوبہ (۱۸) اس سے

مثقلة به وقال ابن عباس كشيبتا ههنا الرمل لسائل وسيد اشدينا

بوجھل ہونے والا ہے اور ابن عباس نے کہا كشيبتا ہہنا (۱۲) سبق ریت و سیدلا (۱۶) سخت

۷۴۔ المدثر

۷۴۔ (سورہ) المدثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے کے نام سے بار بار رحم

۱۹۸۲
مکرر روایت کے لفظ قرینہ کے ہی میں صرف قانظرو اما هذا الذي حال بينكم وبين خير السماء جس کی جگہ مکرر روایت میں ہے قانظرو ما هذا الامر الذي حدث کے بعد ایک دو فقرے زائد ہیں قانظروا فضولوا مشارق الارض وما غارها في ظنن ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خير السماء دیکھو نزل ۳۲ و ۳۳ صفحہ ۱۹۵

اس حدیث سے جو غلطی پیدا ہوئی ہے کہ اترا پہلی وحی نہیں بلکہ یا جہا المدثر پہلی ہے وہ خود حضرت جابر کی روایت اور اس کی مکرر روایات ۲۵۰۱ سے ۲۵۰۲۳ صاف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان تینوں روایتوں میں جو جابر سے ہی ہیں یہ لفظ نہیں سمعت اللہ صلعم وھو حیث عن فترة الوحی فقال فی حدیثہ ضیبا فاما مشی اذا سمعت صوتا من السماء ففتحت راسی فاذا الملك الذی جاء فی جھراذجالس علی کرسی یبار السماء والارض۔

قال ابن عباس عسیر شدیدا قسورة رکز التائین اصواتهم وقال بؤھریرة

ابن عباس نے کہا عسیر (سخت) قسورة (راہ) لوگوں کا شور اور ان کی آوازوں اور ابو ہریرہ نے کہا

الاسد وکل شدیدا قسورة مستنغرة تا فرقة مذعورة (۱۹۷۸) عن جابر بن

شیر اور ہر ایک سخت امر بھی قسورة ہے مستنغرة (۵) بگے ہوئے ڈرائے گئے جیحی بن ابی

ابی کثیر سالت اباسلمة بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القمار قال یا ایہا

کثیر سے روایت ہے میں نے ابو سلم بن عبد الرحمن سے اس کے متعلق پوچھا جو قرآن میں سحر سے پہلے نازل ہوا تو کہا یا ایہا

المدثر قلت یقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق (یعنی ہے) تو ابوسلمہ نے کہا میں نے اس بارہ میں جابر بن عبدالمطلب سے

عبدالله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابرا احمدك الا ما حدثنا

پوچھا تھا اور میں نے ان سے اسی طرح کہا تھا جیسے تم نے کہا تو جابری نے کہا کہ میں نے اس بارہ میں جابر بن عبدالمطلب سے رسول

رسول لله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بجرا فقلتما قضيت جوارى هبطت

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ نے فرمایا میں نے (فارحرا میں منکھن تھا جب میں نے اپنا احکاٹ چھوڑا تو کل آیا

فمؤدیت فنظرت عن یمینی فلم ادرشیئا ونظرت عن شمالی فلم ادرشیئا

پس مجھے ایک آواز آئی میں نے اپنے دائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا اور اپنے بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا اور

نظرت اما رمی فلم ادرشیئا ونظرت خلفی فلم ادرشیئا فرفعت راسی فرأیت شیئا

اپنے سامنے دیکھا تو مجھے نظر نہ آیا اور اپنے پیچھے دیکھا تو مجھے نظر نہ آیا تو میں نے اپنا سر اٹھا یا تو مجھے نظر نہ آیا

فأتیئت خدیجة فقلت دترونی وصبوا علی ماء بارد اقال فدترونی وصبوا

تو میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے کپڑا اڑھا دو اور مجھے پرھنڈا یا بائی ڈالو فرمایا تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑھا دیا

علی ماء بارد اقال فانزلت یا ایہا المدثر فاندرو ربك فکبر

اور مجھے پرھنڈا یا بائی ڈالو آپ نے فرمایا تو یہ سورت اتری یا ایہا المدثر تم فی انذار و ربك فکبر علی

(۱) باب قولہ فم فاندرو ربك (۲۴۹۹) عن جابر بن عبد الله (متکدر) ۱۹۷۸

باب اللہ تعالیٰ کا قول تم فانذرو ربکم (۲) دیکھو حدیث ۱۹۷۸

(۲) باب قولہ ودرتک فکبر (۲۵۰۰) عن جابر بن عبد الله (متکدر) ۱۹۷۸

باب اللہ تعالیٰ کا قول ودرتک فکبر (۳) دیکھو حدیث ۱۹۷۸

صاف معلوم ہوا کہ جابر بن جہراذجالس علی کرسی یبار السماء والارض کے بارے میں وہ فترة الوحی کے بعد کہ ہے اور اس میں آپ نے اسی فرشتے کو دوبارہ دیکھا ہے جسے پہلی بار جہراذجالس علی کرسی یبار السماء والارض دیکھا تھا۔ اور اترا والی وحی پہلی وحی ہے اور یا ایہا المدثر دوسری۔ لفظ فترة الوحی جو جابر کی اپنی حدیث میں موجود ہے یعنی ملک اور اس کی مکرر روایات میں صاف بتاتے ہیں کہ پہلے وحی ہو کر پھر رک گئی تب آپ نے جبرئیل کو آسمان میں دوسری مرتبہ دیکھا اور پھر گھرائے تو یہ وحی ہوئی یا ایہا المدثر خود ۱۹۷۸ کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس میں فارحرا کے اندر فرشتے کو دیکھنے کا ذکر نہیں حالانکہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے فرشتہ کو فارحرا کے اندر دیکھا اور یا ایہا المدثر ۱۹۷۸ کی مکرر روایت کے الفاظ فاذا جالس علی عرش بین السماء والارض بتاتے ہیں کہ اسی فرشتہ کا ذکر ہے جسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ملک بیان حدیث کو مکرر بیان نہیں کیا بلکہ صرف یہ کہ دیکھنے پر اتفاقاً کہا ہے کہ اوپر والی حدیث کی مثل اس نے حدیث بیان کی عن البیہ صلعم قال جاورت بجرا فقلتما قضيت جوارى هبطت فاستبطنت الوادی هبطت فاستبطنت الوادی فمؤدیت فنظرت اما رمی خلفی وعن یمینی وعن شمالی فاذا هو یعنی وہی فرشتہ جسے پہلے بھی فارحرا کے اندر دیکھا تھا جالس علی عرش بین السماء والارض فاتیئت خدیجة فقلت دترونی وصبوا علی ماء بارد اذ

(۴) **بَابُ قَوْلِهِ وَثَبَّأَبَاكَ فَطَهَّرَ (م- ۲۵۰۱)** عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرٌ - ۴)

باب اللہ تعالیٰ کا قول و ثببأباک فطہر (۴) دیکھو حدیث ۴

(۴) **بَابُ قَوْلِهِ وَالرَّجْزُ فَاجْزُ يُقَالُ الرَّجْزُ وَالرَّجْزُ الْعَذَابُ (م- ۲۵۰۲)**

باب اللہ تعالیٰ کا قول والرجز فاجز (۴) کہا جاتا ہے کہ رجز اور رجس عذاب کو کہتے ہیں

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرٌ - ۴)

دیکھو حدیث ۴

۵- سُورَةُ الْقِيَامَةِ

۵- سورہ القیامتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے اور بار بار رحم کرنا کے نام سے

وَقَوْلُهُ لَا تَحْرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّخِذَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَدَّ هَذَا لِئَلَّا يَتَّخِذَ

اور اللہ تعالیٰ کا قول لا تحرك به لسانك لتتخذ به (۴) اور ابن عباس نے کہا سدا کے لئے کہ اس کو نہ لے لیں

أَمَّا مَا سَأَلْتُمُ النَّبِيَّ فَسَوْفَ نَسُودُ أَهْلَهُمْ أَكْثَرًا وَأَزْوَاجَهُمْ سَعِيدٌ

امامہ (۴) کہتا ہے، عنقریب میں تو بہ کرونگے عنقریب میں زمین کام کروں گا لاورد (۱) کوئی قلم نہیں ہے

ابن جبرین (مُتَكَوِّرٌ - ۵، ۱) بَابُ أَنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ (م- ۲۵۰۳)

دیکھو حدیث ۵ باب اللہ تعالیٰ کا قول ان الخ (۱) ہمارے لئے ایک جمع کرنا اور ایک بڑھنا ہے

سَعِيدٌ بِنِ جَبْرِ (مُتَكَوِّرٌ - ۵، ۲) بَابُ قَوْلِهِ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ ابْنُ

دیکھو حدیث ۵ باب اللہ تعالیٰ کا قول فاذا قرأته فاتبع قرآنہ (۲) میں جب ہم کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے

عَبَّاسٍ قُرْآنَهُ بَيِّنَاتٍ فَأَتَّبِعْ أَهْلَهُ بِه (م- ۲۵۰۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرٌ - ۵)

کی پیروی کر ابن عباس نے کہا قرآن ہم سے بیان کر دینے فاتبع اس پر عمل کر

۶- هَلْ أُنزِلَ عَلَى الْإِنْسَانِ

۶- (سورہ) هل انزل على الانسان (الذھر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے اور بار بار رحم کرنا کے نام سے

۱- قرآن میں اصل حدیث کو
۲- وہاں پر ہے لیکن
۳- ابتدا میں جہاں
۴- میں یہ ذکر ہے قال
۵- دھو چھو حدیث عن
۶- فقترۃ الوحی یعنی
۷- چارہ فقترۃ الوحی
۸- کا ذکر ہے تھے
۹- مکرر روایت میں
۱۰- قال سمعت النبی
۱۱- صلعم وهو حیرت
۱۲- عن فقترۃ الوحی
۱۳- یعنی فقترۃ الوحی
۱۴- کا ذکر غویبی صلعم
۱۵- فرما رہے تھے
۱۶- اور آخر پر والرحم
۱۷- فابھرت کے بعد
۱۸- غمی الوحی ورتاج
۱۹- کے لفظ چھوڑ دینے
۲۰- ہیں اور انکی بجائے
۲۱- ہے قبل ان تفوض
۲۲- الصلوۃ دھی
۲۳- الاوثان یعنی
۲۴- یہ واقعہ اور اس
۲۵- وحی کا نزول ناز
۲۶- کے فرض ہونے سے
۲۷- پہلے کا ہے۔ اور

رجز سے مراد بت ہیں، اہل کتاب لفظ یوں ہیں انہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث عن فقترۃ الوحی فیما آقا امشی سمعت صوتا من السماء فذرفت بصوی قیل السماء فاذا الملك الذی جاءنی جواز قاعد علی کرسی بین السماء والارض فنبئت منه حته اھویت الی الارض رزمین پر گر پڑا، فحمت اھلی فقلت زملونی زملونی فزملونی فانزل اللہ تعالیٰ علیما المدثر الی قولہ فابھرت قال ابوسلمۃ والرحز الاوثان شہمی الوحی ورتاج، مکرر روایت ناقصہ ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی حرك به لسانہ ووصفت سفین یوید ان یحفظہ فانزل اللہ لا تحرك به لسانک لتتخذ بہ، اہل کتاب لفظ یوں ہیں، عن قولہ تعالیٰ لا تحرك به لسانک قال وقال ابن عباس کان یحرك شفقیہ اذا نزل علیہ فقیل لہ لا تحرك به لسانک یحتملی ان یتغلت رضاع ہو جائے، منہ ان علینا جمعه وقرآنہ ان جمعہ فی صدرك وقرآنہ ان تقرأہ فاذا قرأته یقول انزل علیہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ ان نبیہ علی لسانک، مکرر روایت میں تفصیل زیادہ ہے، فی قولہ لا تحرك به لسانک لتتخذ بہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل جبریل بالوحی وکان مما یحرك به لسانہ وشفقیہ فیصدق علیہ وکان یعرف منہ فانزل اللہ الایۃ التی فی لا اقسیم یرحم اللہ من لسانک لتتخذ بہ ان علینا جمعه وقرآنہ قال علینا ارضیعہ فی صدرك وقرآنہ فاذا قرأناک فاتبع قرآنہ فاذا انزلہ فاسمع من ان علینا بیانہ علینا ان نبیہ لسانک قال فكان اذا اتاه جبریل اطرق رضاعی سے، فاذا ذهب قرأہ کما وعدہ اللہ اولیٰ لک فانزلہ فاعلم ان ابتداء میں تھا فاعلم بشریت آپ حضرت جبرئیل کے الفاظ کو بعد صبرا و کرنے کی کوشش کرتے تاکہ کوئی لفظ نہ دے جائے تو اللہ تعالیٰ نے تسی دی کہ وحی اسی کو آپ قبول نہیں کرتے رہتی

يُقَالُ مَعْنَاهُ أُنِي عَلَى الْأَسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَدًّا أَوْ تَكُونُ خَبْرًا وَهَذَا مِنْ

(دل انی علی انسان) (۱) کا جانا ہے کہ اس کے معنے ہیں انسان بڑا یا اور هل انکار کیلئے آتا ہے اور خبر کیلئے رہی اور یہ (هل) خبر یہ ہے

الْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْخًا فَلَمْ يَكُنْ قَدْ كُوِّرَ أَوْ ذَكَ مِنْ جِلْدٍ خَلْقَهُ مِنْ طِينِ الْإِنِّ أَنْ

فرماتا ہے انسان ایک چیز تھا مگر قابل ذکر نہ تھا اور یہ اس وقت سے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا یہاں تک کہ

يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ أَمْشَاهُ الْأَخْلَاطُ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ لِلدَّمِّ وَالْعَلَقَةُ

اس میں روح پھونکی جاتی ہے امدقنا روح راہی ہوئی چیزیں عورت کا پانی اور مرد کا پانی خون اور لوتھڑا

وَيُقَالُ إِذَا اخْلَطَ مَشِيخًا كَقَوْلِكَ خَلِيطٌ وَمَشِيخٌ مِثْلُ فَخْلُوطٍ وَيُقَالُ سَلَسَلًا

اور جب کوئی چیز ملائی جائے تو کہا جاتا ہے مشیخ جس طرح تم کہتے ہو خلیط اور مشیخ مخلوط کی طرح ہے اور کہا جاتا ہے سلسلا

وَأَعْلَاكَ لَمْ يَجْرِ بَعْضُهُمْ مُسْتَطِيرًا مُتَدًّا الْبَلَاءُ وَالْقَمَطِيرُ الشَّرِيدُ

واغلا (۲) اور بعض نے زنون کو جائز نہیں رکھا مستطیر (۲) جس کی مصیبت پھیلی ہوئی ہو قاطر (۳) سخت

يُقَالُ يَوْمَ قَمَطِيرٍ وَيَوْمَ قَمَطِيرٍ وَيَوْمَ قَمَطِيرٍ وَالْعَبُوسُ الْقَمَطِيرِيُّ وَالْقَمَاطِرُ وَالْعُصْبُ

کہا جاتا ہے یوم قاطر (۲) و یوم قاطر (۲) رحمت مصیبت کا دن (۲) عبوس اور قاطر اور قماطر اور عصب

أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِيَّامِ فِي الْبَلَاءِ وَقَالَ مَعْمَرٌ أَسْرَهُمْ بَشْدَةً الْحَلْقِ وَمَنْ

وہ دن ہیں جو مصیبت کے لحاظ سے بہت سخت ہوں اور معمر نے کہا اسرہم (۲) بندوق کی غصبوی اور

شَيْءٌ شَدِيدٌ لَكُمْ مِنْ قَتَبٍ فَهُوَ مَا سَوَدَ

چیز کہ جو تم مستحبو باذو صبیہ پالان تو اسے ماسود کہتے ہیں

۴۷۔ وَالْمُرْسَلَاتُ
۴۸۔ (سورہ) والمرسلات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے اللہ! انتہا رحم والے

وَقَالَ فَجَاهِدْ جَمَالَاتٍ جِبَالٍ رَكْعَوًا صَلُّوا لَا يُصَلُّونَ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا

اور مجاہد نے کہا جمالات (۳۳) موٹی رسیاں اور رکوع (۳۸) نماز پڑھو (۳۸) نماز نہیں پڑھتے اور ابن عباس سے پوچھا گیا

يَنْطِقُونَ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ الْيَوْمَ نَحْمِمْ فَقَالَ إِنَّهُ ذُو الْوَأْنِ مَرَّةً

کہہ رہے تھے فرمایا کہ قرابت میں کہیں گے (پھر فرمایا کہ وہ کہیں گے) اے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم فرک کر چکے ہیں (اور فرمایا) ہم (لکے ہونے والے)

يَنْطِقُونَ وَمَرَّتْ بِي حَتْمٌ عَلَيْهِمْ (۵-۲۵۰۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۹۳۱)

کہہ رہے ہیں تو ابن عباس نے کہا راکلی میں مختلف ہو گی کبھی بات کہیں گے اور بھی ان پر ہر گاہی جائے گی

(۵-۲۵۰۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۹۳۱) بَابُ قَوْلِهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَاوِرٍ

دیکھو حدیث ۹۳۱ بَابُ قَوْلِهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَاوِرٍ

كَالْقَصْرِ (۲۵۰۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر- ۱۹۷۹) بَابُ قَوْلِهِ كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ

دیکھو حدیث ۱۹۷۹ بَابُ قَوْلِهِ كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ

صَفْرٌ (۱۹۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرْمِي بِشَاوِرٍ كَأَنَّ نَعْمِدًا إِلَى خَشْبَةٍ ثَلَاثَةٌ

ابن عباس سے روایت ہے ترمی بشاویر کے بارہ ہیں کہ ہم تین ہاتھ کی کٹی یا اس سے زیادہ لے لیتے اور لے

أَذْرِعٌ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَزَوْجُهُ الشَّتَابُ فَسَمِيَهُ الْقَصْرَ كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ صَفْرٌ

جاؤں کے لئے اٹھا رکھتے اس کا نام ہم تھرا کہتے کا ذمہ جملالات صفر گویا کہ وہ کشتیوں کی

(تفسیر صفحہ ۱۱۸۵) سنقر تک فلائقے تو پھر آپ خاموشی سے سنتے رہتے یہاں تک کہ میں میں کوع کی سیت ایک ہی وقت میں آپ پر نازل ہوئی مگر جبرئیل کا صوف ایک دفعہ پھر دینا کافی تھا پھر وہ آپ کے سینے میں ایسی محفوظ ہو جاتی کہ پھر آپ اسے پڑھتے بھی اور کبھی بھی دیتے اور ایک رحمت تک اس میں سے نہ بھیولتے صفحہ ۱۱۸۵ تک مکرر روایت قتلے مقرر ہے قال کنا ہم رسول اللہ صلعم وانزلت علیہ والمرسلات وانزلنا نطقها من فیہ فخرجت حجة فابتدأ رناها نسبقتنا فنخلت صحفها فقال رسول اللہ صلعم وقت شرمک کما قدیم شرفها اس کے لفظ ۹۳۱ کے قریب قریب ہیں انہا لوی بشریہ کا لفظ قال کنا نرفع الخشب بقصو

حَبَالُ لَسْفِينٍ يَجْتَمِعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَسَاطِيرِ الرَّجَالِ (۳) بَابُ قَوْلِهِ هَذَا يَوْمَ لَا
زور سواں میں وہ اشقی کھائی نہیں بیان تک کہ وہ مرووں کی کر کے برابر ہوئی ہو جائیں

يَنْطِقُونَ (۴) ۲۵۰۹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرد - ۹۳۱)

ایادوں پر کردہ بات نہیں کریں گے دیکھو حدیث ۹۳۱

۷۸ - عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا

(سورہ) - عَمَّ يَسَاءَ لَوْنُ (النساء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے

قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَلَا يُخَافُونَهُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا لَا يَكْتُمُونَ

مجاہد نے کہا لا یرجون حساباً (۲۴) اس سے نہیں ڈرتے تھے لا یملکون منه خطاباً (۳) اس سے بات نہ کر سکیں گے

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ صَوَابٌ بِحَقِّهِمْ لَذُنُوبِهِمْ يَوْمَ يَعْمَلُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا جَاءَ مَضِيئًا

سوائے اس کے کہ وہ انکو اجازت تھے صواباً (۲۴) دنیا میں جو بات سچی اور اس پر عمل کیا اور ابن عباس نے کہا دھا جا (۱۳) روشن

وَقَالَ غَيْرُهُ غَسَّاقًا غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيُعْشِقُ الْجِرْحَ يَسِيلُ كَانَّ الْغَسَّاقُ وَالْغَسَّاقُ

اور اوروں نے کہا غساقاً (۲۵) غسقت عینہ سے ہے اسکی آنکھ تاریک ہوگئی اور یسقی الجرح (۲۵) زخم پر بہا ہے کو یا کہ غساق اور

وَاحِدٌ عَطَاءٌ حِسَابًا جَزَاءً كَأَنِّي أَطْعَمُهُ مَا أَحْبَبْتَنِي أَوْ كَفَانِي (۱) بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ

غسقی ایک ہی میں عطاء حساباً (۳۰) کافی بدلہ اعطانی ما احببتنی یعنی جو مجھ کو کافی ہے بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ

يَنْفِخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا مَرَامًا (۲) ۲۵۱۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرد - ۱۹۵۷)

یوم الخیر (۱۸) جن دن سور میں پھونکا جائیگا تو تم فوج فوج ہو کر آؤ گے (افواجاً) گردہ در گردہ دیکھو حدیث ۱۹۵۷

۷۹ - وَالنَّازِعَاتِ

(سورہ) والنازعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے

قَالَ مُحَمَّدٌ الْآيَةُ الْكُبْرَى عَصَا وَوَيْدَا يُقَالُ لِلنَّخْرَةِ وَالنَّخْرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ

اور مجاہد نے کہا الایة الکبری (۱۹) ان کا عصا اور ان کا ہاتھ کہا جاتا ہے نخرة اور نخرة (۱۱) برابر ہیں جیسے

الطَّامِعِ وَالطَّامِعِ وَالْبَخِيلِ وَالْبَخِيلِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّخْرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّخْرَةُ الْعَظْمُ

طامع اور طامع اور باخل اور بخیل اور بعض نے کہا نخرة عظمی ہوتی رہتی اور نخرة وہ ہڈی جو

الْحَيَاتِ وَالْحَيَاتِ تَمْرُوفِيَّةٌ الرِّيمُ فَيُخْرَمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِحَافِرَةِ النَّبِيِّ أَمْرًا الْأَوَّلُ

اور ابن عباس نے کہا حافرة (۱۰) وہ جو ہماری پہلی حالت تھی یعنی

إِلَى الْحَيَاةِ وَقَالَ غَيْرُهُ آيَاتٍ مَرَسَاهُمُ أَيَانُ مَرَسَاهُمْ مَرَسَاهُمْ مَرَسَاهُمْ مَرَسَاهُمْ مَرَسَاهُمْ مَرَسَاهُمْ

دنیا کی زندگی کی طوت اور اوروں نے کہا آیان مرساھا (۲۴) اس کی انتہا کر کے اور کشتی کا مرسا وہ ہوتا ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے

(۱۹۸۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے

بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا يَا لَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا مَرَسَاهُمْ وَالسَّاعَةُ كَمَا تَبَيَّنَ

اپنی دووں انگلیوں سے یوں اشارہ کیا جیسا کہ انگلی اور انگوٹھا کے پاس والی انگلی سے پیرا بیٹھتا ہونا اور ہر گھڑی اس طرح میں

علا نظر ۹۳۱
کے میں سوائے
اس کے فی غارت
کی جگہ مرت فی
غارت ہے۔ مگر آخر
بڑھایا ہے قال
عمر حفصہ من
الجب فی غارت میں
علا اس کے پھلے
صدر میں کچھ بڑھایا
ہے۔ قال قال
رسول اللہ صلی
علیہ وسلم ما بین
الغنختین اربعون
قال اربعون یوما
قال ابیت قال
اربعون شهرا قال
ابیت قال اربعون
سنة قال ابیت
قال ثم یزل اللہ
من السماء ماء
فیبتون کمائیت
البقل لیس من
الانسان شیئ
الایلی الاعظما
واحد او عجیب
الذنب ومنہ یک
الخلق یوم القیمة
دیکھو نوٹ
صفحہ ۲۸
۳
الساعة سے
یہاں مراعات
وسطے ہوتی ہے
یعنی دشمنوں
کی تباہی کی
گھڑی

۸۰۔ عَابِسٌ

۸۰۔ (سورہ عبس)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارے استعارہ والے بار بار رحم
عَبِسٌ كَلِمَةً وَاَعْرَضَ قَوْلًا غَيْرَةً مُطَهَّرَةً لَا يَنْسَهَا اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ

عابس را متناہ یا اور نہ بھیر لیا اور اوروں نے کہا مطہرہ (۱۳۲) تین چہرتے ہیں ان کو بکر پاک اور وہ فرشتے ہیں

وَهَذَا امِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدْبِرَاتُ اَمْرٌ اجْعَلِ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّوفِ مُطَهَّرَةً لَا اَنْ الصُّوفِ

اور یہ اشارے کے قول فاسد برات احوال الزفات (۵۰) کی طرح ہے اشارے فرشتوں اور صحیفوں کو پاک ٹھیرا یا اس لئے کہ پاک

يَقَعُ عَلَيْهَا التُّطَهْرَاتُ فَجَعَلَ لِلتُّطَهْرَاتِ لِمَنْ حَمَلَهَا اَيْضًا سَفَرَةً الْمَلَائِكَةَ وَاِحْدَهُمُ

کی صفت صحیفوں پر وارد ہوتی ہے تو جان کے اٹھانے والے ہیں ان کو بھی پاک ٹھیرا گیا سفرہ (۱۵۰) فرشتے اس کا واحد

سَافِرٌ سَفَرَتْ اَصْلُحَتْ بَيْنَهُمْ وَجَعَلَتْ الْمَلَائِكَةَ اِذَا انزَلَتْ يَوْحًى لِّلّٰهِ وَتَادِيْتَهُ

سافر ہے سفرت میں نے ان کے درمیان اصحاح کر دی اور فرشتوں کو جب وہ اشارے کی وحی لیکر آتے ہیں اور اسے پہنچاتے ہیں

كَالسَّفْرِ الَّذِي يُصَلِّمُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ غَيْرٌ تَصْدَى تَغَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ

اس سفر کی طرح قادی کی جی جو قوم کے درمیان صلح کرانے والا تھا اور اوروں نے کہا تصدی (۶۰) تو اس سے لاپرواہ ہوتا ہے اور مجاہد نے کہا

لَمَّا يَقْبَضُ لَا يَقْبَضُ اِحْدًا مَّا اَمْرِيَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَرْهَقُهَا نَضْمٌ هَاشِدٌ مَسْفَرَةٌ

لما يقبض (۱۳۲) کوئی اسے پورا نہیں کرتا جب اسے مکم دیا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا ترھقا نضم (۱۳۱) سے سختی ڈھا تک ہی ہوگی مسفرہ

مَسْفَرَةٌ بِاَيْدِي سَفَرَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَتْ اَسْفَارًا اَكْتَنَّا كَلِمَةً تَشَاغَلُ يَقَالُ

(۱۳۸) لکھتے ہوئے بائیں سفرہ (۱۵۰) ابن عباس نے کہا لکھنے والوں کے اسفار را مجموعہ (۵۰) کتابیں تاملی (۱۰) غافل ہوتا ہے کہا جاتا ہے

۸۱۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

۸۱۔ (سورہ اذا الشمس کوبرت)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارے استعارہ والے بار بار رحم
اِنَّكَ دَرْتُمْ اِنْ تَارَتْ وَقَالَ اِحْسَنُ سَجْرَتٌ ذَهَبٌ مَّا وُهَا فَلَا يَبْقَى قَطْرَةٌ وَقَالَ

انکد رت (۲۱) گر جائیں اور حسن نے کہا سجرت (۶۰) اس کا پانی سوکھ جائے اور ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے اور مجاہد نے کہا

مَجَاهِدٌ الْمَسْجُورُ الْمَمْلُوءُ وَقَالَ غَيْرٌ سَجْرَتٌ اَقْضَى بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ فَصَارَتْ

کما مسجور (الطور-۶۰) بھرا ہوا اور اوروں نے کہا سجرت ایک دوسرے سے مل جائیں اور ایک ہی سمندر ہو جائیں

۱
اکثر نسخوں میں
اسی طرح ہے مگر
یہ صحیح نہیں اور
یعنی میں ہے
تصدیق اقبل علیہ
یعنی اس کی طرف
متوجہ ہوتا ہے
۲
پہلے سے مراد
قرآن کریم کے
حافظ اور دوسرے
سے وہ لوگ لئے
گئے ہیں جو اسے
متشکل سے پڑھ
سکتے ہیں مگر قرآن
کریم کی حفاظت
کرنے والا حقیقت
وہ ہے جو اس پر
عالم بھی ہے۔
اور دوسرے راہ ہے
جو اس کے احکام
کی نگہداشت
کرنے میں یعنی
ان پر عمل کرنے
میں مشقت محسوس
کرتا ہے

تَنْفَسَ رَتَقَهُ النَّهَارُ وَالصَّيْفُ الْمُهْمَمُ وَالصَّنِينُ يَضُنُّ بِهِ وَقَالَ شُعْبَةُ النَّفْسُ

تنفسی (۸۶) دن پڑھا جائے اور ظہن قیمت نکالیا اور صندان (۲۳۷) جو کسی بات کے معنی میں ہوا کہ لیا اور غرنے

زَوْجَتِ يَزُوجُ نَظِيرَةً مِنْ أَهْلِ الْجَدَّةِ وَالنَّارِثَةُ قَرَأَ احْتَرَى وَاللَّذِينَ

کے النفوس زوجت (۸۶) اپنے لیے کیا تھا ملا دیا جائے جنت والوں میں سے اور دونوں والوں میں سے پھر پڑھا احتری والذین

ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ عَسَسَ أَدْبُرُ

ظلموا وازواجہم را صفت (۲۲) عسس (۱۰۰) پیچھے پھیرنے

۸۲- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

۸۲- (سورہ) اذا السماء انفطرت (انفطار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اسم سے کرتے والے کے نام سے

وَقَالَ الرَّبُّ يُعِيبُ مَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ يَا كُفْرًا وَقَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ

اور رب نے عیب کیا تم نے کون سے بتوں کو اور تم نے کفر کیا اور عاصم نے پڑھا فعل تک (۸۶) رماں کی تحفیف

وَقَرَأَ أَهْلُ الْحِجَازِ بِالشَّدِيدِ وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَمَنْ خَفَّفَ لِيَعْنِي فِي

سے پڑھا ہے اور اہل حجاز نے شدید سے اور میدان میں اعتدال اس سے مراد لیا ہے اور جنہوں نے تحفیف سے پڑھا ہے تو

أَيُّ صُورَةٍ شَاءَ إِذْ مَا حَسَنٌ وَإِنَّمَا قِيمٌ وَطَوِيلٌ وَقَصِيدٌ

یعنی جسے میں جس صورت میں چاہا خوبصورت یا بدصورت اور طویل و طویل اور چھوٹے قد والے

۸۳- وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

۸۳- (سورہ) ويل للمطففين (التلخیص)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اسم سے کرتے والے کے نام سے

وَقَالَ فَجَاهِدْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قُلُوبُكُمْ أَجْمَعِينَ وَالْمُطَفِّفِينَ

اور مجاہد بنے کہا (۱۳۷) گناہوں کے اثر کا قائم ہو جانا تو ب (۳۶) بدلہ دیا گیا اور اوروں نے کہا مطففت نامی اوروں کو

غَيْرَهُ (۱۹۸۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ

پورا دن سے عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَغِيَّبَ أَحَدَهُمْ فِي رِشْوَةٍ إِلَى أَصْفَادِ أذْنِيهِ

یعنی قوم الناس لرب العالمین یہاں تک کہ ایک ان میں سے آدھے کا نوں تک اپنے سینے میں ڈوب جائے

۸۴- إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

۸۴- (سورہ) اذا السماء انشقت (الاشقاق)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے اسم سے کرتے والے کے نام سے

قَالَ فَجَاهِدْ كِتَابَهُ لِيَأْخُذَ كِتَابَهُ مِنْ دَرَاءِ ظَهْرِهِ وَسَقِ مَعَهُ مِنْ دَائِي ظُنُّ

مجاہد نے کہا کتابہ بشما لہ (۲۵) اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لے گا (سق) رہا جانوروں وغیرہ کو کھانے کی چیز

أَنْ لَنْ يَجُودَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ حَسَابًا حَسَابًا أَلَيْسَ إِيَّاكُمْ

ظن ان میں جو نہ ہو گا ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے

بَابُ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِ قَسْوَتِ (۸۶) تَوَسَّلَ كَحَسَابٍ يَمِي آسَانَ حَسَابٍ يَمِي

جہاں پانچاکیا سائے آئے تو نہ امت کے مارے سینے میں ڈوب جائے

۱۹۸۲

بِالصَّادِقِ وَالسَّيِّئِ وَقَالَ بَنُ عَسَابٍ رَأَى بِهِمْ مَرَجِعَهُمْ

(دونوں) کے مہمانانہ اور ابن عباس نے کہا ایاہم ۱۲۵ ان کا لوٹ کر آنا

۸۹- وَالْفَجْرِ

۸۹- (سورہ الفجر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے انتہائی مہربان اور مہربان سے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْوُثْرُ اللَّهُ إِذْ ذَاتَ الْعِمَادِ الْقَدِيمَةِ وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُودِكُمْ

اور مجاہد نے کہا (۱۳) اللہ ہے ارم ذات العما د (۱۴) پرانی رقوم عا د اور عا د خیر کی جو ب والے جو مقیم نہیں

يَقِيمُونَ سَوَّطَ عَذَابِ الزَّمِيِّ عَذْبُ بَوَائِبِ أَكْلَانِ السَّفِّ وَجَمَّا الْكُفْرَ وَقَالَ

رہتے سوط عذاب (۱۳) وہ جس سے ان کو عذاب دیا گیا اکلان (۱۴) سمیٹ کر کھانا اور جمان (۱۵) بت اور چاہتے

مُجَاهِدٌ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ هُوَ شَفَعُ السَّمَاءِ شَفَعٌ وَالْوُثْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ

کہا جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو وہ چوڑا شفع ہے آسمان بھی چوڑا ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ان

غَيْرُهُ سَوَّطَ عَذَابٍ كَلِمَةً تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْحٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ

نے کہا سوط عذاب ایک کلمہ ہے جسے عرب ہر ایک قسم کے عذاب پر کہتے ہیں جس میں کوڑا بھی شامل ہے

السَّوَّطُ لِبِالْمُرْصَادِ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مُحَاضُونَ مُخَافُونَ وَخُضُونَ يَا مَرْوَنَ يَا طَعْلَمَةَ

لِبا المرصاد (۱۶) اللہ کی طرف پھر جانا ہے مخاضون (۱۷) مخافت کرتے ہو اور خضون (۱۸) سکین کو کھانا کھانا حکم نہیں

الْمُطْمَئِنَّةُ الْمُصِدِّقَةُ يَا لَتَوَابٍ قَالَ أَحْسَنُ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ

دیتے مطمئنة (۱۹) ثواب پر یقین رکھنے والی اور حسن نے کہا یا ایہنا النفس الخ سے مراد ہے کہ جب اللہ کو یقین

عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَهَا أَطْمَأَنَّ إِلَى اللَّهِ وَأَطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَ

کرنا چاہے تو اطمئنان سے اللہ کی طرف جائے اور اللہ اس سے مطمئن ہو اور وہ اللہ سے خوش ہو اور

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمْرٌ يَقْبِضُ رُوحَهَا وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ حِبَادِهِ

اللہ اس سے خوش ہو پس اللہ اس کی روح کو قبض کر لیا حکم سے اور اسے جنت میں داخل کرے اور اسے اپنے ایک بندوں میں شامل

الصَّاحِبِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَاءُوا نَقَبُوا مِنْ جَيْبِ الْقَبِيصِ قُطْعَ لَهْ جَيْبٍ

کے اور انہوں نے کہا جابوا (۲۰) چھیدا ایا نازا جیب القبیص سے ہے جس اس کے لئے جیب کافی جاباے

يَجُوبُ الْفَلَائِةَ يَقْطَعُهَا لَمَّا كَسَمْتَهُ أَجْمَعُ أَتَيْتُ عَلَى الْآخِرَةِ

يجوب الفلاة جعل كل قطع كرا ہے لما (۲۱) لعمتہ اجمع سے ہے ہیں اس کے آخر تک پہنچ گیا

۹۰- لَا أُقْسِمُ

۹۰- (سورہ لا اقسام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے انتہائی مہربان اور مہربان سے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا الْبَلَدُ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْأَلِيمِ وَاللَّهُ

اور مجاہد نے کہا یہاں البلد (۲۲) مکہ یعنی مکہ ہے جو لوگوں پر اس میں ہے

أَذَمُّ وَمَا دَلَّكَ الْبَيْدُ وَالْحَجْرُ مِنَ الْخَيْبِ وَالشَّمْرُ مَسْجِدُ قِبَاعَةَ مَثَرِيَّةُ السَّائِطُ

آدم و عا واد (۲۳) لہا (۲۴) بیت اور خید میں (۲۵) لہی اور ہدی

مسند (۱۲۵) جہوک (۱۲۶) متاریہ (۱۲۷) مٹی سے

(۳) بَابُ قَوْلِهِ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (م- ۲۵۱۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۳۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول فاما من اعطى واتقاه (۳) دیکھو حدیث ۴۳۰

(۴) بَابُ قَوْلِهِ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (م- ۲۵۱۶) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۲۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول وصدق بالحسنة (۴) دیکھو حدیث ۴۲۰

(۵) بَابُ قَوْلِهِ فَسَنِيَسِرُّهُ لِّلْيَسْرِ (م- ۲۵۱۷) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۲۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول فسنيسرره لليسر (۵) دیکھو حدیث ۴۲۰

(۶) بَابُ قَوْلِهِ وَأَمَّا مَنْ جُنِلَ أَسْتَفْتَى (م- ۲۵۱۸) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۲۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول واما من جنل واستفتى (۶) دیکھو حدیث ۴۲۰

(۷) بَابُ قَوْلِهِ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (م- ۲۵۱۹) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۲۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول وکذب بالحسنة (۷) دیکھو حدیث ۴۲۰

(۸) بَابُ قَوْلِهِ فَسَنِيَسِرُّهُ لِّلْعُسْرَى (م- ۲۵۲۰) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۴۲۰)

باب اللہ تعالیٰ کا قول فسنيسرره للعسرى (۸) دیکھو حدیث ۴۲۰

۹۳ - وَالضُّعْفُ ۹۳ - (سورہ) وَالضُّعْفُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور سورہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا بَلَغَ اسْتَوَى وَقَالَ غَيْرُهُ أَظْمَ وَسَكَنَ عَائِلًا ذُو عِيَالٍ (۱) بَابُ

اور مجاہد نے کہا کہ اگر بچہ بڑھ کر ہو جائے تو اسے اسٹو کہا جاتا ہے اور اس کے والدین اس کے لئے عیال والے ہیں

مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قُلْتُمْ (م- ۲۵۲۱) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفِينٍ (متكرر - ۶۱۵)

ما دوعک ربک وما قلتے (۳) دیکھو حدیث ۶۱۵

(۲) بَابُ قَوْلِهِ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قُلْتُمْ تَقْرَأُ يَا أَلْبَسْدِيدُ وَالْمُخْفِقِينَ بِمَعْنَى

باب اللہ تعالیٰ کا قول ما دوعک الرب تیرے رب نے مجھے چھوڑا میں اور وہ ناراض بنا ہوا ہے اور تیرے دشمنوں سے

وَإِحْدٍ مَّا تَشْرِكُ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَّا تَرَكُوكَ وَمَا أَبْغَضُوكَ

پڑھا گیا ہے اور میں نے ایک تیرے رب نے مجھے چھوڑا اور ان میں سے کسی نے کہا کہ تم نے مجھے چھوڑا اور تم پر ناراض ہوا

(م- ۲۵۲۲) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفِينٍ (متكرر - ۶۱۶)

دیکھو حدیث ۶۱۶

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

۱۱۹۳

(م-۲۵۲۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم-۳) (م-۲۵۲۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۳ ص ۷

(متکرم-۳) (م-۲۵۲۶) بَابُ قَوْلِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (م-۲۵۲۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

دیکھو حدیث ۳ ص ۷ بَابُ قَوْلِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲)

(متکرم-۳) (م-۲۵۲۸) بَابُ قَوْلِهِ قَرَأَ وَرَتَّكَ الْأَكْرَمُ (م-۲۵۲۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم-۳)

دیکھو حدیث ۳ ص ۷ بَابُ قَوْلِهِ قَرَأَ وَرَتَّكَ الْأَكْرَمُ (۳)

(م-۲۵۲۸) بَابُ قَوْلِهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (م-۲۵۲۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم-۳)

(۵) بَابُ قَوْلِهِ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَأَذَى النَّاسِ الْفَاسِقِينَ

بَابُ قَوْلِهِ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَأَذَى النَّاسِ الْفَاسِقِينَ (۱) نِسْبَةُ كَلَّوْنُهُ مِمَّا يَنْتَهِ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْخَطِّ الْإِسْمَاءِ

(۱۹۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَمَّا رَأَى آيَةَ مُحَمَّدٍ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ

ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمدؐ کی شان پر نماز پڑھتا دیکھوں گا

لَأَطَّانَ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَيْبَةِ قَوْمٍ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

تو ان کی گردن تاروں کا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرے گا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے

۹۷- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

۹۷- (سورہ) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ (التقدير)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

يَقَالُ لَمْ يَطْعَمْهُ هُوَ الظُّلْمُ وَالْمَطْعَمُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْعَمُ مِنْهُ أَنْزَلْنَاهُ

کہا جاتا ہے کہ لم يَطْعَمْهُ یعنی ظلم کے ہے اور مطعم وہ جگہ جہاں سے ظلم پڑے

الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْآنِ أَنْزَلْنَاهُ فَخَرَجَ الْجَمِيعُ وَالْمَنْزِلُ هُوَ اللَّهُ وَالْعَرَبُ

ہاں عرب سے قرآن مراد ہے انزلنا وہ جمع استعمال ہوا ہے حالانکہ آتانے والا اللہ ہے اس لیے عرب ایک فعل

تَوَكَّدَ فَعَلُ الْوَاحِدِ فَبَعَثَهُ بَلَفْظُ الْجَمِيعِ لِيَكُونَ أَثْبَتٌ وَأَوْكَدٌ

میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسے جمع کے معنی سے ذکر کرتے ہیں تاکہ زیادہ مضبوط اور زور دار ہو

۹۸- لَمْ يَكُنْ

۹۸- (سورہ) لَمْ يَكُنْ (البینہ)

ملفوظات امی انفلذ میں حدیث کو دوہرایا ہے کہیں نہیں کسی لفظ کو دو صاحت معنی کے لئے بدل دیا ہے مثلاً ان روایا الصالحہ کی جگہ الروایا الصادقة ہے جہاں الحق کی جگہ فضیلت الحق یعنی دفعتاً وحی اتری پہلی وحی کی دو بار مرتباً آیات لکھی ہیں۔ میاں علی الاثنان عالمہ یوم تک پہنچ آتیں پوری کی ہر پر جعت فواد کئی جگہ ہے پر جعت بعد از گردن کا گوشت یعنی ہم پر بھی اڑ تھا بعد کے جواب میں اشہر کالفاظ پڑھا ہے کلام اللہ فرماتے۔ لتصل الرحم وخلق الكل کے درمیان پڑھا ہے تصدق الحدیث ورقہ کو ابن عمر خدیجی بتایا ہے لیکن جہاں

حضرت خدیجہ خطاب کرتی ہیں وہاں ہے یا عمر جو غلطی معلوم ہوتی ہے لیتے کون حیا اذ یجزجک قومک کی بجائے ہے ذکر حرف ایک بات کی۔ غامضہ پر فترا الوحی کی بجائے ہے۔ فترا الوحی فترة حتى رسول اللہ صلعم۔ صرت ایک فرق ہے۔ ۷۷ میں درتق کے ذکر میں ہے کہ وہ عبرانی لکھتا تھا اور انجیل کو بھی عبرانی میں لکھتا تھا۔ میاں اس کی بجائے ہے۔ ۷۷- وكان یکتب العربی وکتب من الانجیل بالعربیة وہ عربی لکھتا تھا اور انجیل کو بھی عربی میں لکھتا تھا۔ وہ عرب تھا اور جب عبرانی لکھتا تھا تو عربی فرود لکھتا ہوگا۔ آیا انجیل کو بھی عربی میں لکھتا تھا۔ اگر اس سے مراد ترجمہ ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ بقرہ سے پہلے عیسائی انجیل کا ترجمہ کرنا درست نہ سمجھتے تھے۔ اور انجیل کے تراجم بہت بعد کے زمانے کی اصلاح ہے۔ ۷۷- ملط قریبا کے الفاظ میں ہی حدیث کو دوہرایا ہے۔ آخر الرجحی تشریح یوں کی ہے۔ قال ابو سعید وہی الاذنان التي كان اهل الجاهلیة یعبدون قال ثم تتابع الوحی ۷۷- مکرر روایت بہت محقر ہے۔ قالت اول ما بینی بدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الروایا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ ذرک الاکرم ۷۷- کے الفاظ میں ۷۷- میاں لفظیوں میں ہیں۔ فوجع البصم الى حدیثه فقال زمونی زمونی فذکو الحدیث ۷۷

۱۰۲- الْمَاكِمُ

۱۰۲- (سورہ الماکم (التکاثیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ التَّكَاثُرُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

اور ابن عباس نے کہا (التکاثیر) مال اور اولاد کی کثرت

۱۰۳- وَالْعَصْرِ

۱۰۳- (سورہ العصر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

وَقَالَ يَحْيَىٰ الذَّهْرُ أَقْسَمُ بِهِ

اور یحییٰ نے کہا عصری زمانہ ہے اللہ نے اس کی قسم کھانی ہے

۱۰۴- وَيَلُّ لِكُلِّ هَمَزَةٍ

۱۰۴- (سورہ ويل لكل همزة (العنقره)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

الْحَطْمَةُ اسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقْرٍ وَاطَّ

الخطمة (م) دو رخ کا نام ہے جیسے سفوراویط

۱۰۵- أَلَمْ تَرَ

۱۰۵- (سورہ الم تر (القیل)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

قَالَ مُحَمَّدٌ أَبَا بَيْلٍ مُّتَابِعَةٌ فَجَمْعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِّنْ جَبَلٍ هِيَ سَنَكٌ وَكُلُّ

مجاہد نے کہا (ابابیل (۳) ہے درجے اکٹھا ہونے والے اور ابن عباس نے کہا من جبل (فارسی) نگا اور گل ہے

۱۰۶- لَا يَلِدْنَ وَلَا يُرْسِنْنَ

۱۰۶- (سورہ لا یلدن ولا یرسن)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَلِدْنَ وَلَا يَلِدْنَ أَلْفُؤَاذِلِكُ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي لِسْتَاءِ وَالصَّبِيغِ

لا یلدن (۱) قریش کو اس سے الفت ہو گئی تھی تو انہیں وہ جاڑے اور گرمی میں دشوار معلوم نہیں ہوتا تھا اور مجاہد نے کہا

وَأَمَّهُمْ مِّنْ كُلِّ عَدُوٍّ هُمْ فِي حَرَمِهِمْ

وآمنہم (۲) ان کے حرم میں ان کے ہر ایک دشمن سے رامن میں رکھا

۱۰۷- أَرَأَيْتَ

۱۰۷- (سورہ ارایت (الماعون)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کرنے والے کے نام سے

بار بار رحم

اللہ بے انتہا رحم والے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ الرِّجْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

بار بار رحم

کرنیوالے کے نام سے

قَالَ بَنُ عَيْنَةَ لِأَيُّ لَانَ لِنِعْمَةِ عَلِيٍّ قَرِيْبٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَدْعُ بِدَفْعِ عَنِ حَقِّهِ

ابن عینہ نے کہا لا یلاؤن القریب (۱) قریب پر میری نعمت کی وجہ سے اور مجاہد نے کہا یلاؤن (۲) اس کے حق سے لے کر جانے سے

يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَتْ يَدْعُوْنَ يَدْفَعُوْنَ سَاهُوْنَ لَاهُوْنَ وَالْمَاعُوْنَ الْمَعْرُوْفُ

کہا جاتا ہے وہ دعوت سے ہے ییعون (الطور - ۱۱۳) دھکیلے جائیں گے ساہون (۵) غافل اور ماعون (۶) ہر ایک بھلا کام

كَلَهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ الْمَاعُوْنَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَعْلَاهَا الرِّكَاتُ

اور بعض عرب نے کہا ہے کہ ماعون پانی ہے اور عکرمہ نے کہا ہے کہ اس کی اعلیٰ حالت فرض زکوٰۃ

الْمَعْرُوضَةُ وَأَدْنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ

اور ادنیٰ عاریت پر سامان کا دینا ہے

۱۰۸- إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ

۱۰۸- (سورہ) اِنَّا اعطيناك الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ الرِّجْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

بار بار رحم

کرنیوالے کے نام سے

وَقَالَ بَنُ عَيْنَانَ شَانِكَ عَدُوْكَ (۱۹۸۶) عَنْ اَسْنِ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِاللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ

اور ابن عباس نے کہا شانتک (۳) تیرا دشمن اس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَلَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَاتِنَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُوْءِ مَجُوفًا فَقُلْتُ مَا هَذَا

معرن ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک نہر پر بیٹھا جس کے دونوں کناروں پر اندر سے خالی موتیوں کے قبے تھے میں نے کہا

يَا جَبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكُوْثَرُ (۱۹۸۷) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

جبریل یہ کہے گا یہ کوثر ہے ابو عبیدہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے اللہ

عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ أَعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تعالیٰ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا انا اعطيناك الكوثر تو انہوں نے کہا کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی

شَارِطَنَاهُ عَلَيْهِ دَرَجَاتٌ مَجُوفَاتٌ اَلْبَيْتَةُ لَعْدِدِ الْجَوْوِمِ (۱۹۸۸) عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ فِي

ایکے دونوں کناروں پر فولاد رومی ہیں اس کے برتن تاروں کی گنتی کے برابر ہیں ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کوثر کے

اَلْكَوْثَرُ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِيْ اَعْطَاهُ اللهُ اَيُّهَا قَالَ أَبُو بَسْرَةَ قُلْتُ لِسَعْدِ بْنِ جَبْرِ اَنَّهُ قَالَ

بارہ میں لگا کہ وہ بڑی بھلائی ہے جو اللہ نے آنحضرت کو دی ہے ابو بشار روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا لوگ کہتے

النَّاسُ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي

وہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے تو سعید نے کہا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے وہ اس چیز میں سے ہے جو اللہ نے

۱۰۹- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

۱۰۹- (سورہ) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

آنحضرت کو دی ہے

۱۰۹- (سورہ) قُلْ

یا ایہا الکافرون (الکافرون)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ الرِّجْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

بار بار رحم

کرنیوالے کے نام سے

يُقَالُ لِكُلِّ دِيْنٍ يَكْفُرُوْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ وَلَا يَقْبَلُ دِيْنِيْ كَانَتْ اَلْاَيَاتُ بِاللُّوْنِ

کہا جاتا ہے کہ جو دین کو کفر ہے اور وہی دین (۶) اسلام ہے اور وہی اس کے نہیں فرمایا کہ آیتیں لوگوں کے ساتھ دھرم مونی ہیں

یٰ
مطلب یہ ہے کہ
یہ بھی کوثر کی لغتوں
میں سے ایک نعت
ہے۔ اور کوثر کے
معنی جو حضرت
ابن عباس نے
۱۵۸۸ میں بیان
کئے ہیں وہ ان
تمام چیزوں پر
حادی ہیں +

۱۹۸۸

خُذْتُ الْيَأْسَ كَمَا قَالَ يَهُدِيْنَ وَيَسْقِيْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

توئی گرا دی گئی جیسے کہا یہودین اور یسقیین اور وہ مسروں نے کہا لا اعبد ما تعبدون (۲) اس وقت بھی

الآن وَلَا أُجِيبُكُمْ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِي وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَهُمْ الَّذِينَ

تہاے مجھوں کی عبادت نہیں کرتا اور اپنی عمر کے باقی حصے میں بھی تمہاری بات کو نہیں مانوں گا ولا انتم عابدون ما اعبدون (۳) اور یہ وہ

قَالَ وَلَئِنْ زِدْتَنِي كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَعْنًا نَأُو كَفَرًا

لوگ ہیں کہ ایشے نے فرمایا کہ جو تیری طرف اتارا گیا اس کی وجہ سے ان میں سے بتوں کی سرکشی اور کفر بڑھ جائیگی (۴) (۶۸)

۱۱۰۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ

(۱۱۰۔ سورہ) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِشْرَافِ اَنْتَارِ حَمْدِ وَالْاَشْرَافِ اَنْتَارِ حَمْدِ

(م۔ ۲۵۳۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (م. متکرم۔ ۲۸۷) (م۔ ۲۵۳۵) عَنْ

دیکھو حدیث ۲۸۷

عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (م. متکرم۔ ۲۸۷) (م. ۲۵۳۵) عَنْ

دیکھو حدیث ۲۸۷

فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (م۔ ۲۵۳۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا (م. متکرم۔ ۱۶۲۲)

میں فوج ورفوج داخل ہوتے دیکھئے

(۲) بَابُ قَوْلِهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَوَابًا

باب اللہ تعالیٰ کا قول فسبح باسم ربك واستغفر له (۳) تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس کی حفاظت مانگے ہر جمع رحمت کرنا اور توبہ

عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْتَّوَابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ (م۔ ۲۵۳۷)

بندوں پر توبہ رحمت کرنا اور لوگوں میں سے تواب (توبہ ہے) جو گناہ سے رجوع کرے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا (م. متکرم۔ ۱۶۲۲)

دیکھو حدیث ۱۶۲۲

۱۱۱۔ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

(۱۱۱۔ سورہ) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (اللب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِشْرَافِ اَنْتَارِ حَمْدِ وَالْاَشْرَافِ اَنْتَارِ حَمْدِ

پارہ باروم

قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح قالوا افتر المدائن والعصير قال ما تقول يا ابن عباس قال اجل او مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعت له

نفسه - یعنی جب مجھ پر نصرت آگئی اور آپ کا کام ختم ہو گیا تو اب آپ کے چلنے کا وقت بھی پہنچ گیا تو گویا اس نصرت کی خبر میں اور سچ کے حکم میں اشارہ

آپ کی وفات کی طرف ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا استدلال تھا۔ اور ۱۶۲۲ میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اس میں ہی اشارہ سمجھتا ہوں۔

۱۶۲۲ میں اشارہ تفصیل ہے۔ قال کان عمر بن الخطاب مع اشياخ بن ركان بعضهم وجداني نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا

ابناء مثله فقال عمر انه من حيث علمتم من عادات يوم فادخله معهم فمنا ريت انه دعاني يومئذ لا ليرهم قال ما تقولون في قول الله تعالى

اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا محمد الله ونستغفره اذا نصونا وفتح علينا وركت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي اكدان تقول

يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له قال اذا جاء نصر الله والفتح ذلك علامة اجلاء

فسبح محمد ربك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول +

۱۔ یہاں سورت کے نزول کا ذکر بڑھایا ہے۔ اور فی رکوعہ و سجودہ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ماصطائبہ صلے اللہ علیہ وسلم صلواتہ بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر الله والفتح والا یقول فیہا سبحانک ربنا وجمدک اللهم اغفر لی +

کتاب التفسیر

کتاب التفسیر

کتاب التفسیر

کتاب التفسیر

تَبَابُ خُسْرَانَ تَتَيَّبُ تَدْوِيْرًا (م- ۲۵۳۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكر- ۱۹۲۸)

تباب الرمن - ۳۴ تبابی تتيب (دهور ۸۲) بركت ديكھو حديث ۱۹۲۸ ع

(۱) بَابُ قَوْلِهِ وَتَبَّ مَا آخَنِي عِنْدَهُ مَا لَهْ وَمَا كَسَبَ (م- ۲۵۳۹) عَنْ ابْنِ

باب الله تعالى کا قول وتب الخ (۱) اور وہ بک ہو اس کا ماں اور جو اس نے کہا یا تھا اس کے کلام نہ آیا

عَبَّاسٍ (متكر- ۱۹۲۸) (۲) بَابُ قَوْلِهِ سَيَصِلُ نَادِرًا اِذَا تَ لَهَبٍ (م- ۲۵۴۰)

دیکھو حديث ۱۹۲۸ ع باب الله تعالى کا قول سيصل الخ (۲) وہ جلد غولوں الی تک میں ہوگا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكر- ۱۹۲۸) (۳) بَابُ قَوْلِهِ وَامْرَأَةٌ سَمَّالَةٌ اَلْحَطْبُ

دیکھو حديث ۱۹۲۸ ع باب الله تعالى کا قول و امرأه الخ (۳) اور اس کے عورت سمجھو

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمَّالَةٌ اَلْحَطْبُ تَمَشِي بِاللَّيْمَةِ فِي حَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ يُقَالُ

(۱) اور محمد نے کہا سمالة الحطب خنجر فی حیدها حبل من مسد (۲) کہا جاتا ہے

مِنْ مَّسَدٍ لَيْفُ الْمَقْلِ وَهِيَ السَّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ

من مسد (۲) درخت مقول کی مثال اور مراد وہ زنجیر ہے جو دوزخ میں ہے

۱۱۲- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

۱۱۲- (سورہ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (الاخلاص)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

يُقَالُ لَا يَتَوَكَّنُ أَحَدٌ أَيْ وَاحِدٌ (م- ۲۵۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۱۲۲۲)

کہا جاتا ہے کہ احد پر توین نہیں پڑھی جاتی (اور اس کے معنی ہیں) ایک دیکھو حديث ۱۲۲۲ ع

(۱) بَابُ قَوْلِهِ اللَّهُ الضَّمُّ وَالْعَرَبُ شَمِيحٌ أَتَمَّ أَفْهَامًا الضَّمُّ قَالَ بَدْرُ

باب الله تعالى کا قول الله الضم (۲) اور عرب اپنے سرداروں کو ضم سے یوم کرتے ہیں اور اول نے کہا ضم

هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي تَهْتَكِي سُدُودُهُ (م- ۲۵۴۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۱۲۲۲)

وہ سردار ہے جس میں سرداری انتہا تک پہنچی ہوئی ہو دیکھو حديث ۱۲۲۲ ع

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا وَكُفُوًا وَكُفُوًا وَكُفُوًا

لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد (۳) کفو اور کفوی اور کفادہ معنی برابر والا ایک ہی ہیں

۱۱۳- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

۱۱۳- (سورہ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (الفلق)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

ابو لہب تیا تک ما جمعنا الا لہذا اسم تام فزلت بتب ید الی لہب وتب وقد تب فلکن اقراھا الامش یومئذ الخ فی الفاظ میں ہے کہ اش سے روایت ہے کہ دن بھی اسی طرح پڑھتے تھے یعنی دن تب ملا یہاں لفظیوں میں :- ان النبی صلعم خرج الی البلاء فصعد الی الجبل فنادی یا صبا حاکہ فاجتمعت الیہ قریش فقال ادایتم ان حد شکر ان الحد ومصیحکرا وعتسیکرا کتھ تصد قونی قالوا نعم قال فانی ذن برکھ بن یسک عذاب شدید فقال ابو لہب الہذا جمعنا تیا تک فانزل الله عزوجل بتب ید الی لہب الی اخرھا ملا اس میں روایت کا صرف آخری حصہ دیا ہے قال ابو لہب تیا تک الحد اجمعنا فزلت بتب ید الی لہب ملا کہ روایت میں کچھ زیا وہ تفصیل ہے لفظ ۱۱۹۶ سے ہے :- عن النبی صلعم قال قال الله کذابی ابن ادم ولم یکن اہ ذک وشتمتہ ولم یکن لہ ذک فاما کذا بیہ ایای فقوله لمن یعین فی کہا ید الی ولین اول الخلق باہون علی من اعادته واما شتمہ

ملک لفظوں میں ہے کچھ فرق ہے۔ قال لما نزلت وامن رعدیونک اولا قریباً وھظک منہم المخلصین رادوسرے جلدیں صرف حضرت ابن عباس نے آیت قرآنی کی تفسیر کی ہے) خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صعد الصفا فہتف یا صبا حاکہ (صباحا) صبح سے ہے دشمن پر حد کے لئے یا حمد کے جواب کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لئے یہ آواز دیتے تھے اس لئے کہ عموماً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہوتا تھا، فقالوا من ہذا فاجتمعوا الیہ فقال ادایتم ان اخبرتک ان خیلا تخرج من سفو هذا الجبل اکتھ مصد قالوا ما جری علیک کذ یا قال فانی نذیر لکھ بین ید عذاب شدید قال

۱۱۹۶ ایای فقوله لمن یعین فی کہا ید الی ولین اول الخلق باہون علی من اعادته واما شتمہ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ غَارِسِيُّ اللَّيْلِ إِذَا وَقَبَ عُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَالُ أَيْبُنُ مِنْ فُرْقٍ وَفُلْنُ

اور مجاہد نے کہا غارس بنی غاسق (۱۳) رات ہے اذ وقت (۱۳) سورج کا ڈوب جانا کہا جاتا ہے وہ فرق یا فلق (۱۴) معنی

الضُّمُّ وَقَبٌ إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ (۱۹۸۹) عَنْ زُرَّيْبِ بْنِ حَبِيشٍ قَالَ

سے زیادہ روشن ہے (کہا جاتا ہے) وقت جب وہ ساری چیزیں گھس جائے اور اندھیرا ہو جائے

سَأَلَتْ ابْنُ بَنِي كَعْبٍ عَنِ الْمُعْرَظَاتِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں نے ابی بن کعب سے معرظتین کے بارہ میں پوچھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا

فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو آپ نے فرمایا جو کہ ہم ہر اتوار میں نے پڑھا تو ہم بھی (دوبارہ) پڑھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا

۱۱۴ - قَالَ عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(۱۱۴ - سورہ قل اعوذ برب الناس (الناس))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں

وَيَذُكُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَسْوَاسِ إِذَا أَوْلَدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

اور ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے الوسواس (۱۴) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان سے کو نجات کا ہے پس جب اللہ کا

عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ وَإِذْ لَمْ يَدْرِكْ اللَّهُ تَبَّتْ عَلَيَّ فَلْيَبْ (م- ۲۵۴۳) عَنْ زُرَّيْبِ

نام یا دیکھا جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے اور جب اللہ کا نام یاد نہ کیا جائے تو اس کے دل پر جرم جاتا ہے

(متکرر - ۱۹۸۹)

دیکھو حدیث ۱۹۸۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں

۶۶ - كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

۶۶ - قرآن کے فضائل کی کتاب

رَأَى بَابٌ كَيْفَ نُزِّلَ الْوَجْهِ أَوَّلُ مَا نُزِّلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُهَيَّمِينَ الْأَمِينِينَ

پا سب دیکھ کر کھاتری اور وہ پہلے نازل ہوا اور ابن عباس نے کہا مہیمن (الذمہ ۲۸۰) امین ہے

الْقُرْآنُ آمِينَ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (م- ۲۵۴۴) عَنْ عَالِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (متکرر - ۱۷۱۲)

قرآن ہر اس کتاب کے لیے ہے امین رہا محافظ ہے

تھی اس رب کو قرآن شریف نے اپنے اندر لے لیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے فضائل میں ایک بڑی بھاری فضیلت ہے کہ اس نے تمام آسمانی کتابوں کی صحیح تعلیم کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا اور جو نقص جو بوجہ تحریف ان کتابوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا اس کا علاج کر دیا۔ یہاں الفاظ میں قائلین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکہ عشرو ستین یُنزل علیہ القرآن وبالمدینۃ عشرا۔ ہذا حضرت ابی بن عباس کی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ میں نزول وحی کے بعد تیرہ سال رہے اور پندرہ دس سال مگر یہاں ساتھ یہ لفظ میں عشرو ستین یُنزل علیہ القرآن اور یہی لفظ ۲۸۰ میں گذر چکے ہیں جو ۲۴ م کی طرح حضرت عائشہ اور ابن عباس کی روایت سے تو شاید یہ کسی بعد کے راوی کی غلطی ہے۔ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ حضرت وحی کی مدت تین سال تھی۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وحی یُنزل علیہ القرآن تو اس میں سے صادق آیت کا جب یہی وحی نازل ہوئی۔ صحیح روایت تیرہ سال ہے۔

۱۱۴ - اس میں حضرت ابن مسعود کے قول کی تردید ہے ان کا یہ خیال تھا کہ معرظتین قرآن شریف میں سے نہیں۔ گویا وہ ختم قرآن کے طور پر کوئی الگ چیز ہے تو ابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ یہ سو تین مجھ پر بطور وحی گئیں تو میں نے انہیں لوگوں پر پڑھا یعنی یہ قرآن کریم کا ہی حصہ ہے۔

۱۱۴ - اس میں حضرت ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے الوسواس (۱۴) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان سے کو نجات کا ہے پس جب اللہ کا نام یاد نہ کیا جائے تو اس کے دل پر جرم جاتا ہے۔

۶۶ - قرآن کے فضائل کی کتاب

۶۶ - قرآن کے فضائل کی کتاب

۲۵۴۵-۲۵۴۶ عن ابي عثمان (متكرر - ۱۶۲۸) ۱۹۹۰ عن ابي هريرة قال قال النبي

صلى الله عليه وسلم ما من اكل ياء نبي الا احطى ما مثله امن عليه الشجر

ورائنا كان النبي اوتيت وحيا او حاء الله الى فارجون ان يكون اكثرهم

تابعوا يوم القيمة ۱۹۹۱ عن انس بن مالك ان الله تعالى تابع على رسول

صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول

الله صلى الله عليه وسلم بعد (۲۵۴۶-۲۵۴۷) عن جندب (متكرر - ۶۱۵)

باب نزول القرآن بلسان قريش العرب فرانا عربيا بلسان عربي مبين

(۲۵۴۷-۲۵۴۸) عن صعق بن بعل (متكرر - ۸۲۰)

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من اكل ياء نبي الا احطى ما مثله امن عليه الشجر

ورائنا كان النبي اوتيت وحيا او حاء الله الى فارجون ان يكون اكثرهم

تابعوا يوم القيمة ۱۹۹۱ عن انس بن مالك ان الله تعالى تابع على رسول

صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول

الله صلى الله عليه وسلم بعد (۲۵۴۶-۲۵۴۷) عن جندب (متكرر - ۶۱۵)

باب نزول القرآن بلسان قريش العرب فرانا عربيا بلسان عربي مبين

(۲۵۴۷-۲۵۴۸) عن صعق بن بعل (متكرر - ۸۲۰)

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من اكل ياء نبي الا احطى ما مثله امن عليه الشجر

ورائنا كان النبي اوتيت وحيا او حاء الله الى فارجون ان يكون اكثرهم

تابعوا يوم القيمة ۱۹۹۱ عن انس بن مالك ان الله تعالى تابع على رسول

صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول

الله صلى الله عليه وسلم بعد (۲۵۴۶-۲۵۴۷) عن جندب (متكرر - ۶۱۵)

باب نزول القرآن بلسان قريش العرب فرانا عربيا بلسان عربي مبين

(۲۵۴۷-۲۵۴۸) عن صعق بن بعل (متكرر - ۸۲۰)

عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من اكل ياء نبي الا احطى ما مثله امن عليه الشجر

ورائنا كان النبي اوتيت وحيا او حاء الله الى فارجون ان يكون اكثرهم

تابعوا يوم القيمة ۱۹۹۱ عن انس بن مالك ان الله تعالى تابع على رسول

صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول

ملک حدیث کو تکرار کیا ہے۔ اس حدیث کے یہاں لائن کی یہ غرض ہے کہ جس نسل بھی انسان کی صورت میں آپ پر وحی لاتے تھے۔ اس کے لئے دیکھو نوٹ ۵ صفحہ ۲۰ - نیز اس حدیث کے لئے دیکھو نوٹ ۵ صفحہ ۸۴ حضرت عائشہ کی حدیث اس پر شاہد ہے۔ دیکھو نوٹ ۵ حدیث صفحہ ۸۵ کربئی صلعم تو جبریل

کو دیکھتے تھے مگر دوسرے لوگ نہ دیکھ سکتے تھے۔ ملک کی روایت انکے سے نہیں بلکہ شفقی نظارہ سے ہو سکتی ہے۔ یعنی روحانی رنگ میں یہ قرآن کریم اور حدیث کا سلسلہ اصول ہے۔ جملہ ما مثله امن علیہ الشجر سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی کو ایسا نشان دیا گیا کہ اس کے مطابق اس پر لوگ ایمان لائے یعنی وہ بجا راست ایسے تھے کہ جن لوگوں کے سامنے ہوتے تھے وہ تو ان کو دیکھ کر ان پر ایمان لائے آتے تھے لیکن آہستہ آہستہ روز زمانہ سے ان لوگوں کی شہادت اس قابل نہ رہی کہ وہ بنائے ایمان ہو سکے ہیں ہر عجز کا اثر ایک مانہ تک محدود ہوتا لیکن وہ مجبور ہو کر یہ قرآن کریم صلعم کو دیا گیا وہ قرآن شریف جو جس کی اشرقی امت تک پہنچا اور پھر یہ آج تک بھی جو بخش ہے تبھی قرآن کریم کو پڑھا جو وہ اس مجبور سے متاثر تھے بغیر نسل پہنچا گیا ہے۔ یعنی اس وقت سے ہی فرق ہو کر اس کی اشرقی امت باقی رہی اور قیامت تک اس پر ایمان لائے رہیں گے اس دوسرے معجزات کا انکا مقصود نہیں کیونکہ وقتی معجزات بھی آنحضرت صلعم کو دئے گئے جن کا ذکر کی موجود ہے۔ یہ گو یا قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ جملہ وفات کے قریب زمانے میں وحی کا زیادہ نزول ہوا۔ اس میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کامل کرنے کے لئے اس میں ہر قسم کے ضروری امور کو جمع کر دیا گیا اور ویسے بھی تعلقات اور معاملات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔

ص میں لانے کا منشاء تھا۔

يُغَازِي أَهْلَ السَّامِ فِي فُجْرٍ أَرْبَعِينَ وَأَذْرِبِحَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَنْزَعُ حَذِيفَةَ

شام والوں کو عراق والوں کے ساتھ ملا کر اربعینہ اور اذربیحان کی فوج کے لئے جنگ کا انتظام کر رہے تھے اور حذیفہ لوگوں کی ذات اختلاف

اُخْتَلَفَ فِيهِمْ فِي الْغِرَاءِ فَقَالَ حَذِيفَةُ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذَا الْأُمَّةَ

کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے تو حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا امیر المؤمنین اس امت کی خبر لیں

قَبْلَ أَنْ يُخْتَلَفُوا فِي لِكِتَابِ خِثْلَابِ يَهُودٍ وَ النَّصَارَى فَأُرْسِلَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ

اس سے پہلے کہ وہ یہود اور نصاریٰ کی طرح قرآن میں اختلاف کریں سو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کو بلا لیا

أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَسْتَهَيِّجُ فِي لِمَصَاحِفِ ثُمَّ تَرَدَّهَا إِلَيْكَ فَأُرْسِلَتْ بِهَا

کہ صحیفہ ہمارے پاس بھیجیں ہم اسے صحیفوں میں نقل کر کے پھر اسے آپ کو واپس کر دیں گے تو حضرت حفصہ نے اسے

حَفْصَةَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَ

حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا تو انہوں نے زید بن ثابت عبد اللہ بن زبیر سعید بن العاص

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَخُذُوا هَؤُلَاءِ فِي لِمَصَاحِفِ وَقَالَ عُمَرُ لِلزُّهْرِيِّ

عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام کو حکم دیا انہوں نے اسے صحیفوں میں لکھا اور حضرت عثمان بنے قریش کے عین

الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَ زَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالْتَجُوا

آدمیوں کے گروہ سے فرمایا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت میں قرآن کی کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے قریش

يَلْسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَّلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا اسْتُخِذَ الصُّحُفُ فِي لِمَصَاحِفِ رَدُّ

کی زبان میں لکھو کیونکہ وہ انہیں کی زبان میں اترا ہے تو انہوں نے دیکھا یہاں تک کہ جب انہوں نے قرآن کو صحیفوں میں

عُمَرَ الصُّحُفِ إِلَى حَفْصَةَ وَأُرْسِلَ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ مِمَّنْ صُحُفٌ مِمَّا اسْتُخِذُوا

نقل کیا تو حضرت عثمان نے قرآن کو حضرت حفصہ کو واپس کر دیا اور ہر ایک علاقہ میں ایک نسخہ قرآن کا ان میں سے جو انہوں نے نقل

أَمْرٍ بِمَا سِوَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مَصْحُفٍ أَنْ يَحْرَقَ (۲۵۵۰)

کئے تھے بھیج دیا اور اس کے سوا جو صحیفے اور صحیفے تھے ان کے متعلق حکم دیا کہ جلا دیئے جائیں

عَنْ زَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ (متكرر- ۱۲۹۲)

دیکھو حدیث ۱۲۹۲

نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ خود مدینہ میں یا اس پاس کے مقامات میں ایسے اختلافات کا کوئی ذکر نہیں بلکہ عراق اور شام والوں کے اختلافات کا ذکر ہے۔ اور یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور قرأت کے اختلافات اور قرأتوں کی اصل حکمت کو نہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے اسے علاج یہ سوچا کہ مستند نسخے قرآن شریف کے ہر ایک ملک میں بھیجا دیئے جائیں۔ اور جو لوگ قرآن شریف کو لکھیں تو وہ اس مستند نسخے سے مقابلہ کر لیا کریں یا اس سے نقل لے لیا کریں تاکہ اختلافات کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے وہی نسخہ قرآن شریف کا لنگا لیا جو حضرت ابوبکر نے جمع کرایا تھا اور اس وقت حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان کا کام اس میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کے مستند نسخے سے چند اور نسخے نقل کر کے لکھ دیا اس کے سوائے دوسرے اوراق کو جلا دینا نہایت دشمنی کا کام تھا تاکہ مستند نسخے کے سوائے اور کسی جگہ سے نقل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ رہے۔ اور فتح الباری میں ایک روایت منقول ہے۔ من طریق مصعب بن سعد قال ادركت الناس متواضرين حين حرق عثمان المصاحف فاحجبهم ذلك او قال لم يتك ذلك منهم احد- یعنی اس فعل کو سب صحابہ نے پسند کیا اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور حضرت علی سے ایک روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ عثمان کے متعلق ایسی بات کے سوائے اور کچھ مت کہو کہ یہ مصاحف کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے مشورہ سے کیا۔ ہر ایک یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال فقدت آية من الاحزاب حين نسخت المصحف قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتسناها فوجدناها ما هم خزوة بن ثابت الانصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورة تها في المصحف- اس حدیث کے الفاظ اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ حضرت زید مرتضیٰ خورشید کو تلاش کے جمع کر رہے تھے۔ آیت انہیں خود یاد تھی اور وہ رسول اللہ صلعم سے انہوں نے سنی ہوئی تھی مگر اس کے متعلق کہتے ہیں فقدت آية اس کا پتہ نہ ملا۔ پھر کہتے ہیں فالتسناها پھر ہم نے اسے تلاش کیا۔ یہ پتہ نہ ملا اور تلاش مکانی طور پر تحریر کی گئی ہو سکتی ہے۔

۱۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ حذیفہ نے بعض اختلافات قرأت عراق اور شام والوں کے لئے تو وہ گھبرائے اور حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اس کا کچھ نہ کر سکتے۔ فتح اربعینہ ۳۷۲ ہجری کا واقعہ ہے اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق اور شام کے لشکر دونوں جنگ میں تھے اور اہل عراق عسما بن مسعود کی قرأت پڑھتے تھے۔ اور اہل شام ابی بن کعب کی اور یثرب و نبل باہم جھگڑتے تھے۔ تو اس سے حذیفہ کو فک ہو کر ان اختلافات کا اس طرح بڑھنا اچھا

۷۷) **بَابُ كَانِ جَبْرِئِيلُ يُعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاطِمَةَ**

باب جبرئیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے حضرت فاطمہ

عَلَيْهَا السَّلَامُ أَسْمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرِئِيلَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ

عیسا السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پر مجھے فرمایا کہ جبرئیل مجھے ہر سال قرآن ایک مرتبہ پڑھاتا کرتے

كُلِّ سَنَةٍ وَرَأَيْتُهُ عَارِضُنِي لِعَامٍ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاكَ إِلَّا حَضْرًا جَلِيًّا (م- ۲۵۵۸)

تھے اور انہوں نے اس سال دو مرتبہ مجھے قرآن سنایا اور میں اس سے پہنچتا ہوں کہ میری وفات کا وقت آج پہنچا ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۴) (م- ۲۵۵۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر- ۱۰۸)

۷۸) **بَابُ الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۵۶۰) عَنْ مَسْعُودٍ**

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حافظان قرآن

(متكرر- ۱۶۷۷) (۱۹۹۴) عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۶۷۷ شقیق سے روایت ہے کہ عبد اللہ نے ہمارے سامنے تقریر کی تو کہا اللہ کی قسم

لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَعَاوِ سَبْعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ستر سے کچھ اور سورتیں سنی ہیں اللہ کی قسم

لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّانِي مِنْ أَعْلَيْهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یقیناً جانتے ہیں کہ ان سب سے میں کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھتا ہوں اور میں

بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ فِي الْحَقِّ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَأْدًا يَقُولُ

ان سے افضل نہیں ہوں شقیق نے کہا میں دیکھوں میں بھی اور جو وہ کہتے تھے سننا تو میں نے کسی مرتبہ سے نہیں سنا کہ وہ

غَيْرَ ذَلِكَ (۱۹۹۵) عَنْ عُلْفَةَ قَالَ كُنَّا بِجَمُصٍ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ

اس کے خلاف کہتا ہوں علفہ سے روایت ہے کہ ہم جمص میں تھے تو ابن مسعود نے سورہ یوسف پڑھی

۱۷۷ اس تعلق کو امام بخاری نے علامت النبیہ پر وصل کیا ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے اور آگے مکرر آتا ہے جبرئیل رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے۔ سال دو دفعہ قرآن شریف کو پڑھا۔ اہل بیت کا ان کے صلے وجود الناس بالخیر واجود ما یکون فی شہر رمضان لان جبرئیل کلان یلقاھا فی کل لیلة فی شہر رمضان

حتى ينزلنا بعض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فاذا لقيه جبرئيل كان اجود بالخير من الروح المرسله اس مکرر حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے بعض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عنوان باب میں ہے کہ جبرئیل بعض قرآن کے صلے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے قرآن جبرئیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے تو معلوم ہوا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرئیل آپ کو ہر سال ہر دو مرتبہ ملاقات میں ہوتے اعتکاف کا ذکر ہے۔ یہاں ساتھ قرآن کریم کے دور کا بھی ذکر ہے۔ قال کان بعض علیہ صلے صلعم القرآن کل عام مرۃ فغرض علیہ مرتبہ فی العام الذی قبض کان یعتکف کل عام عشراً فاعتکف عشورین فی العام الذی قبض۔ گویا سال وفات کی یہ دو خصوصیتیں تھیں ایک یہ کہ جبرئیل نے قرآن شریف کا دور آپ کے ساتھ بجائے ایک دفعہ کرنے کے دو دفعہ کیا اور دوسرا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بجائے دس دن کے بیس دن کیا۔ لہذا قراءہ تازی کی جمع ہے جو قراء سے نکلا ہے اور قراء کے اصل معنی جمع کرنا ہیں۔ نہایت ہی ہے سنی القرآن قرآننا لانہ جمع القصص الامرو اللہی والوعدا والوعید والایات والسور بعضھا الی بعض۔ یہاں قراء سے مراد حافظان قرآن ہیں دیکھو عینی وفتح الباری من اشتہاراً لحفظ من القرآن وهم الذین قصدوا للتعلیم کا تباہ قسم ان میں سے امام بخاری نے ایک پر اکتفا کیا ہے۔ کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف لکھا جاتا تھا اسی طرح حافظان قرآن میں سے بعض کے نام لئے ہیں مگر ان میں حصہ مراد نہیں بلکہ یہاں اختصار ہے۔ ذکر عبد اللہ بن عمرو عبد اللہ بن مسعود فقال لا انزال احیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خذوا القرآن من اربعۃ من عبد اللہ بن مسعود وسالم ومعاذ ابی بن کعب۔ ان سے قرآن لکھنے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ حافظان قرآن تھے۔ یہ علامہ یہ ستر سورتیں وہ ہیں جو عبد اللہ بن مسعود نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی۔ باقی کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ وہ دوسرے سے سنی۔ فتح الباری میں ایک روایت منقول ہے۔ واخذت بقیۃ القرآن عن اصحابہ۔ مجھ سے علم لکھا اب اللہ کوئی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن شریف کسی کو یاد نہیں کیا۔ کیونکہ ہیرے کے سامنے قرآن کے حافظ تھے۔ اس سے مراد جو علم ہے اس کا ذکر آگے حدیث ۱۹۹۴ میں ہے۔ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم ابن انزلت ولا انزلت ایتہ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت

فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هَذَا نَزَلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

تو ایک آدمی نے کہا یہ سورت اس طرح میں اتاری تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کر سنا یا تو آپ نے فرمایا

أَحْسَنْتُ وَوَجَدْتُهُ رِيحًا خَيْرًا فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تَكْتُبَ بِلَتَابِ اللَّهِ وَتَتَشَوَّبَ

کہ تو نے اچھا پڑھا اور بن مسعود کو اس سے شراب کی بو آئی تو فرمایا کہ تو دو ماہوں کو اکٹھا کرتا ہے تو اب اللہ کی عیب کرنا ہے اور شراب

الْخَمْرِ فَضَمَّ بِهِ مُحَمَّدٌ (۱۹۹۶) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ الَّذِي

بھی پیتا ہے تو اس کو حد تک ہی لے رو سے روایت ہے کہ عبد اللہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا

لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مَنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيُّنَ أَنْزَلْتُ وَلَا

کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ میں سے کوئی سورت نہیں اتاری مگر میں جانتا ہوں کہ کون کون اتاری اور

أَنْزَلْتُ آيَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ مَعِيَمُ أَنْزَلْتُ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي

کتاب اللہ میں سے کوئی آیت اتاری مگر میں جانتا ہوں کہ کس بارہ میں اتاری ہے اور اگر میں کچھ جانتا کہ وہ کتاب اللہ کا علم

بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ الْآيَةُ لَوْ كَيْتُ الْبَيْدِ (م- ۲۵۴۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مکتور- ۱۶۹۳)

مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور وہاں تک اور نہ پہنچ سکتے ہوں تو میں سوار ہوں کہ اس کی طرف جاتا ہوں دیکھو حدیث ۱۶۹۳

(م- ۲۵۴۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مکتور- ۱۶۹۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ خُمُرٌ

دیکھو حدیث ۱۶۹۳ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا

أَبِي أَقْرَبُ وَأَوَّلُ مَا لَكَ مِنْ لَحْنِ أَبِي وَأَبِي يَقُولُ أَخَذْتَهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

ابنی ہم سب میں سے زیادہ قاری ہیں اور ہم اپنی کو بعض قراتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ابی کہتے ہیں کہ میں نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّكَ لَشَيْءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَسَخْتُ مِنْ آيَةٍ وَأَوْ

کے منہ سے سیکھا ہے نہیں اسے کسی وجہ سے نہیں چھوڑا کہتا اور ابن عباس نے فرمایا ہے ما نسخ من آية او

نَسَخَهَا نَأْتِي بِغَيْرِ مَنَهَا أَوْ مَثَلِهَا

نسخہ آتا ہے بغیر مَنہا اور مَثَلِهَا

۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶
۲۰۴۷
۲۰۴۸
۲۰۴۹
۲۰۵۰
۲۰۵۱
۲۰۵۲
۲۰۵۳
۲۰۵۴
۲۰۵۵
۲۰۵۶
۲۰۵۷
۲۰۵۸
۲۰۵۹
۲۰۶۰
۲۰۶۱
۲۰۶۲
۲۰۶۳
۲۰۶۴
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۷
۲۰۶۸
۲۰۶۹
۲۰۷۰
۲۰۷۱
۲۰۷۲
۲۰۷۳
۲۰۷۴
۲۰۷۵
۲۰۷۶
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
۲۰۸۰
۲۰۸۱
۲۰۸۲
۲۰۸۳
۲۰۸۴
۲۰۸۵
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۰۸۹
۲۰۹۰
۲۰۹۱
۲۰۹۲
۲۰۹۳
۲۰۹۴
۲۰۹۵
۲۰۹۶
۲۰۹۷
۲۰۹۸
۲۰۹۹
۲۱۰۰
۲۱۰۱
۲۱۰۲
۲۱۰۳
۲۱۰۴
۲۱۰۵
۲۱۰۶
۲۱۰۷
۲۱۰۸
۲۱۰۹
۲۱۱۰
۲۱۱۱
۲۱۱۲
۲۱۱۳
۲۱۱۴
۲۱۱۵
۲۱۱۶
۲۱۱۷
۲۱۱۸
۲۱۱۹
۲۱۲۰
۲۱۲۱
۲۱۲۲
۲۱۲۳
۲۱۲۴
۲۱۲۵
۲۱۲۶
۲۱۲۷
۲۱۲۸
۲۱۲۹
۲۱۳۰
۲۱۳۱
۲۱۳۲
۲۱۳۳
۲۱۳۴
۲۱۳۵
۲۱۳۶
۲۱۳۷
۲۱۳۸
۲۱۳۹
۲۱۴۰
۲۱۴۱
۲۱۴۲
۲۱۴۳
۲۱۴۴
۲۱۴۵
۲۱۴۶
۲۱۴۷
۲۱۴۸
۲۱۴۹
۲۱۵۰
۲۱۵۱
۲۱۵۲
۲۱۵۳
۲۱۵۴
۲۱۵۵
۲۱۵۶
۲۱۵۷
۲۱۵۸
۲۱۵۹
۲۱۶۰
۲۱۶۱
۲۱۶۲
۲۱۶۳
۲۱۶۴
۲۱۶۵
۲۱۶۶
۲۱۶۷
۲۱۶۸
۲۱۶۹
۲۱۷۰
۲۱۷۱
۲۱۷۲
۲۱۷۳
۲۱۷۴
۲۱۷۵
۲۱۷۶
۲۱۷۷
۲۱۷۸
۲۱۷۹
۲۱۸۰
۲۱۸۱
۲۱۸۲
۲۱۸۳
۲۱۸۴
۲۱۸۵
۲۱۸۶
۲۱۸۷
۲۱۸۸
۲۱۸۹
۲۱۹۰
۲۱۹۱
۲۱۹۲
۲۱۹۳
۲۱۹۴
۲۱۹۵
۲۱۹۶
۲۱۹۷
۲۱۹۸
۲۱۹۹
۲۲۰۰
۲۲۰۱
۲۲۰۲
۲۲۰۳
۲۲۰۴
۲۲۰۵
۲۲۰۶
۲۲۰۷
۲۲۰۸
۲۲۰۹
۲۲۱۰
۲۲۱۱
۲۲۱۲
۲۲۱۳
۲۲۱۴
۲۲۱۵
۲۲۱۶
۲۲۱۷
۲۲۱۸
۲۲۱۹
۲۲۲۰
۲۲۲۱
۲۲۲۲
۲۲۲۳
۲۲۲۴
۲۲۲۵
۲۲۲۶
۲۲۲۷
۲۲۲۸
۲۲۲۹
۲۲۳۰
۲۲۳۱
۲۲۳۲
۲۲۳۳
۲۲۳۴
۲۲۳۵
۲۲۳۶
۲۲۳۷
۲۲۳۸
۲۲۳۹
۲۲۴۰
۲۲۴۱
۲۲۴۲
۲۲۴۳
۲۲۴۴
۲۲۴۵
۲۲۴۶
۲۲۴۷
۲۲۴۸
۲۲۴۹
۲۲۵۰
۲۲۵۱
۲۲۵۲
۲۲۵۳
۲۲۵۴
۲۲۵۵
۲۲۵۶
۲۲۵۷
۲۲۵۸
۲۲۵۹
۲۲۶۰
۲۲۶۱
۲۲۶۲
۲۲۶۳
۲۲۶۴
۲۲۶۵
۲۲۶۶
۲۲۶۷
۲۲۶۸
۲۲۶۹
۲۲۷۰
۲۲۷۱
۲۲۷۲
۲۲۷۳
۲۲۷۴
۲۲۷۵
۲۲۷۶
۲۲۷۷
۲۲۷۸
۲۲۷۹
۲۲۸۰
۲۲۸۱
۲۲۸۲
۲۲۸۳
۲۲۸۴
۲۲۸۵
۲۲۸۶
۲۲۸۷
۲۲۸۸
۲۲۸۹
۲۲۹۰
۲۲۹۱
۲۲۹۲
۲۲۹۳
۲۲۹۴
۲۲۹۵
۲۲۹۶
۲۲۹۷
۲۲۹۸
۲۲۹۹
۲۳۰۰
۲۳۰۱
۲۳۰۲
۲۳۰۳
۲۳۰۴
۲۳۰۵
۲۳۰۶
۲۳۰۷
۲۳۰۸
۲۳۰۹
۲۳۱۰
۲۳۱۱
۲۳۱۲
۲۳۱۳
۲۳۱۴
۲۳۱۵
۲۳۱۶
۲۳۱۷
۲۳۱۸
۲۳۱۹
۲۳۲۰
۲۳۲۱
۲۳۲۲
۲۳۲۳
۲۳۲۴
۲۳۲۵
۲۳۲۶
۲۳۲۷
۲۳۲۸
۲۳۲۹
۲۳۳۰
۲۳۳۱
۲۳۳۲
۲۳۳۳
۲۳۳۴
۲۳۳۵
۲۳۳۶
۲۳۳۷
۲۳۳۸
۲۳۳۹
۲۳۴۰
۲۳۴۱
۲۳۴۲
۲۳۴۳
۲۳۴۴
۲۳۴۵
۲۳۴۶
۲۳۴۷
۲۳۴۸
۲۳۴۹
۲۳۵۰
۲۳۵۱
۲۳۵۲
۲۳۵۳
۲۳۵۴
۲۳۵۵
۲۳۵۶
۲۳۵۷
۲۳۵۸
۲۳۵۹
۲۳۶۰
۲۳۶۱
۲۳۶۲
۲۳۶۳
۲۳۶۴
۲۳۶۵
۲۳۶۶
۲۳۶۷
۲۳۶۸
۲۳۶۹
۲۳۷۰
۲۳۷۱
۲۳۷۲
۲۳۷۳
۲۳۷۴
۲۳۷۵
۲۳۷۶
۲۳۷۷
۲۳۷۸
۲۳۷۹
۲۳۸۰
۲۳۸۱
۲۳۸۲
۲۳۸۳
۲۳۸۴
۲۳۸۵
۲۳۸۶
۲۳۸۷
۲۳۸۸
۲۳۸۹
۲۳۹۰
۲۳۹۱
۲۳۹۲
۲۳۹۳
۲۳۹۴
۲۳۹۵
۲۳۹۶
۲۳۹۷
۲۳۹۸
۲۳۹۹
۲۴۰۰
۲۴۰۱
۲۴۰۲
۲۴۰۳
۲۴۰۴
۲۴۰۵
۲۴۰۶
۲۴۰۷
۲۴۰۸
۲۴۰۹
۲۴۱۰
۲۴۱۱
۲۴۱۲
۲۴۱۳
۲۴۱۴
۲۴۱۵
۲۴۱۶
۲۴۱۷
۲۴۱۸
۲۴۱۹
۲۴۲۰
۲۴۲۱
۲۴۲۲
۲۴۲۳
۲۴۲۴
۲۴۲۵
۲۴۲۶
۲۴۲۷
۲۴۲۸
۲۴۲۹
۲۴۳۰
۲۴۳۱
۲۴۳۲
۲۴۳۳
۲۴۳۴
۲۴۳۵
۲۴۳۶
۲۴۳۷
۲۴۳۸
۲۴۳۹
۲۴۴۰
۲۴۴۱
۲۴۴۲
۲۴۴۳
۲۴۴۴
۲۴۴۵
۲۴۴۶
۲۴۴۷
۲۴۴۸
۲۴۴۹
۲۴۵۰
۲۴۵۱
۲۴۵۲
۲۴۵۳
۲۴۵۴
۲۴۵۵
۲۴۵۶
۲۴۵۷
۲۴۵۸
۲۴۵۹
۲۴۶۰
۲۴۶۱
۲۴۶۲
۲۴۶۳
۲۴۶۴
۲۴۶۵
۲۴۶۶
۲۴۶۷
۲۴۶۸
۲۴۶۹
۲۴۷۰
۲۴۷۱
۲۴۷۲
۲۴۷۳
۲۴۷۴
۲۴۷۵
۲۴۷۶
۲۴۷۷
۲۴۷۸
۲۴۷۹
۲۴۸۰
۲۴۸۱
۲۴۸۲
۲۴۸۳
۲۴۸۴
۲۴۸۵
۲۴۸۶
۲۴۸۷
۲۴۸۸
۲۴۸۹
۲۴۹۰
۲۴۹۱
۲۴۹۲
۲۴۹۳
۲۴۹۴
۲۴۹۵
۲۴۹۶
۲۴۹۷
۲۴۹۸
۲۴۹۹
۲۵۰۰
۲۵۰۱
۲۵۰۲
۲۵۰۳
۲۵۰۴
۲۵۰۵
۲۵۰۶
۲۵۰۷
۲۵۰۸
۲۵۰۹
۲۵۱۰
۲۵۱۱
۲۵۱۲
۲۵۱۳
۲۵۱۴
۲۵۱۵
۲۵۱۶
۲۵۱۷
۲۵۱۸
۲۵۱۹
۲۵۲۰
۲۵۲۱
۲۵۲۲
۲۵۲۳
۲۵۲۴
۲۵۲۵
۲۵۲۶
۲۵۲۷
۲۵۲۸
۲۵۲۹
۲۵۳۰
۲۵۳۱
۲۵۳۲
۲۵۳۳
۲۵۳۴
۲۵۳۵
۲۵۳۶
۲۵۳۷
۲۵۳۸
۲۵۳۹
۲۵۴۰
۲۵۴۱
۲۵۴۲
۲۵۴۳
۲۵۴۴
۲۵۴۵
۲۵۴۶
۲۵۴۷
۲۵۴۸
۲۵۴۹
۲۵۵۰
۲۵۵۱
۲۵۵۲
۲۵۵۳
۲۵۵۴
۲۵۵۵
۲۵۵۶
۲۵۵۷
۲۵۵۸
۲۵۵۹
۲۵۶۰
۲۵۶۱
۲۵۶۲
۲۵۶۳
۲۵۶۴
۲۵۶۵
۲۵۶۶
۲۵۶۷
۲۵۶۸
۲۵۶۹
۲۵۷۰
۲۵۷۱
۲۵۷۲
۲۵۷۳
۲۵۷۴
۲۵۷۵
۲۵۷۶
۲۵۷۷
۲۵۷۸
۲۵۷۹
۲۵۸۰
۲۵۸۱
۲۵۸۲
۲۵۸۳
۲۵۸۴
۲۵۸۵
۲۵۸۶
۲۵۸۷
۲۵۸۸
۲۵۸۹
۲۵۹۰
۲۵۹۱
۲۵۹۲
۲۵۹۳
۲۵۹۴
۲۵۹۵
۲۵۹۶
۲۵۹۷
۲۵۹۸
۲۵۹۹
۲۶۰۰
۲۶۰۱
۲۶۰۲
۲۶۰۳
۲۶۰۴
۲۶۰۵
۲۶۰۶
۲۶۰۷
۲۶۰۸
۲۶۰۹
۲۶۱۰
۲۶۱۱
۲۶۱۲
۲۶۱۳
۲۶۱۴
۲۶۱۵
۲۶۱۶
۲۶۱۷
۲۶۱۸
۲۶۱۹
۲۶۲۰
۲۶۲۱
۲۶۲۲
۲۶۲۳
۲۶۲۴
۲۶۲۵
۲۶۲۶
۲۶۲۷
۲۶۲۸
۲۶۲۹
۲۶۳۰
۲۶۳۱
۲۶۳۲
۲۶۳۳
۲۶۳۴
۲۶۳۵
۲۶۳۶
۲۶۳۷
۲۶۳۸
۲۶۳۹
۲۶۴۰
۲۶۴۱
۲۶۴۲
۲۶۴۳
۲۶۴۴
۲۶۴۵
۲۶۴۶
۲۶۴۷
۲۶۴۸
۲۶۴۹
۲۶۵۰
۲۶۵۱
۲۶۵۲
۲۶۵۳
۲۶۵۴
۲۶۵۵
۲۶۵۶
۲۶۵۷
۲۶۵۸
۲۶۵۹
۲۶۶۰
۲۶۶۱
۲۶۶۲
۲۶۶۳
۲۶۶۴
۲۶۶۵
۲۶۶۶
۲۶۶۷
۲۶۶۸
۲۶۶۹
۲۶۷۰
۲۶۷۱
۲۶۷۲
۲۶۷۳
۲۶۷۴
۲۶۷۵
۲۶۷۶
۲۶۷۷
۲۶۷۸
۲۶۷۹
۲۶۸۰
۲۶۸۱
۲۶۸۲
۲۶۸۳
۲۶۸۴
۲۶۸۵
۲۶۸۶
۲۶۸۷
۲۶۸۸
۲۶۸۹
۲۶۹۰
۲۶۹۱
۲۶۹۲
۲۶۹۳
۲۶۹۴
۲۶۹۵
۲۶۹۶
۲۶۹۷
۲۶۹۸
۲۶۹۹
۲۷۰۰
۲۷۰۱
۲۷۰۲
۲۷۰۳
۲۷۰۴
۲۷۰۵
۲۷۰۶
۲۷۰۷
۲۷۰۸
۲۷۰۹
۲۷۱۰
۲۷۱۱
۲۷۱۲
۲۷۱۳
۲۷۱۴
۲۷۱۵
۲۷۱۶
۲۷۱۷
۲۷۱۸
۲۷۱۹
۲۷۲۰
۲۷۲۱
۲۷۲۲
۲۷۲۳
۲۷۲۴
۲۷۲۵
۲۷۲۶
۲۷۲۷
۲۷۲۸
۲۷۲۹
۲۷۳۰
۲۷۳۱
۲۷۳۲
۲۷۳۳
۲۷۳۴
۲۷۳۵
۲۷۳۶
۲۷۳۷
۲۷۳۸
۲۷۳۹
۲۷۴۰
۲۷۴۱
۲۷۴۲
۲۷۴۳
۲۷۴۴
۲۷۴۵
۲۷۴۶
۲۷۴۷
۲۷۴۸
۲۷۴۹
۲۷۵۰
۲۷۵۱
۲۷۵۲
۲۷۵۳
۲۷۵۴
۲۷۵۵
۲۷۵۶
۲۷۵۷
۲۷۵۸
۲۷۵۹
۲۷۶۰
۲۷۶۱
۲۷۶۲
۲۷۶۳
۲۷۶۴
۲۷۶۵
۲۷۶۶
۲۷۶۷
۲۷

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُكُمْ

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے

أَنْ يُقْرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْتَانَا

کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ہر ایک رات ایک تہائی قرآن پڑھے۔ یہ بات ان کو دشوار معلوم ہوئی اور کہنے لگے یا رسول

يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْمَوْجِدُ الصَّمَدُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ

اللہ تم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے فرمایا اللہ الواحد المصمد تہائی قرآن رکھتا ہے

(۱۲) بَابُ فَضْلِ الْمُعْوِذَاتِ (۲۵۴۳)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۶۲ ج ۱۹۹۷ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفِيَّةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا مَقْرَأَ

ہر رات جب اپنے بچھونے پر جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیران دونوں میں پھونکتے پھر

فِيهِمَا قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُلُّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ

دونوں ہاتھوں میں قل هو الله احد قل اعوذ برب العالمین قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے پیران دونوں کو

بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ

اپنے بدن پر جہاں تک ہوسکتا تھا مٹتے تھے سر پر سے شروع کرتے اور چہرہ پر اور اپنے بدن کے اگلے حصے پر

يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (۱۵) بَابُ تَزْوِيلِ لِسَانِكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

دیجاتے اس طرح تین مرتبہ کرتے تھے پڑھ کر قرآن پڑھنے کے وقت سکینے اور ملائکہ کا آنا

(۱۹۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو

وَقُرْسُهُ مَرُّوْطٌ عِنْدَ كَرَاهِيَّتِهِ فَسَكَتَتْ فَسَكَتَ النَّفْسُ فَسَكَتَ النَّفْسُ فَسَكَتَ النَّفْسُ

اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا انہیں گھوڑا کوڑنے لگا وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا پھر وہ پڑھنے لگے تو گھوڑا کوڑنے

فَسَكَتَتْ النَّفْسُ ثُمَّ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَانصرفت وكان ابنه يحيى قريبا

گادہ خاموش ہوئے تو پھر گھوڑا ابھی گھوڑا پھر وہ پڑھنے لگے تو گھوڑا کوڑنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کا بیٹا بھی گھوڑے کے قریب تھا

فَمِنْهَا فَاشْفَقْنَا أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا أَجْتَرْنَا رَفَعْنَا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا

پس انہیں ڈر ہوا کہ گھوڑا اسے تکلیف دے تو جب انہوں نے اسے کھینچا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا یہاں تک کہ اسے نہ دیکھا جاسکے کوئی

فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرَأَ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ

چیز درمیان میں حال ہو گئی جب وہ صبح اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے فرمایا ابن حضیر پڑھ

يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَّيْحَنِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا

پڑھ کہا یا رسول اللہ میں ڈرا کہ مجھے گھوڑا روند نہ ڈالے وہ اس سے قریب تھا

فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانصرفت إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَذَا امْثَلُ الظِّلِّ

تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف چلا تو میں نے آسمان کی طرف سراٹھایا تو بالکل طرح کوئی چھڑو بھی

فِيهَا امْتِثَالُ الْمَصَابِيحِ فَوَجَّحْتُ حَتَّى كَأَنَّهَا قَالَتْ وَتَذَرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا

جس میں چراغ سے نظر آئے پھر میں باہر نکلا یہاں تک کہ وہ میری نگر سے اوجھل ہو گیا آپ فرمایا میں معلوم ہے یہ کیا تھا انہوں نے

۱۸۶۲
۱۹۹۷

۱۱
یہاں لفظ میں ہیں
ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
کان اذا اشتک
یقرأ علی نفسه
بالمعوذات و
ینثقل فلما اشتک
وجه کنت اقرا
علیه و امسح بیده
رجله برکتها

۱۹۹۷

قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَّتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَا صَبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا
 فرمایا یہ فرشتے تھے تماری آواز کی وجہ سے قریب آگئے تھے اور اگر تم پڑھتے چلے جاتے تو صبح داور لوگ بھی انہیں دیکھتے

تَمَوَّازِي مِنْهُمْ رَابِعٌ مِنْ قَالٍ لَمْ يَأْتِكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا
 ان سے پور شدہ نہ رہتے ملا رابع جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چھوڑا

بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ (۱۹۸) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَادُ
 دونوں تختیوں کے درمیان ہے عبد العزیز بن رفیع سے روایت ہے کہ میں اور شداد بن معقل

ابْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَدَادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتْرَكَ
 ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو شداد بن معقل نے ان سے کہا کہ نبی کریم

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ قَالَ وَ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا انہوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا مگر وہی جو دو تختیوں کے درمیان ہے لہذا

دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَمَسَلْنَا عَنْهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّقَّتَيْنِ (۱۹۸) بَابُ
 ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے ان سے بھی پوچھا تو فرمایا کہ اچھے کچھ نہیں چھوڑا مگر وہی جو دو تختیوں کے درمیان ہے لہذا

فَضِيلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ (۱۹۹) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 دوسرے سب کلاموں پر قرآن کی فضیلت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مِثْلَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَأَلَّا تَرْتَحِي طَعْمَهَا طَيِّبٌ وَرَيْحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
 جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ چھوڑا

كَالْتَمْرَةِ طَعْمَهَا طَيِّبٌ وَلَا رَيْحُ لَهَا وَمِثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الرَّجُلِ
 کی طرح ہے جس کا ذائقہ اچھا ہے اور خوشبو کوئی نہیں اور اس فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے

رَيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمِثْلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْحَنْظَلَةِ
 جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا

طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رَيْحُ لَهَا (۲۰۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر) (۲۰۰) بَابُ
 جس کا ذائقہ کڑوا ہے اور اس کی خوشبو کوئی نہیں ہے

۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰

کشفی نظارہ ہے گھوڑے کا بدن اسی وجہ سے تھا یا اتفاق تھا کہ اس کی وجہ سے اسید کی توجہ دوسری طرف ہوتی اور انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر
 دیکھا تو وہ نظارہ دیکھا ترین قیاس ہی دوسری بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ابر کی کیفیت اس وقت بھی موجود تھی جب اسید نے قرآن شریف کا پڑھنا بند کر
 دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھوڑے کی طرف آئے اور انہوں نے یہ کیفیت اسی وقت دیکھی اس سے پہلے نہیں دیکھی یعنی جب قرآن شریف پڑھ رہے تھے
 اس وقت نہیں دیکھی تو نزول سکینہ یا نزول ملائکہ کی کیفیت ان کے ساتھ ہونے کے وقت بھی موجود تھی مگر گھوڑا اس وقت نہ بدلتا تھا، علامہ عینی سے ہے کہ
 یہ باب ان شیعوں کے روئے سے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ جو حضرت علی کی امامت کے متعلق تھا وہ صحابہ نے ضائع کر دیا مگر سادھی اس سے ان کو یوں کا
 قول بھی رو ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیات منسوخ النکاح بھی ہیں جو بنی المدینہ میں موجود نہیں قرآن دہی ہے جو بنی المدینہ میں ہے اور یہی عمل قرآن ہے۔ علامہ
 ایک روایت حضرت ابن عباس کی ہے اور دوسری محمد بن حنفیہ کی جو حضرت علی کے فرزند ہیں کہ آنحضرت صلعم نے بنی المدینہ کے سوائے اور کچھ نہیں چھوڑا اور یہ
 شیعوں پر تمام جہت ہے۔ علامہ بیہ حصہ میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا مگر دوسرے حصہ میں لفظ فاجر لاکر بتا دیا ہے کہ سیدہ جعدہ میں وہ مومن مراد جو قرآن شریف
 پر عمل کرتا ہے اس کو اس حدیث کی مکرر روایت ۲۵۹۲ میں صاف کر دیا ہے جہاں یہ لفظ آتے ہیں المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کالآترة۔ دونوں
 مثالوں میں قرآن کے پڑھنے کو خوشبو سے مثال دی ہے۔ اور عمل کو طعم یا مزے سے کیونکہ عمل پر عمل ملتا ہے۔ اچھا عمل ہو تو اچھا پھل جیسے نارنگی اور اعلیٰ ہو
 تو برا پھل جیسے حنظل۔ اور پڑھنے کو خوشبو سے اس لئے مثال دی ہے کہ خوشبو سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لئے جو کوئی بھی قرآن پڑھے مومن ہو یا فاجر
 تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے۔ بعض روایات میں فاجر کی بجائے لفظ منافق ہے مگر میرے نزدیک فاجر
 ہی صحیح ہے۔ علامہ مکرر روایت کچھ مختصر ہے۔ - عن النبی صلعم قال انما اجل کونی اجل من خللا من الالام کمابین صلاة العصور ربانی برصلنا

۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰

رقبہ صفحہ ۱۲۱۱

ومغرب الشمس
ومشکره ومثل
اليهود والنصار
كمثل رجل استعمل
عمالا فقال من
يعمل لي الى نصف
النهار اتي راط
فعلت اليهود
فقال من يعمل
لي من نصف
النهار الى العصر
فعلت النصار
ثم اتهم تعلمون
من العصور الى
المغرب بقراطين
قراطين قالوا
نحن اكثر عملا
واقل عطفا قال
هل ظلمتكم من
حكمة قالوا لا
قال فذالك لفضل
او تبه من شئت
دیکھو نوٹ ۵۷
صفحہ ۱۵۱۰

صفحہ ۱۵۱۰

(۱۸) بَابُ الْوَصَاةِ بِلِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (م- ۲۵۶۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۷۱)

باب ۱۸: بَابُ الْوَصَاةِ بِلِقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (م- ۲۵۶۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۷۱) دیکھو حدیث ۱۲۷۱

(۱۹) بَابُ مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ يَكْفُرُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (م- ۲۵۶۷)

باب ۱۹: بَابُ مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ يَكْفُرُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (م- ۲۵۶۷) جو نہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا قول اس میں یہ کافی نہیں کرے گا کہ تم نے کفر سے کتنا تیری

الکتاب يتلى عليهم (م- ۲۰۰۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر اتنی توجہ نہیں فرمائی جتنی تو مجھ پر فرمائی ہے

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر اتنی توجہ نہیں فرمائی جتنی تو مجھ پر فرمائی ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ يُجَهِّدُ بِهِ (م- ۲۵۶۷)

جب وہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھتے ہیں اور انکے پاس ہے کہ قرآن کو آواز سے پڑھتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۷۱) بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

دیکھو حدیث ۱۲۷۱ باب ۲۰: بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ قرآن والے پر رشک کرنا

(م- ۲۵۶۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ (م- ۶۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۷۱) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ

دیکھو حدیث ۶۷۷ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک نہیں کرنا چاہئے مگر دو چیزوں میں ایسے شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے

يَتْلُوهُ آثَاءَ اللَّيْلِ وَآثَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارُهُ فَقَالَ كَيْتَنِي أَوْ بَيْتَ مِثْلَ مَا أَدْوَى

رات اور دن کے اوقات میں پڑھتا ہے تو اس کا پڑوسی سن لیتا ہے اور کہتا ہے کاش مجھ کو بھی وہ علم دیا جاتا جو فلاں کو دیا

فَلَا تَفْعَلْ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يَهْلِكُ فِي حَقِّ فَقَالَ كَجِدْ

گیا ہے اور میں بھی وہی کرتا جو وہ کرتا ہے اور ایسے شخص پر جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کر لے تو دوسرا

كَيْتَنِي أَوْ بَيْتَ مِثْلَ مَا أَدْوَى (م- ۲۱) بَابُ خَيْرِ كَرَمٍ

شخص کہتا ہے کاش مجھ کو بھی دیا جاتا جس طرح اسکو دیا گیا ہے تو میں بھی ایسی طرح کرتا جس طرح وہ کرتا ہے ملا

بَابُ خَيْرِ كَرَمٍ (م- ۲۱) دیکھو نوٹ ۵۷

بَابُ خَيْرِ كَرَمٍ (م- ۲۱) دیکھو نوٹ ۵۷

بَابُ خَيْرِ كَرَمٍ (م- ۲۱) دیکھو نوٹ ۵۷

کہ جس سے مراد ہے کہ دوسرا شخص یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی ایسا علم دیا جائے جیسا کہ فلاں کو دیا گیا ہے

۲۰۰۵	عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي بَدَأَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَأَعْلَمَنَّ بِمَنْ تَعَاهَدُوا	ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی خبر گیری کرو اس ذات کی قسم
۲۰۰۶	لَقَسِيْ بِيَدِهِ الْهُوَ أَشَدُّ لِقَاصِيًّا مِنْ الْأَرَبِ فِي عَقْلِهِمَا ۲۰۰۶	جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ان اونٹوں سے بھی جلد چھوٹ جائیگا لہذا ہے جتنے لکھنے رسول سے باز ہے ہوتے ہوں باب قرآن کا جانور رسول
۲۰۰۷	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ رَمَتَكَ ۲۰۰۷	دیکھو حدیث ۱۸۳۲ (۲۰۰۷) باب تَعْلِيمُ الصَّبِيَّانِ الْقُرْآنَ
۲۰۰۸	عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ إِنْ الْذِي تَدْعُوهُ الْمَفْصَلُ هُوَ الْمَكْرَمُ قَالَ وَ	سعد بن جبیر سے روایت ہے فرمایا کہ جن رسولوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ مکرم ہیں
۲۰۰۹	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاجِبٍ وَمَالٍ يَوْمَ - تَمِيمٌ دَسَّ سَالًا كَمَا تَهْتَكُ أَدْرَسَ	ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ مال ہوا - تیس دنوں کا تھا
۲۰۱۰	قَرَأَتْ الْمُحْكَمَ رَم - ۲۰۱۰	دیکھو حدیث ۲۰۰۶ باب تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ كَمَا
۲۰۱۱	الْقُرْآنَ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا أَوْ كَذَا أَوْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى سَتَقْرَأُكَ فَكَلِمَاتُ اللَّهِ	بھول اور کیا کوئی یوں کہ سکتا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کا قول ہم تجھے پڑھائیں گے پس تو نہیں بھولے گا
۲۰۱۲	مَا شَاءَ اللَّهُ رَم - ۲۰۱۲	ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہے رات گئے - دیکھو حدیث ۱۲۴۵
۲۰۱۳	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَم - ۲۰۱۳	دیکھو حدیث ۱۲۴۵
۲۰۱۴	مَتَكَرَر - ۲۰۱۴	دیکھو حدیث ۲۰۰۴ باب مَنْ لَمْ يَرِ بِأَسَانٍ يَقُولُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ
۲۰۱۵	كَذَا أَوْ كَذَا رَم - ۲۰۱۵	دیکھو حدیث ۲۰۰۴ باب مَنْ لَمْ يَرِ بِأَسَانٍ يَقُولُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ
۲۰۱۶	عَمْرٍو مَتَكَرَر - ۲۰۱۶	دیکھو حدیث ۱۱۵۸ (۲۰۱۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کہا کہ ان میں زیادہ تر اصولی باتیں ہیں + مطہر صحیح نہیں کہ حضرت ابن عباس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دس سال تھی۔ فتح الباری میں جو کابل زب نے حضرت ابن عباس کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے قرار دی ہے۔ اور بخاری کی حدیث میں گزر چکا کہ حضرت ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی میں نماز پڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا اور انابو مندقہ ناہزت الاحتمام میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس وقت ابن عباس کی عمر تیرہ چودہ سال ہوگی + مگر اس کے لفظوں میں یہ مدت الحکمہ فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلت لہ واما الحکمہ قال المفصل + یہاں روایت مختصر ہے۔ + قالت سمع النبی صلعم رصلا یقر فی المسجد فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا او کذا ایہ من سورۃ کذا + تشریح کے لئے دیکھو نوٹ صفحہ نمبر ۵۸ + مگر یہاں صرف یہ لفظ ہے۔ + وقال اسقطتھن من سورۃ کذا + مگر یہاں لفظ ہوں ہیں۔ + قالت سمع رسول اللہ صلعم رجلا یقر فی سورۃ البلیل فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا او کذا ایہ کنت اسیہما من سورۃ کذا او کذا + یہاں یہ لفظ ہیں۔ + قال قال النبی صلعم فالاشم یقول نسبت ایہ کیت دیکت بل ہوئی + مگر یعنی سورۃ کا نام سورۃ البقرہ وغیرہ رکھنے میں ہرج نہیں + مگر وہی لفظ ہیں۔ + قال عبد الرحمن والا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ + مگر یہاں ۵۵۵ سے زیادہ تفصیل ہے اور لفظ قریباً وہی ہے جو ۲۵۵ کے ہیں + مگر یہاں لفظ صرف اس قدر ہیں۔ + قالت سمع النبی صلعم اللہ علیہ وسلم قارئاً یقر من البلیل فی المسجد فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا او کذا ایہ اسقطتھن من سورۃ کذا او کذا +

۱۔ اپنے حصہ کو
 احب ان اسمع
 من غیری تک
 انہی الفاظ میں
 بیان کیا ہے
 یعنی اگر کسی کو
 قرآن شریف سنا
 کو کہا جائے تو اسے
 یہ کہہ دینے میں ہرج
 نہیں کہ اب بس کرو
 اس مکرر روایت
 کو قریباً انہی الفاظ
 میں دوہرایا ہے
 جو ۱۹۰۳ کے ہیں
 صرف یہ فقرہ چھوڑ
 دیا ہے قال فانی
 احب ان اسمع
 من غیری۔ اور
 فاذا عیت لک
 تذرفان سے پہلے
 فالتفت الیہ
 پڑھایا ہے
 ملا مطلب یہ ہے
 کہ سارا قرآن شریف

(۳۲) بَابٌ مِنْ أَحَبِّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ رَم - ۲۵۸۲ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

باب تک جو پسند کرے کہ قرآن دوسرے سے سنے

(متکرر۔ ۱۹۰۳) (۳۳) بَابٌ قَوْلِ الْمُعَرِّىِّ لِلْقَادِرِيِّ حَبِّكَ (م - ۲۵۸۳)

دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا باب تک پڑھو لے والے کا پڑھنے والے کو کہنا کہ تیرے لئے کافی ہے ملا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متکرر۔ ۱۹۰۳) (۳۴) بَابٌ فِي كَيْفِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ

دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا باب تک کہنے دونوں میں قرآن پڑھا جائے ملا اور

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَقْرَأُوا مَا تَشَاءُونَ قَالَ ابْنُ شَبْرَمَةَ نَظَرْتُ كَمَا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ

اشق تالی کا قول پڑھو جو تم کو اس سے آسان معلوم ہو اور الملائ ۲۰ ابن شبرمہ نے کہا میں نے غور کیا کہ آدمی کے لئے قرآن میں سے کس

الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ

قدر پڑھنا کافی ہے تو تین آیتوں سے کم کوئی سورت میں نہ پائی تیس نے کہا کہ کسی کو نہ سب میں

يَقْرَأُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ (م - ۲۵۸۴) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (متکرر۔ ۱۹۰۳)

کرتین آیتوں سے کم پڑھے دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا

(م - ۲۵۸۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متکرر۔ ۱۹۰۳) (۳۵) بَابٌ

دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا

(متکرر۔ ۱۹۰۳) (۳۶) بَابٌ فِي كَيْفِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ

دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا باب تک

الْبِكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (م - ۲۵۸۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متکرر۔ ۱۹۰۳)

قرآن پڑھتے وقت رونا دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا

(م - ۲۵۸۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر۔ ۱۹۰۳) (۳۷) بَابٌ مِنْ رَأْيِ بَقْرَةَ

دیکھو حدیث ۱۹۰۳ ملا باب تک جو باریکاری سے قرآن پڑھے

کہنے دونوں میں ختم کیا جائے ۱۔ تعلق کا تعلق عنوان باب سے کچھ نہیں۔ اس لئے کہ عنوان میں ہے کہ قرآن شریف کہنے دونوں میں ختم کیا جائے اور تعلق کا مضمون یہ ہے کہ کم سے کم کتنی آیات کا ایک وقت میں یعنی ایک رکعت میں پڑھنا کافی ہے ۲۔ ملا یہاں لفظ یوں ہیں۔ لقیہتہ دھور یعنی اوسنی بیوقوف بالہیت فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفناہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو آیتوں کا پڑھنا بھی کافی ہے۔ پس اس لحاظ سے کوئی حد بندی نہیں کہ کم سے کم کتنی آیتیں ایک وقت میں پڑھی جائیں ۳۔ ملا الفاظ اور مضمون میں فرق ہے۔ ۱۹۰۳ میں صرف روزوں کا ذکر ہے یہاں اس کے ساتھ قرآن شریف کے ختم کرنے کا بھی ذکر ہے۔ قال انکھتہ ابی امراة ذات حسب نکان یتعاہد کنتہ (بیٹے کی بیوی یا ہور) فیسا لها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رحل لم یطأ لنا فراشاں ہائے فرش پر پاؤں نہیں رکھا، مقاربت سے کہیہ ہے، ولم یفتش لنا کفناں ہائے ستر یا پردہ کی تفتیش نہیں کی اس میں بھی اشارہ مقاربت کی طرف ہے، هذا یتناہد فلما طال ذلک علیہ ذکر لیلین صلی اللہ علیہ وسلم فقال یقنہ بہ فلقیتہ بعد فقال کیف تصوم قال کل یوم قال وکیف تقتم قال کل لیلۃ قال صم فی کل شہر ثلاثۃ وقرأ القرآن فی کل شہر قال قلت اطیق اکثر من ذلک قال اطیق اکثر من ذلک قال صم افضل الصوم صوم داود صیام یوم وافتار یوم وافتار کل سبعم لیا لمرقا رات میں قرآن ختم کر لیتے قلت رخصۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الی کبرت ووضعت نکان یقرأ علی بعض اہلہ السبعم من القرآن بالنہار الذی یقرؤ کا یعرضہ من النہار لیکون اخعت علیہ باللیل واذ اراد ان یتقوی اذطرا یا ما را حصے رایام فطاری کنتی رکعتہ و صام مثلہن کراہیۃ ان یتک شیئا فارت النبی صلعم قال ابو عبد اللہ وقال بعضہم فی ثلاث و فی خمس و اکثرہم علی سبعم ۱۹۰۳ یہاں صرف یہ لفظ ہے۔ قال لیلین صلعم فی کم تقرأ القرآن ۲۔ ملا یہاں یہ لفظ ہے قال قال رسول اللہ صلعم اقرأ القرآن فی شہر قلت انی اجن قوۃ حقہ قال فاقرأہ فی سبعم ولا تر د علی ذلک ۳۔ ملا قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے اس کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلعم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ۴۔

۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰

۱۶۱۵	الْقُرْآنُ أَوْ تَأْكُلُ بِهِ أَوْ يَجْرِي بِهِ رَمًا - ۲۵۹۰ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متكرر - ۱۶۱۵)
۱۶۱۶	یا سے کھانے کا ذریعہ بنائے یا اس کے ذریعہ گناہ کرے دیکھو حدیث ۱۶۱۵
۱۶۱۷	۲۵۹۱ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متكرر - ۱۶۱۷) ۲۵۹۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
۱۶۱۸	دیکھو حدیث ۱۶۱۷
۱۶۱۹	(متكرر - ۱۹۹۹) ۳۷۰۱ - يَا دَاؤُدُ الْقُرْآنُ مَا أَتَلَفْتَ قُلُوبَكُمْ ۲۰۱۰ - عَنْ
۱۶۲۰	دیکھو حدیث ۱۹۹۹
۱۶۲۱	جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا
۱۶۲۲	جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے رہو جس تک
۱۶۲۳	أَتَلَفْتُمْ قُلُوبَكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِقْوُوا أَعْنَهُ رَمًا - ۲۵۹۳ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ
۱۶۲۴	تمہارے دل جمع ہوں اور جب تم میں اختلاف ہو تو اس سے اٹھ جاؤ دیکھو حدیث
۱۶۲۵	۲۰۱۰ - ۲۵۹۳ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۱۱۵۵)
۱۶۲۶	دیکھو حدیث ۱۱۵۵

۶۷- کتاب النکاح

کتاب النکاح ۶۷

۱۶۲۷	۱) بَابُ الرَّغَيْبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
۱۶۲۸	باب نکاح کے متعلق رغبت دلانا اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فانکحوا النسا میں جو بڑا نیک اور جو تمہیں پسند
۱۶۲۹	۲۰۱۱ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بَيْتِ
۱۶۳۰	ہوں تھے انس بن مالک سے روایت ہے تین آدمیوں کی ایک جماعت

من الذين هروا من السهم من الرمية وهاں ساتھ یہ لفظ رھسائے ہیں یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوتان۔ اسی لئے حدیث باب میں ان کے قتل کرنے کو ثواب قرار دیا ہے کہ وہ خود مسلمانوں کے قاتل ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ بات اگر خروج پر صادق آتی ہے تو آج بھی ایک رنگ میں مسلمانوں کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کفار کو کچھ نہیں کہتے۔ ۱۶۱۷۱۱ کا پہلا حصہ چھوڑ دو یا بے اور پچھلا حصہ بھی اختصار سے بیان کیا ہے۔ قال سمعت رسول الله يقول يخرج فيكم قوم يخفون صلواتكم مع صلواتهم وهاں مکرم مع صیبا معہم وسمکم مع عملہم وبقرون القرآن لا یجأؤوا حنا جوہم بیقرن من الذين کما یرق السهم من الرمية ینظر فی النصل، قال یزید شینا وینظر فی الفکر فلا یزید شینا وینظر فی الریش فلا یزید شینا وہی تادی رنگ سے راوی کو کفر کی کال لفظ آنحضرت نے فرمایا یا نہیں یا پھر جلائے والے کو شک ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا اثر کوئی نہیں مافی الفوق تیر کی وہ جگہ جو قوس کے وتر سے بنتی ہے یہ دیکھو تو شہدہ صحیحہ ۸۳۵ + ۸۳۶ میں لفظ یوں ہیں، عن النبی صلعم قال المؤمن الذی یقرأ القرآن ویبعل یدہ کا ترجمہ طعمہا طیب وریحها طیب والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن ویبعل یدہ کالترتہ طعمها طیب ولا یرح لها مثل المناق الذی یقرأ القرآن کالرھانہ تریحھا طیب وریحھا امر وفضل المناق الذی لا یقرأ القرآن کالحنظلة طعمھا مرک وخبثت وریحھا مرک مکمل وجمع ہونے سے مراد نشاط خاطر ہے یعنی دل جمعی ہوا و طبیعت میں اس سے نشاط پیدا ہو۔ اختلاف سے مراد ایک دوسرے سے اختلاف قرأت کے معانی میں لیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے فہم معانی میں اختلاف مراد ہو۔ ۱۶۱۷۱۱۱۱ الفاظ دو ہر آئے ہیں + ۱۶۱۷۱۱۱۱۱۱ الفاظ میں حدیث کو دو ہر آیا ہے۔ آخر قال شعبۃ أظنہ قال لا یختلفوا الخ کی بجائے ہے ابو علی قال فان ہرکان قبلکہم اختلفوا فانہم کم ابو علی رضی عنہ روایات میں اکثر صحیحی ہے کہ نفعی ہیں میرا غالب علم یا غالب ظن یہ ہے + ۱۶۱۷۱۱۱۱۱۱ مفردات میں ہے کہ نکاح کے اہل معنی عقد ہیں۔ اور استعاراً جامع پر بھی بولا جاتا ہے + ۱۶۱۷۱۱۱۱۱۱ بخاری نے اس آیت کو ترغیب نکاح پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ کیونکہ اس میں فانکحوا امر کے طور پر ہے۔ ایک اور آیت جس میں نکاح پر زور دیا گیا ہے سورہ نور میں ہے وانکحوا الا یاہلی منکم والصالحین من عبادکم واما انکم والنور - ۳۲ +

(۲۰۱۲) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ حَضْرَى كَأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةٌ مَبْمُونَةٌ بِسُورَةِ فَقَالَ

عطاء سے روایت ہے کہ ام ابن عباس کے ساتھ حضرت مہرونہ کے جنازہ پر تمام سورت میں حاضر ہوئے تو ابن

ابن عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَارُ فَعَتَمُ نَعْتَهَا فَلا

عباس نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو نہ اسے جنبش نہ

تُرْعَعُوها وَلَا تَزْلُزُوها وَلَا تَفْقُوها فَإِنَّهٗ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْعَ

اور نہ اسے ہلاؤ اور آرام سے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو بیویاں تھیں آٹھ کے لئے

كَانَ يَقْسِمُ لِسُتْمَانَ وَلَا يَقْسِمُ لِوَأَحِدَةٍ (م- ۲۵۹۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۲۱۰) زَمْتُ كَرْدِ

رباری تقسیم کرتے تھے اور ایک کے لئے نہ کرتے تھے بلکہ

(۲۰۱۳) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتَ لا

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا کیا تم نے نکاح کیا ہے میں نے کہا نہیں

قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَلْتَزَّهَا سَاءَ (م- ۲۱۰) بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ سَمِعَ

کہا تو نکاح کرے اس جماعت میں سب سے افضل وہ ہیں جن کی بیویاں زیادہ تھیں بابت جو ہجرت یا کوئی نیک کام کی عہد

خَيْرُ الزَّوْجِ نَيْبِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى (م- ۲۵۹۸) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (م- ۱۹۱)

سے نکاح کی غرض سے کرے تو اس لئے وہی جو وہ نیت کرے

(۲۱۰) بَابُ تَزْوِجِ الْمَعْسُورِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهْلٌ

بابت ایسے نکلنے کا نکاح کرنا جس کے پاس قرآن اور اسلام ہو اس بارہ میں سہل

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۵۹۹) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (م- ۱۹۱)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بلکہ

رقیبہ صفحہ ۱۲۱۸
کہ یہ اجازت تھی
حالات میں دی
کئی ہے مسلمانوں
کو جب عرب کے
کفار کہیں تہمتیں
میش آئیں تو ان
میں سے مرد جنگوں
میں مارے جاتے تھے
جتنی اولاد تھیں وہ
جاتی تھی تو ان حالات
میں جب یتیمی کے
حقوق اور طرح پر
تحفظ نہ ہو سکیں
یہ اجازت دی گئی
کہ ان بیوہ عورتوں
کو جن کے یہ یتیم
بچے ہیں دو تین
جاتے نکاح میں
تے یہاں جائے جاچ
اسی سورت کی آیت

۱۲۸ اس مفہوم کی صحت کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری شرط عدل عانت الفاظ میں مذکور ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک عورت سے زیادہ نکاح میں نہ لاؤ۔
پس ایک سے زیادہ عورت کو نکاح میں لانا بھی صرف اجازت ہے جو ان دو شرائط سے مشروط ہے۔ یہ حکم نہیں اور نہ ہی اجازت عام ہے۔ (صحیح ہذا)
بلکہ یہ حضرت سووہ تھیں جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دیدی تھی کہ کندہ بہت ضعیف ہو گئی تھیں مگر رسول اللہ صلعم ان کے پاس بھی نہ تریف لے جاتے تھے ہ
بلکہ یہاں اختلاف ہے اور کچھ اختلاف بھی۔ ان النبی صلعم کان یعطون علی سائہ فی لیلۃ واحدۃ ولہ تسع نسوة۔ منطاس میں بجائے لیلۃ کے ہے
فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار یعنی رات یا دن میں کسی وقت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھومنا ان کے حالات کی دریافت کے لئے تھا۔
اور بجائے تسع نسوة کے وہاں ہے احدی عشر یعنی گیارہ بیویاں۔ وفات کے وقت آنحضرت صلعم کی بیویوں کا ذکر انابیش میں ہے۔ یعنی سووہ۔
عائشہ۔ حفصہ۔ ام سلمہ۔ زینب بنت جحش۔ مام حبیہ۔ جو یہ یہ مصفیہ مہرونہ ان کے علاوہ دوسریں بیوی آپ کی باریہ قبیلہ تھیں جبکہ بطرح ابراہیم پیدا ہوئے۔ زینب
بنت خزیمہ بھی آپ کی ازواج مطہرات میں شامل تھیں اس طرح ممکن ہے کسی وقت گیارہ بیویاں بھی اٹھی رہی ہوں۔ مسلمان الفاظ میں اشارہ رسول
اللہ صلعم کی طرف ہے۔ یعنی میں ہے۔ فان خیر ہذہ الامۃ المراد وہ رسول اللہ صلعم لانہ اکثرنا من غیرہ والامۃ الجماعۃ۔ اور لکھتے کہ
اس امت کی تخصیص اس لئے کی کہ انبیاء میں بعض ایسے بھی گذرے ہیں جن کے ہاں بیویوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ تھی۔ جیسے حضرت داؤد باقر
سلیمان۔ ان الفاظ کے یہ معنی کرنا کہ اس امت میں بہتر نہ وہ شخص ہوگا جس کی بیویاں بہت زیادہ ہوں قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ قرآن کہتا ہے
چاہے حد بندی کرتا ہے۔ علاوہ بریں یہ تو کچھ زمانہ کہ باو شاہوں کا خلاف شریعت فعل ہے کہ کئی کئی سینکڑوں عورتیں گھر میں ڈال لیتے تھے۔ ان کی اس
کا یہ مطلب ہوگا کہ جو شخص دو چار ہزار عورت گھر میں ڈال لے وہ ابو بکر عمر سے بھی افضل ہو گیا، علاوہ بریں ان الفاظ سے خطاب اس شخص کو کیا جاتا ہے جو جز
تھا اور اس کے گھر میں ایک بھی بیوی نہ تھی تو اہل عرب کے اسے صرف نبی کریم صلعم کی سنت کی طرف توجہ دلانا تصحیح ہوتا کہ آپ نے تو ایک سے زیادہ نکاح کئے۔
اور تم ایک بھی نہیں کرتے، بلکہ قریباً وہی لفظ میں۔ انہا الاعمال بالذات کی طرف سے الذمیل بالذنیۃ دیکھو نوٹ علی صفحہ ۱۲۸ سہل کی روایت
بہت ظاہر گذر چکی ہے اور اب تصحیح میں ۲۵۹۰ پر یہاں یہ ذکر ہے کہ جس کا نکاح کرایا گیا اسے کچھ قرآن شریف حفظ تھا اور مال اس کے پاس کچھ بھی
نہ تھا۔ بلکہ یہاں یہاں کیا ہے۔ قال کنذوہم النبی صلعم اللہ علیہ وسلم لیس انانساء فقلنا یا رسول اللہ الانسان خصی
فہا ناسن ذلت

معاہدہ ہوا
 سے بیان کیا ہے
 قال قدم عبد
 الرحمن بن عوف
 فأخى النبي صم
 بنته وبن سعد
 بن الربيع الأحمق
 وعنه لا يفتا
 امرأتان فوض
 عليه أن يأنصفت
 أهله وقال فقال
 بآرك الله لك في
 أهلك ومالك
 وولي على نسوة
 فأتى السوق فبعت
 شيئاً من أقطو
 شيئاً من صمن
 فزأه النبي صلى
 الله عليه وسلم
 بعد أيام وعليه
 وضوء من صفرة
 فقال ميمياً
 عبد الرحمن فقال
 تزوجت أنصافاً
 قال فما سقت
 قال وزن نواة
 من ذهب قال
 اولم ولو بقفاة
 بل تبس من
 في القطر حواذ
 بيان لادانقطاع
 عن النساء سوا
 خصاص خفيين کو
 نکال دینا ہے
 مستقریب قریب

(۷) يَا بَنِي قَوْمِ لَرَجُلٍ لَأَخِيهِ أَنْظُرَ أَيَّ ذَوْجَتِي شِئْتِ حَتَّى أَنْزَلَ لَكَ عَنْهَا

بارک ایک شخص کا اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ دیکھو میں میری دو بیویوں میں سے کون سی آپ کو پسند ہے تاکہ میں آپ کے لئے اس سے
 ذَوَاكَ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (م۔ ۲۶۰۰) عَنْ ابْنِ مَالِكٍ (متکرد۔ ۱۰۲۰)

ابن ماجہ اور ابن ابی عمیر نے روایت کی ہے
 (۸) يَا بَنِي مَا يَكْرَهُهُ مِنَ الثَّيْبِ وَالْإِخْصَاءِ (م۔ ۲۶۰۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ

یابن ماجہ ترک نکاح اور طہنی ہونے کو ناپسندیدہ ہے
 سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ رَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَتَمَانَ

میں نے سعد بن ابی وقاص کو فرماتے ہوئے سنا
 ابْنِ مَطْعُونِ الثَّقَلِيِّ وَأَوْ أَدْنَى لَهُ لَأَخْتَصِيئاً (م۔ ۲۶۰۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

روکا تھا
 اور اگر آپ اسے اجازت دیتے تو ہم بھی ہرگز نہیں

وَقَاصٍ (متکرد۔ ۲۰۱۴) (م۔ ۲۶۰۲) عَنْ حَبِيبِ اللَّهِ (متکرد۔ ۱۹۱۲) (۲۰۱۵)

دیکھو حدیث ۲۰۱۴
 دیکھو حدیث ۱۹۱۲
 عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ وَقَدْ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کما میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں اور

أَنَا أَخَافُ عَلَى رَفْسِي الْعَنْتِ وَلَا أَحَدٌ مَّا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّي

میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے
 اور میں کچھ پاتا نہیں جس سے عورتوں کے ساتھ نکاح کروں آپ چپ رہے

ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ

میں نے اسی طرح کہا
 تو آپ چپ رہے پھر میں نے اسی طرح کہا تو آپ چپ رہے پھر

قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جِئْتَ الْقَلَمَ

میں نے اسی طرح کہا
 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جس چیز کو تو یا نبی اللہ ہے اس پر

بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَأَخْتَصِمُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرِّهِ) يَا بَنِي رَكَحِ الْأَبْكَارِ قَالَ

قلم خطب ہو گا اور اب تو جا رہے تو کسی بن یا چھوڑ دے
 یا بانی کنواریوں کا نکاح اور ابن

ابن عباس نے حضرت عائشہ سے کہا
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا

(۱۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ تَزَلَّتْ

حضرت عائشہ سے روایت ہے
 کما میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے اگر آپ کسی

وَأَدْبَارُ وَنِيَّةٍ شَيْخَةٍ قَدْ أَكَلَتْ مِنْهَا وَوَجَدَتْ شَيْخًا لَمْ يُوَكَلْ مِنْهَا فِي إِيَّاهُ أَنْتَ

واوی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ہو جس کا کچھ حصہ کھا یا گیا ہو اور آپ کو ایک درخت ایسا بھی ملے جس سے کھانا یا کھیا ہو تو آپ

تَزَوَّجُ لِيَعْبُدَكَ قَالَ فِي لَدُنِي لَمْ يَزَعْ مِنْهَا لَعَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کسی درخت میں اپنے اپنے اونٹوں کو چرائیں گے آپ نے فرمایا اس میں سے کونسی نہیں چرا حضرت عائشہ کا منہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

وہی لفظ میں ملے گا تو وہی الفاظ ہیں۔ لیس معنا لسانہ کی فکر ہے لیس کہ اشعری مطلب وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تو کچھ

بس حالت پر پیدا کرنا تھا کہ یا اب تو جس طرح چاہے کہ یعنی خدا کی اس تحریر کو قبول کرو اور جس حالت پر پیدا کی ہے اس حالت پر رہو یا اس کے خلاف اپنے آپ

کو خضی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں اختیار دیا کہ اپنے آپ کو خضی کریں بلکہ اس میں تہدید ہے جیسے من شاء فلیرث من وورہ شاء فلیرث یعنی تم اس

کا نتیجہ بھگت لیگے۔ تم کے خشک ہوجانے سے یہ مراد ہے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون بدل نہیں سکتا۔

لَمْ يَنْزَوْجْ بِكَوْغَيْرِهَا م- ۲۶۰۳ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۰)

ان کے سوا کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا۔ دیکھو حدیث ۱۰۲۵

بَابُ النِّسَاءِ وَقَالَتْ أُمُّ حَنِيبَةَ قَالَ لَيْسَ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرَضَنَّ

باب بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا اور حضرت ام حنیبہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی

عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ م- ۲۶۰۴ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر)

بہنیاں اور بہنیں میرے سامنے نہ پیش کرو۔ دیکھو حدیث

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۵ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۱) بَابُ

۱۰۲۵ دیکھو حدیث ۱۰۲۵

تَزْوِجِ الصَّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ (۱۰۲۵) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چھوٹی عورتوں کا نکاح بڑی عورتوں سے ہلا۔ عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ لَمَّا آتَا أَحْوَكَ فَقَالَ أَنْتِ

حضرت ابوبکر کو حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں فرمایا آپ اللہ کے

أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ (۱۲) بَابُ الرِّجَالِ إِلَى مَنْ يَنْكُحُ وَأَيُّ

اور اس کی کتاب میں میرے بھائی ہیں اور وہ آپ کی صاحبزادی میرے لئے حلال ہے۔ بائبل کیسی عورت سے نکاح کرنا کہ

النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يَسْتَحْتُمُ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِئِهِ مِنْ غَيْرِ أَيِّهَا (۲۰۱۸) عَنْ أَبِي

ی عورتیں اچھی ہیں اور پسندیدہ امر ہے کہ اپنے نطفہ لینے والے سب عورت پسند کرے۔ فرض نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے

هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكَبْنَ الْإِبِلَ

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں ان کا

صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيبٌ أَحْسَنُ عَلَى وَلَدٍ فِي صُغُرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

سے سب سے اچھی قریشی ایک عورتیں ہیں اپنے بچے پر اچھے ہیں نایت مرہبان ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی نگہبان ہیں۔

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۳ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۰) ان کے سوا کسی اور کنواری سے نکاح نہیں کیا۔ دیکھو حدیث ۱۰۲۵

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۴ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر) بہنیاں اور بہنیں میرے سامنے نہ پیش کرو۔ دیکھو حدیث

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۵ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۱) بَابُ تَزْوِجِ الصَّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ (۱۰۲۵) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چھوٹی عورتوں کا نکاح بڑی عورتوں سے ہلا۔ عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حضرت عائشہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں فرمایا آپ اللہ کے

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۵ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۱) بَابُ الرِّجَالِ إِلَى مَنْ يَنْكُحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يَسْتَحْتُمُ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِئِهِ مِنْ غَيْرِ أَيِّهَا (۲۰۱۸) عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكَبْنَ الْإِبِلَ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں ان کا

۱۰۲۵ م- ۲۶۰۵ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۰۲۵) (۱۱) بَابُ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيبٌ أَحْسَنُ عَلَى وَلَدٍ فِي صُغُرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ سے سب سے اچھی قریشی ایک عورتیں ہیں اپنے بچے پر اچھے ہیں نایت مرہبان ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی نگہبان ہیں۔

یابنیں آپ پر پیش کرنے سے روکا اس لئے کہ آپ تو ہمیشہ نفس سے نکاح نہ کرتے تھے بلکہ وہ نکاح فاسد مصالح پر نہیں تھے۔ اگر تو ہمیشہ نفس سے نکاح ہوتے تو کنواری عورتوں کو پسند کرتے، ملک اختیار کرے اور کچھ مضمون میں بھی فرق ہے۔ اور نکاح کی فروخت کا ذکر ہاں چھوڑ دیا ہے۔ قال قلنا نعم النبي صلعم غزوة فتجملت عليا بعد لي فظنوني فلقطني ركب من خلقه فخص بي عيري بعزتي كات معه فاندخلت بعيري كاجود ما انت رار من الابل فاذا النبي صلعم فقال ما يعيبك قلت كنت حديث عهد بعريس قال بكرة ام ثدبا قلت نيك قال فها لا حارة تلاعبها وتلاهاك قال فلما ذهبتا اندخل قال اهلاوا حتى تدخلوا ابلا اى عشاء نيك تمتشط الشعثة رر الكده بالول والى الكعبي كرى، وتستعد راسترا استعمال كرى، المعبية روه عورت جس کا خون غیر حاضر رہا ہے، یہاں صرف جابر کی شادی کا ذکر ہے باقی سب چھوڑ دیا ہے۔ يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلعم ما تزوجت قلت تزوجت ثيبا فقال مالك العن ادى ولما بها فن كرت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلعم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ان دونو حدیثوں میں آپ کے کنواری عورتوں سے شادی کرنے کو ترجیح دی ہے لیکن بائیں خود بولے حضرت عائشہ کے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نکاح محض بعض مساعروں کے ماتحت تھے، ملا یعنی ایسا نکاح جائز ہے جس میں عورت کی عمر اور مرد کی زیادہ ہو جس طرح یہاں حضرت عائشہ کے آنحضرت صلعم کے ساتھ نکاح سے یہ استدلال کیا گیا ہے اسی طرح حضرت خدیجہ کی آنحضرت کے ساتھ شادی سے یہ استدلال بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کی عمر کم ہو اور عورت کی زیادہ تو وہ نکاح بھی جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نکاح ایک دوسرے کی پسندیدگی پر منحصر ہے۔ اس میں ہر کے یکساں ہونے کی کوئی قید نہیں، بلکہ یہ درست ہے کہ حضرت عائشہ نکاح کے وقت نابالغ تھیں مگر یہ واقعہ کہ اور زولہ شریعت سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے اس سے نابالغ لڑکی کے نکاح پر استدلال نہیں ہو سکتا، اور اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں سے مزاج عرب کی عورتیں ہیں ان میں سے قریش کی عورتوں کو سب سے اچھا کہا اس لئے کہ اولاد کی پرورش میں اور شوہر کے مال کی نگہبانی میں ان کو فضیلت حاصل ہے ظاہر ہے کہ نکاح کے لئے بہتر میں عورت کو ہی انسان پسند کرے گا۔ یہاں دونوں پر ایک خاص طور پر ذکر کیا جو عورت کیلئے موجب فیضانت ہیں، اولاد کی پرورش میں اور خاوند کے مال کی نگہبانی میں محتاط ہونا۔

(۱۶) بَابُ الْاَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ

يَا بَنِي دِينَ مِنْ بَرَابَرِي بِط

نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝۹-۲۶۰ عَنْ عَائِشَةَ (مكرر - ۴۳)

نسباً اور سسرال بھرایا اور تراب قادر ہے والقرآن - ۲۶۰ دیکھو حدیث ۴۳۳۷

(۱۹) ۲۰۱۹ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ صَبَا عِدَّتِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبا عدت زہیر کے

الزَّبِيرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْأُمَّحِيَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعًا فَقَالَ لَهَا

ہاں تشریف لے گئے اس نے فرمایا یا ہجر نے حج کا ارادہ کیا ہے اس نے عرض کیا میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی ہوں آپ نے فرمایا حج کرو

يَحْيَىٰ وَاشْتَرِطِي قَوْلِي اللَّهُمَّ هَلْ فِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي وَكَأَنْتَ تَحْتِ الْمَقْدَرِ أَوْ بِنِ الْأَسَدِ

اؤ اسے مشروط کرو اور کہو اے خدا میرے اہرام کو لے کر رکھ دو ہے جہاں تو مجھے روکے اور وہ مقداد بن اسود کی بیوی تھیں

۲۰۲۰ ۲۰۲۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تُكْمَلُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا رَزَقَتْهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدْنِهَا فَأُظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ

چار وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اسکے مال کی وجہ سے اور اسکے نسب کی وجہ سے اور اسکی خوبصورتی کی وجہ سے اور اسکے دین کی وجہ سے

تَرَبَّتْ يَدَاكَ ۝۱۲۱-۲۰۲۱ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تیرے ہاتھ مخالف راگرا یاد کرے سہل سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا

فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالَوْا أَحْرَمِي أَنْ تُخْطَبَ أَنْ تُنْفَعُ وَأَنْ تُشْفَعُ أَنْ تُشْفَعُ

تو آپ نے فرمایا تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو انہوں نے کہا وہ اس بات ہے کہ اگر نکاح کا پیغام پہنچ دے تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش

وَأَنْ قَالَ أَنْ كَيْفَ تَمَعُ قَالَ تَمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ شُقْرَاءِ الْمَسْلَمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ

کرے تو اسکی سفارش قبول کی جائے اور اگر وہ بات کہے تو سنی جائے کیا پھر آپ خاموش رہے پھر ایک پیر آدمی نماز اور مسلمانوں سے گذرا تو آپ نے

فِي هَذَا قَالَوْا أَحْرَمِي أَنْ تُخْطَبَ أَنْ لَا تُنْفَعُ وَأَنْ تُشْفَعُ وَأَنْ قَالَ أَنْ

فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا وہ اس بات ہے کہ اگر نکاح کا پیغام پہنچے تو نکاح نہ کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے

لَا يُسْتَمَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْحِ الْأَرْضِ وَمِثْلِ هَذَا

اور اگر بات کرے تو نہ سنی جائے آپ نے فرمایا اگر اس پر پسند نہیں آئے تو یہ بھی بھریں تو یہ مرغیب ان سے اچھلے

۱۶ اس باب کا عنوان ہے الاکفاء فی الدین - اکفار کفو کی جمع ہے جس کے معنی ضل اور نظیر میں جوین باب کا مطلب یہ ہے نکاح کے لئے جس کفو کی ضرورت ہے وہ صرت دین ہے یعنی سب مسلمان ایک ہیں اس لئے ان میں باہم نکاح کے رشتے ہو سکتے ہیں - آیت قرآنی میں نسب اور سسرال کا ذکر ہے جس میں اشارہ ہے کہ نبی اور سسرال دونوں تعلق اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ہیں + ۱۹ اس باب کا عنوان ہے کفو کی جمع ہے جس کے معنی ضل اور نظیر میں جوین باب کا مطلب یہ ہے نکاح کے لئے جس کفو کی ضرورت ہے وہ صرت دین ہے یعنی سب مسلمان ایک ہیں اس لئے ان میں باہم نکاح کے رشتے ہو سکتے ہیں - آیت قرآنی میں نسب اور سسرال کا ذکر ہے جس میں اشارہ ہے کہ نبی اور سسرال دونوں تعلق اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ہیں + ۲۰ اس باب کا عنوان ہے کفو کی جمع ہے جس کے معنی ضل اور نظیر میں جوین باب کا مطلب یہ ہے نکاح کے لئے جس کفو کی ضرورت ہے وہ صرت دین ہے یعنی سب مسلمان ایک ہیں اس لئے ان میں باہم نکاح کے رشتے ہو سکتے ہیں - آیت قرآنی میں نسب اور سسرال کا ذکر ہے جس میں اشارہ ہے کہ نبی اور سسرال دونوں تعلق اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ہیں +

کان ممن شهدوا رابع النبی صلعم قبله سالما وانکحه بنت اخیه هذ بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولی لامرأة من الانصار و ابو هذ ليقنی بیوی شمیمہ کہتا بنتی النبی صلعم زید او کان من تینہ رجلا فی الجاہلیۃ دعاه الناس الیہ وورث من میراثہ حتی انزل اللہ اوجوہہم لا یابا لہم لے قوله وهو الیکہ فردوا الی ابا نہم نعم لم یؤمل لہ ای کان مولدا و احافی الدین فجات سہلۃ بنت سہیل بن عمرو والغرضی ثم القامری دھی امرأۃ ابی حذیفۃ رابع ابو ہذ لیقنی وومری بیوی تھیں النبی صلعم فقالت یا رسول اللہ ان کان فی ذی سالتا ولہ او قد انزل اللہ فیہ ما قد علمت ذکر المصل - ویجوز ۹-۱۶۴ ہاں اس کے لائے کی غرض یہ ہے کہ ابو ہذ لیف نے اپنی بیوی کے آزاد کردہ غلام کا نکاح اپنی بہنتی سے کر دیا۔ حالانکہ ابو ہذ لیف قریشی تھے اس سے معلوم ہوا کہ کفو صرف دین میں سہم ہے یعنی مسلمان سب ایک دوسرے کے اکفار ہیں اور بس + حدیث کہیں مذکور غرض صرف یہ بتانا ہے کہ صبا عدت زہیر بن عبد المطلب کے چچا کی بیوی تھیں مقداد بن اسود کی بیوی تھیں اور وہ نسب میں مقداد سے بہت بلند تھیں جو عمرہ بن عبد بن مالک کنذی کے بیٹے تھے اور مقداد بن اسود اس لئے کہلاتے تھے کہ اسود بن عبد یغوث نے انہیں تینے کر لیا تھا اور بعض نے کہا کہ وہ اسود کے ہمیشہ غلام تھے پھر اس نے انہیں تینے کر لیا۔ کفو یعنی بی چار چیزیں ہیں جو نکاح میں مد نظر ہوتی ہیں ان میں سے دین کو جو سب سے اعلیٰ خلاق ہے اور جس سے مخلوق خدا کی خدمت کا سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے ترمیح وی اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوبصورت یا بلند مرتبہ یا مالدار عورت سے نکاح نہ کر بلکہ اس سے پہلے خلاق کو دیکھو - شادی شدہ زندگی میں خوشی ان ظاہری سادوں سے نہیں ملتی بلکہ علی اخلاق سے ملتی ہے + پہلا آدمی مالدار تھا اس لئے لوگوں نے اس کے متعلق یہ کہا باقی برص ۱۲۲۳

(۱۷۱) بَابُ الْاِكْتِفَاءِ فِي النِّكَاحِ تَزْوِجُ الْمَقْبُولِ لِمَثْرِيَةَ رَمَ - ۲۲۱۰ عَنْ عَائِشَةَ	بَابُ الْاِكْتِفَاءِ فِي النِّكَاحِ تَزْوِجُ الْمَقْبُولِ لِمَثْرِيَةَ رَمَ - ۲۲۱۰
(متکرم) (۱۱۹۲) بَابُ مَا يَتَّقِي مِنْ شَوْمِ السَّرَاةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ	بَابُ مَا يَتَّقِي مِنْ شَوْمِ السَّرَاةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ
(۱۳۲۱) وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ رَمَ - ۲۲۱۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (متکرم) (۱۳۲۱)	وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ رَمَ - ۲۲۱۱
(۲۲۱۲) عَنْ ابْنِ حَنْمَرٍ (متکرم) (۱۳۲۱) رَمَ - ۲۲۱۳ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ	عَنْ ابْنِ حَنْمَرٍ (متکرم) (۱۳۲۱) رَمَ - ۲۲۱۳
(متکرم) (۱۳۲۲) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ	عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْرًا يَوْمَئِذٍ أَضْرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ النَّسَاءِ	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْرًا يَوْمَئِذٍ أَضْرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ النَّسَاءِ

۱۲۲۲
 ربقیرہ ۱۲۲۲
 کہ وہ اس کا خیال ہے
 کہ کسی بڑے خاندان
 میں اس کا نکاح
 ہو اور اس کی
 سفارش قبول کی
 جائے۔ وغیرہ۔
 اور غریب کے
 متعلق انہوں نے
 خیال کیا کہ نکاح کا
 آدمی کو کون سا
 نکتا ہے مگر اسلام
 تو فرما کے لئے
 ہی آیا تھا کہ انہیں

بند کرے تو اس لئے فرمایا کہ یہ اکیلا غریب آدمی ہزاروں یا لاکھوں اغنیاء سے بہتر ہے۔ حدیث کو لانے کی غرض یہ ہے کہ جس طرح عورت میں یہ صفت مستحب
 اچھی ہے کہ وہ دیندار اور بلند اخلاق کی مالک ہو اور محض مالدار ہونا کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح مرد میں بھی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دیندار اور بلند اخلاق
 کا مالک ہو جائے مال دنیا اس کے پاس نہ ہو۔ (ہا شاہیہ صفحہ ۲۱۴) مگر روایت کسی قدر اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ انہ سال عائشہ رضی اللہ
 عنہا وان خفت ان لا تقسطوا فی البتاعی قالت یا ابن اخیختی ہذا الیتمۃ تكون فی محرم لیہا فیرغب فی جمالہا واما لہا ویروان ینتقم
 صداقہا فہو اعن نکاحہن الا ان یقسطوا فی الکمال الصدق واما وابتکاحہن من سواہن قالت واستفتی الناس رسول اللہ صلعم
 بعد ذلک فانزل اللہ ویستفتونک فی النساء الی وترغبون ان تکھون فانزل اللہ لہن ان الیتمۃ اذا کانت ذات جمال و مال رغبوا فی
 نکاحہا ونسبہا فی کمال الصدق و اذا کانت مرشوبۃ عنہا فی قلمۃ المال والجمال ترکھا واخذوا غیرہا من النساء قالت فکما یتزکونہا
 حین یرغبون عنہا فلیس لہن ان ینکھوا اذ رغبوا فیہا الا ان یقسطوا لہا و یعطوا حقہا الا و فی فی الصدق ۷۰ مل عنوان باب کے
 متعلق جس حدیث کو بطور سند پیش کیا گیا ہے وہ ص ۶۴ میں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلعم کے الفاظ نہیں بلکہ اہل جاہلیت کا خیال تھا
 کسی راوی نے غلطی سے انہیں رسول اللہ صلعم کی طرف منسوب کر دیا۔ آیت ترائی جس کو بطور سند پیش کیا گیا ہے اس سے بھی عورت کی نحوست ثابت نہیں ہوتی۔
 اگر بعض بیویوں کو انسان کا دشمن کہا ہے تو بعض اولاد کو بھی کہا ہے۔ اور اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں۔ اور دشمن ہونے سے بہرہ اور کم نہیں کہ ان میں
 نحوست ہے ورنہ نحوست ان سب میں ہی ہوگی۔ ان کے دشمن ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے بعض وقت انسان غلط راہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ
 اپنے فائدہ کی وجہ سے اس میں اس کے معاون ہوجاتے ہیں۔ ۷۰ مل وہی الفاظ ہیں۔ عورت اور گھوڑے اور گھر سے نحوست ہے اس کیلئے دیکھو نوٹ ۷۰ مل
 صفحہ ۶۴۔ بعض نے اس حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ بد خو عورت یا برا گھوڑا یا تنگ مکان یا ایسا مکان جس میں ہمسائت اچھی نہ ہو انسان کے لئے مشکلات کا
 موجب ہوتے ہیں۔ اور بتنی میں ہے کہ احمد اور حاکم اور ابن حبان نے سعد سے مرفوع روایت بیان کی ہے۔ وہ من سعاده ابن اوم ثلثۃ المراء الصالحۃ
 و المسکن الصالح و المركب الصالح و من شقۃ ادم ابن اوم ثلثۃ المراء السوء و المسکن السوء و المركب السوء تو گو یہ صحیح ہے کہ انسان کا تعلق جن
 لوگوں یا جن چیزوں سے پڑتا ہے ان میں سے ہر ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ انسان کے لئے سعادت کا موجب ہے اور بری ہے تو وہ انسان کے لئے بد بختی
 کا موجب ہے۔ لیکن ان تین چیزوں کا ذکر اس لئے کیا کہ ان تین سے سب سے زیادہ واسطہ انسان کو پڑتا ہے اس لئے ان تین کا ذکر خاص طور پر کیا۔ اس معنی سے
 اس حدیث کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ ۷۰ مل گھیاں لفظ یوں ہیں۔ قال ذکروا المیتوم عند الیتمۃ صلعم فقال الیتمۃ صلعم ان کان الشوم فی شئ نفعی لدار و المراء
 والغرم ۷۰ مل وہی لفظ ہیں مضمون اوپر کی حدیثوں سے ۷۰ مل مراد اور عورت کا تعلق اس قدر زبردست ہے کہ ایک دوسرے کی خوش قسمتی یا بد بختی کا موجب سب سے بڑھ کر
 یہی دونوں ہیں یعنی مرد و عورت کیلئے اور عورت مرد کیلئے چونکہ اسلام سے پیشتر عورت کے متعلق بہت سے غلط خیالات و لوں میں تھے اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم
 نے کوئی امر ایسا بیان کیا جس میں عورت کی کسی خوبی یا کسی برائی کا ذکر تھا تو عورت برائی کا ذکر محض تاہرہ کیا اور یہ سچ ہے کہ عورتیں بعض وقت مردوں کیلئے اسلئے اسلئے اسلئے
 خصوصیت سے بھی ہوجاتی ہیں اور وہ یوں کہ ان کی خواہش اچھا ہونے اور اچھا لگائی ہوتی ہے اور مرد جو کما بھلا ہے وہ ان سب چیزوں کو ہوس نہیں کر سکتا تو
 اسی کی طرف مبالغہ اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی میں ہے۔ و دردی عدۃ صلعم قالوا یا رسول اللہ ما ذنبتھن قال اذا البسن ربط الشام و حلال اللعان و
 عصب الیمین و ملن کما تتیلان لسنۃ اللحت فاذا فعلن ذلک کلن اللہ یا لیس عدۃ یعنی تب یورس بڑے بڑے سے فرما ہوا اس میں کہ جھوٹی جھامتی

۷۰ ما بہر نکلیں تو وہ مردوں کے لئے موجب فتنہ ہوجاتی ہیں ہاتھ میں خاندان کیلئے جب اسکے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس سے ان کے ایسے مقابلات کو پورا کر سکے +

(۱۹) بَابُ الْحُرْمَةِ تَحْتَ الْعَيْدِ ر- ۲۶۱۴ عَنْ عَائِشَةَ (مكرر - ۳۱۹)

بارگاہِ نبویؐ کی آزاد عورت غلام کی بیوی رہ سکتی ہے۔ دیکھو حدیث ۲۶۱۴

(۲۰) بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ الْكُفْرَانَ اَزْبَحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هُنَّ ذَلَالٌ وَّ بَاغٌ وَقَالَ

بَابُ چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہ کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دودو اور تین تین اور چار چار اور

عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَنَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ رِبَاعًا وَقَوْلُهُ جَلَّ

علی بن حسین علیہما السلام نے فرمایا کہ مراد ہے دودو یا تین تین یا چار چار اور اللہ جل جلالہ کا

ذِكْرُهُ أَوْ بِأَجْنَحَةٍ مَنَّةً وَ ثَلَاثًا وَ رِبَاعًا يَعْنِي مَنَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ رِبَاعًا

قول (فرشتے) پر دوں والے دودو اور تین تین اور چار چار یعنی دودو یا تین تین یا چار چار

(۲۱) ۲۶۱۵ عَنْ عَائِشَةَ (مكرر - ۱۱۹۲) ر (۲۱) بَابُ وَأَمَّا كَوْمُ الْبَلَاءِ اَرْضَعْنِكُمْ

دیکھو حدیث ۲۶۱۵ بَابُ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا

وَيَحْرِمُهُم مِنَ الرِّضَاعَةِ وَ يَحْرِمُهُم مِنَ الشَّيْبِ ر- ۲۶۱۶ عَنْ عَائِشَةَ (مكرر - ۱۲۴۱)

اور دودھ پینے کے سبب (وہ فرشتے) حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں

(۲۲) ۲۶۱۷ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۱۲۴۰) ر (۲۲) عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

دیکھو حدیث ۲۶۱۷ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سَفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكُمْ أَخْبَرْتُمْ

کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بہن ابوسفیان کی بیٹی سے نکاح

بِنْتَ أَبِي سَفْيَانَ فَقَالَ أَوْ حَبِيبِينَ ذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُحَلِّبَةٍ وَ أَحَبُّ

کہ بچھے تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو میں نے کہا ہاں رگہ میں آپ سے الگ ہو بیٹھتی ہوں اور مجھان

مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أَحْسَنِي فَقَالَ لَيْسَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي

لوگوں میں سے جو میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہوں میرے زیادہ پسند میری بہن سے تو تم مجھ سے فرمایا میرے لئے جائز نہیں

قُلْتُ فَأَنَا خَلَّتْ أَفَّاكَ تُرِيدُ أَنْ تُفَكِّمَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ

میں نے کہا تم نے کہا جاتا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں سو کہ بیٹی ہیں اس کے

نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ فِي مَجْرَمِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا بِنْتُ أَسْتَحْيِ مِنْ

ہاں آپ نے فرمایا اگر وہ میری مخالفت میں میری پروردہ نہ ہوتی رہ جاتی میرے لئے حلال نہ تھی کیونکہ وہ میرے دودھ بھائی کی

الْبَضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَ أَبَا سَلَمَةَ تَوْبِيحًا فَلَا أَرْضَعُنَّ عَلَيْهَا بَنَاتُنَّ وَلَا أَخَوَاتُنَّ

بیٹی سے تو میرے لئے مجھ اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تو میرے سامنے اپنی بیٹیاں اور اپنی بیٹیاں میں نہ رو

حاکم روایت
اختصار سے آئی ہے
قالت كان في بريجة ثلاث سنن عتقت فخرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعنت ودخل رسول الله صلى الله عليه النار فغرب اليه خبز وأدم من آدم البيت فقال لم أذ البرية فقيل لحم تصدقنا على بريجة وأنت يا تاطل الصدقة قال هو ع ليها صدقة وأنا لعنيتها
عنوان باب کا تعلق ان الفاظ سے ہے
عققت فخرت یعنی آزاد ہونے کے بعد اسے اختیار دینا گیا کہ وہ اپنے خاندان کے نکاح میں رہے یا نہ۔ اب یہ امر خود زیر بحث ہے کہ آیا اس کا فائدہ غلام

تھا یا آزاد۔ اس لئے کہ کوئی قطعی نتیجہ اس حدیث سے نہیں نکل سکتا۔ اب جب کہ غلام کی موجودگی باقی نہیں رہا۔ اس بحث کی ضرورت نہیں کہ ایسا نکاح جائز ہے یا نہ۔ کچھ یہاں حدیث مختصر ہے۔ قالت ان حنظل ان لا تعصموا فی الینا حتی قال الیتمیة تکون عند الرجل وهو ولها ذیة تزوجها علی ما لها ذیة صحبتهما ولا یدخل فی ما لها ذلیة تزوجها طاب له من النساء سواها هینن وذلالات وریاعہ۔ کچھ یعنی جس طرح رضاعی مائیں اور رضاعی بیٹیاں حرام ہیں اسی طرح رضاعی ماں کی بیوی رضاعی ماں کی بیوی وغیرہ حرام ہیں۔ کچھ قریباً ہی لفظ ہیں معرفت ایک فقرہ جو ہے بھی ہے محل یہاں چھوڑ دیا ہے۔ قالت عائشة قتلت یا رسول اللہ ارادہ فلانا لعم حفصة من الرضاعة کیونکہ یہی لفظ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ یہاں لفظ پر زور۔ ہمتال قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوجوا بقرۃ محمد قال انہا ابنتہ اعنی من الرضاعة۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَيْبٍ أُرِيَهُ بَعْضَ أَهْلِهِ بِشْرٍ حَبِيبَةٌ قَالَتْ لَهُ

مَاذَا نَقِيتِ قَالَ أَبُو لَيْبٍ لَمْ أَلْقِ بَعْدَكُمْ عَلِيًّا أَلَيْسَ سَقِيتِ فِي هَذِهِ بَعَثَ أَقْرَبِي

تَوْبِيَّةٌ (۲۲) بَابٌ مِنْ قَالٍ لَارْضَاعٌ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حَوْلَيْنِ

كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَمَا يُحْرِمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

(م- ۲۶۱۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۲۴۲) بَابٌ لِبِنِ الْفُجْلِ (م- ۲۶۱۹)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۲۳۹) بَابٌ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ (م- ۲۶۲۰)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (م- ۲۸) بَابٌ مَا يُحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يُحْرِمُ وَقَوْلُهُ

تَعَالَى حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعُمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ إِخْرَافِ الْيَتِيمِ إِلَىٰ تَوْلِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِحْسَانٌ

ملے عنوان باسے
تعلق تو صرف عفت
کی وجہ سے نکاح
کے حرام ہونے کا
ہے۔ یہاں ابوبل
کا ذکر صرف آنکھیا
ہے۔ اور آخر پر
ہے کہ کسی اپنے
عزیز کے خواب
میں اس نے کہا ہے
کہ اسے ایک بوٹی
کو آزاد کرنے کی
وجہ سے پانی پلایا
گیا۔ جس سے معنی
ہوا کہ ایسے سخت
کافروں کو بھی ان
کے نیک کاموں
کے اجر سے محروم
نہیں کیا جاتا۔
ہذا سے ثبوت
یہ سمجھا گیا ہے کہ

اس نے اپنے آنکھ سے اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا اور مطلب یہ تھا کہ بہت تھوڑا پانی مگر کافی ہلکا ہے۔ اور وہ عالم بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ اس وقت تھا۔ تقریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ لیکن عند ہمارے جل کے بعد بڑھا یا ہے۔ نکاح نہ تھوڑا دیکھا کا نہ کوا ذلک اس حدیث میں یہ اصول قائم کیا ہے کہ دودھ پلانا وہی مسلم ہے جو بھوک سے ہو یعنی بچہ جب بھوکا ہو اور اس وقت دودھ پے اور وہ اس وقت بیٹ بھوکے ہے۔ اس سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ دو سال کے اندر دودھ پلانے کے متعلق قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور عین میں حضرت عمر کی طرف سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا لارضاۃ کافی الحولین فی الصغیرۃ لکن الغل۔ عینی میں ہے نسبة اللبن الیہ مجازاً لکن نسبتاً ذیہ یعنی دودھ کی نسبت فحل رزیا، مرد کی طرف پھار ہے کیونکہ وہ اس میں ذریعہ ہو جاتا ہے یعنی جس مرد کی عورت دودھ پلاتی ہے کیا وہ مرد بھی باپ کا حکم رکھتا ہے اور دودھ پلانے سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے وہ اس مرد میں اور جسے دودھ پلایا گیا ہے ثابت ہوتی ہے یا نہ اس باسے میں اختلاف ہے۔ کچھ لفظوں کے اختلاف سے حدیث کو بیان کیا ہے ان الخلم اخی القعبین جاء یستأذن علیہا دھو عہما من الرضاۃ بعد ان نزل الحجاب فابلیت ان اذن لہ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ بالذی صنعت فامرہ فی ان اذن لہ۔ ابو القعبین کی بیوی نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا تھا تو وہ حضرت عائشہ کے رضاعی باپ ہو گئے اور اذخ ان کے بھائی تھے تو وہ رضاعی چچا ہو گئے اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ سے جب انہوں نے اندرانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اذنا ارضعتن العراۃ ولم یرضعن الرجل۔ مجھے عورت نے دودھ پلایا تھا مرد نے نہیں پلایا یعنی ان کا استدلال تھا کہ دودھ پلانے والی میں اور جسے دودھ پلایا جائے رضاعی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس عورت کے خاوند سے کوئی حرمت پیدا نہیں ہوتی مگر رسول اللہ صلعم نے الخ کو رضاعی چچا قرار دے کر اندرانے جانے کی اجازت دی ہے۔ مکرر روایت کچھ اختلاف الفاظ سے اور کچھ کمی بیشی سے آئی ہے۔ قال تزوجت امرأۃ فجاءتنا امرأۃ سوداء فقلنا ارضعتکما فانیت اللہ صلعم فقلنت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأۃ سوداء فقلنا لی انی قد ارضعتکما وہی کا ذیہ روہاں ہے کہ عقبہ نے اسے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا تو نے مجھے دودھ پلایا ہو اور نہ تو نے مجھے کبھی اس کی خبر دی فاعرض یعنی نبی کریم صلعم نے اس سے منہ پھیر لیا اس لئے کہ اس نے گواہی دینے والی کو چھوٹا کیا۔ عین میں ہے کہ وہ سوار ہو کر مدینہ رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا، فانتہہ من قبل وجہہ قلت انہا کا ذیہ قال کیف ہما وقد زمت انہما قد ارضعتکما ادعھا عنک وانشاز اسمعیل باصبغیہ السبابة والوسطی بحک ابوب

وَقَالَ اسْنُ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ الْمَلَائِكَةُ
اور اس نے کہا وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سے مراد ہے کہ آزاد عورتیں جو شوہر رکھتی ہیں حرام ہیں الاماہمکت

أَيْسَانُكُمْ لَا يَدِي بَأْسَانَ يَلْبَسُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عِبْدَةٍ وَقَالَ وَلَا
ایسا نکھرے میں کوئی ہرج نہ سمجھے تھے کہ ایک شخص اپنی لونڈی کو اپنے غلام سے لگ کرے اور نہ ہر ماہ کی یا تنگھا

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَيَّ أَرْبَعٌ فَهُوَ حَرَامٌ
المشْرِكَاتِ (البقرہ - ۲۱۷) شُرکاء رتوت نکاح نہ کر دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور ابن عباس نے کہا جو چار چیز زیادہ ہوں وہ (ہر ایک طرح)

كَأُمَّهٍ وَأَبْنَتِهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرَمٌ مِنَ النَّسَبِ سَبْعَةٌ وَمِنَ الزَّهْرِ سَبْعَةٌ
حرام ہیں سب جس طرح اس کی ماں اور اس کی بیٹی اور اس کی بہن اور اس کی بہن سے روایت ہے کہ سات حرام ہیں جو سب سے زیادہ ہوں وہ (ہر ایک طرح)

ثُمَّ قَرَأَتْ حُرْمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْأَيَّةَ وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ
سات حرام ہیں سب پھر پڑھا جو حرمت علیکم اُمہاتکم اور عبد اللہ بن جعفر نے حضرت علی کی صاحبزادی اور حضرت علی کی بیوی

عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ سَيِّدٍ مِنْ لَابَسٍ يَهُ وَكَرِهَهُ أَحْسَنُ مَرَّةً ثُمَّ
کو اٹھا نکاح میں رکھا اور ابن سید نے کہا اس میں کوئی ہرج نہیں اور حسن نے ایک مرتبہ اسے ناپسند کیا پھر کہا

قَالَ لَابَسٌ يَهُ وَجَمَعَ أَحْسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتِي عَمِّي فِي لَيْلَةٍ
اس میں کوئی ہرج نہیں اور حسن بن حسن بن علی نے ایک رات میں دو چھائی بیٹیوں (یعنی دو چھاننا

وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاحِلٌ
ہوں نہ کو نکاح میں اٹھا لیا اور جابر بن زید نے اسے ناپسند کیا کیونکہ اس میں قطع رحم رکنا تک ہے اور اس میں ترسنا کی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ

لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِذَا زِنَى بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ
نے فرمایا واصل لکھا اور عبد اللہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ کسی نے بیوی کی بہن سے بدکاری کی تو اس

لَمْ تَحْرِمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَبِرُؤْيٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فَمِنْ
کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی اور یحییٰ کندی کے واسطے سے شعبی اور ابو جعفر سے روایت کی جاتی ہے کہ جو شخص اپنے

يَلْعَبُ بِالزَّبْيِ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَنْزُو حِينَ أُمَّهٍ وَيَحْيَى هَذَا أَخِيْرُهُ عَرُوفٌ
سے نا جائز تعین رکھے اور اس سے بدکاری کرے تو اس کی ماں سے نکاح نہ کرے اور یہ یحییٰ غیر معروف شخص ہے

سے نا جائز تعین رکھے اور اس سے بدکاری کرے تو اس کی ماں سے نکاح نہ کرے اور یہ یحییٰ غیر معروف شخص ہے

سے نا جائز تعین رکھے اور اس سے بدکاری کرے تو اس کی ماں سے نکاح نہ کرے اور یہ یحییٰ غیر معروف شخص ہے

سے نا جائز تعین رکھے اور اس سے بدکاری کرے تو اس کی ماں سے نکاح نہ کرے اور یہ یحییٰ غیر معروف شخص ہے

امام حضرت انس نے
محضت سے مروی
صرف آزاد نکاح
شدہ عورتیں ہی ہیں
اور الاماہمکت
ایسا نکھرے کہ یہ معنی
کئے ہیں کہ نکاح
شدہ لونڈی کو غلام
سے لگ کر لینے یعنی
خود اس سے نکاح
کرے کیونکہ یہاں
ذکر نکاح کا ہے
تو ان کے نزدیک
بھی ہر ایک نکاح
شدہ لونڈی ہوتے
نہیں بلکہ ایک
شخص کی ہی لونڈی
اپنے غلام کے نکاح
میں ہو تو مالک کے
لئے جائز ہے کہ اسے
اس غلام سے لگ
کر کے اپنے نکاح
میں لے آئے۔
اول تو یہ صراحت
قرآن شریف میں
نہیں وہاں ہے

الاماہمکت ایسا نکھرے تو اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ نکاح شدہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے مگر نکاح شدہ لونڈیوں سے نکاح کرنا منع نہیں تو ہر قسم
کی نکاح شدہ لونڈیاں اس کے اندر آجائیں گی اور اس سے انہی ہی آیت میں لونڈیوں کے نکاح کے متعلق جو احکام ہیں وہ سب باطل ہو جائے ہیں جب
لونڈی کے نکاح کی کوئی وقعت ہی باقی نہ رہی اور مالک جب چاہے اس سے نکاح کر سکتا ہے یا چاہیے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اس سے بعض اہل
تائم کر سکتے ہیں یا ممکن صورت ہے اور بعض لونڈیوں کو الاماہمکت ایسا نکھرے کے اندر لانا اور بعض کو ان سے خارج کرنا یہ تاویل بالرائے ہوگی۔ قرآن شریف کا
یہ مفہوم نہیں ہو سکتا جب ایک حکم ہوگا تو وہ سب لونڈیوں پر عادی ہوگا لیکن اگر کچھ حضرات اس نے کہا ہے اسے بھی لیا جائے تو اس کا مطلب صرف اس قدر
ہوگا کہ ایک شخص کا ایک غلام ہے اور ایک لونڈی اور وہ لونڈی اس غلام کے نکاح میں ہے تو مالک کے لئے جائز ہوگا کہ لونڈی کو اس غلام کے نکاح سے لگ
کر لے یعنی طلاق دلائے کیونکہ دونوں اس کے تصرف کے نیچے ہیں اس لئے یہ بات صاف ہوگئی کہ چار سے زیادہ عورتیں ایک وقت میں نکاح
میں رکھنا طبعی حرام ہے اس لئے نسب میں ماں۔ بیٹی۔ بہن۔ بھتیجی۔ خالہ۔ بھتیجی۔ بھانجی۔ ہیں۔ بیوی کے رشتہ داروں میں سائل
بیوی کی بیٹی۔ بیٹی کی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ دوسری بہن کو جمع کرنا۔ اور دوسرے نکاح کی وجہ سے حرام ہیں۔ یہ کل تیرہ ہیں۔ چودھویں
باپ کی بیوی ہے گو وہ ماں نہ ہو جس کا ذکر یحییٰ آیت میں ہے اور اگلی آیت میں ہر ایک نکاح شدہ عورت حرام کی گئی ہے اس لئے گویا یہ آیتیں
کے حکم میں ہیں۔ عبد اللہ بن جعفر نے حضرت علی کی صاحبزادی اور ان کی بیوی علی بنت مسعود کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھا ہے ایک صحابہ
علی کی بیٹی اور ایک عرب بن علی کی بیٹی۔ بعض نے اسے بھی ناپسند کیا ہے مگر یہ حرام نہیں۔

لَمْ يَتَّبِعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زِنَى بِهَا لَمْ تَحْرَمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ

اور اس روایت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ بیوی کی ماں سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس پر

وَيَذَكَّرُ عَنْ أَبِي نَضْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَضْرٍ هَذَا لَمْ يَعْرِفْ سُبُوْعَهُ

حرام نہیں ہوگی اور ابو نضر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابن عباس نے اسے حرام سمجھا اور اس ابو نضر کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اس نے ابن عباس

مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ مَرْثَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحُسَيْنِ وَبَعْضِ

سے سننا ہے اور عمران بن حصین اور جابر بن زید اور حسین اور بعض اہل عراق

أَهْلِ عِرَاقٍ حَرَّمُوا عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرَمُ حَتَّى يَلْزُقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي

سے روایت ہے کہ وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے اور ابو ہریرہ نے لکھا کہ حرام نہیں ہوتی یہاں تک کہ اسے زمین پر لٹائے یعنی جماع کرے

يُجَامِعُ وَجَوَّزُكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيُّ لَا تَحْرَمُ

اور ابن مسیب اور عروہ اور زہری نے اسے جائز رکھا اور زہری نے لکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حرام نہیں ہوتی

وَهَذَا أَمْرٌ سَلَّ (۲۶۱) بَابٌ وَرَبَابُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ سَائِلِكُمُ اللَّاتِي

اور یہ امر سہل ہے باب اللاتیں جو تمہاری سوتیلی اولیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں تمہاری ان بیویوں

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالْمَسِيْسُ وَاللَّمَّاسُ هُوَ الْجَمَاعُ وَمَنْ

کے جن سے تم نے صحبت کی ہو اور ابن عباس نے لکھا کہ دخول اور مسیس اور لماس سے مراد جماع ہے اور جو

قَالَ بَنَاتٌ وَكِدَّاهَا مِنْ بَنَاتِكُمْ فِي الْحَرْبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ

کہتا ہے کہ وہ بچے کی بیٹیاں حرمت میں اسی کی بیٹیاں ہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام

حَبِيبَةَ لَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِيكَنَّ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَكِلَا الْبَنَاتِ هُنَّ حَلَائِلُ الْبَنَاتِ

حبیبہ سے فرمایا کہ اپنی بیٹیاں مجھ پر نکاح کیلئے پیش نہ کرو اور اسی طرح بیٹوں کی اولاد کی بیویاں بیٹوں کی بیویوں کی طرح ہیں

وَهَلْ سَمِيَّتِ الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حُجْرَةٍ وَدَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور اگر وہ شوہر کے زیر تربیت نہ ہو تو کیا اس کا نام ربیبہ ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

رَبِيبَةَ لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا وَسَمِيَّتِ الرَّبِيبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ ابْنَتِهِ ابْنًا

اپنی ربیبہ ایسے شخص کو دی جو اس کی تربیت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو بیٹا کہا

(۲۶۲) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (مَتَكَد - ۲۰۲۳) بَابٌ وَأَنَّ حُجْرَةَ ابْنِ

دیکھو حدیث ۲۰۲۳ باب حجرت اور یہ کہ دو بیویوں کو اکٹھا کرو

الْأَخْتَيْنِ إِذَا مَا قَدْ سَلَفَ (۲۶۲) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (مَتَكَد - ۲۰۲۳)

مگر جو پہلی

(۲۶۸) بَابٌ لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا (۲۰۲۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ

باب نکاح ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جس کی چھوٹی کھال میں ہو جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَأَخَالَتِهَا

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جس کی چھوٹی کھال میں ہو یا عورت سے جسکی خال کھال میں ہو

(۲۶۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكَد - ۲۰۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ

دیکھو حدیث ۲۰۲۵ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے تھے

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَأَخَالَتِهَا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے جس کی چھوٹی کھال میں ہو یا عورت سے جسکی خال کھال میں ہو

فلا تعرض على
بنا تكن واحواكن
بكن تخفيع اخذت
لفظي سے دوہرایا
اس کے لفظ ۲۰۲۳
تکے ہیں۔ البتہ
بنت ابی سلمہ کا
نام وزہ اس میں
زیادہ کیا ہے۔
وہی حضرت زہراؑ ہیں
جو پہلی مکرر روایت
میں ہے۔
یہاں لفظ بیوں
ہیں۔ ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال لا
یجمع بین المرأة
وعمتها ولا بین
المرأة وخالها
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵

<p>فَرَأَى خَالََةَ أَيْمَانِ بَيْتِكَ الْمَرْؤَةَ لَرِيحَانَ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَّمُوا</p>
<p>پس ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس کے باپ کی خالہ کا بھی یہی حکم ہے اس کے عروہ نے مجھ سے بیان کیا حضرت عائشہ نے روایت کرتے ہوئے</p>
<p>مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (۲۰۶) بَابُ الشُّغَارِ (۲۰۶) عَنْ ابْنِ</p>
<p>کہ وہ وہ کہ رشتہ سے ان کو حرام سمجھو جو نسب سے حرام ہیں ۱۱۱ باقی صفحہ ۱۱۱ ابن عمر رضی اللہ</p>
<p>عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّغَارِ</p>
<p>عز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے</p>
<p>وَالشُّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا</p>
<p>اور شغار یہ ہے کہ انسان اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط سے کسی سے کر دے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے اور دونوں</p>
<p>صَدَاقٍ (۲۰۶) بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَخِي (۲۰۶) عَنْ</p>
<p>نہ نہ دیں بابت کیا عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنا آپ کسی کو مہر کرے ۱۱۱</p>
<p>عُرْوَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۹۵۲) (۲۰۶) بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ (۲۰۶) عَنْ جَابِرِ</p>
<p>دیکھو حدیث ۳۱۹۵۲ بابت ایسی نکاح جس نے حج کا احرام باندھا ہو</p>
<p>ابْنِ زَيْدٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۹۳۲) (۲۰۶) بَابُ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p>
<p>دیکھو حدیث ۳۱۹۳۲ بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا</p>
<p>عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ اخْرَأ (۲۰۶) (۲۰۶) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ دَاخِيَةٍ</p>
<p>آخر میں نکاح متوعہ سے منع فرمانا دیکھو حدیث</p>
<p>(مُتَكَرِّرٌ - ۱۸۱۹) (۲۰۶) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ</p>

۱۱۱ زہری کا استدلال صحیح نہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ باپ کی خالہ بھی ایک شخص کی اپنی خالہ کی طرح ہے مگر اس وجہ سے کہ وہ نبی رشتہ ہے رضاعت سے اس کو نسبت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ۱۱۱ عینی میں ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نطفہ مہر سے عقد ہو جائے عورت کہے کہ میں نے اپنا نفس تجھ پر کیا اور مرد کہے کہ میں نے قبول کیا اور نہ کہ ذکر نہ ہو یہ صورت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح

نہ صرف اسلام کی ساری شرائط نکاح ہی باطل ہوتی ہیں بلکہ خفیہ طور پر زنا کاری کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور ایک عورت تمنائی میں کسی مرد کے ساتھ ہو کر اسے اپنا نفس مہر کر سکتی ہے۔ حدیث ۱۸۱۹ میں مختصر آئے اور غور لڑ چکے ہیں اور ۲۰۶ میں تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح ایک عورت نبی کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کیا کہیں اپنا نفس آپ کو مہر کرنی ہوں تو آپ نے اس سے نکاح کرنا پسند نہ کیا، تب حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں تو آپ نے اس کے لئے مہر ضروری قرار دیا یا مہاں تک کہ جب کچھ نہ ملے تو کچھ حضرت قرآن کریم پر پڑھا جسے کوئی بغور مہر رکھا اور پھر اس کا نکاح کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مہر سے مراد صرف اس قدر ہے کہ عورت خود اپنے آپ کو نکاح کے لئے پیش کرے کیونکہ عام طور پر مرد خواست کرتا تو یہ جائز ہے کہ عورت اپنے آپ کو نکاح کے لئے پیش کرے مگر نکاح اسی طرح ہو گا جس طرح اس عورت میں جب مرد نکاح کا پیغام بھیجے حدیث بابت میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں کہ کیا عورت جیا نہیں کرنی کہ اپنے آپ کو مرد کو مہر کرے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کے معنی یوں بھی عادت کئے ہیں کہ جہاں م ۲۰۶ اور م ۲۰۸ میں لفظ میں اھب لك نفسی م ۲۰۶ میں اسی واقعہ میں لفظ میں ان امرأة عرضت نفسها علی النبی صلعم جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مہر اور عرض سے ایک ہی مراد ہے۔ اور عرض ہمیشہ نکاح کے لئے ہوتا تھا بیجا بیجا ۱۹۷۷ میں ہے کہ جب حضرت حفصہ یوہ ہوئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس گئے۔ حضرت علیہ حفصہ یعنی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حفصہ کو عثمان پر پیش کیا اور اس کی تشریح خود ہی آگے یوں کی ہے نقلت ان شئت انکحک حفصہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں ۱۱۱ یہاں قدسے اختصار ہے روایت عروہ سے ہے۔ قال کانت خولة بنت حكيم من اللاتئی وھین النفسھن للنبی صلعم نقلت عائشة اما نسختی المرأة ان تھب نفسها للرجل فلما نزلت نبی عن تشاورھن قلت یا رسول اللہ ما ادبی دیکت الایسار فی ہواک ۱۱۱ تزوج النبی صلعم وھو محمد ۱۱۱ متوعہ عائشی نکاح ہے یعنی ایک وقت عین کیلئے نواہ وہ تھوڑا اجویا بہت عورت سے نکاح کر لینا اور وقت مقرر کے بعد دونوں الگ ہو جانا۔ یہ عرب کی ایک برائی رسم تھی۔ اور جیسا کہ تمام بد رسومات کو اسلام نے نذر کیا موقوف کیا اسی طرح متوعہ کو بھی آخر میں موقوف کیا اور ابتداء میں بعض وقت لوگ اس پر اپنی رسوم کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عروہ نے جو اور عورتیں تم کہتے ہیں یا اسکی نقل

اسی لئے عزبان بابت میں با کہ حکم لفظ رکھا ہے ۱۱۱ یہاں لفظ یوں ہیں:- ان علیاً رضی اللہ عنہ قال لا یمن عباس ان النبی صلعم نھی عن النکاح وعن لحم الخمر کا ہلہ

۱۔ یہ کہنے والے نے
غائباً عکرم تھے

فی الحال الشداہۃ
یعنی سخت مجبوری
کی حالت میں یا
جنگ وغیرہ کی
حالت میں۔ ابن
عباس کا متو کے

مسلم میں دو ستر
صحابہ سے اختلاف
تھا۔ کیونکہ باقی
لوگ اس بات کے
بھی قائل نہ تھے
کہ اضطرر کی حالت

میں منکر جائز ہے
مگر ابن عباس کا یہ
خیال تھا چنانچہ نبی
میں سعید بن جبیر
کی ایک روایت
منقول ہے قلت

سادت بفتیاءک
الروایان وقال
فیہا الشعر اربعین
فی المتعة فقال

والله ما جعل الفیتة
وما ہی الا کالمیتة
لا یحل الا بالخط

۱۔ یہ بھی اسی جنگ کا ذکر معلوم ہوتا ہے جس کا ذکر شروع میں ہے یعنی یہ معلوم نہیں کہ یہ تین دن کے نکاح کی اجازت صرف اس جنگ میں رطنے والوں کے لئے تھی یا عام۔ بہر حال یہ اجازت ابتدائیں تھی اور بالآخر منسوخ ہوئی۔ جیسا کہ امام بخاری نے اسے واضح کر دیا ہے۔ ۱۔ خطبہ یا بالکل وہی ہے جو اوپر باب ۳۰ میں گذر چکا۔ میرے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ایک ہی چیز ہے۔ واقعہ جس کا ذکر حدیث باب میں ہے وہ بھی ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ من اللہ بہت مختصر ہے اس کی مکرر روایت م ۲۵۷ میں تفصیل ہے۔ اور م ۲۶۲ سے قریب قریب ہے مگر ابتدائی حصہ کو کچھ مختصر کر دیا ہے ان امراتہ عرضت نفسہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آپ کو نکاح کے لئے آنحضرت صلعم پر پیش کیا۔ ۱۔ ۱۱۱۳ اور م ۲۵۷ میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میر کیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میر کرنے کا مشا بھی یہی تھا۔ فقال له رجل یا رسول اللہ زوجنیہا فقال ما عندک قال ما عندک شیء قال اذهب قال تمس ولویا تمام حدید فذہب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شیئا ولا خاتم من حدید ولکن ہذا ان ازی و ہما نصفہ قال سہل وما له رداء فقال انی صلعم و ما نضعم و ما نضعم باذ اؤک ان لیستہ لم یکن علیہا منہ شیء وان لیستہ لم یکن علیک منہ شیء فجلس الرجل حتی اذ اطال مجلسہ قائم فقرأ النبی صلعم فدا عاہ اودعی له فقال له ما ذامع من القرآن فقال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا السورین ذما فقال النبی صلعم املکنا کما ہما معک من القرآن ۱۔ ۱۔ قریباً انہی الفاضلین حدیثہ کو وہ میرا ہے۔ نخیس کے ذکر میں قد شہد بدرا اور حضرت عثمان سے ملاقات کے ذکر میں نعوذت علیہ حفصہ کے بعد کے لئے قلت ان ثقتک ان ثقتک حفصہ بنت عمر مجھوڑو یا ہے۔

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ (۲۰۲۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا فِي

جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أذنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْرِعُوا

فَأَسْتَمْرِعُوا رَوْفِي رَوَايَةٌ عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيْمَارِ جِلٍّ وَأَمْرًا تَوَافَقَا فَعَضْرَةَ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحْبَبَانِ تَزَوَّيَا

أَوْ يَتَاكَرَا تَتَاكَرَا فَمَا أَدْرِي أَيْ شَيْءٍ كَانَ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّبِيِّ عَامَّةٌ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ

عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاحِ (۲۰۲۹) عَنْ ثَابِتِ بْنِ نَبَاتٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَسْنِ بْنِ عِنْدَةَ ابْنَةَ

لَهُ قَالَ أَسْنُ جَاءَتْ أَمْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهَا نَفْسَهَا

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَرْبِيُّ حَاجَةٌ فَقَالَتَ بِنْتُ أَسْنِ مَا أَقْلُ حِيَاءَ هَذَا اسْوَأَتَاةَا

نَفْسَهَا (م- ۲۶۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ (م- ۱۱۲۰) بَابُ عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ

أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ (م- ۲۶۲۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ (م- ۱۷۶۶)

تو ابن عباس کی ایک روایت میں ہے

جابر بن عبد اللہ اور سلمہ بن اکوع سے روایت ہے

کتابم ایک فوج

میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا

اور کہا کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ متو کرو

پس متو کرو اور ایک روایت میں ہے

سلمہ بن اکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

کہ جو مرد اور عورت آپس میں راضی ہو جائیں تو ان کے کٹھا رہنے کا وقت تین رات سے ہیں اگر وہ پسند کریں کہ میں اور کون کھڑا ہوں

یا تم کر دین تو کہتے ہیں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ صرت ہمارے لئے تھا یا سب لوگوں کے لئے تھا

بخاری کتاب کے حضرت

باب میں کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی نیک

شخص پر نکاح کے لئے پیش کرنا تھا

ثنا بت بناتی سے روایت ہے

کہا میں اس کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی

بھی تھی اس نے کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی

اپنے آپ کو آنحضرت پر پیش کیا

کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت تھی

تو اس نے اپنے آپ کو

آنحضرت صلعم پر پیش کیا

دیکھو حدیث ۱۱۲۰

باب میں ان کا اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو نیک

لوگوں پر نکاح کے لئے پیش کرنا

دیکھو حدیث ۱۷۶۶

۲۶۲۹ (م۔) عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ (متکرم۔ ۲۰۲۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِيهِ أَنْفُسَكُمْ

دیکھو حدیث ۲۰۲۳ ص ۱۱۲ باہب اللہ تعالیٰ کا قول

اور اس کے لئے تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم انسا رہتا عورتوں کو بیفایم نکاح دو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو

عَلَّمَ اللَّهُ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَنْتُمْ أَضْمَرْتُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتُهُ فَهُوَ مُكْتَمٌ

اللہ جاننا ہے اللہ کے قول غفور رحیم تک (البقرہ۔ ۲۳۵) اکتتمہ دل میں چھپا رکھو اور ہر ایک چیز جسے تم محفوظ رکھتے ہو تو وہ مکتوم

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا عَرَّضْتُمْ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوْ دِدْتُ أَنَّهُ تَيْسِيرٌ

ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ فیما عرضتم یعنی وہ کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک عورت دستیاب

بِأَمْرٍ أَصَاحِبَةٌ وَقَالَ لِقَائِهِمْ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَىٰ كَرِيمَةٍ وَإِنِّي فِيمَا كَرِيبٌ

ہو جائے اور قاسم نے کہا کہ میرے دل میں آپ کی عزت ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے

وَرَأَى اللَّهُ لَسَاتِيكَ خَيْرًا أَوْ نَحْوَهُذَا وَقَالَ عَطَاءٌ يُعْرَضُ وَلَا يَبُورُ يَقُولُ

اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے گا یا اس کی مانند اور عطاء نے کہا کہ اشارہ کرے اور صریح نہ کہے مجھے

إِنِّي لِي حَاجَةٌ وَأَبْتِي مَيِّمٌ وَأَنْتَ بِمَجْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ وَلَقَوْلِهِ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلَا

مفرت ہے آپ کو نوٹھری ہو اور آپ بجد اللہ پر لعن کریں اور عورت کرے جو آپ کہتے ہیں میں سنتی ہوں اور نہ

تَعْدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيهَا يُغَيِّرُ عَلَيْهَا وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا شَمَّ نَكْحَهَا بَعْدَ

وہ کسی بات کا وعدہ کرے اور نہ اس کا ولی اس کے علم کے بغیر وعدہ کرے اور اگر عورت نے اپنی عادت میں کسی مرد سے وعدہ کیا اس کے بعد اس

كَمْ يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ أَحْسَنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الزَّانِوِيدُ كَرِهَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

نے اس سے نکاح کیا تو وہ لوگوں کو جدا نہیں کیا جائیگا اور سننے کے کہا کہ لا تقاعدن منہ (اسے راز نہ مانے اور ابن عباس کے مستحق کہا جائے)

الْكِتَابِ أَجَلُهُ تَنْقِضِي لِعِدَّةِ (۳۶) بَابُ النَّظْرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

ہے لہذا اگر کتاب اجلہ سے مراد ہے عادت ختم ہونے کا وقت کسی عورت کو اس سے نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لینا

۲۶۳۰ (م۔) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم۔ ۱۷۲۵) (۲۵) (۱۷۲۵) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم۔)

دیکھو حدیث ۱۷۲۵ ص ۱۱۲

۱۱۲۰ (۳۶) بَابُ مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

۱۱۲۰ ص ۱۱۲ باہب جو کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے ہیں ان کو نہ زور کو اور البقرہ

فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ مَقَالٌ وَلَا تُنْكَحُ الْمَشْرُوكَاتُ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

اور کوئی عورت (زوجوں) شامل ہو جاتی ہیں اور اللہ نے فرمایا مشرکوں کو نکاح تک کہ وہ ایمان لائیں

وَقَالَ وَاللَّهِ الْآيَةُ مِنْكُمْ ۲۰۲۹ (م۔) عَنْ حُرَّةِ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَتْ النَّبِيَّ

(البقرہ۔ ۲۴۱) اور فرمایا اپنی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دو (النور۔ ۲۲) ملا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے

ان احادیث میں روایت
کہ عورت کو نکاح سے پہلے
دیکھ لینا
ان احادیث میں
قالت لرسول الله
صلعم انا قد
تحدثنا انك ناكح
ودة بنت الحارث
سلمة فقال رسول
الله صلعم اعلى
ام سلمة لوسم
الكلمة سلمة ما
حلت لي ان اباهما
اخى من الرضاة
اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ بعض وقت
کیسی غلط باتیں
یوں ہی مشہور ہو
جاتی تھیں۔ جن
میں ذرہ بھر بھی
اصحیت نہ ہوتی
تھی
غلط یہاں لفظ
یوں ہیں قالت
قال لي رسول الله
صلعم وایتك في
المنام محي بك
الملك في سورة
من حریر فقال
لي هذا امرناك
فكشفت عن وجهي
الشوب فاذا انت
هي فعلت ارتبك
هذا امر عند الله

میں صاف ہے اور دوسرے ابھی پر دوسرے کے احکام بھی نازل نہ ہوئے تھے اور حضرت مسلم حضرت عائشہ کو زور دیکھتے تھے تو ایک مطلب صرف ہے کہ آپ کے خواب
میں ایک شکل دکھائی گئی کہ آپ کی بیوی ہو تو آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عائشہ تھیں۔ البتہ اگر مکرر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جس عورت نے
آنحضرت صلعم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی آپ صلعم سے بھی غور سے دیکھا لیکن اس حدیث کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت کوئی نقاب اوڑھنے نہ تھی کیونکہ
نقاب اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں نقاب الی عورت کے متعلق یہ فقرہ بمعنی ہے قصدا لانتظر اليها وصوبہ بنا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ عورت مجلس نبوی میں جہاں دروگ
بھی بیٹھے تھے بغیر نقاب کے آئی تھی اور صحیح نبوی ہو کہ چہرے کو ڈھانکنے کا حکم قرآن شریف میں جو نہ حدیث میں ہے حدیث میں ۲۵۷۰ کے میں جس عورت نے نبی کریم صلعم

۱۱۲۳۳

نکاح کی خواہش ظاہر کی آپ صلعم سے غور سے دیکھا۔ ورنہ عام طور پر آپ صلعم کو دیکھتے تھے یہاں کہ قرآن شریف میں حکم ہے کہ باقی برصغیر ۱۱۲۳۳

(بقیہ صفحہ ۱۲۳۱)

مکتبہ میں آتیں جو اس بات کی تائید میں لانی لگی ہیں کہ نکاح بغیر ولی کے درست نہیں ان سے استدلال میں نقص ہے کہ ان تینوں آیتوں میں خطاب عام طور پر مسلمانوں کی ہے۔ اولیاء کو خاص طور پر ان میں حکم نہیں دیا گیا۔

صفحہ ۱۲۳۱
عنوان باب ۱
تعلق اسی حصہ سے ہے کیونکہ یہ نکاح جو اسلام میں مروج رہا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ ایک شخص دوسرے کی راضی یا ولید کے لئے پیغام نکاح بھیجتا ہے مگر یہ بیگانہ عموماً نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ خاندان کے آدمی کو اس کیلئے بلاتا تھا کہ اس کے نظرسے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی اعلیٰ جوہر میں والی ہو۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْبَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَهْجَاءٍ

بجھ کر خبر دی کہ جاہلیت کے زمانے میں نکاح چار طرح پر تھا

فَالنِّكَاحُ مِنْهَا زَكَاحٌ النَّاسِ الْيَوْمَ يُنْطَبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَابْتِنَةُ ابْنِ

تو ان نکاحوں میں سے ایک نکاح تو یہی ہے جو لوگ آج کرتے ہیں یعنی ایک مرد دوسرے مرد کو اس کی ولید یا اس کی بیٹی کے لئے

ابْنَتَهُ فَيَصِدُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحُ الْاِخْرَاقِ أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ لَامْرَأَتِ كَذَا

پیغام نکاح بھیجتا ہے وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر دیتا ہے اور ایک اور نکاح یوں تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی سے جبکہ

طَهَرْتُ مِنْ طَمْنِهَا أَرْسَلْتُ إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعَ مِنْهُ وَيَعْتَرِ لَهَا زَوْجَهَا وَلَا

جبین سے پاک ہو جاتی تھی کہ فلاں شخص کو بلا بیچ اور اس سے ہم بستری اور اس کا فائدہ اس سے اگست ہوا اور

يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَبْتَلِيَنَّ حَمْلَهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا

اسے نہ چھو تا یہاں تک کہ اس کا حمل اس شخص سے ظاہر ہو جاتا جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی پس جب

تَبْتَلِيَنَّ حَمْلَهَا أَصَابَهَا زَوْجَهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَقْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي غَايَةِ

اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو پھر اس کا فائدہ بہت پسند کرنا اس کے پاس جاتا اور وہ یہ کام بیٹے کی مراثیت کی محبت کے لئے کرتا تھا

الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الْأَسْتَبْضَاعِ وَنِكَاحُ الْاِخْرَاقِ تَجْمَعُ الرُّهْطُ فَادُولُ

اور یہ نکاح نکاح استبضاع تھا اور ایک اور نکاح یوں تھا کہ اس سے کم آدمیوں کا ایک

العَشْرَةَ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلِّهِمْ لِيَصِيدَهَا فَإِذَا أَحْمَلَتْ وَوَصَعَتْ وَمَرَّ

گروہ بن جاتا اور وہ سب ایک عورت پر داخل ہوتے اور ان میں سے ہر ایک اس سے حاملہ ہوتی اور پھر غلبی اور بچہ

عَلَيْهَا لِيَكِلِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعُ حَمْلَهَا أُرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَضِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

کھینے کے بعد اس پر چند راتیں گذر جاتیں تو وہ ان سب کو بلا بھیجتی ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ حاضر نہ جاتا

أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ

یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہو جائے عورت ان سے کہتی کہ تم جانتے ہو جو تم نے کیا

وَلَدَتْ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تَسْمَعِي مَنْ أَحَبَّتْ بِرَأْسِهَا فَيَنْكِحُ بِهِ وَوَلَدُهَا لَا يَسْتَضِعُ

بچہ جسے پس لے لے وہ تیرا بیٹا ہے اس کا نام لیتی ہے وہ پسند کرتی بچہ اس کا ہو جاتا اور وہ شخص اس سے

يَسْتَضِعُ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ لَكِنَّ يَرْتَفِعُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا يَمْتَنِعُ

نکاح نہیں کر سکتا تھا سب اور جو نکاح یوں تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے اور ایک عورت پر داخل ہوتے جو بھی اس

کہ زمانہ کے ذریعہ سے اعلیٰ خاندان کے پیدا کرنے کی خواہش رکھتے تھے یہ عورت بعد ان کے مطابق ہے جسے آریہ سماج نے نو نکاح نام سے جاننا شروع کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ سماجی دیانتداری کو توہین کی جیسے جب ایک مردانہ ہو تو کسی اور مرد کو بلا جاتا ہے لیکن اور استبضاع میں اور کوئی فرق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے عیسائی کا ارتکاب کس قدر کھل ہوتا تھا کہ ایسی ہی حالت میں کوئی نکاح کبھی ہو کر باقی باری ایک عورت کے پاس علیحدہ اسلام نے ان تمام بھی بیویوں کے ایک ساتھ ہزاری عورتیں ہیں کہ ہمیشہ کا قہر میں رہتی ہیں قیادہ میں قیادہ کر کے جس کا کوئی فریاد نہیں اس کی روداد کا ذکر نہ ہوتا ہے

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَقِّ هَدْمِ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كَلِمَةً إِلَّا نَكَحَ

پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حق کے ساتھ ہوئی تو جاہلیت کے سارے نکاحوں کو باطل ٹھہرایا سوائے لوگوں کے آج

النَّكَاحِ لِيَوْمِ (م- ۲۶۳۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۱۹۲) (م- ۲۶۳۳) عَنْ

کے نکاح کے دیکھو حدیث ۱۱۹۲

ابْنِ عُمَرَ (م- ۱۷۶۶) (م- ۲۶۳۴) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (م- ۱۸۸۹)

دیکھو حدیث ۱۷۶۶

(۳۸) بَابُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ وَخَطَبَ الْمُخَيَّرَةَ بِنِ شَعْبَةَ امْرَأَةَ

باب جب ولی خود نکاح کا پیغام بھیجے اور غیر وہ بن شعبہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا

هُوَ أَوْلَى النَّكَاحِ بِهَا فَأَمَرَ جَلًا فَرُوجَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَوْفٍ لَمْ يَكُنْ

اور وہ اور لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ قریب تھا تو اس نے ایک شخص سے کہا اس نے اس سے نکاح کر دیا اور عبدالرحمن بن حوف نے

بِنْتُ قَارِظٍ أَحْبَبْتَنِي أَمْ لِي قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ رُوجَتْكَ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ شَيْبَةَ لِي

اگر تم بہت قریب سے کہا تم اپنا معاملہ میرے سپرد کرتی ہو اس نے کہا ہاں کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں لیت ہوں عطاء بن شیبہ نے کہا چاہئے کہ

قَدْ نَكَحْتِكَ أَوْ لِي أَمْ رَجُلًا مِنْ عَشَائِرِهَا وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وہ گواہ رہے کہ میں نے تیرا رخصتوہ نکاح کر دیا یا اس کے قبیلے میں سے کسی مرد کے لئے اور اس نے کہا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا

وَسَمَّ أَحَبُّ لَكَ لِنَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزُوجِيهَا

کہیں اپنا آپ آپ کو بہتر کرتی ہوں تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اسے میرے نکاح میں دیکھیں

(م- ۲۶۳۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۱۹۲) (م- ۲۶۳۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (م- ۱۸۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۹۲

(۱۱۲۰) بَابُ إِنْ كَانِ الرَّجُلُ وَكَدَاهُ الصَّغَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

۱۱۲۰ باب اگر اپنے ناپالغ بچوں کا نکاح کر دینا اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے واللای لم یحضن (الطلاق ۴)

ملا یہ مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ وہاں تک علیہ کہ فی کتاب فی یتانی النساء اللاتی لا تو توہن ما لک لهن وترخون ان تکوہن قالت ہذا فی الیتیمۃ التی تکون عند الرجل لعلہا ان تکون شیء لیکہ فی مالہ فہو اولی بہ از غیرہ ان ینکحہا فیخصاً لعلہا ولا ینکحہا غیرہ کراہیۃ ان یشو کہ احد فی مالہا ملا یہ مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ ان حفصہ بنت عمر من ابن حذافۃ

السهمی وكان من اصحاب النبي صلعم من اهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لعقبت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت ان شئت انكحتك حفصة قال سأنظرني امری فبليت ليالي ثم لعقبت فقال بدالي ان لا اتزوج بوجي هذا اقال عمر فلعقت ابيا فقلت ان شئت انكحتك حفصة ملا يما لفظ يول ہیں۔ انہار آیت فلا تعضلوهن رالبقرہ ۲۳۲۰ نزلت فیہ قال زوجت اختالی من رجل فخطبها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرضتک (تجھے بیوی دی) واکرمتک فخطبها شجعت فخطبها لا والله لا تعود الیک ابداً او کان رجلاً لا یاس بہ وکانت المرأة تری ان طرحہ الیہ فانزل اللہ ہذہ الاية فلا تعضلوهن فقلت الان افعل یا رسول اللہ قال فزوجها ایابہ اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ معقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خاوند کے نکاح میں دینے سے انکار کیا جس نے طلاق دی تھی تو حالانکہ اسکی ہمیشہ خوراضی تھی لیکن نکاح تب ہوا جب آیت اتری اور معقل نے اس کے سامنے سر جھکا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا معاملہ کسی دوسرے کے سپرد کرے۔ ام سلمہ کی طرف کئی لوگوں نے پیغام بھیجا اور اس نے کہا عبدالرحمن بن حوف سے کیا عبدالرحمن بن حوف اس کے ولی نہ تھے تو انہوں نے کہا تم مجھے اختیار دیدو اس سے ثابت ہوا کہ جب ولی نہ ہو تو اختیار عورت کا ہے۔ یہ عینی ہے کہ اس کی وضاحت عبدالرزاق نے کی ہے اور ابن جریر سے روایت کی ہے کہ اس نے عطا سے کہا کہ ایک عورت کو اس کے چچا کا بیٹا بنیام بھیجا ہے اور اس کے سولے اس کا کوئی ولی نہیں تو انہوں نے کہا کہ چاہئے کہ وہ گواہی دے کہ فلاں نے اسے پیغام بھیجا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کا نکاح کر دیا یا اپنے قبیلے میں سے کسی آدمی کو کہ میرے بیٹھی معاملہ دوسرے کے سپرد کرنے کی صورت ہے۔ ملا مکرر روایت نہایت مختصر ہے۔ فی قولہ ویستفتونک فی النساء تل اللہ یفتیکہ ذہن الی الخرا لایۃ قالت ہی الیتیمۃ نکدت فی حجر الرجل قد فتوکہ فی مالہ فیرض عنہا ان یتزوجہا دیکرہ ان یتزوجہا غیرہ فینحل علیہ فی مالہ فیحببہا فہذا ہم اللہ عن ذلک ملا یہ روایت ۱۱۲۰ کی گذشتہ مکرر روایتوں سے مختصر ہے مگر ۱۱۲۰ سے زیادہ تفصیل اس میں ہے۔ کہنا عند النبی صلعم جلوس فاقا ہ وہ امراۃ تعرض لفسا علیہ فحفض فیہا النظر ورفعه فلم یردہا فقال رجل من اصحابہ زوجنیہا یا رسول اللہ قال اعذلک من شیئ قال ما عندی من شیئ قال ولا خاتما من حدید قال ولا خاتما من سدید یعنی اسٹی بردی ہذا ہذا عطا فیہا السمیت واخذت من قال لاصل مولی من القرآن شیئ قال نعم قال اذهب فقد زوجتکھا باماعتک من القرآن

۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰

(۶۸) بَابُ الْوَلِيْمَةِ حَتَّى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

بَابُكْ وَيَمُرُّ دُرَّتْ مِنْهُ لَعَلَّ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَرَّجَحْتُمْ سَيِّئًا مِمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرِيًّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ رَمَى - ۱۲۶۶۱ عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۹۵۴) (۶۹)

کے دیکھو حدیث ۱۹۵۴

بَابُ الْوَلِيْمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ رَمَى - ۲۶۶۲ عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۰۲۰) (۲۰۰۳) عَنْ

بَابُكْ وَيَمُرُّ كَرَّجَحْتُمْ سَيِّئًا مِمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرِيًّا

أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کا ولیمہ مقدار رو بیع جانے پر نہیں کیا جس قدر زینب

زَيْنَبٍ أَوْلَمَ بِشَاةٍ رَمَى - ۲۶۶۳ عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۲۶۶) رَمَى - ۲۶۶۴ عَنْ

کے دیکھو حدیث ۲۶۶

أَنَسٍ (متكرر - ۱۹۵۴) (۱۹۵۴) بَابُ مِنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِمُ الْكَثْرَ مِنْ

بَابُكْ جَوَابُكَ بِيْرِي كَا وَيَمُرُّ دُرَّتْ مِنْهُ لَعَلَّ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَرَّجَحْتُمْ سَيِّئًا مِمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرِيًّا

بَعْضٍ رَمَى - ۲۶۶۵ عَنْ أَنَسٍ ثَابِتٍ (متكرر - ۲۰۰۳) (۲۰۰۳) بَابُ مِنْ أَوْلَمَ بِأَكْفَلٍ

کے دیکھو حدیث ۲۰۰۳

مِنْ شَاةٍ رَمَى - ۲۰۰۸ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے ولیمہ کیا صاف بنت شیبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ (۲۰۰۲) بَابُ حَقِّ رَجَاةِ الْوَلِيْمَةِ

ابنی بعض بیویوں کا ولیمہ دو مار جو سے کیا ہے بَابُكْ رُوْعُوْتِ وَيَمُرُّ دُرَّتْ مِنْهُ لَعَلَّ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَرَّجَحْتُمْ سَيِّئًا مِمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرِيًّا

وَالدَّعْوَةَ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهَا وَلَمْ يُؤَقِّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے قبول کرنے کا حق اور جو سات دن اور اس کی مانند ولیمہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ (۲۰۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

ابن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

انزل فی حبشۃ رسول اللہ صلعم بزینب ابنتہ بحشۃ ابیہ النبی صلعم بہا عروسا فاعزها القوم فاصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رطل منهم عند النبي صلعم فاطلوا الملك فقام النبي صلعم فخرج وخرجت معه لکے یخرجوا فیستہ النبی صلعم و مشیت حتی جا عتبتہ حجرة عاشتہ ثم ظن انهم خرجوا فرجع ورجعت معه عتہ اذا دخل عتہ فاذا اهدم جلوس لم یقوموا فزعم النبی صلعم ورجعت معه حتہ اذا بلغ عتبتہ حجرة عاشتہ وظن انهم خرجوا فرجع ورجعت معه فاذا اهدم قد خرجوا انصری بنا النبی صلعم دینی و دینتہ بالستردا نزل الحرجاب میں نبی کریم صلعم نے خود بھی دعوت ولیمہ دی کہ وہ روایت کچھ اختلاف الفاظ سے آئی ہے قال سال النبی صلعم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الانصار کم اصدقتها قال وزن نواة من ذهب وعن حمید سمعت اشقا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الانصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربیع فقال اقامتک مالی وانزل لنا عن احدی امراتی قال باریک الله لك فی اهلك ومالك فخرج الی السوق فباع واشتری فاصاب شیئا من اقط وسمن یعنی پیلے دن ۷۰۰۰ میں سے قال ثم تابع الغد یعنی ہر روز صبح چلے جاتے تھے تو زوجہ فقالت لنبی صلعم اولم ولویشاة ۷۰۰۰ یعنی ہی سے بی بی عوف و ولیمہ تھی او اس میں صرف ایک بکری تو کئی گئی تھی ۱۵۰۰ غنہ وغیر کے متعلق کسی حدیث ہے یہاں بہت احتیاط سے صرف ولیمہ الا حصہ لیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم عتق صحفیتہ وتزوجها وحول عتقها حندا قها اولم علیہا عتیس ۷۰۰۰ ملا بہت مختصر ہے۔ نبی لنبی صلعم با مرأة فارسلتہ من عوف رجا لاطعام کے ثابت راوی کے کہ ان الفاظ سے حدیث کو شروع کیا ہے قال ذکر تزویج زینب ابنتہ بحشۃ عن انس اور اس کے بعد ۷۰۰۰ کے الفاظ میں فقال ما رایت النبی صلعم اولم على احد من نسائه ما اولم عليهن اولم بشاة ۷۰۰۰ اس میں حضرت ام سلمہ کے ولیمہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ۷۰۰۰ سات دن کے متعلق کوئی حدیث نہیں لائے صرف اسی سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلعم نے ایک یا دو دن تفر نہیں کئے سات دن ولیمہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو سات دن تک بلا تا ہے یعنی میں ہمیشگی کی روایت کا ذکر ہے کہ میر نے ولیمہ میں شادی کی اور ولیمہ کیا تو سات دن تک لوگوں کو بلا تے رہے مطلب یہ ہے کہ ان ۷۰۰۰ معاملات میں جب تک شریعت کوئی حد بندی نہ کرے کوئی حد بندی نہیں کی جاسکتی

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى تَوْلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعویمے لئے بلایا جائے تو چاہے کہ اس پر جائے

۲۶۶۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۳۸۸ (۵۰-۲۶۶۶) عَنْ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ (مُتَكَوِّرًا) ۶۷۰ (۶۷۰-۲۶۶۶) دیکھو حدیث ۳۸۸ ۱۶۷۰ دیکھو حدیث ۶۷۰

۲۰۴۰ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ الشَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... سہل بن سعد سے روایت ہے کہا کہ ابو اسید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

وَسَلَّمَ فِي عَرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَةً لَهُمْ وَهِيَ الْعُرْسُ قَالَ سَهْلٌ تَلَسُّوْنَا ابنتی شادی پر بلایا اور اس کی بیوی اس دن نکلی خدمت گزار بنی تھی اور وہی عروس تھی اس کا نام تلسون

وَأَسَقَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقَعَ لَهُ مَرَاتِمٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَّتَهُ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوبلایا تھا رات کو کھجوریں بھگو دیں جب آپ نے کھا نا کھا یا تو اس نے آپ کو وہ

رَأْيَاهُ (۳۷۱) بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۲۰۴۱) بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۲۰۴۱) پلایا جس نے دعوت کو رد کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ أَوْلِيَمَةٍ يُدْعَى اس کے لئے

لَهَا الْأَخْيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفَقْرَاءَ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امیروں کو بلایا جائے اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ اور جس نے دعوت کو رد کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

نَافِرَانِي كِي بَابُكُ جَوْبِكُمْ كِي اَبِيكَ سَتُ اَبِيكَ تَقْبُولُ كِي

مُتَكَوِّرًا (۱۲۱۱) ۵۱۱۱ (۲۰۴۱) بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي لَعْرُسٍ وَخَدِّهَا (۲۰۴۱) دیکھو حدیث ۱۲۱۱ ۵۱۱۱ بارہک شادی وغیرہ میں دعوت کو قبول کرنے کی دعوت قبول کرنا

كَبُرَ اللَّهُ بُرْعُهُ (مُتَكَوِّرًا) ۲۰۴۹ (۲۰۴۹) بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ دیکھو حدیث ۲۰۴۹ ۲۰۴۹ بَابُكُ عَمْرُوتوں اور بچوں کا

رَأَى الْعُرْسَ (۲۰۴۰) ۲۶۶۰ (۲۰۴۰) بَابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا شَادَى فِي جَانَا دیکھو حدیث ۲۰۴۰ ۲۶۶۰ بَابُكُ عَمْرُوتوں اور بچوں کا

رَأَى مُتَكَوِّرًا فِي الدَّعْوَةِ وَرَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي بَيْتِ فَرَجِحٍ وَدَعَا ابْنَ عَمْرٍو أَبَا کام دیکھو تو کیا لٹ آئے اور ابن مسعود نے گھر کے اندر تصویر بھیجی تو لوٹ آئے اور ابن عمر نے ابو ایوب

أَيُّوبَ فِي بَيْتِ سَدْرَةَ عَلَةَ الْجَدَارِ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو غَلَبْنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ کہو دعوت دی تو انہوں نے گھر کے اندر دوپارہ پر وہ دیکھا تو ابن عمر نے کہا اس میں عورتیں ہم پر غالب آئیں

بلکہ دعوت کے قبول کرنے کا ذکر ۱۲۱۱ میں نہیں ۱۲۱۱ میں لفظ یہ ہیں۔ عن النبی صلعم قال نکوا العان واجیبوا الداعی ۳۸۸ میں اس کی بجائے سے واطعموا الخائیر وعودوا المررض لفظ آگے پیچھے ہیں مگر واطعموا تو ابی قرینا وہی ہیں۔ اور امر یہ دد السلام کی جگہ انتشار السلام ہے اور تو ابی میں حوزہ کی جگہ مینا قریب جمعہ شادی کی جمع جس کے معنی ہیں بیٹھنے کی گدی تو رشیم کی ہو۔ اور اولہ مذکورہ حدیث میں سے ایک امر اجابۃ الداعی یعنی دعوت کرنے والے کی دعوت کا قبول کرنا۔ بلکہ اس سے معلوم ہوا کہ خود وہ ابن بھی ہماروں کو کھا نا کھلائے ہیں

شریک ہو سکتی ہے۔ بلکہ یعنی ایسا ولیہ بہت برا ہے کہ صرف امیر میں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دعوت ولیہ محدود تو یقیناً ہوگی۔ سب کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بنانے اور چھوڑنے میں امارت اور غربت کا لحاظ نہ کرے۔ بلکہ لفظ یوں ہیں: عن النبی صلعم قال لودعیت الی کساع روہاں ودنوں کلجی ذراعہ او کراہ ہے کہ اجبت و لو اهدی الی ذراعہ لقبلت۔ بلکہ یہاں لفظ اور ہیں۔ یہی قول قال رسول اللہ صلعم اجیبوا ہذا الدعوتہ اذا دعیتہا قال کان عبد اللہ یاتی الدعوتہ فی العرس وغیر العرس دھو صائم، بلکہ لفظ قریباً وہی ہیں۔ قال حبیب انہ قال کو چھوڑ دیا یعنی یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ شادی کی دعوت سے واپس آ رہے تھے۔ اور قدام ہمشلا کی جگہ ہے قدام ہمشلا یعنی یعنی قوت کے ساتھ کھڑے ہونے کی قوتی سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔

ملایہ واقعت حضرت
عبداللہ کے بیٹے
سالم کی شادی پر باپ
وغیرت کا ہے۔
معلوم ہوتا ہے ان
پر دوں پر ایسی ذمہ
تعمیر میں نہیں جن
کا دیکھنا حضرت
ابو ایوب نے پسند
نہیں کیا جیسا کہ
پہلی تعلیم میں ہے
کہ ابن مسعود نے
تفسیر دیکھی تو
لوٹ آئے حضرت
ابو ایوب کی رائے
اس بات پر تھی کہ
ابن عمر کے گھر میں
ایسی چیز نہ ہونی
چاہئیں تھیں اور
کسی کے ہاں ہوتی
تو ہوتی ہ
ملی انہی الفاظ
میں حدیث کو
دوہرا لیتے دیکھو

فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللَّهِ لَا أَطْعِمُ لَكَ رِطْعًا مَا فَرَجَهُ
ابو ایوب نے کہا اور کسی کے متعلق تو مجھے شریک ہے متعلق مجھے کوئی ڈرنے والا اللہ کی قسم میں اسے کھانا نہیں کھاؤں گا اور پس چلے گئے علی

(م۔ ۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (م. ۱۰۵۰) (۷۸) بَابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجَالِ فِي
دیکھو حدیث ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ باب عورت کا شادی میں مردوں کے لئے اظہار کرنا

الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّقِيسِ (م۔ ۲۶۷۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ (م. ۲۰۷۰) (۷۹) بَابُ
اور خود ان کی خدمت کرنا ملے دیکھو حدیث ۲۰۷۰۔ ۲۰۷۱۔ باب

النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْتَكْرَمُ فِي الْعُورِ (م. ۲۶۷۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ (م. ۲۰۷۰) (م. ۲۰۷۰) (۸۰)
شادی میں نقیع اور اس شربت کا استعمال جو نشہ دے ملے دیکھو حدیث

(۲۰۷۰) (۸۰) بَابُ الْمُدَاوَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلُ لَيْبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
باب عورتوں کی خاطر داری کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھو حدیث

الْمَرْأَةُ كَالضَّالِّجِ (م۔ ۲۶۷۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م. ۱۵۰۳) (۸۱) بَابُ الْوَصَاةِ
عورت پہلی کی مانند ہے دیکھو حدیث ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ باب عورتوں کے متعلق

بِالنِّسَاءِ (م۔ ۲۶۷۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م. ۱۵۰۳) (۸۲) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ باب عورتوں کی وصیت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَفَخَ الْكَلَامَ وَالْأَنْبِيَاءُ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم عورتوں سے زیادہ بات چیت اور میل ملاپ سے بچتے تھے

وَسَلَّمَ هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فَيُنَازِلُ فَيُنَازِلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كُنَّا
اس دور سے کہ ہمارے متعلق کوئی حکم آئے سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے رکھ رکھاؤ سے

وَأَنْبَسْنَا (م. ۸۲) بَابُ قَوْلِ الْفَسَادِ وَأَهْلِكَ نَارًا (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
بات چیت کی اور میل جول کیا باب اپنی جاؤں اور اپنے گمراہوں کو آگ سے بچاؤ اور تحریم۔ ۶) دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

بَابُ عَمْرٍو (م. ۲۶۷۵) (۸۳) بَابُ عَمْرٍو
دیکھو حدیث ۵۲۲۔ ۵۲۳

یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس میں "بَابُ عَمْرٍو" کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس میں "بَابُ عَمْرٍو" کے الفاظ ہیں۔

(۸۳) بَابُ حَسَنِ الْمَعَاشِرَةِ مَعَ الْأَهْلِ (۲۰۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ أَحَدُ عَشْرَةٍ عُرُوقٍ مَعَهُمَا بَعْلَتَا يَحْمَرَانِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ گیارہ عورتیں

عَشْرَةٌ امْرَأَةً مُتَعَاهِدِينَ وَتَعَاوَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَحْبَابِهِمْ شَيْئًا

اور انہوں نے باہم عہد اور اترا کر کیا کہ اپنے غائبوں کے حالات میں سے کچھ نہ چھپائیں گی

قَالَتْ الْأُولَىٰ زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌّ عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلَ فِيمَنْ تَقَىٰ وَلَا سَوِيحٌ

پہلی نے کہا میرا شوہر میسے میلے اونٹ کا گوشت بہاؤ کی چوٹی پر نہ رواہ (آسان) ہے کہ اس پر چڑھ جائے پڑھتا چوٹی والا ہے

فَيَتَقَلُّ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَابِرَةَ إِنَّ أَخَاتِ أَنْ لَا أَدْرِكَنَّ أَذُنَكَ

کہ اسے لایا جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کی خیر ظاہر نہیں کر سکتی میں ڈرتی ہوں کہ میں اسے چھو نہ سکوں۔ تیسری نے کہا میں تو اسے نہیں دیکھتی

أَذُنُكَ حَمْلًا وَبَحْرًا قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي لَعَشْتُكَ إِنْ أَنْطَقَ أَطْقَ وَإِنْ أَسْكَنْتَ وَعَلَا

تو اس کے غم اور باطن (درد) میں رہے گی۔ چوتھی نے کہا میرا شوہر ایک بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَمِيلٍ تَهَامَةٌ لَا حُرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا حَنَافَةٌ وَلَا سَامَةٌ قَالَتِ

پانچویں نے کہا میرا شوہر ایک ہلکا سا بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فُهُدًا وَإِنْ خَرَجَ أُسَدًا وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَمَدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ

نے کہا میرا شوہر ایک بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفَّ وَلَا يُبْرِجُ الْكَفَّ

چھٹی نے کہا میرا شوہر ایک ہلکا سا بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

لِيُعْلَمَ الْبَيْتُ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيًّا يَأْءُ أَوْ غَيًّا يَأْءُ غَاكَلًا عِلًّا دَاءً شَجَاكَلًا

ہے اور بٹھاؤ نہ نہیں تاکہ دوسری کے دکھ کو جانے۔ ساتویں نے کہا میرا شوہر ایک بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمْرٌ كَلَاكٌ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَمْسٌ مَسٌّ أَرْبَبٌ وَالرَّابِعَةُ زَوْجِي

چٹھاہر ایک جب اس میں جو دوسری تیرا تیرا ہے یا پتھر یا توئی یا دونوں کام کے گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي رَبِّعٌ الْجَمَادِ طَوِيلٌ الْجَمَادِ عَظِيمٌ الزَّمَادِ قَرِيبٌ الْبَيْتِ

تیسری نے کہا میرا شوہر ایک بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

مِنَ التَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَا لَكَ وَمَا مَالُكَ مَا لَكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ

دسویں نے کہا میرا شوہر ایک بھاری مرگ کی رات ہے جو گھمٹنے کے کام میرا شوہر ہو گا تو تو شریٰ کی طرح ہے

۱۰۲۲۱
۱۰۲۲۲
۱۰۲۲۳
۱۰۲۲۴
۱۰۲۲۵
۱۰۲۲۶
۱۰۲۲۷
۱۰۲۲۸
۱۰۲۲۹
۱۰۲۳۰
۱۰۲۳۱
۱۰۲۳۲
۱۰۲۳۳
۱۰۲۳۴
۱۰۲۳۵
۱۰۲۳۶
۱۰۲۳۷
۱۰۲۳۸
۱۰۲۳۹
۱۰۲۴۰
۱۰۲۴۱
۱۰۲۴۲
۱۰۲۴۳
۱۰۲۴۴
۱۰۲۴۵
۱۰۲۴۶
۱۰۲۴۷
۱۰۲۴۸
۱۰۲۴۹
۱۰۲۵۰
۱۰۲۵۱
۱۰۲۵۲
۱۰۲۵۳
۱۰۲۵۴
۱۰۲۵۵
۱۰۲۵۶
۱۰۲۵۷
۱۰۲۵۸
۱۰۲۵۹
۱۰۲۶۰
۱۰۲۶۱
۱۰۲۶۲
۱۰۲۶۳
۱۰۲۶۴
۱۰۲۶۵
۱۰۲۶۶
۱۰۲۶۷
۱۰۲۶۸
۱۰۲۶۹
۱۰۲۷۰
۱۰۲۷۱
۱۰۲۷۲
۱۰۲۷۳
۱۰۲۷۴
۱۰۲۷۵
۱۰۲۷۶
۱۰۲۷۷
۱۰۲۷۸
۱۰۲۷۹
۱۰۲۸۰
۱۰۲۸۱
۱۰۲۸۲
۱۰۲۸۳
۱۰۲۸۴
۱۰۲۸۵
۱۰۲۸۶
۱۰۲۸۷
۱۰۲۸۸
۱۰۲۸۹
۱۰۲۹۰
۱۰۲۹۱
۱۰۲۹۲
۱۰۲۹۳
۱۰۲۹۴
۱۰۲۹۵
۱۰۲۹۶
۱۰۲۹۷
۱۰۲۹۸
۱۰۲۹۹
۱۰۳۰۰
۱۰۳۰۱
۱۰۳۰۲
۱۰۳۰۳
۱۰۳۰۴
۱۰۳۰۵
۱۰۳۰۶
۱۰۳۰۷
۱۰۳۰۸
۱۰۳۰۹
۱۰۳۱۰
۱۰۳۱۱
۱۰۳۱۲
۱۰۳۱۳
۱۰۳۱۴
۱۰۳۱۵
۱۰۳۱۶
۱۰۳۱۷
۱۰۳۱۸
۱۰۳۱۹
۱۰۳۲۰
۱۰۳۲۱
۱۰۳۲۲
۱۰۳۲۳
۱۰۳۲۴
۱۰۳۲۵
۱۰۳۲۶
۱۰۳۲۷
۱۰۳۲۸
۱۰۳۲۹
۱۰۳۳۰
۱۰۳۳۱
۱۰۳۳۲
۱۰۳۳۳
۱۰۳۳۴
۱۰۳۳۵
۱۰۳۳۶
۱۰۳۳۷
۱۰۳۳۸
۱۰۳۳۹
۱۰۳۴۰
۱۰۳۴۱
۱۰۳۴۲
۱۰۳۴۳
۱۰۳۴۴
۱۰۳۴۵
۱۰۳۴۶
۱۰۳۴۷
۱۰۳۴۸
۱۰۳۴۹
۱۰۳۵۰
۱۰۳۵۱
۱۰۳۵۲
۱۰۳۵۳
۱۰۳۵۴
۱۰۳۵۵
۱۰۳۵۶
۱۰۳۵۷
۱۰۳۵۸
۱۰۳۵۹
۱۰۳۶۰
۱۰۳۶۱
۱۰۳۶۲
۱۰۳۶۳
۱۰۳۶۴
۱۰۳۶۵
۱۰۳۶۶
۱۰۳۶۷
۱۰۳۶۸
۱۰۳۶۹
۱۰۳۷۰
۱۰۳۷۱
۱۰۳۷۲
۱۰۳۷۳
۱۰۳۷۴
۱۰۳۷۵
۱۰۳۷۶
۱۰۳۷۷
۱۰۳۷۸
۱۰۳۷۹
۱۰۳۸۰
۱۰۳۸۱
۱۰۳۸۲
۱۰۳۸۳
۱۰۳۸۴
۱۰۳۸۵
۱۰۳۸۶
۱۰۳۸۷
۱۰۳۸۸
۱۰۳۸۹
۱۰۳۹۰
۱۰۳۹۱
۱۰۳۹۲
۱۰۳۹۳
۱۰۳۹۴
۱۰۳۹۵
۱۰۳۹۶
۱۰۳۹۷
۱۰۳۹۸
۱۰۳۹۹
۱۰۴۰۰

خوب آرام کرتا ہے اس کے بالمقابل دوسری صفت کہ باہر جاتا ہے تو شریں جانتا ہے۔ اگلے جلد میں بیان کی یعنی اس قدر شجاع ہے کہ کام سے ٹھکانا اور کسی سے خوف نہ کرتا ہے، ہلکا شیایا، اوغیا یا۔ یہ نیک راوی کی طرف سے ہے کہ کیا لفظ لایا خود بیان کر نیولی کی طرف سے ہے۔ غیایا جو غیجی میں منہمک ہوا جس پر امور پسے پوشیدہ ہو جائیں کہ کوئی روشنی کی جھلک باقی نہ رہے اور غیایا الذی حی بالآلام یعنی کام میں عاجز آجائے۔ اور اسے کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ طباقاً وہ المصطفیٰ علیہ آلام و صمحاء و قیل الذی یحج عویراً الکلام، یعنی ایسا مغلوب لفظ ہے کہ اپنے گے تو اسے کچھ پروا نہیں ہوتی کہ کمر پھینکے یا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس طرح بے محاشا مانا چلا جاتا ہے کہ سر ہی پھٹ جائے تو صبر نہیں کرتا پھر کوئی عضو بھی توڑ دیتا ہے، ہلکا خوکوش جھونے میں نرم ہوتا ہے اور فزب ایک نبات یا گھاس کی قسم ہے جو ہماہمیت خوشبودار ہوتا ہے۔ اور بعض نے اسے زعفران کہا ہے، ہلکا رفیع العمامہ عاد یا عود گھر کا ہے تو مرد و بیباں عالی نسب ہے یا اوچے گھر والا تاکہ اہل حاجت اس کے گھر کو دور سے دیکھ کر ادھر آجائیں۔ طویل النجاد۔ نقاد تلوار کی تمثال ہے اور مرد طویل النجاد ہے۔ کیونکہ تلوار کی حامل اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہے، ہلکا اس کے ہاں اس قدر ٹھکانا بھانے والے آتے ہیں کہ زیادہ آگ جھلنے کی وجہ سے رکھنے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ہلکا برطی عزت والا اور سرسوار قوم ہے کیونکہ ایسے ہی شخص کا گھر تو مہم کے اجتماع کی جگہ سے قریب ہو سکتا ہے۔

(۲۶۷۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متاثر - ۳۱۸) (۸۴) بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ بِنْتِهِ

وکیچو حدیث ۳۱۸ عا۔ باب میں مرد کا اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کی خاطر

بَابُ زَوْجِهَا رَمَى - ۲۶۷۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (متاثر - ۱۱۷۷) (۸۵)

وکیچو حدیث ۱۱۷۷ عا۔ باب میں

صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا رَمَى - ۲۶۷۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متاثر -)

بیوی کا اپنے خاوند کی اجازت سے فعلی روزہ رکھنا وکیچو حدیث

(۲۰۴۵) (۸۶) بَابُ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَهْجُورَةً فَرَأَتْ زَوْجَهَا رَمَى - ۲۶۷۹

باب میں جب بیوی اپنے خاوند کے چھوڑنے کو چھوڑ کر سوتے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متاثر - ۱۲۶۶) (۸۷) (۲۶۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متاثر - ۱۲۶۶)

وکیچو حدیث ۱۲۶۶ عا۔ وکیچو حدیث ۱۲۶۶ عا۔

(۸۷) بَابُ لَا تَأْذِنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا كَأَنَّهَا بَارِدٌ فِيهِ (۲۰۴۵)

باب میں بیوی اپنے خاوند کے گھر کسی کو اس کی اجازت کے بغیر رائے کی اجازت نہ دے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا يَجْعَلُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذِنِ فِي بَيْتِهِ

کسی عورت کو جائز نہیں کہ روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے اور اس کے گھر میں اس کا جائز نہ ہو کسی کو اس کی

إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا نَفَقَتْ مِنْ تَفَقُّطٍ عَنْ خَيْرِ أَمْرٍ فَإِنَّهُ يُؤْتِي رَأْيَهُ شَطْرَهُ

اجازت نہ دے اور جو کچھ اس کے حکم کے بغیر ادا کرے (یا اسے خرچ کرے) تو اس (مرد) کو اس کا اسی جواب ملے گا

(۸۸) بَابُ (۲۰۴۶) عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنْتَهَى

باب میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةً مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَنْجَبِ سَوَّوْنَ

جنت کے دروازہ پر گھڑا ہوا تھا تو عام طور پر جو اس میں گئے وہ مسکین تھے اور آسودہ حال مرد گئے

غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أَمَرَهُمْ إِلَى النَّارِ وَمَنْ عَلِمَ بِالنَّارِ فَإِنَّ عَامَّةَ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ

مگر دوزخ والوں کے متعلق حکم ہوا کہ انہیں دوزخ میں بھیجاؤ اور میں دوزخ کے دروازہ پر گھڑا ہوا تو عام طور پر جو اس میں گئے وہ عورتیں تھیں

۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

۲۰۴۸ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعْرَلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عرل کیا کرتے تھے اور قرآن اتر رہا تھا اور ایک روایت

ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرل کیا کرتے تھے اور قرآن

۲۰۴۹ (م- ۲۰۴۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکثر- ۱۰۹۲) (۹۸) بَابُ الْقُرْآنِ بَيْنَ النَّسَاءِ

ابن سعید (متکثر- ۱۰۹۲) باب عورتوں کے درمیان قرآن اترنا

۲۰۵۰ (م- ۲۰۵۰) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے

خَرَجَ أَقْرَعُ بَيْنَ النَّسَاءِ فَطَارَتْ الْقُرْآنُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تو ایک مرتبہ قرعہ عائشہ اور حفصہ کے نام کا نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَكَلْتُ كَبَابَ

جب رات ہوئی تو حضرت عائشہ کے ساتھ چلنے اور بات چیت کرتے تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا

اللَّيْلَةَ بَعِيدِي وَأَرْكَبُ بَعِيرِي تَتَطَهَّرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ جَاءَ النَّبِيُّ

کہا آپ آج رات میرے اونٹ پر سوار نہیں ہو جائیں آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں عائشہ نے کہا ہمت اچھا اور وہ سوار ہو گئیں نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ نَسِمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف آئے اس پر حضرت حفصہ سوار تھیں آپ نے کہا السلام علیکم کہا اور چلے گئے وہاں تک

وَأَفْتَقَدْتَهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجُلَيْهَا بَيْنَ الْأَذْخَرِ وَقَوْلُ يَارَبِّ سَطِّ

ایک جگہ اترے حضرت عائشہ نے آپ کو نہ پایا پس جب اتر گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے دونوں پاؤں اذخر کے ڈھیر میں رکھ دیئے اور

عَلَى عَقْرِي أَوْ حَيَّةٌ تَلْدُ عَنِّي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا (۹۹) بَابُ الْمَرْأَةِ

کہنے لگیں اے اللہ مجھ پر مجھو یا سناں سنا کر کھجے گا نہ درجھے طاقت نہ تھی کہ میں آپ کو کچھ کہوں سٹ باب عورت

تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِيُضْمِرَ تَهَا وَيَكْتُمُ يَوْمَهَا ذَلِكَ (۱۰۰) (۲۰۴۹) عَنْ عَائِشَةَ

اپنی باری اپنی سوکن کو دیکھیے اور باری کس طرح تقسیم ہو

(متکثر- ۱۲۲۱) (۱۰۰) بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ

دیکھو حدیث ۱۲۲۱ باب بیویوں میں انصاف کرنا اور تم اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز انصاف نہ کر سکتی

النَّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَإِسْعًا حَكِيمًا (۱۰۱) بَابُ إِذَا نَزَّ وَجَرَ الْبِكْرُ عَلَى الشَّيْبِ

اللہ کے قول و اسعًا حکیمًا تک (النساء- ۱۰۱) باب ایک جب بیبہ پر کنواری سے نکاح کرے

(م- ۲۰۴۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکثر- ۲۰۵۰) (۱۰۲) بَابُ إِذَا نَزَّ وَجَرَ الشَّيْبُ عَلَى الْبِكْرِ

دیکھو حدیث ۲۰۵۰ باب ایک جب کنواری پر بیبہ سے نکاح کرے

شَلَا حَتَّى يَمُوتَ كَيْ يَمُوتَ بِرَأْسِهَا حَتَّى يَمُوتَ بِرَأْسِهَا حَتَّى يَمُوتَ بِرَأْسِهَا حَتَّى يَمُوتَ بِرَأْسِهَا

رسول اللہ صلعم انتقال اوانکہ لفقولون فالتا تلتا ثلثا من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا هي كائنة صلعم يعني منذ امت حتى كرسول الله صلعم كى

اجارت کے بغیر کیوں ونٹ تبدیل کیا یہ تھا عائشہ نے اپنے لئے بدو عا کی جو جائز نہ تھی جسکا پہلا حصہ جو سفر کے متعلق ہے چھوڑ دیا ہے لفظ یہ ہیں

ان سوڈہ بنت زهقة وھبت يومها الوائشة وكان النبي صلعم يقسم لعائشة يومها ويوم سوڈة - حضرت سوڈہ بنت بوڑھی ہوئی تھیں نبی کریم صلعم نے ہر ایک

بیوی کی باری ایک دن ات مقرر کی ہوئی تھی اور چونکہ حضرت سوڈہ نے اپنی باری کی دن حضرت عائشہ کو دیدیا تھا اسلئے حضرت عائشہ کی باری تو دن ات تھی مگر آپ نے روزانہ تمام

بیویوں سے ملاقات کرتے اور ان کے گھروں میں ہوتے تھے صلعم اس باب میں حدیث کوئی نہیں صرف آیت قرآنی پر اکتفا کیا ہے آیت تفسر آئی ہیں یہ ارشاد ہے -

(۱۰۷) **بَابُ الْمُتَشَبِّحِ بِمَا لَمْ يَنْبَلْ وَمَا يَنْبَغِي مِنْ اخْتِارِ الصُّوَرَةِ (۲۰۵۳)**

ماہنامہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا پانے والا ظاہر کرنا جو اسے ملی نہیں اور نہ کن کا (بوسہ) بخر کرنا منع ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي صُورَةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحُ أَنْ

اسما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک سونہ ہے تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا کہ

تَشَبِّهْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي بَعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں اپنے خاوند کی نسبت وہ ظاہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کو

الْمُتَشَبِّحِ بِمَا لَمْ يَعْطُ كَلَّا بَسْ ثَوْبِي زَوْرًا (۱۰۸) بَابُ الْغَيْرَةِ وَقَالَ وَرَأَى

اس چیز سے آراستہ دکھانا جو اسے دی نہیں گئی ایسا ہے جیسے کمزور فریک جوڑا اپنے والہ باہنٹا غیرت کا بیان اور وراوے وغیرہ سے

عَنِ الْمَغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضُرِّيْتُ بِالسَّيْفِ

روایت کی کہ سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو اسے تلوار سے ماروں گا

غَيْرِ مُصْرِفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْبُونَ مِنَ غَيْرَةِ سَعِيدٍ لَأَنَا أَخِيرُ

(مگر) جوڑائی سے نہیں یعنی تلوار کی دھار سے قتل کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے البتہ میں

مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي (م- ۲۶۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر- ۱۹۱) (۲۰۵۳) عَنْ

سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۹۱۷ حضرت

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد

مَّا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أُمَّتَهُ يَزْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَوْ تَعْلَمُونَ

اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام یا اپنی لونڈی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اے امت محمد اگر تم وہ جانتے

مَّا أَعْمَ لَضِحِكُمْ قَلِيلًا وَ لَبِكَيْتُمْ كَثِيرًا (۲۰۵۴) عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ

جو میں جانتا ہوں تو تم غیور ثابت ہوتے اور بہت روکتے اسما سے روایت ہے کہ انہوں نے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ (۲۰۵۵) عَنْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاڑتے تھے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں ہے

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غیرت والا

يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (۲۰۵۶) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

ہے اور اللہ کو اس بات پر غیرت آتی ہے کہ ایماندار شخص نے کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسما بنت ابی بکر سے روایت

أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي لِزُبَيْرٍ وَمَالَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَالٍ وَلَا

میں کوئی غلام اور وہ کوئی اور چیز سولے اس کے زمین کو پانی نہیں ملے اور نہ اس کے اور سولے اس کے گھوڑے کے میں اس کے گھوڑے کے لئے

مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ فَكَلَنْتُ أَعْلَفَ فَرَسَهُ وَأَسْتَقَمَ الْمَاءَ

وَأَسْرُ زَعْرَبِيَّةَ وَأَسْجَنَ وَلَمْ أَكُنْ أَحْسَنُ أَخْبَرًا وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتِي مِنَ الْأَنْصَلِ

گھاس لایا کرتی تھی اور پانی لایا کرتی تھی اور اس کے (چمچے) ڈول کو سیتی تھی اور آٹا کو دھتی تھی اور روٹی اچھی طرح نہ بیک سکتی تھی اور میری اٹھاری

وَكُنْ نِسْوَةً صَدِيقٍ وَكَلْتُ الْقُلُوبَ مِنَ التَّوْبَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ

ہمیں جو ہمیں دوستی کا دوستی نہیں اور وہ صدق و وفادار اور نبی نہیں اور میں اپنے سر پر چھوڑی تھیں ان زمینوں سے جو رسول اللہ

یہاں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کی نسبت وہ ظاہر کر کے کہ اسے خاوند نے یہ دیا ہے یا وہ بیچارہ حالانکہ وہ چیزیں اسے نہیں ملیں۔ اختلاف الضوۃ کی جگہ بعض روایات میں اشجار الطوبیٰ ہے جس کے منے ہیں سوکن کو بیج اور قلع پھینکانا۔ اس مطلب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات میں ان حدود کی پابندی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی ہیں۔ کیونکہ انسان کو وہ غیرت نہیں ہو سکتی جو اللہ کو ہے۔ اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ کسی قدر غصہ کیا ہے، عن ابی سلمہ قال ما من احد اغیر من اللہ من اجل ذلك حرم الفواحش وما احب الی اللہ من اللہ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوَ الْمَوْتُ (م-۲۷۰۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

یا رسول اللہ خداوند کے رشتہ داروں کے متعلق کیا ارشاد ہے فرمایا یہ رشتہ دار تو موت میں ملے

(متکثر-۹۳۹) بَابُ مَا يُجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

بایضاح اس بات کا جائز ہونا کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ کیلا ہو

(م-۲۷۰۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکثر-۱۶۸۷) بَابُ مَا يَنْهَى

دیکھو حدیث ۱۶۸۷ بایضاح عورت نامردوں کا

مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ (م-۲۷۰۶) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

عورتوں کے پاس آنا منع ہے

(متکثر-۱۸۳۸) بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَيْشِ وَنَظَرِهِمْ مِنْ غَيْرِ

دیکھو حدیث ۱۸۳۸ بایضاح عورت کا حبش وغیرہ کی طرف دیکھنا بغیر کسی شے کے

رَبِيَّةٍ (م-۲۷۰۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکثر-۳۱۸) بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ

دیکھو حدیث ۳۱۸ بایضاح عورتوں کا اپنی ضروریات کے

لِلْحَاكِمِينَ (م-۲۷۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکثر-۱۲۷) بَابُ اسْتِئْذَانِ

بایضاح عورت کا اپنے خاوند

الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

سے مسجد وغیرہ جانے کے لئے اجازت لینا

۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰

عورتوں سے
حدیث میں مراد
غیر محرم عورتیں
ہی ہیں۔ اور ان
پر داخل ہونے
سے بھی مراد یہی
ہے کہ تہائی میں
ان کے ساتھ نہ
رہو کسی محرم کی
موجودگی میں کسی
اصحبی عورت کے
پاس جانا منع نہیں
جیسا کہ باب ۱۱۲
میں درج کروایا
ہے۔ خداوند کے
رشتہ داروں کے
متعلق فرمایا کہ یہ
قربت ہے اس
لئے کہ جوہر تعلقاً

کے پیچھے ہی ان کے معاملہ میں آزادی زیادہ ہوتی ہے تو غفلت میں وہ اور بھی زیادہ فتنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ بایضاح لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةِ الْأَمَةِ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَانِي خَرَجْتُ حَاجَةً وَالتَّبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا
وَكُنْتُ أَمَّا الرَّجُلُ رَجَعْتُ فِي مَجْرَمِ امْرَأَتِكَ - ۹۳۹ میں صاف مذکور ہے کہ لا ینکل علیہا رجل الا و معها محرم یعنی اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو
تو کسی ضرورت کے لئے کسی در آدمی کا اس کے پاس جانا جائز ہے۔ اور لا ینکلون کا مطلب بھی یہی ہے کہ خلوت میں اکیلے نہ ہو کوئی کہ فتنے اسی سے
پیدا ہوتے ہیں۔ بایضاح میان لفظوں میں ہیں: سجادت امراة عن ان نضار الى النبي صلعم فخلاها فقال الله انك من حب الناس التي
میان لفظ ہیں فخلاها یعنی اس کے ساتھ آپ نے علیحدگی کی۔ یہ لفظ ۱۶۸۷ میں نہیں ہے۔ مگر یہاں خلاہا سے مراد مرثی اسی قدر ہے کہ لوگوں کے
سامنے اسے علیحدہ لیجا کر اس سے بات چیت کی کہ ملک یہاں لفظوں میں ہیں۔ ان النبي صلعم کان عندی ہادی فی البیت فخلت فقال لانت لاخی
ام سلمة عبد الله بن ابی اُمیة ان فتح الله لک لظائف غدا اذ لک علی بنة عدلان فانها تقبل بالربع وقت برسمان فقال لنبی صلعم لا
یدخلن هذا علیک۔ اس لئے روکا کہ مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے فتنے کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ
یہاں کچھ زیادت ہے۔ قالت رایت النبی صلعم یستر فی بردائه وانا انظر الی المہیضة ینلجون فی المسجد حتی اکون انا الذی اسام
فانزلوا اقتدر الحاریة المحرقة السن الحرصة علی اللہو۔ بایضاح یہاں جھوٹو دیاسے اور آخر میں کچھ بڑھایا ہے۔ خرجت سودة بنت زمعه لیل
فراها سمرقند فقال انک والله یا سودة ما تحقین علینا فرجعت الی النبی صلعم فذکرت ذلک لہ وھو فی محرابی یتعشی شام کما کھا ناھا لیسے تھے
وان فی ین لہ عرقا رطی) فانزل علیہ فرجع عنہ وھو یقول قد اذن لکن ان تخرجین نحو الخنک۔ اسی مضمون کی حدیث م ۲۷۰۹ ہے ۱۲۷۷ اور ان
دونوں حدیثوں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ م ۲۷۰۹ میں بصراحت موجود ہے اور اس مکرر روایت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہ کا یہ واقعہ آیت
حاجت کے نزول کے بعد ہے اور م ۲۷۰۹ میں آیت کے بعد آیت چاب نزل ہوئی ہے۔ اور یہی حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت صلعم نے کسی وحی قرآنی سے اجتہاد کر کے
یا کسی جمعی صحفی سے یہ ارشاد فرمایا قد اذن لکن ان تخرجین نحو الخنک جس میں تمام عورتوں کو عام اجازت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لئے باہر جایا کریں۔
تو نزل کیسے جانا بھی خواجہ میں سے جو اسے یہ اس دن عام کے اندر آجاتا ہے۔ پس حدیث باب میں جو اسناد ذات امراة احمد کہا ہے یعنی جب تم میں سے
ایک کی بیوی مسجد جائیسے اجازت طلبے تو وہ اسے روکے نہیں تو اس سے یہی نکلان درست نہیں کہ مسجد جانے کیلئے عورت کو ضرورت ہے کہ خداوند کی اجازت
لے لگا کر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خداوند کی صورت میں عورت کو مسجد جانے سے نہ روکے۔ اور یہاں جس کی یہ حدیث مکرر روایت ہے یہ لفظ ہیں اذ
استاذ فیک نساکم باللیل۔ رات کے وقت عورتیں اجازت مانگیں تو ان میں نہ روکو۔ مکرر روایت میں لیل کا لفظ نہ لکھا گیا ہے اور رات کو اجازت مانگنے

رم- ۲۰۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۵۱۷) (۱۱۸) بَابُ مَا يَجْعَلُ مِنَ الدُّخُولِ النَّظْرَ

دیکھو حدیث ۵۱۷ با بطلان دودھ کے رشتہ کی وجہ سے کسی عورت کے پاس جان

رَأَى الْبَيْتَ فِي الرِّضَاعِ رَم- ۲۱۰) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۲۳۹) (۱۱۹) بَابُ

اور اس کی طرف دیکھنا جائز ہے دیکھو حدیث ۱۲۳۹ با بطلان

لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعَهَا لِرُؤُوسِهَا (۲۰۵۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ

کوئی عورت اپنا بدن دوسری عورت کے بدن سے نہ لگائے پھر اس کی کیفیت اپنے خاوند سے بیان کرے - عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے

عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعَهَا لِرُؤُوسِهَا

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنا بدن دوسری عورت کے بدن سے نہ لگائے پھر اس کی

كَأَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَيْهَا رَم- ۲۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۰۵۹) (۱۲۰) بَابُ

کیفیت اپنے خاوند سے بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے دیکھو حدیث ۲۰۵۹ با بطلان

قَوْلِ الرَّجُلِ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ رَم- ۲۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا)

خاوند کا یہ کہن کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا دیکھو حدیث

(۱۲۹) (۱۲۱) بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا طَالَ الْغَيْبَةُ خِشْيَانًا أَنْ يَخْبُوهُمْ

با بطلان جب خاوند یا عرصہ غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات کو نہ چلے بیسب اس خوف کے کہ انکو خفاست کی

أَوْ يَلْمَسُ عِزَّتَهُمْ رَم- ۲۱۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۹۲۱) (۱۲۱) بَابُ

کی طرف مسو بہ کرے یا انکی عزتوں کی تلاش کرے دیکھو حدیث ۹۲۱ با بطلان

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۹۲۱) (۱۲۲) بَابُ طَلَبِ لَوْلِيهِ رَم- ۲۱۵)

دیکھو حدیث ۹۲۱ با بطلان اولاد کا طلب کرنا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۰۲۵) (۱۲۶) بَابُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۰۲۵)

دیکھو حدیث ۱۰۲۵ دیکھو حدیث ۱۰۲۵

(۱۲۳) بَابُ تَسْتِخْذِ الْمَغْيِبَةِ وَتَمْتِشِطِهَا

با بطلان جماع خاوند غائب ہا وہ زایہ بال محبت کرے و تمتمشی کرے

ملایاں نطفہ پر
ہیں۔ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
اذا استأذنت
امراة احدکم
الی المسجد فلا ی
بینمھا
ملایاں نطفہ
پر ہیں۔ - حاد
عمی من الرضا
فاستأذنت علی
فأبیت ان اذن
لہ حتی اسأل
رسول اللہ صلعم
فجاء رسول اللہ
صلعم فالت عن
ذلك فقال اتھ
علک فأذنی لہ
قالت فقلت یا
رسول اللہ انما
ارضعتہ المرأة
ولم یرضعتہ الرجل
قالت فقال رسول
اللہ صلعم اتعک
فلیل علیک قال
عائشة وذلك

بعد ان ضرب علینا الحجاب قالت عائشة یخوم من الرضاة ما یخوم من الولادة ملایاں نطفہ ہیں۔ لا تباشری المرأة المرأة جس سے معلوم ہوا کہ
مباشرتہ شخص بدن کا دوسرے سے چھونا ہے اس لئے بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج سے مباشرت فرماتے تھے دراصل ایک وہ مائض ہوتی
تو اس کا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ جسم جسم کو چھوتا تھا بلکہ وہی نطفہ ہیں بلکہ انفاذ میں کچھ فرق ہے۔ قال سلیمان ابن داؤد علیہما السلام لا طوفن
اللیلة بمائة امرأة تلد کل امرأة غلاما رواہ بغارس ہے یقاتل فی سبیل اللہ فقال لہ العلیک روایا ہے صاحبہ) قل ان شاء اللہ فلم یقل
وہی روایا سنی نہیں ہے) فاطمات بہن ولم تلد منہن الا امرأة نصف انسان قال النبی صلعم لوقال ان شاء اللہ لم یجت دکان الرجلی
لحاجتہ روایا اور نطفہ میں) دیکھو نوٹ ۲۰۶ ملایاں نطفہ پر ہیں میں کان النبی صلعم لیکر ان یاتی الرجل اہلہ طوقا رات کے
وقت) ملایاں ہے۔ قال رسول اللہ صلعم اذا اطال احدکم الغیبة فلا یطرق اہلہ لیلًا ملایاں حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کیا ہے۔
كنت هم رسول اللہ صلعم فی غزوة فلما قتلنا لعلت علی بقر قطون فلو حقی راك من خلفی فالتفت فاذا انا برسول اللہ صلعم قال ما یجک قلت
انی حدیث عہد بجرس قال فیکوا تزوجت ام نینیا قلت بل نینیا قال فہذا جاریة تلاحبها وتلاحبک قال فلما قد مرنا ذہبنا النخل فقال اہلنا
حتی نخرجنا لیلای عشا لک تمتمشط الشعثة وتستن المغیبة قال وحديث النبی قال فی هذا الحدیث الکیس الکیس یا جابر یبیت
الولاد الکیس الکیس کے لفظ عشا میں بھی ہیں۔ میں امام بخاری نے خود اس کے معنی کئے ہیں الولاد تویر اس لحاظ سے ہے کہ جب انسان عورت کے
پاس جائے تو طلب اولاد اس کے مد نظر ہوگا یا اس میں ہی عقل سے کام لینا ہے کیونکہ کیس کے اصل معنی عقل ہیں عنوان باب اسی سے ہے بلکہ ملایاں نطفہ
پر ہیں۔ ان النبی صلعم قال اذا دخلت لیلًا فلا تدخل علی اہلک حتی تستن المغیبة وتمتمشط الشعثة قال قال رسول اللہ صلعم فعلیک بالکیس الکیس

(م- ۲۷۱۷) حَنْ جَابِرٍ مَتَكَرِدًا (۱۰۴۵) بَابٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

دیکھو حدیث ۱۰۴۵-۱۷۱۷ باب عورتیں اپنی زینت چھپی نہ رکھیں

أَلَا لِيَعْلَمَنَّهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (م- ۲۷۱۸) عَنْ أَبِي

مگر اپنے شوہروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قول لَمْ يَظْهَرُوا اَعْلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ رَا لِنُورِ - اس کلمہ

حَازِمٍ (مَتَكَرِدًا) (۱۹۴۷) بَابٌ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ (م- ۲۷۱۹)

دیکھو حدیث ۱۹۴۷-۱۷۱۹ بَابٌ (وہ بچے) جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكَرِدًا) (۵۱۶) (۱۲۶۷) بَابٌ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ عَرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ

دیکھو حدیث ۵۱۶-۱۲۶۷ بَابٌ کسی شخص کا اپنے دوست سے یہ کہنا کہ کیا آج رات آپ بیوی کے پاس گئے ہیں

وَطَعَنَ الرَّجُلُ بِنَتْنِهِ فِي الْخِصْيَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ (م- ۲۷۲۰) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكَرِدًا) (۲۷۲۶)

اگر مرد کو ناراضگی کے وقت اپنی بیٹی کے پہلو میں چوک دینا دیکھو حدیث ۲۷۲۶-۲۷۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنا بے نام سے

۶۸- کتاب الطلاق

۶۸- کتاب الطلاق

(۱) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

بَابٌ اللہ تعالیٰ کا قول اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کیلئے طلاق دو

۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

ام ثنیبا قال قلت بل ثنیبا قال فھلایکرا تلاحبھا وتلاحبک قال فلعلمنا قد مناذھبنا لندخل فقال اھلوا وحتی تدخلوا السرا ای عشا منکے مقتضی
الشعنة وسعدا المغیبة ۱۷۱۸ قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ احد کے دن حضرت فاطمہ کے آنحضرت صلعم کے سر مبارک سے ملو ہوئے کا
ذکر ہے۔ عنوان باب کا تعلق اسی بات سے ہے مگر یہاں زینت کو ظاہر کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ اور حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلعم کے
زخم سب لوگوں کے سامنے دھوئے۔ شاید یہ مطلب ہو کہ ایسے کام کرنا اور اظہار زینت کے لئے نکلنا دو الگ الگ امر ہیں ۱۷۱۹ مکرر روایت
یوں ہے۔ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما سالہ رجل شہدت مع رسول اللہ صلعم العید الضحیٰ او فطرہ قال نعم ولو لا مکانی منہ ما
شہدت نہ یعنی من صغیرہ قال خرجه رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم فصلی شہم خطب ولم ینکر اذا کادک اقامۃ شہم الخ لسانہ وعظمت
و ذکرھن و اھرنہن بالصداقۃ فرأینھن یموین الی اذا ھن و حلوتھن ینعن الی بلال شہم ارتفع ہو بلال الی بیتہ۔ ابن عباس
اس وقت چھوٹے تھے اور رسول اللہ صلعم کے ساتھ موجود تھے۔ جب آنحضرت نے عورتوں کو وعظ کیا مگر وہاں بلال کا موجود ہونا
بھی اسی حدیث میں مذکور ہے بلکہ بلال کے کپڑے میں ہی عورتیں اپنے زبور وغیرہ پھینکتی تھیں ۱۷۲۰ اس کے متعلق کوئی حدیث یہاں مذکور نہیں۔
لیکن کتاب حقیقہ میں حدیث م ۲۷۲۰ میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جب ابو طلحہ نے آنحضرت صلعم سے ذکر کیا کہ کس طرح ان کی بیوی نے بیٹے کی موت
کا ذکر رات کو ان سے نہیں کیا یہاں تک کہ وہ کھانا کھا کر آرام سے سو گئے تو آنحضرت صلعم نے ابو طلحہ سے یہ پوچھا عروستم اللیلۃ اور اثبات
میں جواب پانے پر ان کے لئے دعا کی تو یہ ایک خاص موقع اور محل تھا۔ مطلب صرف یہ ہے کہ مرد و عورت کے وقت یہ دریافت کرنا منع نہیں
در دعاء بل پر دو مردوں سے ایسے سوال کرنا مستحسن نہیں۔ اور عروس اہل میں شب زفاف کے متعلق ہے یعنی عروس کے پاس جانا ۱۷۲۱
۱۷۲۲ کا صرف ایک ٹکڑا یہاں ان الفاظ میں مذکور ہے۔ ۱۷۲۳ عاتقہ ابوبکر و جعلت یحییٰ بن ذریٰ خاضی بنی فلا یبذرن من المورک الا مکان رسول
رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم وراسہ علی فخذی ۱۷۲۴ عاتقہ نے اس سے جیسے سلام تسلیم کے لئے اور طلاق کے لئے نعت میں مطلق رفع قید
کے ہیں یا بندش سے آزاد کر دینا یا کھول دینا اور شریعت میں رفع قید نکاح سے یا عقدہ تزویج کا کھول دینا۔ رفع قید نکاح کے بعد دونوں فرق ایسے
ہیں جیسے ان کا کبھی نکاح نہ ہوا ہو۔ اور اس لئے پھر نکاح کرنے کے لئے کلیتاً آزاد ہیں۔ چونکہ طلاق کے اسباب میں سے ایک بڑا بخاری سبب موافقت
طبعاً ہی ہے اس لئے اسلام میں طلاق کے ساتھ کوئی بدنامی یا ذلت نہیں ۱۷۲۵

ما طلقهن
 اور تھن - قرآن
 کریم کا حکم ہے
 اور طلب اس کا
 یہ ہے کہ طلاق
 دو تو اس کے
 عدت شروع ہو جائے
 اور اسی لئے اس کے
 بعد سے کہ عدت
 کو گنتے رہیں
 تین طلاق اسلام
 میں کوئی چیز نہیں
 طلاق ایک ہی ہے
 اور اس کے ساتھ
 عدت شروع ہو
 جاتی ہے اس وقت
 میں کوئی تو طلاق کا
 یا نہ سے برابر ہے
 مگر اور طلاق کا دنیا
 بے معنی ہی نہیں
 بلکہ خلاف قرآن

وَاحْصُوا الْعِدَّةَ أَحْصِينَاهُ حِفْظِنَاهُ وَعِدُّنَاهُ وَطَلَّاقُ الشَّيْءِ أَنْ يَطْرُقَهَا

اور عدت کو گنتے رہے احصیناہ ریں - ۱۲۰) ہم نے اس کو محفوظ کیا اور اسے گنا اور طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو حیض

طَاهِرًا قَبْلَ غَيْرِ جَمَاعٍ وَشَهِدَ شَاهِدَيْنِ (م - ۲۷۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَمَتْ كُرْدًا

سے پاک ہوئی حالت میں جس میں جماع نہ کیا ہو طلاق نہ اور دو گواہ رکھے

بَابُ إِذَا طَلَّقَ الْحَائِضُ يُعْتَدُ بِذَلِكَ لِطَلَّاقِ (م - ۲۷۲) ۱۹۷۴ (۲)

باب جب عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق شمار ہوگی

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمَتْ كُرْدًا (م - ۲۷۳) ۱۹۷۴ (۳) بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوجِبُ الرَّجُلَ

دیکھو حدیث ۱۹۷۴ (۳) باب طلاق جو طلاق نہ اور کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو دو بار طلاق نہ

أَمْرَاتِهِ بِالطَّلَاقِ (م - ۲۷۴) ۱۹۷۴ (۴) عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَمْرًا وَرَجَعَ

کتاب ہے اور اسی سے روایت ہے کہ میں نے زہری سے پوچھا بنی مصلی الشرعیہ وسلم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ

کی کوئی بیوی نے آپ سے پناہ مانگی تھی کہا مجھ کو عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْحَجْرَيْنِ لَمَّا ادْخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا

کہ ابنة الحجرت جب بنی مصلی الشرعیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور آپ اس سے

وَمِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عَذَّبْتُ بِعَظِيمٍ الْحَقْمِيِّ بِأَهْلِكَ

قریب ہوئے تو اس نے کہا کہ میں آپ اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ نے اس سے فرمایا تو نے بڑے رانک کی پناہ مانگی ہے اپنے گھر والوں میں بھی جائے

رَأَى ۲۷۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ

ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بنی مصلی الشرعیہ وسلم کے ساتھ نکلے

بھی ہے کیونکہ عدت تو پہلی طلاق سے شروع ہوگی اس کے بعد جو طلاق دی جائے اس سے عدت شروع نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ عدت کیلئے

طلاق دو بار پھر دوسرے اور تیسرے ہر میں طلاق قرآن کریم کے اس حکم کے خلاف ہے۔ مطلقہ حالت حیض میں طلاق پر آپ نے مراجعت کا حکم دیا مگر روایت

کے الفاظ جو صحیح سے منقول ہیں یوں ہیں: - انہ طلق امراتہ دہی حائض علی عہد رسول اللہ صلعم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلعم عن

ذالك فقال رسول الله صلعم مرة فليراجعها ثم ليسلمها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ان شاء طلق قبل ان ينس فتلك

العدت التي امر الله ان تطلق لها النساء۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کے معاملات میں امام کو مراجعت کا حکم دینے کا اختیار ہے اور وہ طلاق ٹوڑنے ہوگی

مطلقہ یہاں لفظوں میں کچھ فرق ہے اور طلاق کو شمار کرنے کا ذکر بڑھا ہوا ہے۔ طلق ابن عمر امراتہ دہی حائض فذکر عمر لنبی صلعم فقال ليراجعها قلت

تحتسب طلاق شمار ہوگی، قال فنه وعن قتادة عن ابن عباس عن ابن عمر قال مرة فليراجعها قلت تحتسب قال اذ يحض واستحتم

روئی روایت قال حسب علی بتطليقة مراجعت کا حکم خود بتاتا ہے کہ طلاق کو شمار ہوگی لیکن امام کے حکم سے رجوع کیا گیا۔ اور ایت ان عجزوا استحتم

کسی کے عجز یا حماقت کی وجہ سے طلاق محسوب ہونے سے نہیں رک سکتی کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہئے ورنہ بات بات میں

طلاق ہوتی ہے۔ اس روایت میں اس عورت کو ابنة الحجرت کہا گیا ہے اور اگلی روایت میں اسے جو نہ کہا گیا ہے اور پھر اس کا نام امیر بنت ابیحان بن شریل

بتایا گیا ہے اور ایک روایت میں اسے امیر بنت شریل کہا ہے جو ہو سکتے اختلاف کی وجہ سے۔ اور اگلی طرف منسوب کر دیا جو اس فقہ میں اس قدر اختلاف ہے

کہ اسے متعلق کوئی یقینی رائے قائم کرنا مشکل ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس فقہ کی عملیت سمجھ اور تھی لیکن اگر جس طرح یہاں اس حدیث میں اور اس سے اگلی حدیث

میں مذکور ہے سے مان لیا جائے تو اصیبت صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت کا نکاح اس کے رشتہ داروں نے ہی کر مصلح سے منظور کیا تھا اور اسے

شہنہ کا اور تو قرآن دیا گیا ہے، لیکن جب اسے آنحضرت صلعم کے پاس لایا گیا تو اس نے آپ کی زوجہ بننے سے انکار کر دیا اور اپنے آلے عمڈ یا اس کا ایک چوڑا دیکر قسمت

کر دیا۔ اس پر اور کسی فقہ نے نہ گئے ہیں کہ اسے حضرت عائشہ اور حفصہ میں سے ایک سے بیٹی پڑھا دی تھی کہ تم نے اس طرح جواب دینے سے اباری میں ابن سعد کی روایت

کے والے نے ہیں جن میں سے ایک میں یہ مذکور ہے کہ آنحضرت صلعم نے بنی حوین کی ایک عورت سے نکاح کیا اور ایک ویر میں یہ مذکور ہے کہ نعمان بن الحجون نے

بنی صلعم کے پاس مسلمان ہو کر آیا تو اس نے آپ سے اس نکاح کے لئے کہا۔ چنانچہ اس نے نکاح کے بعد ابو اسید کے ساتھ اسے رسول اللہ صلعم کی خدمت میں بھیجا تو پھر وہ

واقعہ ہذا جو حدیث میں مذکور ہے لیکن اس کے حدیث میں جو اس کی حدیث ہے یہ صاف مذکور ہے۔ قالوا هذا رسول الله صلعم جاء ليخطبك يعني به رسول الله صلعم

م صلعم میں جو تجھے نکاح کا پیغام دینے کیلئے آئے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا نکاح نہ ہوا تھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَلْنَا إِلَى حَارِطٍ يُقَالُ لَهُ السُّوْطُ حَتَّى نَتَهَيَّنَا إِلَى
 حَارِطِينَ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْلِسُوا هَاهُنَا وَدَخَلُوا
 قَدَأْتِي بِالْجَوْنِيَّةِ فَأَنْزَلَتْ فِي بَيْتِي فِي حُجْلِ فِي بَيْتِ أُمِّمَيْمَةَ بِنْتِ الشُّعْبَانَ بْنِ شَرِيحَةَ
 وَمَعَهَا دَائِتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ فِي نَفْسِكَ
 لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهْتَبُ الْمَلَائِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْطِ قَالَ فَأَهْوَى بِيَدَيْهَا يَضَعُ يَدَايَاهَا
 لِسِتْرَيْنِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عَدَاتِ بِمَعَادِنِمْ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا
 أُسَيْدٍ الْسَّهَارُ زَقَيْتَيْنِ وَأَحْقَمَهَا يَا هَلْهَا رُوْفِي رُوَيْبِ عَنِ سَهْلٍ كُنِيَ أُسَيْدًا قَالَا
 تَزْوِجُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّمَيْمَةَ بِنْتِ شَرِيحَةَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَيْهَا إِلَيْهَا
 فَكَأْتَهَا كَهَيْئَةِ ذَلِكَ فَأَمْرًا يَا أُسَيْدُ أَنْ يَجْعَلَهَا وَيَسْوَأُهَا تَوَيْبِينَ رَاذِقَيْنِ (م- ۲۴۳۳)
 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرراً ۲۰۶۱) (م- ۲۴۲۲) عَنْ ابْنِ حَبْرَةَ (متكرراً ۱۹۷۷)
 (م) بَابُ مَنْ أجازَ طلاقاً لثلاثٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْكُفْرَانِي مَرَّتَانٍ قَامَسَاكَ

صلی اللہ علیہ وسلم کے
 لفظ کا یہاں اعادہ
 ہوا ہے اور اہم
 اس جوئیہ کا نام ہے
 عدا باوجود یہ کہ
 نے اس سے عدوت
 نہیں کی پھر بھی اسے
 صحفہ کے طور پر لکھا
 باس دیا۔ اس میں
 ستن ہے کہ مطلقہ
 عورت کے ساتھ
 کیا سلوک ہونا
 چاہئے
 غلط یہاں روایت
 مذکور نہیں صرف
 اس کا جو الزام ہے
 عن عباس بن
 سہل بن سعد عن
 ابیہ یہذا
 کلمہ یہاں لفظ
 یوں میں۔ عدوت
 لا بن عمر رجل
 طلق امرأته وھی
 حاضر غفلت
 ابن عمران ابن
 عمر طلق امرأته

یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے جس کا نام سوٹ تھا پھر پہلے گئے یہاں تک کہ ہم دو باغوں کے
 اور آپ اندر گئے
 اور وہ ایسی لائی تھی اور ایک گھریں پھر اس کے باغ میں ایک گھریں آئی اور وہ ایسی لائی تھی اور وہ ایسی لائی تھی
 اور اس کے ساتھ اس کی دایہ اس کی دودھ پلانٹولی تھی جب نبی صلی اللہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا ہے آپ
 کو میرے سپرد کر دو اس نے کہا کیا کوئی ملک لے لے آپ کو عامی لوگوں کے حوالے کرتی ہے آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا
 کر اپنا ہاتھ اس پر رکھیں مگر اسے سکون ہو تو اسے ملائیں پھر سے اللہ کی بناء اللہ تعالیٰ میں آپ نے فرمایا تو نے یہی ذات کی بناہ مانی جس سے
 ابو اسید اسے اسی کے لیے کا جوڑا اپنا دو مطلق اور اسے اپنے لوگوں کے پاس بھیجا اور ایک روایت میں سہل اور ابو اسید سے ہے کہ دونوں
 نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیرنیت شراہیل سے نکاح کیا چاہا جب وہ آپ کے پاس لائی گئی آپ نے اپنا ہاتھ اس کی
 دیکھو حدیث ۲۰۶۱
 دیکھو حدیث ۱۹۷۷

رہی حاضر فاتی عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ذلک له فامرہ ان یراجعہا فاذا طهرت فاراد ان یطلقہا فلیطلقہا قلت فهل عن ذالک
 طلاقاً قال اوایت ابن عمر و اسحق صحیح و معہ عنوان باب ثانیہ کہ تین طلاقوں کو ناجائز بھی سمجھا جاتا تھا سلف میں سے کچھ لوگ اسی طرف تھے ہیں۔
 اور وہ مسلم کی اس حدیث سے شدیدتے ہیں۔ ان ابانہ صہباء قال لابن عباس انما کانت الثلاث تجعل واحد وکل واحد علیہا لیسے صلی
 اللہ علیہ وسلم والی بکر و ثلاثا من امارت عمر فقال ابن عباس نعم۔ اور مشاخرین اس طرف تھے ہیں کہ تین مرتبہ طلاق اکٹھے کرنے سے تین طلاقیں
 واقع ہو جاتی ہیں لیکن یہ گناہ ہے مسلم کی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ذکر ہے کہ اس وقت تین طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا تو اسے وہ حضرت
 عمر کے حکم سے منسوخ فرماتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے تین طلاقوں کو تین ہی قرار دیا تو صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کی
 اور اعتراض نہیں کیا تو یہ صحابہ کا جماع ہو گیا اور اجماع سے سنت منسوخ ہو سکتی ہے یعنی دراصل اس باب سے میں کچھ غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن
 کریم میں آئے۔ الطلاق مرتان قَامَسَاكَ بِعُرْفٍ اَوْ سَوْجٍ بِاحْسَانٍ یعنی وہ طلاق جس کے بعد عدت کے اندر رجوع یا عدت کے بعد اس کی تیسری مرتبہ
 نکاح ہو سکتا ہے صرف دو مرتبہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لئے روک رکھے یعنی پھر بھی طلاق نہ ہے۔ یا پھر ہمیشہ کے لئے اسے زحمت کرے
 یہی وہ صورت ہے جس کے متعلق فرمایا فان طلقها فلا تحل لهن بعدن حتی تنکح زوجاً غیرہن۔ تو اسلام میں طلاق بائن کی صورت ایک بار صرف ایک ہے اور وہ یہ
 کہ ایک مرتبہ طلاق سے پھر رجوع کرے یا عدت گذرے تو اسی عورت سے نکاح کرے۔ پھر اس کے بعد کسی وقت طلاق سے تو پھر بھی اختیار بائن ہے کہ عدت
 کے اندر رجوع کرے یا عدت گذرے تو اسی عورت سے نکاح کرے لیکن اگر اس کے بعد پھر کسی وقت تیسری مرتبہ طلاق سے تو رجوع اور نکاح دونوں
 جاتے رہتے ہیں۔ اور طلاق جب کہ اوپر ذکر کیا ایک وقت میں ایک ہی دفعہ دی جا سکتی ہے جس پر قرآن شریف کی نص صریح شاہد ہے بائن یا تین مرتبہ

بِعُرْوَةَ أَوْ سُرَيْمَ بِإِحْسَانٍ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَأْرَى أَنْ تَرْتِثَ

کے ساتھ روک لکھا جو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے (بخاری ۲۲۰۹) اور ابن زبیر نے مریض کے بارہ میں جو طلاق نے کہا کہ میں نہیں دیکھتا کہ ان

مَبْتُوتَةٍ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرْتِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ مَهْرُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ

طلاق والی عورت وارث بن گئے اور شعبی نے کہا وہ وارث ہوتی اور ابن شہاد نے کہا کیا جب اس کی عدت گزر جائے تو نکاح کر سکتی ہے

قَالَ لَعَمْرُكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّفِيعُ الْأَخْرُوفِيُّ جَمَعَ مِنْ ذَلِكَ (۵) ۲۷۲۵ عَنْ سَهْلِ

کہا ہاں کہا اگر وہ مر جائے تو شعبی نے اس سے جمع کیا

ابْرَسَعَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۹۳۲) ۲۷۲۶ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۲۳۷) (۵) ۲۷۲۷ عَنْ

دیکھو حدیث ۱۹۳۲ دیکھو حدیث ۱۲۳۷

عَائِشَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۲۳۷) (۵) بَابُ مَنْ خَيْرٌ نِسَاءً وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَوْلَا رِجَالُ

دیکھو حدیث ۱۲۳۷ بابت جو ایسی بیویوں کو اختیار دینے اور اللہ تعالیٰ کا قول اپنی بیویوں کو دے

إِنْ كُنَّ بَنَاتٍ تَرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا مَعَالِينِ أُمَّتِكُمْ وَأَسْرَى حَسَنٍ سَأَى أَحَا

کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ میں تمہیں سامان دے دوں اور وہی خوبصورتی کے ساتھ نہیں

جَمِيلًا (۵) ۲۷۲۸ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۹۵۱) (۵) ۲۷۲۹ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

رخصت کر دوں (الاحزاب ۲۸) دیکھو حدیث ۱۹۵۱

(مُتَكَرَّرٌ ۱۹۵۱) (۴) بَابُ إِذَا قَالَ فَارَقْتُكَ أَوْ سَوَّحْتُكَ أَوْ الْخَلِيئَةَ أَوْ الْبِرْتَةَ

دیکھو حدیث ۱۹۵۱ بابت جب کہ میں نے تجھے جدا کیا یا چھوڑ دیا یا تو میرا کسی یا تو میری کسی

أَوْ مَا عَنِي بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نَيْبِهِ قَوْلُ اللَّهِ حَتَّىٰ وَيَجْعَلَ سِمًا

یا جو لفظ کہا جس سے طلاق مراد ہو سکتی ہے تو یہ اسکی نیت پر منحصر ہے اور اللہ عزوجل کا قول اور انہیں جو بھورتی کے ساتھ رخصت

جَمِيلًا وَقَالَ وَأَسْرَى حَسَنٍ سَأَى أَحْمَدًا وَقَالَ فَاهْسَأْكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سُرَيْمَ

کر دو (الاحزاب ۲۸) اور کہا اور تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں (الاحزاب ۲۸) اور فرمایا ہر نیک سلوک کے ساتھ روک لکھا جو یا احسان کے

بِإِحْسَانٍ وَقَالَ وَفَارَقُوهُ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ساتھ رخصت کرنا (البقرہ ۲۲۹) اور فرمایا انہیں نیک سلوک کے ساتھ جدا کر دو (الطلاق ۲۰) اور حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

القول صحیفہ ۱۲۵۸
الطَّلَاقُ هِيَ الْعِدَّةُ
طَلَقَ دِي اُور
عِدَّتِ شَرْعِي اُور
سُحِّي - اُور
بہنی طلاق کو طلاق
بائیں ہلنے کے
سے بی طریق اختیار
کیں جو عیادت میں
مقرر تھا کہ ایک
بہنی مرتبہ تین دفعہ
طلاق کہی جائے
یہ برابر ہے کہ
ایک دفعہ میں ایک
دفعہ طلاق کے
یا سو دفعہ
صفحہ ۱۲۵۸
بہنی طلاق
میں حدیث کو
دیکھو یا ہے مگر
نکاحات شلک
ساتھ اہلناہنہ
کے بعد انوکھ
چھوڑ دیا ہے
اور درمیان میں
فقہ کا رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلُ وَعَابَهَا كَيْ بَعْدَ فَرَقَهَا يَسْتَحْتِي كَيْ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَجَّ حَامٍ
إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُرْوَةَ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ وَهِيَ اسْمٌ كَيْ بَعْدَ فَرَقَهَا يَسْتَحْتِي
فَسَأَلَ عُرْوَةَ عَنَ بَابِ كَاتِلِ الْأَرْبِي حَصْرٍ سَبَّ جِهَانَ أَنَّهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
ثَلَاثًا تَوَسَّعَ تَبَعُ دَفْعِ طَلَاقِ دِي مَكْرُوهٍ هِيَ صَافٍ مَكْرُوهٍ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
أَنْزَلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَرَّةً بِمَعْرُوفٍ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
يَسْتَحْتِي كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
رَوَايَتِ فِيهَا كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
يَسْتَحْتِي كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
بِإِحْسَانٍ وَقَالَ وَفَارَقُوهُ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلَ عُرْوَةَ عَنَ بَابِ كَاتِلِ الْأَرْبِي حَصْرٍ سَبَّ جِهَانَ أَنَّهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
ثَلَاثًا تَوَسَّعَ تَبَعُ دَفْعِ طَلَاقِ دِي مَكْرُوهٍ هِيَ صَافٍ مَكْرُوهٍ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
أَنْزَلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَرَّةً بِمَعْرُوفٍ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
يَسْتَحْتِي كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
رَوَايَتِ فِيهَا كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ
يَسْتَحْتِي كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ كَيْ مَعَهُ

یہ شرح اگر نیت طلاق کی نہ ہو تو لفظ خواہ کچھ ہوں طلاق نہ ہوگی پس ہر حال یا منہ کی طور پر نہ ہوگی جو کئی حالت میں حلق دی جائے تو اگر طلاق کی نیت نہیں تو طلاق نہ ہوگی

أَنَّ أَبَوَيْكَ لَمْ يَكُونَا يَا مَرْأِي بِفِرَاقِهِ رء ، بَابٌ مِّنْ قَالِ لَامْرَأَتِهِ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ نَبِيَّهُ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ شَلَاكَ فَاذْهَبْ حَرَمَتْ عَلَيْهِ

اور جن نے کہا اہل سنت (معتبر) ہے ملے اور اہل علم نے کہا جب تین طلاق دیدے تو وہ اس پر حرام ہو گیا

فَمَمُوهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ كَاللَّهِ لَا

پس انہوں نے اسے حرام کہا طلاق اور فراق کے لحاظ سے اور یہ اس کی طرح نہیں جو اپنے اور کھانا حرام کرنے اس لئے کہ طلال کھانے

يُقَالُ لَطَّعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ شَلَاكَ لَأَنَّ

کو حرام نہیں کہا جاتا اور طلاق ہی جو تین عورت کو حرام کرنا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تین طلاق کے بارہ میں فرمایا

تَحَلُّ لَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ لَيْثٌ سَعْنٌ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ

وہ عورت اس کے لئے طلال نہیں بیان تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے (البقرہ ۲۲۰) روایت کی کہ ابن عمر سے جب اس

كَمْ تَنَ طَنَّ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شخص کے متعلق پوچھا جاتا تھا جو تین طلاق دے تو کہتا کہ وہ ایک یا دو مرتبہ طلاق دیتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو

أَمَرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرَمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (م- ۳۱) عَنْ

اسی کا حکم دیا تھا ملے تو اگر تم تین طلاق دے دو تو وہ حرام ہو جائیگی بیان تک کہ وہ تمہارے سوائے دوسرے سے نکاح کرے

عَائِشَةَ رَمَتْكُمُ ۖ (۱۲۳) (۸) بَابٌ لَمْ يَحْرُمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (م- ۳۲) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۲۳۷ بابت تم اسے کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے (التوبہ ۱)

سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ (مکر- ۱۹۷) (۱۹۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ

دیکھو حدیث ۱۹۷۶ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْلُقُ عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ يُشْرِبُ عِنْدَهَا عَسَلًا

صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے ہاں ٹہرتے تھے اور ان کے پاس شہد چکارتے تھے

فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنْ آيْتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَلَّ

مومن نے اور حفصہ نے اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کہے

رَأَيْتِي أَحَدٌ مِنْكَ رِيحٌ مَعَا فَيَرُّ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدًا هَذَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ

کہ میں آپ سے معافی کر کے بولتی ہوں آپ نے معافی کھا لی ہے سو ان میں سے ایک کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اس نے آپ سے

فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ لَوْ لَنْ أَعُوذُ لَهُ فَانْزَلَتْ

یہ کہا تو آپ نے چکے رہا یا نہیں ہلکے میں نے زینب بنت جحش کے ہاں شہد چکایا ہے اور میں آئندہ اسے ہرگز زینب کو گاس یہ آیت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرَّمْتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى أَنْ تَتَوَبَّأَ إِلَى اللَّهِ لَعْنَةُ

اگری یا ایہا النبی لِمَ حَرَّمْتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ اللہ کے قول ان تو یا ائی اللہ تک مراد لعنہ

وَحَفْصَةُ وَرَأَى النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ زَوْجِهِ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا

اور حفصہ میں اور جب نبی نے اپنی بیویوں سے چھ کر بات کسی اور کو کہی اس بات کی طرف بکریں نے شہد چکایا

وَأَحَدَةٌ لَمْ يَصِلْ مَعِيَ إِلَى مَشْطِي فَاحِلٌ لَزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِينَ لَزَوْجِكَ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخْرُسُ عَيْلَتَكَ فَذُوقِي عَيْلَتَكَ

ایک بیان لفظیوں میں :- اذاحرم امرانہ لیس بشی ذقال لکھ فی رسول اللہ اسرق حسنة ۴۰م ۲۴۹ پر اخصار کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہے اور وہاں اس شخص کی عیلت

ہو دیکھو نوٹ ص ۳۷۸ اگلی حدیث میں یہی فقہ شریک کے چنے کا حضرت حفصہ کے گھر میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے خلاف سازش کرنے کو حضرت عائشہ اور بسودہ اور صفیہ کی طرف

منسوب کیا گیا ہے اور یہ دونوں باتیں متعارض ہیں ایک میں شہد چکایا الی زینب ہیں اور سازش کہیں الی حضرت عائشہ اور حفصہ اور دوسری میں شہد چکایا نبوی الخی حضرت

طی بی مسکت دست
معلوم ہوتا ہے
یعنی لفظ خواہ
میں لکھنا چاہتے
کو جانے کیا
اس سے بھی
صراحت سے معلوم
ہوتا ہے کہ نبی صلی
تین طلاقیں لویا
تیسری طلاق کو
سند نہ کرتے تھے
اس میں تفصیل
کچھ زیادہ ہے کہ
نام نہیں دیتے
فالت طلق حلال
امرانہ فخر حدیث
زواج غیرہ
فطیقاہ و کجات
مصح مثل الہدیۃ
فلم تصل دنہ الی
شعی توبہ رکاع
کی غرض حاصل نہ
ہوئی فلم یلیث
ان طلقها فانت
النبی صلعم ففالت
یا رسول اللہ ان
زواجی طلقہ وانی
تزوجت زوجا
غایرہ فدخل لی
ولم یکن صحہ الا
مثل الہدیۃ فلم
یقربنی الا حدیۃ
رہنہ گئی یہی چیز
سے کیا ہے کہ نام
لیکھ کر نہیں کیا جاتا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 اس حدیث کا
 ابتدائی ٹکڑا جس
 میں یہ ذکر ہے کہ
 حضرت حفصہ کے
 پاس آپ معمول
 سے کچھ زیادہ
 ٹھہرے ملتے
 پر گذر چکا ہے یہاں
 وجہ بیان کی ہے
 کہ شدت عین کے
 لئے ٹھہر گئے تھے
 اور اس کے بعد
 یہ ذکر ہے کہ حضرت
 عائشہ نے حضرت
 سوہدہ اور صفیہ کو
 اس بات پر آمادہ
 کیا کہ وہ کہیں کہ
 آپ کے منہ سے
 مغافیہ کی بو آتی
 ہے بعینہ ایسی
 سازش حضرت
 عائشہ اور حفصہ
 کی طرف زینب کے

۲۳۳۳۔ عَنْ عَائِشَةَ (مکرر - ۲۰۵۱) بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبُكَاحِ وَقَوْلُ

اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَعْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَاةٍ أَوْ حِدٍ وَنَهَايْتُمُوهُنَّ وَسَوَّوْهُنَّ سِرًّا حَاجًا

بِهَيْبَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُكَاحِ وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ

عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَبَانَ بْنَ عَثْمَانَ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ وَشُؤَيْبَ

وَسَعِيدِ بْنِ جُبَايِرٍ وَالْقَاسِمَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَسَدْرَ بْنَ أَبِي أَوْسٍ وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَدِيٍّ

وَأَبَانَ بْنَ مَرْثَدَةَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَايِرٍ وَشُعْبَةَ بْنَ مَرْثَدَةَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَايِرٍ

وَمُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُمَرَ بْنَ هُرَيْرَةَ وَأَبَا لَيْسَانَ

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

بَابُ إِذَا قَالَ لَا مَرَاتِمَ وَهُوَ مَكْرَهُ هَذَا أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

قَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكَ نَبِيئَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطَّلَاقُ عَزُّ وَطَرٌّ

حسن نے کہا جب کہے کہ اپنے گھر والوں میں چلی جاؤ اس کی نیت معتبر ہوگی اور ابن عباس نے کہا کہ طلاق عجز و طرد سے ہوتی ہے اور

وَالْعَتَاقُ مَا رِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ قَالَ مَا أَنْتَ بِأُمَّرَأَتِي بَيْتَهُ

غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہوتی ہے اور زہری نے کہا اگر کہے کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو اس کی نیت معتبر

وَأَنَّ نَوِي طَلَاقًا فَهِيَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِيُّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ شَلَاثَةِ عَن

ہوگی اور اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو وہی ہوگا جو اس نے ارادہ کیا اور حضرت علی نے کہا کیا آپ کو علم نہیں کہ تین شخص مرفوع القلم ہیں

الْمَجْنُونُ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَذْرُوكَ وَعَنْ النَّاتِمِ حَتَّى يَسْتَقْبِطَ وَ

مجنون یہاں تک کہ اس کو ہوش آجائے اور کما یاں تک کہ بائع ہو جائے سونے والا یہاں تک کہ جاگے

قَالَ عَلِيُّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلا طَلَاقَ الْمُعْتَقَةِ رَمَ - ۲۷۳۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اور حضرت علی نے فرمایا ہر ایک طلاق درست ہے سوائے نافرمانی عقل کی طلاق کے

رَمَتْكَ - ۲۷۳۷ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۲۷۳۷ جابر سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقْوَةِ الَّذِي أَعْرَضَ

ہوا اور آپ مسجد میں تھے تو اس نے زنا کیا ہے آپ نے اس سے منہ پھیرا تو وہ اس جانب بڑکے گا کیا جس طرف آپ نے

فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَذَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جَنُونَ هَلْ أَحْسَنْتَ

منہ پھیرا تھا تو اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ شہادت دی آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تو دیوانہ ہے کیا تو شادی شدہ ہے

قَالَ لَعَنَ فَا مَرِيئَةً أَنْ يُرْجَمَ بِالمَصْلَةِ فَلَمَّا أَذْكَرْتَهُ الْحِجَارَةَ جَمْرًا حَتَّى أَدْرَكَ بِالْحِجْرَةِ فَقَالَ

اس نے عرض کیا ہاں آپ کے مسنون حکم دیکھ گیا وہ میں رنگ کیا جائے جب اس کو پتھر کے توپوں کا یہاں تک پتھر لی زمین میں

۲۷۳۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس قبیلہ میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَذَعَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَجَ زَنَى لِيَعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ

اور آپ مسجد میں تھے اس نے آپ کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ ایک بد بخت نے زنا کیا ہے اور اس سے مراد اس کی اپنی ذات

عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقْوَةِ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَجَ

تھی تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا پس وہ شخص مدھر آپ کے منہ پھیرا تھا اور ہراسنے آ گیا اور کہا یا رسول اللہ ایک بد بخت نے زنا کیا ہے

زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقْوَةِ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ لِمَ ذَاكَ

آپ نے پھر اس سے منہ پھیر لیا پھر وہ آپ کے سامنے آ گیا اور مدھر آپ کے اس سے منہ پھیرا تھا پھر وہی کہا آپ نے پھر

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ذَعَاهُ

اس سے منہ پھیر لیا پھر چوتھی مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا جب اس نے اپنے خلاف چار دفعہ گواہی دی تو آپ نے اس کو بلایا

فَقَالَ هَلْ بِكَ جَنُونَ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجَمُوهُ

اور فرمایا کہ کیا تو مجنون ہے؟ اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بجاؤ اور سنگسار کرو

وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ رَوْفِي رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ فِي مَن

اور وہ شادی شدہ تھا ملک اور ایک روایت میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے ہے کہ میں بھی سنگسار کرنے

رَمَتْكَ فَرَجَمْنَا بِالمَصْلَةِ بِالمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْكَرْتَهُ الْحِجَارَةَ جَمْرًا حَتَّى أَدْرَكَ بِالنَّاهِ بِالْحِجْرَةِ

دلوں میں سے پتھریاں ہم نے اسے مدینہ کے پاس عیدگان میں سنگسار کیا جب اسے پتھر کے توپوں کا یہاں تک پتھر نے اسے پتھر لی

۱

یہاں لفظ معتقہ سے جو ناقص العقل کو کہتے ہیں۔ اور اس میں تا بائع لڑکا اور مجنون اور شراب سے بدست شامل ہیں

۲

یہاں لفظ یوں ہیں عن ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله تجاوز

عن امي ما حثت به انفسها ما لم تعمل ولا تكله قال قتادة اذا طلق في نفسه

(یعنی اپنے دل میں ہی طلاق دے اور اس کا اظہار نہ کرے) کلیوں یعنی یہ ذکر نہیں کرنا پتھر کر وقت کا ہے۔ سورہ نور سے پتھر کا

یا بعد کا۔ کیونکہ سورہ نور میں نزلے وقت صرف کو کہتے ہیں

۳

اس روایت اور ۲۷۳۷ میں ایک ہی واقعہ کا ذکر ہے مگر یہ تفصیل زیادہ ہے دیکھو کچھ پچھلا ٹوٹا

فَرَجَمْنَا كَمَا حَتَّى مَاتَ (۱۲) بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقِ فِيهِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

ذِينَ مِنْكُمْ بَطَلُوا أَدْرَاسًا مِنْ يَدَيْكُمْ لِشُرَّائِهِمْ كَمَا حَتَّى مَاتَ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَوْتِهِمْ لِيُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي أُكْرِمْتُمْ بِهَا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ إِنَّهُمْ لَخٰئِفُونَ

نفسی جائز نہیں کہ تم اس میں سے کچھ بھی لو جو تم نے ان کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول طالعوں تک (البقرہ - ۲۳۹) اور حضرت

الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ وَأَجَازِعُمَانَ الْخُلْعِ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهِ وَقَالَ طَاوُوسٌ

عَنْ طَلْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِنَّمَا الْخُلْعُ مَا حَتَّى مَاتَ وَمَا حَتَّى مَاتَ مَا حَتَّى مَاتَ

یہ باقی چھوڑ جانے (صلوات اور طالعوں سے) کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سوائے اس کے کہ دووں کو خوف ہو کہ حدود اللہ کو قائم نہیں کیے گئے

فِي الْغَنَائِمِ وَالصَّحْبَةِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بَيْتِهِنَّ بِمَا أَهْلُهُنَّ يَخْرُجْنَ

یعنی اس پارہ میں جو استرنے ہر ایک کے لئے اپنے ساتھی پر زندگی گزارنے اور محبت کے متعلق زمین کیا ہو اور بیوقوفوں کے قول کی طرح نہیں کہا کہ دفع

جَنَابِهِ (۳۰۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْتِيكَ بِخُلْعٍ فَتَقْبَلُهُ

خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کیا یا رسول اللہ ثابت بن قیس پر اطلاق اور زمین کی وجہ سے میں یہ بی بیوں نے

وَلَكِنَّ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُ دُونَ عَيْبِ

لیکن میں اسلام میں کہہ کر رہا جاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ اسے

حَدِّيقَتُهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُ الْحَدِّيقَةَ وَطَلِقَهَا

واپس جاتی ہو گا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا باغ قبول کر اور اسے

تَطْلِيقًا (۳۰۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنور - ۲۰۶) (م - ۳۴ - ۳۵) عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ (متنور - ۲۰۶) بَابُ الشَّقَاقِ وَهَلْ يُنْفِقُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ

الضَّرِّ وَرَدَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَإِنْ خَفْتُمْ مِنْ شِقَاقِ بَيْنِهِمَا فَاذْعَبُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ

کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اگر تم کو ان دونوں کے آپس کے گھٹا کا ڈر ہو تو ایک حکم اس کے کہنے میں سے مقرر کر لو

إِلَى قَوْلِهِ خُبَيْلًا (۳۰۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متنور - ۱۴۰۸)

اللہ کے قول خبیل (النساء - ۳۵) ویکھو حدیث ۱۴۰۸

مخلع کا لفظ
خلع الثوب سے
جس کے معنی
ہیں کپڑا اتار دیا۔
اور خلع یہ ہے
کہ عورت کچھ مال
دیکر خاوند سے
آزادی حاصل کرے
اور یہ مال اس کا
نعمی ہونا چاہئے
یا اس کا کوئی حصہ
گو قرآن کریم کے
لفظ عام ہیں۔
فیہا اقتد بہ
مگر حدیث میں آگے
آتا ہے ازدین
علیہ صلا یقتہ
یعنی اس کو باغیچہ
دیکھ کر پتے جو
اس نے تجھ دیا
تھا۔ اور اسی کی
روایت ہے۔
وہی صحیح
عورت آپس کی
رضامندی سے
یا کسی دوسرے
کے کہنے سے بھی خلع
کر سکتے ہیں۔ جیسے
مثلاً کوئی حکم مقرر
کریا جائے۔ اور

بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقِ فِيهِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
ذِينَ مِنْكُمْ بَطَلُوا أَدْرَاسًا مِنْ يَدَيْكُمْ لِشُرَّائِهِمْ كَمَا حَتَّى مَاتَ

ضروری نہیں کہ خلع حاکم وقت یا قاضی کے بغیر نہ ہو۔ یعنی سارا مال لیکر بھی خلع جائز ہے۔ یہاں یعنی اس کی بی بی جو کچھ چھوٹی باتوں پر طلاق کی خاطر عورت مال کا لینا
جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث عورت کے حق طلاق پر رض منج ہے۔ ثابت کی بی بی ثابت پر کوئی عیب نہیں لگاتی تا اس کے اطلاق کے متعلق نہ وہیں کہ نہ اس
کے کسی ظلم یا سختی کی سزا کی تھی بلکہ طبعاً ناپسند کرتی تھی۔ یہ ذکر کہیں نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں سے ناپسند کرتا تھا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کا مطلب یہ ہے
کہ اسلام میں لڑکی یا عورت کو ناپسند کرتی ہوں یعنی خاوند کے ساتھ جھگڑے اور فساد وغیرہ کو نہیں چاہتی کہ یہ کفر کی باتیں ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اس میں یہ
اشارہ ہے کہ مجھے اس سے اس قدر نفرت ہے کہ بڑے سے کہ اگر وہ طلاق نہ دے تو میں اس سے طلاق حاصل کرنے کے لئے اسلام کو ہی چھوڑ دوں یا دوسری
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کراہت یا ناپسندگاہی اور اس کی بد صورتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ کان وجلا ذمیا اس سے معلوم ہوا کہ عورت
اگر کہہ کر اس کے تو عرف اس بنا پر بھی طلاق قابل کر سکتی ہے کہ اسے شوہر پسند نہیں ہے۔ گویا یہاں لفظ یوں ہیں۔ جاءت امرأة ثابت بن قیس ائنی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ اتب علی ما ثبت فی دین ولا خلق ولا کنی ولا اظفقتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد یقتہ قال فما جیء

تَقُولُ لِمَرْأَةِ رَجُلٍ عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ (۱۹) بَابُ نِكَاحٍ مِّنْ أَسْمِ

کوئی عورت کے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ بَابُ نِكَاحٍ مِّنْ أَسْمِ اور

مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعَدْلُهُنَّ (۲۰) ۲۰۶۹ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكِيُّ كَوْنًا عَلَى مَا نَزَلَتْ بِهِ

عدالت جو مسلمان ہو جائیں اور وہ اپنے عدل سے ہوں۔ اب ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا الْمُشْرِكِيُّ أَهْلَ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ

کی نسبت وہ قسم کے تھے اور معاہدہ کیا صلح والے مشرک آپ ان سے نہ لڑتے تھے اور نہ وہ آپ سے لڑتے تھے اور دستور تھا کہ لڑائی

وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِيُّ أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُونَهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَكَ وَكَانَ إِذَا

ہا جرتِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهَرَ فَإِذَا طَهَّرَتْ

کرتیوں میں سے جب کوئی عورت ہجرت کرتی تھی تو اسے پیغام نکاح نہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ حاملہ نہ ہو کر پاک ہو جائے جب پاک ہو

حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَسْكُنَ دَوْلَتَ الْيَهُودِ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ

جاتی تو اس کے لئے نکاح جائز ہو جاتا جب اس کے نکاح کرنے سے پہلے اس کا شوہر ہجرت کرنا تو اس کو واپس کر دیا جاتی اور اگر ان

مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهِيَ مُحْرَمَةٌ وَإِلَهُمَا مَا لِلْيَهُودِيِّينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ

میں سے کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کرتی تو دونوں آزاد ہو جاتے اور ان کے ہی حقوق تھے جو ماہرین کے لئے پھر معاہدہ والوں کی نسبت

حَدِيثٍ مُّجَاهِدٌ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلَ الْعَهْدِ لَمْ يَزِدْ وَأَوْدَتْ

مجاہد کی حدیث کی طرح ذکر کیا اور ان مشرکوں کی کوئی غلام یا لونڈی جو معاہدہ والے تھے ہجرت کرتی تو وہ واپس نہ لے جاتے تھے ان کی

أَسْمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قَرِيبَةٌ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ مَكْر

یغیبوں میں کر دیا جاتی تھیں اور عطاء نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریبہ بنت ابی امیہ

ابن الخطاب فطلقها فآثر زوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم

کے پاس تھیں تو اسے آپ نے طلاق دی تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس سے نکاح کیا اور ام الحکم

أبْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتِ عَمِيٍّ مِنْ عَمِّ الْفَهْرِيِّ فطلقها فآثر زوجها عبد الله

بنت ابی سفیان علی بن عمیر فہری کے نکاح میں تھی سوا سے انہوں نے طلاق دی تو معاویہ بن

ابن عثمان تغلبی نے اس سے نکاح کیا یا جب مشرک یا نصرانی عورت جو معاہدہ والے یا لڑنے والے کے نکاح

الذمى أو الحرى عن ابن عباس إذا أسلمت النصارى ابنة قبل زوجها

میں جو مسلمان ہو جائے اب ابن عباس سے روایت ہے کہ عیسائی عورت جب ایک گمراہی بھی اپنے خاوند سے پہلے اسلام لے

بِسَاعَةٍ حَرَمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ

تو وہ اس پر حرام ہو جائیگی۔ اور داؤد نے ابراہیم صائغ سے روایت کی ہے کہ عطاء سے معاہدہ قوم

امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْعَهْدِ اسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أرحم أمراة قال

کی عورت کے متعلق پوچھا گیا جو مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس کا خاوند راسخی عدت کے دوران میں مسلمان ہو گیا تو اس کی

لا إنا أن تشاء هي بنكاح جديد وصدق وقال مجاهد إذا أسلمت في العدة

کہا کہ اگر شوہر ہجرت کرے اور خاوند اس کے بعد اس کا خاوند راسخی عدت کے دوران میں مسلمان ہو جائے

بيروى ربيلى كما نبى مولى اس کے کہ عورت نکاح جدید اور مہر پر لگتی ہو جائے اور معاہدے کا اگر شوہر ہجرت کرے اور خاوند اس کے بعد اس کا خاوند راسخی

سے حل ہو جاتا ہے کہ جو عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں اور ان کے خاوند نہیں ہوتے اور وہاں اسلامی قانون بھی نہیں کہ عورت کو اختیار دیا جاسکے تو مسلمان عورت

علاء بن عمر کا مذہب ہے کہ وہ بیویوں اور عیسا کی عورتوں میں داخل کرنے ہیں حالانکہ قرآن کریم نے نص میں ہے میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا، والخصومات من الذین اوتوا الکتاب را ما نلہ ۱۵۰ پس کا نکاح المشرکات میں از عورت بنت برت عورتیں میں جو کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں ۱۵۱ عیسیٰ بن حنظلہ عمر کا مذہب اس کے خلاف مذکور ہے بیوی عن عمر بن الخطاب انه خیر لصلواتہ اسلمت و زوجها نصونی ان شاءت فارقته وان شاءت اقامت معه۔ یعنی اسے عورت کے اختیار پر چھوڑ کر وہ چاہے تو نصرانی خاوند کے عقد نکاح میں ہے اور چاہے تو اس سے الگ ہو جائے اس پر سوال آسانی

حدیث ۱۲۶۶

يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا هُنَّ لَكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا وَقَالَ أَحْمَدُ

تو اس سے نکاح کرے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ عورتیں ان کے لئے حلال ہیں نہ وہ مردان عورتوں کے لئے حلال ہیں اور احمد اور

حدیث کی یہی

وَقَتَادَةُ فِي مَجْمُوعِهِمْ أَسْلَمًا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا اسْتَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَةً

قتادہ نے دو مجوسی زسماں بیوی اسکے بارہ میں کہا جو مسلمان ہو جائیں کہ دونوں اپنے نکاح پر ہوں گے اور اگر ان میں سے ایک اپنے

حدیث ہے اس

وَأَبَى الْآخِرَ بَأْتٍ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَمْرًا

ساتھی سے پہلے مسلمان ہو جائے اور دوسرا انکار کرے تو بیوی جدا ہو گئی اس لیے اس پر کوئی راہ نہیں ہے ابن جریج نے کہا میں نے عطاء سے

کی مکرر روایت

مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيْحَاؤُضَ زَوْجَهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى

کہ مشرکین میں سے ایک عورت مسلمانوں کے پاس آئی تو گھبراہٹ سے فائدہ نہ کرا سکی اس کے لئے اس کے لئے کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور

۱۲۶۶ میں

أَتَوْكُم مَّا آتَفَقُوا قَالَ لَا أَسْمَأُكَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ

ان کو دیدہ و نما نون نے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات قریشی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہ ہیں کہ

معاہدہ اور بیعت

أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا أَكْثَرُ فِي حَدِيثِ بَيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ

درمیان صحیح اور مجاہد نے کہا یہ بات صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح میں صحیح

اور کہا ہے اس

رَمَى ۲۶۲۲ حَنْ مَاتَتْهُ رَمَى رَمَى ۲۶۲۴ ۲۶۲۵ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ

دیکھو حدیث ۱۲۶۶ یا طیف اللہ تعالیٰ کا قول ان لوگوں کے لئے جو پہلی

مکرر روایت

يُولَدُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْتَبِضُ أَرْبَعَةً أَشْهُرًا إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ فَادَى رَجَعُوا

بیویوں کے متعلق قسم کھائیں چار ماہ کا انتظار ہے اللہ کے قول سمیع علیم تک (البقرہ - ۲۲۶) فان فادوا رجعت

۲۶۲۶ میں

رَمَى ۲۶۲۳ حَنْ مَاتَتْهُ رَمَى رَمَى ۲۶۲۴ ۲۶۲۵ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

دیکھو حدیث ۲۶۲۴ ابن عمر سے روایت ہے

۱۲۶۶ کے

كَانَ يَقُولُ فِي كَيْلِهَا أَلَيْسَ الَّذِي سَمَى اللَّهُ لَا يَحِلُّ كَالْحَدِّ بَعْدَ الْأَجَلِ أَلَا أَنْ يَمْسُكَ

کہ وہ اس ایثار کے بارہ میں فرماتے تھے جن کا نام اللہ نے لیا کو کسی کیلئے میعاد گذرنے کے بعد جائز نہیں ہے مگر یہ کہ نیک سوگ کے

آخری حصہ کو

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُعْرِضَ بِالْطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي

ساتھ روکے رکھے یا طلاق کا حق نہیں دے کرے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے اور ایک روایت میں ابن عمر سے ہے

ان الفاظ میں

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يَوْفَقُ حَتَّى يَطْلُقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَطْلُقَ وَ

کوجب چار ماہ گزر جائیں تو اسے طلاق یا جانے میں ایک ماہ کا انتظار دینے اور طلاق نہیں پڑے گی یہاں تک کہ وہ طلاق نہ کرے اور

دوہرا یا ہے

بِذَلِكَ عَنْ عَثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ اللَّيْلِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي عَاسِمٍ

یہی بات حضرت عثمان اور حضرت علی اور ابی الدرداء اور عاسم

کات المومنات

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۲۶۲۴ بَابُ حُكْمِ الْمُطْغَرِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے یا طیف جس کا پتہ نہ ہو اس کے اہل اور مال کے بارہ میں حکم اور ابن سب سے کہا

اذاهاجن الى

إِذَا فُقِدَ فِي لُصْفٍ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرْتَبِضُ مَرَأَتُهُ سَنَةً وَأَشْهُرًا بِنِهَايَةِ

کہ جب لڑائی کے وقت لُصْف (جنگ) میں غلام تیر ہو جائے تو اسکی بیوی ایک سال انتظار کرے گی لُصْف اور ابن مسعود نے ایک لڑکی خریدی

التي صلح بعقوبت

يقول الله تعالى

يا ايها الذين

امنوا اذا حلفت

المومنات بما

قامت بهن

الى اخر الآية

قالت عائشة

من اقرب هذا

الشروط من

المومنات فذا

بالحنة فكان

رسول الله صلعم

اذا اتوا بثلث

من قولهن قال

لهن رسول الله

صلعم انطلقن

فذا بالبعث

كأن الله ما اشت

بن رسول الله صلعم بدامراة قط غبار انه بايعهن بالكلوم والله ما أخذ رسول الله صلعم على النساء الا بما امره الله يقول لهن اذا اخططين قد بايعكن
كلما لم يسلط بحد كقول من سے گنے کے متعلق چھوڑو یا بے لفظیوں میں۔ اسی رسول اللہ صلعم من سناہ وکات انفکت رحله قائم فی مشرقہ لہ تسعاد
عشرین ثم نزل فقالوا یا رسول الله الیت شهر افعال الشهر تسع وعشرون لصلح اس تعلیق کو بعد الزاق نے رسول کی ہے اور وہاں لفظیوں میں:- اذا
فتن فی الصفت تربعت امراته سنة واذا افتد فی غیر الصفت فاربع سنین فرق کی وبقطر ہرے جنگ میں فقو کے متعلق یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ قتل ہو گیا

وَأَتَمَسَّ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَحْيِدْهُ وَفَقَدَ فَأَخَذَ يُعْطَى لِدُرْهِمٍ وَالَّذِي رَهْمِينَ وَقَالَ

اور اس کے ایک سال تک تلاش نہ کی اور اسے نہ پایا اور دو درہم دینے شروع کیے

اللَّهُمَّ عَن فِرَاتٍ وَعَلِيٍّ وَقَالَ هَكَذَا أَفَاعِلُوا يَا لَلْقَطَةِ وَقَالَ لُثَيْرِيُّ فِي كَأْسَيْهِ

اور کہنے لگے یا اللہ! فیرات کی طرف سے ہے اور مجھ پر ہے۔ اور کہا کہ اٹھائی سوئی چیز کے ساتھ اسی طرح کرو اور زہری نے ایسے قیدی کے

يَعْلَمُ مَكَانَهُ لَا تَزْوِجُ أُمَّرَأَتَهُ وَلَا تُقْسِمُ مَالَهُ فَإِنَّ الْقَطْعَ خَيْرٌ مِنْهُ سَنَةً

بارہ میں جس کے مکان کا پتہ ہوگا کہ اس کی بیوی سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ اس کا مال کا منہ چاٹے اور جب اس کی خبر بند ہو جائے تو اس

الْمَقْفُودِ (۲۶۴۷-۲۶۴۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَلْبَةَ تَقُولُ

اور کا صبر مفقود کا ہے

اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَمَعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ لَكَ فِي زَوْجِي مَا لِي قَوْلُهُ مَنْ أَمْسَطَعَهُ فَاطْعَامُ

اس راجع ہے کی بات سن لی جو ایسے شوہر کے بارے میں ہے جو سے بھرا گیا ہے اللہ کے قول میں کہ مسمطعہ کا طعام ستین مسکین کا اچھا ہے

سِتِّينَ مَسْكِينًا وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّ سَالَ بْنَ زُهَيْبٍ عَنْ ظَهْرَانَ الْعَبْدِ

اور اسماعیل نے بھی سے کہا کہ مالک کے بارے میں کہ انہوں نے ابن زہیب سے غلام کے ظہران کے متعلق پوچھا

فَقَالَ خُوْظَهَارُ الْحُرِّ قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي ظَهْرَانَ

تو کہا کہ وہ آزاد کے ظہران کی طرح ہے کہ اسے کہا کہ غلام کے روزے دو ماہ ہیں اور حسین بن حرسے کہا کہ آزاد اور

أَحْوَى الْعَبْدِينَ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ سَوَاءٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنَّ ظَاهِرًا مِنْ أُمَّتِهِ قَالَسَ

غلام کا ظہران اور عورت اور لڑکی سے برابر ہیں اور عکرمة نے کہا کہ اگر اپنی بیوی سے ہمارا کیا تو یہ کچھ نہیں ہے

بِشَيْءٍ إِشْنَا الظَّهَارِ مِنَ التَّسَاءُؤِ فِي الْعُرْبِيَّةِ لَمَا قَالُوا أُنِي فِيهَا قَالُوا فِي بَعْضِ

ظہران آزاد اور عورتوں سے ہونا ہے لگے اور کلام عرب میں لہما قالوا کے معنی ہیں فیما قالوا یعنی بعض ما قالوا

مَا قَالُوا وَهَذَا أَوْفَى لَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى التَّكْرَمِ وَقَوْلُ لُزْدِرٍ (۲۶۴۸)

اور یہ اولی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اور تمہارے بات کی طرف ہدایت نہیں کی

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأَمْرُ وَقَالَ ابْنُ عَجْرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

باب طلاق اور دیگر امور میں اشارہ سے کام لینا اور ابن عجر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعْدَبُ بِهِذَانِ إِشَارَةَ الرَّأْسِ

کہ اشارہ آنکھ کے آنسو سے غراب نہیں دیتا لیکن اس سے عذاب دیتا ہے اور اپنی زبان کی طرف

لِسَانِهِ وَقَالَ أَبُو بَنِي مَالِكٍ إِشَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمِي خَدِّ النَّصْفِ

اشارہ کیا ہے اور کعب بن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ اوہلے لوجہ

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَكْسُوفٍ فَقُلْتُ لَعْنَةُ سَنَةِ

اور اسماء نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں نماز پڑھائی تو میں نے حضرت عائشہ

عربی یعنی مالک کہتے اور کرنے سے پہلے وہ عدم تہ ہو گیا تو ایک سال تک اس کے بعد اس قیمت کو ساتوں کو دیدیا گیا ملا رہا کہ مکر شایا کتاب اللقطہ میں ص ۱۰۹ اور ص ۱۰۹ پر لکھا ہے اس کی روایت زید بن علی نے روایت کی ہے اور زہری اس کی روایت ہے اس لئے ظاہر ہے اس کے آخر میں بتایا ہے کہ حدیث بھی زید ابن خالد کی ہے نقلت اورایت حدیث زید بن علی المتنبی نے فی امور الضالۃ اور عن زید بن خالد قال نعم حدیث خیف سے مختلف نفعی سے آئی ہے اور مجاہد نے بھی کر دیتے ہیں۔ لفظ یوں ہیں۔ ات الغیبہ صلعم مثل عن ضالۃ الخنم فقال خذها فانما هی لك او لا خنم

ہ آزاد عورت میں نکاح کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے اور کچھ حدیث سننے کے آخر میں یہ لفظ لیس اور وہاں تھرہ بھی ہو جو زید بن کثیر نے روایت کیا ہے اور کچھ حدیث سننے کے

مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تَصَلِّيَةٌ فَأَوْمَاتُ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا قَوْمَاتُ	علما دیکھو حدیث
سے پر چھا لوگوں کو کیا ہوا اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو اپنے سر سے انہوں نے سورج کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا کوئی نشان ہے تو بے	۶۷۷
بِرَأْسِهَا أَنْ نَعْمَ وَقَالَ أَسٌّ أَوْ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْكُرْسِيِّ	۶۷۷ دیکھو حدیث
اشارہ کیا کہ ہاں علی۔ اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابوبکر کی	۶۷۷
أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْكُرْسِيِّ	۶۷۷ دیکھو حدیث
طرف اشارہ کیا کہ آگے جو جائیں علی اور ابوبہہ عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کوئی	۶۷۷
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَى لَصِيدًا لِمَخْرَمٍ أَحَدِ تَمَنُّكَ	۶۷۷ دیکھو حدیث
ہرج نہیں علی اور ابوقتادہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرم کے لئے شکار کے بانے میں فرمایا کیا تم میں سے کسی نے	۶۷۷
أَمْرُهُ أَنْ يُجِيلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكَلَّمَ أَرْمَهُ-ۖ ۲۷۵-۲۷۴ عَنْ ابْنِ	۶۷۷ دیکھو حدیث
اسے حکم دیا تھا کہ اس پر حملہ کرے یا اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا کیا گناہ ہے	۶۷۷
عَبَّاسٍ (ممتکون۔ ۸۵۷) وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِجْرٌ مِنْ	۶۷۷ دیکھو حدیث
زینب کے ہاتھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجوج اور باجوج کو	۶۷۷
رَدْمٌ يَا جَوْجُ وَمَا جَوْجٌ مِثْلُ هَذِهِ وَحَقْدٌ تَسْعَانِ (م۔ ۲۷۶-۲۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	۶۷۷ دیکھو حدیث
دیوار سے اس کی مانند کھول لایا اور تُو سے کی گڑہ یا ندھی علی	۶۷۷
(ممتکون۔ ۵۵۰) ۲۷۷-۲۷۸ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ (ممتکون۔ ۱۱۵۷) (م۔ ۲۷۸-۲۷۹) عَنْ	۶۷۷ دیکھو حدیث
۵۵۰ دیکھو حدیث	۶۷۷
ابْنِ عُمَرَ (ممتکون۔ ۱۴۰۳) (م۔ ۲۷۹-۲۸۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى	۶۷۷ دیکھو حدیث
۱۴۰۳ دیکھو حدیث	۶۷۷
(ممتکون۔ ۹۸۳) (م۔ ۲۸۰-۲۸۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (ممتکون۔ ۲۷۷) (م۔ ۲۸۱-۲۸۲)	۶۷۷ دیکھو حدیث
۲۸۱ دیکھو حدیث	۶۷۷
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ممتکون۔ ۲۷۷) (۲۸۲-۲۸۳) بَابُ اللَّعَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ	۶۷۷ دیکھو حدیث
باب لعان اور اللہ تعالیٰ کا قول اور چوتھی	۶۷۷
يُرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَكَذَلِكَ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ أَلَى قَوْلِهِ مِنَ الصَّادِقِينَ	۶۷۷
بیوروں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے گواہ نہیں ہوتے ان کے اپنے آپ کے اللہ تعالیٰ کے قول میں الصادقین تک (النور۔ ۶)	۶۷۷
فَإِذَا ذُفِرَتِ الْأَخْرُسُ امْرَأَتُهُ بِكِتَابَتِهِ أَوْ أَشَارَتْهُ أَوْ بِأَيْمَانَةٍ فَمَعْرُوفٌ	۶۷۷
پس جب گونگا اپنی بیوی پر تحریر میں الزام لگائے یا اشارے سے یا ایما سے معروف سے	۶۷۷

اللہ صلعم علی بیلابیہ وکان کلما اثنی علی الرکن اشار الیہ وکثرہ علی حضرت زینب بنت جحش کی یہ تعلیق حدیث ۱۱۵۷ میں گذر چکی وہاں باجوج کا حقہ تسعیین کے لفظ یوں میں دخلت یا صبیحہ الاہام والنہی تلیہام لکھ پلاد حصصی ہے پچھل حصص کے الفاظ اور ہیں۔ قال ابو القاسم صلعم فی الجذعة سابعہ لا یوا فقہا مسلم قائم یصلع لخال اللہ خیرا ای اعطاه ذقلا

یہاں یہ دو وضع انصاف علی بطن الوسط والخصو قلتا یہ ہڈیاں اور تھیدوں کے ایک ہی معنی ہیں، یہاں زیادہ تفصیل ہے۔ قال عددا یہودی فی عدل رسول لل صلعم علی جاریۃ فاخذ اوضاحا زیور کانت علیہا ورضخ رأسها فانقی بہا اهلها رسول اللہ صلعم وحی فی اخر رفق وقد اضممت فقال لہا رسول اللہ صلعم من قتلک فلان لغیر الذی قتلها فاشارت برأسها ان کا نال فقال لرجل اخر غیر الذی قتلها فاشارت ان الزنا فقال فقال ان لقاها فاشارت ان نعم فاہرہ وسوال اللہ صلعم ذبحہ رأسہ بید من صحیحین اشارت سے قائل کا پتہ بتا دیا۔ علیہا یہاں لفظ یوں ہیں۔ صحت اللہ صلعم یعزل لغتہ من هنا واشار الی المشرق علی قریباوی لفظ ہیں۔ بجائے الشمس کے جواب میں یہاں ہے تو اضمیت اور دوسری دفعہ جرح و اسمیت ان علیک نفسا اور شام ذمیہ کی جگہ ہے شم او ما میدہ الی المشرق۔ علیہا یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال النبی صلعم کا یہ معنی احد امکنہ انداء بول افعال اذ انہ من صحیحہ فانما بیادی او قال یوذن لیسصح فانمک ویلسن بقول کا نہ یعنی اللصیم او الفجر و اظہر فی بیانہ ویشتم مہ احدیہما من الاخری۔ علی قریباوی لفظ میں شروع کے لفظ مثل الخیر المتصدق یا نہیں ہیں اور یہ لفظ بڑھائے ہیں۔ ویشتم یا صبیحہ الی حلقتہ +

هُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أجازَ الْأَشَارَةَ فِي لُغَةِ الرِّضَى
تو وہ بات کرنے والے کی طرح ہے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض امور میں اشارہ جائز رکھا ہے

هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاشَارَتْ أَلْيَهُ تَأْوِيلُ كَيْفَ
اور یہ قول بعض اہل حجاز اور اہل علم کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشَارَتْ أَلْيَهُ رَمِيمٌ عَلَى طَرَفِ الشَّارِہِ

تَكَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي مَهْدٍ صَبِيًّا وَقَالَ الضَّكَّاءُ الْأَشَارَةُ وَقَالَ بَعْضُ النُّجَّاسِ
کیا انہوں نے کہا کہ مگر اس طرح اس سے بات کریں جو بھی پنجگھوڑے میں لڑکا ہے ریمیم۔ اور ضحاک نے کہا کہ اشارہ یعنی اشارہ سے راہل عن ۱۳۶

لَا حَادَةَ وَلَا لِعَانَ ثُمَّ زَعِمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِلِقَاءِ الْأَشَارَةِ أَوْ لِإِيمَاءٍ جَائِزٍ وَلَا لِكَيْسٍ بَيِّنٍ
اور بعض لوگوں نے کہا کہ کونسی ہے نہ معان یا پھر کیا کہہئے اور اشارہ اور ایما سے طلاق جائز ہے علامہ طلاق اور الاوصاف کے

الطَّلَاقِ وَالْقُدْفِ فَرَّقَ فَرَقٌ قَالَ الْقُدْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْكَلامِ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ
میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہ کہے کہ قذف اسی کو کہتے ہیں جو کلام سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ پھر اسی طرح طلاق بھی کلام کے سولے نہیں ہوتی

الطَّلَاقِ لَا يَحُوزُ إِلَّا بِالْكَلامِ وَالْأَبْطُلُ الطَّلَاقُ وَالْقُدْفُ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ
اگر اشارہ کو نہ تسلیم کیا جائے تو

كذلك الْأَصَمُّ يَلْعَنُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ فَأَشَارَ
یہی حال لعان میں برے کا ہے اور شعبی اور قتادہ نے کہا کہ جب کہ کہے کہ تجھ پر طلاق ہے اور ہنسی انگلیوں سے اشارہ کیے تو اس کے

بِأَصَابِعِهِ تَبَيَّنَ مِنْهُ بِإَشَارَتِهِ وَقَالَ ابْنُ رَاهِيَمَ الْكَلْبِيُّ سُرَادُ النَّبِ الطَّلَاقِ بَيِّنٌ
اشارہ سے وہ اس سے جدا ہو جائے گا اور ابن رایم نے کہا کہ کوننگا جب اپنے ہاتھ سے طلاق کہے

لِرِمَّةٍ وَقَالَ عُمَادُ الْأَخْرَسِيُّ الْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بَرِّسْ بَعْضُ جَازِمٍ ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
تو اس پر لازم ہو جاتی ہے اور عماد نے کہا کہ کوننگا اور برہ جب اپنے سر سے اشارہ کرے تو درست ہے

فَالِكِ رِمَاتٍ ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
دیکھو حدیث ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲

ابن سَهْلٍ رِمَاتٍ ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
دیکھو حدیث ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲

ابن سَهْلٍ رِمَاتٍ ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
دیکھو حدیث ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلٌ لَيْتِيْمٍ فِي جَنَّةٍ هَكَذَا أَوْ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور اپنے گنہگاروں کے

وَالْوَسْطِ وَفَرَسٌ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ر ۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
ساتھ والی انگلی اور رخ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کو رشتہ کچھ فرق رکھا اور سب نفی و کفر میں کرے

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وِلْدَانِي
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَامٌ أَسْوَدٌ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَرْبَابٍ قَالَ لَعْنَمُ قَالَ مَا لَوْ أَنَّهُمْ قَالَ هَمُّ قَالَ هَلْ
بیبدا جو ہے تو فرمایا کیا میرے بھائی ہیں کہا ان فرمایا ان کے نام کیسے ہیں کہا ان میں سے ہر ایک فرمایا کیا

خبر یہ سنا لفظ یوں ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي تِلْكَ الْكَلِمَاتُ وَرَقْنِ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطِ
لفظ یوں ہیں۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِلْكَ الْكَلِمَاتُ وَرَقْنِ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطِ يَقُولُ هَكَذَا
تلاش میں دوسرے تسبیح و تحسین میں یہ کلمہ لفظ وہی ہیں صرف یہ فرقہ عند اصول اذ نائب بال لکھنؤ ویا ہے میں بھی آپ نے اشارہ سے ایک مرتبہ ہے

۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
یہ یعنی صاف الفاظ میں نہیں بلکہ لفظوں میں ذکر ہے جن کا معنی یہ سمجھا جاسکے کہ اس کی اولاد و رشتہ قریبیوں اس کی اولاد میں ہے

۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲
۲۵۲ ۵۲ ۵۲ ح ۲

۱۔ اور کچھ کہے کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی اسی کے متعلق ہے اور اشارہ فقہاء کی طرف ہے۔ لکھ فقہ میں ان کے خلاف یہ دلیل دئی ہے کہ طلاق کو وہ اشارہ سے جائز سمجھتے ہیں۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

فِيهَا مِنْ أَدْرَقٍ قَالَ لَعَمْرُكَ قَالَ فَاِنِّي ذَاكَ قَالَ لَعَلَّ نَزَعَهُ عَرَقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ
 ان میں کوئی خاکسری رنگ کا بھی ہے کہاں فرمایا یہ کہ اس سے آیا تھا کسی رنگ سے نہ ہے جذب کیا ہے فرمایا تو شاہد کہ تیرے بیٹے کی صورت میں بھی
 هَذَا نَزَعَهُ (۲۷۶) بَابُ إِحْلَافِ الْمَلَاعِينِ (م- ۲۷۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَتَكْرَرٌ
 کسی رنگے جذب کیلئے یا رنگے جان کر قولے کو قسم دینا
 (۱۹۲۲) (۲۸) بَابُ يُبْدِ الرَّجُلُ بِالْقَلْبِ (م- ۲۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَتَكْرَرٌ
 باقیہ مروی جان میں اس پر اسے
 (۱۹۲۳) (۲۹) بَابُ اللَّعَانِ فَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَانِ (م- ۲۷۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
 باقیہ لعان کا بیان اور جو لعان کے بعد طلاق سے
 (متکرو- ۱۹۲۲) (۳۰) بَابُ الشَّلَاحِ فِي الْمَسْجِدِ (م- ۲۷۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
 باقیہ حدیث ۱۹۲۲
 (متکرو- ۱۹۲۲) (۳۱) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَأْسًا بَعِيرٍ بَيْنَهُ
 باقیہ حدیث ۱۹۲۲
 (۳۲) (۳۲) بَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الشَّلَاحَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لعان کا ذکر ہوا
 عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا فَمَنْ نَصَرَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ
 بن عدی نے اس بارہ میں کوئی بات کسی اور پھر چلے گئے تو ان کے پاس بن کی قوم میں سے ایک شخص آیا اور ان سے شکایت کی
 وَجَدَ مَعَهُ امْرَأَتَهُ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتَ هَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ
 کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تو عاصم نے کہا کہ مجھ پر اس بارہ میں بتلا میری بات ہی وہ جو ہے یا وہ اس شخص کو نبی
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصَفًّى
 سنی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس شخص کی خبر دی جس کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو پایا تھا اور یہ شخص یعنی شوہر زرد
 قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِيطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدًّا
 رنگ کم گوشت والا، دلیل سیدھے بالوں والا تھا اور وہ شخص جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا میں نے اپنے شوہر والا
 (روفي رواية خذ لا) ادم كذب اللحم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين نجاة
 محمد بنی رنگ مٹے بلان والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کو کھولنے سے سوا اس عورت نے بچو جانا

بلد ساتس نے
 تعریفیاً کیا کہنے
 رنگ کا بچو اس کا
 نہیں ہو سکتا تو
 اس پر آپ نے
 فرمایا کہ جس طرح
 دوسرے جانوروں
 میں بعض وقت
 خاص اسباب سے
 کوئی رنگ غالب
 آجاتا ہے یہی حالت
 انسانوں کی ہے
 تو اس میں ایک نہ
 اپنی بیوی پر لازم
 دیا۔ مگر چونکہ بعض
 شبہ کے رنگ ہیں
 تھا اس لئے اس
 پر قذف نہ تھا
 نہ ہی کسی معاہدہ
 کی ضرورت تھی
 وہ خود ہی قاس
 ہو گیا کہ اس شبہ
 غلط تھا
 بلکہ یہاں اختصار
 ہے۔
 ان رجلا من
 الانصار قات
 امرأته فاحلها
 النبي صلى الله عليه

و سلم ثم فرق بينهما ۱۹۲۳ کو یہی میت اشرف سے بیان کیا ہے۔ ان ہلال بن امیہ قذات امرأته فجاء فشهدوا والشيء صلحهم يقول ان الله
 يعلم ان احدكما كاذب فهل منكمانا نافي ثم قامت فشهدت اس میں بیٹے مروی شراوت کا ذکر ہے پھر عورت کی شراوت کا۔ اسی سے عنوان باب ہے۔
 ۱۹۲۳ اس کا مضمون اور اس کے نظام ۷۷۷ کے ہیں۔ لعان کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ ۱۹۲۳ منعمون وہی ہے الفاظ میں کچھ کی پیشی ہے اور بیٹے کو کہت
 مختصر کر دیا ہے۔ غیر کے عاصم کے پاس اور عاصم کے رسول اللہ صلحہ کی خدمت میں آئے کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ حدیث کے لفظوں میں ہے۔ ان رجلا من الانصار
 جاء الى رسول الله صلحهم فقال يا رسول الله ارأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً يقتله ام كيف يفعل فانزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من امر
 المتلاعنين فقال النبي صلحهم قد قطع الله فيك وفي امرأتك قال قتلنا في المصحف وانا شاهد فلما فرغنا قال كذب عليها يا رسول الله ان امسكتها
 فطلقها ثلاثا قبل ان يامر رسول الله صلحهم حين فرغنا من التلاعن ففارقتها عند النبي صلحهم فقال ذاك تفرق بين كل متلاعنين قال بن جرير
 قال ابن شهاب فكانت السنة بعد ههنا ان يفرق بين المتلاعنين وكانت عاملاً وكان ابنها يرضى لامه قال ثم جرت السنة في ميراثها انها تزوت و
 يرث منها ما فرض الله قال ابن جرير عن ابن شهاب عن سهل بن سعد السدي في هذا الحديث ان النبي صلحهم قال ان جاءت به امير قصير كانه
 رحررة فلا ارأها الا قد صدقت وكتب عليها وان جاءت به امير او امير قال ابن جرير فلا ارأها الا قد صدقت عليها في ت به على المكره من ذلك

شَبِيهَا يَا رَجُلٌ لَدَيْ ذِكْرِ زَوْجِهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ فَلَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو اس شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق اس کے شوہر نے ذکر کیا تھا کہ اسے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لَا يَرَى عِبَّاسَ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ لَدَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ

دونوں کے درمیان لعان کرنا یا ایک شخص نے ابن عباس سے مجلس میں نماز وہ عورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں

رَحِمْتُ أَحَدًا بَعْدَ بَيْنَتِي رَحِمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تَبْكُ امْرَأَةٌ كَأَنَّكَ تَنْظُرِينَ فِي الْإِسْلَامِ

بغیر گواہ کے ننگا کرنا تو اسے ننگا کرنا کہ نہیں یہ وہ عورت تھی جو اسلام میں برائی کو ظاہر کرتی

السُّوءِ (۳۲) بَابُ صِدْقِ الْمَلَأَنَةِ (۳۰۷) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ

تھی علی باب اس عورت کا جس سے لعان کیا جائے سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے کہا

لَا بَيْنَ مَرْءٍ وَرَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ إِخْوَتِي

عمر سے کہا کسی شخص نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو کیا حکم ہے تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان کے دو بھائیوں

بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يُعْلِمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَاؤُا وَقَالَ

کے درمیان جدائی کروانی ہے اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم سے کوئی توبہ کرے گا تو دونوں نے زنا نہ کیا پھر اپنے

اللَّهُ يُعْلِمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَاؤُا فَقَالَ اللَّهُ يُعْلِمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا

فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے میں کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا تو دونوں نے زنا نہ کیا پھر فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک

كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَاؤُا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرے گا تو دونوں نے زنا نہ کیا پھر اپنے دونوں کے درمیان جدائی کروانی ایوب کے کہا کہ عمو بن دینار سے کہا

أَنَّ فِي حَدِيثٍ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تَحْدِيثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لِي قِيلَ لَا مَالُ لَكَ

کہ اس حدیث میں ایک بات ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ اسے بیان نہیں کرتے کہ اس شخص نے کہا میرا مال اپنی نرسو عورت کو دیا ہے کہ اس سے کہا

أَنَّ كُنْتُ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتُ بِهَا وَأَنَّ كُنْتُ كَاذِبًا فَهِيَ أَعْدَمُكَ (۳۳) بَابُ

کی کہ تمہارا مال کوئی نہیں اگر تم سچے ہو تو تم اس پر داخل ہونے ہو اور اگر تم جھوٹے ہو تو مال کے داپس لینے کا حق تم سے ہوتے ہو

قَوْلِ الْأَمَامِ لِلْمُتَلَاَعِنِينَ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ (۳۷۰) بَابُ

امام کا لعان کرنا کیوں سے کہنا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرے گا

عَنْ ابْنِ شَهْرَبَرٍ (مُتَكَوِّنٌ - ۲۰۷) بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاَعِنِينَ (۳۷۱) بَابُ

دیکھو حدیث ۲۰۷۲ باب لعان کرنا کیوں سے کہنا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرے گا

عَنْ ابْنِ شَهْرَبَرٍ (مُتَكَوِّنٌ - ۱۹۴۴) (۳۷۲) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۹۴۴ باب لعان کرنا کیوں سے کہنا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرے گا

يُحَقِّقُ الْوَلَدَ بِالْمَلَأَنَةِ (۳۷۳) بَابُ

سچ لعان کرنا کیوں سے کہنا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرے گا

قَوْلِ الْأَمَامِ اللَّهُمَّ بَيْنَ (۳۷۴) بَابُ

امام کا لعان کرنے والے اللہ سے بات کو کہول سے دیکھو حدیث ۳۰۷۳

ملی یعنی فوجیں کا
علی الاعلان رکنا
کرتی تھی مگر گواہ کو
نہ تھا اس نے اس
پر حد نہیں لگائی
ملی اخوی بنی
عجلان سے مراد
بنی عجلان کو فرود
ہیں کیونکہ یہی
دونوں بنی عجلان
میں سے تھے
ملی مکرر روایت
کے لفظوں میں کچھ
فرق ہے۔ ممالک
روچھنے والے سعید
بن جبیر میں ابن
عمر عن المتلاعنین
فقال قال النبي
صلعم للمتلاعنین
حسبکم علی اللہ
احدکمسا کاذب
لا سبیل لک علیہا
قال مالی قال لا
مال لک انکنت
صدقت علیہا
فہو بما استحللت
من فرجہا وان
کنت کذبت علیہا
فذلک اجد لک
قال سعیدان
حفظتہ من غیرہ
وقال ایوب سمعت
سعد بن جبیر
قال قلت لابن
عمر رجلا یلعن

امراتہ فقال یا صبیحہ و فرقی سعیدان بن اصبغیہ التتبابۃ والوسطی فرق النبی صلعم بین اخوی بنی العجلان وقال اللہ یعلم ان احدکمسا کاذب
فهل منکما تائب ثلاث مرات قال سعیدان حفظتہ من غیرہ ایوب کہا اخبار تک ممالک بیان وایت بہت مختصر ہے ان رسول اللہ صلعم فرقی بین رجل و
امراة قد فہما و احلفما ممالک بیان مختصر ہے لا عن النبی صلعم بیان رجل و امراة من الانصار و فرقی بینہما ممالک اس کے لفظ میں ان النبی صلعم
لا عن بین رجل و امراة فانحط من دلہما فرقی بینہما و الحن الوان بالمرأۃ ۱۹۴۴ کی طرح اس میں بھی ذکر ہے کہ یجب عورت کے سپرد کیا گیا ممالک مکرر روایت ہے

(۳۷) بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَسْهَأْ

بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَسْهَأْ

(۳۷-۲) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَمًا) (۱۳۷-۲) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكْرَمًا) (۱۳۷-۲)

دیکھو حدیث ۱۳۷۲ دیکھو حدیث ۱۳۷۲

(۳۸) بَابُ وَالْأَمْرُ بِالْبَيْتِ مِنَ الْخِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ قَالَ لِمَا هَذَا

بَابُ وَالْأَمْرُ بِالْبَيْتِ مِنَ الْخِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ قَالَ لِمَا هَذَا

(۳۸-۲) كَمْ تَعْلَمُوا يَخْضَنَ أَوْ لَا يَخْضَنَ وَالْأَمْرُ بِتَعْدُنَ عَنِ الْخِيضِ وَالْأَمْرُ بِتَعْدُنَ عَنِ الْخِيضِ

كَمْ تَعْلَمُوا يَخْضَنَ أَوْ لَا يَخْضَنَ وَالْأَمْرُ بِتَعْدُنَ عَنِ الْخِيضِ وَالْأَمْرُ بِتَعْدُنَ عَنِ الْخِيضِ

فَوَدَّ تَمَنُّنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (۳۹) بَابُ وَأَوْلَاتُ الْأَسْحَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

فَوَدَّ تَمَنُّنَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (۳۹) بَابُ وَأَوْلَاتُ الْأَسْحَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

(۳۹-۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (مَتَكْرَمًا) (۱۹۷-۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (مَتَكْرَمًا) (۱۹۷-۲)

دیکھو حدیث ۱۹۷۲ دیکھو حدیث ۱۹۷۲

(۴۰) بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ

(۴۰) بَابُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ

(۴۰-۲) زَوْجَهَا بِلَيْلٍ فَبَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ يَنْكِحَ فَاذِنَ

زَوْجَهَا بِلَيْلٍ فَبَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ يَنْكِحَ فَاذِنَ

لَهَا فَكَفَّحَتْ (۴۰) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

لَهَا فَكَفَّحَتْ (۴۰) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمْ تَزْوِجُ فِي الْعِدَّةِ مَا خَاضَتْ عِنْدَهَا ثَلَاثَ حِيضٍ بَأْتِ

قُرُوءٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمْ تَزْوِجُ فِي الْعِدَّةِ مَا خَاضَتْ عِنْدَهَا ثَلَاثَ حِيضٍ بَأْتِ

مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ

مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ

إِلَى سَفِيَّانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْهَا

إِلَى سَفِيَّانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْهَا

وَأَقْرَأَتِ إِذَا دَخَلَتْهَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتِ بَسَلَى قَطْرًا إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي

وَأَقْرَأَتِ إِذَا دَخَلَتْهَا وَيُقَالُ مَا قَرَأَتِ بَسَلَى قَطْرًا إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي

بَطْنِهَا (۴۱) بَابُ قِصَّةِ قَارِطَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

بَابُ قِصَّةِ قَارِطَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

یہ بیان نہیں کی صرف یہ لفظ ہے۔۔۔ عن عائشة عن النبی صلعم۔۔۔ اختصار سے بیان کیا ہے۔۔۔ ان رفاعۃ القرظی تزویج امراتہ مطلقاً فتزوجت الخرافات النبی صلعم فذکر ان له اندک لای بیھا وانہ لیس معہ الا مثل ھدایۃ فقال لاحق تذاوق عسلیتہ ویدوق عسلیتک * یہ بیان ہے یعنی تمہاری جسد کو چھو تو وہاں ان امراتہ من اسم یقال لھا سبیحۃ کانت تحت زوجھا توفی عنھا وحی حیلہ فخطبھا ابو السنابل بن بعلک فات ان تکلمہ فقال لکی کہنے والے نے کہا، واللہ ما صلعم

ان تکلمہ حتی اعتدی الخوالا جلین فکشت قریبا من عشر نیال ثم جاءت النبی صلعم فقال انکم و حکمہ کہ روایت بہت مختصر ہے۔۔۔ ان کتاب الی ابن الارقم ان یسال سبیحۃ الاسلامیۃ کہتہ افتاھا النبی صلعم فقالت انانی اذا وضعت ان انکم و حکمہ یہ مسئلہ اجتماع عدتین کہ ہے ایک شخص نے عدت کے اندر ایک عورت سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح فسخ ہو گا۔ اور فا وندا اور ہوی کو الگ الگ کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عورت کی عدت کیا ہوگی۔ ابراہیم کا قول ہے کہ اگر عورت کو اس کے بعد تین حیض آجائیں جو بظاہر عدت کی میواد ہے تو وہ عدت صرف پینے فاند سے جدا ہونے کے محال ہے ہوگی۔ اور اس عدت کو پورا کر کے پھر دوسرے فاند سے علیحدگی کی عدت پوری کی جائیگی۔ اور زہری کا قول ہے کہ اس کے تین قرود دوسرے فاند سے علیحدگی کی عدت میں محسوب ہوں گے۔ مگر فاطمہ بنت قیس مہاجرات اول میں سے قریشی بی بی قیس اور جہنود اور علقمہ ہونے کے محال ہے انکی شہرت تھی۔

ان کے شوہر ابو عروبن مخصن انیس برس مرثیہ طلاق دیدی اور وہ خود جو وند تھا تو اپنے کہیں کے ہاتھ کچھ بچران کے گزارا کیلئے بھیجے جو تھوڑے تھے (باقی صفحہ ۱۲۷۳)

لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِمْ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَرَبُّكَ

ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کی منکب ہوں یہ اللہ کے

حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظم نفسه لا تدرى لعل لله يحد بعد

حدود ہیں اور جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد

ذلك أمرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كنز ولا تضاروهن لتضيغنوا

کون بات پیدا کرنے سے ان کو وہاں رکھو جہاں تم اپنی توہین کے مطابق رہتے ہو اور ان کو مزینہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی کرو

عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن من لبنهن إلی قوله بعد

اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل منع کریں اللہ تعالیٰ کے قول بعد

عسرى يسيرا ۲۰۷۴ عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار زيد كمان أن

عسری بیسوا (ک) (الطلاق ۱۰۷) قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار سے روایت ہے دونوں بیان کرتے تھے

يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فأنقلها عبد

کبھی بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن الحکم کی بیٹی کو طلاق دی تو عبد الرحمن اس کو

الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة أن

اس کے گھر سے لے گیا تو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے مروان کو بلا بھیجا اور وہ مدینہ کا حاکم تھا کہ اللہ کا

الله وأردد ها إلى بيتها قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن ابن

خوف کرو اور اس کو اس کے گھر واپس کرو مروان نے سلیمان کی حدیث میں کہا کہ عبد الرحمن بن الحکم کچھ برفالہ آگے

الحكم عليه وقال القاسم بن محمد ما بلغك شأن فاطمة بنت عيسى قالت

اور قاسم بن محمد نے کہا کیا آپ نے حضرت عائشہ کو فاطمہ بنت عیسیٰ کا قصہ نہیں سنا قربان

لا يثرون أن كانت كرم حديث فاطمة فقال مروان بن الحكم إن كان ذلك

کوئی نقصان نہیں اگر فاطمہ کی حدیث کا ذکر کرو تو مروان بن الحکم نے کہا آپ کو فاطمہ کے قصہ میں شرم معلوم ہوئی

شتر حسبك ما بين هذين من الشتر ۲۰۷۵ عن القاسم (متكره) ۲۰۷۶

ہے تو جو شتران دو دو راہیں بیوی کے درمیان سے وہ بھی آپ کے لئے کافی ہے دیکھو حدیث ۲۰۷۶

(۲۰۷۰-۲۰۷۱) عن القاسم (متكره) ۲۰۷۲ باب المطلقه إذا حشيت عليها في مسكر فزوجها

دیکھو حدیث ۲۰۷۲ باب المطلقہ اگر اس کے لئے مسکر کا پیو تو اس کے لئے مسکر کا پیو کرنا

أن يفتحه عليها أو تبرز أو على أهلها بفاحشة (م- ۲۰۷۱) عن عائشة (مكرر) ۲۰۷۶

کراس پر بھوم کیا جائیگا یا اپنے گھر والوں پر بدگولی کرے گی دیکھو حدیث ۲۰۷۶

رقیہ صفحہ ۱۲۶۳
چہرہ رسول اللہ
صنع کے پاس گئیں
تو آپ نے فرمایا کہ
تمارا ان پر کوئی حق
نقد نہیں اور انہیں
بن ام مکتوم کے گھر
میں جو ان کے چچا
زا و بھائی تھے ٹھہرے
کے لئے ارشاد فرمایا
جس عورت کو تیری تہ
طلاق مل جائے
اس کے نفقہ اور
رہائش کے بارے
میں دو گروہ علماء
کے ہیں ایک وہ
جو کہتے ہیں کہ سوائے
حمل کی صورت کے
اس کے لئے نہ نفقہ
ہے اور نہ رہائش
کا حق اور اس
حدیث سے ایسا
ہی معلوم ہو سکتا
ہے
دوسرا گروہ وہ ہے
جو کہتے ہیں کہ اگر اس
کے لئے رہائش سے
اور نفقہ مل گیا
میں قرآن کریم کے
آیہ ظاہر الفاظ سے مطلقہ
عورت کیلئے یہاں
ہیں قواہ بہت تھوڑی

نہ کا تخریج من بیوتہن و لا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ ۚ ربک
و نفقہ کا انتظام بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی عورت کے والدین سے اپنے گھر لے جائیں تو یہ انرا حق نہیں نہ خرچ ہے (صحیح مسلم) ۱۰۷۱
عائشہ نے فاطمہ بنت عیسیٰ کے قصے کو محبت نہیں سمجھا اور اسے شوہر کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ کی شکر کو زیادہ دیا جب بعض نے یوں بیان کی ہے کہ انکا مکان و حوض اور
خوف کی جگہ تھا تو دیکھو حدیث ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ اور بعض نے پھر اذ تو مروان نے جواب میں یہ کہا بھیجا کہ اگر آپ اسے کسی شتر کی وجہ سے مستثنیٰ سمجھتی ہیں تو یہاں بھی شتر ہے اور وہ شتر
میاں بیوی کے درمیان ہے، مگر اس کے لفظ یوں ہیں۔ انہا قالت ما لفاطمۃ الا انتہی یعنی فی قولہ لا یسکر ولا یفتحه ۱۰۷۱ مگر یہاں نفی یوں ہے۔ قال عرف بن
الزبیر لما نشفتم الم ترین الی فلاتۃ بنت الحکمہ طلقتھا زوجھا البنتۃ فخرجت فقالت بیس ما صنعت قال الم سمعی فی قول فاطمۃ قالت اما انہ لیس لہا خیر فی
ذکرہذا الحدیث وذا ابن ابی الزناد عن هشام عن ابیہ عابت عائشۃ اشدا العیب وقالت ان فاطمۃ کانت فی مکان وحش خفی عن علی فاجبتھا ذلک الیک
ارخص لہا البیس صلعم ۱۰۷۱ یعنی ایسی عورت میں فتنہ سے حفاظت کے لئے اسے دوسری جگہ رکھا جاسکتا ہے ۱۰۷۱ مگر یہاں نفی ہے۔ ان عائشۃ ۱۰۷۱

۱۰ انکرت ذلک علی فاطمۃ یعنی اس کے اس قول کو پسند نہیں کیا کہ مطلقہ گھر سے نکل سکتی ہے

<p>لَسَخَتْ هَذِهِ الْأَيَّةُ عِنْدَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعَتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ <small>کہ اس آیت نے اس کے گھر والوں کے پاس اس کا عدت گزارنا منسوخ کر دیا جو جہاں چاہے عدت گزارے اور اللہ تعالیٰ کا قول خیر</small></p>	<p>۱ <small>صرف ام حبیبہ</small></p>
<p>رَأَخْرَاجُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَتْ اِعْتَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنْتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ <small>اخراج اور عطا نے کہا اگر چاہے تو اپنے گھر والوں (رسول) کے پاس عدت گزارے اور وصیت کے مطابق رہے اور چاہے</small></p>	<p>۲ <small>والاحصہ بیان کیا ہے۔ لہذا جادھا لکھی ایہا</small></p>
<p>شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْأَمِيرُ <small>اللہ تعالیٰ کے قول فلا جناح علیکم فیما فعلتم کے لیے عطا نے کہا پھر میراث آئی</small></p>	<p>۳ <small>عدت بطیب فسوت ذرا عیہا</small></p>
<p>فَأَمَرَ الشَّكَنِي فَتَعَتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُنَّةَ لَهَا رَم - ۲۷۸۲ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ <small>تو اس نے سکونت کو منسوخ کیا تو جہاں چاہے عدت گزارے اس کیلئے مکان نہیں ہے</small></p>	<p>۴ <small>وقالت مالی بالطیب من مباحة لولا انی سمعت النبی صلعم یقول لا یحل لامرأة تمن بالله من الیوم الاخر</small></p>
<p>رَمْتَر - ۶۸۸ (۵۸۸) بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالْبِكَاكِ الْفَاسِدِ وَقَالَ أَحْسَنُ إِذَا <small>دیکھو حدیث ۶۸۸ باب بکاری اور نکاح فاسد کا مہر اور حسن نے کہا جب</small></p>	<p>۵ <small>تخلی علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشھر وعشرا</small></p>
<p>تَزَوَّجَ مَحْرُومَةً وَهُوَ لَا یَشْعُرُ بِرُفْقِ بَيْنَهُمَا وَأَلْهَمًا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ <small>ایسی عورت سے نکاح کرے کہ وہ اس پر حرام ہو اور وہ نہ جانتا ہو تو دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے اور اس کیلئے وہی جو جو اسے لیا</small></p>	<p>۶ <small>تخلی علی میت</small></p>
<p>ثُمَّ قَالَ بَعْدَ لَهَا صِدْقًا هَام - ۲۷۸۳ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ (مَمْتَر - ۱۰۹) <small>اور اس کے لئے اس کے ساتھ لکھ لیں پر کہ اس کیلئے اس کا مہر ہے</small></p>	<p>۷ <small>فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشھر وعشرا</small></p>
<p>رَم - ۲۷۸۴ عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ (مَمْتَر - ۱۰۳۹) رَم - ۲۷۸۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ <small>دیکھو حدیث ۱۰۳۹</small></p>	<p>۸ <small>دہی نظمیں</small></p>
<p>رَمْتَر - ۱۱۰۴ (۵۲) بَابُ الْمَهْرِ الْمُدْعُوْلِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُوْلِ أَوْ طَلْقَهَا <small>دیکھو حدیث ۱۱۰۴ باب مہر اس کا مہر جس پر مدعی ہو چکا ہو اور در دہل ہونا کیونکر ہوتا ہے یا سے داخل</small></p>	<p>۹ <small>لفظ یوں ہیں۔ قال لعن النبی صلعم الوائمة والمستوشمة والک الریاء مکرہ وغلی عن ثمن الکلب وکسب البغ و لعن انصردین</small></p>
<p>قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالْمَيْسِيسِ رَم - ۲۷۸۵ عَنْ ابْنِ خَمْرٍ (مَمْتَر - ۲۰۷۴) <small>ہوئے اور چھوٹے سے پہلے طلاق دے</small></p>	<p>۱۰ <small>لفظ وہی ہیں</small></p>
<p>رَم (۵۲) بَابُ الْمُتَعَدَّةِ لِلَّتِي لَمْ يُعْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ <small>بایں جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اسے پھر سامان دینا</small></p>	<p>۱۱ <small>قال لعن النبی صلعم الوائمة والمستوشمة والک الریاء مکرہ وغلی عن ثمن الکلب وکسب البغ و لعن انصردین</small></p>
<p>إِنْ طَلَقْتُمُ الْمَسَاءَ مَا لَمْ تَشْهَوْنَنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةً <small>اگر تم عورتوں کو طلاق دو جو نکاح تم نے ابھی ان کو چھوڑا ہے</small></p>	<p>۱۲ <small>لفظ وہی ہیں</small></p>
<p>وَقَوْلِهِ وَلِلْمَطْلُوقَاتِ مِمَّا تَرَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ <small>اور اللہ تعالیٰ کا قول اور مطلقہ عورتوں کے لئے دستور کے مطابق پھر سامان ہے یہ مستحقوں پر حق ہے</small></p>	<p>۱۳ <small>لفظ وہی ہیں</small></p>
<p>أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَلَاعِنَةِ مُتَعَدَّةً <small>ابھی آیتیں کو کہ بیان کی تھی تاکہ عقل سے کام لو اور البقرہ ۲۳۱-۲۳۲ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن میں سامان دینے کا ذکر نہیں فرمایا</small></p>	<p>۱۴ <small>لفظ وہی ہیں</small></p>
<p>حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا رَم - ۲۷۸۶ عَنْ ابْنِ خَمْرٍ (مَمْتَر - ۲۰۷۴) <small>جب اس کا شوہر اسے طلاق دے</small></p>	<p>۱۵ <small>لفظ وہی ہیں</small></p>

اللہ بعل ان احد کما کاذب فهل منکما ثابت فایا بجلتے تین دفعہ کے دو دفعہ زوہر آیا ہے۔ مگر یہ روایت مختصر ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الملاعنین حسا کما کاذب لا سبیل نک علیہا قال یا رسول اللہ مالی قال لا مال لك ان کنت حدت علیہا فہو لیسما استخلف من فرجها وان کنت کن بتا علیہا ذنک ابدا وایعن لك عنہا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَشْرَفَ اِسْمًا رَحْمًا
 بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۶۹- کتابُ النِّفَقَاتِ

کتاب النفقات - ۶۹

رَأَى بَابَ فَضْلِ النِّفَقَةِ عَلَى الْاَهْلِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

باب گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کا قول اور ترجمہ ہے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے جو کچھ رہا جت سے بڑھ

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي الَّذِي نَادَى الْاٰخِرَةَ وَقَالَ خَسَنٌ

رہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت میں (البقرہ ۲۱۹-۲۲۰) اور حسن نے کہا کہ

الْعَفْوُ الْفَضْلُ ر- ۲۷۸۷ عَنِ اَبِي مُسْعُودٍ ر- ۲۷۹ ر- ۲۷۸۸ عَنِ

عقوبہ سے مروی ہے

اَبِي هُرَيْرَةَ ر- ۱۹۳۸ (۲۰۷۷) عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

دیکھو حدیث ۱۹۳۸

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْاٰرْمَلَةِ وَالْمَسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ الْقَارِءِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الَّذِي لَصَّ اَثْمُ النَّهَارِ ر- ۲۷۸۹ عَنِ سَعْدِ بْنِ ر- ۲۷۹۵ (۲) بَابُ وُجُوْبِ النِّفَقَةِ

رات کو عبادت کیلئے جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا ہے

عَلَى الْاَهْلِ الْبُعِيَالِ ر- ۲۷۸۸ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کرنے والا احب ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعدے فکری ہو اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے

وَابْدَأِ بِمَنْ تَعْمَلُ تَقْوَلُ الْمَرْءُ اِمَّا اَنْ نَطْعَمَنِي وَاِمَّا اَنْ تَطْلِعَنِي وَيَقُوْلُ

اور اس سے شروع کر جس کی ذمہ داری تجھ پر ہے بیوی کہتی ہے کیا تو مجھے کھانے کو شے یا مجھے ہلاک دے

الْعَبْدُ اَطْعَمَنِي وَاسْتَعْمَلَنِي وَيَقُوْلُ الْاَبْنُ اَطْعَمَنِي اِلَى مَنْ تَدْعُنِي

کتاب ہے کہ مجھے کھانے کو شے اور کام پر لگا اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھ کو کھانے کو شے مجھے کس پر چھوڑو گے

فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَهُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

لوگوں نے کہا ابو ہریرہ اچھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

اَبَا هُرَيْرَةَ ر- ۲۷۸۸ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعدے فکری ہو اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے

وَابْدَأِ بِمَنْ تَعْمَلُ تَقْوَلُ الْمَرْءُ اِمَّا اَنْ نَطْعَمَنِي وَاِمَّا اَنْ تَطْلِعَنِي وَيَقُوْلُ

اور اس سے شروع کر جس کی ذمہ داری تجھ پر ہے بیوی کہتی ہے کیا تو مجھے کھانے کو شے یا مجھے ہلاک دے

الْعَبْدُ اَطْعَمَنِي وَاسْتَعْمَلَنِي وَيَقُوْلُ الْاَبْنُ اَطْعَمَنِي اِلَى مَنْ تَدْعُنِي

کتاب ہے کہ مجھے کھانے کو شے اور کام پر لگا اور بیٹا کہتا ہے کہ مجھ کو کھانے کو شے مجھے کس پر چھوڑو گے

فَقَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَهُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

لوگوں نے کہا ابو ہریرہ اچھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

اَبَا هُرَيْرَةَ ر- ۲۷۸۸ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

بہتر صدقہ وہ ہے جس کے بعدے فکری ہو اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے

قرینہ دہی الفاظ میں
 یہاں صرف ابتدائی فقرہ ۱۹۳۸ کا
 دوسرا یہ ہے ان رسول اللہ صلعم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک
 کیونکہ جس طرح جہاد کی اصل غرض قوم کو زندہ رکھنا ہے بیوہ اور محتاج کی خبر گیری بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لئے ہے اور جس طرح عبادت سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اسی طرح دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنے سے بھی نفس کی تزکیہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کاموں میں سے ایک کا فی ہے جہاد کرے یا عبادت کرے تو بیوہ اور محتاجوں کی خبر گیری کی ضرورت نہیں

یہ یعنی ہوز دربار میں
مقدم ہیں ان کو
مقدم کرو مگر مطلب
نہیں کہ ان کے سوائے
دوسرے کا خیال
ذکر و آخری فقرہ
کہ حضرت ابو ہریرہ
نے کہا تھا اعم
کہیں اب ہریرہ
اس کی تشریح و دلیل
طرح پر ہو سکتی ہے
یعنی یہ انکار کے
رنگ میں اثبات
کا دعویٰ ہے یعنی
اگر رسول اللہ صلی
سے نہیں سنا تو کیا
میں اپنی سمجھ سے
کہہ رہا ہوں کیونکہ
اس کی ابتدا یوں
ہوتی ہے کہ نبی
صلی نے ایسا فرمایا
اور یہ بھی ہوسکتا ہے
کہ آخری فقرات
پیوستہ کرتی ہے اور

هَذَا مِنْ لَيْسَ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۹۰- ۲۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۰۷۸) (متکرر- ۲۰۷۸)

یہ ابو ہریرہ کی تحقیق ہے ۱۲۷۸

(۳) بَابُ حَيْسُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتِ سِنَةِ عَلٰى اَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْبَعِيَالِ

باب بیاتل انسان کا اپنے گھروالوں کے لئے سال بھر کا خرچ محفوظ رکھ لینا اور عیال کا خرچ کیونکر ہونا چاہئے

(۵- ۲۷۹۱) عَنْ عُمَرَ (م- ۱۳۳۹) (م- ۲۷۹۲) عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ (م- ۱۴۰۱) (متکرر- ۱۴۰۱)

دیکھو حدیث ۱۳۳۹ دیکھو حدیث ۱۴۰۱

(۴) بَابُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

باب بیاتل اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عیال اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلایا

لَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ اِلَى قَوْلِهِ بِمَا لَعَمَلُونَ بِصِرَاتِكَ رَابِعًا ۲۳۰ اور فرمایا کہ اس کا عمل اور اس کی

ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَرَانَ تَعَا سَيُضْعَمُ لَهٗ اٰخِرَى لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ

دودھ پھرانے میں چھبیس سے (۱۵-۱۵) اور فرمایا اور اگر تم گلی محسوس کرو تو اسے اور کوئی عورت دودھ پلاوے گی اور کاش و ادا اپنی کاش کے

سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقًا اِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرٍ فَيُسِّرْهُ وَقَالَ يُوَسِّعُ مِنَ الرِّزْقِ لِكُلِّ

مطابق خرچ کرے اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے اللہ کے قول بعد عسری اسیر ایک (الطلاق بدہ) اور نفیس نے زہری سے روایت کی کہ اللہ

الله اَنْ تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ اَنْ نَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مَرْضِعَةً وَهِيَ مِثْلُ

نے روکا ہے کہ ماں اپنے بچے کے دوسرے باپ کو ضرر پہنچانے اور یہ اس طرح کہ کہیں سے دودھ نہیں پلاؤں گی حالانکہ وہ از روئے فرائض

لَهٗ غِنًا ؕ وَاسْتَفْنَعُ عَلَيْهِ وَاَرْفِقْ بِهٖ مِنْ غَيْرِهَا فَاَيْسَ لَهَا اَنْ تَالِي بَعْدَ اَنْ يَصْبُرَ هَاهُنَا

کے لئے بہتر ہے اور اس کی شفقت اس پر زیادہ ہوتی ہے اور دوسری کی نسبت وہ اس پر زیادہ مہربان ہوتی ہے تو اسے جائز نہیں کہ انکار کرے

نَفْسًا مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ دَوْلِيْسًا لِّمَوْلَا ذِي اَوْلَادٍ اَوْ لِيَضَارَّ بِوَلَدِهَا وَالِدَاتُ فَيَمْنَعُهَا اَنْ تَرْضِعَهُ

اس کے بعد کہ شرط سے اسے اپنی طرف سے نہ ہے جو اللہ نے ذمہ لگا دیا ہے اور باپ کو نہیں چاہئے کہ اپنے بچے کی اجازت سے اس کی کو ضرر پہنچائے اور اسے تکلیف دے

غلام یوں کہتا ہے ابو ہریرہ نے خود وضاحت کے لئے بڑھا دیا ہے میں اور آخری الفاظ میں اسی تشریح کی طرف اشارہ ہے + مطلب یہاں اختصار ہے + ان

وسئل الله صلعم قال خير الصدقات ما كان عن ظهر غني واذا ابدى بين تحول + مطلب یعنی اگر سال بھر کا خرچ اپنے عیال کے لئے رکھے تو محفوظ طریق ہے +

لکھ کر روایت یوں ہے۔ قال لی رابن عیینة الثوری هل سمعت فی الرجل یجمع لاهله قوت سنتهم او اجض السنة قال معد فم یحضونی شتم

ذکرت حدیثا حدیثا ابن شہاب الزہری عن مالک بن اوس عن عمر رضی اللہ عنہ ان الشیخ صلعم کان یبید فخل بنی النضر وخیس لاهله

قوت سنتهم ۱۳۳۹ حضرت عمر کی حدیث ہے اور اس کا آخری فقرہ یہاں اور الفاظ میں دوہرایا ہے۔ مکرر روایت میں تو صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلعم

فخل بنی نضیر کو فروخت کر کے اسی سے سال بھر کا نفقہ اپنے اہل کالے لیتے تھے۔ مگر ۱۳۹۱ میں یہ بھی بڑھا یا ہے کہ نفقہ کے جو بڑھ رہتا اسے فی

سبیل اللہ سامان وغیرہ تیار کرنے میں خرچ کرتے تھے مالک بن اوس کی حدیث کا پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں سے ابتدا کی ہے۔ فقال

مالک انطلقت حتى ادخل علی عمر اذا اتاه حاجبه یرفقا فقال لعلک فی عثمان وعبد الرحمن الخ وبن اس کی بجائے ہے فیما اتانا

عندک اذا اتاه حاجبه یرفقا الخ اس کے بعد آخر تک حدیث کو فرمایا (نہی) الفاظ میں دوہرایا ہے سوائے اس کے کہ ایک دو جگہ کوئی جملہ بڑھا یا ہے

یا گھٹا یا ہے۔ جس کا مفہوم پچھلے آئیں۔ مثلاً حضرت علی اور عباس کے متعلق یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے۔ وہما یجتہمان فیما اتانا الله علی

رسوله صلعم اللہ علیہ وسلم یا جہاں حضرت عمر کی ولایت کا اور آپ کے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو قائم رکھنے کا ذکر آتا ہے۔ یہ فقرہ چھوڑ دیا

ہے۔ واللہ یعلم انی فیہا لصلواتی وانی باردا مثلاً تابع لمحقق اور پھر حضرت علی اور عباس کے جھگڑے کے ذکر میں یہ فقرہ نقل کیا ان رسول اللہ صلعم

قال لا فودت ما ترکنا صدقة فلما بد الی ان اذ فہہ البکما۔ اور ایک فقرہ دیاں بڑھا یا ہے جہاں حضرت عمر کے پہلے فیصلہ کا ذکر ہے۔ واثبت احیئنا ذ

دا قبل علی علی وعباس تزعمان ان ابا بکر کذا وکذا۔ عثمان باب کا تعلق صرف ایک فقرہ سے ہے۔ فكان رسول الله صلعم اللہ علیہ وسلم

ینفق علی اهلہ نفقة سنتهم من هذا العمل ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ لصلعم مال الله +

یہ اس کی تشریح ہے اور اس سے مراد ہے

۱۰۸۲	ضَرَّ إِلَهًا إِلَىٰ غَيْرِهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُسْمِتَا فِرْعَانًا حَتَّىٰ يَطِيبَ نَفْسًا لَوِ الْوَالِدِ	اور دوسری سے دو دوہ پوائے اور دونوں پر کوئی گناہ نہیں	کلبانی قومی سے باپ اور ماں دو دوہ پوائیں
۱۰۸۳	وَالْوَالِدَةُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَصَالُهُ نِظَامَةٌ رَهُ، بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے دو دوہ چھڑوانا چاہیں	تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس کے بعد کہ
۱۰۸۴	إِذَا قَابَ عَثَمًا زَوْجَهَا وَنَفَقَةَ الْوَالِدِ رَهُ - ۲۷۹۳	جب اس کا خاوند غیر حاضر ہو اور اولاد کا خرچ	دیکھو حدیث ۱۰۸۲
۱۰۸۵	رَهُ - ۲۷۹۴	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	فصالہ اس کا دو دوہ چھڑوانا
۱۰۸۶	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۸۷	إِذَا قَابَ عَثَمًا زَوْجَهَا وَنَفَقَةَ الْوَالِدِ رَهُ - ۲۷۹۳	جب اس کا خاوند غیر حاضر ہو اور اولاد کا خرچ	دیکھو حدیث ۱۰۸۲
۱۰۸۸	رَهُ - ۲۷۹۴	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۸۹	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۰	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۱	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۲	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۳	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۴	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۵	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۶	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۷	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۸	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۰۹۹	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ
۱۱۰۰	بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ	یہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور باہم مشورہ سے	بیوی کا خرچ

ملکہ میں نفیوں
ہیں۔- قالت
جاءت ہند بنت
عنتبة فقالت یا
رسول الله ان
ابا سفیان رجل
مسک فہل علی
حرج ان اطعم
من الذی لریحاننا
قال لا الا بالمعروف
اس سے معلوم ہوا
کہ خاوند پر بیوی
اور عیال کا نفقہ
ہے +
ملکہ قریشیہ نبی
ہیں۔- اذا نفقت
المرأة من کسب
زوجها عن غیر
امرہ فلا نصیب
اجرہ۔- استدلال
یہ معلوم ہوتا ہے کہ
جب خاوند کے
مال سے نہ دو شریک
پر بھی حد نہ کر سکتی

ہے تو عیال کا خرچ بھی لے سکتی ہے۔ ملکہ مکرروایت کے لفظ قریشیہ وہی ہیں جہاں رسول اللہ صلعم کی تشریف آوری کا ذکر ہے وہاں یہ لفظ بڑھانے
ہیں۔- چنانچہ فقہان نبینی و بیہما یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس میں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ اپنے گھر میں چکی چستی نہیں کر کوئی
خدمت کا کام کرنا عورت کے فرائض میں داخل نہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ گھر چلتا تب ہی سے جب نماز و اپنی طاقت کے مطابق اس کی ہمت سہی میں
کوشاں ہوا اور بیوی اپنی طاقت کے مطابق۔ چونکہ اس وقت حضرت علی کے پاس اتنی گنجان نش ذمعی کہ ایک نوکر رکھ سکتے اس لئے حضرت فاطمہ
اپنے ہاتھ سے چکی بھی نہیں لیتیں + ملکہ یہاں لفظ یوں ہیں۔- ان فاطمة علیہا السلام اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسالہ خادما فقال
الا اخبرک ما هو خیر لک منه تسحبین اللہ عند منامک ثلاثا وثلاثین و تحمدین اللہ ثلاثا وثلاثین و تکبرین اللہ اربعاً و ثلاثین ثم قال
سفیان احد اہل اربع و ثلاثا فورا فما توکلتما بعد قیل ولا لیلۃ صغیرین قال ولا لیلۃ صغیرین۔ خادم کے لئے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلعم کے پاس گئیں
جس سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کے لئے خادم کا ہونا سب سے + ملکہ یہاں لفظ یوں ہیں۔- سالت عائشۃ رضی اللہ عنہا ما کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی البیت قالت کان فی مہذبۃ اہلہ فاذا سمع الاذان خرج۔ فی مہذبۃ اہلہ کی تشریح ۳۳۳ میں خود
یوں کی ہے۔- یعنی خدامہ اہلہ اس میں آنحضرت صلعم کا دستور العمل بیان کیا ہے کہ گھر کے اندر ہوتے تو اپنی بیویوں کی خدمت کے
کام بھی کرتے۔- دیکھو نوٹ ۱۷ صفحہ ۷۶ + ملکہ مطلب یہ ہے کہ خاوند کے مال سے جو اس کے تصرف میں ہو وہ اس قدر لے لیا کہ جس
قدر اس کے لئے اور اس کے بچوں کے لئے ضرورت ہو + ملکہ یہاں لفظ یوں ہیں۔- ان ہند بنت عنتبة قالت یا رسول الله ان ابا سفیان
رجل یحیی و لیس یعطینی ما یکفینی و ولدی الاما اخذت منه دھولا یعلم فقال خدی ما یکفیک و ولدک بالمعروف۔- مکر
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان اہل و عیال کا نفقہ دینے میں تنگی کرتے تھے تو ان کی بیوی کو اجازت دی گئی کہ جس قدر رواج کے
مطابق ان کے لئے کافی ہو وہ اس قدر بلا اجازت لے لیا کرے +

ملفوظی لفظ میں
ملفوظ قریباً وہی
ہیں۔ یعنی جوڑا
حضرت علی نے
عورتوں کو دے
دیا۔ عورتوں
رہائی سے مرو
حضرت فاطمہ
دوسری تسمیہ
عورتیں ہیں۔
اس سے استدلال
کیا ہے کہ حسب
مقدرت بیوی
کو کپڑا دینا چاہئے
بٹل اور یا توں کو
چھوڑ کر صرف
شادی کا ذکر کیا
ہے۔ قال هلك
ابی و ترك سبعم

(م- ۲۷۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متنکر- ۲۰۱۸) (۱۱) بَابُ كَسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ
دیکھو حدیث ۲۰۱۸ بٹل باب بیوی کو دستار کے برافق کپڑا دینا

(م- ۲۸۰۰) عَنْ عَلِيٍّ (متنکر- ۱۲۲۲) (۱۲) بَابُ عَزْوِ الْمَرْأَةِ وَجِهَانِي وَكِلَاهِ (م- ۲۸۰۱)
دیکھو حدیث ۱۲۲۲ بٹل باب بیوی کا شوہر کی اسکی دلاو کے بارہ میں مدو کرنا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متنکر- ۱۰۲۵) (۱۳) بَابُ نَفَقَةِ الْمَعْسُومِ عَلَى أَهْلِهِ (م- ۲۸۰۲)
دیکھو حدیث ۱۰۲۵ بٹل باب نکلت کے کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متنکر- ۹۸۰) (۱۴) بَابُ وَاعْلَىٰ لَوِ ارْثٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ
دیکھو حدیث ۹۸۰ بٹل وارث پر اسی طرح ہے رابعہ ۳۳۳ اور کیا بیوی پر بھی اس کا کچھ خرچ ہے

مِنْهُ شَيْءٌ وَضَرِبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُ كَرْمٍ إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (م- ۲۸۰۳)
اور انہوں نے دو مردوں کی مثال بیان کی ہے ایک گونگا ہے اللہ کے قول صراط مستقیم تک راضی ۷۰ ۷۱

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (متنکر- ۷۸۷) (م- ۲۸۰۴) عَنْ عَائِشَةَ (متنکر- ۱۰۸۲) (۱۵) بَابُ قَوْلِ
دیکھو حدیث ۷۸۷ بٹل دیکھو حدیث ۱۰۸۲ بٹل

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُ كَرْمٍ إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (متنکر- ۱۱۱۳)
نہو علی اللہ علیہ وسلم کا قول جو شخص خرچ یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ بیوی طرف ہے

(۱۶) بَابُ الْمَرِاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ غَيْرِ هُنَّ (م- ۲۸۰۶) عَنْ زَيْبٍ (متنکر- ۲۰۲۳)
بٹل دودھ پلانے والی عورتیں آزاد شدہ لونڈیوں سے اور ان کے سوا

بنات او تدر بنات فزت و زوجت امراة ثيبا فقال لي رسول الله صلعم تزوجت يا حبا برنقلت نعم فقال بكرة ام ثيبا قلت بل ثيبا قال فهلا
جارية تلاعها وتلاعجك وتضاعها وتضاعحك قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بنات واني كرهت ان اجيدهن بعد ثلمهن
فترجعت امراة تقوم عليهن وتصلهن واس سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو چاہئے کہ خاوند کی مدد کرے، فقال بارتك الله واخذيل
ملا خفيف اختلاف لفظي سے دوہرایا ہے۔ قال اتى النبي صلعم رجل فقال هلك قال ولم قال وقعت على اهله في رمضان قال فاعتن بقتة
قال ليس عندى قال ففهم شهرين متتابعين قال لا استطيرح قال فاطم ح ستين مسكينا قال لا احد فاتي النبي صلعم بعرق فيه ثمر فقال
اين السائل قال هانا فاذا قال تصدق بهذا قال على احوج منا يا رسول الله فالذي بعثك بالحق ما بين لا بيتها اهل بيت احوج منا فضحك
النبي صلعم حتى بدت انيابها قال فانتم اذ اس سے معلوم ہوا کہ تنگ دستی کی حالت میں اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی سے عنوان
باب ہے۔ ۱۶ باب علی لو ارث مثل ذلك کی تفسیر میں ہے یعنی اگر بچہ دودھ پینے والا ہے تو اس کے دودھ پلانے کا خرچ وارث پر ہے ابن
عباس نے مثل ذلك سے مراد ایسا ہے کہ اسے ضرر نہ پہنچایا جائے کیونکہ اوپر یہ ذکر بھی ہے اس لئے علماء میں اس پر اختلاف ہے هل علی المرأة منه
شئ میں امام بخاری نے سوال کیا ہے کہ جب عورت بھی ورثہ میں داخل ہے تو کیا اس پر بھی رضاعت کا خرچ ہوگا اور یہ سوال استتمام انکاری کے
رنگ میں ہے کیونکہ اس کے بعد جو آیت قرآنی لائے ہیں اس میں عورت کو ایسے شخص سے مثال دی ہے جو کمانے پر قادر نہیں۔ مگر فی الحقیقت یہاں
یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہاں ذکر تو یہ ہے کہ عورت کو طلاق دیدی جائے تو طلاق دینے والا شوہر رضاعت کا خرچ ادا کرے اور اگر وہ وطنے
تو اس کا وارث پر خرچ ادا کرے۔ ملا ام سلمہ کے قول میں یہ لفظ زیادہ کہے ہیں۔ ولست بتا کرکتهم هكذا وهلكن ا۔ یہاں ام سلمہ کا اپنے خاوند
ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کرنے کا ذکر ہے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اس کے لئے اگر بچہ اپنی دیسے اس پر حق نہیں ہے۔ مگر الفاظ یوں ہیں: قالت هذين يا رسول الله ان ابا
سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان اخذ من هاله ما يكفي ذبي ذبي قال خذني بالمعروف اس میں عورت کے اپنے خاوند کے مال سے لیکر اس کی اولاد پر
خرچ کرنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی پرورش کا ذمہ دار باپ ہے نہ اس کی بیوی۔ ملا لفظ وہی ہیں۔ دیکھو نوٹ ۱۳۷ ص ۲۵ اس میں یہ ذکر ہے
کہ اگر کوئی مسلمان مفروض مر جائے تو اس کی قرص بیت المال سے دیکھئے لیکن اگر وہ مالدار تھا تو اس کے مال سے حکومت یا امام کو کوئی تعین نہ ہوگا۔ ملا عرب
کے لوگ لونڈی کا دودھ پلانا پسند نہ کرتے تھے۔ حدیث باب میں آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ آپ کو ثویبہ لونڈی نے دودھ پلایا تھا۔ ملا انہی
الفاظ میں حدیث کو دیکھا خواہن تک دوہرایا ہے۔ اور بعد کے حصہ کو مختصر آریوں ذکر کیا ہے۔ قال عروة ثيبة اعتقها ابونهب۔ یعنی
ثویبہ ابونهب کی لونڈی تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔

حَرْجٌ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۵-۲۸۱۳) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثَّعْمَانِ (مُتَكَرِّرٌ ۱۷۰)

اللہ کے قول لعلکم تعقلون تک راستہ (۶) اور دیکھو حدیث ۷۰۰

(۸) بَابُ الْخَبْزِ الْمُرْقِقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخَوَانِ وَالسَّفْرِ قِتَادَةَ

پاٹ پتی روٹی اور دسترخوان پر کھانا کھانا اور کھیلوں میں کھانے کے لئے قنادہ سے روایت ہے

قَالَ لَنَا عِنْدَ أُنَيْسٍ خَبْزَةٌ خَبَّازَةٌ فَقَالَ مَا أَكَلْتُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْزًا

کہا ہوا اس کے پاس تھے اور ان کے پاس ان کا روٹی پکانے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

مُرْقِقًا وَلَا شَاءَ كَسْمُوطَةَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ (۲۰۸۴) عَنْ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نہیں کھائی اور نہ چمکت کی ہوئی بکری بیان تک کہ اللہ سے جانے اس سے روایت ہے

قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سَكْرَةٍ قَطُّ وَلَا خَبْزَ لَهُ

کہ مجھے علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پشتری میں کھانا کھایا اور نہ آپ کیلئے پینا پیا

مُرْقِقٌ قَطُّ وَلَا أَكَلَ عَلَى خَوَانٍ قَبْلَ لِقَاؤِهِ فَعَلَا مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى

گی اور نہ کبھی دسترخوان پر کھانا کھایا قنادہ سے کما گیا کس چیز پر کھاتے تھے کما سفروں

السَّفْرِ (۲۸۱۴) عَنْ أُنَيْسٍ (مُتَكَرِّرٌ ۱۸۱) (۵-۲۸۱۵) عَنْ وَهْبِ بْنِ

پر ۵ دیکھو حدیث ۱۸۱

كَيْسَانَ (مُتَكَرِّرٌ ۳۶۶) (۵-۲۸۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۱۳) (۹)

دیکھو حدیث ۳۶۶ اور دیکھو حدیث ۲۱۳

بَابُ السُّورِقِ (۵-۲۸۱۷) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثَّعْمَانِ (مُتَكَرِّرٌ ۱۷۰) (۱۰) بَابُ مَا

باب سٹوکا ذکر دیکھو حدیث ۷۰۰

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى شَبِيَّ لَهُ فَبِعِمْ مَا هُوَ (۲۰۸۵) عَنْ ابْنِ

صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ کوئی چیز کھاتے نہ تھے بیان تک کہ اس کا نام لیا جاتا اور آپ جان لیتے کہ یہ کیسے ہوتا

عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفٌ اللَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ

روایت ہے کہ خالد بن ولید نے جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے مجھے خبر دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عنوان باب
سورہ نو کی آیت
۱۷۰ ہے جس میں یہ
ذکر ہے کہ انہوں نے
نگہ ڈالیں اور دوسرے
لوگ جاس اپنے
گھروں سے کھانا
کھائیں یا کسی چیز پر
رشتہ دار یا دوست
کے گھر سے وارث
اکٹھ مل کر کھائیں
یا ایک ایک اس
میں کوئی چیز نہیں
یا خفیہ سے
اختلاف لفظی سے
دوسرے جیسے قال
خرجنہم رسول
اللہ صلعم الخیر
فلما کنا بالصہباء
قال یحییٰ دہی
من خیر علی
روحہ وینا میں ہے
دہی اذنی خیر
روحہ غداہ کی
ضد سے رواح ہوا
کاشام کو گھرا نا ہے

اور عروہ ہے مقد اور روحہ د عار رسول اللہ صلعم بطعام نما اتی الا سورق فلکنانہ فاکننا منہ ثم دعا بئنا ففصل بنا المغرب
ولم یتوضا قال سفیان سمعته منہ عود اودا۔ ہاں سب کا کھانا انکھا ہو کر ایک ہی جگہ کھایا گیا تو گویا بی بی بل کھلت انکھا کھانے کی ایک صورت
ہے کہ سب اپنا اپنا کھانا اپنے گھر سے لے آئیں۔ مثل الخبز المرقق پتی روٹی جیسے پھلکا اور سفرہ اہل میں وہ کھانا ہے جو مسافر لائے لیتے ہیں
اور وہ عموماً چرٹے کے قبیلے میں ہوتا تھا جیسے آج کل ثفن باسکٹ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسی تیلی روٹی کھانا منع ہے۔ ہاں نبی صلعم کو یہ میسر
نہیں آئی۔ ۱۷۰ یعنی آسانش کے یرسا مان اس وقت میسر نہ تھے۔ ۱۷۱ ہاں اختصار ہے۔ ۱۷۲ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بصرفۃ من خودت
اللسلین الی ولیمتہ امر بالانطاع فسطت فالتی علیہا التمر والا قظ د السمن وقال عمرو عن انس بنی ہاشم صلعم ثم صنع حبساً فی
نطم اس میں انطاع یعنی کپڑوں کے بچھانے کا ذکر ہے جن پر کھانا ملا یا گیا۔ ۱۷۳ میں لفظا یوں ہیں۔ کان اهل الشام یغیرون ابن الزبیر یقولون یا
ابن ذات النطاقین فقال لہ اسماء یا یحییٰ انعم یغیرون ہاں بالانطاعین ہل تدری ما کان النطاقان انما کان نطاق شققہ نصفین فانکت
قربۃ رسول اللہ صلعم باحدہما وحملت فی سفرتہ اخر قال نکان اهل الشام اذا عروہ بالانطاعین یقولون انہا والا لہ تلك شکاة طنا ہا
عنک عارہا۔ اس میں ذکر ہے کہ نبی صلعم کے سفرہ کا موٹر ایک کمر بند کے ایک ٹکڑے سے باندھا گیا۔ بخاری لفظاً تلك شکاة طنا عارہک عارہک کے معنی ہے کہ
یہ وہ بری بات ہے جس کی عار تجھ سے آگے نہیں ہے یعنی ابن ذات النطاقین کہنے سے عار نہیں بلکہ فخر ہے شکاة شکاة شکوہ ہے اور طنا یعنی ارتعاب اور بری
اور کے تصدیق کا ایک معنی ہے۔ ۱۷۴ لفظ یوں ہیں۔ اهدت الی النبی صلعم معنأ واقطا واصنأ فذعابہن (یعنی گوہ) فاکن علی ما نہ تہ وترکھن النبی صلعم کالمہ تنقرا لہن
ولوکن حرا ما اکن علی ما نہ النبی صلعم ولا امر بالاکھن ہاں ما نہ تہ کا ذکر بتا ہے کہ کبھی اپنے دسترخوان پر بھی کھانا کھایا ہے۔ گشت میں کہتے ہیں ہاں ما نہ تہ

سے مراد بھی سفرہ ہے۔ بہر حال کھانا کسی چیز پر رکھ کر کھایا جاتا تھا۔ ۱۷۵ لفظ ۲۸۱۳ کے میں اس میں سٹوکا کھانے کا ذکر ہے۔ (باقی برصفحہ ۱۲۸۴)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا

کے ساتھ حضرت مہمونہ کے ہاں گیا اور وہ خالدہ اور ابن عباس کی خالہ تھیں اس نے وہاں

ضَبًّا فَخَنُوذًا أَقْدَمَتْ بِهِ أَسْتَحْأُ حَقِيدَةً بَلَّتْ الْحَارِثَ مِنْ بَعْدِ فَقَدِمَتْ الضَّبُّ لِرَسُولِ

بہتی ہوئی گوہ پائی جسے ابن عباس حقیہہ بنت حارث نجد سے لائی تھی انہوں نے گوہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلْبًا يَقْدِمُ يَدَهُ لَطْعَامٍ حَتَّى يَجِدُ ثَرِيهَ وَيَسْتَمِي لَهْ

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی اور آپ کھانے کی طرف کم ہاتھ بڑھاتے تھے یہاں تک کہ آپ سے اس کا ذکر کر دیا جاتا

فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ السُّوَدِ

اور اس کا نام لیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف اپنا ہاتھ جھکا یا تو حاضر عورتوں میں سے ایک عورت نے

أَحْضُرُ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ

کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو جو تم نے آپ کے سامنے کیا ہے یا رسول اللہ گوہ ہے

اللَّهُ فَرَفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ ابْنُ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گوہ سے ہٹایا تو خالد بن ولید نے کہا

الْوَلِيدِ أَحْرَامٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ يَأْرَضُ قَوْمِي وَأَجِدُ فِي

کہ یا رسول اللہ اگر گوہ حرام ہے تو یہاں تک کہ میری قوم کی زمین میں نہیں ہے تو یہ اپنی طبیعت

أَخَافُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَدْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ

میں بچے اس نے کراہت پاتا ہوں خالد نے کہا تو میں نے اسے زانیہ (مذہبی) سے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے

رَأَى بَابُكَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ ر ٢٠٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

بَابُكَ ایک کھانا دو کے لئے کافی ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَأَنْفِ الثَّلَاثَةِ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کھانا تین کے لئے کافی ہے

وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَأَنْفِ الْارْبَعَةِ ر ١٢٠٨٥ بَابُكَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٌ

اور تین کھانا چار کے لئے کافی ہے بَابُكَ مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے

ر ٢٠٨٦ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتِيَ بِمُسْكِينٍ بِأَكْلٍ

نافع سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا ہے یہاں تک کہ کوئی مسکین لایا جاتا جو ان کے ساتھ

مَعَهُ فَأَدْخَلَتْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لِمَ لَا تَدْخُلُ هَذَا

کھانا کھاتا ہوں ایک آدمی کو لایا کہ آپ کے ساتھ کھلنے تو اس نے بت کھایا تو ابن عباس نے کہا نافع سے دیکھا میرے پاس نہ لانا

عَلَيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمُؤْمِنٍ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدًا

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے

وَالْكَافِرِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ر ٢٠٨٨ عَنْ نَافِعٍ (مكرر) ر ٢٠٨٦

اور کافر سات انتڑیوں میں کھاتا ہے بَابُكَ دیکھو حدیث ٢٠٨٦

(بقیہ صفحہ ١٢٨٥)
کھانا کھانے پینے
اور دیر وغیرہ میں
یہ مہول نہایت
عمدہ ہے کہ آدمی
جس چیز کو پہچانتا
نہیں اسے کھائے
یہاں تک کہ معاہدہ
پر جائے کہ وہ کیا
چیز ہے
صفحہ ١٢٨٤
اس سے نکتہ
معلوم ہوا کہ اگر حرام
نہیں۔ لیکن اگر
طبیعت میں کسی
چیز سے کراہت
ہو تو اس سے
بچنے میں ہرج
کوئی نہیں
کھانا غرض یہ ہو کہ
اگر ایک آدمی کو کھانا
پکا ہوا ہے اور اس کا
یا نعمان آ گیا ہے تو
دیکھنے میں وہ کافی
ہو گا یعنی کچھ ہوسک
دیکھ کر اللہ جائز ہے
یا مطلب یہ ہے کہ
عام طور پر لوگ جس
قدر کھانا کھلتے ہیں
وہ زیادہ مقدار
میں کھاتے ہر گز
دو کیلئے بھی کافی
ہے
بہت ایک انتڑی کو
سات انتڑی کا لفظ
لیظہر استعارہ لولہ ہے یعنی مومن کھاتا ہے اور کافر بہت زیادہ کھاتا ہے کافر سے مراد شاید یہاں ماہکرا ہو کہ خدا کی نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ بہت کھا لے ضائع کرتا
ہے یا دنیا پرست انسان مراد ہے کہ اسے پیٹ بھرنے کے سوائے اور کچھ کام نہیں اور کھانا چلا جاتا ہے جب تک کہ اندر کچھ جائسے مسلمانوں کو کھایا ہے کہ اپنی عادت
کم کھانے کی رکھیں جس قدر کم کھایا جائے گا وہ ہضم اچھا ہوگا اور زیادہ اجزا خون صالح بنیں گے اور جو ہضم کی طاقت سے زیادہ کھایا جائے گا اس کے زیادہ ہوا
مختلف نہ ہوں گی عورت اختیار کے نقصان کا موجب ہوں گے۔ لہذا یہاں لفظ مؤمن ہیں۔ قال رسول اللہ صلعم ان المؤمن یا کل فی مَعِي وَاحِدًا دَانَ اَكْلًا

(م- ۲۸۱۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۰۸۶) (م- ۲۸۲۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا - ۲۰۸۷)	دیکھو حدیث ۲۰۸۶	دیکھو حدیث ۲۰۸۷
(۲۰۸۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَنَسِمَ وَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ السُّؤْمَانَ يَأْكُلُ فِي مَعْنَى أَحَدٍ	ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بہت کھاتا تھا	پھر وہ مسلمان ہو گیا اور مختصر اُکھا کھاتا تھا
وَأَنَّكَافِرًا يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ (۱۳) بَابُ الْأَكْلِ مُتَكَرِّرًا (م- ۲۸۲۱) عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ (مُتَكَرِّرًا)	تو اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا	تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے
(۲۰۸۸) عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لَا أَكْلَ وَأَنَا مُتَلَكِّي (۱۴) بَابُ الشَّوَاءِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَجَاءَ بِعِلْمٍ حَنِيدٍ	ابو حنیفہ سے روایت ہے	کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے ایک شخص سے
أَيُّ مَشْوِيٍّ (م- ۲۸۲۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۰۸۳) (۱۵) بَابُ	اور کافرات انتڑیوں میں کھاتا ہے	بائبل تکبیر لگا کر کھاتا
(م- ۲۸۲۳) الْخَزِيرَةِ قَالَ النَّضْرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ الْخَالَةِ وَالْخَزِيرَةُ مِنَ اللَّيْنِ (م- ۲۸۲۳)	خزیرہ ملا نر سے کما خزیرہ بھجان سے ہوتا ہے	اور خزیرہ دودھ سے
عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۹۸) (۱۶) بَابُ الْأَقْطُوقِ وَقَالَ سَمِعْتُ	دیکھو حدیث ۲۹۸	بائبل پیڑ کا ذکر اور حمید نے کہا میں نے اس
أَسَابِئِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصْفَةٍ فَالْتَمَسْتُ الشَّمْرَ وَالْأَقْطُوقَ وَالشَّمْنَ وَقَالَ	کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسند سے نکاح کیا تو کھجور اور پیسہ اور گھی ڈالا	اور عمرو
عَمْرُو بْنُ أَبِي حَمْرٍ وَعَنْ أَنَسٍ صَدَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا (م- ۲۸۲۴)	بن ابی عمرو نے اس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیس رکھ کر اور کھجور کا کرک بٹایا	
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۲۱۳) (۱۷) بَابُ السَّلْتَنِ وَالشُّعَيْرِ (م- ۲۸۲۵)	دیکھو حدیث ۱۲۱۳	بائبل چغندر اور
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكَرِّرًا - ۵۵۳) (۱۸) بَابُ النَّهْسِ وَأَنْتِشَالِ الدَّحْمِ	دیکھو حدیث ۵۵۳	بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۲۸۱۹
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۸۲۰
۲۸۲۱
۲۸۲۲
۲۸۲۳
۲۸۲۴
۲۸۲۵
۲۸۲۶
۲۸۲۷
۲۸۲۸
۲۸۲۹

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بہت کھاتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا اور مختصر اُکھا کھاتا تھا

ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے ایک شخص سے جو آپ کے پاس تھا فرمایا کہ میں تکبیر لگا کر کھاتا تھا

خزیرہ ملا نر سے کما خزیرہ بھجان سے ہوتا ہے اور خزیرہ دودھ سے

دیکھو حدیث ۲۹۸

بائبل پیڑ کا ذکر اور حمید نے کہا میں نے اس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیس رکھ کر اور کھجور کا کرک بٹایا

دیکھو حدیث ۱۲۱۳

بائبل چغندر اور

دیکھو حدیث ۵۵۳

بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۔ کما ابو ہریرہ سے روایت ہے

۲۔ کما میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے ایک شخص سے

۳۔ کما میں تکبیر لگا کر کھاتا تھا

۴۔ کما بن ابی عمرو نے اس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیس رکھ کر اور کھجور کا کرک بٹایا

۵۔ کما بائبل چغندر اور

۶۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۷۔ کما بائبل چغندر اور

۸۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۹۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۰۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۱۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۲۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۳۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۴۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۵۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۶۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۷۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

۱۸۔ کما بائبل گوشت کو دانتوں کو بچ کر کھانا اور ہانڈی سے نکال

یہ فقہاء خالد احرام ہو قال لا وکنہ لا یكون بارض قومی فاحدی فی اعانہ فاکل خالد ورسول اللہ صلعم ینظر قال مالک عن ابن شہاب یضبط مھنوزہ ملک نما میں ہے کہ خزیرہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی ڈال کر پکایا جائے جب تک کہ اس پر آنا چھوڑ دیا جائے اور بعض کے نزدیک آٹے سے حریرہ بنتا ہے اور بھجان سے خزیرہ اور عنوان باب میں ہے کہ حریرہ دودھ سے بنتا ہے یعنی گوشت کو اسی طرح پکا کر اس میں دودھ ملا یا جائے ملک انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ عنوان باب کا تعلق ان الفاظ سے ہے وحبسناک علی الخزیرہ صحتنا ہ

۱۔ کما یہاں لفظ یوں ہیں:- احدث خالدی الی النبی صلعم ضیا بادا اقطا ولبسنا موضع الضیب علی ما مدتہ فلکان حراما لم یوضع وشرب اللین واکل الاقط + ۲۔ کما مکرر روایت کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل سے آئی ہے۔ قال ان لنا نغفر بیوم الجمعة کانت لنا مجوز تاخذ اصول السلق فنعمله فی قدر لها فنجعل فیہ حیات من شعیر اذ اصلینا ذوناها ففریتہ الینا وکنا نغفر بیوم الجمعة من اجل ذلک وما کنا نتخذی ذلک نقیل الی بعد الجمرة والله عافیہ شحم ولا وک

(۲۸۲۶-۲۸۲۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۱۶۸) (۱۹) بَابُ تَعْرِقِ الْعَصَلِ (۲۸۲۷)

دیکھو حدیث ۱۶۸۱ بابت بازو کا گوشت اتورنے سے نوح کرکھانا

(۲۸۲۸-۲۸۲۹) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متکرم- ۹۲۸) (۲۰) بَابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ

دیکھو حدیث ۹۲۸ بابت چھری سے گوشت کاٹ کرکھانا

(۲۸۲۸-۲۸۲۹) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَمِيْنَةَ (متکرم- ۱۶۹) (۲۱) بَابُ مَا آجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۶۹ بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی

(۲۸۲۹-۲۸۳۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۶۰۳) (۲۲) بَابُ التَّغْرِيفِ

دیکھو حدیث ۱۶۰۳ بابت جو ہر ایک کو رعایت

(۲۸۳۰-۲۸۳۱) عَنْ أَبِي حَارِثٍ (متکرم- ۲۰۹۰) (۲۳) بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ

دیکھو حدیث ۲۰۹۰ بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِأَكْلُونِ (۲۰۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ

اور آپ کے صحابہ کی خوشکامی اور پورے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ

نے کھویریں تقسیم کیں اور ہر ایک شخص کو سات کھجوریں دیں

فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمْرَاتٍ أَحَدًا هُنَّ حَشْفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَحَبُّ

اور مجھ کو بھی سات کھجوریں دیں ایک ان میں دوئی تھی ان کھجوروں میں کوئی کھجور میرے نزدیک اس سے زیادہ

رَأَى مِنْهَا شِدَّتَ فِي مَضَاغِي (م- ۲۸۳۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم- ۱۶۶۲)

پسندیدہ نہیں تھی کیونکہ وہ چبانے میں سخت تھی دیکھو حدیث ۱۶۶۲

کلمہ بیان لفظ یہ ہے
ہیں تعرق رسول
اللہ صلعم کتفاہم
قام فصلاً ولم
یتوضأ روفی روفی
قال ان تشل النبی
صلعم عرفان قد
فانک ثم صلعم ولم
یتوضأ تعرق کے
معنی ہیں گوشت
کا پٹری سے نوح
کرکھانا۔ اسی سے
عنوان باب ہے
انتقال جمع ذکر
عنوان باب اور
دوسری روایت
ہے۔ اس کے معنی
ہیں ہانڈی سے
گوشت کا کینے
سے پیشتر کا لینا
مختلف الفاظ

اور کبھی کبھی پیش سے روایت آئی ہے۔ قال خرجنا مع النبي صلعم نحو مكة (روفي رواية) انه قال كنت يوما جالساً مع رجال من اصحاب النبي صلعم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلعم نازل امامنا والقوم هميون... وانا غدوهم فاصم واحمار وحشوا وانا مشغول اخصيف، تعط فلم يذوفني له واحبوا لوانى ابصوته فالتفت فابصوته ففتت الى الفرس فاصوته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهما ولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشئ ففضت فنزلت فاخذت هاتين ثم ركبت فشدت على الحمار ففقرته ثم جئت به وقد مات فوقوا فيه ياكلونه ثم اهتم بنكوا في اكلهم اياه وهم حرم فخرجنا وخبأت (العضده) فادركنا رسول الله صلعم فلما سئنا عن ذلك فقال مكرهه شئ فتأدنا العضة فاكلها حتى تعرقها راسي من عنوان باب ہے، وهو محرم + صلعم قریباً وہی الفاظ ہیں۔ نبی صلعم کے چھری سے گوشت کاٹ کر کھانے کا ذکر ہے۔ یہ کلمہ وہی لفظ ہے۔ یہ بیان اختصار ہے۔ اند سال سہلاہل رابیعہ فی زمان النبے صلعم التقریچے ہوئے آئے کی روٹی، قال لا فقلت کتہم تغولن الشعیب قال لا ولكن کتہم تغولن، ملاحظہ مختلف احادیث سے جو اس عنوان کے تحت لائے ہیں اور نیز جو احادیث گذر چکی ہیں ان سے معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلعم اور آپ کے صحابہ کی خوراک نہایت سادہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جسمانی طاقت اور ذمائی اور ذہنی قولے اعلیٰ درجہ کے تھے۔ آج مسلمانوں نے کھانے میں اس قدر تکلف پیدا کیا کہ کھانا کھانے اور صرف ان کے قولے جسمانی پر پڑا ہے بلکہ اس کی وجہ سے ان کے قولے ذہن بھی بیکار ہو گئے ہیں اور اور متوسط الحال دونوں اس مرض میں مبتلا ہیں۔ مگر کھانے کھانوں اور گوشت کے سولے ان کا گزارہ نہیں ہوتا اور کھانے پر اس قدر خرچ ہو جاتا ہے کہ دوسری ضروریات کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ان کے مولوی اور واعظ بھی جب باہر جاتے ہیں تو تکلف کھانوں پر زیادہ زور ہوتا ہے اور مرغ کی شرط نہیں تو فرانس پیسے سے ہوتی ہے قوم کی اصلاح کے لئے یہ ضروری ہے کہ کھانے میں سادگی اختیار کی جائے یا یہ صحیح ہے کہ کھانا کافی طاقتور ہونا چاہئے۔ مگر مصالِح اور دروغ کھانے مال و وصحت دونوں کو بر باد کرنے والے ہیں۔ یہ ایک اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور پر صحابہ کی بیشتر گذران تھی کسی موقع پر اور غلبہ کی وجہ سے جنگ کا موقع پر صرف سات کھجوریں ایک ایک شخص کے حصے میں آئیں۔ اور ان میں سے ایک شخص کو دوئی کھجور اس لئے بھی معلوم ہوتی کہ اس کی سختی کی وجہ سے وہ لیسے و رنگ بجاتا رہا۔ یہ بیان اختصار ہے اور لفظ بھی ادب میں قال دایتینہ سابع سبعة مع النبے صلعم ما لانا طعام الا درق الخبثۃ اذ الخبثۃ حتی یضع احدنا ما تضعم الشاة یعنی نضال بکری کی مینگوں کی طرح خشک ہوتا تھا، تم (سب) بنوا سن تعزونی علی الاسلام خصوت اذ وصل سعیدی، حضرت سعد اپنے اسلام لانے والوں میں سے تھے اور اس وقت ان سمیت کلی سات آدمی اسلام لائے تھے اس وقت معیشت کی بھی تنگی تھی یا یہ تنگی بعد کے زمانہ کی ہے۔ مثلاً بعض وقت تمہات پر جاتے تو بیوں پر گزارہ کرتے۔ ایام محاصرہ خندق میں بھی سخت تنگی کھانے کی تھی۔

۴ اور دوسرے بھی عام طور پر شروع سے کر آخیر تک مسلمانوں میں فراموشی نہ آتی تھی۔ جیلہ کیکہ یا جھاڑیوں کی پھل ہے اور انور کی جڑ یا شاخوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

۲۰۹۰ عن ابي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله

صلى الله عليه وسلم ما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم

من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال قلت هل كانت لكَ في عهد رسول

الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلًا

من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير

منخل قال كنا نطحنه وننفضه فيطير ما طار وما بقى ثرىناه فأكلناه

۲۰۹۱ عن ابي هريرة رضى الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة

مصلية فدعوه فابى ان يأكل قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من

الذي نياؤكم يشبع من الخبز الشعير رم ۲۰۹۲ عن انس بن مالك (متكررا

۲۰۸۷) (۲۰۹۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت ما شبع آل محمد

صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البرنثان ليل تباعا

حتى قبض (۲۷) باب التلبينة ۲۰۹۳ عن عائشة زوج

النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها

فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخصصها اقرت

كلن منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للتلبينة حجة

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

نفس من اكلها يكثر له من رسول الله صلى الله عليه وسلم

جہانی حقیقت اس قسم کھا کر زیادہ زور و مقصد اور زیادہ مقوی بھی ہوتا ہے چھان نکلے ہوئے آٹے کی روٹی میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو چھان والے میں ہوتی ہے اور کج تو یہ امر مسلم ہے کہ پھلکے میں سب سے زیادہ قوت غذا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بیخ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کھا کر آپ کو سیر ہو کر نہ ملی۔ یہ وہی لفظ ہیں جس کا تلبینہ ایک کھانا ہے جو آٹے یا چھان سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں شہد ملایا جاتا ہے۔ سفوی کی وجہ سے دوپہ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کیت ہو جانے پر شہدہ واریوں کا انایا دوسرے لوگوں کا جن سے تعلق ہو جمع ہونا منع نہیں۔ البتہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی لوگ رخصت ہو جاتے اور کھانا صرف گھر والوں کو یا خاص غرض تعلق والوں کو جو کچھ ٹھہر گئے ہوں کھلایا جاتا ہے۔

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

لِقَوْلِ ابْنِ مَرْزُوقٍ تَذْهَبُ بَعْضُ حُرُونِ (۲۵) بَابُ الثَّرِيدِ (م۔ ۲۸۳۳) عَنْ
 راحت دینا ہے اور کچھ گرم گوشت اور کرتا ہے
 باہیل ۲۷۱
 ابْنِ مَرْزُوقٍ كَالشَّعْرِيَّيْنِ (متكرر۔ ۱۵۳۲) م۔ ۲۸۳۲) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (م۔ ۲۸۳۱) عَنْ
 دیکھو حدیث ۱۵۳۲
 دیکھو حدیث ۱۵۳۱
 م۔ ۲۸۳۵) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متكرر۔ ۱۰۲۲) بَابُ شَاةٍ مُسْمُوتَةٌ وَالكَيْفِ
 دیکھو حدیث ۱۰۲۲
 باہیل کمال سمیت یعنی بونی بگری اور شاہ
 م۔ ۲۸۳۶) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متكرر۔ ۲۰۸۳) م۔ ۲۸۳۶) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ
 اور پید
 دیکھو حدیث ۲۰۸۳
 ابْنِ اُمَيْةٍ (متكرر۔ ۱۶۹) بَابُ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدْخِرُونَ فِي بَيْوتِهِمْ وَ
 دیکھو حدیث ۱۶۹
 جو بیلے لوگ اپنے گھروں اور سفروں میں
 اسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَاسْمَاءُ صُنَعْنَا لِلنَّبِيِّ
 کھانے اور گوشت وغیرہ کا ذخیرہ کرتے اور حضرت عائشہ اور اسماء نے فرمایا کہ ہم نے نبی
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سَفَرَةٌ (م۔ ۲۰۹۲) عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ لِمَا لَنَا
 علی اشعلیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لئے سفر تیار کیا
 عایشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ
 أَتَيْتُنِي بِشَيْءٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَكَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَلَاثِ نَوَاحِلَ
 سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھایا جائے
 کہ عمرت
 مَا دَخَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاءَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنُفُ الثَّقِيلُونَ لَمَّا
 اس سال روکا تھا جس سال رخصت پرہ اور لوگ جو کہتے تھے تو آپ نے جا کر غنی فقیر کو کھلائے
 اور ہم بکری کا
 لَزَرَ فَمَعُ الْكُرَاعِ فَمَا كَلِمَةً بَعْدَ ثَمَسٍ عَشْرَةَ قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتَ قَالَتْ مَا
 پایہ اٹھا رکھتے تو اسے پندرہ دن بعد کھاتے کیا گیا کہ کس بات نے آپ کو اس پر مجبور کیا تھا تو آپ ہنس پڑیں
 شَبَعُ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِزْبِ بَرْمَادٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يَأْتِيَ بِاللهِ
 کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کیوں کی روٹی سے جو خوب بھوک لگانے میں تین دن کا ناما سیر نہیں ہوتے بیان تک کہ اللہ سے چلے
 م۔ ۲۸۳۸) عَنْ جَابِرٍ (متكرر۔ ۸۹۹) بَابُ الْحَبِيسِ (م۔ ۲۸۳۹) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ
 دیکھو حدیث ۸۹۹
 باہیل حبس ہے
 ابْنِ مَرْزُوقٍ (متكرر۔ ۲۶۴) بَابُ الْاَكْثَلِ فِي اِنَاءٍ مُفَضِّضٍ (م۔ ۲۰۹۵) عَنْ
 دیکھو حدیث ۲۶۴
 چاندی کے جڑ اور برتن میں کھانا کھانا
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ كَانُوا إِعْنَادُ خَدَائِفَةَ فَاسْتَسْقَوْا مِنْ جُورَسِيِّ
 عبد الرحمن بن ابی لیلی سے روایت ہے کہ وہ خدیفہ کے پاس تھے تو انہوں نے پانی مانگا تو ایک جوبی نے انکو پانی دیا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْ كَأَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ

گاہے کہنے پہ لہان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے وہ اسی کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ اگر ایک یا دو سے زیادہ مرتبہ میں نے اس کو نہ روکا ہوتا

كَأَنَّهُ يَقُولُ لِمَ أَفْعَلُ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

گو یا کہ مذکورہ کہتے ہیں کہ میری اس بات کو تا مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تا فرماتے تھے

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَابِجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْبَيْتِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

کو ریشمی کپڑا اور دیباچہ نہ پہنو اور سونے اور چاندی کے برتن میں پانی نہ پیو اور نان

تَأْكُلُوهُ فِي صَحَائِفِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَنَتَائِفِهَا خِرَافَةٌ (۳۰) بَابُ ذِكْرِ الطَّعَامِ

روسنے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کیونکہ یہ دنیا میں ان کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے ہیں۔ بابت کھانے کا ذکر

(۲۸۲۰) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (مُتَكَوِّرًا ۱۹۹۹) (۲۸۲۱) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۷۵)

دیکھو حدیث ۱۹۹۹ م دیکھو حدیث ۱۷۷۵ م

(۲۸۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۹۲۴) (۳۱) بَابُ الْأَدْمِ (۲۸۲۳)

دیکھو حدیث ۹۲۴ م بابت سانس

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (مُتَكَوِّرًا ۳۱۹) (۳۲) بَابُ الْحَوَاءِ وَالْعَسَلِ

دیکھو حدیث ۳۱۹ م بابت عسل اور خرد

(۲۸۲۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا ۲۰۵۱) (۲۸۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۲۰۵۱ م

(مُتَكَوِّرًا ۱۶۵۲) (۳۳) بَابُ اللَّبَاءِ (۲۸۲۶) عَنْ أَنَسٍ (مُتَكَوِّرًا ۱۰۴۲)

دیکھو حدیث ۱۶۵۲ م بابت کدو

بَلْتُ حَيْثُ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ مَجْزُوعًا بِرَأَاهُ جَبَاهُ أَوْ يَكْسَاءُ ثُمَّ يَرُدُّهَا وَرَأَاهُ حَيْثُ إِذَا كُنَّا نَالُ الصُّهْبَاءَ صَنَعْتُ حَيْسًا فِي رَضْعٍ ثُمَّ أُرْسِلُنِي فَنُحَوِّثُ

رجالا فاكولوا وكان ذلك بناءً وبها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا أجل مجننا ونجبة فلما أشرف على الدنيا قلة قال اللهم اني احترم ما

بارت جلیہا مثل ما حرم بہ ابراہیم مکة اللہم باریک لہم فی مدہم وصابعہم رصفی ہول) بلا غرض یہ بھی کہ مسلمان تعیبات میں نہ پڑیں کیونکہ

جو قوم تعیش میں پڑ جاتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ بجائے غزب کی خبر گیری کے روپیہ امر کے تعیبات پر صرف ہوتا ہے اس لئے قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔

مکرر روایت کے لفظ قرینا وی ہیں مگر ابتدا میں مثل الذی یقرا القرآن کی جگہ ہے مثل المؤمن الذی یقرا القرآن اور دوسرے حدیث میں مثل العاجز کی

جگہ مثل المنافق ہے۔ اس روایت میں یوموں اور دنوں کی مثال اچھے اور برے کھانوں سے دی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اچھا کھانا وہ ہے جس کا ذائقہ اور خوشبو

دونوں اچھے ہیں کیونکہ اس سے اس یوموں کی مثال دی ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ عسل یہ روایت انس کی ہے اور ۱۷۷۵ اور ۲۸۲۲ کے الفاظ میں جو

دونوں انس کی حدیثیں ہیں یہ ۱۷۷۵ اور ۲۸۲۲ کی حدیث کا پچھو حصہ ہے۔ لفظ قرینا وی ہیں۔ سفر کو عذاب کہا ہے کہ اس میں نہ کھانے پینے کو اچھا ملتا ہے۔ عنوان

بابک میں تعلق ہے نہ اچھی نیند میسر آتی ہے یہاں دشواریہ کا لفظ نہیں ہے۔ عسل عسل میں صرف برید کے دلاؤ کا ذکر ہے۔ م۔ ۲۸۲۶ میں یہی تین باتیں کو

ہیں جو اس مکرر روایت میں ہیں۔ مگر وہاں یہ تینوں باتیں حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا میرا قاسم بن محمد کی طرف منسوب

ہیں جو ۲۸۲۶ میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں اور یہاں ۲۸۲۶ کی نسبت کچھ تفصیل بھی زیادہ ہے۔ لفظ یوموں ہیں۔ کان فی برویة ثلاث

سنن اذادت عائشة ان تشتريها فتعطيها فقال اهلها ولنا الولاء۔ فن كرت ذلك لرسول الله صلعم فقال ولشئت شر بطريقه لهم فامنا اولوا

لبن اعنن قال واعتقت فخرت في ان تقرحت زوجها او تفارقه ودخل رسول الله صلعم يوم ابنت عائشة وعلل النار بيرة تقود فادعنا باعد

فاتي بخذرا وادم من ادم البيت (عنوان باب کا تعلق اسی حدیث سے ہے) فقال الم ارحمنا قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به علي بيرة فاهدته

لنا فقال هو صدقة عليها وهدية لنا م۔ ۲۸۲۳ کے لفظ کی مکرر روایت ہے اور یہ مکرر ہے جو یہاں ۲۸۲۴ پر آیا ہے م۔ ۲۸۲۳ کا ابتدائی فقرہ

ہے۔ کان رسول اللہ صلعم يجب الحلو والصل۔ م۔ ۲۸۲۳ کے صرف شروع کا فقرہ چھوڑ دیا ہے ان الناس کا فایقولون انشأ ابو هريرة۔ باقی قرینا وی الفاظ

میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ یہاں اختصار ہے ان رسول اللہ صلعم فی حوائی لہ خیا کھانا فی بداء فعمل یا کله فلم ازل احبه منذ رأيت رسول الله صلعم یا کله

باقی بصفیة

بقیہ صفحہ ۱۲۸۸

یہاں روایت یوں

ہے۔ قال رسول

اللہ صلعم لا یب

طلحة التمس غلاما

من غلاما تکلم یخبر

خبر جری بوطیلة

یردفنی ورامہ

فكنت استخدم

رسول اللہ صلعم

کلما نزل فکنت

اسمعہ بکثران

یقول اللهم انی

اعوذ بک من الیوم

والحزن والینس

والکسل والینس

والجبن وضلمة

الدين وغلبة

الرجال فلم ازل

اخذ منه حتى

اقلنا من خیر

واقبل بصفیة

<p>(۳۴۷) بَابُ الرَّجُلِ يَكْفُفُ الطَّعَامَ لِخَوَانِهِ ر- ۲۸۴۷</p>	<p>باب ۳۴۷ وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لئے تکلف کا کھانا تیار کروائے</p>
<p>الْأَصَابِرُ (متكرر) ۱۰۳۸ (۳۵) بَابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ</p>	<p>باب ۳۵۸ (متكرر) وہ شخص جو کسی کو کھانے کے لئے بلائے اور غرواپنے</p>
<p>هُوَ عَلَى عَمَلِهِ ر- ۲۸۴۸ (۳۶) بَابُ الْمَرْقِ</p>	<p>باب ۳۵۹ (متكرر) وہ کھانا جس میں گلاب ہو</p>
<p>ر- ۲۸۴۹ (۳۷) بَابُ الْقُرْدِ</p>	<p>باب ۳۶۰ (متكرر) وہ کھانا جس میں مالک (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۰ (۳۸) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۱ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۱ (۳۹) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۲ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۲ (۴۰) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۳ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۳ (۴۱) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۴ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۴ (۴۲) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۵ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۵ (۴۳) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۶ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۶ (۴۴) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۷ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۷ (۴۵) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۸ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۸ (۴۶) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۶۹ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>
<p>ر- ۲۸۵۹ (۴۷) بَابُ الْمَاءِ</p>	<p>باب ۳۷۰ (متكرر) وہ کھانا جس میں عارثہ (متكرر) ہو</p>

ما تقریباً فی الفاظ
 میں حدیث کو توڑ کر
 ہے۔ فانی عوفت
 فی وجہ الجوع
 یہاں نہیں اس میں
 ذکر ہے کہ پشیمب
 نے خاص طور پر
 یعنی تکلف سے
 کھانا نبی صلعم کے
 لئے تیار کیا تھا۔
 بلا یعنی اس طرح
 پر بھی دعوت کرنے
 میں کوئی بیخ نہیں
 کہ دعوت کرنے
 والا خود ساتھ نہ
 بیٹھے بلکہ اپنے کام
 میں لگا ہے۔
 اس میں کہ روایت
 کے لفظ اور اس
 کا مضمون ۲۸۳۵
 سے ملتے ہیں اس
 میں ذکر ہے کہ آپ
 کا آزاد کردہ غلام
 جس نے آپ کو
 کھانے پر بلایا تھا
 اور کھانا نبی صلعم
 کے سامنے رکھ کر
 خود اپنے کام میں
 جو درزی کا کام تھا
 لگا رہا۔
 لفظ تقریباً

۲۸۴۷ کے ہی ہیں۔ یہاں اختصار ہے۔ روایت ابنہ صلعم اتی بموقد رشوباً فیہا دباؤ وقد یدر لمکین کیا ہوا خشک گوشت) فرایتہ یتبعہ الدباؤ کا کھانا
 میں لفظ یوں ہیں قالت ما دخلہ الا فی عام حاتم الناس اذ اذ ان یطعم الغنی الفقیر وان کتالہم لضع الکراء بعد خمس عشرۃ وما شیعہ ال محمد صلعم
 صلعم من خیر یز ما دم ثلاثاً اس میں ذکر ہے کہ قربانی کے جانور کے پائے بدرہ دن بعد کھاتے تھے تو اتنے دنوں تک بغیر نمکین کئے ہوئے اور خشک
 کئے ہوئے گوشت نہیں رہ سکتا۔ اس حصہ عنوان باب کے متعلق کوئی حدیث میں نہیں لائے اور یہ ایک شخص کا خیال ہے۔ ۲۸۴۷ کے الفاظ میں
 حدیث کو جو مرایا ہے اور زہر پڑھایا ہے وہی روایۃ جعلت اسمع الدباؤ بین ید یہ عنوان باب کے متعلق ہے۔ ۲۸۴۷ کی اور کہ روایتوں میں بھی ایسے
 لفظ آئے ہیں۔ ۲۸۴۷ کے مضمون میں ہے آخر میں ۲۸۴۷ کو اختصار کے ساتھ دوہرایا ہے۔ قال تصیفقت باہریرۃ سبعا رسات رات یا سات
 دن رات، مکان ہو و امراتہ و خادمہ ینتقمون رباری باری رات کو اٹھتے تھے اللیل اثلاً ثاراً ایک ایک تماتی رات، یصلہ ہذا اثم یوقظ ہذا و معہ
 یقول قسم رسول اللہ صلعم بین اصحابہ تمرا فاصابنی سبع تمرات احد اھن حشفۃ ۲۸۴۷ میں اختصار ہے۔ قسم انبے صلعم بیننا ثمرا فاصابنی منہ

تمس اریہ تمرات وحشفۃ ثم روایت الحشفۃ ہی اشدھن لظہوسی +

۱۰ یعنی بڑی
۱۱ دعوتوں میں بہت
۱۲ کے لئے چھوڑے
۱۳ چھوڑے آدمی
۱۴ کر کے کھانا کھلا دیا
۱۵ جائے تو ہرج نہیں
۱۶ ہٹا ہوا حدیث
۱۷ کو قدر سے اختصار
۱۸ سے بیان کیا ہے
۱۹ ان ام سلمہ
۲۰ عمدت الی حدیث
۲۱ من شعر و حدیثہ
۲۲ را سے کچلا
۲۳ جعلت منہ
۲۴ خطیفہ رویا
۲۵ موٹا آٹا پکا کر اس
۲۶ پر دو دو ڈھال کر
۲۷ یا دو دو ہیں آٹا
۲۸ ملا کر اسے پکا کر
۲۹ چمچ سے کھاتے
۳۰ ہیں اسے خطیفہ

عَشْرَةَ عَشْرَةَ وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشْرَةَ عَشْرَةَ (م- ۲۸۶۰) عَنْ ابْنِ أَبِي رَمَثَةَ
 دس دس کر کے لائے اور دس دس کھانے پر بیٹھنا
 (۱۶۰۵) (۲۹) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّوْمِ وَالْبَقُولِ فِيهِ عَنْ ابْنِ حُمُرٍ عَنِ النَّبِيِّ
 ۱۶۰۵ باب سے توم اور ترکاریاں جو ناپسند کی گئی ہیں
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۸۶۱) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (م- ۵۱۳) (م- ۲۸۶۲) عَنْ
 روایت کرتے ہیں
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۵۱۳) (۵۰) بَابُ الْكِبَابِ وَهُوَ شَرُّ الْأَكْرَادِ (م- ۲۸۶۳)
 دیکھو حدیث ۵۱۳ باب کباب کا ذکر اور وہ بیہوش کا پھل ہے
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۵۱۳) (۱۵۳۲) (۵۱) بَابُ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ (م- ۲۸۶۴)
 دیکھو حدیث ۱۵۳۲ باب کھانے کے بعد دھو کر لینا
 عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثُّعَيْنِ (م- ۱۶۰) (۵۲) بَابُ لَعْنِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ
 دیکھو حدیث ۱۶۰ باب لعن انگلیوں کا چھنا اور ان کا چومنا اس سے
 أَنْ تُسَمِّيَ بِالْمُنْدِيلِ (م- ۲۰۹۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 پینہ کر رومال سے پونجھی جائیں ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسُرْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا (۵۳) بَابُ
 کہ جب تم کھاؤ تو اپنے ہاتھ کو نہ پونجھو یہاں تک کہ اسے چاٹ لے یا چمک لے
 الْمُنْدِيلِ (م- ۲۰۹۹) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 سعید بن حارث جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

کہا جاتا ہے۔ جو خطف سے ہے جس کے معنی ایک لے جانا ہیں۔ کیونکہ جلدی جلدی کھاتے ہیں، وعصوت علة عندنا ثم بعثتني الى النبي صلعم فأتيت به وهو في اصحابه ذنوعوته قال ومن معي فجنت تغفلت انه يقول ومن معي فخرج اليه ابو طلحة قال يا رسول الله انما هوشى صنغته ام سليم فدخل فبقي به و قال ادخل على عشرة فدخلوا فاكلوا حتى شبعوا ثم قال ادخل على عشرة حتى عدا اربعين ثم اكل النبي صلعم ثم قام فجعلت انظر حولي نقص منها شئ، ناپسندیدگی یا کراہت کی وجہ مرث ہو ہے جو ان کے کھانے سے مزہ سے آتی ہے، ۱۶۰۸ ابن عمر کی روایت م ۲۹۸ پر گذر چکی ہے۔ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوة خیبر من اکل من هذه الشجرة یعنی التوم فلا یقر بن مسجدنا + ۱۶۰۹ عبد العزیز کی روایت م ۲۹۹ پر ہے یہاں لفظ یوں ہیں، قال قبیل لانس ما سمعت النبي صلعم فی التوم فقال من اکل فلا یقر بن مسجدنا م ۲۹۹ میں بجائے فلا یقر بن مسجدنا کے یوں ہے۔ فلا یقر بنا ولا یصلین معنا۔ گو یا مجلس میں آنے سے بھی روکا کیونکہ جس طرح نمازیں دوسروں کو بوسے ایذا پہنچتی ہے اسی طرح مجلس میں بھی پہنچتی ہے۔ اسی لئے مصلیٰ میں ہے ویلقد فی بیتہ اپنے گھر میں بٹھا رہے، ۱۶۱۰ مصلیٰ کو فلیجعتل مسجدنا تک دوہرا ہوا ہے۔ بقول کا ذکر مصلیٰ کے پچھلے حصہ میں ہے۔ جسے یہاں دوسرا یا نہیں گیا۔ اس میں ہے کہ نبی صلعم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں سبز ترکاریاں رکھی ہوئی تھیں تو آپ کو اس سے بو آئی تو خود نہیں کھائیں لیکن اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہ انہیں حرام نہ سمجھ لیا جائے دوسرے کو کھانے کے لئے کہا، ۱۶۱۱ ترمذی انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرا ہوا ہے ۱۶۱۲ پہلی روایت میں مصلیٰ کو اختصار سے بیان کیا ہے دوسری روایت میں م ۲۸۱ کے مضمون کو تقریباً انہی الفاظ میں دوہرا ہوا ہے۔ لفظ یوں ہیں قال خرجنا مع رسول الله صلعم الى خيبر فلما كنا بالصهبا دعا بطعام فمأاتي الا بسويق فلكناه (رواية) خرجنا مع رسول الله صلعم الى خيبر فلما كنا بالصهبا دعا بطعام فمأاتي الا بسويق فلكناه فلما كنا بالصهبا دعا باماء فمضمض ومضمضنا مع النبي صلعم فلما بنا المغرب ولم يتوضأ وقال سقياں كانك تسمع من يحيى، ۱۶۱۳ مصلیٰ کو فلیجعتل او یلْعَقَهَا کا مطلب ایک ہی ہے، چٹا لینے سے بھی مراد اپنے آپ کو چٹا دینا ہی ہے۔ آؤ شک کیلئے ہے کہ کونسا لفظ فرمایا۔ ہر امر میں آپ صفائی کی تاکید فرماتے تھے جس رت میں کھانا کھایا جائے اس کو بھی صاف کیا جائے یعنی اس میں کھانا دھو دھو لگا ہوا نہ چھوڑا جائے ایسا ہی جب ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو ہاتھ

کھانا لگا ہوا نہ چھوڑے۔ اور چمچ سے کھاتا ہے تو چمچ سے لگا ہوا نہ چھوڑے۔ ایسے امور میں اصل غرض صفائی ہے جس طرح بھی حاصل ہو سکے +

آتَهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَا قَدْرَ كَثْرَتِ زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ان سے ہنگ سے کسی ہونی چیز سے وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا اخْتَنُ وَجَدْنَا نَاهُ لَمْ يَكُنْ

میں ایسا کھانا کہ می پاتے تھے جب ہم کو وہ مل جاتا تو ہم اسے پاس رکھتے

لَنَا مَتَادِيلٌ إِلَّا الْكَفْنَا وَسِوَا عِدْنَا وَاقْدَامَنَا شَمَّ نَصْلًا وَلَا نَتَوَضَّأُ (۵۴) بَابُ

نہ ہوتے تھے مگر اپنی تسبیحوں اور بازو اور قدموں پر سے ہی کام لیتے تھے بلا ہیرم نماز پڑھتے اور وضو کرتے باقی

مَا يَقُولُ إِذَا افْرَغَ مِنْ طَعَامِهِ (م- ۲۸۶۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۱۰۰)

جب کھانے سے فارغ ہو تو کہے دیکھو حدیث ۲۱۰۰

(۲۱۰۰) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے

وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَا بُدِنَتْهُ قَالَ حَمْدُ اللَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَارَوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا

اور کبھی کہا جب اپنا دسترخوان اٹھاتیے تو کہتے الحمد للہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں کافی دیا اور ہمیں سیراب کیا اور نفل اور انعام

مَكْفُورٌ وَقَالَ مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَوْدِعٌ وَلَا مُسْتَعْنَى رَبَّنَا

رو نہیں کیا جاتا اور جس کی ماکھری نہیں کی جاتی اور کبھی کہا تعریف اللہ ربنا سے کہی جو تم کو انعام نہیں کیا جاتا اور نہ وہ ایسا کہ اس کی طلب کو چھوڑ جائے

(۵۵) بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْحَادِمِ (م- ۲۸۶۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۰۶)

باب کھانے کے ساتھ کھانا دیکھو حدیث ۱۲۰۶

(۵۶) بَابُ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِثْلَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

باب کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ دار صابر کی طرح ہے اس بارہ میں ابو ہریرہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۵۷) بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِيَ

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں باب کوفی شخص کھانا کھانے کیلئے بلا یا جائے تو وہ کہے یہ بھی میرے ساتھ ہے

وَقَالَ أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يَتِمُّمْ فُكْلَ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبَ مِنْ شَرِبِهِ

اور اس نے کہا جب تو ایک مسلمان کے پاس جاؤ جس پر کوئی نعمت نہیں لگنی گئی جانی تو اس کے کھانے سے کھانا کھا لو اور اس کے پینے کی پانی

(م- ۲۸۶۷) عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ لَنَا نَصَارِيٍّ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۰۳۸) بَابُ إِذَا

دیکھو حدیث ۱۰۳۸ باب جب

حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَكْبُلُ عَنْ عَشَائِهِ (م- ۲۸۶۸) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيْمَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۶۹)

شام کا کھانا سنا سننے آجائے تو اپنے شام کے کھانے سے جلدی نہ کرے دیکھو حدیث ۱۶۹

(م- ۲۸۶۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۰۴۲) (م- ۲۸۷۰) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۳۳)

دیکھو حدیث ۲۰۴۲ دیکھو حدیث ۲۳۳

ملکہ اس زمانہ میں اور بالخصوص مسلمانوں میں کہڑوں کی اس قدر تنگی تھی کہ کبھی ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ہی کپڑا ہوتا جس سے ایک شخص اپنا سارا جسم ڈھانکتا دیکھو حدیث ۲۳۳ بیان تک کہ چھانے کے مقام بھی پوسے نہ چھیتے تھے ایسی حالت میں رومال یا تو لے کر آتے۔ تو اس حالت میں تسبیح یا پادوں پر ہاتھ پھیر کر خشک کر لیتے۔

ملکہ اس زمانہ میں اور بعض دو سرے احوال میں ہیں مثلاً الوداؤ میں ہے۔ الحدیث

(۵۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاذْ طَعِمْتُمْ فَاَنْتَشِرُوا (م-۲۸۷۱) عَنْ ابْنِ

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَاذْ طَعِمْتُمْ فَاَنْتَشِرُوا (م-۲۸۷۱) عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ (متکرو-۱۹۵۴)

دیکھو حدیث ۱۹۵۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشرفی اخبار حوالے بار بار رحم کر نیوالے کے نام سے

۱- کتاب العقیقۃ

۱- عقیقۃ کی کتاب

(۱) بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلَى وَوَعْدِ الْأُمِّ أَنْ يُولَدَ لِمَنْ لَمْ يَلِدْ وَتَحْنِيكِهِ (م-۲۱۰۰) عَنْ

باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلَى وَوَعْدِ الْأُمِّ أَنْ يُولَدَ لِمَنْ لَمْ يَلِدْ وَتَحْنِيكِهِ (م-۲۱۰۰) عَنْ

أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَوَلَدِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابو موسی سے روایت ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر اس کی طرف سے عقیقہ کا ارادہ کرتا ہوں اور اسے بھی دینا چاہتا ہوں

وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِمَمْرَةٍ وَدَعَاهُ بِالْبُرِّ لَوْ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَبُو

سَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِمَمْرَةٍ وَدَعَاهُ بِالْبُرِّ لَوْ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَبُو

وَلَدِي مُوسَى (م-۲۸۷۲) عَنْ عَائِشَةَ (متکرو-۱۷۹) (م-۲۸۷۳) عَنْ

وَلَدِي مُوسَى (م-۲۸۷۲) عَنْ عَائِشَةَ (متکرو-۱۷۹) (م-۲۸۷۳) عَنْ

أَسْمَاءَ (متکرو-۱۷۳۱) (م-۲۸۷۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرو-۱۶۹۸) بَابُ

أَسْمَاءَ (متکرو-۱۷۳۱) (م-۲۸۷۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرو-۱۶۹۸) بَابُ

رَأْمًا طَوًّا الْأَذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي الْعُقَيْقَةِ (م-۲۸۷۴) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

عَقِيقَةٍ فِي بَيْتِي عَنِ الْأَذَى كَمَا دُرِّكَرْنَا

(متکرو-۲۱۰۱) (۲۱۰۱) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

دیکھو حدیث ۲۱۰۱ سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

رقبہ صفحہ ۱۲۹۳
و عن ابن عمر عن النبي صلعم فهو يور عن ابن عمر انه تعشى مرة وهو يسمع قراءة القرآن على لفظه وي ي صفي هذا على يان حديث اختصاره آني ہے۔ قال اننا اعلم الناس بالحقا كان ابى بن كعبه يسألني عن اصح رسول الله صلعم عروسا بن ينيابة محشدا كان تزوجها بالمدينة ذر عامها الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلعم وجلس مع رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلعم فمشى ومشيت معه حتى بلغه باب حجره عائشة ثم ظن انهم خرجوا

فوجت معه فاذا اهل جلوس مكانهم فرجع درجت دور الثانية حتى بلغه باب حجره عائشة فرجع ورجعت معه فاذا هم قد قاموا فاضرب يدي بيده ستر او اتر لا تخافوا
عقيد حق على مشقن ہے جس کے معنی شوق اور فطم ہیں۔ او با لور کو فروغ کی جائے۔ حقیقت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اسے کاٹا جاتا ہے۔ اور ان بالوں کو
سہی عقیقہ کہا جاتا ہے جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں اسلئے کہ وہ موٹے فیضی جلتے ہیں، عقیقہ تحنیک یہ ہے کہ بچہ کو گھور یا چھو ہائے کو چبا کر یا شہد یا
کوئی اور شہاس بچے کو چٹائی جائے، عقیقہ اہل حدیث میں تحنیک کا ذکر نہیں، قالت ابی النبی صلعم یصہو یعنی کہ خیال علیہ فاتحہ الماء، حدیث
کو انہی الفاظ میں وہ میرا کرتا ہے یا ہے فقروا بہ فوجا شہدین الا انہم قبل لہم ان الیہود قد سبوا تکرر لاولاد لکرمہ کلمہ کسی قدر لفظی تغیر
تبدل سے حدیث کو دوہرایا ہے۔ قال کان ابن لابی طلحہ یشتکر فرجہ ابو طلحہ فقبض الصبی فلما رجعا ابو طلحہ قال ما فعل ابی قال ابی قال ابی قال ابی قال ابی
ما کان فخرت الیہ العتقہ فعتقی ثم اصاب منها فوسقہ قالت دار و صانک لہ یعنی وہ ن کرے، الصبی فلما اصبر ابو طلحہ ابی رسول اللہ صلعم
فاخبرہ فقال اعرضم اللیلۃ قال نعم قال لہم یدک لہما فودت غلاما قال لی ابو طلحہ احفظ حقیقہ تاقی بہ النبی صلعم فاتی بہ النبی صلعم و
ارسلت مہو بہ ترات فخذہ النبی صلعم فقال امعہ شیء قال نعم ترات فخذن ہا النبی صلعم فبضعہا ثم اخذ من فیہ فجعلها فی فی النبی وحنکہ بہ
زعوان بابک تعلق اس جھ سے ہے، وہما عبد اللہ، عقیقہ کی باتیں کہیں کوئی ذکر نہیں مگر بعض اس میں ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِيْقُوْا عِنْدَهُ دَمًا وَاْمِيْطُوْا عِنْدَ الْاِذْيِ

فماتے تھے کہ راکے کے ساتھ عقیقہ ہے تو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اذی کو دور کرو۔

(۲۱۰۲) عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ قَالَ اَمْرِيْ بِنِ سَيِّدِيْنَ اَنْ اَسْأَلَ اَلْحَسَنَ

حبيب بن شہید سے روایت ہے کہ مجھے ابن سیرین نے کہا کہ میں من سے پوچھوں

مِنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ فَمَا لَتْهُ فَقَالَ مِنْ سَمَرَةَ بْنِ جَنْدَبٍ (۳) بِاَب

کہ عقیقہ کی حدیث انہوں نے کس سے سنی ہے تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا سمرہ بن جندب سے

الْفَرْعِ (۲۱۰۳) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

لَا فَرْعٌ وَلَا عَتِيْرَةٌ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النَّسَابِ كَاَنْوَازٍ يُّجُوْنَةُ لَطَوُا غَيْبَتَهُمْ وَالْعَتِيْرَةُ

کو نہ فرخ ہے اور نہ کوئی غیرہ اور فرخ اونٹ کا پہلا بچہ ہے جسے وہ اپنے بچوں کیلئے ذبح کرتے تھے اور غیرہ

فِي رَجَبٍ (۴) بِاَبِ الْعَتِيْرَةِ (۵) - ۲۸ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرًا ۲۱۰۴)

میں ہوا کرتا تھا۔ باب رجب عشرہ دیکھو حدیث ۲۱۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے کے نام سے

۲۱ - كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

۲۱ - ذبائح اور شکار کی کتاب

(۱) بِاَبِ السَّمِيْعِيِّ عَنِ الصَّيْدِ وَقَوْلُ اللّٰهِ حُرْمَةُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ اَلْقَوْلُ فَلَاشْهُوْهُمْ وَاخْتَوُكُم

باب شکار پر اللہ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کا قول حرام کیا گیا تم پر اور اللہ کے قول فلا تشھوہم و اختوکم (۱)

غلہ دونوں دانتوں میں صرف لفظ غلام ہے یعنی راکے کے لئے عقیقہ ہے راکے کا بیابا کوئی ذکر نہیں مگر دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راکے اور اذی دونوں کے لئے عقیقہ ہے۔ اور کئی روایات میں ہے کہ راکے کی طرف سے ذبوح اور راکے کی طرف سے ایک کا عقیقہ ہو۔ یہاں خون بہانے سے مراد تو جانور کا خون بہانا ہے جو عقیقہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اذی کی معنی میں تین طرح پر مشتمل ہے۔

کی ہے۔ وہ یا بال میں یا تون اور یا عتدہ اور بعض نے اماطۃ الاذی کے لیے معنی بھی کہے ہیں کہ جاہلیت میں ذبح شدہ جانور کا خون بچے کے سر کو لگانے تھے تو اس سے منع کیا گیا کہ بالوں کا اتارنا ہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ بلا فرق اذی یعنی کاپلا بچہ ہے جسے وہ اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ جب کسی شخص کے اونٹ سوئی قعد او کو بیچ جائے تو وہ ایک بچے کو اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرتا تھا۔ بلا فرق ایسی رسومات سے روکا ہے یعنی اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عتدہ وہ قربانی ہے جو جبکے پہلے دس دنوں میں کی جاتی تھی اور اسے رجسہ کہتے تھے۔ بلا فرق ۲۱۰۳ کے ہی میں ۲۱۰۴ کا بچہ دو عتدان رکھے ہیں اول ذبیحہ کا حکم دوم شکار کا حکم ذبیحہ اور شکار کو اکٹھا کر دیا گیا۔ گویا بتایا ہے کہ ذبح سے مستثنیٰ صرف شکار ہے۔ ذبح میں جانور کا خون جس میں زہرین ہوتی ہیں بہ جاتا ہے۔ شکار میں ذبح کی طرح سارا خون نہیں بہتا۔ مگر کچھ بہ جاتا ہے۔ لیکن شکار کو جانور اس لئے رکھا ہے کہ ایک اس کے ذریعہ سے انسان میں شجاعت کا جو سر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے بعض قوموں میں شکار ضروریات زندگی میں سے ہے۔ صید وہ چیز ہو سکتی ہے جس کا کوئی مانگ نہ ہو اور ویسے بھی وہ جانور حلال ہو۔ مگر آن مشریف میں دو طرح پر صید کا ذکر ہے۔ ایک تیر سے اور دوسرا شکاری جانور کے ذریعہ۔ جسے شکار کرنا سکھا گیا ہو۔ حدیث باب میں شکاری کہتے اور تیر کے شکار کا ذکر ہے۔ شکاری کہتے ہیں ہر قسم کے شکاری جانور آجاتے ہیں۔ اور تیر کے شکار پر ہر اس چیز کے ذریعہ سے شکار کا قیاس ہو سکتا ہے جس کی دھاریا نوک جانور کے جسم کے اندر داخل ہو کر خون بہا دیتی ہے۔ مثلاً نیزہ یا برنجی یا بندوق کی گولی۔ یا دگر کھنا چاہے کہ بندوق کی گولی کا قیاس غلا وغلیل پر نہیں ہوگا کیونکہ غلا ایسی چیز نہیں جو جانور کے جسم کے اندر چلی جائے مگر گولی جانور کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے۔ جس طرح تیر کی نوک اسکے اندر چلی جاتی ہے۔ شکار کے لئے شرط تشبیہ ہے یعنی جس طرح ذبح میں بسم اللہ پڑھا کر جانور کے گائے پر چھری پھیری جاتی ہے اس طرح شکار میں بسم اللہ پڑھا کر تیر مارا جائے یا بندوق چلائی جائے۔ اگر تیر یا بندوق سے جانور مر جائے تو وہ حلال ہوگا لیکن اگر وہ صرف زخمی ہوا ہے تو ممکن ہو تو اسے ذبح کر لینا چاہئے۔

وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَلْبُوْكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ إِلَى قَوْلِهِ
اور اللہ تعالیٰ کا قول اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہارے دلوں سے نہیں آزمانا ہے اللہ کے قول
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَذَابُ الْبَيْتِ نَكْرًا (المائدہ ۹۹) اور اس طرح ذکرہ کا قول حدیث کے ساتھ ہے کہ تمہارے لئے چار پائے جانور سوائے انکے جو تم پر پڑھا جاتا ہے
عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَقَالَ بَنُ عَسَّابٍ لِعُقُودِ الْعَهْدِ وَمَا
اللہ کے قول فلا تخشوہم واخشون تک (المائدہ ۳۳) اور ابن عباس نے کہا عقود (المائدہ ۱) سے مراد عہد میں زمین
أَجَلٌ وَحَرْمٌ وَالْأَمَانَةُ عَلَيْكُمْ الْخَيْرُ تَرْجِيهِمْ مِّنْكُمْ وَيَحِبُّكُمْ شَانُ
جو حال کیا گیا اور جو حرام کیا گیا سوائے ان کے جو تم پر پڑھا جاتا ہے زمین، غصہ، بیہوشی، منکر (المائدہ ۲۰) آمادہ کرے شنان (المائدہ ۲)
عِدَاوَةٌ الْمُنْفِقَةُ لِمُنْحَقٍ قَمُوتٌ الْمَوْقُودَةُ تَضْرِبُ بِأَخْشَبِ يَوْزَهَا
المنفقة (المائدہ ۳۰) جس کا گلہ گھونٹا جائے اور موقودۃ (المائدہ ۳۰) جو کڑی سے مارا جائے
قَمُوتٌ وَالْمَرْدِيَّةُ تَرْدِي مِنَ الْجِبَالِ النَّطِيحَةُ تَنْطِعُ الشَّاةَ فَأُذْرِكُ
اسے مارے اور وہ مرجائے والنطیحة (المائدہ ۳۰) کڑی سے بیٹھا جائے پر ان میں
يَتَخَوُّكَ بَدَنِيَّةٌ أَوْ بَعِينَةٌ فَادْبُجْ وَكُلْ (م- ۲۸۷۶) عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ (متکرم- ۱۰۲۲)
جسے تم پاؤ کرو وہ دم ہلا ہے یا آنکھ جھپکتی ہے تو دبوچ کر اور کھا لو دیکھو حدیث ۱۰۲۲-۱
(۲) بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي لِمَقْتُولَةٍ يَأْتِيهَا تِلْكَ
باب ہے پہل تیرا شکار اور ابن عمر نے اس کے متعلق جو حدیث سے مارا جائے کھا کر
الْمَوْقُودَةُ وَكَرِهَةٌ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَبِحَاهِدٍ وَابْرَاهِيمَ وَعَطَاءُ وَحَسَنٌ وَكِرَّةٌ
موقودہ ہے اور اسے سالم اور قاسم اور حاہد اور ابراہیم اور عطا اور حسن نے ناپسند کیا ہے اور
أَحْسَنُ رَحْمِي الْبَيْتِ قَاتِلِي لِقُرْبَى الْأَمْصَارِ وَلَا يَرَى بِأَسْرَفِي مَا سِوَاهُ (م- ۲۸۷۷)
حسن نے غلام کا مارتا بستیوں اور شہروں میں ناپسند کیا ہے اسے اور اس کے سوا کوئی ہرج نہیں سمجھا
عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ (متکرم- ۱۰۲۲) (۳) بَابُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضَ بِعُرْضِهِ (م-
دیکھو حدیث ۱۰۲۲-۳ باب ہے پہل تیرا جی چڑھائی سے لگے
۲۸۷۸) عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ (متکرم- ۱۰۲۲) (۴) بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ قَالَ حَسَنٌ
دیکھو حدیث ۱۰۲۲-۴ باب کمان کا شکار اور حسن اور ابراہیم
وَأَبْرَاهِيمَ إِذَا ضُوبَ صَيْدٌ أَفْبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رَجُلٌ لَا تَأْكُلُ الذِّي بَانٌ وَتَأْكُلُ
نے کما کہ جب شکار کو مارے اور اس سے ہاتھ یا پاؤں الگ ہو جائے تو لے نہ کھا جو الگ ہو گیا اور باقی کھائے

پہل کھیلے حصہ میں
خصیصہ نقلی تیسرے
ہے۔ قال سالت
النبی صلعم عن
صید المِعْرَاضِ
قال ما اصاب
بجوازہ فکله وما
اصاب بعرضه
فہو وقیدہ وسالمتہ
عن صید الکلب
فقال ما امسک
علیک فکل فان
اخذ الکلب ذکاۃ
وان وجدت ہوی
کلبک او کلابک
کلبا غیرہ فخصیصتہ
ان یکون اخذہ
معه وقد قتله
فلا تأکل فانما
ذکرت اسم اللہ
علی کلبک ولم یج
تذکر علی غیرہ
مِعْرَاضٍ بے پہل
تیرا کھا جاتا ہے
بلا ویشی کا اصل
تیرے دونوں طرف سے
باریک اور درمیان آتا
سے مراد ہوتا تھا
اور عموماً اس کا
مٹی یا حصہ چا تو روکو
گنا تھا۔ اس کی

چوٹ لٹھی کی چوٹ سے مشابہ تھی۔ اس لئے فرمایا کہ جو چیز اس کی دھار یا نوک سے ماری جائے وہ جائز ہے مگر جو اس کے عرض سے ماری جائے وہ موقوفہ کے حکم میں ہے۔ اس حدیث میں کہنے کو چھوڑنے وقت بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ تیسرے چھوڑنے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مکتبہ میں صاف مذکور ہے۔ اسی پر بندوق کا قیاس ہوگا۔ مکتبہ کیونکہ اس سے نقصان جان کا اندیشہ ہے۔ مکتبہ اس میں کچھ مضمون زیادہ ہے۔ قال سالت رسول اللہ صلعم عن المِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَتْ جِدَّ فَكُلْ فَإِذَا أَصَابَ بِعُرْضِهِ فَقُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمِيتَ كَلْبُكَ فَقُلْتُ فَنَ اَكُلُ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْسِكْ عَلَيْكَ إِذْ مَا امْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلَى آخَرِهِ مَسَكَ يَأْكُلُ الْغُلَامُ مِنْ كَبِدِ فَرْقٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْعَمَلَةَ قَالَ كَلَّ مَا امْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ تَمَنَّيْتُ قَالَ إِنْ تَمَنَّيْتُ قُلْتُ وَأَتَانِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كَلَّ الْكَلْبُ مَا خَرَفِي رَجَعْتُ نَوَاسٍ وَمَا أَصَابَ بِعُرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ

سَائِرُهُ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ اِذَا ضُرِبَتْ عِدْقَةٌ اَوْ وَسَطُهُ فَكَلَهُ وَقَالَ لَا عَمَشُ عَنْ

اور ابراہیم نے کہا کہ جب تو اس کی گردن یا درمیان میں مارے تو اسے کھائے اور عمش نے زید سے روایت

زَيْدٍ اسْتَعْصَرَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمَاءُ فَاَمْرَهُمْ اَنْ يُّضْرِبُوهُ حَيْثُ

کی ہے کہ عبد اللہ کی اولاد میں سے کسی شخص سے گور بڑھانے لگا تو عبد اللہ نے ان سے کہا کہ جس طرح ہو سکے اسے مارو

تَيَسَّرَ دَعْوَاهُمْ اَمَّا سَقَطَ مِنْهُ وَكَلُوهُ (۲۱۰۴) عَنْ اَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ

جو عرضہ اس میں سے کر جائے اسے رستے دو اور گور بڑھانے لگا ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّا يَا رِضٌ قَوْمٌ اَهْلُ الْكِتَابِ اَفْنَا كُلَّ فِيْ اٰيَاتِهِمْ وَبَارِضٌ صَيْدٌ

یا نبی اللہ ہم آپ کی کتاب کی ایک قوم کی زمین میں ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا لیں اور ہم شکار کی زمین میں ہیں

اَصِيْدٌ بِقَوْسِيْ وَيَكْبِي لِيْذِيْ لَيْسَ مَعِيَ وَيَكْبِي الْمَعْمُ فَمَا يَصْلِيْ قَالَ اَمَّا

میں رکھی وقت اپنے کمان سے شکار کرتا ہوں اور کبھی اپنے کتے سے جو کھلا یا نہیں گیا اور کبھی اپنے کتے سے جو کھلا یا گیا ہے تو کونسا

مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَذَنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَّمْ

میرے لئے درت ہے آپ نے فرمایا کہ جو تم نے اہل کتاب کے متعلق ذکر کیا ہے تو اگر تم ان کے سوا پاتے ہو تو ان میں نہ کھاؤ اور اگر پاؤ

يُجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكَلُوْا فِيْهَا وَمَا صَدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ

تو انہیں دھو کر ان میں کھاؤ اور جو تم اپنے کمان سے شکار کرو اور اللہ کا نام اس پر ذکر کرو تو کھاؤ

وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمَعْمُ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرِ

اور جو تم اپنے کھلائے ہوئے کتے سے شکار کرو اور اللہ کا نام اس پر ذکر کرو اور جو تم اپنے اس کتے سے جو کھلا یا نہیں

مَعْمُ فَاذَكَرْتَ ذَكَرْتَهُ فَكُلْ (۲۱۰۵) بَابُ الْخَذْفِ وَالْبِنْدُ قِ (۲۱۰۴) عَنْ

ابو شکار کرو اور اسے ذبح کر کے کا مرقع پاؤ تو کھاؤ باب شکر گریزے پھینکانے اور غلہ

عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ مَعْقِلِ اَنَّهُ رَاى جُلَّ اَخَذَتْ فَقَالَ لَهَا لَا تَخْذِفْ فَاِنَّ رَسُوْلَ

عبد اللہ بن معقل سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ شکر گریزے پھینک رہا ہے تو اسے لہا کہ شکر گریزے نہ پھینکے کیونکہ رسول

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ اَخْذِفْ اَوْ كَانَ يَكْرَهُ اَخْذِفَ وَقَالَ اِنَّهٗ لَا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے یا شکر گریزے پھینکنے کو ناپسند فرماتے تھے اور کہا کہ اس سے نہ تو

يَصَادُ بِهٖ صَيْدٌ وَلَا يَنْكَبُ بِهٖ عَدُوٌّ وَ لَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَاَهُ

شکار مارا جاتا ہے اور اس سے دشمن کو مغلوب کیا جاسکتا ہے البتہ کبھی دست توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے پھر اس کے

بَعْدُ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهَا اَحَدُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعد انہوں نے اسے دیکھا کہ شکر گریزے پھینک رہا ہے تو اسے لہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ہے

اَنَّهُ تَهَى عَنْ اَخْذِفِ اَوْ كَرِهَ اَخْذِفَ وَاَنْتَ تَخْذِفُ لَا اَكَلَمَكَ كَذَا وَاَكَلْنَا

کہ آپ نے شکر گریزے پھینکنے سے منع فرمایا ہے یا شکر گریزے پھینکنے کو ناپسند فرمایا ہے اور تم پھر بھی شکر گریزے پھینکتے ہو میں تم سے کبھی سلام نہیں لگا

(۲۱۰۵) بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٌ اَوْ مَا شِئِيَ (۲۱۰۵) عَنْ اَبِي

باب جو رایا کرتا ہے جو شکار کا کتا ہو اور نہ مویشیوں کا ابن عمر

عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو ایسا کتا پالے جو نہ

بِكَلْبٍ مَا شِئِيَ اَوْ ضَارِبٌ يَوْعُ كُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَمَلِهِ قَبْرًا طَرَانِ

مویشیوں کا کتا ہو اور نہ شکار کیوں کا تو ہر روز اس کے ریک، عمل میں سے دو فیڑا تکم ہوں گے

۲۱۰۴

۲۱۰۴

۲۱۰۵

مطلب یہ ہے کہ مثلات پر مارا تو لات الگ ہو گئی تو اسے شکار اور باقی کھا لو

۲۸۷۹ م ۲۸۷۹
 اور ۲۸۸۰ کو
 قرینہ انہی الفاظ سے
 میں دوہرایا ہے
 لفظ یہاں لفظ
 یوں ہیں۔ قلت
 ان قوم تصید
 بہذا الکلاب
 فقال اذا ارسلت
 کلابك المعلمة
 و ذکرک اسم
 الله فکل مما
 امسک علیک
 وان تکلن الا
 ان یاکل الکلب۔
 فانی اخذت ان
 یکون انما امسک
 علی نفسه وان
 خالطها کلاب
 من غیرها فلا
 تأکل +
 لفظ یہاں کلمہ او
 تفصیلات بھی
 مذکور ہیں۔ عن
 النبی صلعم قال
 اذا ارسلت کلبک
 و سمیت فامسک
 و تکلن الا ان
 یاکل فلا تأکل
 فانما امسک علی
 نفسه و اذا خالط

(م۔ ۲۸۷۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْرٍ (مُتَكَرِّرًا ۲۱۰۵) (م۔ ۲۸۸۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْرٍ

دیکھو حدیث ۲۱۰۵

(مُتَكَرِّرًا ۲۱۰۵) (۷) بَابُ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنِ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ الضَّوَابِدَ وَ

الْكُؤُأِبِ اجْتَرَحُوا لَكُمْ لِيَتَلَبَّؤْا بِهَا وَمَا عَلَّمْتُمْ لَهَا فَتَلَبَّؤْا بِهَا

عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ

أَفْسَدَ كَرِيمًا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ تَعَلَّمُوا مِنْهَا وَمَا عَلَّمْتُمْ اللَّهُ تَنْصُرُ

وَتَعَلَّمُ حَتَّى يَثْرَكَ وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَشْرَبَ اللَّحْمَ وَلَا يَأْكُلَ فُكْلًا

(م۔ ۲۸۸۱) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲) (۸) بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ

عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (م۔ ۲۸۸۲) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲) (۹) بَابُ إِذَا جَاءَ

مَعَ الصَّيْدِ كَلْبٌ آخَرٌ (م۔ ۲۸۸۳) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲) (۱۰) بَابُ مَا جَاءَ

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

فِي التَّصْيُدِ (م۔ ۲۸۸۴) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ (مُتَكَرِّرًا ۱۰۲۲)

کلابی اسم اللہ علیہا فامسک و تکلن فلا تأکل فانک لا تدری ایہا تکل وان رمیت الصيد فوجن تہ بعد يوم او یومین لیس بہ الا اثر سہمک فکل وان وقع فی الماء فلا تأکل رشید اس کی موت ڈوب جانے سے واقع ہوئی ہو۔ مگلا صنون وری ہے لفظ کچھ کم پیش ہیں۔ قال قلت یا رسول اللہ انی اودسل کلبی واسمی فقال النبی صلعم اذا ارسلت کلبک و سمیت فامسک و تکلن الا ان یاکل فلا تأکل فانما امسک علی نفسه قلت انی اودسل کلبی اجد معہ کلبا اخر لا ادری ایہما اخذہ فقال لا تأکل فانما سمیت علی کلبک ولم تسم علی غیرہ و سألہ عن صید البحر فقال اذا اصبت بجد فکل و اذا اصبت بعرضہ فقتل فانہ و قین فلا تأکل۔ لفظ یہاں لفظ تصید ہے جو فعل کے وزن پر ہے۔ یعنی تکلف سے ایک چیز کا اختیار کرنا یا تیار ہے کہ شکار محض ہو نہیں بلکہ اسے کمانی کا زور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مگلا اس میں صرف کتے کے شکار کا ذکر ہے۔ لفظ یوں ہیں۔ سالت رسول اللہ صلعم نقلت ان قوم تصید بہذا الکلاب فقال اذا ارسلت کلابک المعلمة و ذکرک اسم الله فکل مما امسک علیک الا ان یاکل الکلب فلا تأکل فانی اخذت ان یکون انما امسک علی نفسه وان خالطها کلب من غیرها فلا تأکل +

دیکھو حدیث ۲۱۰۵
 بابت جب شکار سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کا قول چھو سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال ہے
 اور وہ جو تم شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم دیتے ہوئے سکھاؤ صواذب کا نپولے
 اجترحو انما یان کو سکھاتے ہو اس سے جو اللہ نے تم کو سکھایا سو جس کو وہ تمہارے لئے پکڑ لیں اس سے کھالو
 اللہ کے قول صریح الحساب تک والحمد لله۔ مہا کاؤ بن عباس نے کہا کہ اگر کتے نے کھالیا تو اس نے اسے خراب کیا اور
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں سکھاتے ہو اس سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے اس سے
 اور ابن عباس نے کہا کہ شکار سے کھانا کھانے کا اگر کتوں نے کھالیا تو اس نے اسے خراب کیا اور
 بابت شکار جب شکاری سے دو دن
 یا بن دن غائب رہے
 کہ ایک شخص شکار کو تیرا تہا ہے پھر دو تین دن اس کے نشان کے
 پہنچے پھر تار تہا ہے پھر اسے مرہا پواتا ہے اور اس میں اس کو تیرے فرمایا اگر چاہے تو کھائے
 دیکھو حدیث ۱۰۲۲
 بابت جو شکار کرنے
 کے بارے میں آیا ہے

عَلَى سَوْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ وَقَالَ لَشُعْبَى لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادَةَ

جو آبی کتوں کی کھاوں سے بنی تھی اور شعبی نے کہا اگر میرے گھر والے میڈوں کھاتے تو میں ان کو مزور

لَا طَعَمْتَهُمْ وَلَمْ يَرِ احْسَنُ بِاللَّسْكَفَةِ يَا سَأُوقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ مَنْ صَيَدَ الْبَحْرَ

کھلاتا اور جس نے تنگ پشت کے متعلق کوئی ہرج نہیں سمجھا اور ابن عباس نے کہا سمندر کا شکار کھانا

تَصَوَّرَنِي أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَرَفِي لِعُمَيْرِ بْنِ زَيْبِرٍ الْخَمْرُ النَّبَاتُ

نعرانی کا پھل یا یہودی کا یا مجوسی کا اور ابو الدرداء نے مری کے متعلق کہا کہ شراب کو پھلیوں اور دھوپ سے ذبح

وَالشَّمْسُ (م- ۲۸۹۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَتَّوْرٍ (م- ۱۱۸۵) (م- ۲۸۹۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ

کر دیا ہے اور دیکھو حدیث ۱۱۸۵

(م- ۱۱۸۵) (۱۳) بَابُ أَكْلِ الْجُرَادِ (م- ۲۱۰۶) عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ

دیکھو حدیث ۱۱۸۵ بابت لٹوی کا کھانا ابن ابی اوفی سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا

کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات یا چھ جنگیں کیں

كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادَ (رَوَيْتُ زَوَايِدَ) سَبْعَ غَزَوَاتٍ (م- ۱۴) بَابُ زِينَةِ

ہم آجکے ساتھ لٹوی کھا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے سات جنگیں بابت لٹوی کے

الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ (م- ۲۸۹۲) عَنْ ابْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَثَمِيِّ (م- ۲۱۰۷)

برتن اور مراد سے دیکھو حدیث ۲۱۰۷

(م- ۲۸۹۳) عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَعِ (م- ۱۱۸۰) (۱۵) بَابُ الشَّمِيرَةِ عَلَى الزَّيْتِ

دیکھو حدیث ۱۱۸۰ بابت جو جانور ذبح کیا جائے اس پر لٹہ کا نام

وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَمِيَ فَلَا يَأْسُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا

بنا اور جو جان بوجھ کر چھوڑے ابن عباس نے کہا جو بھول جائے تو کوئی ہرج نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور

تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ يَوْمَ يُكْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْمَعُونَ فَا سَمِعُوا قَوْلَهُ وَ

کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا پر وہ فسق ہے (۱۲۲-۱۲۳) اور بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا ہے اور اللہ

إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَتُكْرَمُوا وَكَلِمَاتُ اللَّهِ

تعالیٰ کا قول اور شیطان اپنے دوستوں کو الفادہ کرتے ہیں تاکہ تم سے چھوڑیں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم فرود رکھو اور اللہ تعالیٰ

ملکہ مری صینی
میں ہے کہ شام
میں بنائی جاتی ہے
شراب کے اندر
تنگ اور پھل ڈال
دی جاتی ہے اور
پھر اسے دھوپ
میں رکھا جاتا ہے
تو اس کا ذائقہ
تبدیل ہو کر مری
بن جاتی ہے اور
کھاسے کہ جس طرح
جانور کو ذبح کرنا
حلال کرتا ہے
اسی طرح تنگ
شراب کو حلال کر
دیتا ہے۔ ذبح
الخمير النباتان
والشمس کے معنی
ہیں شراب کو
پھلیوں اور دھوپ
نے ذبح کر دیا۔
یعنی ذبح کے حکم
میں کر دیا یا حلال
کر دیا یعنی پھلیاں
اور دھوپ سے
را در تنگ سے
اس کی کیفیت
بدل جاتی ہے

گویا اس میں شہ کی کیفیت باقی نہیں رہتی بلکہ مکرر روایت اختصار سے اور اختلاف الفاظ سے آئی ہے یہ یقول غزونا جيش الحيط وامر ابو عبدة
فجنا جو ماشدین انا لقی البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبدة عظامه ثم الرابك تحتة +
مطلة يكرر روایت بھی شورے سے اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ یقول بعثنا اليه صلعم ثلاثا ثمة رابك واميرنا ابو عبدة نوصد عير القريش
فا صابنا جو صا شد يداحتي اكلنا الخبط فسمى جيش الخبط والقي البحر حوتا يقال له العنبر فاكلنا نصف شهر وادها بنا بود كه حن صلحت احامنا
قال فاخذ ابو عبدة صلا من اضلاعه فصعبه فصر الرابك تحتة وكان فينا داخل فلما اشدت الجوع خور ثلاثا جزا ثم ثلاث جزا ثم
نهما ابو عبدة فمكنا اس باب كي دونو حدیثوں میں اور یہی حدیث میں اہل کتاب کی ذکر ہے اور دوسری میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ نام بخاری کے نزدیک مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں اور یہی درست ہے کیونکہ جب ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا اور ہر رسول کو کتاب لگی تو ہر قوم صاحب
کتاب ہو گیا۔ یہ قریبا انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ لفظ قریبا وہی ہیں۔ آخری لفظ اغسلوا کی بجائے ہے فقال اليه صلعم اذ ذاك
ثم ان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے یعنی ان ہاتھیوں کو دھولینا کافی سمجھا گیا حالانکہ ان میں وہ گوشت تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا۔ تو دوسری
قوم کے برتن ناقابل استعمال صرف اسی لئے قرار دیئے گئے ہیں کہ ان میں بخش کھانا جیسے مردار یا سور کا گوشت پکایا جاتا ہے اس کا بھی دھولینا کافی ہے

یعنی اس حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اسی طرح اگر مسلمان بدوق چلاتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو پھر بھی شکار حلال ہے۔

رم- ۲۸۹۴ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹) (۱۶) **بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ**

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۱ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

وَالْأَصْنَامُ رم- ۲۸۹۵ عن عبد الله بن عمرو (متکثر- ۱۶۰۰) (۱۷) **بَابُ**

دیکھو حدیث ۱۶۰۰ ع ۱۷ باب

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَذِبْ عَلَيَّ اسْمُ اللَّهِ رم- ۲۸۹۶ عن جندب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول چاہئے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے

ابْنِ سَفْيَانَ (متکثر- ۳۶۳۴) (۱۸) **بَابُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ النَّصَبِ وَالْمَرْوَةِ**

دیکھو حدیث ۳۶۳۴ ع ۱۸ باب جو چیز خون بہائے یا ش کی دھار ہو یا پتھر

وَالْحَدِيدِ رم- ۲۸۹۷ عن كعب بن مالك (متکثر- ۱۱۱۷) (۱۹) **بَابُ**

دیکھو حدیث ۱۱۱۷ ع ۱۹ باب

مِنْ بَنِي سَلَمَةَ (متکثر- ۱۱۱۷) (۲۰) **بَابُ ذَبْحِ الْأَمَةِ** رم- ۲۸۹۹ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۱۷ ع ۲۰ دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۰

بَابُ ذَبْحِ الْمَرْوَةِ وَالْأَمَةِ رم- ۲۹۰۰ عن كعب بن مالك (متکثر- ۱۱۱۷)

دیکھو حدیث ۱۱۱۷ ع ۲۱ باب اور لوندی کا ذبح

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۱ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۲ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۲ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۳ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۳ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۴ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۴ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۵ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۵ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۶ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۶ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۷ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۷ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۸ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

بَابُ مَا دُرِيَ عَلَيْهِ النَّصَبُ رم- ۲۹۰۸ عن زافع بن خدیج (متکثر- ۱۱۸۹)

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ ع ۲۹ باب جو نصب اور بتوں پر ذبح کیا جائے

۱۱۸۹ ع ۱۶
۱۱۸۹ ع ۱۷
۱۱۸۹ ع ۱۸
۱۱۸۹ ع ۱۹
۱۱۸۹ ع ۲۰
۱۱۸۹ ع ۲۱
۱۱۸۹ ع ۲۲
۱۱۸۹ ع ۲۳
۱۱۸۹ ع ۲۴
۱۱۸۹ ع ۲۵
۱۱۸۹ ع ۲۶
۱۱۸۹ ع ۲۷
۱۱۸۹ ع ۲۸
۱۱۸۹ ع ۲۹
۱۱۸۹ ع ۳۰
۱۱۸۹ ع ۳۱
۱۱۸۹ ع ۳۲
۱۱۸۹ ع ۳۳
۱۱۸۹ ع ۳۴
۱۱۸۹ ع ۳۵
۱۱۸۹ ع ۳۶
۱۱۸۹ ع ۳۷
۱۱۸۹ ع ۳۸
۱۱۸۹ ع ۳۹
۱۱۸۹ ع ۴۰
۱۱۸۹ ع ۴۱
۱۱۸۹ ع ۴۲
۱۱۸۹ ع ۴۳
۱۱۸۹ ع ۴۴
۱۱۸۹ ع ۴۵
۱۱۸۹ ع ۴۶
۱۱۸۹ ع ۴۷
۱۱۸۹ ع ۴۸
۱۱۸۹ ع ۴۹
۱۱۸۹ ع ۵۰
۱۱۸۹ ع ۵۱
۱۱۸۹ ع ۵۲
۱۱۸۹ ع ۵۳
۱۱۸۹ ع ۵۴
۱۱۸۹ ع ۵۵
۱۱۸۹ ع ۵۶
۱۱۸۹ ع ۵۷
۱۱۸۹ ع ۵۸
۱۱۸۹ ع ۵۹
۱۱۸۹ ع ۶۰
۱۱۸۹ ع ۶۱
۱۱۸۹ ع ۶۲
۱۱۸۹ ع ۶۳
۱۱۸۹ ع ۶۴
۱۱۸۹ ع ۶۵
۱۱۸۹ ع ۶۶
۱۱۸۹ ع ۶۷
۱۱۸۹ ع ۶۸
۱۱۸۹ ع ۶۹
۱۱۸۹ ع ۷۰
۱۱۸۹ ع ۷۱
۱۱۸۹ ع ۷۲
۱۱۸۹ ع ۷۳
۱۱۸۹ ع ۷۴
۱۱۸۹ ع ۷۵
۱۱۸۹ ع ۷۶
۱۱۸۹ ع ۷۷
۱۱۸۹ ع ۷۸
۱۱۸۹ ع ۷۹
۱۱۸۹ ع ۸۰
۱۱۸۹ ع ۸۱
۱۱۸۹ ع ۸۲
۱۱۸۹ ع ۸۳
۱۱۸۹ ع ۸۴
۱۱۸۹ ع ۸۵
۱۱۸۹ ع ۸۶
۱۱۸۹ ع ۸۷
۱۱۸۹ ع ۸۸
۱۱۸۹ ع ۸۹
۱۱۸۹ ع ۹۰
۱۱۸۹ ع ۹۱
۱۱۸۹ ع ۹۲
۱۱۸۹ ع ۹۳
۱۱۸۹ ع ۹۴
۱۱۸۹ ع ۹۵
۱۱۸۹ ع ۹۶
۱۱۸۹ ع ۹۷
۱۱۸۹ ع ۹۸
۱۱۸۹ ع ۹۹
۱۱۸۹ ع ۱۰۰

۱۱۸۹ ع ۱۰۰

(۲۰) بَابُ الْيَدَايِ بِالسِّنِّ وَالْعِظْمِ وَالظَّفْرِ (م- ۲۹۰۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَدِيجٍ بَابُ دانت اور ہڈی اور ناخن سے ذبح نہ کیا جائے	
(متکدر۔ ۱۱۸۹) بَابُ فَرْجِيَةِ الْأَعْرَابِ نَحْوَهُمْ (م- ۲۹۰۳) عَنْ عَائِشَةَ دیکھو حدیث ۱۱۸۹ بَابُ گنواڑوں اور ان جیسے لوگوں کا ذبح کرنا	
(متکدر۔ ۱۰۲۳) بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشَوْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ دیکھو حدیث ۱۰۲۳ بَابُ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی چیزیں وہ اہل حرب ہوں	
وَأَخْبَرَهُمْ وَقَوْلَهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَجَلُ لَكُمْ الطِّيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یا نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا قول آج تمہارے لئے سفحری چیزیں حلال کی گئیں اور ان کا کھانا جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے	
حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُ كُمَّ جَلِّ لَهُمْ وَقَالَ لِزُهْرِيٍّ لَا بَأْسَ بِذَبَائِحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کی لئے حلال ہے واللہ اعلم اور زہری نے کہا کہ عرب کے نصاریٰ کے ذبیحے کے ہمارے میں کوئی ہرج نہیں ہے	
وَأَنْ سَمِعْتَهُ يَسْمِيَّ لِعَظِيمِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلِمَ اور اگر تو نے سنا کہ خیر اللہ کا نام لیتا ہے تو نہ کھا اور اگر تو نے نہیں سنا تو اس نے اسے حلال کیا ہے اور اسے	
كُفَّرَهُمْ وَيَذَكَّرُ عَنْ عَرِيٍّ نَحْوِكَ وَقَالَ أَحْسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بِذَبَائِحَةِ الْأَقْلَبِ کو ان کے کفر کا علم ہے اور حضرت علی سے بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے حسن اور ابن ابراہیم نے کہا کہ غیر مبینہ ذبیحے کے ہمارے میں	
(م- ۲۹۰۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَوَّلٍ (متکدر۔ ۱۱۳۰) بَابُ مَا نَدَّ مِنْ کوئی ہرج نہیں ہے دیکھو حدیث ۱۱۳۰ بَابُ جو جائز بھاگ جائیں	
الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ وَأَجَازُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجُوكُ تو وہ جنگلی جانوروں کے حکم میں ہیں اور ابن مسعود نے لے جائز رکھا اور ابن عباس نے کہا کہ جب نہیں وہ جائز	
مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعْدِ تَرْدِي فِي يَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ جو تمہارے ہاتھ میں ہے جائز ہے تو وہ شکار کے حکم میں ہے اور اونٹ کے بارہ میں کہا جو تلوں میں گرجا جائے کہ جس پر	
قَدَّرْتُ عَلَيْهِ فَنَدَّ لَهُ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَمْرٍو عَائِشَةُ (م- ۲۹۰۵) عَنْ میں نے بھی تو اس پر قادر ہو گئے تو اسے ذبح کرے اور یہی مذہب حضرت علی اور ابن عمر اور حضرت عائشہ کا تھا	
زَيْدِ بْنِ خَدِيجٍ (متکدر۔ ۱۱۸۹) بَابُ الْحَرْ وَالذَّبْحِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ دیکھو حدیث ۱۱۸۹ بَابُ حجاز اور ذبح کا بیان ہے اور ابن جریج نے عطا ہے	

یہاں کوئی مکان سے ذبح
نخن برائے نام
بت ہے
عظماں مرث
یہ لفظ ہیں۔ قال
قال النبی صلعم
کل یعنی ما اھنہ
اللہ الا السن
والظفر
مسلم ۲۴۲۰ کو اتنی
الفاظ میں دوہرا
کہ حضرت عائشہ
نے بطور تشریح یہ
لفظ بڑھا ہے یہ
قال کا تو واحد ہے
عہد یا لاکر یعنی
یہ لوگ ابھی تھے
نئے حالت کفر
سے نکلے تھے۔
پس یہ مسلمان تھے
اس لئے ان کے
متعلق شک کرنے
کی ضرورت نہ تھی۔
عنا فقہاء میں یہ
بحث ہوئی ہے
کہ آیا اہل کتاب
کا ذبیحہ طعام
الذین اوتوا
الکتاب حل لکم

کے ماتحت حلال ہے۔ خواہ وہ اللہ کا نام لیں یا غیر اللہ کا یا لاکھوا امسا لکم یا اللہ علیہ کے ماتحت وہ جائز نہیں۔ یہاں حضرت علی اور زہری کا جو مذہب بیان کیا گیا ہے وہ بہترین حل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کچھ علم نہیں کہ اللہ کا نام لیا یا نہ تو اسے کھائے اور اگر غیر اللہ کا نام لیتے سنا ہے تو نہ کھائے۔ یعنی میں ہے کہ حسن بصری ایسے شخص کو جو بڑا ہو کہ اسلام لائے اجازت دیتے تھے کہ اگر غصہ میں کوئی ہرج دیکھتا ہے تو نہ کرائے۔ تو یہاں بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذبیحہ جائز ہے۔ جملہ انہی الخاطی میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ تیسرے میں یہودی حضور تھے تو انہی میں سے کسی نے قبیل حبشہ میں میں جرنی تھی تو اس جرنی کو حرام نہیں سمجھا گیا۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن عباس کا اشارہ ہے کہ قال ابن عباس طعامہم ذبائحہم یعنی سورہ مائدہ - ۵) میں ان کے کھانے سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ یہ مگر رد استیوں ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ انا لا توکل العدا وعدا اولیت من مائدہ می فقال اعجل ادا ان رجلی کرایا سے مراد ما اوتوا الذم و ذکر اسم اللہ فکل لیس السن والظفر وساحد فک اما السن فعظم و اما الظفر فدای الحبشۃ و اصیدا نھب ایل وغنم فند منھا و اجوز ماہ دھیل اسبہم فحاسبہ فقال رسول اللہ صلعم ان لھذا کابل اوابدا کا و ابا الوحش فاذا غلبک منھا شیئ فانقلبا وہ لکن اھم شخو کے معنی سینہ ہیں۔ اور اونٹ کے ذبح پر لفظ ظھر بولا جاتا ہے۔ بعض اور بڑے جانوروں پر بھی جیسے گائے یا گھوڑا شکر لفظ بول دیتے ہیں۔ اور وہ اس طرح ہے کہ کھڑے جانور کے سینے میں رچھا مارا جاتا ہے۔ اور ذبح کر لنگے پر چھری پیرنا

عَنْ عَطَاءٍ لَا ذَبْحَ وَلَا مَذْبُوحَ إِلَّا فِي الْمَذْبُوحِ وَالْمَذْبُوحُ قُلْتُ أَيُّزْبِي مَا

روایت کی ہے کہ سوائے ذبح کے مقام اور نحر کے مقام کے ذبح کیا جائے اور نہ نحر میں سے لیا کر کیا جائے کہ جو ذبح

یذبحہ ان اشْحَاةَ قَالَ نَعَمْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَهُ الْبَقْرَةَ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يَحْرُجُ جَارِي

کیا جاتا ہے اس سے نحر کردوں کہاں اٹھنے لگائے کہ ذبح کرنے کا ذکر کیا ہے سر اگر قرابہ سے چیز کو ذبح کرو جو نحر کی جاتی ہے تو

النَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَالذَّبْحُ قِطْعُ الْأَوْدَاجِ قُلْتُ فَيُخْلَفُ الْأَوْدَاجُ حَتَّى يَقْطَعَ

دوست ہے سٹل اور نحر کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اور ذبح کرنے کی رگوں (اوداج) کا کاٹنا ہے اس سے لگا اوداج دیکھے پھر ذری نہیں ہاں تک

التَّخْلُوعُ قَالَ لَا أَحَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ التَّخْلُوعِ يَقُولُ لِقِطْعِ

کرنحار سٹل کاٹ دیا جائے کہ ایسا خیال نہیں ہے اور مجھے نافع نے خبر دی کہ ابن عمر نے نحر سے روکا ہے کہ نحر سے کٹھی

مَا دُونَ الْعِظْمِ ثُمَّ يَدْعُ حَتَّى تَمُوتَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

سے ادھر کاٹ لے پھر چھوڑنے میں تمک کر دھائے اور اللہ تعالیٰ کا قول واذا قال الخوا بقرہ۔ یعنی اور جب موسیٰ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقْرَةً وَقَالَ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَقَالَ

نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو اور فرمایا میں انہوں نے گائے ذبح کر دی اور وہ کرنا نہ چاہتے تھے اور میری

سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الذِّكَاةُ فِي الْخَلْقِ وَاللَّبَّةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمُ

ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ذبح کرنا خلق اور سر سبز میں ہے اور ابن عمر اور ابن عباس

وَأَنْتَ إِذَا قَطَعْتَ الرَّأْسَ فَلَا يَأْسُ (۲۱۰۷) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ

اور اس نے کہا کہ اگر سر کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے

عَنْهُمَا قَالَتْ نَحْرُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَكَلْنَاهَا (۲۱۰۸)

کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں گھوڑا نحر کیا تھا پھر ہم نے اسے کھایا

۲۱۰۶ عَنْ أَسْمَاءَ (مُتَكَرَّرٌ ۲۱۰۷) (۲۱۰۷) عَنْ أَسْمَاءَ (مُتَكَرَّرٌ ۲۱۰۷)

دیکھو حدیث ۲۱۰۷ دیکھو حدیث ۲۱۰۷

(۲۱۰۹) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَثَلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمَجْتَمِعَةِ (۲۱۰۹) عَنْ هِشَامِ

یا رطل (جاؤر کے) اعضا کا ٹٹا اور بانڈھ کر مارنا اور پڑھ کر، جھا کر مارنا مکروہ ہے ہشام بن زید سے

ابْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ الْحَكِيمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غُلَامًا أَوْ قَتِيلًا

روایت ہے کہ میں اس کے ساتھ علم بن ایوب کے پاس گیا انہوں نے لڑکوں یا جوانوں کو دکھا

لِصَبْوَةٍ جَائِعَةٍ تَزْمُو نَهَا فَقَالَ أَسَى نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصْبِرَ الْيَهُامُ

کہ مرعی کو بانڈھ کر مارتے ہیں تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤروں کو بانڈھ کر تیر مارنے سے منع فرمایا ہے

(۲۱۰۹) ابْنُ عُمَرَ رَوَيْتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى عِيَالِي بْنِ سَعِيدٍ وَعَلَامٌ مِنْ بَنِي

ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ عیالی بن سعید کے پاس گئے اور عیالی کے بیٹوں سے

عِيَالِي رَأَيْتُ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا مُسْتَسِيًّا إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْعَلَا وَمَعَهَا

ایک لڑکا مرعی کو بانڈھ کر تیر مار دیا تھا تو ابن عمر اسے دیکھ کر اسے کھلا پھر اسے اور لڑکے کو بھی ساتھ لائے

ملک نحر اور ذبح جانور کی وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں سے نحر یا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور وہ مقررہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جو جانور کے نحر یا ذبح کے لئے مخصوص کر دی گئی ہو۔ یہاں مراد ہے بعض معنی معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی ذبح کیجئے یہ منہ نہیں کر سوائے گلے کے دوسری جگہ چھری پھیر کرانے اسی طرح نحر کے لئے مخصوص جگہ ہے سٹل قرآن شریف میں گائے پڑھنے کا لفظ بولا گیا ہے اور حدیث میں نحر اور اس میں بظاہر کوئی ہرج غلط نہیں آتا کہ نحر لے جانور کو ذبح کر لے یا نحر حرام مفر سے منع فرمادے جو گردن کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے کا ٹٹا رگوں کو چاہئے تاکہ خون نہ جائے یعنی اتفاقاً اگر کاٹنے کا شے سر جدا ہو جائے تو کوئی ہرج نہیں

۲۱۰۷ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹

دہ بھی ذبح میں داخل ہے۔ اس کی مکرر روایت میں لفظ ذبح آتا ہے کہ گایا دونوں طرح جائز ہے۔ لہذا نحر کی بجائے ذبح ہے۔ باقی لفظ ذری میں مکروہی لفظ میں ہے۔ جانور کو اذیت دینے سے منع فرمایا۔ اور اگلی حدیث میں آتا ہے کہ جانور کو اذیت دینے والے پر لعنت کی ہے کھانے کیلئے جانور کو ذبح کرنا یا اس سے کام لینا اور بات ہے اور اس کو اذیت دینا دوسری بات ہے۔ اسلام کی تعلیم میں جانوروں کے لئے اسی طرح رحم کی تعلیم ہے جیسے انسانوں کے لئے۔

فَقَالَ اذْجُرُوا غَلَامَكُمْ عَنْ اَنْ يَصِدَّ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَاِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ

اور کہنے اس لڑکے کو تنبیہ کرو کہ اس پرندہ کو مارنے کے لئے نشانہ نہ بٹھرائے کیونکہ میں نے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ تَصِدَّ بِهَيْمَةٍ اَوْ غَيْرِهَا لِلْقَتْلِ (۲۱۱۰) عَنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تا منع فرماتے تھے کہ کسی ہیمے یا کسی اور جھانور کو مارنے کے لئے نشانہ نہ بنائے

سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ وَابْتِئَانٌ اَوْ بَيْتُهَا تَصْبِيحًا وَادِجَاةٌ

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں ابن عمر کے پاس تھا دو بھندے اور دو جھانوریں ان کے پاس تھیں اور ان سے صبح کی کوئی بات نہ ہوئی

يُرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَقَرَّ قَوَاعِنُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا اِنَّ

تیرا ہتے تھے جب انہوں نے ابن عمر کو دیکھا تو اس سے اوجھڑا دھر ہو گئے اور ابن عمر نے کہا یہ کام تم نے کیا

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنٌ مَنْ فَعَلَ هَذَا (۲۱۱۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَعْنُ النَّبِيِّ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے جو ایسا کرے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ وَقَالَ عِدَائِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنِ

علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے جو حیوان کے اعضا کاٹے اور عدی نے سعید سے اور سعید نے ابن عباس سے

عَبَّاسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۹۰۸) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ

اور ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے

رَمْتِكُمْ (۲۹۰۹) بِابِ حَيْمٍ الذَّاجِرِ (م- ۲۹۰۹) عَنْ أَبِي مُوسَى كَالشَّعْرِيِّ

دیکھو حدیث ۱۱۷۹ بار بٹھانا مرغ کا گوشت

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۰) عَنْ زُهْدٍ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۰) (۲۹۱۰) بِابِ حَيْمٍ الذَّاجِرِ (م- ۲۹۱۰) عَنْ أَبِي مُوسَى كَالشَّعْرِيِّ

دیکھو حدیث ۱۲۱۸ دیکھو حدیث ۱۲۱۸ بار بٹھانا گھوڑوں کا گوشت

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۱) عَنْ اَسْمَاءَ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۱) (۲۹۱۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (م- ۲۹۱۱) رَمْتِكُمْ

دیکھو حدیث ۲۱۰۸ دیکھو حدیث ۲۱۰۸

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (م- ۲۹۱۲) رَمْتِكُمْ

دیکھو حدیث ۱۸۱۸ دیکھو حدیث ۱۸۱۸

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۳) (۲۹۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۱۸۱۸ دیکھو حدیث ۱۸۱۸

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (م- ۲۹۱۴) رَمْتِكُمْ

دیکھو حدیث ۲۹۰۳ دیکھو حدیث ۲۹۰۳

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۵) (۲۹۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۲۹۲۲ دیکھو حدیث ۲۹۲۲

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۶) (۲۹۱۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۱۸۱۸ دیکھو حدیث ۱۸۱۸

رَمْتِكُمْ (۲۹۱۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَمْتِكُمْ (۲۹۱۷) (۲۹۱۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۲۹۲۲ دیکھو حدیث ۲۹۲۲

۱۱۷۹ وہی لفظ ہے
۱۲۱۸ وہی لفظ ہے
۲۱۰۸ حدیث ہے جس کا
ابتدائی مرضی کے
گوشت کا ذکر ہے
یہاں صرف یہ لفظ
ہیں مقالہ لایت
النبی صلعم یا کل
الذبايح
۲۱۱۰ لفظ ابتدائی حضرت
جس کا تعلق مرضی
کا گوشت کھلنے
سے ہے۔ یہاں
یوں ہے۔ قال
کناعدا ابی مؤمن
الاشعری وکان
بنینا وبنین هذا
الحی من جرم اضطر
فانی بطعام فیہ
لحم وجام ورفی
القوم رجل جالس
اسم فرمیدین من
طعامہ قال اذن
فقد رأیت رسول
الله صلعم یا کل
منہ قال انی رایت
اکل شیئا فقلت
فخالفت ان لا
۲ کلہ اس کے
بعد قرینہ امی الفان
میں حدیث کو
دو بار لایا ہے سوائے
اس کے کہ ما صنف
لا یبارک لنا کبک
ہے فقالت لا صحیح
نبی رسول اللہ صلعم یبینه فراہ لث تقفلنا رسول اللہ صلعم یبینه لانہ ابدا وہی لفظ ہے
روایت ۲۹۰۳ ایک ہی مضمون کے متعلق ہیں۔ یہاں بھی جابر کی روایت ہے اور لفظ ۲۹۰۳ کی طرح ہیں۔ نبی اللہ صلعم یوم خیدرم عن لحم الحمر وخص فی
لحم الخیل م علیہا ہے۔ نبی اللہ صلعم عن لحم الحمر الاہلیۃ یوم خیدرم کے بیان میں ہے نبی اللہ صلعم عن لحم الحمر الاہلیۃ م علیہا بیان
ہے۔ قال نبی رسول اللہ صلعم عن المتعۃ عام خیدرم لحم الاہلیۃ م علیہ لفظ ۲۹۱۲ کے ہیں م علیہا میں صرف ایک جملہ ہے۔ قال نبی اللہ صلعم

۱۱۷۹ وہی لفظ ہے
۱۲۱۸ وہی لفظ ہے
۲۱۰۸ حدیث ہے جس کا
ابتدائی مرضی کے
گوشت کا ذکر ہے
یہاں صرف یہ لفظ
ہیں مقالہ لایت
النبی صلعم یا کل
الذبايح
۲۱۱۰ لفظ ابتدائی حضرت
جس کا تعلق مرضی
کا گوشت کھلنے
سے ہے۔ یہاں
یوں ہے۔ قال
کناعدا ابی مؤمن
الاشعری وکان
بنینا وبنین هذا
الحی من جرم اضطر
فانی بطعام فیہ
لحم وجام ورفی
القوم رجل جالس
اسم فرمیدین من
طعامہ قال اذن
فقد رأیت رسول
الله صلعم یا کل
منہ قال انی رایت
اکل شیئا فقلت
فخالفت ان لا
۲ کلہ اس کے
بعد قرینہ امی الفان
میں حدیث کو
دو بار لایا ہے سوائے
اس کے کہ ما صنف
لا یبارک لنا کبک
ہے فقالت لا صحیح

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ

حرام کی اور زہری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام

ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (م- ۲۹۱۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكر- ۲۶۷) (۲۱۱۳)

داغوں والوں اور بندوں سے منع فرمایا دیکھو حدیث ۲۶۷

عَنْ عُمَرَ وَقُلْتُ لِحَابِرِ بْنِ زَيْدٍ كَيْفَ عَمِلْتُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

موسے روایت ہے کہ میں نے حابر بن زید سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانچنے کی ہے

نَهَى عَنْ شَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُمَرَ وَالْبُقَارِيُّ عِنْدَنَا

تو کہ حکم بن عمرو فقاری بسرہ میں یوں کہتا تھا

بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ أَبِي ذَاكَ الْبُخْرِيُّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَ قَلِيلًا أَحَدِيْمًا أَوْ سِجِي رَأَى

لیکن بصرہ کے امیر ابن عباس نے اسے نہیں مانا اور بصرہ والے نے اسے کچھ کو دیکھی ہوئی اس میں

مُحَمَّدًا (م- ۲۹۱۹) بَابُ أَحْمَدُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (م- ۲۱۱۳) عَنْ أَبِي نُعْلَبَةَ رَضِيَ

جو حرام کی گئی ہو سب بانیق اور بندوں میں سے ہر ایک ذائقے کا کھانا ابو نعبلہ سے روایت ہے

اللَّهُ عِنْدَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذائقے والے زندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے

(م- ۲۹۲۰) بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ (م- ۲۹۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (متكر- ۸۰۱)

بانیق مروار کی کھال دیکھو حدیث ۸۰۱

(م- ۲۹۲۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكر- ۸۰۱) (۳۱) بَابُ الْبَيْسِكِ (م- ۲۹۲۲)

دیکھو حدیث ۸۰۱ بانیق کستوری

أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۱۸۹) (م- ۲۹۲۳) عَنْ أَبِي مُوسَى (متكر- ۱۰۳۸) (۳۲) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۸۹ دیکھو حدیث ۱۰۳۸ بانیق

الْأَرْزَبِ (م- ۲۹۲۴) (۳۳) بَابُ الصَّبِ (م- ۲۱۱۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۱۱۲۲ بانیق گدھ

بنا زہری کی یہ تعلق ابو نعبلہ کی روایت سے ۱۱۳۱۳ پڑھو رسول ہوئی ہے ۱۱۳۱۳ میں یہ معنیوں میں ملکہ یہ م ۲۰۲۳ میں ہے اور یہاں لفظ بھی قرآن م ۲۰۲۳ کے ہی میں لیکن جہاں لغت کا اعلان ہوا وہاں یہ وجہ پڑھائی ہے۔ ناخا ارجس یعنی ناپاک کی وجہ سے ان سے جانچتے فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس سے قرآن کریم کی اس آیت سے سند لیتے ہوئے

یہ کہ ان چیزوں کے سوائے جو اس آیت میں مذکور ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں اور آیت مذکورہ میں گھر لیکر گدھوں کا کوئی ذکر نہیں لیکن حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اور بارہ صحابہ سے یہ روایت ہے تو بعض نے کہا کہ چونکہ یہ غلاظت کھاتے تھے اس لئے منع فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ بوجھ لانے کا کام دیتے تھے اگر ان کے کھانے سے نہ روکا جاتا تو وہ سب کھائے جاتے۔ قرآن کریم نے بطور اصول سب اور مردار اور خون سے روکا ہے۔ ان کے ناپاک ہونے کی وجہ سے یا اس لئے کہ ان سے اطلاق پر اثر پڑتا ہے یا اس لئے کہ ان میں زہریں ہیں، پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو اس کی ناپاکی کی وجہ سے یا ان وجہ سے کسی اور وجہ پر منع فرمائیں تو یہ آیت قرآنی کی مزید تصریح ہوگی اس کے خلاف نہیں بلکہ یہ نافع ہی اسی اصول کے ماتحت آتی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ ورنہ ان کے کھانے سے انسانی اخلاق میں ذرہ ذرہ کا اتلا لڑی ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں:۔ ان رسول اللہ صلعم مرثیۃ مینۃ فقال ہلا استمتعتم باہا ہما کھال، قالوا انما مینۃ قال انما حرم اکھا جن حدیث میں مردار کے چمڑے سے منع کیا ہے یعنی میں ہے کہ وہ قابل اعتماد نہیں۔ پس صحیح ہی ہے کہ چمڑے سے رنگ کر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو مردوں کے چمڑے سے روکا ہے کہ اس کا فرش بنایا جائے تو یعنی میں ہے کہ شاید اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ وہ رنگا ہوا نہ ہو جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں صراحت ہے، بلکہ یہاں لفظ یوں ہیں۔ یقول مرثیۃ صلعم یعنی مینۃ فقال ما علی اھلھا لو اتفقوا باہا ہما کھال مکر روایت کے لفظ یہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلعم ما من مکھوم یکلم فی اللہ الا جاء یوم القیامہ وکلمہ یدہی اللون لون دم والرؤیہ مسک۔ یہاں کھال کا استعمال محل مرچ ہوا ہے اس لئے اس کا کھانا منع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تخفیف لفظی فرق سے دوسرا ہے، یعنی النبی صلعم قال مثل جلیس الصائم والنساء کھال العسل وناخہ الکریم، کھال العسل کھال امان یحذیک راخذ المینی اعطاء واما ان یتباع منه واما ان یجوز منہا طبیعہ وناخہ الکریم امان یحذیک

ص قیابک واما ان یجوز منہا طبیعہ۔ یہاں بھی لفظ مسک کا استعمال محل مرچ ہوا ہے، بلکہ اس کے لفظ مرچ م ۸۰۹ کے ہیں

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ أَكَلُهُ وَلَا أَحْرَمُهُ (م- ۲۹۲۵)

کرتھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گورہ کو نہیں کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ (م- ۲۰۸۷) (م- ۳۴) بَابٌ إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمَنِ

دیکھو حدیث ۲۰۸۷ باب جب بچے ہوئے گھی میں یا پھلے ہوئے میں

الْحَامِدِ أَوْ الذَّائِبِ (م- ۲۹۲۶) عَنْ مَيْمُونَةَ (م- ۱۸۸) (م- ۲۱۱۵) عَنِ الزُّهْرِيِّ

چمکا پڑے یا چمکے دیکھو حدیث ۱۸۸ زہری سے روایت ہے

عَنِ الدَّائِبَةِ تَمَوَّتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمَنِ وَهُوَ حَامِدٌ أَوْ خَيْرٌ حَامِدِ الْفَارَةِ أَوْ خَيْرِهَا

کرتھی جانور چمکے ہوئے گھی یا تیل کے ہوئے گھی میں چمکے

قَالَ بَلَّغْنَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ فَارَةٍ مَاتَتْ فِي سَمَنِ فَأَمْرٌ بِهَا

تو کہا کہ میں تجھے بھیج رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا تو جو

قُرْبٌ مِنْهَا فَطَرَحَ ثُمَّ أَجَلَ (م- ۲۹۲۶) عَنْ مَيْمُونَةَ (م- ۱۸۸)

اس کے قریب تھا اس کے متعلق حکم دیا تو وہ پھینک دیا اور پھر باقی کھا لیا دیکھو حدیث ۱۸۸

(۳۵) بَابُ الوَسْمِ وَالْعَلْمِ فِي الصُّورَةِ (م- ۲۱۱۶) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَكَرَهُ أَنْ تَعْلَمَ الصُّورَةَ وَقَالَ

یابھٹ منہ پر داغ دینا اور نشان لگانا ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے منہ پر نشان لگانے کو نہ پسند کیا اور

ابن عمر نَهَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَضْرِبَ (وَفِي رِوَايَةٍ) وَقَالَ تَضْرِبُ الصُّورَةَ

ابن عمر نے کہا کرتھی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مارا جائے اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ہمارا چمکے

(م- ۲۹۲۸) عَنْ أَنَسٍ (م- ۴۹۸) (م- ۳۶) بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَيْمَةً فَذَبَحُوا

دیکھو حدیث ۴۹۸ باب جب کسی قوم کو غنیمت مل جائے اور ان میں

بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ بِلَابًا بَعْدَ إِمْرٍ أَصْحَابَهُمْ لَمْ يُوَكَّلْ بِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ

سے بعض بکریوں اور اونٹوں کو بغیر اپنے ساتھیوں کے حکم کے ذبح کریں تو نہ کھائے جائیں ہیں کہ رافع کی حدیث میں ہے جو انہوں نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا وَسْ وَعِكْرَمَةُ فِي ذَرْبِهَا السَّارِقِ اطْرَحُوهُ

نبی صلعم سے بیان کی ہے اور طاؤس اور عکرمہ نے چور کے ذبیحہ کے بارہ میں فرمایا کہ پھینک دو

(م- ۲۹۲۹) عَنْ زُرَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (م- ۱۱۸۹) (م- ۳۷) بَابٌ إِذَا أَنْذَرَ بَعْدَ

دیکھو حدیث ۱۱۸۹ باب جب کسی قوم کا اونٹ

۲۹۲۵
۲۰۸۷
۲۹۲۶
۱۸۸
۲۱۱۵
۲۱۱۶
۴۹۸
۳۶
۲۹۲۸
۴۹۸
۳۶
۲۹۲۹
۱۱۸۹
۳۷

نے دونوں کو لے لیا ہے خواہ چاہتا ہو یا پھلے ہو یا ایک ہی حکم ہے۔ زیادہ احتیاط کے لئے گرم کر کے چھانا جا سکتا ہے۔ ۱۸۸۷ کے لغز ہیں۔ ۲۹۲۸ میں کن
داغ یا نشان تیز کر کے لگایا جاتا تھا اس لئے صورت سے مراد یہاں وجہ یا منہ یا ایک ہاتھ منہ پر مانے سے مناعت حرام ہے انسان ہو یا جانور۔ آنحضرت
صلعم نے جانور کے منہ پر مانے سے بھی منع کیا تو داغ دینے میں اس سے زیادہ اذیت ہے۔ اس میں بھی جانور پر حکم کی تعلیم ہے۔ اگے حدیث م ۲۹۲۸ میں کن
پر داغ دینے کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم نے خود داغ لگایا۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا اس کی مکرر روایت م ۲۸۷ میں ہے کہ تھیک کا ذکر گند
چکا ہے۔ یہاں صرف تھیک کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ کچھ دیا گیا ہے۔ قال دخلت على النبي صلعم باخرى ليحدثك وهو في حوض من حوضه وادبنا بانه حتى كثر له
فرايته يسبح شاة حسبه قال في اذ انما: اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے بکری کے کان پر داغ لگایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اس قسم کے معمولی کام بھی اپنے
ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ ۱۱۸۹ میں ہے کہ انہوں نے راضیوں کے سوائے اور کسی نے طاؤس کے ساتھ اس میں اتفاق نہیں کیا اور فقہاء کی جماعت اس کی اجازت
دیتے ہیں۔ ۳۷ مضمون وہی ہے الفاظ میں تو حواظ فرمیں اور جنوں کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ قال قلت للنبي صلعم اننا لنتلق العدو وغدا وليس معنا منى فقال
ما اعدو الدم وذكر اسم الله فكلوا اما لو يكن سن ولا ظفر وما حدك عن ذلك اما السن فخطم واما الظفر فمخاض الحبشة وتقدم سعوان الناس فاصابوا
من الغنم والنبية صلعم في اخر الناس فنصبوا قدروا فامر بها فاكلت وقسم بينهم وعدل بعد ابعثوا شياه ثم ندم بعد من اولئك القوم ولم يكن معهم ۳

۳ خیل شرماء رجل سبهم فبسه الله فقال ان هذه البهائم ادايد كاوايد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا

لِقَوْمٍ قَرَّمَاهُ بِبَعْضِهِمْ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ لِحَبِيرٍ رَأْفِعٍ عَنِ
بھانگ جائے اور اسے کوئی تیر لٹکے اور مارے اور اس نے اصلاح کا ارادہ کیا تو یہ جائز ہے جب کہ رافع کا ہوش

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۹۳۰) حَنْ رَأْفِعِ بْنِ خَدِيجٍ (مكرر- ۱۱۸۹)
یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے
دیکھو حدیث ۱۱۸۹

(۳۸) بَابُ أَجْلِ الْمُضْطَرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا مِنْ
باب میں جو حالت اضطرار میں ہو اسکا کھانا اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے اسے تو جو ایمان لائے ہو سہری چیزوں

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
سے کھاؤ جو تم کو دی ہیں اور اسکا کھلو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف مردار حرام کیا گیا

الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ بَيْتِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمِنْ اضْطُرِّ حَبِيرٍ بَاغٍ
اور خون اور سوز کا گوشت اور وہ جس پر لعنہ لگے ہے اور از بندگی جائے پس جو مجبور ہو جائے نہ خواہش

وَلَا عَادٍ فَلَا شَمَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فَمِنْ اضْطُرِّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مَخْصَصَةٍ لَاشَمَّ
کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی لعنہ نہیں ہے (المخمسۃ) اور فرمایا جو مجبور ہو جائے سخت بھوک میں نہ کھنے والا کٹا کی طرف

وَقَوْلُهُ فَكُلُوا مِنْهَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَنَا وَمَا لَكُمْ
اور اللہ تعالیٰ کا قول میں کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی عبادت پر ایمان لائے ہو (نہا) ۱۱۹- اور تم میں کیا ہوتا

أَنْ كَلَّاتَا كَلَّاتَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا
کراس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور جو تم پر حرام کیا ہے وہ تمہارے لئے کھول کر بیان کیا ہے

مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَيْضَلُونَ يَا هُوَ إِلَهُكُمْ يَا غَيْرِ عِلْمِ إِنْ رَبِّكَ
سوئے اس کے جس کے لئے تم مجبور ہو جاؤ اور بہت سے بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات سے گراہ کر کے ہیں اور تمہاری

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
ان کو جو زیادتی کرنے والے ہیں خوب جانتا ہے (الانعام) ۱۱۸-۱۱۹ کہو کہ میں اس میں جو میری طرف دیکھی گئی ہے کسی چیز کو جو کوئی کھانے والا

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمًّا خِنْزِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَنَجَسٌ
کھائے حرام نہیں یا ناسوائے اس کے کہ مردار ہو یا مبتلا خون یا سوز کا گوشت کیونکہ یہ ریب، ناپاک ہیں یا وہ نافرمانی

أَهْلٍ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطُرِّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جو کہ اس پر اللہ کے سوائے دوسرے کا نام لیا گیا ہو پھر جو کوئی مضطر ہو جائے نہ خواہش کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا تو تیرا رب مغفرت

قَالَ فَكُلُوا مِنْهَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ إِنْ
کہ فرمایا اگر تم نے کھلا ہے (الانعام) ۱۲۰ اور فرمایا پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے حلال تمہارا اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم

كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُونَنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا
اسی کی عبادت کرنے والے ہو تم پر صرف مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور سوز کا گوشت اور وہ

أَهْلٍ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اضْطُرِّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو پس جو مجبور ہو جائے نہ خواہش کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرنا والا ہے (سورہ بقرہ) ۱۷۳

۱۷۳
میں کچھ اختصار
کیا ہے
قال کتاب
النبی صلی اللہ
علیہ وسلم
فی سفر خدا
بعید من الابل
قال فرماہ وظ
بسمہ نجسہ
قال ثم قال
ان لها اوايد
کا وايد الوحی
خدا علیہ کرمنا
فا صد حواہ
هكذا قال
قلت یا رسول
اللہ اننا کون
فی المغازی
والاستفسار
فانید ان نذبح
فلا تکون
مذی قال
اذن ما نذروا
انهر الدم و ذکر
اسم اللہ نکل
غیر الشن و
الظفران
السن عظم و
الظفر مدی
الحبشة بانی
کرر وایتوں
میں صرف یہ ذکر
ہے کہ دشمن کا
مقابلہ کل پیش
آنے والا ہے

اور چھریاں پاس نہیں۔ یہاں ہے اننا کون فی المغازی والا سفار۔ یعنی جنگوں میں اور سفروں میں ہم ہوسکتے ہیں اور ذبح کرنے کے لئے اس وقت چھریاں پاس نہیں ہوتیں۔

(۵) بَابٌ مَنْ قَالَ لَا ضِعْفَ يَوْمِ النَّحْرِ - ۲۹۳۶ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متکثر - ۲۱۲)

باب جو کہتا ہے کہ قربانیاں یوم النحر ہی ہو سکتی ہیں

دیکھو حدیث ۲۹۳۶

(۶) بَابُ الْأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُضِيِّ (م - ۲۹۳۷) عَنْ كَثْرَةَ (متکثر - ۸۹۶)

باب قربانیاں اور عید گاہ میں نہر بانی کی جگہ

دیکھو حدیث ۲۹۳۷

(۲۱۱۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں

يَذْبَحُ وَيُخْرِجُ بِالْمُضِيِّ (۷) بَابُ فِي أَضْحِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبْسِ

ذبح اور نحر کرتے تھے

باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

دوسرا

أَقْرَبَيْنِ وَيُذَكِّرُ سَمِينِينَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ

والے دنوں کی قربانی کرنا اور بیان کیا جاتا ہے دو فریہ دنوں کی (یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے ابو امامہ بن سہل سے سنا

قَالَ لَنَا سَمِعْنَا الْأَضْحِيَةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْمِنُونَ (م - ۲۹۳۹)

کہ ہم مدینے میں قربانی کو موٹا کرتے تھے

اور سب مسلمان موٹا کرتے تھے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکثر - ۸۲۶) (م - ۲۹۴۰) عَنْ أَنَسِ (متکثر - ۸۲۶) (م - ۲۹۴۱)

دیکھو حدیث ۸۲۶

دیکھو حدیث ۸۲۶

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (متکثر - ۱۱۱۵) (۸) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۱۱۵

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

رَأَى بَرْدَةَ ضَمِيرًا بِالْحَذَرِ مِنَ السَّعْوِ وَلَنْ يَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (م - ۲۹۴۲)

ابو بردہ کو فرمایا کہ بکری کے بچے سے قربانی کرلو

اور تمہارے بعد کو کسی کو یہ کفایت نہ کرے گا

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (متکثر - ۵۶۰) (م - ۲۹۴۳) عَنْ الْبَرَاءِ (متکثر - ۵۶۰)

دیکھو حدیث ۵۶۰

دیکھو حدیث ۵۶۰

(۹) بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضْحَى بِيَدِهِ (م - ۲۹۴۴) عَنْ أَنَسِ (متکثر - ۸۲۶)

باب جو اپنے ہاتھ سے قربانیوں کو ذبح کرے

دیکھو حدیث ۸۲۶

(۱۱) بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةً غَيْرَهُ وَأَعَانَ رَجُلًا ابْنَ كَثْرَةَ فِي يَدَيْهِ وَأَصْرَ

باب جو دوسرے کی قربانی کو ذبح کرے اور ایک شخص نے ابن عمرو کے اور نفلوں کے ذبح کرنے میں مدد دی اور

۲۹۳۶ اور ایک دو اور بزرگوں کا قول ہے اکثرین کے نزدیک جن میں امام ابو نعیم مالک احمد شافعی اور جس کی روایت حضرت عمر - علی - ابن عمر ابن عباس ابو ہریرہ وغیرہ سے ہے قربانی کو دسویں ذی الحج کو بھی ہو سکتی اور اس کے دو دن بعد بھی یعنی تین دن قربانی کے دن میں اور شافعی اور بعض دوسروں کے نزدیک چار دن قربانی ہو سکتی ہے یعنی دسویں اور اس کے تین دن بعد تک - اور بھی اقوال اس میں ہیں مگر اس کے لفظ ۲۹۳۶ میں عنوان باب کا تعلق ان الفاظ سے ہے، - قال

اليس يوم النحر - مگر اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ یوم النحر کے بعد کے ایام میں قربانی نہیں ہو سکتی، - مگر یہاں لفظ یوں ہیں، - کان عبد اللہ یحرفی المنحرف قال عبد اللہ یعنی مفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لفظ م - ۵۰ کے ہیں، - مگر یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی تھی اسی کے ایک طرف ذبح کر سکتی تھی اور سب قربانیاں وہیں پڑھی جاتی تھیں سب قربانیوں کے ایک جگہ ہونے میں جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ عظیمہ علیحدہ گھروں میں ہونے میں نہیں ہو سکتا، - یہ ۵۳ کے آخری جملہ کا مضمون ہے اور ۶۰ سے بھی کم ہے، - کان النبی صلعم یعنی بکبشین، - وانا اضحی بکبشین، - مگر یہ بھی پھیل کر روایت کی طرح ہے لفظ یہ ہیں، - ان رسول اللہ صلعم انکفا الی بکبشین اقرنین املین رجب کی سفیدی میں سیاہی لی ہوئی تھی، - فذبحہما بیدہ، - مگر لفظ اللہ کے ہیں، - مگر یہاں لفظ یوں ہیں، - قال صحیحی خالی یقال لہ ابو بردة قبل الصلاة فقال لہ رسول اللہ صلعم شاک شاک شاک فقال یارسول اللہ ان عندی داجنًا جذعة من المعز قال اذبحها ولن تصلم لغیرک ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانهما یذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقتل ثم نسلكه واصاب سنة المسلمين، - مگر یہاں بھی اختصار اور نفلوں میں فرق ہے، - قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال لہ النبی صلعم ابدل لہا قال لیس عندی الا جذعة قال شعبة واحسبہ قال ہی خیر من مسنة قال اجعلها مکانها ولن تجزی عن احد بعدک روفی روایت عتاق جند عتاق، - مگر یہاں روایت مختصر ہے، - قال صحیحی النبی صلعم بکبشین املین فراثہ واضعاً قدمہ علی صفا حمارا کے نفلوں کی ایک جانب پر بیٹھی دیکھو فذبحہما بیدہ، -

۲۹۴۵ (م-۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَدَأَ الرَّسُولُ يَوْمَ يُرْفَعُ أَعْيُنُ عِبَادِهِ حَسِبَ لَهُ أَنْ يَخْلُقَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَمَّا رَأَى عَرْشَ رَبِّهِ فَيَقُولُ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ مَبْرُورٌ بِيَوْمِئِذٍ وَمَنْ يَمُرْ بِكَ فَتَرَكَكَ فَإِنْ أَدْبَرَ فَتَفَمَّنْ فَإِنْ آوَى فَمَنْعَكَ وَإِنْ آوَى فَتَفَمَّنْ	ابو موسیٰ بنایتہ آن یضحیٰ بن پاید ہون (م-۲۹۴۵) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَتِكَ
۲۹۴۶ (م-۱۱) بَابُ الَّذِي جَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ (م-۲۹۴۶) عَنْ الْبَرَاءِ (م-۲۹۴۶)	ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کریں
۲۹۴۷ (م-۱۲) بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ (م-۲۹۴۷) عَنْ أَنَسٍ (م-۲۹۴۷)	باب الذي جاء بعد ذبح كرمنا
۲۹۴۸ (م-۱۳) بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى الذَّرْبِجَةِ (م-۲۹۴۸)	بابك جو نماز سے پہلے ذبح کر لے وہ دوبارہ کرے
۲۹۴۹ (م-۱۳) بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى الذَّرْبِجَةِ (م-۲۹۴۹)	بابك جو نماز سے پہلے ذبح کر لے وہ دوبارہ کرے
۲۹۵۰ (م-۱۳) بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى الذَّرْبِجَةِ (م-۲۹۵۰)	بابك ذبح کے دن کے ایک جانب پر قدم رکھنا
۲۹۵۱ (م-۱۴) بَابُ الْكَبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ (م-۲۹۵۱)	بابك ذبح کے وقت اشتر اکبر کنا
۲۹۵۲ (م-۱۵) بَابُ إِذَا بَعَثَ هَدْيَهُ لِيُدْبِحَ لَمْ يَحْرَمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ	بابك جب اپنی قربانی بھیجے تاکہ اسے ذبح کر جائے تو اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی
۲۹۵۳ (م-۱۶) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ حَوْمٍ	بابك قربانیوں کے گوشت میں سے جو کھا جا جائے
۲۹۵۴ (م-۱۷) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ حَوْمٍ	بابك قربانیوں کے گوشت میں سے جو کھا جا جائے
۲۹۵۵ (م-۱۸) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ حَوْمٍ	بابك قربانیوں کے گوشت میں سے جو کھا جا جائے
۲۹۵۶ (م-۱۹) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ حَوْمٍ	بابك قربانیوں کے گوشت میں سے جو کھا جا جائے
۲۹۵۷ (م-۲۰) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ حَوْمٍ	بابك قربانیوں کے گوشت میں سے جو کھا جا جائے

۱۔ ابتدائی حضرت
۲۔ حضرت تک چھو
۳۔ کر باقی حدیث کو
۴۔ انہی الفاظ میں دہرایا
۵۔ ہے عنوان باب
۶۔ کا تعلق آخری باب
۷۔ الفاظ سے
۸۔ وضع رسول اللہ
۹۔ صلح عن نسائه
۱۰۔ بالبرکات اور
۱۱۔ کی طرف قربانی
۱۲۔ کرنا جائز ہے
۱۳۔ صلح عن نسائه
۱۴۔ قال سمعت النبي
۱۵۔ صلح عن نسائه
۱۶۔ ان اول ما بدأ
۱۷۔ من يومنا هذا ان
۱۸۔ نصلح عن نسائه
۱۹۔ فنحن من فعل
۲۰۔ هذا فقد اصاب
۲۱۔ سنتنا ومن غير
۲۲۔ فانما هو لحم
۲۳۔ يقدمه لا أهله
۲۴۔ ليس من الشك
۲۵۔ في شيء فقال
۲۶۔ ابو بردة يارسول
۲۷۔ الله ذهبت قبل
۲۸۔ ان اصلي عندك

جذوة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها وان تجوزي اذ تكوني عن احد بعرك ، مثل قربان انى الفاظ میں : دوہرا کر آخر پڑھا یا ہے ۔ ثم انكفنا الا
کیشن یعنی ذبحنا ثم انكفنا الناس انى غلظة فذبحوا ، مسلم ۳۳۰۳ ، جذوب کی روایت ہے اور واقعہ وہی ہے جو برائے عشاء میں بیان کیا
ہے مگر یہاں بہت اختصار ہے ۔ قال شهدت النبي صلح يوم النحر فقال من ذبح قبل ان يصلي فليصلي مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح معي
الفاظ میں کچھ تفسیر ہے ۔ قال صلح يوم النحر فقال من ذبح قبل ان يصلي فليصلي مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح معي
يارسول الله فقلت فقال هو شيء عجلته قال فان عندى جمل عة هي خير من مسنتين اذ يهتبا قال نعم ثم لا يخفى عن احد بعدك قال عامر بن
سیدئکہ ، يك لفظ قریباً م ۲۹۴۷ کے ہیں مگر یہی یکر یہاں نہیں ہے ۔ يك لفظ قریباً م ۲۹۴۷ کے ہیں ۔ مثل بشرق کی روایت حضرت عائشہ سے ہے اور
م ۲۹۴۷ سے کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ آئی ہے ۔ انہی ای عائشہ فقال لہا یا ام المؤمنین ان رجلاً بیعت بالهدی الى الکعبة و بیعت فی المصنوعی
ان تغد بانہ فلا یزال من ذلك اليوم عروماً حتى یلوا الناس قال فسمعت تصدقہا را تعہد ما تمہ ما رنا من وراء الحجاب فقالت لقد كنت اقل قلائد
ہدی رسول الله صلح بیعت ہدیہ الی الکعبۃ فذبحہ علیہ ما سأل الرمال عن اهلہ حتى جمع الناس ، مک یہاں لفظ یوں ہیں ۔ قال کتابتہ لحدوم
الاضاحی علی صلح الی المذبحہ وقال ابو بردة صحابہ الیہ م ۲۹۴۷ کی کچھ تفسیر ہے ۔ انہ کان غائباً فقام فقام الیہم قال وهذا

کچھ ضمیمہ یا تھا ان آخر کی روایت سے ہے ۔ انہ کان غائباً فقام فقام الیہم قال وهذا

عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَأَذْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ

آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ کیونکہ اس سال لوگوں کو تکلیف تھی

جَهْدًا فَارَدْتُ أَنْ تَعِينُونِي فِيهَا (م- ۲۹۵۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۲۹۹۴)

تیرے نے چاہا کہ تم ان کی مدد کرو۔ اور کچھ حدیث ۲۹۵۵

(۲۱۱۸) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى بِنِ زُهْرَةَ أَنَّهَا شَهِدَتْ لِعَبْدِ

زہری سے روایت ہے کہ زہرہ سے ابو عبیدہ مولیٰ بن زہرہ نے بیان کیا کہ وہ انہی کے دن حضرت

يَوْمَ الْأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ

عمر کے ساتھ عید میں موجود تھے تو انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر

خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ

لوگوں کو خطبہ سنایا اور فرمایا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ان دونوں

عَنْ صِيَامٍ هَدَيْنَ الْبُعِيدِينَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِ مَكَّةَ وَأَمَّا

عیدوں کے روزے سے منع فرمایا ہے ان دونوں میں سے ایک تو تمہارے روزہ سے افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا

الْآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُمَانَ بْنِ

ایک دن ہے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو وسط ابو عبیدہ نے کہا پھر میں حضرت عثمان کے ساتھ موجود تھا

حَقَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا

اور یہ جمعہ کا دن تھا انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ سنایا اور فرمایا اے لوگو

النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ

یہ ایسا دن ہے کہ اس میں تمہارے دنے دو عیدیں جمع ہوئیں تو جو شخص اہل عیال میں سے بند کرے

الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَتَنَظَّرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَدْنَتْ لَهُ قَالَ

کہ جمعہ کا انتظار کرے تو انتظار کرے اور جو بند کرے کہ لوٹ جائے تو میں نے اسے اجازت دیدی ہے

أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ

ابو عبیدہ نے کہا پھر میں حضرت علی کے ساتھ عید میں موجود تھا انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر لوگوں کو

النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَوْشَ

خطبہ سنایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرمایا ہے کہ تم اپنی قربانیوں کے گوشت کو

نُسُكِكُمْ فَوَقَّ ثَلَاثًا (م- ۲۱۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

تین دن سے زیادہ کھاؤ نہ کرو۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمُوا مِنْ الْأَضْحَى ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا تین دن کھاؤ نہ کرو اور عبد اللہ بن عمر نے تین دن کے

بِأَكْلِهَا بِالنَّيْتِ حِينَ يَنْقُرُ مِنْ قَمِيٍّ مِنْ أَجْلِ حُومِ الْهَدْيِ

ساتھ (روٹی) کھاتے تھے جب نائے نکلتے اس لئے کہ گوشت قربانی کا ہوتا تھا

یعنی گوشت کا ذخیرہ نہ کرو بلکہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ ان کی مدد ہو جائے تو تین دن والا حکم گویا ایک خاص وجہ سے تھا اس میں نظر انداز نہیں۔ قالت الضحیة کما فیہ منہ متفقاً بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة فقال لا تأکلوا الاضاحیة ایام ولیدست بعزیدة یعنی یہ واجب نہیں تھا اور یہ نبی تحریم نہ تھی بلکہ لہذا اہل بیت علیہم السلام اعلموا اس روایت کا یہ پہلا حصہ اختصار کے ساتھ بیان میں گذر چکا ہے۔ حضرت علی کو وہ دوسری روایت نہیں پہنچی جس کا وہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توشہ بنانے یا ذخیرہ کرنے کی اجازت دی تاکہ ایسی ہی ضرورت ہوگی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۱۱۸ میں فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف تھی تو میں نے حکم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہ کھا جائے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر کے نوٹ میں ہوا۔

کتاب الاشریہ شراب
کی جمع ہے جو چیز
جڑنی جائے
ملا بہشت کے ذکر
میں آتا ہے۔
انہما من غمر لذاتہ
للشاربین تو
عیسا کہ بہشت کی
تمام نعمتیں اس
دنیائی نعمتوں سے
اگلی چیزیں ہیں
بہشت کی نعمتوں
دنیائی نعمتوں سے
کوئی تعلق نہیں
لیکن نام میں بہشت
ہے اس لئے کہ
یہاں بھی غمر سے
سرور تلاش کیا
جاتا ہے گو وہ ملت
نہیں تو وہاں جس
چیز سے انسان کو
واقعی سرور حاصل
ہوگا وہ اس لحاظ
سے وہاں کی غمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اشربے انتہارحم والے

بار بار رحم

کہیوالے کے نام سے

۷۴۔ کتاب الاشریہ

پینے کی چیزوں کی کتاب ۷۴

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْرَابُ وَكَانَ لِمَنْ شَرِبَهُمْ مِنْكُمْ

اور مشرک کا قول شراب اور جوا اور بہت اور باسے ناپاک ہیں شیطان کے کام سے

عَمِلَ لِلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۲۱۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

سواس سے بچنا کہ تم کا مایاب ہو (المائدہ-۱۹) جہدا شرابین عمر سے روایت ہے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كَمْ حُرِّمَ عَلَيْهَا شَرَابٌ

فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَبْ يَنْبِ مِنْهَا حُرْمَتَانِ فِي الْآخِرَةِ (م-۲۹۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر)

پھر اس سے تو یہ نہیں کرے گا تو آخرت میں اس سے محروم ہوگا ۷۴

۱۵۲۹ (م-۲۹۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲۹۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۵۲۹)

دیکھو حدیث ۳

(مكرر-۱۲۸۰) بَابُ الْخَمْرِ مِنَ الْعَيْبِ (م-۲۹۵۹) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مكرر)

دیکھو حدیث ۱۱۸۰ باب انگور سے شراب بنتی ہے ۷۴

۱۹۱۳ (م-۲۱۲۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۹۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۹۱۳)

اس سے روایت ہے کہ شراب ہم پر حرام ہوئی جب حرام ہوئی اور ہم نے

۷۴۔ وہ کیا چیز ہے اس کا علم خدا کو ہی ہے کیونکہ بہشت کی ہر نعمت مالا عین رات دلا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر کے مصداق ہے ۷۴
۱۵۲۹ کا ابتدائی حصہ میں پچھلا حصہ کی قدر تفسیر لفظی کے ساتھ دوہرا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم ابی لیلۃ اُسمری بہ بالیلہ بقدر حین من خمر
ولبن فنظرو الیہما ثم اخذا اللبن فقال جبریل الحمد لله الذی ہذاک للفرطه ولواخذت الخمر غوت امتک۔ اس میں خمر کو فرط کے خلاف
قرار دیا ہے۔ اس سے گواہی وقت سرور تو حاصل ہوتا ہے مگر اس کا رومل بہت بڑا ہوتا ہے فخرت امتک میں یہ اشارہ ہے کہ شراب کی وجہ سے
قوم گمراہی میں بہت روز لگ جاتی ہے جیسے عیسا تیروں کی حالت ہونی چاہئے ۷۴ کے لفظ میں دس عرب الخمر میں بڑھا یا ہے جو وہاں ۳۳ میں نہیں
بلکہ ۷۴ میں ہے یعنی جب شراب زیادہ پی جائے تو یہ ایک قوم کی تباہی کے اسباب میں سے ہے ۷۴ پہلے تین جملے تو عین اسی طرح ہیں۔ ان النبی صلعم
قال لا یزنی حین یزنی وهو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن۔ اور آخری جملہ ایک
روایت کی رسمے یوں ہے۔ ثم یقول کان ابو بکر یختم معہن ولا ینتھب نھمة ذات شرف وشرف سے مراد عالی مرتبہ ہے یعنی طاہرین کا اور علو فقہار
کر کے لوگوں کا مال لیتا ہے) یوفع الناس الیہ ابصارہم (لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ناحق مال لیتا ہے مگر انہیں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں) فیہا حین
ینتھبھا وهو مومن ۷۴ بعض لوگوں نے الخمر من العیب کے معنی یوں کئے ہیں کہ غمروہ ہے جو انگور سے بنے یعنی جھر کیا ہے گویا پانی شراب کو خمر کہنا صحیح
نہیں یہ بالبداہت غلط ہے کیونکہ حدیثوں میں اگے صاف آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو مدینہ میں انگور کی شراب ہوتی ہی نہ تھی یا تھی تو بہت
تقلیل۔ پس اگر صرف انگور کی شراب کی حرمت نازل ہوئی ہوتی تو اہل مدینہ شراب کے ٹکڑوں کے ٹکڑے کیوں نہ کھاتے اور آگے ایک باب کا عنوان آتا ہے الخمر
من العسل یعنی شہد سے شراب بنتی ہے ۷۴ مگر یہاں اختصا ہے لہذا حرمت الخمر وما بالبداہت ہمتھا شہنی شراب حرام ہوئی اور مدینہ میں یہ کوئی نہ تھی اس سے یہ
مطلب نہیں کہ مدینہ میں مطلق شراب نہ تھی بلکہ انگور کی شراب نہ تھی شہد کا لفظ کو خصوصیت سے انگور کی شراب پر بولا گیا ہوگا اس کے معنی میں وصحت ہے۔
۱۹۱۳ جس کی یہ مکرر روایت ہے اس میں صاف مذکور ہے کہ مدینہ میں پانچ قسم کی شراب تھی مگر انگور کی شراب نہ تھی ۷

يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ خَمْرُ الْأَعْنَابِ الْأَقْلِيلِ وَأَعَامَةٌ خَمْرُنَا الْبَسْمُ وَالْخَمْرُ -

میں انگور کی شراب پڑھتے تھے مگر بہت کم اور ہماری اکثر شراب بھی اور خشک کھجور کی بھی تھی۔

۲۹۶۰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۹۱۳) بَابُ تَنْزِيلِ خُرَيْمِ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبَسْمِ

دیکھو حدیث ۱۹۱۳ بابت شراب کی حرمت نازل ہوئی اور وہ اس وقت بھی درست تھی۔

وَالْخَمْرُ - ۲۹۶۱ عَنْ أَبِي بَرْزَاءِ (مُتَكَرِّرًا) (۱۱۷۵) (ر) - ۲۹۶۲ عَنْ أَبِي

کھجور سے تھی دیکھو حدیث ۱۱۷۵

(مُتَكَرِّرًا) (۱۱۷۵) (ر) - ۲۹۶۳ عَنْ أَبِي بَرْزَاءِ (مُتَكَرِّرًا) (۲۱۲۰) (س) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۱۷۵ دیکھو حدیث ۲۱۲۰ بابت

الْخَمْرِ مِنَ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبَيْتَعُ وَقَالَ مَعْنَى سَأَلْتُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَاهِ

شہد سے شراب بنتی ہے اور وہ بیع ہے اور میں نے کہا میں نے مالک بن انس سے فقہاء کے متعلق پوچھا

فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكَرْ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الدَّرَادِ رَدِّي سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا

تو کہا کہ جب نشہ نہ لے تو کوئی ہرج نہیں ہے اور ابن دراد نے کہا ہم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا

يُسْكَرُ لَا بَأْسَ بِهِ (ر) - ۲۹۶۴ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۹۱۳) (ر) - ۲۹۶۵

تشریح یہ ہے کہ کوئی ہرج نہیں ہے دیکھو حدیث ۱۹۱۳ دیکھو حدیث ۱۹۱۳

عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۹۱۳) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَاءِ أَنَّ

دیکھو حدیث ۱۹۱۳ اور زہری سے روایت ہے کہ مجھ سے انس نے بیان کیا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتَمِدُوا فِي الدُّبَابِ وَلَا فِي الْمَرْزِقِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ دو میں نمید نہ بناؤ اور نہ رال والے روغنی برتن میں

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُيَقِّنُ مَعَهَا الْحَنْمَ وَالْتِقَادَ (س) بَابُ مَا جَاءَ فِي آتِ

اور ابو ہریرہ اس کے ساتھ ہر گھڑے اور کھجور کی کبری کڑھی بھی ملاتے تھے۔

الْخَمْرِ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ (ر) - ۲۹۶۶ عَنْ ابْنِ جُمَيْرٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۹۱۳)

شراب وہ پینے کی چیز ہے جو عقل کو ڈھانکے دیکھو حدیث ۱۹۱۳

بَدَأَتْ كَمْ تَقِي أَمِي كُوْنَهُ جَوْنًا قَرَارًا وَبِأَيِّ جَمِي أَسِي قَدْرُ كَمْ تَقِي كَمَا اس کا وجود عدم وجود کی طرح تھا۔ اور یا جیسا کہ ۲۹۶۶ میں مذکور ہے۔ ایک روایت میں

عَنْبُ كِي جَلْبُ زَبِيْبُ هِي - وَهِي رَوَايَةُ دَرَسْتِ سَلِيْمُ كِي جَاءَتْ م. ۲۹۶۷ مِ يَحْيَى زَبِيْبُ كِي رَوَايَةُ لِي كِي هِي - يَحْيَى عَنبُ كِي جَاءَتْ زَبِيْبُ هِي

اور آخر یہ واضح ماخراہ العقل کہ کہ اسے اور بھی وسیع کر دیا جو چیز نشہ دہی خمر ہے، لفظ کر روایت مختصر ہے مگر اس میں کچھ ناموں کی تصریح ہے

قال كنت اسفة انا عبدة تارة واطلحة واني بن كعب من فضيلة زهو وتمر فناء هم ات فقال ان الخمر قد حرمت فقال اطلحة فتم يا انس فاهرقها

فاهرقها بله يه مكرروا رواية اختلاف الفاظ من آني ه: قال كنت قاشما على الحى اسقيهم مومهي زكيب يور ه قاشما على الحى على

عمرهتي قبيبه كي خدمت كر رها تها يعني اسے سچيؤں كي) وانا اصغرهم الفضيلة ربريا كجي كجور كي شراب) فقيل حومت الخمر فقالوا اكنفها فلما قانا

قلت لاش ماشرا اهم قال رطب ويسوق قال ابو بكر بن انس وكانتم فلم ينكر اش ه لك ييا همت اختصار ه: ان الخمر حومت و

الخمر يومئذ اليسو والتموه ملا ييا ه ابترا ييا ه بڑھيا ه: قالت سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتم اس ك بعد ۱۹۱۳ ورواها

ه: كل شراب اسكو فهو حرام جو پينے كي چیز نشہ دہي وه حرام ه: لك ييا كچھ تفصيل اور بڑھيا ه: قالت سنل رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن البتم وهونين العسل وكن اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكو فهو حرام ه: ان برتنوں

ميش شراب بنتي تھی - تو چونکہ انہي برتنوں ميش بنيد بنانے سے ايک اشتباہ واقع ہوتا تھا اس لئے وقتي طور پر يكم ديا ه ۱۹۱۳ کو والخمر ماخراہ العقل تک

انہي الفاظ ييا وه مبر كر بڑھيا ه: وثلاث وودت ان رسول الله صلعم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهد الجحد (رواكي وراشت كاشه والكلالة راس

كا تعلق بھی سلك وراشت ه ه: و ابواب من ابواب الربا قال قلت يا ابا جرح ورضي يعصم بالسند (ملك سدھه ييا) من الرزدي چا نويس) قال ذانك

يكن على عهد انبي صلعم او قال على عهد عمر روفى رواية) مكان العنب الزبيب +

اس نے پہلی حدیث کے طلب کو واضح کر دیا یعنی مدینہ میں انگور کی شراب تھی اور چیزوں کی شراب تھی۔ قریب انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ پانچ مختلف چیزوں سے شراب بنانے کا ذکر ہے۔ انگور، کھجور، شدہ بیوں، جو بیوں۔ ذکر ہے کہ مدینہ میں انگور کی شراب تھی تھی اور ۱۹۱۳ میں سے کہ پانچ چیزوں کی شراب تھی جن میں انگور کی شراب ز قہن تو اس تضاد کی تشریح ۲۱۲۰ سے ہوتی ہے۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ انگور کی شراب

(م- ۲۹۶۷) عن ابن عمر مکرر متکرم - (۱۹۱۲)

دیکھو حدیث ۱۹۱۲

(۵) بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ (۲۱۲۱)

بَابُ جِوَارِ كَيْفَ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَاسْمُهَا كَمَا نَامَ فِيهَا

عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو عامر یا ابومالک اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

يَقُولُ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِضَ

فرماتے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں اور شراب کو گانے بجانے کو حلال

وَلِيُزْنَنَ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَبْرُؤُهُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ بِأَيْتِهِمْ يُعْنَى الْقَبِيحَاتُ

بھیجے گا اور کچھ لوگ بلند ہمارے پہلو میں اتریں گے ان کے پوشی شام کو چرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے تو ان کے پاس کوئی محتاج

لِحَاجَةٍ يَتَعَوَّلُوا رِجْعَ الْبِنَاءِ أَذَى عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَسْمِيهِ الْآخِرِينَ

کسی حاجت کے لئے جائے گا تو کہیں گے کل بھالے پاس پھر ان اقوات کو استرا نہیں ہلاک کر دیگا اور بیادان پر رکھنے گا اور اوروں کو

قَرْدَةٌ وَخَنَازِيرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (۶) بَابُ الْإِنْتِيَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالنَّوْرِ

سُورٍ أَوْ مَرْدٍ بِمَا كَرِهَتْ تَمَكُّ ذَيْلِ كَرْتَارِ هِيَ كَالْمَلَأَ بَابُ بَرْتَنُورِ أَوْ كَرْتَارِ فِي سَبِيذِ نَانَا

(م- ۲۹۶۸) عَنْ سَهْلِ (م- ۲۰۴۰) بَابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

دیکھو حدیث ۲۰۴۰ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالنَّظْرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ (۲۱۲۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

برتنوں اور نظروف کے بارہ میں مناعت کے بعد اجازت دینا جابر سے روایت ہے

عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّظْرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے مناعت کی تھی تو انصار نے عرض کیا

إِنَّهُ لَا بَدَ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا رَأْيَ

کہ اس کے بغیر ہمیں چارہ نہیں تو فرمایا تب مناعت نہیں

پراٹھیں چنانچہ ان میں سے ایک سزا کا فرمان الفاظ میں ہے۔ ۱۔ ویسوخ الآخین قردة وخننازیر الی یوم القیامہ یعنی جیسا یہودیوں کے متعلق قرآن شریف میں ذکر ہے وجعل منهم القردة و الخنازیر المانہ۔ ۲۔ ایسا ہی مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ سُور اور بدتر بن جائیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے عینی میں لکھا ہے ویجتمل ان یکون کنایۃ ان تبدل اخلاقهم۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اخلاق کی حالت گر جائے سے کہ یہ ہو۔ اور کوئی شخص جو غلو کی نگاہ سے دیکھے گا اسے صاف معلوم ہو جائیگا کہ کس قدر مسلمانوں کے اخلاق گر گئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ روز بروز پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی تعمیر یا یا بلند کام ان کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ اس تشریح کی تائید میں عینی میں ہے۔ وقد جاهد فی الحدیث ان القرآن یرفع من الصدود وان الخشوع والامانة ینزعان منهم ولا یسوغ الاثر من هذا۔ اس کے بعد ایک روایت بیان کی ہے جو سعید بن مسعود کی کتاب میں ابو ہریرہ سے ہے جو فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ۱۔ یسوخ قوم من امتی اخر الزمان قردة وخننازیر قالوا یا رسول اللہ وشهدنا انک رسول اللہ وان لا اله الا الله۔ قال نعم ویصلون ویصومون ویحجون اور نوادر ترمذی کی ایک حدیث بیان کی ہے جو ابوامامہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلعم تکون فی امتی فرقة فیصد للناس الی علما ثم فاذا هم قردة وخننازیر یعنی میری امت میں ایک سخت گھبرائت یا مہمیت ہوگی تو لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے تو انہیں ان کو بندر اور سُور پائیں گے۔ مگر مکرر روایت کے لفظ قریباً وہی ہیں فی تود کا لفظ نازہ ہے جس سے عنوان باب ہے مجبوروں کا رس جو آنحضرت صلعم کو پلایا یا اسی میں بتایا گیا تھا۔ فلما اکل سقته کے لفظ یہاں نہیں ہیں۔ یہ انہی برتنوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے جن میں شراب بنائی جاتی تھی تو اشتباہ کی وجہ سے ان کے استعمال سے روکا لیکن جب انھار نے عرض کیا کہ اس کے بغیر ہمارا گذر نہیں تو اپنے اجازت دیدی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکام صرف وقتی تھے اور بعض صرف برنظر احتیاط تھے ورنہ حقیقی حرمت ان کے نیچے نہ تھی۔

۱۔ یہ مکرر روایت ہے۔
۲۔ مختصر ہے۔ عن ابن عمر
۳۔ قال الخیر یصلعم
۴۔ من خمسة من
الزبیب والتبر
والحنطة والشعیر
والعسل ۱۹۱۲
۵۔ بن جن پانچ چیزوں
کا نام لیا ہے ان
میں ایک عتب ہے
۶۔ یاں اس کی بجائے
زبیب ہے۔ باقی
سب چیزیں ہی ہیں
۷۔ حلا مرغی فرج
ہے اور طلب یہ
کرنا کہ حلال
سمجھیں گے۔
۸۔ اس حدیث
میں بتایا ہے کہ
آنحضرت صلعم کی
امت یعنی مسلمان
بھی وہ سب کچھ
کریں گے جو پہلی
امتوں نے کیا اور
ان پر بھی ہی ہمزہ ہیں
۹۔ انہیں گی جو پہلی امتوں

(۲۹۶۹-۲۹۷۰) عَنْ جَابِرٍ (متکرم ۲۱۲۲) (۲۱۲۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

دیکھو حدیث ۲۱۲۲ ط عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے

قَالَ لَتَأْتِيَنَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قَبْلَ لَيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکینوں کی وجہ سے دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے سے اجازت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَّخَصَ لَهُمْ فِي الْجِرِّ غَيْرِ الْمَرْفِطِ (۲۱۲۴) عَنْ

عرض کیا گیا کہ سارے لوگ مشک نہیں رکھتے تو انہیں گھڑوں میں رہانے کی اجازت دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى لَيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّابَّاءِ وَالْمَرْفِطِ (۲۱۲۵)

علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کے توئے اور دروغنی برتن سے روکا گیا

۲۹۷۰ عَنْ عَلِيٍّ (متکرم ۲۱۲۲) (۲۱۲۵) عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوِ دَهْلٌ

دیکھو حدیث ۲۱۲۲ ط ابراہیم سے روایت ہے کہ اس نے اسود سے کہا

سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا لَيْكُرُهُ أَنْ يُتَّبِعَ دِينَهُ فَقَالَتْ فَعَمَّ قُلْتُ يَا أُمَّ

کہ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جس چیز میں تم سیدنا بنا لیں گے کیا جاتا تھا اس کے ناماں میں سے کہا ام المؤمنین

الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّبَعَ دِينَهُ قَالَتْ نَهَانِي ذَلِكَ

کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ اس میں نبیذ بنا یا جائے کہا آپ سے ہمیں بیت کو اس

أَهْلَ لَيْلِي أَنْ يُتَّبَعَ دِينِي الدَّابَّاءِ وَالْمَرْفِطِ قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتِ الْجِرَّ وَالْحَنْمَ قَالَ

میں یہ اجازت کی ہے کہ دو کو توئے اور دروغنی برتن میں نبیذ بنائیں مجھ میں نے کہا کہ آپ گھڑے اور دروغنی کا ذکر

رَأَيْتُمَا أَحَدًا ثَلَاثًا مَا سَمِعْتُ أَحَدًا حَدَّثَ مَا لَمْ أَسْمَعْ (۲۱۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں آپ بیان کر رہی ہوں جو میں نے سنا یا دیکھا یا سنا کر بیان کر رہا ہوں میں نے نہیں سنا

أَوْ فِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى لَيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ

کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کے گھڑے سے روکا تو میں نے عرض کیا

الشَّرْبِ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا (۸) بَابُ نَقِيحِ الثَّمَرِ مَا لَمْ يُسْكَبْ (۲۹۷۱-۲۹۷۲)

کی سفید میں زبید بنا کر پی یا کرس تو فرمایا نہیں بلکہ بابت گھور کار میں جب تک نشہ نہ دلائے

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم ۲۰۴۰) (۲۰۴۱) بَابُ الْبَاقِ وَمَنْ شَمِي عَنْ كُلِّ مُسْكَبٍ

دیکھو حدیث ۲۰۴۰ ط بابت باقی باقی اور جس نے ہر ایک کو پی جانے والی چیز سے

مَنْ الْأَشْرِبِ وَذَائِي عَمْرُو أَبُو عَيْدَةَ وَمَعَاذُ شَرِبِ الظَّلَاءِ عَلَى الثَّلَاثِ وَشَرِبِ

روکا جس سے سکر پیدا ہو اور حضرت عمر ابو عبیدہ اور معاذ نے ظلاً کا پینا جب تالی رہ جائے جائز سمجھا ہے

۲۱۲۳ اس کی وجہ بیان ہو چکی ہے ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ لیکن میں صرف دوسری سند اس حدیث کی بیان کی ہے۔ ۲۱۲۴

عائشہ کو بھی جیسا کہ ۲۱۲۳ میں ذکر ہے اٹھایا گیا۔ ملا یعنی رنگ سے فرق نہیں پڑتا۔ سبز گھڑا عام طور پر استعمال میں تھا۔ ۲۱۲۵ اس کے لفظ ۲۹۶۸

کی طرح ہیں۔ ۲۱۲۶ باذق فارسی بادہ کا معرب ہے اور یہ خر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس شراب کو باذق کہا جاتا ہے جو انگوروں کا رس نکال

کر اسے پکا جائے اور اس میں سکر پیدا ہو جائے الباذق الثلث وہ ہے جسے اس قدر پکا جائے کہ دو تمانی اڑ جائے اور ایک تمانی نہ جائے۔ اور یہ

حرام اس صورت میں ہے جب اس میں سکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ۲۱۲۷ یعنی میں ہے کہ نام مالک نے موطا میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت عمر شام

میں تشریف لے گئے تو اہل شام نے وہاں کی وبا کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہمیں ظلاً واقف آتا ہے تو آپ نے کہا شہد یون انوں نے کہا میں موافق نہیں آتا تب

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں آپ کو یہ بنا کر دکھانا ہوں۔ چنانچہ وہ بنا کر لایا تو حضرت عمر نے یہ اطمینان کر کے کہ اس میں سکر نہیں اس کی اجازت دی۔ اس کی

اجازت بھی بعض احادیث میں ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس میں سکر ہو۔

۲۱۲۳ اس کی وجہ بیان ہو چکی ہے ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ لیکن میں صرف دوسری سند اس حدیث کی بیان کی ہے۔ ۲۱۲۴
عائشہ کو بھی جیسا کہ ۲۱۲۳ میں ذکر ہے اٹھایا گیا۔ ملا یعنی رنگ سے فرق نہیں پڑتا۔ سبز گھڑا عام طور پر استعمال میں تھا۔ ۲۱۲۵ اس کے لفظ ۲۹۶۸
کی طرح ہیں۔ ۲۱۲۶ باذق فارسی بادہ کا معرب ہے اور یہ خر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس شراب کو باذق کہا جاتا ہے جو انگوروں کا رس نکال
کر اسے پکا جائے اور اس میں سکر پیدا ہو جائے الباذق الثلث وہ ہے جسے اس قدر پکا جائے کہ دو تمانی اڑ جائے اور ایک تمانی نہ جائے۔ اور یہ
حرام اس صورت میں ہے جب اس میں سکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ۲۱۲۷ یعنی میں ہے کہ نام مالک نے موطا میں یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت عمر شام
میں تشریف لے گئے تو اہل شام نے وہاں کی وبا کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہمیں ظلاً واقف آتا ہے تو آپ نے کہا شہد یون انوں نے کہا میں موافق نہیں آتا تب
ایک شخص نے عرض کیا کہ میں آپ کو یہ بنا کر دکھانا ہوں۔ چنانچہ وہ بنا کر لایا تو حضرت عمر نے یہ اطمینان کر کے کہ اس میں سکر نہیں اس کی اجازت دی۔ اس کی
اجازت بھی بعض احادیث میں ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس میں سکر ہو۔

(۲۱۳۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حَمِيدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّعِيجِ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ابو حمید دودھ کا ایک پیالہ نعج سے لایا

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تَحْمَرُّهُ وَلَوْ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْكَ عُوْدًا

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے ڈھانکا کیوں نہیں گواس پر کھڑکی ہی رکھ دیتے

(م- ۲۹۷۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۲۹۷۷) عَنْ الْبَرَاءِ (م- ۱۱۶۰) قَالَ

دیکھو حدیث ۲۱۳۰ م دیکھو حدیث ۱۱۶۰ م

(م- ۲۹۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۳۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۲۹۷۹) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۲۳۳ م دیکھو حدیث ۲۹۷۹ م

(م- ۱۱۷۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- ۲۵۲۲) (۱۲) بَاب

دیکھو حدیث ۲۵۲۲ م بابل

اسْتَعْذَابُ الْمَاءِ (م- ۲۹۸۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- ۲۵۲۲) (م- ۷۸۳)

دیکھو حدیث ۷۸۳ م

(م- ۱۱۳۲) بَابُ شُؤْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ (م- ۲۹۸۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- ۲۵۲۲) (۱۱۳۲)

دیکھو حدیث ۱۱۳۲ م دودھ کو پانی کے ساتھ ملانا

(م- ۲۱۳۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انصار میں سے ایک شخص کے ہاں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا

وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بِأَتِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَتَاةٍ وَإِلَّا كَرِهْنَا قَالَ الرَّجُلُ خُذْ

اگر آپ کے پاس ایسا پانی ہو جو اس رات مفکیزہ میں رہا ہو تو بستر و درازہ نہ لگا کر چلے پانی میں سے نہیں لے گا اور وہ شخص

الْمَاءَ فِي حَاطِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بِأَتِ فَأَنْطَلِقُ إِلَى تَعْرِيشٍ

لے پانے یاغ میں پانی پھیر رہا تھا تاکہ اس شخص سے لے گا کہ یا رسول اللہ میرے پاس رات کا پانی ہے سو آپ پھیر کر چلے

معه قال ابو بكر مردنا بر اع وقد عطش رسول الله صلعم قال ابو بكر رضي الله عنه فخلبت كعبية من لبن في قدح فتوب حتى رضيت و

انا ناسوا قبة بن مجشم على فرس فدعا عليه فطلب اليه سراقة ان لا يدعوه عليه وان يرحم فعزل النبي صلعم كعبية قريبا مني النفاطيس حدث

کو دوہرایا ہے۔ دودھ دینے والے جاوڑکی تعریف کی ہے۔ ملا وہی لفظ ہے۔ دودھ بی کرکھی کر لی جائے۔ ۲۵۲۲ میں یہ لفظ نہیں بلکہ م

۲۹۸۱ میں ہیں جو مالک بن صعصعہ کی روایت ہے۔ قال قال رسول الله صلعم رفعت الى السدرة فاذا اربعة انهار نهران ظاهران و

نهران باطنان فاما الظاهران النليل والغرات واما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة اقداح فم فيه لبن وقدح فيه عمل

وقدح فيه خمرة فاخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي اصبت الفطرة انت وامتك قال هشام وسعيد وهبام عن قتادة عن انس

بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلعم في الانهار نحوك ولم يذكروا ثلاثة اقداح - آخری حصہ جس میں تین پیالوں کے لایا جانے کا ذکر

ہے وہ ۲۵۲۲ میں ہے زم ۱۳۹۸ میں بلکہ ۱۱۵۲۹ اور ۲۹۷۶ میں ہے مگر وہاں دونوں جگہ دو پیالوں کے لایا جانے کا ذکر ہے۔ ایک حرم کا اور ایک

دودھ کا۔ یہاں ایک شہد کے پالے کا بھی ذکر ہے دیکھو نوٹ۔ ان ہر دودھ پیوں پر۔ عثمان باب کا تعلق دودھ کا پیالہ پینے سے ہے۔ اسی الفاظ

میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوطی کے کنوئیں پر جا کر اس کا میٹھا پانی پینے لگے۔ علی الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ اذہ

ذامی رسول الله صلعم شرب لبنا واتى دارا فخلبت شاة فثبتت لرسول الله صلعم الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح

فشرب وعن يساره ابو بكر وعن يمينه اعرابي فاعطى الاعرابي فضله ثم قال الايمن فالايمن

۲۱۳۰ م ایک واقعہ کا نام ہے

۲۱۳۰ م اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

۲۱۳۰ م کس قدر اس معاملہ میں محتاط تھے اس

۲۱۳۰ م بات کو پسند کیا کہ منہ کھلے رتن

۲۱۳۰ م میں دودھ لایا جا

۲۱۳۰ م کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھنے کی آپ

۲۱۳۰ م تاکید فرماتے تھے۔

۲۱۳۰ م ابو حمید کے متعلق تصریح کی ہے

۲۱۳۰ م ہے رجل من الانصار باقی لفظ

۲۱۳۰ م وہی میں ہے

۲۱۳۰ م بیان کیا ہے اور سراقہ کا ذکر مختصراً

۲۱۳۰ م زیادہ کیا ہے۔ لفظ یہ ہیں۔ قال

۲۱۳۰ م قدم النبي صلعم من مكة واوبكر

۲۱۳۰ م

۲۱۳۰ م

۲۱۳۰ م

قَالَ فَانطَلِقْ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِجِنَ لَهُ قَالَ فَشَرِبُ

گماوہ دونوں کو لے گئے تو انہوں نے پیالے میں پانی ڈالا پھر اس پر اپنے گھر کی بکری کا دو وہ دوہا رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ (۱۴) بَابُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اس شخص نے بھی پیا جو آپ کے ساتھ آیا تھا باب

شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ وَقَالَ لِرُفَيْرِي لَا يَجِلُّ شَرِبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ

میٹھی چیز اور شہد کا شربت ملے اور زہری نے کہا کہ لوگوں کے پیٹاب کا پینا کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پیئے

تَنْزِلِ كَأَنَّهُ رَحْمَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ بِنُ مَسْعُودٍ فِي الشُّكْرِ

حلال نہیں ہے اس لئے کہ یہ ناپاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ابن مسعود نے شکر کے

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءً كَرِيمًا حَرَّمَ عَلَيْهِ كَرْمًا (م- ۲۹۸۳) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۲۰۵۱)

بارہ میں کہا کہ اللہ نے اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی جو تم پر حرام کیا ہے

(۱۵) بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا (م- ۲۹۸۴) عَنْ عَلِيٍّ (م- ۲۱۳۲) (۲۱۳۲)

باب کھڑے ہو کر پینا دیکھو حدیث ۲۱۳۲

عَنْ عَلِيٍّ زُرِّيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْمَةٍ

حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی حاجتوں کے لئے کوزے کے کھلے میدان میں بیٹھ گئے

الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَلَى بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ

پھر آپ کو پانی لاکر دیا گیا تو اس سے پیا اور پانچ ماہ اور دعوتوں ہاتھ

يَدَايِهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ

دھوئے اور ذکر کیا کہ ایشا اور دونوں پاؤں (رہیں دھوئے) پھر کھڑے ہوئے اور بجا ہوا پانی پیا اور آپ کھڑے تھے پھر کہا

نَاسًا يَكْفُرُ هَوْنُ الشُّرْبِ قَائِمًا وَإِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتْ

لوگ کھڑے ہو کر پینا ناپسند کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا بیسیا میں نے کیا

(م- ۲۹۸۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۸۶۹) (۱۶) بَابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ آفَقٌ

دیکھو حدیث ۸۶۹ باب کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں

عَلَى بَعَائِرِهِ (م- ۲۹۸۶) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (م- ۸۷۸) (۱۷) بَابُ الْأَيْمَنِ

اوش پر ٹھہرا ہوا دیکھو حدیث ۸۷۸ باب کھڑے ہو کر پینے میں دائیں

فَالْأَيْمَنِ فِي الشُّرْبِ (م- ۲۹۸۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- ۱۱۴۲)

طرف والا پھر دائیں طرف والا مقدم ہے دیکھو حدیث ۱۱۴۲

(۱۸) بَابُ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْكَأْسَ

باب کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں اس سے اجازت لے سکتا ہے جو اس کے دائیں طرف ہو تاکہ بڑے کو دے دے

(م- ۲۹۸۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (م- ۱۱۴۱) (۱۹) بَابُ الْكَوْثَرِ فِي الْكُوضِ

دیکھو حدیث ۱۱۴۱ باب کھڑے ہو کر پینے سے مزہ لگانا

فَالْكَوْثَرُ فِي الْكُوضِ (م- ۲۹۸۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (م- ۱۱۴۱) (۱۹) بَابُ الْكَوْثَرِ فِي الْكُوضِ

دیکھو حدیث ۱۱۴۱ باب کھڑے ہو کر پینے سے مزہ لگانا

ملے حلو سے مارو
میاں ایسی میٹھی
چیزیں ہیں جن کے
شریت تیار ہوتا
ہے جیسے قدر
کھجور وغیرہ
ملے یعنی چیزیں
صحت انسانی
کو بھی خراب
کرتی ہیں +
باب ۲۰۵۱ میں
حضرت حفصہ کے
ہاں زیادہ ٹھہرے
کا ذکر ہے ہاں
وجہ نہیں دی جو
م ۲۳۳ میں ذکر
ہے۔ فان رسول
اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جب
العسل والحلو
اور حضرت حفصہ
نے آپ کو شہد
پلایا تھا۔ میاں
یہی لفظ ہیں۔
قالت کان النبی
صلعم یحبہ
الحلو والعسل
ملے میاں اختصار
ہے۔ قال ابی
علی علی باب
الرحبة تشوب
قائما فقال ان
ناسا یکرہون
ان یشرب وهو
قائم والی رأیت
النبی صلعم فعل کما را یمونی فعلت +
ہاں صرف یہ لفظ ہیں۔ قال شرب النبی صلعم قائما من زمزم +
ملے میاں لفظیوں میں :- انہا
اور سللت الی النبی صلعم بقدر لبن وهو آفقت عشية عرفة فاخذ بيده فاشربه زاد ما لك عن ابی النضر علی بعائره +
ملے میاں نام اور تفصیل
چھوڑ دی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بلان قد شیب بماء وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر فشرب ثم اطلقه اعرابي
وقال الایمن الایمن + ملے قریباً النبی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے +

۲۹۸۹ (م۔)	عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۲۱۳۱) بَابُ خُدْمَةِ الصَّغَارِ	۲۱۳۱	دیکھو حدیث ۲۱۳۱	باب سب پھولوں کا بڑوں کی خدمت
۲۹۹۰ (م۔)	عَنْ أَنَسٍ (متكرر - ۱۱۷۵) بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَنْاءِ	۱۱۷۵	دیکھو حدیث ۱۱۷۵	باب سب برتنوں کا ڈھانکنا
۲۹۹۱ (م۔)	عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر - ۱۴۸۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ	۱۴۸۱	دیکھو حدیث ۱۴۸۱	
(متكرر - ۱۴۸۱)	بَابُ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ (۲۱۳۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ	۲۱۳۳	دیکھو حدیث ۱۴۸۱	باب سب مکینوں کا اختنات
	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ			ابو سعید خدری سے روایت
	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متكرر - ۱۱۷۵) بَابُ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِي أَنْ تَكْسُرَ أَفْوَاهَهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا	۱۱۷۵	دیکھو حدیث ۱۱۷۵	کے مکینوں کے اختنات
	عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متكرر - ۲۹۹۳) بَابُ الشَّرْبِ مِنَ السَّقَاءِ (م۔ ۲۹۹۴)	۲۹۹۳	دیکھو حدیث ۲۹۹۳	باب سب مکینہ کے منہ سے پانی پینا
	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۱۷۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۱۷۴)	۱۱۷۴	دیکھو حدیث ۱۱۷۴	
	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ			حضرت ابن عباس سے روایت ہے
	عَنْ الشَّرْبِ مِنَ فِي السَّقَاءِ (۲۴) بَابُ التَّنْقِيسِ فِي الْأَنْاءِ (م۔ ۲۹۹۶)	۲۴	دیکھو حدیث ۲۹۹۶	باب سب برتن میں سانس لینا
	عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (متكرر - ۱۳۰) بَابُ الشَّرْبِ بِتَقْسِينِ أَوْ ثَلَاثَةِ	۱۳۰	دیکھو حدیث ۱۳۰	دو یا تین سانس میں پانی پینا

۲۹۸۹ (م۔) بیان تفصیل کچھ زیادہ ہے۔
 ۲۹۹۰ (م۔) ان النبی صلعم دخل
 ۲۹۹۱ (م۔) دماغہ صاحب لہ
 ۲۹۹۲ (م۔) فسلم النبی صلعم
 ۲۹۹۳ (م۔) وصاحبه فرد
 ۲۹۹۴ (م۔) الرجل نقال یا
 ۲۹۹۵ (م۔) رسول اللہ بالی
 ۲۹۹۶ (م۔) انت وادی وحی
 ۲۹۹۷ (م۔) ساعة حارة
 ۲۹۹۸ (م۔) وهو یجول فی
 ۲۹۹۹ (م۔) حاطط لہ یعنی
 ۳۰۰۰ (م۔) الماد نقال النبی
 ۳۰۰۱ (م۔) صلعم ان کان عندہ
 ۳۰۰۲ (م۔) ماد بات فی شنة
 ۳۰۰۳ (م۔) والاکر عتانا الرجل
 ۳۰۰۴ (م۔) یجول الماء فی
 ۳۰۰۵ (م۔) حاطط نقال الرجل
 ۳۰۰۶ (م۔) یا رسول اللہ عندہ
 ۳۰۰۷ (م۔) ماد بات فی شنة
 ۳۰۰۸ (م۔) فانطلق الی العرش
 ۳۰۰۹ (م۔) فسكب فی قعر ماء
 ۳۰۱۰ (م۔) ثم حلب علیہ
 ۳۰۱۱ (م۔) من داجن لہ
 ۳۰۱۲ (م۔) فشرب النبی صلعم

ثم اعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. اس کے لفظ ۲۹۹۲ کے ہیں۔ عنوان باب کا تعلق ان الفاظ سے ہے۔ وانا اصغرهم۔
 ایک وجہ الفاظ کی کمی بیشی ہے باقی قریناً وہی الفاظ ہیں۔ دروازوں کو بند کرنے کے حکم کے بعد ہے۔ فان الشيطان لا يقف يا خلقا
 اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شيطان سے مراد چور وغیرہ ہیں۔ کیونکہ وہ شيطان جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اسے بند دروازے نہیں لگتے
 بلکہ تمنائی میں اور بھی زیادہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ زیادہ تشریح کے لئے اور ان احکام کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۱۷۵ ص ۱۱۷۵۔
 کو اختصار سے بیان کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم قال اطفوا المصابيح اذا اردتم وغلقوا الابواب وادكوا الاسقية وغمروا الطعام الشراب
 واحصبه فقال ولو بعد قرضه عليه. یہ نہیں ہے کہ اختنات یہ ہے کہ مکینہ کے منہ کو باہر کی طرف موڑا جائے اور اس سے اس لئے روکا
 گیا ہے کہ اس طرح پانی مینا اس کی بوتلی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کے منہ میں کیڑوں کوڑوں وغیرہ کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے
 کہ مشک کے منہ کی خرابی کی وجہ سے پینے والے پر پانی گرے گا۔ اور اختنات کے اصل معنی موڑنا ہیں یا بھگانا۔ اور اگر حدیث ۱۱۷۵ میں ہے کہ اختنات
 یہ ہے کہ مکینہ کا منہ موڑا جائے اور اس سے پانی پیا جائے غرض یہ ہے کہ مکینہ سے کسی اور چیز میں پانی کے کر اور اسے دیکھ کر بیا جائے۔ مگر لفظ قریناً وہی ہیں
 مگر اختنات کے معنی صرف یہ کہے ہیں ہوا الشراب من افواہها. مکینہ میں مکرر روایت کا صرف آخری حصہ ہے۔ اور ابتدائی حصہ یہاں زائد ہے۔ ذہنی
 رسول اللہ صلعم عن الشرب من قم القربة او السقاء وان يندج جارك ان يغزخ شية فی داره. اس میں مکینہ کا کوئی مضمون نہیں بلکہ ۲۹۹۴
 کا وہ ابتدائی حصہ ہے جو مکینہ میں نہیں ہے۔ لفظ یہ ہیں۔ نہی اللیج صلعم ان یشرب من فی السقاء. مکینہ خفیفات ساختنات ہے۔ قال قال رسول
 اللہ صلعم اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الافاء واذ ابال احدکم فلا یمسح ذکرہ بيمينه واذ التمسح (بتسبیح) احدکم فلا یتسبح بيمينه.

۲۱۳۳ عن ابن عباس قال قال الله قال كان انس يتنفس في الاثربة مرتين
ابن عباس سے روایت ہے کہ انس دو یا تین سانس برتن میں لیتے تھے

أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا (۲۱۳۴) بَاب
اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس لیتے تھے

الشُّرْبُ فِي زِينَةِ الذَّهَبِ (م- ۲۹۹۷) عَنْ ابْنِ أَبِي كَيْلَةَ (م- ۲۰۹۵) (۲۱۳۵)
سونے کے برتن میں پینا دیکھو حدیث ۲۰۹۵

بَابِ جَانِزِي كَابِرْتَن
 ۲۹۹۸ عَنْ ابْنِ أَبِي كَيْلَةَ (م- ۲۰۹۵) (۲۱۳۵) عَنْ
دیکھو حدیث ۲۰۹۵

أُمِّ سَكَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ام سکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ الَّذِي يَشْرِبُ فِي زِينَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ حَمِيمٍ (م- ۲۹۹۹)
وہ شخص جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ دالتا ہے

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (م- ۲۸۰۶) (۲۱۴۰) بَابِ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ (م-)
دیکھو حدیث ۲۸۰۶ پائالوں میں پینا

۳۰۰۰ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (م- ۶۷۸) (۲۱۴۱) بَابِ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
دیکھو حدیث ۶۷۸ پائال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَتَاهُ وَقَالَ أَبُو بَرْدَةَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ الْكَأْسُ أَشَقِيكُ
اور ابوبردہ نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ کیا تجھے اس پیالے

فِي قَدَحِ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ (۲۱۳۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے سهل بن سعد سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا مِّنَ الْعَرَبِ فَأَمْرًا بِأَسِيدِ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عربی عورت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ابو اسید

السَّاعِدِيِّ أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَانزَلَتْ فِي أَجْرِ بَنِي سَاعِدَةَ
سادی کو فرمایا کہ اسے بلا بھیجی انہوں نے اسکی طرف آدھی بھیجا وہ آئی اور بنی ساعدہ کے قلعے میں اتری

فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَذَامَرًا مِّنْ كِسْفَةِ
یہاں تک کہ اس کے پاس آئے آپ اس پر دو اہل ہوئے دیکھا تو ایک عورت ہے جس نے سر

رَأْسَهَا فَلَمَّا كَذَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ
چھکا یا جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا کہیں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے

۲۱۳۳ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دو یا تین قفوں سے پانی پیا جائے جیسا کہ عنوان باب میں امام بخاری نے صاف کر دیا ہے برتن کے اندر سانس لینا مرو نہیں بلکہ پانی پینے میں سانس لینا مرو ہے۔ خطا مکرر روایت ضعیف کی بیٹی سے آئی ہے۔ قال کان حدیقة بالمدین ریه نضوج وہاں نہیں، فاستسقی فأتاه دهقان روباں مجوسی ہے، فقذا فضة ریه نضوج وہاں نہیں، فوماہ بہ فقال انی لم ادمہ الا الف نھتہ فلم ینتہ وان النبی صلعم نہا ناعن الخمر والشرب فی ائینۃ الذھب والفضۃ روباں ساتھ بڑھا یا ہے ولا تاکلوا فی

صحافہا، وقال من لهم في الدنيا وهي لكر في الآخرة، مطعيا مختصر کیا ہے۔ قال خرجنا مع حدیفة ذكر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنفقوا فی ائینۃ الذھب والفضۃ ولا تلنسوا الخمر والدایاج فانما لهم فی الدنیا ولکن فی الآخرة، وکذا چاندی اور سونے کے برتنوں میں پینے سے اس لئے روکا کہ یہ تعیشت ہوں۔ اور غریب کی حق تلفی ہو کر بعض لوگوں کے ہاتھ میں اس قدر مال آجاتا ہے کہ وہ اسراف کرتے ہیں، وکذا قربانی الفنا میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ مگر وہاں جن چیزوں سے روکا ہے باوجود نہا ناعن سیدم کے الفاظ کے، چھ ہیں یعنی ایک چیز ان میں سے رہ گئی ہے وہ یہاں مذکور ہے اور وہ میا توبہ اور یہ ویاج اور حریر کی بنی ہوئی گدیاں تھیں جو زینوں کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ سب اسباب عیش و تنعم ہیں جن سے روکا ہے، دیکھو نوٹ ۱۸۷۱۔

۱۳۲۰ احکم شکر فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ فبعث الیہ بقدم من لبن فلعوبہ +

أَعَدَّتْكَ مِنِّي فَقَالُوا يَا أَدْرَبِينَ مَنْ هَذَا أَقَالَتْ لَأَقَالُوهُ أَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ

صلی اللہ علیہ وسلم جاء لیرخطبک قالت کنت انا اشق من ذلک فاقبل

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ حتی جلس فی سقیفة بنی ساعدة

واصحابہ ثم قال اسقنا یا سہل فخرجت اہل القداء فاسقیدہم فید

فاخرج لئاسہل ذلک القداء فشر بنامئذہ قال ثم استوهبه حمر من

عبد العزیز بعد ذلک فوهبه لہ ۳۰۰۰۰ عن عائشہ الاحول (مکر ۴۰۰)

باب شرب البرکة والماء المبارک ۳۰۰۲ عن جابر (مکر ۳۰۰۲) اب

بک الله الرحمن الرحیم

۵۔ کتاب المرَضی

۴۵ - بیماریوں کی کتاب

باب ما جاء فی کفارة المرَضی قول لله تعالی من یعمل سوأ الجزیة

عورت سے جو کہ
کرنا اور اس کی
حدیث سے اس میں
گزر چکا ہے وہ بھی
نہ اس وقت تک کہ
صلی اللہ علیہ وسلم
اتفاق سے اس سے
سیدہ وہ بی بی
یہ بھی اس میں
باقی بی بی
میں اس میں
نہ زیادہ ہے
روایت صحیح
صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث اس میں
مالک وکان قد
انصرفت عنہ
بقصدہ قال وہو
فہم حین عرض
من نضار وکیف
کذا ہی ہے جس
سے برتن بنائے
جاتے تھے قال
قال اس لقا
سقیف رسول

اللہ صلعم فی هذا القدر اکثر من کذا اذ قال ابن سیرین انه کان فیہ حلقۃ من حدیث فاراد اس ان یصل مکانا حلقۃ مودع
اودضۃ فقال لہ ابو طلحہ لا تغیرن شیئا صنعہ رسول اللہ صلعم فترکہ۔ بیان ایک روایت کی رو سے اور یہ مضمون کے مطابق ہے۔ چاندی کے
صق سے پیا لہ کو جوڑا گیا تھا اور غلبہ یہ ہے کہ یہ بھی صلعم نے ہی جڑا دیا تھا۔ اور دوسری روایت کی رو سے یہ لوسے کا حلقہ تھا۔ تو اس سے ارادہ کیا
تھا کہ اس کی جگہ سونے یا باندی کا حلقہ بنو لیں۔ تو ابو طلحہ نے منع کیا کہ جس طرح رسول اللہ صلعم نے چھوڑا ہے اسی طرح رہتے۔ وہ شاید بعد میں بھی باندی کا
حلقہ بنوایا گیا ہو۔ چاندی یا سونے کا حلقہ لگوانے میں کوئی ہرج نہیں۔ بلکہ یہاں الفاظ حدیث اور ہیں مگر واقعہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ قال قد
رأیت مع النبی صلعم وقتہ حضرت العصور لیس معہ ماء غیر فضلة فیلعل فی ان قال النبی صلعم بہ فادخل بین ۱۰ لہ وہ فرجہ احصا بہ ثم قال حی علی اهل
الارضوا البرکة من اللہ فلقد رأیت الماء یتفجر من بین اصابہ قوضا التارث شر یوا فجعلت لای ۱۰ لوما حطت فی بطنی مدخل فی قوب سیر بنو کرب
فعلبت اہہ برکة زعموا ان ہا ہے اسی کا تعلق ہے۔ تلمت لجا برکم کنتم یومئذ قال انفاذ او بعمانہ زوفی رواہ ہم نفسی عشوۃ مرانۃ ۱۰ لہ آیت قرآنی جنوری
مذک کے معلق ہے عنوان ہا ہے اسی کا تعلق یوں سمجھا گیا ہے کہ بیماری جو یوں براتی ہے وہ گویا اس کے بعض گناہوں کی سزا ہو تو ہے۔ جلت اسی دنیا میں مل جاتی ہے
اور اسلئے آخرت میں اسکی سزا نہیں ملتی۔ بیماری اور بدی میں ایک رنگ میں مشابہت بھی ہے یعنی بیماری فی الحقیقت کسی جسمانی قانون ہی کے توڑنے سے پیدا ہوتی ہے
خواہ وہ انسان کے اختیار کی بات ہو یا نہ۔ اور بدی کی اخلاقی یا روحانی قانون کے توڑنے کا نام ہے ممکن ہو ای مشابہت کی طرف اشارہ ہو۔ اور دونوں میں ایک
تعلق بھی ہوا اور یہ کہ بیماری میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ جو عیب وہ چیز جو انسان کو بدی سجاتی ہے تو اس رنگ میں بیماری گناہوں کے گناہوں کا
یا انکا کفارہ بخاتی ہے اور یہ مسلمان کی خصوصیت صرف اسلئے ہے کہ انکا شہادہ ایمان ہو اور جب اسے بیماری آتی ہے۔ وہ اسکی طرف رجوع کرتا ہے اور گویا ہی خدا کی طرف رجوع

کے لئے اسے بیماری کا کفارہ ہو جائیگا اور مسلمان بیماری میں کبھی خدا کی عزت کو بگاڑنے کے لئے کسی شے کو نہ لگے گا۔ اگر کسی کو لوگوں کی آجی حالت ہی یا خدا کو بگاڑنے کے لئے کسی شے کو نہ لگے گا۔

۱۲۱۷
 یہ ایمان مسلمان
 کے لئے مہربان
 کو اور پریشانوں
 کو کس قدر آسان
 کر دیتا ہے گویا
 اس کا یہ ایمان
 ہوتا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ ہر حال میں
 اس کی ربوبیت
 فرماتا ہے یہاں
 تک کہ دکھوں
 اور تکلیفوں سے
 بھی اس کی
 ربوبیت ہی ہوتی
 ہے
 ۱۲۱۸
 جو حوادث زمانہ
 یا مصائب مسلمان
 پر آتی ہیں۔ ان
 کو ہواؤں سے
 تشبیہ دی ہے
 تازہ ہونے والی
 کھیتی ہوا کے
 سامنے جھکتی جاتی
 ہے۔ اسی طرح
 مسلمان بھی جب
 اس پر مصائب
 آتی ہیں تو خدا
 کی طرف جھکتا
 ہے اور کافر
 ان کے سامنے
 اگڑا رہتا ہے۔
 یہاں تک کہ
 کیا رنگ وہاں سے
 تیار ہو جاتا ہے
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰

(۲۱۳۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں جو مسلمان کو پہنچے مگر اس کے بدلے
 اللَّهُ بِهَا عَنَتُهُ حَتَّى الشُّوْكَةُ يَشَاكُهَا (۲۱۳۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ
 اللہ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے جیسا کہ وہ کاٹنا بھی چاہے
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ تَصَبُّبٍ
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا کہ مسلمان کو نہ کوئی ٹھکان اور نہ کوئی میاری
 وَلَا وَصْبٍ وَلَا هَيْبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا آذَى وَلَا عَمٍّ حَتَّى لَشُّوْكَةٍ يَشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ
 اور نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی فکر اور نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی عمر بچتا ہے حتیٰ کہ ایک کاٹنا بھی جاس کو چھتا ہے مگر
 اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (۲۱۳۹) عَنْ كَعْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسا کہ
 مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَغِيثُهَا الرَّيحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمِثْلُ
 مومن کی مثال کھیت ہے تاکہ سبزہ کی سی ہے کبھی اس کو ہوا جھکا دیتی ہے اور کبھی اس کو اٹھا دیتی ہے اور صاف
 الْمُنَافِقِ كَالْأَرْدَةِ لَا تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَيْجَافُهَا مَرَّةً ذَا حِدَّةٍ (۲۱۴۰)
 کی مثال منہ پریشانی ہے ایک ہی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ کیا رنگ چڑھ جائے
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ كَمِثْلِ الْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرَّيحُ
 مومن کی مثال تازہ سبز کھیتی کی طرح ہے جہاں سے اس پر ہوا آتی ہے اسے جھکا
 كَفَّاتُهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ كَفَّاتُهَا بِالْبَلَدِ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْدَةِ صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ
 دیتی ہے جب ہوا ٹھم جاتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اسی حالت میں مسلمان کی ہوتی ہے اور فاجر کی مثال منہ پریشانی
 حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا انْتَأَتْ (۲۱۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 نصیب سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جھکا جائے اسے توڑ دیتا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرُدُّ اللَّهُ بِأَخْبَرٍ يُصِيبُ مِنْهُ (۲۱۴۲) بَابُ بِيَارِي كِي شَدَتْ
 کہ اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے ۱۲۳۱ بَابُ بِيَارِي كِي شَدَتْ
 (۲۱۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اسْتَدْعَى عَلَيْهِ الْوَجْعَ
 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ
 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۱۴۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے سخت ہو
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يَوْعُكَ وَعِجَا شَدِيدٌ أَوْ قُلْتُ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں آیا اور آپ کو سخت بخار چڑھا ہوا تھا میں نے عرض کیا
 إِنَّكَ لَتَوْعُكَ وَعِجَا شَدِيدٌ أَوْ قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ يَأْتِيكَ أَجْرٌ قَالَ أَجَلُ مَا مِنْ
 آپ کو سخت بخار ہے اور یہ بھی عرض کیا کہ اس لئے ہے کہ آپ کے لئے دو اجزاں تو فرمایا ہاں کوئی

مُسَلِّمٌ يُصِيبُهُ أَذَى الْأَحَادِيثِ اللَّهُ عِنْدَهُ خَطَايَا كَمَا تَحَاتُّ وَرَدُّ الشَّجَرِ

مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے مگر اللہ اس کے ناپ جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں

(۳) بَابُ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ رَم - ۳۰۰۳

بابت لوگوں میں سے شدت کی نصیبت والے انبیاء ہیں پھر جو مرتبہ ہیں، اول ہی پھر اول ہے

عَبْدُ اللَّهِ (مُتَكَرِّر - ۲۱۴۳) بَابُ وَجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (م - ۳۰۰۴)

دیکھو حدیث ۲۱۴۳ بابت مریض کی عیاد پرسی کا واجب ہونا

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (مُتَكَرِّر - ۱۳۸۸) (م - ۳۰۰۵) عَنِ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ

سو کیجو حدیث ۱۳۸۸

(مُتَكَرِّر - ۱۶۰۰) (۵) بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْتَرِّ عَلَيْهِ (م - ۳۰۰۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۶۰۰ بابت جن کو غش آجائے اس کی عیادت

عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّر - ۱۵۸۰) (۶) بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصَرِّعُ مِنَ الرَّجُلِ (م - ۳۱۴۴)

دیکھو حدیث ۱۵۸۰ بابت مرگے دلے کی فضیلت

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَكَّأْرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ

عطاء بن ابی ریاح سے روایت ہے کہا مجھ سے ابن عباس نے کہا کیا تجھے اہل جنت میں سے ایک عورت دکھاؤں

الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

میں نے کہا کیوں نہیں کیا یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا

رَأَيْتِ اصْرَعًا وَرَأَيْتِ أَتَشْكُفُّ فَادَعَا اللَّهُ لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَابَرْتُ وَكَانَ الْجَنَّةِ

کریں مرگے سے گر جاتی ہوں اور میرا جسم کھل جاتا ہے میرے لئے دعا کیجئے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لئے جنت ہے

وَرَأَيْتِ شَيْئًا دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ رَأَيْتِ أَتَشْكُفُّ

اور چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کرے اس نے کہا میں صبر کروں گی پھر عرض کیا کہ میرا جسم کھل جاتا ہے

فَادَعَا اللَّهُ أَنْ لَا أَتَشْكُفُّ فَدَعَا لَهَا (۲۱۴۴) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ

تو اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا جسم نہ کھلے تو آپ نے اس کیلئے دعا کی ابن جریر سے روایت ہے کہ مجھے عطاء نے خبر دی

أَنَّه رَأَى أُمَّ زُفْرَةَ تَلِكِ امْرَأَةً طَوِيلَةَ سَوْدٍ أَعْلَى سِدْرِ الْكَعْبَةِ (۲) بَابُ

کہ انہوں نے ام زفرہ (یعنی) اس عورت کو غلاف کعبہ کے پاس دیکھا جسے قوالی سیاہ قام بابت

فَضْلٍ مَنْ ذَهَبَ بِصُرَّةٍ (۲۱۴۵) عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

اس کی فضیلت جس کی بیانی جاتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ قَالَ إِذَا بَتَلَيْتَ عَبْدًا

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو بیاری چیزوں میں

۱۔ انبیاء کی قوت ایمانی اور قوت برداشت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور جس قدر مصائب کا سامنا ان لوگوں کو ہوتا ہے عام دنیا واروں کو بھی نہیں ہوتا مخلوق ظنا کے غیر خواہ ہوتے ہیں مگر انہی کے ہاتھ سے دکھ پر دکھ اٹھاتے ہیں۔ شتم اولاد و فال اول یعنی جن قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ ہوگا اسی قدر مصائب اور مشکلات کا مقابلہ زیادہ ہوگا پس اولیاء اللہ پر بھی مصائب بھونک کر آتی ہیں۔ اختلاف الفاظ سے آتی ہے اور کچھ تفصیل زیادہ ہے قال دخلت علی رسول اللہ صلعم وهو یوعک نقلت یارسول اللہ انک توعک وعاک شایئاً قال اجل الف

اوعلک کیا وعلک رحلان منکر قلت ذلک ان انک اجبرین قال اجل ذلک کنذک ما من مسلم یصیبہ اذی شکلة فمافوقها الا کفر اللہ بها سبأ تہ کیا تحط الشجرة ودرتها مسدوی لفظ ہیں۔ تین باتوں کی تاکید فرمائی۔ بھوکے کو کھانا دینا۔ بیمار کی عیادت۔ قیدی کو چھڑانا۔ کس قدر جامع تعلیم ہے گو باہر قسم کے مصائب میں دوسروں کے ساتھ بہدردی کو ان تین باتوں کے اندر شامل کر دیا ہے۔ مگر یہاں ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ قال امرنا رسول اللہ صلعم یسبہ ونہا ناعن سبعہا ناعن خاتمہ الذہب ولس الحوریرہ الذی یاج والاسن برق وعن العقی و المعید شرقہ امرنا ان یتبع الجنانہ و تعالیرین ونفشی السلام۔ یہاں تفصیل کچھ زیادہ ہے۔ مرضت مرضاً فانانی النبی صلعم یعودنی وایوبکر وھما ما شیان فوجدنا انی اعنی علی قروضنا اللیہ صلعم ثم صب وضرہ علی فانقت فاذا اللیہ صلعم فقلت یارسول اللہ کیف اصنع فی مالی کیف اتقنی فی مالی فلم یجیبہ بشی حتی نزلت آیۃ المذیبات

کلمہ مکرر روایت
 خفیف سے متصرف
 الفاظ سے آئی ہے
 قالت لسانم
 رسول اللہ صلعم
 اللہ یزید عین
 ابو بکر و بلال
 رضی اللہ عنہما
 قالت فرحلت
 علیہما یعنی حضرت
 عائشہ حضرت بلال
 کی عیادت کو نہیں
 اسی سے عنوان
 باب سے قلت
 یا ابت کیف تھیک
 ویابلال کیف
 تھیک قالت
 کان ابو بکر و ا
 اخذتہ الحسنی
 بقول
 کل امرئ یحیی
 فی اہلہ و الموت
 ادنی من شواک
 نزلہ و وکان
 بلال اذا فتمت
 عنہ یقول

بِحَبِيبَتِي وَفَضْلِ عَوْضَتِهِ مِنْهَا الْجَنَّةُ يُرِيدُ عَيْنِيَه (۸) بَابُ عِيَادَةِ النَّسَاءِ

تکلیف میں ڈالوں اور وہ سہل کرنے تو ان دونوں کے بدلے سے جنت و دنیا کی کرا دوں انہیں نہیں باب عورتوں کا مروتوں کی
 الرِّجَالِ وَعَادَتُ امِّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ السُّبْحَانِ الْأَنْصَارِ (م-۳۰۰۷)

بیمار پر کی کیئے جانا اور ام الدرداء سجد والوں میں سے ایسا نصاریٰ مروی عیادت کے لئے نہیں
 عَنْ عَائِشَةَ (م-۹۵۶) (۹) بَابُ عِيَادَةِ الصَّبِيَّانِ (م-۳۰۰۸) عَنْ

دیکھو حدیث ۹۵۶ ع باب بچوں کی عیادت کے لئے جانا
 اسامة بن زيد (م-۶۸۹) (۱۰) بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ (م-۳۰۰۹) عَنْ

دیکھو حدیث ۶۸۹ ع باب دیباہوں کی عیادت
 ابن عباس (م-۱۶۹) (۱۱) بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ (م-۳۰۱۰) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۶۹ ع باب مشرک کی عیادت
 متكرر (۱۶) وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ لَنَا حَضْرَةُ ابْنِ أَبِي جَاءَهُ

دیکھو حدیث ۱۶ ع اور سعید بن المسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہا جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب تھا تو نبی
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۲) بَابُ إِذَا أَحَادَ مِنْ بِنَاتِ حَضْرَتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّى

صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے باطل جب بیمار کی عیادت کے لئے جائے اور نماز کا وقت آئے تو بیمار ان کو جماعت
 فِيهِمْ جَمَاعَةٌ (م-۳۰۱۱) عَنْ عَائِشَةَ (م-۲۱۲) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

سے نماز پڑھانے دیکھو حدیث ۲۱۲ ع ابو عبد اللہ بخاری کہتا ہے
 الْحَمِيدِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ مَسْنُوحٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِرَاءَ صَلَّي

حمیدی نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ آخری نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو وہ
 صَلَّى قَاعِدًا أَوْ النَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا (۱۳) بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ

بیچارہ پر نبی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے ع باب بیمار پر ہاتھ رکھنا
 (م-۳۰۱۲) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ (م-۶۹۵)

دیکھو حدیث ۶۹۵ ع

الاولیٰ است شعری ہل بیتین لیلۃ - براد و حولی اذخرو جلیل + وہل ادون یوما میاہ نختہ وہل تبدون لی شامة و طغیل . قالت عائشہ بنت
 ابی رسول اللہ صلعم فاخرجتہ فقال اللهم حبیب الینا المدینة کعبتنا مکة اواشد اللہم و صحبہا وبارک لنا فی مدہا و صاعہا و انقل حکمکھا فانما جعلہا لہا بحفہ
 علی نعیمتہ سالفی فرق ہے۔ ان ابنۃ النبی صلعم ارسلت الیہ و هو مع النبی صلعم و سعد و ابی نجیب ان ابنۃ قاحضت فاشہدنا فانزل الینا السلام
 و یقول ان لہما اخذتہما اعظم دکل شیء عندک حسنة فلتحسب و لتصبر فانزلت تقسم عنہ فقام النبی صلعم و قعدنا فرغم الصبی فی حجر النبی صلعم
 و نفسہ تہ فحکم فقامت عنہ النبی صلعم فقال لہ سعد ما ہذا یا رسول اللہ قال ہذا رحمة و وضعہا اللہ فی قلوب من شاء من عبادہ و لا یرحم
 اللہ من عبادہ الا الرجماء۔ اس حدیث میں کسی راوی سے الفاظ تھیک محفوظ نہیں ہے۔ پہلے شروع میں جو قیام آنحضرت کے پاس آپ کی صاحبزادی نے بھیجا
 اس میں ہے ان ابنۃ قاحضت ہیری ارشکی حالت ترغ میں سے مگر آگے آگے فرغم الصبی۔ اور صحیح ہی ہے کہ یہ لڑکا تھا جیسا کہ حدیث میں ہے و عطف انہی
 الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ البتہ ایک فقرہ فقال لہ کما یاس طہور انشاء اللہ یہاں نہیں ہے۔ آپ ایک اسرا کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے بنانا یہ فقرہ ہے
 کہ کوئی بھی بیمار ہو بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہر ایک کی عیادت ضروری ہے۔ لہذا کہ روایت کو کچھ تفسیر کی ہے ان غلاما لہود کان عنہم النبی صلعم فرغ فانہ النبی
 صلعم وجودہ فقال اسلم فاسلم۔ اس سے استدلال کیے کہ مشرک یا کافر کی عیادت کو بھی جانا چاہئے جب اس سے کسی قسم کا تعلق ہو۔ استدلال ان کی تعلیق سے اور بھی
 زیادہ صاف ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات محبت کی تعلیم دی ہے۔ یہ ابتدائی حصہ و طرح پر ہی اور میں صحت کے آنحضرت کی
 عیادت کو فرماتا ہے۔ ان النبی صلعم دخل علیہ فاس یعودونہ فی مرضہ فضلیہم۔ حال انھوں نے جو ایسوں قیام تھا انشاء اللہ ہم اجلسوا فلما فرغ قال ان الامام بیہ تہ
 فاذا کعب فارکوا و اذا فرغ فارغوا و ان صلحنا انصلوا جالساً ہ ع اس کیلئے دیکھو نوٹ ۱ ع و کعبنا ہ نوٹ ۲ ع باقی پر صفحہ ۱۳۲۵

رم- ۱۳۰۱۳ عن عبد اللہ بن مسعود (متکثر- ۲۱۴۳) (۱۴) بَاب مَا يَقَالُ لِلْمَرِيضِ
دیکھو حدیث ۲۱۴۳

وما يجيب (رم- ۱۳۰۱۴) عن عبد الله (متکثر- ۲۱۴۳) (۲۱) عن ابن عباس
دیکھو حدیث ۲۱۴۳

متکثر- ۱۴۱۹ (۱۵) بَاب عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَأْيًا وَمَا شَاءَ وَرَدَّ فَاَعْلَى الْحَجَارِ
دیکھو حدیث ۱۴۱۹

رم- ۱۳۰۱۶ عن أسامة بن زيد (متکثر- ۱۸۹۹) (۱۸) عن جابر بن عبد الله
دیکھو حدیث ۱۸۹۹

متکثر- ۱۵۰۸ (۱۶) بَاب قَوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجَعْتُ أَوْ ذَا أَسَاءَ أَوْ اشْتَدَّ
دیکھو حدیث ۱۵۰۸

رَبِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي مَسْنِيٌّ الصَّبْرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
دیکھو حدیث ۱۵۰۸

رم- ۱۳۰۱۸ عن كعب بن عجرة (متکثر- ۹۲۷) (۲۱) عن القاسم بن محمد
دیکھو حدیث ۹۲۷

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأَسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لَوْ كَادَ
دیکھو حدیث ۹۲۷

وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرُكَ وَأَدْعُوكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَشْكِيَاهُ وَاللَّهِ لَأَنْفِ
دیکھو حدیث ۹۲۷

لَأَطْلُكَ نَحْبَ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَطَلْتُ الْخَرِيومَكَ مَعْرَسًا بِفَضْ
دیکھو حدیث ۹۲۷

أَزْوَاجِكَ فَقَالَ لَيْتَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا ذَا أَسَاءَ لَعَنَ هُمْنَتِ أَوْ أَرَدْتُ
دیکھو حدیث ۹۲۷

تو جی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے (کنا چاہیے) ہائے میرا سر اسی... البستر میں نے ارادہ کیا

دعوان باب کہ تعلق اسی حصہ سے ہے، ثم قال اللهم اشفق سعدا واتهم له هجوته فما ذلت احد بروه على كبرى ذنبا لئال اني حق السابعة

۱۹۹ میں سے کہ سعد نے پوچھا اننا تصدق بشفقة مالي فيما بيننا فاذنوا حتى احدكم الدعوت ان ترك خيرا الوصية والبقرة ۹۹ کے تحت ہی تھی اس لئے اس آیت میں جن وصیت کا ذکر ہے۔ وہ در شا کے سے وصیت میں بلکہ خیراتی کاموں کے لئے ہے اور یہ صیقا کہ ۶۹۵ میں صراحت ہے نفع مکہ کے سال کا واقعہ ہے۔ یعنی شہنہ ہجری کا جب سورہ نسا میں حکم میراث نازل ہو چکا تھا۔ اور یہ قطعی شہادت اس بات پر ہے کہ حکم وصیت مندرجہ البقرہ ۹۹، کبھی منسوخ نہیں ہوا۔

(صفحہ ۱۳۲۵) کے لفظ ۳۰۳ کے ہیں۔ سولے اس کے کہ وہ ہجرت کے بعد ہے۔ فہمستہ تہذیبی اور ای کا تعلق عنوان باب سے ہے اور شکر کا خدا تو کہا کی جانے مرض ہے۔ اس کے لفظ ۱۳۲۵ کے ہیں مگر شروع میں فی مرضہ کے بعد فہمستہ بڑھا یا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ مریض پر شہت مرض ہو تو اسے سلی نے اور وہ بھی ایسے کلمات کے جن میں رضا یا تقصیر پائی جائے۔ لفظ یہاں لفظ یوں ہیں۔ انی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ اجمعین دخل علی رجل یعودہ فقال کاناس طہوظان شام اللہ فقال کلا بل توی نفرد علی شیخا کبیر کما تزیرہ القبول قال النبی صلعم فنعم اذ اہا ملک قرینا نبی القاطین حدیث کو قد المذ الذی نے فعل یہ ما دات تک و ہر ایسے اس کے بعد کہ حصہ چھوڑ دیا ہے۔ عنوان باب کا تعلق صرف اس حصہ سے ہے کہ رسول اللہ صلعم کدھے پر سوار ہو کر اور اس کو اپنے پیچھے بٹھا کر سعد بن حجابہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ لفظ یہاں صرف یہ لفظ میں۔ جہاں فی النبی صلوات اللہ علیہ وسلم یعودنی لیس ہر اکب بغل ولا یزدون رگھوڑا یعنی سیدل شریف لاسے لفظ یہاں لفظ یہ ہیں۔ مریضی النبی صلوات اللہ علیہ وسلم وانما ذلت تحت القدر فقال ابو ذک ہوا م راسک قنت لعد ذل عا الحرات لملقہ ثم امرنی بالغدا ع۔ ر باقی بر صفحہ ۱۳۲۶

رقیہ ۳۲۴
کتاب النہی
ضعیف اخذت
لفظی ہے اور کچھ
نہی میں منضمون الگ
الگ ہے۔ قال
تذکرہ تکلمة کتوبا
شاید ان لسانی
النبی صلعم یعودنی
فقلت یا نبی اللہ
انی اترك ما لا
وانی لم اترك
الا ابنة واحدة
فاوصی بشلخ
مالی واترك اللطش
فقال لا قلت
فاوصی بالنصف
واترك النصف
قال لا قلت
فاوصی بالثلث
واترك لها الثلثین
قال الثلث الثلث
کثیر رقم وضع یدہ
علی الجہتہ ثم
متریدہ علی
وہی و بطنی

أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَأَبْنَيْهِ وَأَعْتَدَ أَنْ يَقُولَ لِقَائِهِمْ أَوْ يَتَمَتَّعَ الْمَتَمَتِّينَ

کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور (ابو بکر کے حق میں) وصیت کر دوں ان سے کہ باتیں بنا نیوالے باتیں نہ بناؤں اور آرزو کر نیوالے

ثُمَّ قُلْتُ يَا بَنِي اللَّهِ وَيَا دَفْعَ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعِ اللَّهُ وَيَا بَنِي الْمُؤْمِنُونَ

آؤدو کر بن پھر میں نے ردل میں (کہا کہ) ابو بکر کے سوا اللہ کو منظور نہیں اور مسلمان (بھی) ابو بکر کے سوا لے اور مسلمان (بھی) منظور

(م-۱۹) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (متكرر- ۲۱۳۳) (م-۲۰) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر- ۲۹۵)

دیکھو حدیث ۲۱۳۳ دیکھو حدیث ۲۹۵

(۱۷) بَابُ قَوْلِ لَبْرِئِضٍ قَوْلَهُ مَوْأَعْتِي (م-۲۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۹۹)

باب علی بیار کا کہنا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ دیکھو حدیث ۹۹

(۱۸) بَابُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ (م-۲۲) عَنْ الشَّارِبِ

باب جو بچہ بیمار لے کر لے جائے تاکہ اس کے لئے دعا کی جائے

(متكرر- ۱۵۶) (۱۹) بَابُ تَسْبِيحِ لَمْرِيضِ لَمَوْتٍ (م-۲۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ

دیکھو حدیث ۱۵۶ باب بیمار کا موت کی آرزو کرنا انس بن مالک سے روایت ہے

مَا لَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ صَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَتَّعِينَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتِ

کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف کی وجہ سے موت

مِنْ ضَرِّ آصَابَةٍ فَإِنْ كَانَ لِأَبَدٍ فَأَعْلًا فليَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ

پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے اگر مرد آرزو کرنے والا ہی ہے تو یوں کہے لے اللہ محمد کو زندہ رکھے جب تک زندگی میرے لئے بہتر

خَيْرٌ لِي وَتَوْفِئِي إِذَا كَانَتْ أَوْ فَانًا خَيْرٌ لِي (م-۲۸) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

اور مجھ کو وفات سے جب وفات میرے لئے بہتر ہو قیس بن ابی حازم سے روایت ہے

قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْخَتَّابِ لَعُودًا وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيِّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ

کہ ہم ختیب کے پاس ان کی عیادت کے لئے گئے اور انہوں نے سات داغ گولے تھے اور فرمایا کہ ہمارے ساتھی جو اٹھ گئے

سَلَفُوا أَهْضُوا وَأَنْتُمْ تَتَّقُصُّهُمْ اللَّهُ تَبَاؤُرَاتٍ أَصَبْنَا مَا لَا يَجْدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا الْكُرَابُ

گھڑ گئے اور دیا ہے ان کا لقمہ ان میں کیا ہے اور ہم کو اس قدر مال ملے کہ اس کے لئے سوائے کھجور کے کوئی جگہ نہیں پاتے

رفیق صفحہ ۱۳۲۵
۱۷ حضرت عائشہ نے جب سخت مر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے لئے اس بیماری سے موت بھی مقدر ہوا اور میں زندہ رہا تو بھی میں آپ کے بعد دعا اور استغفار کرونگا حضرت عائشہ کو یہ بات ناگوار گذری اور انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ میری موت کا ذکر کرتے ہیں گو یا کہ آپ میری موت چاہتے ہیں اور آپ کو میری موت کا کیا غم ہے کیونکہ آپ کی اور بھی بیویاں ہیں تو میں تمہوں کی تو

آپ کسی اور بیوی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز تو میں سے ہے جس کے لئے دو لہا کا دوں پر ذہل ہونا بھی ہیں اور معمولی طور پر شوہر کا بیوی کے پاس جانا بھی + ملے معلوم ہوتا ہے عین اسی وقت نبی کریم صلعم کے مرض کا آغاز ہو گیا اور آپ کو سخت مر درد محسوس ہوا اور یہ تو آپ کو پہلے سے علم دے دیا گیا تھا کہ آپ کی وفات قریب ہے جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کو سمجھا یا کہ اپنی موت نہیں بلکہ آپ کی اپنی موت قریب ہے + عائشہ صحیح پڑا) اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کے اہل حضرت ابو بکر ہی ہیں اور دوسری طرف عام طور پر سب مسلمان بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت کے قابل تھے تو گو پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ خلافت کی وصیت حضرت ابو بکر سے ہی کر دیں لیکن بعد میں اس کی ضرورت نہ سمجھی کیونکہ خدا کی طرف سے آپ کو علم ہو چکا تھا کہ ایسا ہی ہو گا + اسلئے انعام ۱۰۳ ص ۱۰۳ کی طرح ہیں + اسلئے حتیٰ ما تجعل فی فی امرنا تکلیف کثیرا ۹۵ کے الفاظ میں ہی وہ ہرایا ہے اس کے بعد کا حضرت چھوڑ دیا ہے اسلئے الفاظ کے خفیت سے فرق کے ساتھ حدیث کو وہ ہرایا ہے + وقال لما حضر رسول الله صلعم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلعم هلم آتيتكم كتابا لا تضلوا جده فقال عمران النبي صلعم قد غلب عليه الرجوع وعندكم القرآن حسينا كتاب الله فاختلفت اهل البيت فاختلفت ما هم منهم من يقول ما قال عمر قلما اكلوا والمغزو والاختلاف عند النبي صلعم الله عليه وسلم قال رسول الله صلعم الله عليه وسلم قوما قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلعم الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولظلمهم وبمهموث ۲۵۵۲ ص ۲۵۵۲ لفظ ۱۷۷۷ کے ہیں جس کیونکہ انہوں نے اس حالت میں وفات پائی کہ ان کے پاس دنیا کا مال بہت تھا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال کی بخت انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے

وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاَنَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ شُمَّ

اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے نہ روکا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا پھر

أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَسْلُومَ يُوجَعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

ہم ایک دفعہ پھر ان کے پاس گئے اور وہ اپنا ایک یاغیچہ بنا رہا ہے تھے تو کہا کہ مسلمان کو ہراس چیز کا اجر دیا جاتا ہے جسے وہ خرچ کرتا

يَتَفَقَّهُ الْإِنْفَى شَيْءٌ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا الثَّرَابِ (۲۱۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

ہے سوائے اس چیز کے جسے وہ اس مٹی میں دفن کرتا ہے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا أَعْمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَكَأَنْتَ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اور آپ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَا أَذْأَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدُّوا

کو یا رسول اللہ فرمایا ہرگز نہیں اور نہ مجھے مگر کہ اللہ مجھ کو اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانک لے گا میں اپنے اعمال

وَقَارِبُوا وَلَا يَسْتَمْتِينَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّ أَنْ يَزِدَّ أَحْيَاءُ

کو درست رکھو اور خدا کا قرب چاہو مگر میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے ایک آدمی تو اس لئے کہ خدا وہ اور بیکلام کرے اور

رَمَّا مَسِيئًا فَلَعَلَّ أَنْ يَسْتَعْتَبَ (م- ۳۰۲۳) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۸۴۳)

اور وہ اس لئے کہ شاید وہ معافی مانگ لے دیکھو حدیث ۱۸۴۳

(۲۰) بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ بَدْتُ سَعْدًا عَنْ أَبِيهَا

باب بیمار عیادت کرنے والے کا بیمار کے لئے دعا کرنا اور عائشہ بنت سعد نے اپنے باپ سے روایت کی ہے

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۱۵۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اے اللہ سعد کو شفا دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اتَى مَرِيضًا أَوْ اتَى بِهِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے یا وہ آپ کے پاس لایا

قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ

جاتا تو کہتے اے سب لوگوں کے رب سختی کو دور کر دے شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا ایسی شفا

شِفَاءٌ لَا يَأْتِي إِلَّا بِرِسْقِمَا (۲۱) بَابُ وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ (م- ۳۰۲۴)

کہ کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے باب بیمار کی عیادت کرنے والے کا وضو کرنا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۵۸) بَابُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ

دیکھو حدیث ۱۵۸ باب جو شخص دبا اور بخار کے دور کرنے کے لئے

وَأَخْبَرَهُ (م- ۳۰۲۵) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۹۵۶)

دعا کرے دیکھو حدیث ۹۵۶

پر کہے گئے ہیں۔ سعد ادب یعنی صواب کو چاہتا ہے یعنی ایسے رستے کو جو افراط و تفریط سے پاک ہے یا اپنے اعمال کو درست رکھو اور قاربوا کے بھی دو معنی کے گئے ہیں۔ اعتدال کی راہ سے قریب رہو یا اللہ کا قرب چاہو۔ دونوں صورتوں میں دوسرے معنی زیادہ نوزوں ہیں، مگر وہی لفظ میں صرف ایک جملہ چھوڑ دیا ہے۔ بسواً صفت الیہ۔ یہ موت کی دعا نہیں بلکہ آپ کے آخری سانس تھے جب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے رفیق اعلى سے ملا دے۔ اے میں لفظ یہ ہیں۔ قال دخل علی انبی صلی اللہ علیہ وسلم وانما یرضی فتوضا (عنوان باب کا تعلق اسی لفظ سے ہے) فصب علی اوقال صبا علیہ فقلت لا یردنی الا کلالۃ فکیف المیراث فانزل الیۃ الفرائض۔ ملا اس کے لفظ م۔ ۳۰۲ کے ہیں۔ مرتبہ بلال کے متعلق یہ نفع عقیرتہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے +

ملا یعنی انسان کو جو مال ملا ہے اگر وہ اسے کسی کام پر بھی لگا تا چلا جائے تو اس کا اجر ملا ہے لیکن جو انسان مال کو مٹی میں فن کرتا ہے یعنی اسے جمع کرتا چلا جاتا ہے اور کسی کام پر نہیں لگا تا تو اسے کوئی اجر نہیں ملتا بعد کے الفاظ خود اسی معنی کے

مطلب نہیں کہ عمل سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا یا اپنے اعمال پر اللہ تعالیٰ اچھا اجر نہیں دے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر پھر وہ نہ کرے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اعمال سے انسان کے دل میں ایک بڑائی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔

کے معنی دو طرح کے ہیں۔

۷۶ - کتاب الطب

۷۶ - طب کی کتاب

باب ۱۱۵۱ - ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (۲۱۵۱) عن أبي هريرة

باب ۱۱۵۱ - ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (۲۱۵۱) عن أبي هريرة

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا

أنزل له شفاء (۲) باب ۱۱۵۲ هل يداوى الرجل لمرأة أو المرأة لرجل

(م- ۳۰۲۶) عن زبيدة بنت جحيم (متكرر- ۱۳۲۷) باب الشفاء في

ثلاث ۲۱۵۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة

شربة عسل وشربة حجام وكية نادرة أمي عن النبي رفع الحديث

روى في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم (م- ۳۰۲۷)

عن ابن عباس (متكرر- ۲۱۵۲) باب الداء وأبو العسل قول الله تعالى

فيه شفاء للناس (م- ۳۰۲۸) عن عائشة (متكرر- ۲۰۵۱) (۲۱۵۳) عن

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

إن كان في شيء من أدويةكم أو يكون في شيء من أدويةكم خدفة

أو شربة عسل أو كدابة ينار توافق الداء وما أحب أن

أكتوي (۲۱۵۴) عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم

بمرض فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه فشق عليه

علا اس اموال کو بیان کر کے مسلمان کے سامنے تحقیق کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بیماری بلا علاج نہیں۔ باں موت خدا کا اس قانون ہے۔ وہ علیحدہ امر ہے مگر بیماری کے علاج سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہئے۔ متفرق چیزیں جن کا نام لیا ہے کہ ان میں شفا ہے یہ بھی درحقیقت علم کا دروازہ کھولا ہے کہ یہ معمولی چیزیں ہیں جن سے کوئی بیمار دیوں میں شفا ملتی ہے۔

لفظ ۳۰۲۶ کے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں یہ کام کافی تھیں۔ فوج کو بانی پلانٹا۔ ان کی خدمت کرنا۔ مقتولوں اور زخمیوں کو دیکھنے کے جاننا۔ اس میں علاج بھی شامل ہوگا۔

تو قرآن شریف میں بھی ہے۔ فیہ شفاء للناس اور ترجمان سنی بھی بتاتا ہے کہ شہ کی ایک بیماریاں کیلئے دوا ہوتی دوا سوکت مریخ تھے جس کا حدیث ۲۱۵۳ میں مذکور ہے جس کے لفظ یوں ہیں۔ ان کان فی شیء من ادویتکم او یكون فی شیء من ادویتکم خدیفی شرطہ محجم او شربة عسل اولداعہ بنا توافق الاء جن میں سے دوا شفاء کو منگ کیا اس لئے کہ اس سے بیماری کو ازیت پہنچی ہے۔ لفظ دوی لفظ ہیں۔ لفظ ۳۰۲۶ کے ہیں۔ لفظ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دقت کی مراد وہ دوائیوں کا ذکر فرماتے تھے۔

تو قرآن شریف میں بھی ہے۔ فیہ شفاء للناس اور ترجمان سنی بھی بتاتا ہے کہ شہ کی ایک بیماریاں کیلئے دوا ہوتی دوا سوکت مریخ تھے جس کا حدیث ۲۱۵۳ میں مذکور ہے جس کے لفظ یوں ہیں۔ ان کان فی شیء من ادویتکم او یكون فی شیء من ادویتکم خدیفی شرطہ محجم او شربة عسل اولداعہ بنا توافق الاء جن میں سے دوا شفاء کو منگ کیا اس لئے کہ اس سے بیماری کو ازیت پہنچی ہے۔ لفظ دوی لفظ ہیں۔ لفظ ۳۰۲۶ کے ہیں۔ لفظ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دقت کی مراد وہ دوائیوں کا ذکر فرماتے تھے۔

(م- ۳۰۳۲) عَنْ عَائِشَةَ (م تکرر ۳۰۹۳) (۹) بَابُ السَّعُوطِ (م- ۳۰۳۳)

دیکھو حدیث ۳۰۹۳ بائبل باب تکبیر میں دوائی ڈالنا

۱۷ بیان اور بھی
اختصار سے ہے۔
انہا کا ت نامہ
بالتبیینة وتقول
هو البغيض
زانیہ سندیہ
یعنی مرخص اسے
پس نہیں کرتا،
الذافر (م تکرر ۳۰۹۳)

(م- ۳۰۳۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۰۹۴) (۱۰) بَابُ السَّعُوطِ بِالنَّقْطِ الْهِنْدِيِّ

دیکھو حدیث ۳۰۹۴ بائبل تکبیر میں قسط ہندی بحرئی کا تورا ڈالنا

۱۷ بیان لفظ
یہ ہیں یعنی اللہ
صلعم احتجم
واعطى الحجام
اجروا واستعط
رناک میں دوائی
ڈالنا (۱۰۵) کو
جو ابن عباس
کی روایت ہے

الْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَاوِرِ مِثْلُ كَثُطٍ نَزَعَتْ وَقُرَأَ

عَبْدُ اللَّهِ قَشِطًا (م- ۳۰۳۵) عَنْ اُمِّ قَيْسٍ (م تکرر ۳۰۹۵) (۱۱) بَابُ آيِ

نَسْتِ كَثُطٍ بِرُحْمَا (م تکرر ۳۰۳۶) عَنْ اَبِي قَيْسٍ (م تکرر ۳۰۹۶) (۱۲) بَابُ كَيْفِ

سَاعَةِ يَحْتَجِمُ وَاحْتِجَمَ أَبُو مُوسَى كَيْلًا (م- ۳۰۳۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۰۹۷)

۹۸۱ (۱۳) بَابُ الْحَجْمِ فِي الشَّفَرِ وَالْاِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بَيْحِنَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۰۳۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۰۹۸)

(م- ۳۰۳۹) بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ (م- ۳۰۳۹) عَنْ أَنَسٍ (م تکرر ۳۰۹۹)

(م- ۳۰۴۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۳۱۰۰) (۱۴) بَابُ الْحِجَامَةِ

عَلَى الرَّأْسِ (م- ۳۰۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَيْحِنَةَ (م تکرر ۳۱۰۱)

(م- ۳۰۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۲) (۱۵) بَابُ الْحِجْمِ مِنَ

الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاعِ (م- ۳۰۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۳)

(م- ۳۰۴۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۳۱۰۴) (۱۶) بَابُ الْحِجْمِ مِنَ الْكَافِ

۹۸۱ (۱۳) بَابُ الْحِجْمِ فِي الشَّفَرِ وَالْاِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بَيْحِنَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۰۳۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۰۹۸)

(م- ۳۰۳۹) بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ (م- ۳۰۳۹) عَنْ أَنَسٍ (م تکرر ۳۰۹۹)

(م- ۳۰۴۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۳۱۰۰) (۱۴) بَابُ الْحِجَامَةِ

عَلَى الرَّأْسِ (م- ۳۰۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَيْحِنَةَ (م تکرر ۳۱۰۱)

(م- ۳۰۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۲) (۱۵) بَابُ الْحِجْمِ مِنَ

الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاعِ (م- ۳۰۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۳)

(م- ۳۰۴۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۳۱۰۴) (۱۶) بَابُ الْحِجْمِ مِنَ الْكَافِ

۹۸۱ (۱۳) بَابُ الْحِجْمِ فِي الشَّفَرِ وَالْاِحْرَامِ قَالَهُ ابْنُ بَيْحِنَةَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۰۳۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۰۹۸)

(م- ۳۰۳۹) بَابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ (م- ۳۰۳۹) عَنْ أَنَسٍ (م تکرر ۳۰۹۹)

(م- ۳۰۴۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م تکرر ۳۱۰۰) (۱۴) بَابُ الْحِجَامَةِ

عَلَى الرَّأْسِ (م- ۳۰۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَيْحِنَةَ (م تکرر ۳۱۰۱)

(م- ۳۰۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۲) (۱۵) بَابُ الْحِجْمِ مِنَ

الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاعِ (م- ۳۰۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م تکرر ۳۱۰۳)

۱۷ بیان لفظ
یہ ہیں یعنی اللہ
صلعم احتجم
واعطى الحجام
اجروا واستعط
رناک میں دوائی
ڈالنا (۱۰۵) کو
جو ابن عباس
کی روایت ہے
۹۸۱ (۱۳) بَابُ
الْحِجْمِ فِي
الشَّفَرِ
وَالْاِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ
بَيْحِنَةَ
عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
م تکرر ۳۰۹۸
۹۸۱ (۱۳) بَابُ
الْحِجْمِ فِي
الشَّفَرِ
وَالْاِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ
بَيْحِنَةَ
عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
م تکرر ۳۰۹۸
۹۸۱ (۱۳) بَابُ
الْحِجْمِ فِي
الشَّفَرِ
وَالْاِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ
بَيْحِنَةَ
عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
م تکرر ۳۰۹۸
۹۸۱ (۱۳) بَابُ
الْحِجْمِ فِي
الشَّفَرِ
وَالْاِحْرَامِ
قَالَهُ ابْنُ
بَيْحِنَةَ
عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
م تکرر ۳۰۹۸

النبي صلعم يقول عليكم هذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية وراوتى شفائين هي اشفية شفاء كى جمع هي بيان صرفت دوکا ذکر ہی یحيط
به من العذرة ذوق باغی کی بیماری، ویله، به درواسرین ڈالی جاتی ہے) من ذات الجنب و دخلت على النبي صلعم بابن لى لم ياكل الطعام فقال عليه
فدعا بماء فرش عليه ثم صرفت لفظه من احتجم النبي صلعم وهو صائم ثم قال احتجم النبي صلعم وهو صائم
۱۷ بیان کچھ روایت ہے۔ انہ سنل عن اجماع الحجام فقال احتجم رسول الله صلعم جمعة اوطوية واعطاه صاعين رطلين من احد صاع ہے، من
طعام وكلهم مولاه فنفوا عنه وقال ان مثل مات اذ اوتيت به زمين دوا) الحجامه والنقط البحرى وقال لا تمدن مواصيكا نكهة بالفتور انكليبون سے رہانا
عن العذرة ركعتى تكليفين) وعلیکہ بالنقطہ، ۱۷ بیان لفظ اور ہے، دعا المقته (ابن شان تابی)، ثم قال لا ابرص حتى احتجم فالى سمعت رسول
الله صلعم يقول ان فيه شفاء ۱۷۔ ہوی لفظ ہے حضرت صلعم نے سر میں چھینی گوانی، ۱۷ صرفت یہ لفظ ہے۔ ان رسول الله صلعم احتجم فی راسه ۱۷۔ ۱۷ بیان
چھینی گوانے کی وجہ ہی دی ہے اور تمام ہی۔ احتجم النبي صلعم فی راسه وهو صائم من رحم كان به بما يقال له الحى جل روفى رواية ان رسول الله صلعم
احتجم وهو صائم فی راسه من شقيقة كانت به ۱۷۔ تواخى الداء کے لفظ چھوڑنیے ہیں باقی لفظ ہی ہیں ۱۷

(۵-۴۳-۳) عَنْ كَعْبِ بْنِ جَحْرَةَ (متكرر-۹۲۷) (۱۷) بَابُ مَنْ اَكْتَوَى
دیکھو حدیث ۱۹۲۷

اَوْ كَوَى غَيْرَهُ وَفَضِّلَ مَنْ لَمْ يَكْتُو (م-۴۴-۳) عَنْ جَابِرٍ (متكرر-۲۱۵۳)
یا اور کسی کو دل غصے اور اس کی نصیحت جوائے تین داغ نہ لے
دیکھو حدیث ۲۱۵۳

(۲۱۵۷) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنَ عَيْنٍ
عمران بن حصین سے روایت ہے
کردم ذکر نہ کرنا چاہئے مگر نظر کے غرض سے

أَوْ حَمَةِ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ
پچھو کی زہر سے میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا
تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن عباس بیان کیا کہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَعَجَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَهْرُونَ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں لانی گئیں
میں ایک ایک نبی اور وہ نبی گذرنے لگے

مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى زَفَعَنِي سِوَادٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَا
ان کے ساتھ ایک ایک گروہ تھا اور کوئی نبی جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت میرے سامنے لانی گئی میں نے کہا یہ
ہذا أُمَّتِي هَذَا قَبِيلُ هَذَا مُوسَى وَقَوْمَهُ قَبِيلُ الْأَنْفِقِ فَإِذَا سِوَادٌ

کیا ہے کیا یہ میری امت ہے کیا یہ میری قوم ہے
مجھ سے کہا گیا انفق کو دیکھئے وہ جھاڑو ایک بڑی جماعت ہے

يُمْلَأُ الْأَنْفِقُ ثُمَّ قَبِيلُ لِي نَظَرُهَا هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي أَفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سِوَادٌ
جس نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا ہے پھر مجھ سے کہا گیا آسمان کے کناروں میں اور دیکھئے اور وہ دیکھئے تو ایک گروہ عظیم تھا
عَلَا الْأَنْفِقِ قَبِيلُ هَذَا أُمَّتُكَ وَبَدَخَلُ الْجَنَّةِ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا لِي بِحَسَابِ شَمِّ

انفق کو بھر دیا ہے مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں سے ستر ہزار جنت میں حساب سے پیدا ہونے والے ہیں
دَخَلَ لَمْ يَبْدَأْ بِسُحُفَا قَاضٍ الْقَوْمُ وَقَالُوا خَسِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ فَخَسِنَ

آپ (گھر میں) داخل ہوئے اور گھر کو انہیں نہ تپا تو لوگ باتیں کرنے لگے اور کہا ہم ہی وہ لوگ ہیں اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے اسے رسول کی تباہی
هُمْ وَأَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كَلْبِ الْأَوْفَانِ وَالَّذِينَ فِي الْبَاهِلِيَّةِ فَلَبِمَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ

کی ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں یا ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی اور ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَسِنَ فَقَالَ هَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ

خبر پہنچی تو آپ ہر زمانہ اپنے لائے ستر ہزار یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جھاڑو پھونک نہیں کرتے اور نہ داغ دیتے ہیں
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عَكَاشَةُ بْنُ مَخْصُومٍ أَمِنَهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَعَنَهُمُ

اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں عکاشہ بن مخضوم نے کہا یا رسول اللہ کہ میں ان میں سے ہوں فرمایا ہاں
فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ إِنَّهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ (۱۸) بَابُ الْأَشْهَادِ وَالْكَفْلِ مِنَ الرَّسُولِ

ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا میں ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے آگے نکلی گیا باب اللہ اور سر مرگ نام لے
زہر کی صورت میں دم کیا جائے۔ حدیث کے آخر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو جھاڑو پھونک نہیں کرتے، ستر ہزار سے مراد وہ بڑی
تعداد ہے یعنی ان کے نیک اعمال اس قدر ہوں گے کہ گویا ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہوا۔ اسے اس تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہے یعنی وہ لوگ جن کا کامل بھروسہ
اللہ کی ذات پر ہے وہی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ تو ہمتا میں نہیں پڑتے نہ جھاڑو پھونک کرتے ہیں اور نہ
بدستگون لیتے ہیں۔ داغ دینے کی بنیاد بھی کسی توہم پر ہی معلوم ہوتی ہے۔ جھاڑو پھونک میں اور دم کرنے میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ جھاڑو پھونک بے معنی
الفاظ سے ہوتی ہے اور دم میں دعا ساتھ ہوتی ہے۔ عکاشہ ایک خاص پتھر ہے جس سے سر مرگ بنا ہے کھل عام ہے۔ وصال آنکھوں کی

بعض روایتیں ہیں کہ
میشی ہے۔۔۔ قال
ابن علی بن ابی سلم
زمین اللہ یبدیہ
۲۰۱۸
وَأَنَّا وَقَدْ تَحْت
برقعة والقمل
یبتا شرع راسی
فقال الیؤذیک
ہوامک قلت
نعم قال فاحلق
رعم ثلاثۃ ایام
اولیٰ طہر سبتہ او
انک نسیتکہ قال
ایوب لا ادرے
بأینہن بدأ
لک یہ مکر روایت
مختصر ہے۔۔۔ جن
انہ صلعہ قال
ان کان فی شح
من اذوتہ کرفا
فتی شرطہ تعجم
اولیٰ عتہ بنا واما
احب ان اکثری
مطل نظرہ شرآج
ایک مسلم امر ہے
دم کرنا اور حقیقت
دعا اور تو جو کو ڈانا
ہے۔ اور یہاں
اس بات کو عمران
کی طرف منسوب
کیا گیا ہے کہ انہوں
نے یہ کہا کہ نظر کے
ہزار اور پھونک کے

۱۷۸۰ (۱۸۰) باب (۲۲) ر (م) - ۳۰۵۰ عن عائشة ر (متكرر) (۲۰) (۱۹) باب

اس بارہ میں ام عطیہ سے روایت ہے دیکھو حدیث ۱۷۸۰

۱۷۸۱ (۱۸۱) باب (۲۱) ر (م) - ۳۰۴۹ عن ابي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

جزام ابو ہریرہ سے روایت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لاعداؤى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفمن البعدوم كما تفر من الاسد

ذکوئی متعدی بیماری لگ جاتی ہے نہ بدشگون کوئی چیز سے اور نہ مہ اور نہ سفرا اور جزامی سے اس طرح بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے

۱۷۸۲ (۱۸۲) باب (۲۰) ر (م) - ۳۰۴۸ عن سويد بن زياد (متكرر) (۱۸۴)

باب کھنی آنکھ کے لئے شفا ہے دیکھو حدیث ۱۷۸۲

۱۷۸۳ (۱۸۳) باب (۱۹) ر (م) - ۳۰۴۷ عن ابن جابر بن عائشة ر (متكرر) (۱۷۱)

بابیہ دوانی جو زبردستی میں ڈالی جائے دیکھو حدیث ۱۷۸۳

۱۷۸۴ (۱۸۴) باب (۱۸) ر (م) - ۳۰۴۶ عن ابي قيس ر (متكرر)

دیکھو حدیث ۱۷۸۴

۱۷۸۵ (۱۸۵) باب (۱۷) ر (م) - ۳۰۴۵ عن عائشة ر (متكرر) (۱۶۱) باب العذرة

دیکھو حدیث ۱۷۸۵

اس کا مضمون
م ۲۰۰۰ کا ہے
دیکھو نوٹ ۱
صفحہ ۲۰۰
یوں ہیں :- ان
امراء توفی زواجا
فاشکتک عبدہا
ذکر وہا للنبی
صلعم و ذکر و
له الخلل وانہ
یحاف علی عبدہا
نقال لعدا کانت
احد اکن تمکت
فی بیتہا فی شہ
احلاسہا دانی
احلاسہا فی شہ

فاذہرکب رمت بعة فلا ربعة اشہر و عشوا۔ مرمہ سے چونکہ زینت بھی ہوتی ہے اسلئے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ آنکھوں کیلئے اور دوائیاں بھی بہت ہیں۔ اسلئے اس کے
اعداء کا اسم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بیماری رہیں کو بے وہ دوسرے کو بھی لگ جائے۔ طیرہ کسی چیز سے بدشگون لینا۔ ہامہ سر کو بھی کہتے ہیں اور ایک پرند کا نام بھی ہے
جوراست کو نکلتا ہے اس سے بھی بدشگون لیتے تھے بعض نے اسے بوم کہا ہے۔ عرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ جب کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو اسکی روح
اس پرندکی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کستی رہتی ہے جیسے پلاؤ تھے پلاؤ پھر جب اسکا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتی ہے۔ اور بعض کا یہ بھی خیال تھا کہ میت کی ہڈیاں یا کسی روح
باورن جاتی ہے اور اسکو صدی بھی کہتے ہیں۔ صفر اس سب کو کہا جاتا تھا جو وہ خیال کرتے تھے کہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سب
اسکو تکلیف دیتا ہے ظاہر ہے کہ طیرہ، ہامہ اور صفر سب تو ہمت تھے جن کا ابطال اسلام نے کیا۔ لیکن اسلئے ساتھ متعدی بیماری کا لگانا درست معلوم نہیں ہوتا
البتہ متعدی بیماری سے خائف ہونا بھی درست نہیں۔ اس حدیث کے آخر پر ہے۔ فممن البعدوم کما تفر من الاسد۔ مجزوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے
ہو۔ تو اس معلوم ہوا کہ ہذا متعدی بیماری ہے اور مجزوم سے الگ لینے کا حکم نہیں اس کے سامنے لاء و دورست نہیں رہتا۔ تو یقیناً اس حد میں کوئی غلطی نہیں ہوئی
ہے۔ متعدی بیماریوں کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ۱۰ یہ سچ ہے کہ وہ ہر ایک کو اڑ کر لگ بھی نہیں جاتیں سبلہ طبیعت میں اس کیلئے کچھ متعدی ہوتا تو اس پر اس
کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بعض وقت متعدی بیماری کے مریض کے پاس سو سو آدمی آتے ہے تو ایک کو وہ لگتی ہے نناوے کو نہیں لگتی۔ کوئی ایسے ہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرماتے ہوئے۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت پھر ۳۰۹ پر آئی ہے اور اس میں اسی مضمون کا عاودہ کے دراعربی کا فقرہ بیان کر کے بڑھایا ہے کہ ابو سلمہ نے روایت کی ہے کہ
میں نے اسکے بعد ابو ہریرہ کو کستے تھے کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ جن کے بوشیوں میں بیماری پیدا ہوگئی ہو وہ ان کو ان بوشیوں میں نہ مائے جو تندرست ہیں اور
پہلی حدیث (لاعداؤی الخ) کا انکار کیا تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے یوں بیان کرتے تھے تو ابو ہریرہ نے انکار کیا۔ اس صحاح معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں کوئی غلطی
رہی ہے۔ اسلئے اس کے لفظ میں ہر ایک بیان صرف ایک فقرہ ہوا۔ ان ابابکر نے قبل اپنے صلعم دھوہیت۔ اس کا تعلق عنوان باب کے کچھ نہیں بلکہ اس کے حصہ کا جو اس
اسلئے ساتھ اس روایت کے ساتھ مایا گیا ہے۔ اس کے لفظ بعینہ ۱۷۸۴ کے ہیں۔ اس فقرہ صلعم کے منہ میں دانی ڈالنے کا ذکر ہے حالانکہ اپنے روکا تھا۔ اسلئے
استلام قیس کے ان الفاظ تھے ہوتی جو صلعم سے منہ لگتی ابتدا ہوتی ہے لیکن بیان مضمون بالکل اور ہے یعنی بچوں کے گلے کی تکلیف کا علاج ان لفظوں سے وہا کرنا اور اس کا
مضمون ۳۰۴۲ پر پتھر لگا کر چکاتے۔ بیان لفظ یوں ہیں۔ وقالت دخلت باین علی رسول اللہ صلعم وقد اعلمت علیہ ریحہ کے عذرہ کو انگیٹیں اور اٹھانا، من العذرة
رطلن کا وہ حصہ ہے جہاں لگوں کی تکلیف ہوتی ہے اور گلے کی بیماری بھی بولا جاتا ہے، فقال علی ما تدرن (مخمس) میں وضع ہو اور مراد گلے کا اوپر اٹھانا ہی اولاد کن ہذا الطلاق
خلین ہذا العود اللہک فان فیہ سببۃ اشقیۃ ممتہادات الجنب یسعط (مکس) میں ڈالی جاتی ہے، من العذرة ولیلہ من ذات الجنب سمعت الزہری یقول بات
لخصۃ قلت لسقیان فان معتر یقرا۔ اعلمت علیہ قال لم یحفظ علیعت عذرہ۔ یعنی اعلمت علیہ نہیں بلکہ اعلمت عذرہ ہونا چاہئے مگر دونوں طرح درست ہے
حفظتہ من فی الزہری ووصف سقیان الفلہم یمنک بالاصبع یعنی اس کے گلے کا وہ حصہ جو ٹھوڑی کے نیچے ہوا لگی سے اٹھایا جاتا ہے، وادخل سقیان فی حنکہ انما یعنی
وضع حنکہ باصبعہ ولم یقل اعلقوا عند شیاء ملک علما کے الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ آخر پر صرف یہ لفظ زیادہ ہیں۔ فصلہم وخطبہم یعنی نماز بھی پڑھائی اور انکے

م خطاب بھی کیا اس حدیث کا تعلق کچھلے باب کے نہیں اور اس کے پہلے حرف لفظ باب بلا عنوان ہے البتہ میں اسے بجا کر علاج پائی ہے کی جو اور کچھ ہی تیز بخار کو پانی سے چسکا جاتا ہے

<p>(م- ۳۰۵۱) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ (متکثر - ۱۸۰) (۲۴) بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ دیکھو حدیث ۱۸۰ اصل بَابُ اسہال کی بیماری دوائے کی دوا</p>	<p>(م- ۳۰۵۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکثر - ۲۱۵) (۲۵) بَابُ لَا صَفْرَ وَهُوَ دَوَاءُ الْيَأْسِ دیکھو حدیث ۲۱۵ اصل بَابُ صفرا کوئی چیز نہیں ہے وردہ ایک بیماری</p>
<p>(م- ۳۰۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر - ۲۱۵) (۲۶) بَابُ ذَاتِ الْجَنْبِ دیکھو حدیث ۲۱۵ اصل بَابُ ذات الجنب ہے جو ریش میں ہوتی ہے</p>	<p>(م- ۳۰۵۴) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ (متکثر - ۱۸۰) (۲۱۵) (۲۱۵) عَنْ أَبِي طَالِبٍ وَأَنَّ دیکھو حدیث ۱۸۰ اصل اس سے روایت ہے کہ ابو طالب اور اس بن نصر نے</p>
<p>ابن النضر کو یاہ وکواہ ابو طلحہ بیدار رو فی روا ایتہ عن انس بن مالک اور ابو طلحہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا اور ایک روایت میں انس سے ہے</p>	<p>قَالَ أذن رَسولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک گھروں کو اجازت دی</p>
<p>يُرْوَاهُ مِنَ الْحِمَةِ وَالْأذن قَالَ انس كُوفِيَتْ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولَ اللّٰهِ (پچھو کے) زہرا درکان کے درد میں دم کریں اصل انس نے کہا کہ مجھے ذات الجنب کی وجہ سے داغ دیا گیا اور رسول اللہ</p>	<p>صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَىَّ وَشَهِدَنِي أَبُو طَالِبٍ وَأَنَّسُ بْنُ النُّضْرِ وَزَيْدُ ابْنِ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور ابو طلحہ اور انس بن نصر میرے پاس موجود تھے اور زید بن ثابت</p>
<p>ثَابِتٌ وَابُو طَالِبٍ كَوَاتِي (۲۷) بَابُ حَرْقِ الْخَصِيرِ لَيْسَ بِهِ الدَّمُ (م- ۳۰۵۵) اور ابو طلحہ نے مجھ کو داغ دیا بَابُ چٹائی کا جلانا تاکہ اس سے خون نہ کی جائے</p>	<p>عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکثر - ۱۹۴) (۲۸) بَابُ الْحَمِيِّ مِنْ فِيهِ جَهَنَّمُ (۲۱۵) دیکھو حدیث ۱۹۴ اصل بَابُ بخار و دورخ کی بھابھ ہے</p>
<p>عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمِيٍّ مِنْ ابن عمرو سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بخار دورخ کی</p>	<p>فِيهِ جَهَنَّمُ فَاطْفُوْهَا بِالسَّاءِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عِيْدُ اللّٰهِ يَقُولُ كَشَفْتُ عَنْ الرَّجُلِ بھابھ ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو نافع نے کہا اور عبد اللہ کا کرتے تھے ہم سے خدایاں کو دور کر</p>

اس کے نفخ
 م ۳۰۴۹ کے ہیں
 لیکن ابتدا میں
 ام قیس کے تعلق
 یہ بڑھایا ہے۔
 بنت محسن
 اسلامیہ اس
 خزیمة و کانت
 من المهاجرات
 الاول لاتی بابعث
 النبی صلعم وہی
 اخت عکاشة
 مگر یہاں حدیث
 کو منھا ذات
 الجنب پر ختم کر دیا
 ہے۔ البتہ ساتھ
 یہ بڑھایا ہے۔
 یرید انکست
 وهو العود الهندی
 مکر روایت
 کے لفظ یہ ہیں۔
 قال جابر جل
 الی لبیہ صادم
 فقال ان اخی
 استظن بطنہ
 فقال استفاه
 فضفاہ فقال انی
 سقیتہ فلم یزده
 الا استطلاقا

فقال صدق الله وکذب بطن اخياک تا بیده النضر عن شعبه ۴ اصل صفحہ نوٹ ۱۳۳۳ ۴ مکر روایت کا پہلا
 حصہ دربی ہے مگر پچھلے حصہ کا مضمون اور ہے۔ قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوی ولا صفر ولا هامة فقال اعروای یا رسول
 اللہ فمابال اہل تکون فی الرحم کما نھا الظمیاہ درین کی طرح دوڑتا ہے۔ فیاتی البعبعاہ الا جوب (خارش والا) فیذل حل بینہا فیجربھا فقال فمن اعلم
 الاول یعنی کوئی اسباب ایسے ہیں کہ بغیر ایسے اونٹ کے ساتھ ٹٹنے کے کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے وہ متعدی بیماری کہاں سے لایا ۴ ۱۳۳۳ اس کے نفخ
 م ۳۰۵۱ کے ہیں۔ علی ما تدعرون سے پہلے اتقوا اللہ بڑھایا ہے۔ اس حدیث میں ذات الجنب کے عود ہندی کے ساتھ علاج کا ذکر ہے ۴ ۱۳۳۳
 ہاں لفظ برون ہے اور رقی بھٹا چونکہ کو بھی کہتے ہیں جو بے معنی الفاظ سے ہوتی ہے اور دم کرنے کو بھی کہتے ہیں یعنی دبا بڑھ کر چھوٹنا جس میں دعا
 بھی ہے اور تو ج بھی۔ جہاں حدیث میں رقی کی ممانعت ہے تو وہ دی بھٹا چونکہ بے وجہ بھابھیت میں بے معنی الفاظ سے کہتے تھے۔ اور جہاں اس کی
 اجازت سے تو اس سے مطلب دعا کر کے دم کرنا ہے۔ حجتہ زہر کہتے ہیں اور بھٹا کے زہر پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ داغ دینے کو ہی کہیں معلوم ہے نہ نہیں
 فرمایا کیونکہ اس میں اذیت ہو گھر بھی یہ مرن تھا اور بعض صفا بے بعض وقت اس طریق پر ملنے کیا ہے ۴ ۱۳۳۳ لفظوں میں کچھ فرق جو یہاں یوں ہے۔ قال لما کتر عطف
 راس رسول اللہ صلعم البیضاء راوی جھوٹا سکوت رباعیہ وہ کار کثرت الخصال بالمدنی الخی سجادات فاطمة تغسل عن وجهہ الدم فلما رات فاطمة علیہا السلام اللہ

یزید علی الماء کثرة عمدت الی حصیر و فاحر قہار انہ یقتل علی جرم رسول اللہ صلعم فرقا الذم۔ کہہ میں زہر یہ ہے جہاں میں ہوتے اور وہ خون کے ہنے کو بند کرتی ہے ۴

علا نظرہی ہے
 مٹا وی نظرین۔
 خورکی جگہ فوج ہے
 سطل یا تفصیل
 زیادہ ہے۔ ان
 ناسا اور جاکا
 من عکلی و عریۃ
 قدوا علی رسول
 اللہ صلعم و تکلموا
 بالاسلام و قاتلوا
 یا نبی اللہ اننا
 کما اهل ضیوع
 رموشی رکھتے تھے
 یعنی ان کا دودھ
 پیتے تھے، و نم
 تکن اهل ریف
 رکھتے کر نیوالے
 نہ تھے و استوتوا
 المدینۃ فامر
 لهم رسول اللہ
 صلعم بذود
 و براع و امرهم
 ان یخرجوا فیہ
 فیشربوا من الباطا
 و اولیہا فانظفوا
 حتی کانوا ناحیۃ
 الحرة کفر و ابدا
 اسلامهم و قتلوا
 راسی رسول اللہ
 صلعم و استاقوا
 الذود و نبلع النبی
 صلعم فبثت النطب
 فی انامہ و امرهم
 فصروا و اعینهم
 قطعوا ایدہم و
 ترکوا فی ناحیۃ الحق
 حتی فاقوا علی حالہم
 بلکہ یہاں روایت
 مختصر ہے۔

(۲۱۶۰) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ اشْرَافَةَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتَا إِذَا رَأَتَا

فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ اشرفہ بنت ابی بکر کے پاس جب کوئی عورت لانی جاتی

بِالْمِرَّةِ قَدْ كَمَتَتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتْ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جِلْبَابِيهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ

جیسے بخار ہوتا اس کیلئے دعا کریں تو وہ پانی لے لیتیں اور اسے اس کے اور اس کے گرد جان کے درمیان ڈال دیتیں اور میں کہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْيَمُ أَنْ تَبْرُدِي بِالْمَاءِ رَمِي - ۳۰۵۷ ح ۳۰۵۸ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ مَتَكْرَرًا -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں دیکھو حدیث

۱۵۲۶ م (۱۵۲۶) ۳۰۵۸ ح ۳۰۵۸ عَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (مَتَكْرَرًا م ۱۵۲۵) (۲۹) بَابُ مَنْ

۱۵۲۶ م دیکھو حدیث م ۱۵۲۵ م ۱۵۲۵ م بَابُ مَنْ

خَرَجَ مِنْ أَرْضِ كَلْبَةَ لَيْمَةَ رَه - ۳۰۵۹ ح ۳۰۵۹ عَنْ اَسْنِ بْنِ مَالِكٍ (مَتَكْرَرًا م ۱۸۶) (۳) بَابُ مَا

سے چلا جائے جو سے موافق نہ ہو دیکھو حدیث م ۱۸۶ م ۱۸۶ م بَابُ مَا

يُرْكَبُ فِي الطَّاعُونِ رَه - ۳۰۶۰ ح ۳۰۶۰ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَتَكْرَرًا - ۱۵۵۷ (۱۵۵۷) (۲۱۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

طاعون کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے دیکھو حدیث م ۱۵۵۷ م ۱۵۵۷ م عبد اللہ بن عباس سے

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى لَازَاكَانَ

روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے یہاں تک کہ جب

بَسْمِغَ لَقِيَهُ امْرَأَةٌ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهَا فَخَبَرُوهُ أَنَّ

رستم (بسمغ) تک پہنچے تو فوجوں کے انساپ سے تھے ابو عبیدہ بن جراح اور آپ کے ساتھی انہوں نے ابو جحر بنی کہ

الْوَبَاءُ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ

ملک شام میں دبا پڑھی ہے ابن عباس نے کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے سے مہاجرین ادین کو بلاؤ

الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا

سواں نے ان کو بلایا اور پہلے ان سے مشورہ لیا اور انہیں خبر دی کہ ملک شام میں وبا پڑھی ہے تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا

فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتُ لَمْ يَكُنْ لِي مَرْوُكٌ لَنْزِي أَنْ تَرْجِعَ عَذَّةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَوُكٌ

ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ ایک بڑے کام لیتے ہیں اور ہم مشورہ نہیں دیتے کہ آپ بس وٹ جائیں اور ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ کے

بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزِي أَنْ تَقْدَأَهُمْ

ساتھ باقی لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور ہماری رائے یہ نہیں کہ آپ انہیں اس وندہیں

عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ رَتِفُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا إِلَى الْأَنْصَارِ قَدْ دَعَوْتَهُمْ

لے جائیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جائیں پھر فرمایا کہ میرے سے انصار کو بلاؤ میں نے ان کو بلایا

فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا

اور آپ نے ان سے مشورہ لیا سو وہ بھی مہاجرین کی راہ چلے اور اختلاف کیا جیسے انہوں نے اختلاف کیا تھا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے

عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ

اٹھ جائیں پھر فرمایا کہ میرے سے ان کو بلاؤ جو قریش کے بزرگوں مہاجرین فتح میں سے ہیں انہوں

فَدَعَوْتَهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالَا لَنْزِي أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ

تو میں نے ان کو بلایا تو ان میں سے دو آدمیوں نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے سے کہ آپ لوگوں کو وہاں

وَلَا تَقْدَأَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ لِي مَنْ صَبَّحَ عَلَى ظَهْرِ

لے جائیں اور اس وبار میں ان کو نہ بھیجیں تو حضرت عمر نے لوگوں میں منادی کی کہ میرے سچ کو روائی کے ستم سواد بونے والی ہوں

قال اذا سمعت بارض فلا تدخلوها و اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فقلت انت سمعته يحدث سعد اذ كان يكره

فَأَصْبَحَ عَلَيْهِ قَالُ أَبُو حَبِيدَةَ بْنُ الْحَجَّاجِ إِفْرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُو لَوْ

تو صبح ہی صبح کو اسی حالت پر ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا

غَيْرِكَ قَالَهَا يَا أَبَا حَبِيدَةَ نَعَمْ نَفْسٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ

ابو عبیدہ کہش آپ کے ہوا کوئی اور یہ کہتا ہوں ہم اللہ کی دیکھیں تقدیر سے اللہ کی (دوسری) تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں فرمائیے اگر آپ

أَنَّكَ لَبِئْسَ هَبِطْتَ وَإِدْبَالُكَ عَدُوٌّ تَارَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْآخَرَى جَدَابَةٌ أَلَيْسَ

اوست ہوں جو ایسی وادی میں اتاریں جس کی دو طرفیں ہوں ایک ان میں سے سرسبز ہو اور دوسری خشک ہو تو کہا آپ

إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدَابَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ

سرسبز (پھل) میں چرائیں تو اللہ کی تقدیر سے نہیں چرائیں گے اور اگر آپ اسے خشک میں چرائیں تو اللہ کی تقدیر سے نہیں چرائیں گے

سَجَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَبِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنْ عَمَّرْتَنِي

کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے اور وہ اپنی کسی ضرورت کے لئے کس گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا میرے پاس اس بار

هَذَا عَلَيْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ يَأْرَضُ فَلَا

میں علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ جب تم سونو طاعون کسی زمین میں ہے تو اس میں

تَقْدَرُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ يَأْرَضُ أَنْفُسُهُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذْ قَالَ فَجَدَّ اللَّهُ سَمْعَهُمْ

نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں پڑ جائے اور تم اس میں ہو تو اس میں سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو تو حضرت عمر نے اللہ کی مدد کی اور پھر

النَّصْرَ (۱۱۶۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِبَيْتِ

بیت کے ملک عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضرت عمر شام کی طرف نکلے جب سرخار کے مقام پر پہنچے

بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

تو آپ کو خبر پہنچی کہ شام میں با پھوٹ پڑی ہے تو عبدالرحمن بن عوف نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ يَأْرَضُ فَلَا تَقْدَرُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ يَأْرَضُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونو کہہ رہی ہو اس میں زمین میں ہے تو اس میں مت جاؤ اور جب کسی زمین میں پڑ

وَإِنْ تَمَّ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا (م- ۳۰۶۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متنکر- ۳۰۶۳) (م- ۳۰۶۳)

جائے اور تم اس میں ہو تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ نکلو دیکھو حدیث م ۸۰۴

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ (متنکر- ۱۳۰۵) (م- ۳۰۶۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متنکر- ۳۰۶۵)

دیکھو حدیث م ۱۳۰۵ دیکھو حدیث م ۳۰۶۵

ملک طاعون زدہ علاقوں میں نہ جانے کے متعلق اور وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانے کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۸۰۶۔ یہ وہ اصول ہے جس پر آج بھی دنیا بھر کی جگہ جگہ طاعون زدہ مقامات سے نکل کر کھینچا اور منت ہوا میں آجھانا منع نہیں حضرت ابو عبیدہ ایک غلط فہمی میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر نے نہایت صفائی سے کردی اونٹوں کو سرسبز جگہ میں لے جاؤ گے تو یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ اور جہاں گھاس نہ ہو وہاں چرانے لے جاؤ گے تو یہ بھی تقدیر الہی ہے لیکن سرسبز جگہ میں وہ پیش بھرا کر

آئیں گے اور خشک جگہ میں بھوکے رہیں گے۔ دونوں باتیں تقدیر الہی سے ہی ہوں گی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر تقدیر الہی کا منشاء قانون الہی ہی سمجھتے تھے۔ خدا کا ہر ایک قانون اس کی تقدیر ہے۔ پھر جس قانون پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے وہی ہی نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ خدا کی ہی تقدیر ہے یہ انسان کا اختیار ہے کہ خدا کے ایک قانون پر عمل پیرا ہو کر فائدہ اٹھائے یا دوسرے پر عمل پیرا ہو کر نقصان اٹھائے۔ اسی طرح اگر انسان نیک رست اختیار کرے نیک نتیجہ حاصل کرے تو وہ بھی تقدیر الہی سے ہوگا اور اگر رستہ اختیار کرے برا نتیجہ پالے تو وہ بھی تقدیر الہی سے ہوگا۔ کس قانون پر چلنا نیک رستہ کو اختیار کرنا رستہ انسان کا اختیار ہے وہاں کہ ہے ملک یہاں تقدیر ہے۔ قال رسول اللہ صلعم کلایں خل اللہ بینة المیسیم ولا الطاعون اس کیلئے دیکھو نوٹ ۱۱ ص ۸۰۴۔ ۱۱ ص ۱۳۰۵ اس میں ایک کی مختصر حدیث میں جو یہاں بھی آتی ہے یہاں حفصہ بنت سیرین انس بن مالک سے ہی روایت کرتی ہیں۔ قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی امور کا ذکر ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں۔ مطعون۔ مبطون۔ غرق۔ صاحب المدم اور شہید کی سبیل اللہ۔ یہاں فقہیوں میں ہے۔ عن النبی صلعم قال المبطون شہید والمطعون شہید ۱۱ ص ۱۳۰۵ میں جس کی مکرر روایت آگئی حدیث میں آتی ہے یہ ذکر ہے کہ جو شخص طاعون زدہ مقام میں صبر کرے ٹھہرے اس کی شہید کا اجر ہے۔ یہاں ہی شام سے ہی طاعون سے وفات پانچوں کے کا ذکر ہے جو دوسرے کی جہلائی اور وفات (بابی بر ۱۳۰۶)۔

رقبہ صفحہ ۱۳۳۵

کے لئے وہاں شیرا

رہتا ہے بیٹوں کا

ذکر بھی شامل اس

رنگ میں ہو کیونکہ

جب ہیرہ کی دیا

پڑتی ہے تو بھوک

ڈر کر جاتے ہیں۔

تو شخص خدا پر

توکل رکھتا ہوا شیرا

رہتا ہے اور وہاں

دو مڑوں کے کام آتا

ہے اس کیلئے بھینس

کا اجڑے۔ غرق او

صاحب المہدم ہا کاک

نوٹ کا کھار ہوجاتے

ہیں شامل اس لحاظ

سے انہیں شدید کسا

صفحہ ۱۳۳۵

ملق قریب انہی الفاظ

میں حدیث کو وہ بڑا

ہے اور بکے نوٹ

میں اس کے مضمون

کا ذکر چکا ہے۔

بیزد کچھ نوٹ ملے

صفحہ ۸۰۰

عنوان باب

میں رقی کا ذکر ہے

(۳۱) بَابُ أَجْرِ الصَّابِرِ فِي لَطَاعُونِ (م- ۳۰۶۴) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر- ۱۵۵۸)

باب طاعون میں صبر کرنے والے کا ثواب دیکھو حدیث ۱۵۵۸

(۳۲) بَابُ الرُّقِيِّ بِالْقُرْآنِ الْمُعْوَذَاتِ (م- ۳۰۶۵) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-)

باب قرآن اور معوذات کے ساتھ دم کرنا دیکھو حدیث

(۱۸۶۲) (۳۳) بَابُ الرُّقِيِّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

۱۸۶۲ (۳۳) سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنا اور اس بارہ میں ابن عباس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۰۶۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (مكرر- ۱۱۰۳)

رسول سے بیان کی جاتی ہے دیکھو حدیث ۱۱۰۳

(۳۴) بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقِيَةِ بِقَطْرِ مَنَ الْغَنَمِ (۲۱۶۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

باب دم کرنے میں چند بکریوں کی شرط لگانا ابن عباس سے روایت ہے

أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِسَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند نفر پانی والوں پر گزے جن میں ایک

سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي

سانپ کا کاٹا ہوا تھا پانی والوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم میں کوئی بھڑھیونک کرنے والا ہے

الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَإِنْ تَلَّقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ

پانی کے پاس ایک شخص سانپ کا کاٹا ہوا ہے تو ان میں سے ایک شخص چلا اور اس نے چند بکریاں (اجرت) گنہہ کر سوزہ فاتحہ

ذَابَرَأَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُهُ إِذْ لَكَ وَقَالَ لَوْ أَخَذْتُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا

پڑھی تو وہ اچھا ہو گیا اجودہ بکریوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا تم نے کتاب اللہ پر اجرت لی

حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ

یہاں تک کہ وہ مدینہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے تو رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ الْكِتَابِ اللَّهُ (۳۵) بَابُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کاموں پر تم مزدوری لیتے ہو ان میں اللہ کی کتاب زیادہ تر لائی ہے بلا باہج

رُؤْيَا الْعَيْنِ (۲۱۶۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا

نَظَرَ لِنَفْسِي فِي دَمِ كَرْنَا

نظر کر کے میں دم کرنا

نظر کر کے میں دم کرنا

نظر کر کے میں دم کرنا

اور حدیث باب میں نفث یعنی دم کرنے کا ذکر ہے اس لئے رقی میں دونوں باتیں شامل ہیں یعنی دعا پڑھ کر دم کرنا اور جھاڑ پھونکنا اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے جن احادیث میں رقی کی اجازت کا ذکر ہے وہ سب دعا کو پڑھ کر دم کرنا ہی ہے۔ اگے باب کا عنوان بھی یہی ظاہر کرتا ہے اور حدیث ۱۵۵۸ میں اس کی صراحت ہے۔ علاوہ خفیف اختلاف لفظی سے دوہرا کر آخر نفث کی کیفیت بیان کی ہے۔ ان لہجہ صلعم کا ان معنی غلظت نفسہ فی المرض الذی مات فیہ بالبعوضات فلما نقلت انتفتح علیہ جن دلم صوم بین نفسہ لیراھا انما اللہ الزہری کیف یفتق قال کان یفتق علیہ وہ نامہ ہادیجہ معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب ان اس میں ہر قسم کے ممکن شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دم ۳۰۶۵ میں نقل ہوا اللہ اور معوذتین کا ذکر ہے تو یہ دم کرنا ہی الحقیقت ایک دعا ہے۔ بلا یہ روایت آگے حدیث ۲۱۶۳ میں مذکور ہے۔ بلا کہ روایت کسی قدر اختصار سے آئی ہے۔ ان ناسا من اصحاب اللہ صلعم اتوا علی من من اصحاب العرب فلم یقرؤہم فیدنما ہم کذلک اذ لک غم سینا اذ لک نقار اهل معکومن دواء اور ان فقالوا انکر لم تقرونا ولا نفعنا حتی نتجعلوا الناجعوا فجعلوا لهم قطیعا من الشفاء فجعل یقرأنا بالقرآن ویجہم بزلانہ ویضن وینقل تنوک ہے دم کرنے یا پھونک مارنے وقت پھر ابن انسان کے تنوک کے بھی ساتھ پھیلے جاتے ہیں بیضل سے ہی مراد ہے۔ ذرا فاقوا بالشفاء فقالوا لا نأخذہ حتی نسال اللہ صلعم فسألوه فضحک وقال دما اذک انما رقیۃ خذوها واضربوا لی بسہم علا اس حدیث سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینے میں کوئی ہرج مہج نہیں ہوا کتاب اللہ ہر قسم کا دم کرنے کے اجرت لی تو آخرت میں لے لے اسے باڑھیں ایسا ابن عباس کی یہ حدیث اس واقعہ کے متعلق ہے جس کے متعلق ہم

ابو سعید خدری کی حدیث ۱۵۵۸ ہے کتاب اللہ کا پڑھنا بھی ایک محنت کا کام سمجھا گیا ہے جس پر اجرت لی جا سکتی ہے جیسا کہ کتاب اللہ اجارہ باب میں گذر چکا ہے

(۲۴۷) بَابُ الْفَالِ (م-۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۲۱۶۹) (۲۱۶۹)

باب الفال لینا

دیکھو حدیث ۲۱۶۹

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا

انس رضی اللہ عنہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا نہ کوئی متعدی بیماری آگ جاتی ہے

طَيْرَةٌ وَتُعْجِزُ الْفَالُ الصَّاحِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ (۲۵۵) بَابُ الْهَامَةِ

اور نہ بدھنگوں کوئی چیز ہے اور مجھے نیک فال یعنی چھانکھرا چھانکھرا ہے

بارگشت عامہ کوئی چیز نہیں

(م-۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۲۱۵۸) (۲۱۵۸) بَابُ الْكُهَانَةِ (۲۱۶۰)

دیکھو حدیث ۲۱۵۸

باب کمانت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَلِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہذیل کی دو عورتوں کے بارے میں فیصلہ کیا

اَقْتَلْتَا فَرَمْتَا أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَصَابَ بَطْنُهَا وَهِيَ سَاهِلٌ فَفَقَلْتَا

جو اپنی بڑی تھیں اور ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا

اور وہ اس کے پیٹ پر لگا اور وہ حامل تھی تو اس کے اس

وَكِدَّاهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاصْصَمُوا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ

بچے کو قتل کیا جو اس کے پیٹ میں تھا وہ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں

تو اپنے فیصلہ دیا کہ

دِيَةٌ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِي الْمَرْءُ لِلَّتِي غَرَمَتْ كَيْفَ أَعْرَمْتَا

اس کا خون باجو اس کے پیٹ میں تھا ایک برہہ ہے لہذا غلام یا نوٹھی تو اس عورت کے ولی نے جسے حرام نہ ہوا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا

یہ جواب دیا کہ

رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لَأْ شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطْلٌ فَقَالَ

جو ماں سے دودھ پئے اور جس نے داہمی نہ کیا اور نہ کھایا اور نہ بولا اور نہ اس کی آواز نکلی ایسے کا خون تو رائگاں جاتا ہے

تو نبی

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا امْرَأَتَانِ الْكُهَّانُ (م-۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کمانتوں کا بھائی ہے

دیکھو حدیث

(۲۱۶۰) (م-۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۱۰۹) (م-۸۲) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-۱۲۵۲)

دیکھو حدیث ۱۰۹

دیکھو حدیث ۱۲۵۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا كُهَّانَةٌ...
قال ہے +
دیکھو نوٹ
۱۵۱ پر +
یہاں صرف
یہاں صدمہ ہے
انہی صلحہ قال
لا عدو ولا
طيرة ولا هامة
ولا كهانة
کمانت عرب
میں ایک پتھر تھا
جو بعض چالاک
لوگوں نے روٹی
کمانے کا ذریعہ
بنایا ہوا تھا۔
چاہلیت میں یہ
زوروں پر تھا۔
جب اسلام آیا
تو اس کے ساتھ
اس کی روٹی کم
ہوتی گئی۔ یہاں
نیک کہ باطل مط
کی نمائندگی ہے
کر کا بن وہ لوگ

تھے جو آئندہ ہونے والی باتوں کی خبریں دیتے تھے۔ اور انہیں دعویٰ تھا کہ وہ آئندہ کے اسرار کو معلوم کر سکتے ہیں بعض ان میں سے دعویٰ کرتے تھے کہ جن ان کے تابع ہیں جو انہیں آئندہ کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ اور بعض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب ایک شخص اگر کسی امر کے متعلق دریافت کرتا ہے تو وہ اس کے فعل یا اس کے حال یا اس کی باتوں سے استدلال کر کے ان اسباب کو معلوم کر لیتے ہیں جن پر آئندہ ہونے والے واقعات کا پتھا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو خصوصیت سے سزا دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایسے لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بال مسروقہ کا پتہ بتا سکتے ہیں۔ یا گم شدہ چیز کا پتہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ان لفظ غرہ ہے جو اہل میں پیرے کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اور پھر کل جسم اس سے مروا جاتا ہے۔
۱۵۱ کا بن بھی جو جواب دیتے تھے سب کلام میں دیتے تھے اور وہ باطل ہوتا تھا یہاں بھی اس شخص نے جو بات کہی وہ باطل تھی۔ اور اسے سب سے کہ اس نے چاہا کہ یہ کشش کا موجب ہو جائے۔ اس لئے فرمایا کہ یہ کمانتوں کا بھائی ہے۔
۱۵۱ میں ان لفظوں ہیں۔ ان امراتین زمت احداهما الاخرى بحجر فطرح جثتيها فقتل في البطن امه بقرعة عبد اوليدة فقال الذي قضى عليه كيف اعرم ما الاكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا امراوات الكهان
نوٹ ۱۵۱ صفحہ ۸۸۔ کمان کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ کمانت روٹی کمانے کا ایک نہ رہتا ہوا تھا۔ مگر روایت کسی قدر اختلاف سے آئی ہے۔ وقاتل سال رسول الله صلح ناس عن الكهان فقال ليس بشئ فقالوا يا رسول الله انهم يحدون احيانا ما يمشون فيكون حقا فقال رسول الله صلح تلك الكلمة من الحق يحفظها من الحق فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها ما لا تكنه دیکھو نوٹ ۱۵۱ صفحہ ۸۸۔ نوٹ ۱۵۱ صفحہ ۸۹۔

قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ رَجُلٌ بِهِ طَبٌّ أَوْ يُؤَخِّذُ عِنَّ امْرَأَتَهُ إِجْلُ عَنْهُ	کہا میں نے سعید بن المسیب سے کہا کہ کسی شخص پر جا دو جو	یا اپنی بیوی سے روکا گیا ہو کیا اس کی گرہ کھول
أَوْ يَنْتَقِرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَمَارَيْدُونَ بِهِ الْأَصْلَاحُ فَإِنَّمَا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يَنْفَعْ عَنْهُ	دی جائے یا علاج کیا جائے گا کوئی ہرج نہیں ان کا مقصد اصلاح پر جو چیز فائدہ پہنچانے	تو اس سے ممانعت نہیں ملے
(م-۳۰۸۵) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۰۸۶) ر-۵۰) بَابُ السَّخْرِ ر-۳۰۸۶) عَائِشَةُ	دیکھو حدیث ۳۰۸۵	بارہ
(م-۳۰۸۷) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۰۸۸) ر-۵۱) بَابُ مِنَ الْبَيَانِ سَخْرًا ر-۳۰۸۷) عَائِشَةُ	دیکھو حدیث ۳۰۸۷	بارہ بعض بیان جا دو ہوتا ہے
(م-۳۰۸۹) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۰۹۰) ر-۵۲) بَابُ الذُّوْعِ وَالْحُجْوَةِ لِلْسَّخْرِ ر-۳۰۸۹) عَائِشَةُ	دیکھو حدیث ۳۰۸۹	بارہ حجوہ کھجور سے جا دو کا علاج ملے
(م-۳۰۹۱) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۰۹۲) ر-۵۳) بَابُ لَاهَامَةَ	دیکھو حدیث ۳۰۹۱	بارہ ہاگ کوئی چیز نہیں ملے

رہنہ صفحہ ۱۳۴۱ (۱۳۴۱) طاعت سے بدل گئی ہے۔ مگر بعض کے نزدیک یہ سوت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہاں من المشاطة ما يخرج من المشاطة من مشاطة الكفاحات دیکھو ٹوٹ ماروٹا ۳۰۸۵ و ۳۰۸۶ و ۳۰۸۷ و ۳۰۸۸ و ۳۰۸۹ و ۳۰۹۰ و ۳۰۹۱ و ۳۰۹۲

سات موثقات کا ذکر ہے یہاں صرف دو کا۔ ان رسول اللہ صلعم قال اجتنبوا الموبقات الشون بالله والسحر وصفحہ هذا بل عنوان باب اور تعین جو اس کے ساتھ ہے دونوں اسی خیال پر مبنی ہیں کہ جا دو کا اثر دوسرے پر اس طرح ہوا جاتا ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز پر جا دو کیا گیا ہے اسے باہر نکالا جائے۔ جا دو کا طریق عموماً یہی سمجھا گیا ہے کہ کسی چیز کو لے کر اور اس پر کچھ جھاڑ پھونک کر اسے دیا یا جاتا ہے اور اس کا اثر اس شخص پر جس پر جا دو کیا جائے یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض افعال نہیں کر سکتا یا خیال کرتا ہے کہ اس نے ایک کام کر لیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا۔ بعض طاقتور و ماغوں کا بعض کمزور و ماغوں پر اس طرح قابو پالینا کہ وہ ان کے منشاء کے مطابق عملیں۔ آج مسمریزم نے اسے عملی جامہ پہنا دیا ہے شاید جا دو بھی اپنی اصلیت میں مسمریزم ہی تھا اور یہ ظاہری بات ہے کہ کسی چیز کو دیا گیا ہو یا اسے نکالا جائے صرف ظاہری ذرائع تھے جن سے وہ اثر ڈالا جاتا یا اس اثر سے آزادی حاصل کی جاتی۔ لیکن یہ بات کہ کامل مکمل انسان محو رسول اللہ صلعم پر کسی کے جا دو کا اثر ہو گیا تھا امکان سے خارج ہے وہ دل او وہ داغ جس نے لاکھوں کڑوں انسانوں کی اصلاح کر دی اور جس کا رعب ہی دشمن پر اس قدر تھا کہ ایک ماہ کی مسافت سے دشمن فائف رہتا۔ اس پر کوئی بیودی بھلا کیا اثر ڈال سکتا تھا؟ لفظ یہ مکرر روایت بھی کسی قدر اختلاف سے آئی ہے مقاتلت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح حتی کان یزلی انہ باقی النساء و لایاتہن (۳۰۹۹) اور کچھ جگہیں مکرر روایت میں عام الفاظ ہیں کہ آپ ایک کام نہ کرتے تھے اور خیال ہوتا تھا کہ کریا، قال سفیان و هذا الشد ما یكون من السحر اذا کان کذا فقال یا عائشة اعلمت ان الله قد افطن فیما استفتیتہ فیہ انانی رجلا ن فقعد احدہما عند راسی والاخر عند رجلي فقال الذی عند راسی للاخر ما بال الرجل قال مطوب قال ومن طیبہ قال لبید ابن اعصم رجل من بنی ذریق حلیف لہو وکان منافقا قال و فیم قال فی مشط و مشاقاة قال داین قال فی جعت طلحة ذکر تحت و عوفۃ رقیہ کے نیچے) فی بئر ذروان قالت فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدر حٹتہ استخیرہ فیہ رطل روایت اور دوسری مکرر روایات کے خلاف ہے۔ یہاں ہے کہ آپ نے اسے نکالا اور وہاں ہے کہ نہیں نکالا، فقال ہذا البدر الحی اذ بیتھا و کان ماہا نقاعة الحناء و کان نخلھا ریش الشیا طین قال فاستخیر قال فاشترت ریش شہوت کلمہ تفسیری ہے یعنی اسے لوگوں میں پھیلا دیا ہوتا، فقال اما و اللہ فقد شفانی و اکرا ان اثیر علی احد من الناس شتر۔ و عوفۃ یا ریشہ فکتۃ فی تشریح مختلف طور پر کی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک وہ پتھر ہے جو کونوں کے اوپر لگا یا جاتا ہے جس پر پانی نہ کھٹے والا کھڑا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک وہ پتھر ہے جو کونوں کی تڑپیں چھوڑا جاتا ہے تاکہ کونوں صاف نہ کر نیوالا اس پر پیٹھے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو کونوں کی تڑپیں آجاتا ہے اور اس کی سختی کی وجہ سے وہ نکالنا نہیں جاسکتا تو اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھو اصل حدیث پر نوٹ و نیز نوٹ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰

ساعت موثقات کا ذکر ہے یہاں صرف دو کا۔ ان رسول اللہ صلعم قال اجتنبوا الموبقات الشون بالله والسحر وصفحہ هذا بل عنوان باب اور تعین جو اس کے ساتھ ہے دونوں اسی خیال پر مبنی ہیں کہ جا دو کا اثر دوسرے پر اس طرح ہوا جاتا ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز پر جا دو کیا گیا ہے اسے باہر نکالا جائے۔ جا دو کا طریق عموماً یہی سمجھا گیا ہے کہ کسی چیز کو لے کر اور اس پر کچھ جھاڑ پھونک کر اسے دیا یا جاتا ہے اور اس کا اثر اس شخص پر جس پر جا دو کیا جائے یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض افعال نہیں کر سکتا یا خیال کرتا ہے کہ اس نے ایک کام کر لیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا۔ بعض طاقتور و ماغوں کا بعض کمزور و ماغوں پر اس طرح قابو پالینا کہ وہ ان کے منشاء کے مطابق عملیں۔ آج مسمریزم نے اسے عملی جامہ پہنا دیا ہے شاید جا دو بھی اپنی اصلیت میں مسمریزم ہی تھا اور یہ ظاہری بات ہے کہ کسی چیز کو دیا گیا ہو یا اسے نکالا جائے صرف ظاہری ذرائع تھے جن سے وہ اثر ڈالا جاتا یا اس اثر سے آزادی حاصل کی جاتی۔ لیکن یہ بات کہ کامل مکمل انسان محو رسول اللہ صلعم پر کسی کے جا دو کا اثر ہو گیا تھا امکان سے خارج ہے وہ دل او وہ داغ جس نے لاکھوں کڑوں انسانوں کی اصلاح کر دی اور جس کا رعب ہی دشمن پر اس قدر تھا کہ ایک ماہ کی مسافت سے دشمن فائف رہتا۔ اس پر کوئی بیودی بھلا کیا اثر ڈال سکتا تھا؟ لفظ یہ مکرر روایت بھی کسی قدر اختلاف سے آئی ہے مقاتلت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح حتی کان یزلی انہ باقی النساء و لایاتہن (۳۰۹۹) اور کچھ جگہیں مکرر روایت میں عام الفاظ ہیں کہ آپ ایک کام نہ کرتے تھے اور خیال ہوتا تھا کہ کریا، قال سفیان و هذا الشد ما یكون من السحر اذا کان کذا فقال یا عائشة اعلمت ان الله قد افطن فیما استفتیتہ فیہ انانی رجلا ن فقعد احدہما عند راسی والاخر عند رجلي فقال الذی عند راسی للاخر ما بال الرجل قال مطوب قال ومن طیبہ قال لبید ابن اعصم رجل من بنی ذریق حلیف لہو وکان منافقا قال و فیم قال فی مشط و مشاقاة قال داین قال فی جعت طلحة ذکر تحت و عوفۃ رقیہ کے نیچے) فی بئر ذروان قالت فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدر حٹتہ استخیرہ فیہ رطل روایت اور دوسری مکرر روایات کے خلاف ہے۔ یہاں ہے کہ آپ نے اسے نکالا اور وہاں ہے کہ نہیں نکالا، فقال ہذا البدر الحی اذ بیتھا و کان ماہا نقاعة الحناء و کان نخلھا ریش الشیا طین قال فاستخیر قال فاشترت ریش شہوت کلمہ تفسیری ہے یعنی اسے لوگوں میں پھیلا دیا ہوتا، فقال اما و اللہ فقد شفانی و اکرا ان اثیر علی احد من الناس شتر۔ و عوفۃ یا ریشہ فکتۃ فی تشریح مختلف طور پر کی گئی ہے۔ بعض کے نزدیک وہ پتھر ہے جو کونوں کے اوپر لگا یا جاتا ہے جس پر پانی نہ کھٹے والا کھڑا ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک وہ پتھر ہے جو کونوں کی تڑپیں چھوڑا جاتا ہے تاکہ کونوں صاف نہ کر نیوالا اس پر پیٹھے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو کونوں کی تڑپیں آجاتا ہے اور اس کی سختی کی وجہ سے وہ نکالنا نہیں جاسکتا تو اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھو اصل حدیث پر نوٹ و نیز نوٹ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰

(۵۸) بَابٌ إِذْ وَقَعَ الدَّبَابُ فِي الْأَنْبَاءِ (م- ۳۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۱۴۹)

بابی جب برتن میں کھمی پڑ جائے دیکھو حدیث ۱۱۴۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کتاب اللباس

باس کی کتاب

رَأَى بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ

باب اللہ تعالیٰ کا قول کہ کس نے اس زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کیا (الاعراف ۳۲) اور

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَانصَدُوا قُوا فِي غَلَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور بوسو اور صدقہ کرو

اِسْرَافٍ وَلَا تَجْهِلُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ مَا شِئْتَ وَالْبَسُ مَا شِئْتَ مَا

اسراف اور گنہگار نہ ہو اور بن عباس نے کہا جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو

اخْلَاصَتِكَ اثْنَتَانِ سَوْتٌ أَوْ خِيْلَةٌ (م- ۳۰۹) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ (متكرر - ۱۶۳۸)

جب تک دو چیزیں تجھ سے الگ رہیں اسراف اور تکبر دیکھو حدیث ۱۶۳۸

(۲) بَابٌ مِنْ جَزَائِرَةِ مِنْ غَيْرِ خِيْلَةٍ (م- ۳۰۹) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ (متكرر - ۱۶۳۸)

باب جو اچانک بند کھینچے مگر تکبر سے نہ ہو دیکھو حدیث ۱۶۳۸

(م- ۳۰۹) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متكرر - ۳۹۴) بَابٌ التَّشْمِيرُ فِي اللِّيَابِ

دیکھو حدیث ۳۹۴ باب کپڑوں کا اونچا رکھنا

(م- ۳۱۰) عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ (متكرر - ۵۵۵) بَابٌ مَّا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبِينَ

دیکھو حدیث ۵۵۵ باب جو ٹخنوں سے نیچے ہو

فَهَوَّ فِي النَّارِ رَأَى ۱۶۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تو وہ آگ میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَّا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبِينَ مِنَ الْأَزَارِ فَنُفِئَ النَّارِ

ہیں فرمایا جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے

۱۱۴۹ سے ۱۱۶۳۸ تک
۱۶۳۸ سے ۳۰۹ تک
۳۰۹ سے ۳۹۴ تک
۳۹۴ سے ۵۵۵ تک
۵۵۵ سے ۱۶۳۸ تک
۱۶۳۸ سے ۳۱۰ تک
۳۱۰ سے ۳۱۱ تک

سے گزرنے کا نام ہے۔ بالخصوص مال کے خرچ میں۔ اور مال کے خرچ میں حد سے گزرنا یا تو یوں ہو سکتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ خرچ کرے اور یا ایسے کاموں پر خرچ کرے جن سے کوئی منفید نتیجہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ دن شریف حال کو قائم قرار دیا ہے یعنی زندگی اور اس کے نوازم کو قائم رکھنے کا ذریعہ۔ ملاطیبیاں اختصار ہے ان رسول اللہ صلعم قال لا ينظر الله الى من جزو به خيلا ولا مملوك ۱۶۳۸ کو ان الفاظ تک دوہرایا ہے۔ نست هتقن بصنعه خيلا۔ اس کے بعد کے لفظ بیان نہیں۔ مٹھیوں کی روایت پر تعلق کموت خفيقت اختلاف سے دوہرایا ہے۔ قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلعم فقام يذوقه ومن باءت بغيره من قبلي عن ناسم اقبل علينا وقال ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله فاذا رايتهما معهما شيئا فصحا وا دعوا الله حتى يكشفها وثاب الناس فصلا وكعين فجعلني عنهما ثم اقبل علينا وقال ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله فاذا رايتهما معهما شيئا فصحا وا دعوا الله حتى يكشفها ملل یعنی تہ بند کونتا اور اونچا رکھنا کہ پاؤں میں نہ آجھے۔ مٹھیوں کی روایت کو کسی قدر اختلاف الفاظ سے دوہرایا ہے۔ قال فرأيت بلا لاجا وعنزقة فزكوا ثم اقام الصلاة فرأيت رسول الله صلعم يخرجني من حلائل مشتمرا اذ نجاكي بنوا۔ اسی سے عنوان باب ہے یہ لفظ اصل حدیث میں نہیں، فصلیہ و کعبین الی الفاظ قرآن و روایت

(۳۱۰۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م-۹) (۳۱۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

دیکھو حدیث ۶۸۲

مَكْرُومٍ (۳۱۰۸) بَابُ جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ

دیکھو حدیث ۶۸۲ بَابُ قَمِيصِ كَأَنَّ بَابَ سَبِيحَةِ خَيْرِ كَيْسِ

(۳۱۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲) (۳۱۰۹) بَابُ مَنْ لَبَسَ جُبَّةً

دیکھو حدیث ۶۸۲ بَابُ جُوسُفِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ اسْتَيْنِ

ضَيْقَةَ الْكَلْبِيِّ فِي السَّفَرِ (م-۱۱) (۳۱۱۱) عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (م-۲)

دیکھو حدیث ۶۸۲ دالاکر تہ پتے

(۱۵۲) بَابُ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الْغَزْوِ (م-۱۳) (۳۱۱۲) عَنْ الْمُغِيرَةَ

بَابُ جُنَاحِ يَسْ اُونِ كَأَنَّ يَسْ

ابْنِ شُعْبَةَ (م-۲) (۱۵۲) (۱۱۲) بَابُ الْقِيَاءِ وَفَرْجِ حَرِيرٍ هُوَ الْقِيَاءُ

دیکھو حدیث ۱۵۲ بَابُ قِيَاءِ اَوْرَثِي وَفَرْجِ كَأَنَّ بَابِ اَوْرَثِي وَفَرْجِ قِيَاءِ

وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ (م-۱۳) (۳۱۱۳) عَنْ مَعْمَرَةَ (م-۲) (۱۲۲۲)

اور کہا جاتا ہے کہ وہ قیاء ہے جس کا ٹھکانہ پیچھے سے ہو

(م-۱۳) (۳۱۱۴) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ كَامِرٍ (م-۲) (۱۳۱) بَابُ الْبُرِّ اِسْرَقَ قَالَ

دیکھو حدیث ۱۳۱ بَابُ اِسْرَقَ اِسْرَقَ اِسْرَقَ

لِي مُسَدَّدًا وَحَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي قَالَ رَأَيْتُ عَلَى اِسْتِ بْنِ اِسْتِ اَصْفَرًا مِنْ خَرَزِ

لے بچے سے کہا کہ بچہ سے ستر لے لیا گیا اس کا کہ اس نے اس کو زرد رنگ کی ٹوٹی پشم جوئے دیکھا اور اس سے شیء

دیکھو حدیث ۱۳۱

عند اختصاصی ہے اور کچھ فرقہ ہیں۔ قال انی الی عبد اللہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعد ما ادخل قیبرا قام وہ تاخرج ووضع علی رقبته ونفث علیہ من رقبہ راس پر دم کیا۔ والیہ فی قصہ معلوم ہوا کہ آپ خود نہیں پہنتے تھے۔ ۶۸۲ میں آؤ اگلی مکرر روایت میں ہے کہ آپ نے نہیں عبد اشرف بن ابی کو دیدی تھی۔ واللہ اعلم۔

سے اختلاف الفاظ سے وہ ہر ایک ہے۔ قال لہ اترقی عبد اللہ بن ابی جابر ابہ الی رسول اللہ صلعم فقال یا رسول اللہ اعطنی قمیصک اکفہ فیہ وصل علیہ استغفرہ فاعطاہ قمیصا۔ وقال اذا فرغت فاذا تاملنا فرغ اذ نہ فوالہ لیصل علیہ فخذ بہ عن عمر قال النین قد نھاک اللہ ان تصب علی المنافقین فقال استغفر لہم اولاً استغفر لہم ان استغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم را نا بنین النین والاحمد یقول ویلے) فاذلت ولا تصل علی احد منہم مات ابدا (راگھے فرقہ شیعہ میں نہیں) تبرک الصلاۃ علیہم + علی حقیقت سے اختلاف الفاظ سے وہ ہر ایک ہے۔ قال ضرب رسول اللہ صلعم مثل الخیل والمعدن کمثل رجائین علیہما جنتان من حدیثہما انما یضطربان یخربان انما یضربان وتراقیہما رعنان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے ان کے ہاتھ ان کی چھاتیوں اور انگوٹوں کے ساتھ لگے ہوئے رک گئے تھے۔ گو یا ان جنوں کے گریبان سینوں اور انگوٹوں پر تھے۔ فمثل المصداق کلما تعمدنا بقصد فاقه اندسخت عنہ حتی یقفہ انا ملہ وتغفر لہ وجعل الخیل کلما ہم بصدقة تمصت واخذت کل حدیثہم کہا تھا قال ابو ہریرۃ فانا راایت رسول اللہ صلعم یقول یا صبیہ ہکذا فی جیبہ فلا رایتہ یوسخا ولا ترسح + ملک بیان تفصیل زیادہ ہے۔ قال انطلق النبی صلعم لاجتہ ثم اقبل فلتفتیہ بہا ثم اذنا علیہ جبة شامیة راعیہا من جیبہا فکرمین فدمضت واستشقی وغسل وجہہ فذہب بخیر ید یہ من کبیرہ فکنا خائفین عن ان باب کا تعلق اسی سے ہے۔ استین شاک تمیں تو بات کر کے کے اندر سے نکالے۔ فاخرج ین یہ من تحت الجبة ففسلہا۔ مسجورا۔ وعلم حقیقہ + ملک بیان کچھ مزید تفصیل ہے۔ قال کنتم مع النبی صلعم فانت ایلتہ فی سفر فقال امک ما فلت نعم فاذلت عن راسک فی ضیفہ حتی تواری عنی فی سواد اللیل ثم جارد فانعت علیہ اذ داؤة فغسل وجہہ وید یہ وعلیہ جبة من صوف ورجع اوان کا تھا اسی کا تعلق عنوان باب سے ہے۔ علم یستطع ان یخرج ذواعیہ منہا حتی اخرجہا من اسفل الجبة فغسل ذواعیہ ثم مسجورا۔ ثم اہوت لا نزع حقیقہ فقال وعلم فانی ادخلتہما طاهرین ثم علیہما + ملک انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبایح پہننے کو نے آئے۔ مکہ ہی لفظ میں۔ ریشمی فرج کر کہن کر نماز ریشمی پہنا کر کہ بیدگن یاہ نہ خروہ کپڑا ہے جو ان اور ریشم کو بنا کر بنا جاتا ہے۔ اس قسم کا کپڑا جس میں ریشم سوت یا اون کے ساتھ ملا جلا ہوا بہت بزرگوں نے پہنا ہے۔ جنہوں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ اسراحت کی خاطر ناپسند کیا ہے۔

(م- ۱۱۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (متكرر- ۱۱۵) (۱۴) بَابُ التَّسْرِؤِ

دیکھو حدیث ۱۱۵ باب پاچار

(م- ۱۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۱۵) (م- ۱۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

دیکھو حدیث ۱۱۵

(متكرر- ۱۱۵) (۱۵) بَابُ الْعِمَائِمِ (م- ۱۱۸) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (متكرر- ۱۱۵)

دیکھو حدیث ۱۱۵ باب چھل پٹیاں دیکھو حدیث ۱۱۵

(۱۶) بَابُ التَّقْنَعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ

باب تقنع اور ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ

عَصَابَةٌ دَسْمَاءٌ وَقَالَ أَنَسُ عَصَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَاءُ أَسْهٍ حَاشِيَةٍ

کے سر پر سیاہ سر بندھا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر چادر کا کمانہ باندھا تھا

بُرُودٍ (م- ۱۱۹) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر- ۱۱۶) (۱۷) بَابُ الدِّغْفَرِ (م- ۱۲۰)

دیکھو حدیث ۱۲۰ باب نگو

عَنْ أَنَسٍ (متكرر- ۱۱۶) (۱۸) بَابُ الْبُرُودِ وَالْحَبْرَةِ وَالسَّمْلَةِ وَقَالَ

دیکھو حدیث ۹۳۶ باب سیاہ چادریں اور وہاری وار چادریں اور چڑی چادریں اور

خَبَابٌ شَكُوهُ نَأَى لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَتَوَسِدٌ بَرْدَةٌ لَهٗ (م- ۱۲۱)

خا بے کمانہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ اپنی چادر پر تکیہ کرتے ہوئے تھے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متكرر- ۱۲۲) (م- ۱۲۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متكرر- ۶۸۶)

دیکھو حدیث ۱۲۲

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

کتاب فی النہای الخافہ
میں حدیث کو دیکھ کر
سے نہیں علم
دیکھو کہ جو جمع میں
بیان کیا ہے اس
میں برائے نہیں
کی جمع کا بھی ذکر
ہے کہ محرم اسے
نہ اپنے معلوم ہوا
ویسے اس کا پتلا
جائز ہے
میں بیان لفظ الخافہ
میں حسن لفظ
صلحہ قال من
تم یجد اذنا
قلیلین سوا
یعنی احرام میں
ازار نہ ہو تو پاچار
میں ہے پر بیخبر
ومن لم یجد
قلیلین
خفین
میں اس کے لفظ
قریب کے

ہیں کہ میں سوال کا ذکر چھوڑ دیا ہے نبی کریم کا ارشاد نبی الفاطمیں ہے۔ مقننہ نہا میں ہے کہ جس شخص نے سر پر فیوہ بنا ہوا ہے مقننہ
کما جاتا تھا۔ اتنا کہ رجل مقننہ یا یحدید کیونکہ قناع کا محل سر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے۔ الف مقننہ ای الف فائس فیظ بالسلام
اور عینی میں ہے کہ تقنع یہ تھا کہ سر اوپر سے کے بٹے حصہ کو ڈھانک لیا جاتا۔ اور زوجی بعض وقت گرمی سے بچنے کے لئے ایسا کر لیتے تھے۔ اور
عورتوں کا لباس نبی ہو گیا تھا یعنی چادر وغیرہ سے سر کو اوپر سے کے کچھ حصے کو ڈھانک لینا۔ مگر روایت میں ہے چند جگہ حضرت ابوبکر کی
ہجرت حبشہ کے متعلق بڑھائے ہیں۔ قالت ہاجرالی الحبشہ من المسلمین و تجهز ابوبکر ہاجر فقال للنبی صلعم علی رسلک فانی ارجوات
یوذن لی فقال ابوبکر اوتجوزی بآبی انت قال نعم فجلس ابوبکر بنفسہ علی العبی صلعم لصیبتہ و علف راحلتین کا متاخذہ ووق السہم
ازجہ اشہر۔ اس کے بعد ۱۲۳ کا ابتدائی حصہ تقریباً نبی الفاطمیں دوہرایا ہے۔ یقول ذلک کل ایاتہ من تلک الیالی الثلث تک اس کے بعد
کا سارا طویل بیان چھوڑ دیا ہے۔ عنوان باب کا تعلق ۱۲۳ کے ان ابتدائی الفاظ سے ہے قال قائل لابی بکر ہذا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم
متقدما فی ساعۃ لم یکن یاتینا فیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کپڑا لپیٹے ہوئے آئے دیکھو نوٹ ص ۹۱۸ + ۱۲۳ میں آتے
نبی لفظ ہے۔ ان النبی صلے اللہ علیہ وسلم دخل عام الفقم و علی رأسہ اندمظرہ عک برود بردہ کی جمع ہے سیاہ چادر یعنی چادر
جو عموماً وہاں رہتا ہوتی تھی۔ شہدہ بڑی چادر جو سارے جسم پر لپیٹ لی جاتے۔ عفا نبی الفاطمیں حدیث کو دہرایا ہے آپ نے موٹے حاشیہ
کی بخراں چادر اوڑھی ہوئی تھی تو ایک اعرا بی نے اس کے پکڑ کر آپ کو سختی سے کھینچا۔ عفا سفون میں کچھ بڑھا یا ہے۔ ا۔ جلدات امراۃ بردۃ قال
سہل ہل تدرکنا البردۃ قال نعم ہی الشملة ملسوہ فی حاشیہا قالت یا رسول اللہ انی نسیت ہذا بردی اسکو کھا فاحذہا رسول اللہ صلعم محتاجا الیہا
تھوڑا لپٹا دینا لادہ فحسہا رجل من القوم فقال یا رسول اللہ اسنیہا قال نعم فجلس ما شاء اللہ فی المجلس ثم رجع فظواہا ثم ارسل لہا الیہ فقال
القوم ما احسنت سالتہا یا ہ و قد عرفت اللہ لا یرد سائلو فقال لرجل واللہ ما سالتہا الا لتکون کفنی یوم اموت قال سہل فکانت کفنیہ

يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زَمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا نَضِيًّا وَجُوهُهُمْ أَضَاءَةٌ
فِي لَيْلٍ كَمِثْرِ نَجْمَاتِ سَمَاءِ لَيْلٍ وَهُمْ فِيهَا كَمَا هُمْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا

الْقَبْرِ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ ثَمَرَةً عَلَيْهِ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ
أَدْعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي وَأَجْعَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

اس حدیث کا
مضمون یہ ہے
کہ میں نے گزر چکا
مگر یہاں عکاشہ نے
دعا کے لئے عرض
کیا کہ میں بھی ان
میں سے ہوں اور
وہاں ہے عکاشہ
نے عرض کیا کہ کیا
میں بھی ان میں
ہوں تو آپ نے
فرمایا ہاں۔ یہ
کاہلین امت
مخوفیہ کا گروہ ہے
اور ستر ہزار سے
مراو تعداد کثیر ہے
عکاشہ آگے بڑھ
تھیں یعنی پہلے ٹرپ
اسی کے دل میں
پیدا ہوئی اس
لئے سبقت ہی
تو ہے
اس کے بیان لفظ یہ
ہیں۔ قال کان
احب الثياب
الی النبی صلعم
ان یلبسها الخرافة
صلعم اکسیہ کساہ

مگر آپ نے فرمایا اس میں بھی آدمی قید ہو جاتا ہے اور وہ ستر کے کھلنے کا حضور رہتا ہے۔ اس کے لفظ ۲۶۹ کے ہیں۔

(۲۲) بَابُ الْخَمِيصَةِ الشَّوْخِ أَهْرَهُ - ۱۳۱۳ ح (متکرم - ۱۳۹۴)	بَابُ شَاوِخِ سَبَوْرِي	بَابُ الْخَمِيصَةِ الشَّوْخِ أَهْرَهُ (متکرم - ۱۳۹۴)
(۲۳) ح (متکرم - ۱۳۹۸) بَابُ ثِيَابِ الْخَمِيصَةِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ ثِيَابِ الْخَمِيصَةِ سَبَوْرِي	(۲۳) ح (متکرم - ۱۳۹۸) بَابُ ثِيَابِ الْخَمِيصَةِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۴) ح (متکرم - ۱۴۰۴) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۴) ح (متکرم - ۱۴۰۴) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۵) ح (متکرم - ۱۴۰۸) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۵) ح (متکرم - ۱۴۰۸) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۶) ح (متکرم - ۱۴۱۲) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۶) ح (متکرم - ۱۴۱۲) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۷) ح (متکرم - ۱۴۱۶) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۷) ح (متکرم - ۱۴۱۶) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۸) ح (متکرم - ۱۴۲۰) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۸) ح (متکرم - ۱۴۲۰) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۲۹) ح (متکرم - ۱۴۲۴) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۲۹) ح (متکرم - ۱۴۲۴) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)
(۳۰) ح (متکرم - ۱۴۲۸) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)	بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ سَبَوْرِي	(۳۰) ح (متکرم - ۱۴۲۸) بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ (۲۳۱۳) (۲۳۱۳)

بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ
مضمون میں کچھ فرق ہے۔ ابی الخیصہ صلح ثیاب میں وہاں خمیصہ سوواضع صغیرہ فقال من تون نکسوعه نکسعت العرقم قال ابی عثمان یا أم خالد فانی بہا تحمل رہا میں وہ خلیص میں اصغر یعنی وہ تمیص ہیں نبوتہ آئی تھی۔ اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ستہ سبواہ فاختا الخمیصہ پیدا ہوا لیسہا

وقال لیسہا واصفطی وكان فیہا علم اخضر او اضر فقال یا أم خالد هذا اسناء وستانہ بالجشیة حسن وکلمتہا یان شمیران اور لفظ اور میں قال لهما ولدت أم سلیم فالتی یا انس انظر هذا الاضلام فلا یصیبین شیئا من نفض وبنہ الی النبی صلعم ینذکہ فنذرت بہ فاذا هو فی حاکم وعلیہ خمیصہ سورینیة زحریش کی طرف منسوب یہ ایک آدمی کا نام ہے، وہو یسبم رشان نکاتے تھے، الظہر راؤنٹ کیونکہ وہ شیعہ پرانوں کو اٹھاتے ہیں، ازسی قدم علیہ فی الفتح، لیسہا میں تفصیل زیادہ ہے۔ ان رفاعۃ خلق امراة فتزوجها عبد الرحمن بن الزبیر القرظی قالت عائشہ وعلیہا خمار اخضر وشموان یا لیسہا تعلق اسی سے ہے، فکلت الیہا وارثا اخضر جلد ہا رجم پر نیلے نشان دکھاتے جو مارنے کی وجہ سے ہوں گے، فلما جاز رسول اللہ صلعم والنساء ینصو بعضہن بعضا رجلا عمرہ ہے یعنی عمر میں ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں، حضرت عائشہ نے اس کی مدد کی، قالت عائشہ ما رأیت مثل ما یظن النساء جلد ہا اسد خصوة من ثوبہا قال وسمر زینبی عبد الرحمن نے سار انما ذن انت رسول اللہ صلعم فجاہ وبعہ ابان لہ من غیرہا قالت والله ما لی الیہ من ذنب الا ان ما دہ لیس یا علی عنہ من خدہ و اخذت ہدبہ من ثوبہا فقال کن ذن و اللہ یا رسول اللہ الی لا تقضہا لفضل الایم راؤیم دھوتی ہے۔ توت ما شرت سے کیا ہے۔ یہ الفاظ کسی بعد کے راوی کے بڑھائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ درست ہوتا تو رسول اللہ صلعم یہ فیصلہ کیوں دیتے۔ حتی یذوق من عسلیتک، ولکنہا ناہن زلفشور سے ہے۔ نماؤد کے خلاف الھما تردید رفاعۃ فقال رسول اللہ صلعم فان کان ذلک لم تخلی لہ اولم تقبل لہ لہ حتی یذوق من عسلیتک، قال وادعی معہ ابان فقال ثوبن ہولاد قال نعم قال عن الذی توسع ین ما قرعہم زینبی اس کی اولاد دوسری بیوی سے ہو کر ہوتا تھا سے وغوی کو باطل کرتا ہے کہ وہ مارو ہے، فواللہ لہم اقدہ بہ من الغراب بالغراب زینبی کے ہاتھ سے شہر میں، لیسہا لفظ یوں ہیں۔ قال ویست یسما الیہ صلعم ویبذکہ وجعلن علیہما ثیاب بیض بیوم احد مارا یبہما شیل ولا یبہد، عکھ میں تفصیل زیادہ ہے۔ قال انیت الشیہ صلعم وعلیہ ثوب ابیض رخنان باب اسی سے ہے) وھو ناہم ثم اتتہ وذن استیظن فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنة قلت دان زنی وان سوق قال دان زنی وان سوق قلت وان زنی فان سوق قال وان زنی وان زنی فان سوق علی رجم ایتہ ابی ذر وکان ابو ذر اذا سخن ہذا قال دان رجم ایتہ ابی ذر قال ابو عبد اللہ هذا احد اولیة اذ اذ انہم وقال لا الہ الا اللہ غفر لہ، ویجوزہ ہا صلعم ہا صلعم فرمیں سر پر ہیں کوئی حدیث میں یہ باب ہے پھر ابی عکھ مردوں کیلئے زینم کی نمانت کئی وجہ سے معلوم ہوتی ہے ایک تو انہیں نماز میں بلکہ ہر قسم کی محنت اور مشقت کے کام کرنے ہوتے ہیں اور زینم چھیننے والا زنی کا اعتقاد ہی جیسے گا کہ وہ مشقت کے کام کو نہیں کرے گا۔ دوسرے اس میں اسراف بھی ہے۔ عورتوں کیلئے زینم جائز ہے اس لئے کہ ان کی زینت کے سامانوں میں سے یہ ایک سامان ہے اور ان کا دائرہ عمل بھی ٹھیک کے اندر ہے جہاں مشقت کے کام نسبتاً کم ہوتے ہیں، لیسہا میں لفظ یوں ہیں۔ قال کتب الینا عمرو بن باذر بیجان ان

الشیخ علیہ السلام نے فرمایا ان لیس الخمریرہ لہنکذا وقت ان الیہ صلعم اللہ علیہ وسلم امیعیہ ورتعہ زہیر الوسخی والسبابة

وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ الْقِسِيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَعَةٌ يَجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ

۱۳۵۰ سے

ایک نکرہ ہے

قال نعمانا النبي

صلعم عن عبيد

الحبر والقسي

ميا شكا ذكره

في نبي

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

في بيان

اور جریر نے یزید سے اپنی حدیث میں روایت کی کہ قسیہ پیلوں کی طرح دھار چا کر کپڑے ہیں وہ عرب سے لائی جاتی ہیں

فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْبَيْضَةُ جُلُودُ السَّبَاعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْبَيْضَةِ

(م- ۳۱۲۳) عَنْ ابْنِ عَزَابٍ (متكرر- ۲۶۰) ۲۹) بَابُ مَا يَرْخُصُ لِلرِّجَالِ مِنَ

الحَرِيرِ لِلْحِكْمَةِ (م- ۳۱۲۴) عَنْ ابْنِ عَزَابٍ (متكرر- ۲۶۰) ۳۰) بَابُ الْحَرِيرِ

لِلنِّسَاءِ (م- ۳۱۲۵) عَنْ ابْنِ عَزَابٍ (متكرر- ۲۶۰) ۳۱) بَابُ مَا كَانُوا يَلْبَسُونَ

السَّلَامَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ حَرِيرِ سَيِّدَاءِ (۳۱) بَابُ مَا كَانُوا يَلْبَسُونَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّخِذُ مِنَ اللَّبَاسِ السُّبُوطَ (م- ۳۱۲۸) عَنْ ابْنِ عَزَابٍ (متكرر- ۲۶۰) ۳۲) بَابُ مَا كَانُوا يَلْبَسُونَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّخِذُ مِنَ اللَّبَاسِ السُّبُوطَ (م- ۳۱۲۸) عَنْ ابْنِ عَزَابٍ (متكرر- ۲۶۰) ۳۲) بَابُ مَا كَانُوا يَلْبَسُونَ

کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مخفی سے اختلاف الفاظ سے دوہرایا ہے۔ ان عمرزادی حلتہ سیداء تیاج فقال یا رسول الله لوابتعتها تلبيها

لوفوا اذ اتوك والجمعة قال انما يلبس هذه من لاشلاق له وان النبي صلعم بعث بعد ذلك الى عمر حلة سيدة حريه كاسها اياه فقال

عمر كسوتيتها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال انما بعثت اليك لتتبعها او تكسوها۔ اس میں عورت کے لئے ریشم کا ذکر نہیں کسواھا کا

لفظ جو اخیر ہے اس کی تشریح ۲۶۰ میں یوں ہے۔ فلکساھا عمر بن الخطاب منالہ بدکة مشوکا۔ مگر کسواھا کا لفظ عام ہے اور اس

میں عورتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ ۲۶۰ میں روایت کو اختصار سے بیان کیا ہے۔ قال لبثت سنة وانا ريد ان اسأل عمر عن المراتب

التي تن تظاها ترا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اهابه فنزل يومها منزلا من خل الاراك رقتضائ حاجت کے لئے فلما خرج

سالته فقال عاشته وحفصة شم قال كنانى الجاهلية لا بعد النساء شيئا فلما جاء الاسلام وذكروهن الله راينا لهن بن لك علينا

حقا من غير ان ندخلهن في شئ من امورنا وكان بيني وبين امراتي كلام فاغلظت لي فقلت لها وانك لهنناك ريبان تك

پہنچ گئی ہو کہ میرے ساتھ سخت کلامی کرتی ہی قالت تقول هذا الى وابنتك توذى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها

الى احذرك ان تعصى الله ورسوله وتعدمت اليها في اذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوايذا وسينى کے بے میں پیسے امی کی طرف

گئی، فأتيت ام سلمة فقلت لها فقالت اعجب منك يا عمر وقد دخلت في امورنا فلم يبق الا ان تدخل بين رسول الله صلى

الله عليه وسلم وازواجه فرودت (تر ویدکی) وكان رجل من الاصحابة اذا اغاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته

أتيته بما يكون واذا غيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول

رسول الله صلى الله عليه وسلم ريعي قومون کے سردار بادشاہ وغیرہ) قد استقام له فلم يبق الا ملك غسان بالشام كذا تخاف ان يأتيا

فما شعرت الا بالانصاف وهو يقول انه قد حدثت امر قلت له وما هو اجاب الغسانی قال اعظم من ذلك طلق رسول الله صلى

الله عليه وسلم شامه را یہ بات مشہور ہو گئی تھی حالانکہ آپ نے ملاق نہیں دی، فجمعت فاذا الكبار من جحرها كلها واذا النبي صلى الله

عليه وسلم قد صدق في مشورة له وعلى باب المشورة وصيغت فالتلته فقلت استاذن لي فدخلت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم على نصير

قد اثر في جلده رعونان باب كالتعلق اسی سے اور اس کے بعد کے بیان سے ہے جس میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلعم کے گھر میں سامان تھا دھت

راسه مرفقة من ادم حشوها ليعت واذا اذهب راسه راسه مرفقة من ادم حشوها ليعت واذا اذهب راسه مرفقة من ادم حشوها ليعت واذا اذهب راسه مرفقة من ادم حشوها ليعت

فذكرت الذي قلت لحفصة وام سلمة والذي روت على ام سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبيت تسعا وعشرين ليلة ثم نزل

۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰

(م-۳۱۷) عَنْ ابْنِ عَسَمٍ رَمَتَكَ (۲۱۸) (۵۱) بَابُ الْمُخَاتَمِ فِي الْخِصْرِ (۲۱۸)

دیکھو حدیث ۲۱۸۲

بَابُ الْكُفَى بِجَهَنَّمَ فِي الْكُفَى

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا

اس سے روایت ہے

کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی

فَرَأَى كَرِيمًا

أَخَذَ نَاخَاتِمًا وَنَقَشَ فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بِرِيقِهِ

اور اس میں نقش کھودا

سوا اس کے مطابق نقش کوئی نہ کھوسے اس نے نہا کریں، اسکی چمک، اسکی چھری لگی

انگوٹھی بنوائی

فِي الْخِصْرِ (۵۲) بَابُ اخْتِازِ الْخَاتَمِ لِيُحْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

باریکہ

انگوٹھی بنوانا تاکہ اس کے کسی چیز پر نشان لگائی جائے

یا اس کے ذریعہ ہی کتاب وغیرہ کو خط لکھیے

مِنْ بَيْتِهِمْ (م-۳۱۷) (۱۷۰) (۵۳) بَابُ هُوَ جَعَلَ

دیکھو حدیث ۷۰

بَابُ هُوَ كُفَى بِجَهَنَّمَ

فَضْلُ الْخَاتَمِ فِي بَطْنِ كَفِّهِ (م-۳۱۷) (۲۱۸) (۵۴) بَابُ

کو بیٹھنے کی طرف کرے

دیکھو حدیث ۲۱۸۲

بَابُ

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ (م-۳۱۷) (۳۱) عَنْ أَنَسٍ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ کوئی شخص، آپ کی انگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش نہ کھودے

ابْنِ مَالِكٍ (م-۳۱۷) (۲۱۸) (۵۵) بَابُ هَلْ يَجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ

دیکھو حدیث ۲۱۸۲

بَابُ

کیا انگوٹھی کا نقش تین سطروں میں ہو

(م-۳۱۷) (۳۱۷) (۱۷۰) (۵۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّ

دیکھو حدیث ۲۱۸۲

اس سے روایت ہے کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدَيْهِ يَدَا يَدَيْ بَكْرَةَ وَفِي يَدَيْ بَكْرَةَ وَفِي يَدَيْ بَكْرَةَ وَفِي يَدَيْ بَكْرَةَ

اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں اور ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں

کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی

فَلَمَّا كَانَ عُمَانُ جُلَسَ عَلَى يَدَيْهِ وَأَنَسٌ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْثُ بِهِ

سوجب حضرت عثمان (خلیفہ) ہوئے

تو انیس کے ہاتھ میں پر بیٹھے

تو انگوٹھی اناری اور اس کے ساتھ کھینچنے لگے

فَسَقَطَ قَالَ فَأَخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُمَانَ فَنَزَحَ الْبِئْرَ فَمَا رَجَعْنَا

تو وہ گر گئی

کہا ہم حضرت عثمان کے ساتھ تین دن آتے رہے

اور ہم کوئیں کا پانی پھینچتے رہے

اور ہم نے اسے نہ پایا

(۵۶) بَابُ الْمُخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَاتَمٌ ذَهَبٌ (م-۳۱۷) (۳۱) عَنْ ابْنِ

بَابُ عورتوں کے لئے انگوٹھیاں

اور عورت عائشہ کی سونے کی انگوٹھیاں تھیں

بَابُ عورتوں کے لئے ہارا اور خاب

یعنی خوشبو اور کستوری کا ہار

عَبَّاسٍ (م-۳۱۷) (۸۵) (۵۷) بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسَّابِ لِلنِّسَاءِ يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طَيْبٍ وَسُودٍ

دیکھو حدیث ۸۵

بَابُ عورتوں کے لئے ہارا اور خاب

یعنی خوشبو اور کستوری کا ہار

نہ مطعم الناس خواتیم من ذهب فرقی المنبر فحمد الله واشتفى عليه فقال انى كنت اصطنعته وانى لا اليسه فنبتذ الناس قال جويرية
 و احسبه الا قال في يدك اليمين ملك ان رسول الله صلعم اخذنا خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال انى اخذنا خاتما من
 ورق ونقشنت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه ملك بحرين كما ذكر جمهورنا ويا ب ان ابابكر رضي الله عنها كتبت له وكان نقش
 الخاتم ثلاثة اسطر محمد اسطر ورسول اسطر والله سطر ملك مكرروا رويت يونس في شهدات العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصل
 قيل لخطبة وزوا بن وهب عن ابن جرير فاتي النساء فجعلن يلقين الفضة والخواتيم في ثوب بلال

۴۷-۳۱۷۱	ابن عباس (متکو-۸۵) باب استعادة القلائد (۵۸)	۳۱۷۱
۴۷-۳۱۷۲	ابن عباس (متکو-۲۳۶) باب القمطر للنساء وقال ابن عباس	۳۱۷۲
۴۷-۳۱۷۳	ابن عباس (متکو-۸۵) باب السحاب للصبيان	۳۱۷۳
۴۷-۳۱۷۴	ابن عباس (متکو-۱۰۵۶) باب المتشبهون بالنساء المتشبهات	۳۱۷۴
۴۷-۳۱۸۹	ابن عباس (متکو-۱۰۵۶) باب المتشبهون بالنساء المتشبهات	۳۱۸۹
۴۷-۳۱۸۹	ابن عباس (متکو-۲۱۸۹) باب اخرج المتشبهين بالنساء من البيوت	۳۱۸۹
۴۷-۳۱۸۱	ابن عباس (متکو-۱۱۳۸) باب اخرج المتشبهين بالنساء من البيوت	۳۱۸۱

اس کے نظ
یہ ہیں، خروج النبی
صلعم یوم عید
فصلت رکعتین لم
یصل قبل ولا بعد
ضم الی النساء
فاہون، بالصدیقة
فجلت المرأة
تصادق غنوصھا
روای، ویناھا
لمیساں اختصار
ہے ہلکت قلاذ
لا سہار فبعث
النبی صلعم فی
طلبھا رجا کال
فحضرت الصلاة
ولیسوا علی رضیہ
ولم یجدوا ما
فصدوا وہ علی
ذکر غیر وضو وغیر
ذلک للنبی صلعم
فانزل اللہ آیة

التیہم زناد فی روایة) زاد ابن عباس ہشام عن ابيه عن عائشة استعارت من اسماء و...
ہونے کا ذکر ہے۔ آخر میں تصدیق جو صہا ویناھا کی جگہ ہے لفظ فرطھا اسی سے عنوان باب ہے۔ مگر یہاں لفظ یوں ہے۔۔۔ قال كنت مع رسول الله
صلعم فی سوق من أسواق المدينة فانصرفت فانصرفت فقال ابن لکم ثلاثا ادعو الحسن بن علی فقام الحسن بن علی میثقی و فی عنقه السحاب
فقال النبی صلعم بیذا هكذا فقال الحسن بیذا هكذا انا لقرتبه فقال اللهم انی احنیه فاحبیه واحب من یحبنی وقال ابوہریرة فذا کان احد احب
الی من الحسن بن علی بعد ما قال رسول الله صلعم ما قال ۷۵ مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ ہے کہ عورتوں کا سا لباس پہنیں یا زیور
پہنیں یا کلام میں زنا ترین اختیار کریں اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ ہے کہ وہ مردوں کا لباس پہنیں۔ ایسا کرنے والوں پر لعنت کی اس لئے کہ
قدرت نے کچھ کام مرد کے لئے رکھے ہیں مثلاً ملک اور قوم کی حفاظت۔ جنگ کرنا۔ معاش کے لئے مشقت کے کام اختیار کرنا۔ اور عورت کے لئے کچھ کام
رکھے ہیں جیسے بچوں کی پرورش اور تربیت اور خانہ داری کا انتظام تو جو مرد عورتوں سے مشابہت پیدا کر لے وہ مردانہ صفات کھو بیٹھتا ہے عورت
کے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہی حالت عورت کی ہے وہ کتنی بھی مردانہ پن اختیار کرے اپنے قدرتی جوہروں کو ضائع کر کے مرد نہیں بن سکتی
استثنای فی عورتیں الگ ہیں، مگر اس کے لفظ یہ ہیں۔۔۔ لعن النبی صلعم علیہ وسلم المتشبهین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوه
من بیوتکم قال فاخرج النبی صلعم قلاذنا و اخرج عمر قلاذنا فاحسنت وہ ہے جو اپنے، قوال و افعال میں عورتوں سے مشابہت جو بعض وقت یہ پیدا نہیں
ہوتا ہے جس میں انسان معذور ہے، اور بعض وقت عمدتاً کرتا ہے۔ راکوں کے کانوں یا لگیوں میں نہ یورپنا ناخن کاروان ہندوستان میں ہست
ہے۔ و حقیقت ان کو عورتوں کے ساتھ مشابہت دینا ہے، لہذا یہاں متشبهتین کی جگہ پڑھا گیا ہے، استثنای فی عورتیں ایک ہی ہے، ان النبی صلعم علیہ
وسلم کان عندھا و فی البیت فحدث فقال لعبد الله انی ام سلمة یا عبد الله انی فخرتک من اللہ انی اولک علیک بذن عیاد و انی اولک
باربع و تدبر بثمان فقال النبی صلعم لا یدخلن ہذا علیک قال ابو عبد الله تعیل باربع و تدبر بثمان باربع و تدبر بثمان
رکعتن) بطنھا ففی تعیل ہمن و قوله و تدبر بثمان یعنی اطراف ہذا العنک الاربع لانھا حیطة بالجنبین (دونوں ہتھکڑوں میں، حتیٰ لحدت
وانما قال بثمان و لم یقل بثمانیة و واحد الاطراف و هو ذکرا لانه لم یقل ثمانیة اطراف ۷

(۶۳) بَابُ قِصْلِ الشَّارِبِ وَكَانَ عُمَرُ يَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ

باب کا ٹکڑا اور ابن عمر اپنی مونچھیں جڑا رہے تھے تاکہ ان کے چہرے کی سفیدی دیکھی جاتی تھی اور ان دونوں لبوں کو لپیٹتے یعنی جو مونچھ اور ڈاڑھی کے درمیان ہے۔

وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ (م- ۱۸۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

(متکرو- ۲۱۹۱) (۲۱۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةُ رُوَيْتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

دیکھو حدیث ۲۱۹۱ اور ہریرہ روایت کرتے ہیں قدیمی سنتیں پانچ ہیں

الْفِطْرَةَ الْخِتَانِ وَالْأَسْتِحْدَادَ وَتَعْتُ الْأَلْبِطَ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَقِصْ

فقرہ اور زینات بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال اکھڑانا اور ناخن کاٹنا اور مونچھیں

الشَّارِبِ (۶۴) بَابُ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ (۲۱۹۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

باب کا ٹکڑا اور ناخن کاٹنا ابن عمر سے روایت ہے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدیمی سنتوں میں گزیرات بال مونڈنا اور ناخن کاٹنا

وَقِصْلِ الشَّارِبِ (م- ۱۸۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۲۱۹۰) (۲۱۹۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ

دیکھو حدیث ۲۱۹۰ اور ہریرہ روایت کرتے ہیں ابن عمر

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَاقْرَأُوا اللُّغِيَّ وَأَحْفُوا

بنی ہنسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو اور لہجہ پڑھاؤ اور مونچھوں

الشَّوَارِبِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

کو جڑ سے کاٹو اور ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی ڈاڑھی کو منگھنی میں لپیٹے تو جو زیادہ ہوتی اسے کاٹ لیتے

(۶۵) بَابُ اِعْفَاءِ اللُّغِيِّ (م- ۱۸۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (متکرو- ۲۱۹۲)

باب کا ٹکڑا اور لہجہ کا بڑھانا دیکھو حدیث ۲۱۹۲

(۶۶) بَابُ مَا يُدْ كَرَفِي الشَّيْبِ (م- ۳۱۸۵) عَنْ أَنَسِ (متکرو- ۱۵۹۳) (م- ۳۱۸۶)

باب کا ٹکڑا جو سفید بالوں کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے دیکھو حدیث ۱۵۹۳

عَنْ أَنَسِ (متکرو- ۱۵۹۳) (۳۱۸۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ

دیکھو حدیث ۱۵۹۳ عثمان بن عبد اللہ ابن موبہب سے روایت ہے

سے کہا ہے مراد دونوں صورتوں میں تجدید نہیں۔ اور احادیث میں بعض اور چیزوں کو بھی فطرت کہا ہے جیسے سواک وغیرہ یہ تمام باتیں صفائی پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں غنہ کو امی قسم کی سنن میں داخل کیا گیا ہے جو انسان کی ظاہری صفائی کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے بغلوں کے بال لینا یا زینات بال لینا وغیرہ استیوار کے لفظی معنی استرے کا استعمال کرنا ہیں۔ اور مراد اس سے زینات یا لبوں کا عاف کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں ظاہری صفائی پر اسی طرح زور دیا گیا ہے جس طرح باطنی صفائی پر۔ اور ظاہر ہے کہ ان پانچ باتوں سے انسان کا ظاہر جسم صاف رہتا ہے۔ لہذا قرآن ہی لفظ ہے جس میں صاف یا بے داڑھی بڑھانے کو مشرکوں کی مخالفت قرار دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں بکائے مشرکین کے مجوس کا لفظ ہے۔ یہ لوگ ڈاڑھی مونڈ لیتے یا بہت چھوٹی رکھتے تھے۔ ڈاڑھی کا بڑھانا انسان کے جسم کے پاکیزہ رہنے میں کسی طرح خلل نہیں۔ اور دُخْرَا کے معنی دافر چھوڑنا ہیں اور حضرت ابن عمر نے اس کی عملی رنگ میں پیش کرنا کی کوشش بھر کر اس سے بڑھے ہوئے بال کتر دوائے۔ لہذا یہاں لفظ یہ ہیں انھلوا الشواذب واعفوا اللغی۔ نہک کا لٹنے میں ما لفظ ہے احقار۔ اعقار اور غیر ایک ہی چیز ہے یعنی زیادہ ہونے و دواور قبض کے مخالف ہے جس کے معنی ہیں کتر کہ بہت چھوٹا کر دینا۔ لہذا یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال (محمد بن سیرین) سالت أنا اخطب النبی صلعم قال لم يبلغ الشيب الا قليلا. وہاں ہے۔ انما كان حتى في صدغیه. یہاں لفظ یوں ہیں۔ سئل ان عن خضاب النبی صلعم قال انه لم يبلغ ما يخطب لو شئت ان اعد شمطاً به (سفید بال، فی لحيته +

۱۔ احقار جڑ سے اکھڑانے جو مونڈنے کی طرح ہے۔ اس کے لفظ یہ ہیں عن النبی صلعم قال من الفطرة قص الشارب فطرت سے مراد سنت قدیمی کی گئی ہے جو انبیاء ہمیشہ سے اختیار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور فطرت انسانی بھی ان باتوں کو چاہتی ہے جن میں انسان کا فائدہ ہو۔ مونچھوں کے بڑھنے سے کھانے پینے میں اور ایسا ہی ناک کی آلائش کی وجہ سے پوری صفائی نہیں رہ سکتی۔ لہذا یہاں پانچ چیزوں کو فطرت کہا ہے یا فطرت سے کہا ہے مراد دونوں صورتوں میں تجدید نہیں۔ اور احادیث میں بعض اور چیزوں کو بھی فطرت کہا ہے جیسے سواک وغیرہ یہ تمام باتیں صفائی پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں غنہ کو امی قسم کی سنن میں داخل کیا گیا ہے جو انسان کی ظاہری صفائی کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے بغلوں کے بال لینا یا زینات بال لینا وغیرہ استیوار کے لفظی معنی استرے کا استعمال کرنا ہیں۔ اور مراد اس سے زینات یا لبوں کا عاف کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں ظاہری صفائی پر اسی طرح زور دیا گیا ہے جس طرح باطنی صفائی پر۔ اور ظاہر ہے کہ ان پانچ باتوں سے انسان کا ظاہر جسم صاف رہتا ہے۔ لہذا قرآن ہی لفظ ہے جس میں صاف یا بے داڑھی بڑھانے کو مشرکوں کی مخالفت قرار دیا ہے۔ مسلم کی روایت میں بکائے مشرکین کے مجوس کا لفظ ہے۔ یہ لوگ ڈاڑھی مونڈ لیتے یا بہت چھوٹی رکھتے تھے۔ ڈاڑھی کا بڑھانا انسان کے جسم کے پاکیزہ رہنے میں کسی طرح خلل نہیں۔ اور دُخْرَا کے معنی دافر چھوڑنا ہیں اور حضرت ابن عمر نے اس کی عملی رنگ میں پیش کرنا کی کوشش بھر کر اس سے بڑھے ہوئے بال کتر دوائے۔ لہذا یہاں لفظ یہ ہیں انھلوا الشواذب واعفوا اللغی۔ نہک کا لٹنے میں ما لفظ ہے احقار۔ اعقار اور غیر ایک ہی چیز ہے یعنی زیادہ ہونے و دواور قبض کے مخالف ہے جس کے معنی ہیں کتر کہ بہت چھوٹا کر دینا۔ لہذا یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال (محمد بن سیرین) سالت أنا اخطب النبی صلعم قال لم يبلغ الشيب الا قليلا. وہاں ہے۔ انما كان حتى في صدغیه. یہاں لفظ یوں ہیں۔ سئل ان عن خضاب النبی صلعم قال انه لم يبلغ ما يخطب لو شئت ان اعد شمطاً به (سفید بال، فی لحيته +

قَالَ ارْسَلْتَنِي اَهْلِي اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَتَبَضُّ اسْمًا تَمِيلُ ثَلَاثَ

کر گئے اپنے گھروالوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا پیار جو چاندی کا تھا دیکر پوچھا اور اس میں نے تین انگلیوں کو بند کیا تھا

اَصَابِعٍ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرَتَيْنِ شَعْرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رِذَا

جس میں تین نعلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے اور ایسا تھا کہ جب کسی

اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَيْءٌ بَعَثَ لِيَهَا فُحْضِبَهُ فَاظَلَّتْ فِي الْحَجَلِ فَرَأَيْتَ

آدنی کو نظر لگتی یا میاں ہوتا تو ام سلمہ کے پاس ایک رابر تین رتبہ پوچھتا جس نے گفتگو میں جھانکا تو میں نے اس

شَعْرَاتٍ حُمْرٍ اِمْرًا - ۳۱۸۷ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (مُتَكَوِّرًا) ۲۱۹۳ (۶۷) بِأَبِ

میں سرخ بال دیکھے دیکھو حدیث ۲۱۹۳ باب

الْخَضَابِ ر - ۳۱۸۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۵۵۱ (۶۸) بِأَبِ

خضاب کا باب دیکھو حدیث ۱۵۵۱ باب گفتگو کیے بال

ر - ۳۱۸۹ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) ۱۵۹۱ (۱۵۹۱) ر - ۳۱۹۰ عَنْ

دیکھو حدیث ۱۵۹۱ دیکھو حدیث

۱۵۹۲ (۱۵۹۲) ر - ۳۱۹۱ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْرٍ (مُتَكَوِّرًا) ۱۵۲۳ (۱۵۲۳) ر - ۳۱۹۲

دیکھو حدیث ۱۵۹۲ دیکھو حدیث ۱۵۲۳

(مُتَكَوِّرًا) ۲۱۹۳ ر - ۳۱۹۳ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) ۲۱۹۳ ر - ۳۱۹۳

دیکھو حدیث ۲۱۹۳ دیکھو حدیث ۲۱۹۳

قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعْرَةِ سَوَّلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ہے کہ میں نے انس بن مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا

وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ شَعْرَةُ سَوَّلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا لَيْسَ بِالسَّيْطِ فَلا

تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کچھ خرم تھا نہ باہل سے تھے اور نہ ہمت

الْحَجْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَارِيقِهِ ر - ۳۱۹۴ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) ۲۱۹۴

گھنگرے آپ کے دونوں کانوں اور موڑھوں کے درمیان تھے دیکھو حدیث ۲۱۹۴

۱۵۷۱ تین انگلیوں کو بند کرنے کی مختلف توہمات کی گئی ہیں۔ یا تو یہ ظاہر کرنے کیلئے کہ یہ لہ اتنا چھوٹا تھا اور اغلب یہ ہے اور یا تین رتبہ بھیجے کی طرف اشارہ تھا۔ ہوسکتا ہے کہ تین بال ہوں۔ بیماریوں میں لوگ ان بالوں سے تبرک لینے کی عادت میں پانی ڈال کر اس میں بال رکھ کر بیٹھتے۔ غالباً یہ بال یا تین رکھ کر وہاں بیٹھے تھے حضرت ام سلمہ نے انہیں کافی مقام پر محفوظ رکھا ہوا تھا یہاں ہے کہ جھانکا تو سرخ بال دیکھے آپ کوئی خضاب یا ہندی استعمال نہ

کرتے تھے۔ بالوں کا یہ رنگ خوشبو کے استعمال سے ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حدیث ۱۵۵۱ میں اس کی تصریح ہے۔ کچھ نفلوں میں بہ دخلت علیہ ام سلمہ فاخرجت الینا شعر من شعر النبی صلعم فخصوا روفی رواقہ ان ام سلمة اذتہ شعر النبی صلعم اسمرہ کچھ خضاب کے متعلق متضاد حدیثیں ہیں۔ مگر بخاری نے حدیث ۱۵۵۱ اور اس کی مکرر روایت م ۳۱۸۸ میں خضاب کرنے کو ترجیح دی ہے۔ کچھ وہی لفظ ہے کچھ بعض جملہ اور آخری حصہ چھوڑ دیا ہے کان رسول اللہ صلعم لیس بالتحویل البائن ولا بالتحصیر و لیس بالابيض لا مہن و لیس بالادم و لیس بالجدد القطط و لا بالسبط بعثہ اللہ علیہ راس اربعین سنۃ فاقام بملکۃ عشر سنین و بالمدینۃ عشر سنین و قواہ اللہ علیہ راس ستین سنۃ و لیس فی راسہ و لحدیثہ عشر سنون شعرۃ بیضاء کچھ نفلوں میں ہے۔ یہ قول ما روایت احد احسن فی حلقہ حمراء عن النبی صلعم قال بعض اصحابی عن مالک ان ہمتہ لضرب قریبا من منکبہ قال ابو اسحق سمعتہ یحدثہ غیرہ ما حدت بہ قط الا فحک تابعہ شعبۃ شعرۃ یلذتہ شحمة اذنیہ کک ۱۵۲۳ کا پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم قال الرانی اللیلۃ عند الکعبۃ فرأیت رجلا ادم کاحسن ما انت راہ من ادم الرجال لہ لقمۃ کانصن ما انت راہ من اللہم قدر جملہا ذہی تقطروا ما متکئا علیہ وجلین او علی عروق رجلین یطون بالنبیت فسالن من ہذا اقلیل المسیب ابن مریم و اذا انا برجل جدد قطط اعور العیان الیمینی کاہنا عنبۃ طافیۃ فسالن من ہذا اقلیل المسیب الدجال کک ۱۵۲۳ و م ۳۱۹۳ کے لفظ ایک ہیں۔ کان یضرب شعرۃ منکبہ کک ۱۵۲۳ حصہ ۲۱۹۳ کا ہے اور کچھ م ۲۱۹۴ کا۔ کان النبی صلعم اللہ علیہ وسلم ضخم الیدین لم اریعدہ مثله و کان شعر النبی صلعم اللہ علیہ وسلم رجلا لا جدد ولا سبط و

فَالْجَارِيَةُ وَالْعَلَامَةُ قَالَ لَا أَدْرِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَادُوهُ

فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَالُ الْعَلَامَةُ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقُرْعَ أَنْ يَتَرَكَ

بِنَاصِيَتِهِ شَعْرًا وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرَةٌ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا أَوْ هَذَا

ر- ۳۲۰۴-۳۲۰۵ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَوِّرًا- ۳۱۹۵) (۳۱) بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

ر- ۳۲۰۵-۳۲۰۶ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۳۲) بَابُ الرِّطْبِ فِي الرَّأْسِ

ر- ۳۲۰۶-۳۲۰۷ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۳۵) بَابُ الْأَمْتِشَاطِ (۳۱۹۶)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ حُجْرِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْنَةِ فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعْتُ

بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنْ جَعَلَ الْأَذُنُ مِنْ قَبْلِ الْأَبْصَارِ (۳۲۰۷) بَابُ تَرْجِيلِ الْحَالِضِ

ر- ۳۲۰۷-۳۲۰۸ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۲۲) (۳۲) بَابُ التَّرْجِيلِ

ر- ۳۲۰۸-۳۲۰۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۹۰) (۳۹) بَابُ

مَا يَسْتَحَبُّ مِنَ الطَّيِّبِ (ر- ۳۲۱۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۸۰) بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدْ

الطَّيِّبِ (ر- ۳۲۱۲) عَنْ أَنَسِ (مُتَكَوِّرًا- ۱۲۱۶) (۸۱) بَابُ الدَّرِيرَةِ

رفیقہ ص ۱۳۵
مذاہب اسی کی دوسری
روایت ہے نقطہ یہ
ہیں۔ وقال بذو لیلۃ
اور اسی +
صفحہ ہذا
مذاہب میں بدنامی
بھی ہو اور شرک لوگ
بعض توہمات کے
تحت بھی ایسا کرتے
تھاب بھی لوگ بیرون
کیلئے ایسا کرتے ہیں
مذاہب سے سر کے بال جس
طرح چلبے رکھے لیکن
شکل کو بگاڑنا اچھا
نہیں +
مذاہب صرف یہ لفظ
ہیں۔ ان رسول اللہ
صلعم نے عن القرم
مذاہب صرف یہ
لفظ ہیں۔ - قالت
طیبت النبی صلعم
بیکر نحوہ وہ وطیبتہ
بجئے قبل ان یرفیض
ذکر ہے مگر جو بات
اجرام میں جائز ہے
وہ وہی بھی جائز ہے
مذکیاں نظریوں
ہیں۔ - قالت کنت
اطیب النبی صلعم
باطیب ما یجوز حتی
اجد ومعل الطیب

کرا لگا اور وہ کار و دوں اس حکم میں ہر دو کو لیں نہیں جانتا اسی طرح روایتیں ہیں (۳۱) عابد اللہ نے کہا میں نے پھر ان سے
فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَالُ الْعَلَامَةُ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقُرْعَ أَنْ يَتَرَكَ
پڑھا تو کہا کہ راک کے کیلئے سراور کروں کے بال رنڈو وہ ہے اس طرح نہیں
بِنَاصِيَتِهِ شَعْرًا وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرَةٌ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا أَوْ هَذَا
جائیں اور اس کے سوائے اس کے سر میں اور بال نہ ہوں اور اسی طرح اس کے سر کی دونوں طرفوں میں یہ اور یہ لفظ
ر- ۳۲۰۴-۳۲۰۵ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَوِّرًا- ۳۱۹۵) (۳۱) بَابُ تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
دیکھو حدیث ۳۱۹۵
ر- ۳۲۰۵-۳۲۰۶ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۳۲) بَابُ الرِّطْبِ فِي الرَّأْسِ
دیکھو حدیث ۳۲۰۶
ر- ۳۲۰۶-۳۲۰۷ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۳۵) بَابُ الْأَمْتِشَاطِ (۳۱۹۶)
دیکھو حدیث ۳۲۰۷
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ حُجْرِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھاڑا اور
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْنَةِ فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعْتُ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر پٹتے سے کھینچتے تھے تو اپنے فرمایا کہ اگر مجھ کو علم ہوتا کہ تم دیکھو رہے ہو تو میں
بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنْ جَعَلَ الْأَذُنُ مِنْ قَبْلِ الْأَبْصَارِ (۳۲۰۷) بَابُ تَرْجِيلِ الْحَالِضِ
تمہاری آنکھ میں مانتا اجازت کا اصل تو دیکھنے کی وجہ سے پٹھرایا گیا ہے
ر- ۳۲۰۷-۳۲۰۸ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۲۲) (۳۲) بَابُ التَّرْجِيلِ
دیکھو حدیث ۲۲۲
ر- ۳۲۰۸-۳۲۰۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۹۰) (۳۹) بَابُ
دیکھو حدیث ۹۰
ر- ۳۲۰۹-۳۲۱۰ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۸۰) بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدْ
دیکھو حدیث ۲۰۹
ر- ۳۲۱۰-۳۲۱۱ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۸۰) بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدْ
دیکھو حدیث ۲۰۹
ر- ۳۲۱۱-۳۲۱۲ عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا- ۲۰۹) (۸۰) بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدْ
دیکھو حدیث ۲۰۹
ر- ۳۲۱۲-۳۲۱۳ عَنْ أَنَسِ (مُتَكَوِّرًا- ۱۲۱۶) (۸۱) بَابُ الدَّرِيرَةِ
دیکھو حدیث ۱۲۱۶
ذکر ہے

فی راسہ و طیبته + ۱۵ یعنی دوسرے کے گھر میں جو بغیر اذن سے داخل ہونا منع ہے تو اسلئے ہے کہ تخلیہ میں اس کو دیکھا جائے + ۱۶ ملام ۳۲۰۴ میں ۳۲۰۴ کو فی الفاظ
میں نہ پرایا ہے اور م ۳۲۰۸ میں ہے عن عائشۃ مشابہ + ۱۷ ترجیل میں لکھی کے ساتھ بالوں کو سترانے کا بھی مفہوم شامل ہے + ۱۸ مذاہب صرف یہ لفظ
ہیں + عن النبی صلعم انہ کان یحبہ التیمن ما استطاع فی ترجمہ ووضوئہ + ۱۹ منکک کا پچھلا حصہ یوں بیان کیا ہے + عن النبی صلعم قال کل عمل
ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا احزی بہ وکلونہ ثم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک + ۲۰ میں منکک کی خوشبو کو محل مدح پر بیان کیا ہے اس سے
اسکا استحباب نکال ہے + ۲۱ مذاہب یہ لفظ ہیں + کنت اطیب النبی صلعم عند احرامہ باطیب ما اجد + ۲۲ انہ کان لا یورد الطیب فذم ان النبی صلعم
کان لا یورد الطیب + ۲۳ ذریرہ - تمہارے میں ہے ہونو عن الطیب مجموعہ اخلاط یعنی بست سی چیزوں سے بنی ہوئی خوشبو یعنی طوریہ مراد ہے سبھی ہوئی +

۳۲۱۳
۳۲۱۴
۳۲۱۵
۳۲۱۶
۳۲۱۷
۳۲۱۸
۳۲۱۹
۳۲۲۰
۳۲۲۱
۳۲۲۲
۳۲۲۳
۳۲۲۴
۳۲۲۵
۳۲۲۶
۳۲۲۷
۳۲۲۸
۳۲۲۹
۳۲۳۰
۳۲۳۱
۳۲۳۲
۳۲۳۳
۳۲۳۴
۳۲۳۵
۳۲۳۶
۳۲۳۷
۳۲۳۸
۳۲۳۹
۳۲۴۰
۳۲۴۱
۳۲۴۲
۳۲۴۳
۳۲۴۴
۳۲۴۵
۳۲۴۶
۳۲۴۷
۳۲۴۸
۳۲۴۹
۳۲۵۰
۳۲۵۱
۳۲۵۲
۳۲۵۳
۳۲۵۴
۳۲۵۵
۳۲۵۶
۳۲۵۷
۳۲۵۸
۳۲۵۹
۳۲۶۰
۳۲۶۱
۳۲۶۲
۳۲۶۳
۳۲۶۴
۳۲۶۵
۳۲۶۶
۳۲۶۷
۳۲۶۸
۳۲۶۹
۳۲۷۰
۳۲۷۱
۳۲۷۲
۳۲۷۳
۳۲۷۴
۳۲۷۵
۳۲۷۶
۳۲۷۷
۳۲۷۸
۳۲۷۹
۳۲۸۰
۳۲۸۱
۳۲۸۲
۳۲۸۳
۳۲۸۴
۳۲۸۵
۳۲۸۶
۳۲۸۷
۳۲۸۸
۳۲۸۹
۳۲۹۰
۳۲۹۱
۳۲۹۲
۳۲۹۳
۳۲۹۴
۳۲۹۵
۳۲۹۶
۳۲۹۷
۳۲۹۸
۳۲۹۹
۳۳۰۰
۳۳۰۱
۳۳۰۲
۳۳۰۳
۳۳۰۴
۳۳۰۵
۳۳۰۶
۳۳۰۷
۳۳۰۸
۳۳۰۹
۳۳۱۰
۳۳۱۱
۳۳۱۲
۳۳۱۳
۳۳۱۴
۳۳۱۵
۳۳۱۶
۳۳۱۷
۳۳۱۸
۳۳۱۹
۳۳۲۰
۳۳۲۱
۳۳۲۲
۳۳۲۳
۳۳۲۴
۳۳۲۵
۳۳۲۶
۳۳۲۷
۳۳۲۸
۳۳۲۹
۳۳۳۰
۳۳۳۱
۳۳۳۲
۳۳۳۳
۳۳۳۴
۳۳۳۵
۳۳۳۶
۳۳۳۷
۳۳۳۸
۳۳۳۹
۳۳۴۰
۳۳۴۱
۳۳۴۲
۳۳۴۳
۳۳۴۴
۳۳۴۵
۳۳۴۶
۳۳۴۷
۳۳۴۸
۳۳۴۹
۳۳۵۰
۳۳۵۱
۳۳۵۲
۳۳۵۳
۳۳۵۴
۳۳۵۵
۳۳۵۶
۳۳۵۷
۳۳۵۸
۳۳۵۹
۳۳۶۰
۳۳۶۱
۳۳۶۲
۳۳۶۳
۳۳۶۴
۳۳۶۵
۳۳۶۶
۳۳۶۷
۳۳۶۸
۳۳۶۹
۳۳۷۰
۳۳۷۱
۳۳۷۲
۳۳۷۳
۳۳۷۴
۳۳۷۵
۳۳۷۶
۳۳۷۷
۳۳۷۸
۳۳۷۹
۳۳۸۰
۳۳۸۱
۳۳۸۲
۳۳۸۳
۳۳۸۴
۳۳۸۵
۳۳۸۶
۳۳۸۷
۳۳۸۸
۳۳۸۹
۳۳۹۰
۳۳۹۱
۳۳۹۲
۳۳۹۳
۳۳۹۴
۳۳۹۵
۳۳۹۶
۳۳۹۷
۳۳۹۸
۳۳۹۹
۳۴۰۰
۳۴۰۱
۳۴۰۲
۳۴۰۳
۳۴۰۴
۳۴۰۵
۳۴۰۶
۳۴۰۷
۳۴۰۸
۳۴۰۹
۳۴۱۰
۳۴۱۱
۳۴۱۲
۳۴۱۳
۳۴۱۴
۳۴۱۵
۳۴۱۶
۳۴۱۷
۳۴۱۸
۳۴۱۹
۳۴۲۰
۳۴۲۱
۳۴۲۲
۳۴۲۳
۳۴۲۴
۳۴۲۵
۳۴۲۶
۳۴۲۷
۳۴۲۸
۳۴۲۹
۳۴۳۰
۳۴۳۱
۳۴۳۲
۳۴۳۳
۳۴۳۴
۳۴۳۵
۳۴۳۶
۳۴۳۷
۳۴۳۸
۳۴۳۹
۳۴۴۰
۳۴۴۱
۳۴۴۲
۳۴۴۳
۳۴۴۴
۳۴۴۵
۳۴۴۶
۳۴۴۷
۳۴۴۸
۳۴۴۹
۳۴۵۰
۳۴۵۱
۳۴۵۲
۳۴۵۳
۳۴۵۴
۳۴۵۵
۳۴۵۶
۳۴۵۷
۳۴۵۸
۳۴۵۹
۳۴۶۰
۳۴۶۱
۳۴۶۲
۳۴۶۳
۳۴۶۴
۳۴۶۵
۳۴۶۶
۳۴۶۷
۳۴۶۸
۳۴۶۹
۳۴۷۰
۳۴۷۱
۳۴۷۲
۳۴۷۳
۳۴۷۴
۳۴۷۵
۳۴۷۶
۳۴۷۷
۳۴۷۸
۳۴۷۹
۳۴۸۰
۳۴۸۱
۳۴۸۲
۳۴۸۳
۳۴۸۴
۳۴۸۵
۳۴۸۶
۳۴۸۷
۳۴۸۸
۳۴۸۹
۳۴۹۰
۳۴۹۱
۳۴۹۲
۳۴۹۳
۳۴۹۴
۳۴۹۵
۳۴۹۶
۳۴۹۷
۳۴۹۸
۳۴۹۹
۳۵۰۰
۳۵۰۱
۳۵۰۲
۳۵۰۳
۳۵۰۴
۳۵۰۵
۳۵۰۶
۳۵۰۷
۳۵۰۸
۳۵۰۹
۳۵۱۰
۳۵۱۱
۳۵۱۲
۳۵۱۳
۳۵۱۴
۳۵۱۵
۳۵۱۶
۳۵۱۷
۳۵۱۸
۳۵۱۹
۳۵۲۰
۳۵۲۱
۳۵۲۲
۳۵۲۳
۳۵۲۴
۳۵۲۵
۳۵۲۶
۳۵۲۷
۳۵۲۸
۳۵۲۹
۳۵۳۰
۳۵۳۱
۳۵۳۲
۳۵۳۳
۳۵۳۴
۳۵۳۵
۳۵۳۶
۳۵۳۷
۳۵۳۸
۳۵۳۹
۳۵۴۰
۳۵۴۱
۳۵۴۲
۳۵۴۳
۳۵۴۴
۳۵۴۵
۳۵۴۶
۳۵۴۷
۳۵۴۸
۳۵۴۹
۳۵۵۰
۳۵۵۱
۳۵۵۲
۳۵۵۳
۳۵۵۴
۳۵۵۵
۳۵۵۶
۳۵۵۷
۳۵۵۸
۳۵۵۹
۳۵۶۰
۳۵۶۱
۳۵۶۲
۳۵۶۳
۳۵۶۴
۳۵۶۵
۳۵۶۶
۳۵۶۷
۳۵۶۸
۳۵۶۹
۳۵۷۰
۳۵۷۱
۳۵۷۲
۳۵۷۳
۳۵۷۴
۳۵۷۵
۳۵۷۶
۳۵۷۷
۳۵۷۸
۳۵۷۹
۳۵۸۰
۳۵۸۱
۳۵۸۲
۳۵۸۳
۳۵۸۴
۳۵۸۵
۳۵۸۶
۳۵۸۷
۳۵۸۸
۳۵۸۹
۳۵۹۰
۳۵۹۱
۳۵۹۲
۳۵۹۳
۳۵۹۴
۳۵۹۵
۳۵۹۶
۳۵۹۷
۳۵۹۸
۳۵۹۹
۳۶۰۰
۳۶۰۱
۳۶۰۲
۳۶۰۳
۳۶۰۴
۳۶۰۵
۳۶۰۶
۳۶۰۷
۳۶۰۸
۳۶۰۹
۳۶۱۰
۳۶۱۱
۳۶۱۲
۳۶۱۳
۳۶۱۴
۳۶۱۵
۳۶۱۶
۳۶۱۷
۳۶۱۸
۳۶۱۹
۳۶۲۰
۳۶۲۱
۳۶۲۲
۳۶۲۳
۳۶۲۴
۳۶۲۵
۳۶۲۶
۳۶۲۷
۳۶۲۸
۳۶۲۹
۳۶۳۰
۳۶۳۱
۳۶۳۲
۳۶۳۳
۳۶۳۴
۳۶۳۵
۳۶۳۶
۳۶۳۷
۳۶۳۸
۳۶۳۹
۳۶۴۰
۳۶۴۱
۳۶۴۲
۳۶۴۳
۳۶۴۴
۳۶۴۵
۳۶۴۶
۳۶۴۷
۳۶۴۸
۳۶۴۹
۳۶۵۰
۳۶۵۱
۳۶۵۲
۳۶۵۳
۳۶۵۴
۳۶۵۵
۳۶۵۶
۳۶۵۷
۳۶۵۸
۳۶۵۹
۳۶۶۰
۳۶۶۱
۳۶۶۲
۳۶۶۳
۳۶۶۴
۳۶۶۵
۳۶۶۶
۳۶۶۷
۳۶۶۸
۳۶۶۹
۳۶۷۰
۳۶۷۱
۳۶۷۲
۳۶۷۳
۳۶۷۴
۳۶۷۵
۳۶۷۶
۳۶۷۷
۳۶۷۸
۳۶۷۹
۳۶۸۰
۳۶۸۱
۳۶۸۲
۳۶۸۳
۳۶۸۴
۳۶۸۵
۳۶۸۶
۳۶۸۷
۳۶۸۸
۳۶۸۹
۳۶۹۰
۳۶۹۱
۳۶۹۲
۳۶۹۳
۳۶۹۴
۳۶۹۵
۳۶۹۶
۳۶۹۷
۳۶۹۸
۳۶۹۹
۳۷۰۰
۳۷۰۱
۳۷۰۲
۳۷۰۳
۳۷۰۴
۳۷۰۵
۳۷۰۶
۳۷۰۷
۳۷۰۸
۳۷۰۹
۳۷۱۰
۳۷۱۱
۳۷۱۲
۳۷۱۳
۳۷۱۴
۳۷۱۵
۳۷۱۶
۳۷۱۷
۳۷۱۸
۳۷۱۹
۳۷۲۰
۳۷۲۱
۳۷۲۲
۳۷۲۳
۳۷۲۴
۳۷۲۵
۳۷۲۶
۳۷۲۷
۳۷۲۸
۳۷۲۹
۳۷۳۰
۳۷۳۱
۳۷۳۲
۳۷۳۳
۳۷۳۴
۳۷۳۵
۳۷۳۶
۳۷۳۷
۳۷۳۸
۳۷۳۹
۳۷۴۰
۳۷۴۱
۳۷۴۲
۳۷۴۳
۳۷۴۴
۳۷۴۵
۳۷۴۶
۳۷۴۷
۳۷۴۸
۳۷۴۹
۳۷۵۰
۳۷۵۱
۳۷۵۲
۳۷۵۳
۳۷۵۴
۳۷۵۵
۳۷۵۶
۳۷۵۷
۳۷۵۸
۳۷۵۹
۳۷۶۰
۳۷۶۱
۳۷۶۲
۳۷۶۳
۳۷۶۴
۳۷۶۵
۳۷۶۶
۳۷۶۷
۳۷۶۸
۳۷۶۹
۳۷۷۰
۳۷۷۱
۳۷۷۲
۳۷۷۳
۳۷۷۴
۳۷۷۵
۳۷۷۶
۳۷۷۷
۳۷۷۸
۳۷۷۹
۳۷۸۰
۳۷۸۱
۳۷۸۲
۳۷۸۳
۳۷۸۴
۳۷۸۵
۳۷۸۶
۳۷۸۷
۳۷۸۸
۳۷۸۹
۳۷۹۰
۳۷۹۱
۳۷۹۲
۳۷۹۳
۳۷۹۴
۳۷۹۵
۳۷۹۶
۳۷۹۷
۳۷۹۸
۳۷۹۹
۳۸۰۰
۳۸۰۱
۳۸۰۲
۳۸۰۳
۳۸۰۴
۳۸۰۵
۳۸۰۶
۳۸۰۷
۳۸۰۸
۳۸۰۹
۳۸۱۰
۳۸۱۱
۳۸۱۲
۳۸۱۳
۳۸۱۴
۳۸۱۵
۳۸۱۶
۳۸۱۷
۳۸۱۸
۳۸۱۹
۳۸۲۰
۳۸۲۱
۳۸۲۲
۳۸۲۳
۳۸۲۴
۳۸۲۵
۳۸۲۶
۳۸۲۷
۳۸۲۸
۳۸۲۹
۳۸۳۰
۳۸۳۱
۳۸۳۲
۳۸۳۳
۳۸۳۴
۳۸۳۵
۳۸۳۶
۳۸۳۷
۳۸۳۸
۳۸۳۹
۳۸۴۰
۳۸۴۱
۳۸۴۲
۳۸۴۳
۳۸۴۴
۳۸۴۵
۳۸۴۶
۳۸۴۷
۳۸۴۸
۳۸۴۹
۳۸۵۰
۳۸۵۱
۳۸۵۲
۳۸۵۳
۳۸۵۴
۳۸۵۵
۳۸۵۶
۳۸۵۷
۳۸۵۸
۳۸۵۹
۳۸۶۰
۳۸۶۱
۳۸۶۲
۳۸۶۳
۳۸۶۴
۳۸۶۵
۳۸۶۶
۳۸۶۷
۳۸۶۸
۳۸۶۹
۳۸۷۰
۳۸۷۱
۳۸۷۲
۳۸۷۳
۳۸۷۴
۳۸۷۵
۳۸۷۶
۳۸۷۷
۳۸۷۸
۳۸۷۹
۳۸۸۰
۳۸۸۱
۳۸۸۲
۳۸۸۳
۳۸۸۴
۳۸۸۵
۳۸۸۶
۳۸۸۷
۳۸۸۸
۳۸۸۹
۳۸۹۰
۳۸۹۱
۳۸۹۲
۳۸۹۳
۳۸۹۴
۳۸۹۵
۳۸۹۶
۳۸۹۷
۳۸۹۸
۳۸۹۹
۳۹۰۰
۳۹۰۱
۳۹۰۲
۳۹۰۳
۳۹۰۴
۳۹۰۵
۳۹۰۶
۳۹۰۷
۳۹۰۸
۳۹۰۹
۳۹۱۰
۳۹۱۱
۳۹۱۲
۳۹۱۳
۳۹۱۴
۳۹۱۵
۳۹۱۶
۳۹۱۷
۳۹۱۸
۳۹۱۹
۳۹۲۰
۳۹۲۱
۳۹۲۲
۳۹۲۳
۳۹۲۴
۳۹۲۵
۳۹۲۶
۳۹۲۷
۳۹۲۸
۳۹۲۹
۳۹۳۰
۳۹۳۱
۳۹۳۲
۳۹۳۳
۳۹۳۴
۳۹۳۵
۳۹۳۶
۳۹۳۷
۳۹۳۸
۳۹۳۹
۳۹۴۰
۳۹۴۱
۳۹۴۲
۳۹۴۳
۳۹۴۴
۳۹۴۵
۳۹۴۶
۳۹۴۷
۳۹۴۸
۳۹۴۹
۳۹۵۰
۳۹۵۱
۳۹۵۲
۳۹۵۳
۳۹۵۴
۳۹۵۵
۳۹۵۶
۳۹۵۷
۳۹۵۸
۳۹۵۹
۳۹۶۰
۳۹۶۱
۳۹۶۲
۳۹۶۳
۳۹۶۴
۳۹۶۵
۳۹۶۶
۳۹۶۷
۳۹۶۸
۳۹۶۹
۳۹۷۰
۳۹۷۱
۳۹۷۲
۳۹۷۳
۳۹۷۴
۳۹۷۵
۳۹۷۶
۳۹۷۷
۳۹۷۸
۳۹۷۹
۳۹۸۰
۳۹۸۱
۳۹۸۲
۳۹۸۳
۳۹۸۴
۳۹۸۵
۳۹۸۶
۳۹۸۷
۳۹۸۸
۳۹۸۹
۳۹۹۰
۳۹۹۱
۳۹۹۲
۳۹۹۳
۳۹۹۴
۳۹۹۵
۳۹۹۶
۳۹۹۷
۳۹۹۸
۳۹۹۹
۴۰۰۰

(۳۲۱۳-م) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكَرَّرًا) ۲۰۹ (۸۲) بَابُ الْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحَسَنِ (م-۳۲۱۳)
 دیکھو حدیث ۲۰۹ ع
 بابیٹ جو حسن کے لئے ہے، عقیقوں کے درمیان کون کون سے ہوتے ہیں

(۳۲۱۴-م) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (مَتَكَرَّرًا) ۱۹۴۸ (۸۳) بَابُ الْوَصْلِ فِي الشُّكْرِ (م-۳۲۱۴)
 دیکھو حدیث ۱۹۴۸ ع
 بابیٹ جو ہوں میں جوڑ لگائے

(۳۲۱۵-م) عَنْ مُعَاوِيَةَ (مَتَكَرَّرًا) ۱۵۵۴ (۱۵۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
 دیکھو حدیث ۱۵۵۳ ع
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں

(۳۲۱۶-م) عَنْ عَائِشَةَ (مَتَكَرَّرًا) ۲۰۴ (۲۱۹۸) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ رَأَيْتُكِ أَنْكَرَتْ أَبْلُجِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَمَزَّقَ رَأْسَهَا وَزَوَّجَهَا يَسْتَحْيِي بِهَا فَأُفْصِلَ
 دیکھو حدیث ۲۰۴ ع
 اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے

(۳۲۱۷-م) رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (م-۳۲۱۷)
 دیکھو حدیث ۲۰۴ ع
 اور اس کے سر کے بال گر گئے اور اس کا فاقہ بندھے (اس کے سر میں اور بال لگانے کی)

(۳۲۱۸-م) عَنْ أَسْمَاءَ (مَتَكَرَّرًا) ۲۱۹۸ (۲۱۹۸) عَنِ ابْنِ مَسْرُورٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتا ہے
 دیکھو حدیث ۲۱۹۸ ع
 ابن مسرور سے روایت ہے

(۳۲۱۹-م) وَقَالَ نَافِعُ الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ (م-۳۲۱۹) عَنْ مُعَاوِيَةَ (مَتَكَرَّرًا) ۱۵۵۴
 دیکھو حدیث ۱۵۵۴ ع
 اور نافع نے کہا دشمن مسوڑوں میں ہے

(۳۲۲۰-م) بَابُ الْمُتَمَصَّاتِ (م-۳۲۲۰) عَنْ عَلْقَمَةَ (مَتَكَرَّرًا) ۱۹۴۸
 دیکھو حدیث ۱۹۴۸ ع
 بابیٹ بال اکھیرنے والی عورتیں

(۳۲۲۱-م) بَابُ الْمُؤْصَلَةِ (م-۳۲۲۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (مَتَكَرَّرًا) ۲۱۹۸
 دیکھو حدیث ۲۱۹۸ ع
 بابیٹ جس عورت کے بالوں کے ساتھ اور بال جوڑے گئے ہوں

کے اکھیرنے میں بھی اذیت ہے ایسے تکلفات جو اذیت کا موجب ہیں۔ نماز میں جن کے لئے ان کا اختیار کرنا منع فرمایا ہے۔ چڑھنے کے بالوں کے اکھیرنے سے شاید منشا دلایے بالوں کا اکھیرنا ہوگا جو بد نما نہیں کسی بد نمائی کو دور کرنا محبوب معلوم نہیں ہوتا۔ مسکتا یعنی الفاظ میں حدیث کو دوہرا ہے۔ عکس خفیف اختلاف لفظی سے دوہرا ہے۔ ان عبادتوں میں انصار ترقوت و اتمام مرضت فتہ خط شعہا قاروا وان یصلوها فانوا اللہ صلحہ فقال لعن اللہ الواصلة والمستوصلة۔ بال میں جوڑ لگانے کو ۳۲۱۹ میں ذکر فرمایا ہے یعنی دھو کا دینا اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے۔ عکس صرف یہ لفظ ہیں۔۔۔ قال لعن اللہ الواصلة والمستوصلة۔ عکس نہیں بلکہ مراد ہے کہ مسوڑوں میں بھی گداؤں سے عکس یہاں لفظ ہیں ہیں۔۔۔ قد تم معاویة المدینة آخر دولة قدما فخطبنا فاخرج كبة من شعر قال ما كنت اذى احد يفعل هذا غير اليهود ان اللہ صلحہ سماہ الزورری وجہ اس کی ممانعت کی معلوم ہوتی ہے یعنی لواءصلة فی الشعر۔ عکس یہاں لفظ ہیں ہیں۔ قال لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والمتفلیحات للحسن المغیرات خلق اللہ فقال ام یعقوب ما هذا قال عبد اللہ ومالی لا لعن من لعن رسول اللہ صلحہ فی کتاب اللہ قالت واللہ لقد قرأت ما بین اللوحین فاجابہا قال واللہ لئن قرأتیہ لقد وجدתיہ وما اتاک الرسول فخذہ وما نہاک عنہ فانتهوا۔ ۱۹۴۸ حدیث کے الفاظ کو دوہرا ہے۔

(۸۹) بَابُ عَذَابِ الْمَصُورِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۲۱۹۹ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ

بَابُ قِيَامَتِ كَيْفَ وَنَقُصُورِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَيْفَ عَذَابِ

سَلَّمَ رَوَيْتُ بِهِ كَمَا جَاءَ

رَبِّهِ سَلَّمَ ۱۱۳۶۱

الْأَفْئِدَةُ خَرُوت

الْأَدَمُ فَانْفَرُوا

فی کل وعاء غیر ان لانشور امسکوا یہ حدیث مسلم کی ہے۔ ان ربتوں میں کوئی نقص نہیں تھا ایک خاص مدت تک ان کے استعمال سے شراب کی جگہ کی لئے روکا اور
بہر میں اس کی اجازت دیدی الخرج لا اقل دلا حرم وکن کل مسکرحرام۔ یعنی اسی طرح نقیورین کا معاملہ ہے۔ تصویر بابت ایک بیان چیز ہے نہ نفع پہنچا سکتا
ہے نہ نقصان اور فی نفسہاں میں کوئی نقص یا عیب اور قاحت نہیں ہے لیکن لوگوں نے اسے شرک کا ایک ذریعہ بنایا تھا اور بتوں اور نقیوروں کی پرستش ہوتی تھی۔
اور ان کے گھروں میں رتہ اور نقیوریں بت پرستی کے لئے رکھی جاتی تھیں اس لئے شرک کو دور کرنے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذرائع سے بھی روکا جو شرک کی
طرت پہنچا تو انہوں نے تھے یعنی بت اور نقیوروں کے طوق استعمال سے بھی روکا تاکہ بت پرستی کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ اور مختلف پہلوؤں میں اس کے استعمال سے
روکا۔ کبھی فرمایا کہ جس گھر میں نقیور ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ اور کبھی فرمایا جو نقیور بنائے گا اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائیگا۔ لیکن یہ ممانعت اور وعید
اس کی پرستش اور تعظیم کی بنا پر تھی یا ان کے اس طرح استعمال کی بنا پر جس سے ان کی تعظیم اور پرستش بھی جاتی ہو۔ ورنہ بت اور نقیور میں فی نفسہ کوئی عیب نہیں جس کی
وجہ سے ان کے استعمال سے روکا جائے مگر بعض حالات میں ان کے استعمال کی اجازت دی جب ان کے رکھنے سے نقصان کی تعظیم نہ ہو بلکہ تعظیم کے خلاف
بت پرستی اور نقیور پرستی کی تحقیر ہو یا کوئی اور مقصد ہو ۱۱۱۶ میں گند چکا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے پیچھے رکھے تھے حالانکہ ان نقیوروں میں اور ۱۱۱۷ میں
زید بن خالد کی حدیث میں بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تصویر کی اجازت دی جو کپڑے میں بطور نقش کے ہو اور اس میں وہ نقیوریں بھی آجاتی ہیں
جو کاغذ اور تختیوں پر ہوں اور جن کی غرض تعظیم کے علاوہ کچھ اور ہو کیونکہ ایسے کپڑے کے استعمال سے نقیور کی تعظیم نہیں لگتی یعنی امام نووی فرماتے ہیں۔
کہ تصویر کا اس طرح استعمال کر جس سے اس کی تعظیم معلوم ہوتی ہو جائز ہے۔ اور یہ قول جمہور علماء کا ہے صحابہ اور تابعین میں سے اور یہی قول امام نووی اور امام
ناکسدا امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اور اگر دیوار پر منقح ہو یا ملامت میں ہو یا پناہ ہوا ہو تو حرام ہے۔ مگر اس حدیث کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جب زید بن خالد کی روایت
میں اگر قسم فی ثوبہا کی استشاد بغیر کسی قید کے موجود ہے ۱۱۱۷ اسی طرح امام نووی نے لعن البیانات کو بھی حرام استعمال نقیور سے مستثنیٰ رکھا ہے اس لئے
کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت آئی ہے۔ خود حضرت عائشہ کے گروہوں کے کھیلنے کا ذکر بخاری میں ہے۔ دیکھو حدیث عن ابی سلمہ بن عبدالحمید بن ابی اسود
کے ہوتی ہیں مگر چونکہ اس کے استعمال کی غرض پرستش نہیں ہوتی اس لئے اس کی بھی اجازت ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوتا کہ نقیور اور بت رکھنے کی غرض
جب تعظیم نہ ہو تو خواہ اس کے رکھنے سے ان کی توہین اور تحقیر بھی جاتی ہو یا نہ بر حال ان کا استعمال جائز اور درست ہے اور خود یہ نقیور کے رکھنے کے
متعلق آتے ہیں ایسا استعمال ان سے مستثنیٰ ہے ۱۱۱۸ اور یہی معلوم ہو گیا کہ نقیور اور بت میں کوئی ذاتی عیب یا قباحیت نہیں جس کی وجہ سے ان کا رکھنا درست
نہ ہو۔ نقیور بابت کے رکھنے کے عدم جواز کی بنا ان کے ایسے استعمال پر ہے جس سے تعظیم غرض ہو یا تعظیم بھی جاتی ہو ۱۱۱۹ میں اور فی باب ما دلخ
عن المتصاویر کی پہلی حدیث میں جریہ کو کہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک نقیور وارہ پر وہ لٹکا تھا اور یہی کریم جب تشریف لائے تو اپنے اس پر تار لٹکی کا انکار
فرمایا بیار لٹکی کا انکار کس بنا پر لٹکا کیا اس کی وجہ اس کپڑے میں نقیوروں کا ہونا تھا یا کچھ اور۔ باب ہدیۃ مائیکو حدیث ۱۱۲۰ میں گند چکا ہے کہ حضرت فاطمہ
کے گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اذن داخل تھیں جوئے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے اس بات کا ذکر کیا انہوں نے جی کریم سے اس کا ذکر کیا
تو آپ نے فرمایا۔ ائی روایت علیؑ یا ہا سدا مو شیا ملی وللا نیامی نے لئے دے دوئے پر وہا ریدار کپڑا لٹکھا تھا مجھ کو دنیا کی زیب و زینت سے کیا کام۔ یہاں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ ہوتی ہے بیان کی کہ حضرت فاطمہ نے آرائش کے لئے دوچار پدار کپڑا لٹکایا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ پر بھی ناراضگی کی وجہ نقیور وار
کپڑے کا پردہ لٹکانا نہیں بلکہ آرائش کے لئے پردہ لٹکانا ہی وجہ ناراضگی تھی۔ حضرت عائشہ کی اسی روایت میں جو مسلم میں زید بن خالد کے توسط سے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقشہ اس نقیور وار پردہ کے متعلق زائد ہیں۔ فخذ بہ صحتے ہتک وقال ان اللہ لیسامہرائان کسدا الحارۃ والظین آپ نے اس
پردہ کو کھینچ کر بھاڑ ڈالا اور فرمایا اللہ نے تم کو یہ حکم نہیں دیا کہ تمہارے اور میری کو کپڑے پنا میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ناراضگی کی وجہ اس پردہ میں نقیوروں
کا ہونا نہیں تھا بلکہ وہ پردہ کی آرائش اور کپڑے کا بجا استعمال تھا۔ قاسم بن محمد جو اسی حدیث کو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں اور فقہار مدینہ میں سے
اعلیٰ پایہ کے ہیں اور اپنے زمانہ کے بڑی فضیلت ولسلہ تابعین میں سے تھے وہ بھی غیر سایہ دار نقیور کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں چاہے اس کے استعمال سے
اس کی تحقیر ہوتی ہو یا نہ۔ اور فیاس یہ ہے کہ انہوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ پردہ میں نقیوروں کا ہونا قرار نہیں دیا اور غالباً یہ بات
انہوں نے حضرت عائشہ سے ہی معلوم کی ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا نقیوروں کی وجہ سے نہ تھا۔ رہی یہ بات کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ناراضگی اس پردہ میں نقیوروں کی موجودگی کی وجہ سے نہ تھی تو اس موقع پر آپ نے نقیوروں کی مذمت کس لئے کی اور یہ کیوں فرمایا ان اصحاب حدیث الصدور
القیمة یعنی ہفت ذات الملاک کتلا داخل بیتا فیہ صدورہ جیسا کہ منشا اور ۱۵۰۶ میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف نقیوروں کا ہونا اور
بغیر تعظیم و پرستش کے ان کا استعمال بھی ناجائز ہوتا تو آپ ان پر کیوں بیٹھتے۔ اور اراہ و قسم فی ثوبہا کی استشاد کیوں فرماتے تو ان کی مذمت بھی ان کی تعظیم و
پرستش کے لحاظ سے ہے نہ محض استعمال کے لحاظ سے۔ اور ۱۵۰۶ میں جو یہ لفظ ہیں۔ ان من حنم الصدور یعنی ب یوم القیمة انہی نقیور بنیوا ان کو نہ لٹکا
میں اصحاب تصور فرمایا ہے اس سے بھی وہ نقیور بنیوا نولے مراد میں جو بغرض پرستش ان کو بنائیں پس ایسے موقع پر ان الفاظ سے نقیوروں کی مذمت کرنا اس غرض سے ہے۔

مَسْرُوقٍ فِي دَارِ سَارِثٍ ثُمَّ قَرَأَ فِي صُفْتِهِ مَا نِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ جَبَدَ اللَّهِ
 مسروق کے پاس یسارین غیمہ کے گھر میں تھے وہ انہوں نے ان کے جوڑے سے لے کر دیکھے تو کہا کہ میں نے ہمدان کو سنا
 قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ
 اَلْقِيَامَةِ الْمَصْرُورُونَ (۲۲۰۰) فرماتے تھے کہ بہت سخت عذاب والے لوگوں میں سے قیامت کے دن
 الْقِيَامَةِ الْمَصْرُورُونَ (۲۲۰۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 تصویب میں بتا رہے ہیں عیاش بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جاتا ہے
 لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ فِيهِ، بَابُ نَقْضِ الصُّوَرِ (۲۲۰۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 کہ جو تم نے بنا لیا تھا اسے زندہ کرو یا تیری تصویروں کو توڑنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيحٌ إِلَّا نَقَضَهُ
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز چھوڑتے جس میں تصویریں ہوں مگر اسے توڑ ڈالتے
 (۲۲۰۱) عَنْ أَبِي ذَرَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ الْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا
 ابو ذرہ سے روایت ہے کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ چلے گئے ایک گھر میں گیا تو اس کے اوپر ایک تصویر
 مَصْرُورٍ أَيُّسُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 بنا کر لے کر تصویریں بنا رہا تھا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ اس سے برا ظالم کون ہے جو
 ذَهَبٌ يَخْلُقُ خَلْقَهُ فَلْيُخْلَقُوا أَحْيَاءُ وَيُخْلَقُوا أَدْرَاقًا ثُمَّ دَعَا بَتْرَيْنَ مَاءٍ وَقَسَلَ
 بری پیدا کرنے میں یہی سیدئش بنانے کے چاہئے کہ ایک دائرہ بناویں اور ایک ذرہ بناویں پھر اپنے پانی کا ایک لنگھن منگوا اور اپنے دونوں
 يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ رَابِعَةَ فَعَلَتْ يَا أَيُّهَا هُرَيْرَةُ أَلَسْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ انھوں کو پیچھے گئے میں نے کہا ابو ہریرہ یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے
 قَالَ مَتْنُهُ الْحَلِيمَةُ (۹۱) بَابُ مَا وَطِئَ مِنَ النَّصْرِ وَتُرِيدُ (۲۲۰۲) عَنْ عَائِشَةَ (مَتْلُوكٌ ۱۰۵۰)
 کہا کہ جبکہ زور پھینکیا کرتا ہے بل بالظیف جوتھا وہ دونوں کے پیچھے روٹی کی چائیس دیکھو حدیث ۱۰۵۰

(تقریباً صفحہ ۱۳۶۳)
 کہ اگر تصویر ایک مسلمان کے گھر میں ہو چکی تو بھی اس کی غرض تو عقلمندی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونی چاہئے
 اگر عقلمند اور پرستش کے خیال کے بغیر بھی تصویروں کا بنا نا اور ان کا رکھنا ناجائز اور شرعی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا رنگوں سے سجھے نہ بنواتے کہونکہ نہ کہ اور نہ اللہ شک سے ہر ایک نبی کی تعلیم پاک ہوتی ہے اور سورہ مبارکات میں ہے اور ان سے بھولنا اور تمنا میں جھانکنا و تمنا میں جھانکنا کا جواب حسب خصوصوں کا بنا نا اور بنانا جائز ہے تو تصویروں کا اور

تو جسموں سے کم ہے ہر ایک کا تصویر والے گھر میں نہ آئیے کیا مراد ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عورت کے رحم پر ایک ملک مقرر ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک عورت کے رحم پر ایک مقرر ہے تو خواہ اس کے گھر میں بیٹی کیوں نہ ہوں نیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انان کے اعمال کی حفاظت پر ہی ہر ایک مقرر ہیں مان علیکم بحافضین کو انما کا تین۔ مایلفظ من قول الالدیہ و قیب عقیقہ۔ مائنگہ ہی روح قبض کرتے ہیں اس میں بھی کافر اور مشرک سب برابر ہیں خواہ اس کا گھر بتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اگر کلا تھل الملائکۃ بیتا فیہ صودقہ کے ظاہری معنی و رست ہیں تو کسی بہت یا تصویر والے گھر میں بچہ پیدا نہ ہونا چاہئے اور بچے سے بچنے کے لئے ایک چھانسنہ ملا تصویر کو گلے میں لٹکانے سے ملک الموت نہیں آئے گا نہ موت واقع ہوگی اور نہ کسی کے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ اگر کلا تھل الملائکۃ بیتا فیہ صودقہ کا کوئی صحیح مفہوم ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تصویر کی العظیم اور پرستش کا جذبہ ہو گا اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ مائنگہ چونکہ انسان کے دل میں نیکی کی تحریک کرتے ہیں اور جو شخص نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے مائنگہ اس کے دل میں نیکی کی تحریک کو زیادہ کرتے ہیں اور اسے نیکی کرنے کی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ اور جو شخص بدی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو مائنگہ بیزار ہوتے ہیں اور نیکی کی جو تحریکات وہ کرتے ہیں ایسے شخص کے دل میں پیروہ نہیں کرتے تو مطلب یہ ہوا کہ مائنگہ کی نیکی کی تحریکات ایسے شخص کے دل پر وارد نہیں ہوتیں جس کے دل میں بتوں اور تصویروں کی پرستش کا جذبہ ہو۔ اور صحیفہ پندار غلط یعنی چونکہ یہ زیور کا انتہائی مقام ہے اس لئے اس کو قبض نہ کرنا اور ناگوار ہونے کی آراستگی کا انتہائی مقام ہے شائد اس وقت وہاں تک دھونے کی کوئی ضرورت محسوس کی ہو۔ مائنگہ یہاں لفظ اور ہیں۔ قال سمعت عائشۃ رضی اللہ عنہا قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسخر وقد سدرت بتوام لی علی سہوۃ لی فیہا تھلیل فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکہ فقال اشدا الناس علی ابا یوم القیامۃ اللان من یضاحون خلقی اللہ قالت فلیعلنا و سادۃ او وساد نین +

عظ اس کے لفظ سے
 یعنی اور ہے۔
 قالت قدم النبي
 صلعم من سفر
 وعلقت ذؤنوكا
 واكبتهم كابدو
 اس کا فرش بھی
 بنا یا جاتا تھا، یہ
 تماثل فاروقی
 ان اتزعه فترضة
 دکت اغتسل انا
 والنبي صلعم من
 انا واحد
 لظہ یہ کہ روایت
 تفرقة سے لفظ
 لفظی سے آئی ہے
 انھا اشترکت
 شوقہ فیہا
 تصادیر فقام
 النبي صلعم بالرب
 فلم یدخل فقلقت
 اقرب الى الله
 مما اذنت قال
 ما هذه العرقه
 قلت لجلس علیها
 وترسداها انت
 اصحاب هذه الصل
 یسأرون یوم
 القيامة یقال

(۳۲۳۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم) (۱۰۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۰۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم) (۱۰۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۰۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۵) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۶) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۷) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم) (۱۰۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۰۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۳۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم) (۱۰۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۰۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۰) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۱) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۲) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۳) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۴) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۵) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۶) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۷) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۸) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۴۹) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

(۳۲۵۰) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ (متکرم) (۱۲۵) بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقَعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ بانیف جو تصویر پر بیٹھنا ناپسند کرے

لهم احبوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة + مسخيفت اختلاف لفظي سے دوہرا ہے۔ قال ابن رسول الله صلعم قال ان
 الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة قال بسوالم اشفق زيد من ناه فاذا علمت ناه ستر فيه صورة فقلت لعبد الله ربيب مبهونة زوج النبي
 صلعم الم خير نازي من الصور يوم الاول فقال عبيد الله الم سمعه حين قال ابارق مما في ثوب + مسخ قريبا اني انظر من حديثك وودها يا بے
 تفسیروں کو اس سے تپ سکتا کی کہ نمازیں سامنے آجاتی ہیں + مسخ کر روایت کے لفظوں میں ہے۔ قال وفد النبي صلعم جبریل فرأته عليه رآته من
 تفسیر کروئی حتی اشد على النبي صلعم فخرج النبي صلعم فلقه فمشكا اليه ما وجد فقال له انا لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلت + مسخ اني
 انظر من حديثك وودها يا بے + مسخ قريبا اني انظر من حديثك وودها يا بے۔ البتہ نبی میں کسب الخبث کا لفظ بڑھایا ہے۔ اس میں تصویر بنانے
 والے پر لعنت کی ہے + مسخ میں لفظ یوں ہیں۔ قال قتادہ کنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يدنوا من النبي صلعم حتى اسئل فقال سمعت
 محمدا صلعم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان يتفخر فيها الروح وليس بنا فخر + مسخ اس کو کتاب لباس میں بیان کیا جس کی
 ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں جانور کے لباس پر بیٹھنے کا ذکر ہے چنانچہ حدیث باب میں لفظ قطیقا آتا ہے یا اس لحاظ سے کہ اس خاص بیٹھنے سے
 رو آدمیوں کا اٹھنا ہر ناموس نہیں + مسخ وہی لفظ میں قطیقا کے ساتھ ذکا کی لفظ بڑھایا ہے + مسخ وہی لفظ میں +

۴۲۲۴ (۳۲۲۴) عن ابن عباس (متکونہ ۱۹۱) (۱) باب اذ ان الرجل خلف الرجل

دیکھو حدیث ۹۱۹ ۱ باب ایک مرد کو دوسرے کے پیچھے سوار کرنا

۴۲۲۵ (۳۲۲۵) عن معاذ بن جبل (متکونہ ۱۳۲۰) (۱۰۳) باب اذ ان

دیکھو حدیث ۱۳۲۰ ۱ باب ایک عورت کو

المراة خلف الرجل (۳۲۲۵) عن انس بن مالك (متکونہ ۱۳۹۹) (۱۰۳) (۱) باب

مرد کے پیچھے سوار کرنا

الاستلقاء ووضع الرجل على الاضراس (۳۲۲۶) عن عبد بن عمر (متکونہ ۱۳۳۱)

اور ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھنا

دیکھو حدیث ۱۳۹۹ ۱ باب

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

۷۸ - کتاب الادب

۷۸ - ادب کی کتاب

(۱) باب قول الله تعالى ووصيناكم الله ان اتقوا الناس محبة (۳۲۲۷) عن

باب اللہ تعالیٰ کا قول اور ہم نے انسان کو اس کے ان باپ کے متعلق حکم دیا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے

عبد الله (متکونہ ۳۵۴) (۲۲) باب من اتق الناس محبة الصلوة (۲۲۰۳)

دیکھو حدیث ۳۵۴ ۱ باب من اتق الناس محبت کا سب لوگوں سے زیادہ کون حق دار ہے

ابن هريزة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا

ابو ہریرہ سے روایت ہے

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پیچھے سوار کرنا دیکھا اور وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے والد کو پیچھے سوار کرے گا وہ اس سے نفرت کرے گا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کو پیچھے سوار کرے گا وہ اس سے نفرت کرے گا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کو پیچھے سوار کرے گا وہ اس سے نفرت کرے گا۔

لے موجب تکلیف نہیں ہے۔ بلکہ اگر روایت کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ قال یبنا انا وریث ائبے صلعم لیس ینیق وبنیہ الہ الاخرۃ الرجل فقال یا ما ذقلت لیک فی رسول اللہ وسعدیث تم سادساعۃ تم قال یا ما ذقلت لیک رسول اللہ وسعدیث تم سادساعۃ تم قال یا ما ذقلت لیک رسول اللہ وسعدیث قال هل تدوی ما حق اللہ علی عباده قلت اللہ ورسوله اعلم قال حق اللہ علی عباده ان یعبداہ وہا یشرکوا بہ شیئا تم سادساعۃ تم قال یا معاذ بن جبل قلت لیک رسول اللہ وسعدیث فقال هل تدوی ما حق العباد علی اللہ اذ انصروا قلت اللہ ورسوله اعلم قال حق العباد علی اللہ ان لا یعبداہم ۷۸ ۲۲ باب من اتق الناس محبة الصلوة (۲۲۰۳) عن ابن هريزة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوینا حامدون ۷۸ ۲۲ اس کا تعلق بھی کتاب لباس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مہینت پر ہونا کیا ہے ۷۸ میں لفظ میں ہے۔ عن حمہ انه ابصر الینے صلہ اللہ علیہ وسلم یضطجع فی المسجد رافعا احدی رجلي علی الاخرۃ ۷۸ ادب کا لفظ مادۃ سے ماخوذ ہے اور مادۃ اس طعام کو کہا جاتا ہے جو تیار کر کے لوگوں کو اس کے لئے بلا یا جائے۔ اور ادب ہر اس ریاضت کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان کسی قسم کی کیفیت حاصل کرے اور یہی جامع تعریف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ادب ہر قول اور فعل ہے جس کے عمل میں لائے ہر تعریف کی جائے بعض کے نزدیک اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حصول کا نام ادب ہے۔ کہا گیا ہے کہ ادب اس چیز کا نام ہے کہ جو اپنے سے بڑے ہیں ان کی تعظیم کی جائے اور جو چھوٹے ہیں ان سے ہر بانی کی جائے ۷۸ ادب یا انفاق فاعلم میں سب سے پہلے ہاں باپ کے ساتھ لینی کو کیا ہے۔ گویا اخلاق یا آداب اسلامی میں ہاں باپ کا حق تمام مخلوق کے حق سے فائق ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔ وضحیٰ ذلک الاتقوا والایاہ وہا لوالدین احسانا ذری اسرئیل (۲۳۰) ۷۸ وہی لفظ میں۔ افضل الاعمال نماز یا خدا کی طرف رجوع ہے اور پھر والدین کے ساتھ نیکی ۷

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ صَحَابَتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ

یا رسول اللہ! من احسن صحابتي؟ قال امك! قال ثم من؟ قال امك! قال ثم من؟ قال امك! قال ثم من؟

مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ (۳۳) بَابُ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ

فرمایا تیری ماں عرض کیا پھر کون فرمایا پھر تیرا باپ! بائبل ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ لڑے۔

(۳۲-۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ رَمَتُكَ (۳۲) بَابُ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ

وہ بچھو عیبت ۳۲-۳۸/۱۳۷ بائبل انسان اپنے ماں باپ کو گالی نہ

وَالِدَيْهِ (۳۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ذَرَفِي لَللَّهِ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

دے عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْكِبَرِ الْكِبْرَانُ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ

کبر بڑا ہون میں سے بڑا کتاہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو لعنت کہے

كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاةً وَيَسُبُّ أُمَّةً

انسان اپنے ماں باپ کو کس طرح لعنت کرے گا؟ فرمایا ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔

(۵) بَابُ إِجَابَةِ دَعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ (۳۲-۳۹) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متکثر-۱۰۸۵)

بائبل اس شخص کی دعا قبولیت دینے میں ماں باپ کے لئے ہے۔

(۴) بَابُ عَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكِبَرِ (۳۲-۳۵) عَنْ الْمُعْبِرَةِ (متکثر-۶۹)

بائبل ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ سن ہونے میں سے ہے۔

علا ماں کے حق کو
باپ پر مقدم کیا
ہے۔ قرآن کریم
میں گونا گوں جگہ
ذکر کیا والدین
کے نظریں آتا ہے
مگر وہاں بھی ماں
کے حق کا خصوصیت
سے ان الفاظ
میں ذکر کیا ہے
حکمتاً اہل کفر
ووضعتہ کرها
وصحنتہ وفضالہ
ثالثون شہادہ
علا جہاں ایک مسلمان
کے اوپر نافرمانی
میں سے ہے اور
بعض احادیث
میں جہاد کو افضل

الاعمال قرار دیا گیا ہے کیونکہ جہاد سے ہی قومی زندگی کا بقا ہے۔ لیکن اس کے لئے ماں باپ کی اجازت کو اس لئے ضروری قرار دیا کہ شاید ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہوں تو اس صورت میں ان کی خدمت جہاد سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے جیسا کہ حدیث باپ میں ہے۔ مگر غلط فہمی میں ہے۔ قال رجل یبغض علیہ وسلم ایماہن قال لک ابوان قال نعم قال فغیہما فجاہدا۔ ماں باپ کی خدمت کے لئے بھی جہاد کا لفظ ہی استعمال فرمایا جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خدمت مثل انسانی بھی ایک جہاد ہے اور ماں باپ کی خدمت جو نکلنا انسان کا سب سے بڑا فرض ہے اس لئے اسے سب سے بڑھ کر تیرا دیا گیا۔ اس طرح عورت ہی تعلیم نہیں دیتی کہ انسان اپنے ماں باپ کی عورت کرے بلکہ دوسرے کے ماں باپ کی بھی عورت کرے۔ کیونکہ اگر وہ دوسرے کے ماں باپ کی عورت کرے گا تو دوسرا اس کے ماں باپ کی عورت کرے گا۔ اخلاق فاضلہ کی تعلیم کا یہ بہترین طریق ہے۔ **عقود** کو خفیہ اختلاف لفظی سے وہ ہر ایک ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بیئنا ثلاثا نہ نعریہما بشرن اخذھن المظالموا الی غایر فی الجبل فاخطت علی فم فارھم صخرۃ من الجبل فاطبقت علیھم رخار کے مت کو کھلی بند کر دیا، فقال بعضهم لبعض انظروا احوالا عملتہا ہوا للہ صالحۃ فادعوا للہ ہما لہ یعرفھا فقال احدھم الیہم انہ کان لی والدان شیخان کباران ولی صبیۃ صفار کنت ارحی علیھم فاذا اوتحت علیھم غلبت بنات ہوالدی استقیہما قبل ولدی وانہ فادعوا للہ لشیجر ودرخت جہاں مویشی چرائتا تھا میرے مکان سے دور تھے، فما انیت حتی امسیت فوجن ثہما قد ناما غلبت کما کنت احلب ثجت۔ بالخلاب فقتت عنہا ووسہما اکرہ ان اوقظہما من نومہما واکرہ ان ابدن ابالصبیۃ قبلہما والصبیۃ یتضاغون رطلہ سے تھے عند قدحی فله یزل ذنک وانی وادبہم حتی اطلع الفجر وعنوان باب کا تعلق اسی حصہ سے ہے، فان کنت تعلم انی فعلت ذنک ابتغاء وجهک فانزیر لنا فرجۃ تری منها السماء ففرج اللہ لہم فرجۃ حتی یردون منها السماء وقال الثانی الیہم انہ کان لی بنة تم احبہا کاش ما یحب الرجال النساء فطلبت الیہا نفسها فابغضت حتی اتیہا ما ہونہا دینا رضعیت حتی جمعت ما نوزینا وقلتی جہا جہا فلما قدت بین ریحلیما قالت یا بعدا للہ اتق اللہ ولا تقہر الخا برقت عنہا الیہم فان کنت تعلم انی فعلت ذنک ابتغاء وجهک فانزیر لنا فرجۃ ففرج اللہ لہم فرجۃ وقال لآخر الیہم انی کنت استاجرت امیرا یفرق اذو فلما قضی عملہ قال اعطی حقی تعرضت علیہ حقد فترکہ ورجع عند قلم ازل اذ رجعت حتی جمعت منہ بقرک اور جیہا فیہا فی فقال اتق اللہ ولا تظلمنہ ورا عطیہ حقہ فقلت اذہب الی ذلک البقر وادعیہا فقال اتق اللہ ولا تظلمنہ فقلت الی الاخر انک فتن ذلک البقر وادعیہا فافنہ فاذا تطلق ہما فان کنت تعلم انی فعلت ذنک ابتغاء وجهک فان فرج ما یقے فرج اللہ عنہم۔ **عقود** کی روایت کی پیشی سے آتی ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیک عقوق الایمہات ومنعہن وہات فی واد البنات وکرہ لک فیل وقال وکثرة السؤل واضاعة المال۔ فقہم ۱۰۷۷ کے میں مجبوراً کرنا ہوئے۔ عقوق الایمہات کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔

(م- ۳۲۵۱) عَنْ ابْنِ بُكَرَةَ (متکرم- ۱۲۲۳) (م- ۳۲۵۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(متکرم- ۱۲۲۴) (ع) بَابُ صَلَاةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ (م- ۳۲۵۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(متکرم- ۱۲۲۸) (م- ۳۲۵۴) بَابُ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ أَهْلًا وَكَلْبًا وَزَوْجًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(م- ۳۲۵۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۲۲۸) (م- ۳۲۵۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ جَبْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(متکرم- ۱۲۲۸) (م- ۳۲۵۶) بَابُ صَلَاةِ الْأَخِي الْمُشْرِكِ (م- ۳۲۵۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(متکرم- ۵۲۶) (م- ۳۲۵۸) بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ (م- ۳۲۵۹) عَنْ ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ (متکرم- ۱۲۲۸) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(م- ۳۲۶۰) بَابُ رَأْتُمُ الْقَاطِعَ (م- ۳۲۶۱) عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ اللَّهَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (م- ۳۲۶۲) بَابُ مَنْ وَسَّطَ لِرَبِّهِ الرِّزْقَ بِصَلَاةِ الرَّجُلِ

(م- ۳۲۶۳) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۲۲۹) (م- ۳۲۶۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۱۲۲۹) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(م- ۳۲۶۵) بَابُ مَنْ وَقَّضَ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ (م- ۳۲۶۶) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۲۲۹) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(م- ۳۲۶۷) بَابُ مَنْ وَقَّضَ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ (م- ۳۲۶۸) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ (متکرم- ۱۲۲۹) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ابن ماجہ صحیح بخاری میں
تخصیص اختلاف
نقل ہے۔ عن اناس
رسول اللہ صلعم
الا ابتداء بکبر
الکتاب ثم قلنا بی
یا رسول اللہ قال
لا یأکلوا من اکلوا
عقوق الوالدین
وکان متکثرا
فجیس فقال الا
لنقول الزور
شهادة الزور
الاد قول الزور
وشهادة الزور
فما قال یقولها
سکت لا
عقل اختلاف الفاظ
سے دوہرایا ہے
قال سمعت انس
بن مالک قال
ذکر رسول اللہ
صلعم ابکاشا و

سئل عن ابنا فقال اشوک بالله وثلث لنفس وعقوق الوالدین فقال الا ابتداء بکبر ابکاشا فقال قول الزور او قال شهادة الزور قال شعبة واکثر
طقی انه قال شهادة الزور وثلث رسول اللہ صلعم کی تعلیم میں بڑی وسعت ہے مشرک ان بابت سے مشرک بھائی سے مشرک رشتہ داروں اور دوستوں سے
سب سے نیک سلوک کا حکم ہے۔ عکلم اس کے لفظوں میں ہے۔ قالت لنتت اعنی رکابیا ہے کہ یہ اسماء کی رضاعی والدہ تھیں، و اخبة یعنی میرے
حسن سلوک میں راغب تھی، فی عہد النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فالت النبی صلعم اللہ علیہ وسلم اصلها قال نعم قال ابن عبینة فانزل اللہ تعالیٰ
فیها لا ینهاکر اللہ حو الذین لم یقا تکو فی الدین۔ بیان ماں کا ذکر ہے۔ اسی سے مشرک باپ کے ساتھ حسن سلوک کا استدلال کیا ہے۔
یعنی وہ ماں محتاج تھیں بکہ اس کا شوہر موجود ہے پھر بھی حسن سلوک کو حکم ہے۔ عکلم بیان لفظوں میں ہے۔ قد امت ای وہی متشککة
فی عہد قریش ومد تمم اذ عاهدوا النبی صلعم اللہ علیہ وسلم مع ایہا فاستغذبت النبی صلعم اللہ علیہ وسلم فقلت ان ای قدمت وہی
راغبہ قال نعم صلعم امک، عکلم صرت ایک فقرہ دوہرایا ہے جس میں صلعم کا ذکر ہے۔ ان ابا سفیان اخبر ان ہرقل ارسل الیہ فقال یعنی
النبی صلعم اللہ علیہ وسلم یا مرنا بالصلاة والصدقة والحق والحقنة عکلم قرینا فی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ البتہ زیادہ تشریح
موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ولكن تبیدھا او تکسوھا حضرت عمر نے اپنے مشرک بھائی کو رضاعی والد بنا دیا عکلم وہی
لفظ میں ہے۔ وتصل الرحم کے بعد جس کا تعلق عنوان باب سے ہے یہ لفظ بیان بڑھانے میں ہے۔ ذوہا قال کا نہ کان عکلم وراحتہ۔ اسے چھوڑنے
یعنی اونٹنی کو کہ تجھے اپنے مقام پر واپس لے جائے گا یا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہی تھا یعنی ایسی جلدی میں تھا عکلم وہی لفظ میں صلعم کی بوسطہ رزق او
زیادہ فی عمر کا موجب قرار دیا ہے۔ عکلم اس کے لفظ ہی تفسیر کیا وہی میں عکلم خفیف اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔ عن النبی صلعم قال ان
اللہ خلق الخلق خلقا اذا فرغ من خلقه قالت رمل۹ لیں تاہم ہے الرحم هذا مقام العائذ بکن العظیمة قال نعم اما ترضین ان اصل من وصلک و
انقطع من قطعک قالت بنی یاریت قال رسول اللہ صلعم روایا و قال ابو ہریرۃ فاقرؤ ان شتمت فہل عیبت ان ولیعت ان نفسہ انی الارض من

۲۲۰۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَتْكَ وَصَلَتْكَ وَمَنْ قَطَعَتْكَ قَطَعَتْكَ

رحم رحمن کی ایک شاخ ہے جسے اللہ نے (اسے) فرمایا جو جو سے بڑھتا ہے میں اس سے جوڑوں گا اور جو مجھ سے کاٹتا ہے میں اس کا ٹکڑا

۲۲۰۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِمُ شَجَنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْكَ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْكَ

انفرازم ایک شاخ ہے جس جو اس سے جوڑتا ہے میں اس سے جوڑوں گا اور جو اس سے کاٹتا ہے میں اس کا ٹکڑا

۱۴) بَابُ تَيْلُ الرَّحِمِ بِكَلِمَاتِهَا ۲۲۰۸) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ

باب تیل رحیم کو تکرار سے جیسا اسے تکرار کرنا چاہیے عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَادًا غَيْرَ سَيِّئٍ يَقُولُ إِنَّ أَلَّ أَلَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علی الاعلان فرماتے تھے نہ چھپ کر کہ ابوظہلان کی اور اور کلموں کے لئے کاٹنے جو جعفر کی تکی

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِيَاضٍ لَيْسُوا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا

میں یا بیاض سفید بگ ہے میرے دوست نہیں میرا دوست مددگار اللہ ہے اور تک مومن

رَزَادٌ فِي رَوَايَتِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَرْجَمْ أَبْهَائًا بِكَلِمَاتِهَا يَعْنِي أَصْلَهَا أَيْ بَدَنَهَا ۱۵) بَابُ

اور ایک روایت میں یہ لکھا ہے البتہ ان کی قرابت بخاری اسے تکرار کرنا چاہیے جیسا کہ وہ لکھتا ہے اور کلموں کو کفریہ نہیں سمجھتا

لَيْسَ لَوَاصِلٌ بِالْمَكْفِيِّ ۲۲۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بدلانہ تکرار لاصلہ بھی کرنے والا نہیں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں

وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَوَاصِلٌ بِالْمَكْفِيِّ وَلَكِنْ لَوَاصِلٌ لَذِي رَأْدًا قَطَعْتَ رَحْمَةً وَصَلَّهَا

کفر یا بددرا کرنے والا صلہ بھی کرنے والا نہیں ہے کہ جب اس سے تعلق کاٹنا ہے تو وہ اسے جوڑتا ہے

۱۶) بَابٌ مِنْ مَنْ وَصَلَ رَحْمَةً فِي الشُّرُوكِ ثُمَّ اسْتَمَّ رَحْمَةً ۲۲۱۰) عَنْ حَكِيمِ بْنِ

باب جو شرک کی حالت میں صلہ بھی کرے پھر اسلام لائے

حِزَامٍ (مَتَكُونُ ۶۶۹) ۱۶) بَابٌ مِنْ تَرْكِ صَبِيَّةٍ غَيْرِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهَا أَوْ تَقْبَلَهَا أَوْ

دیکھو حدیث ۶۶۹ باب ایک جو دو برس کی لڑکی کو اجازت ہے کہ اس سے کھیلے یا اسے بوسے یا

فَأَرْحَمَهَا ۲۲۱۱) عَنْ أَبِي خَالِدٍ (مَتَكُونُ ۱۳۹) ۱۸) بَابُ رَحْمَةِ الْوَالِدِ وَتَقْبِيلِهِ

اس سے مزاج کرے صلہ دیکھو حدیث ۱۳۹ باب صلہ بچے پر رحم کرنا اور اسے بوسنا

وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْوَالِدُ فِقْهَهُ وَشَرَّهَ

اور اسے گلے سے لگانا اور ثابت نے اس سے روایت کی کہ اگر باپ یا بیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بوسا دیا اور بوسا لیا

علا
شجہہ درخت
کی رنگوں جڑوں
وغیرہ کو کہا جاتا
ہے جو ایک
دوسرے سے
ملی ہوئی ہوں
علا
ابوظہلان کی اولاد
آپ نے نام نہیں
لیا۔ پھر شرک معلوم
ہوتے ہیں کیونکہ
ان کے مقابل
پر صالح المؤمنین
کو آپ نے اولاد
قرار دیا ہے
علا
قرابت یعنی الفاظ
میں حدیث کو
دور دیا ہے۔
آخر پر زیادہ کہا
ہے۔ قال ابن
اسحاق العتقت
التبر یعنی سختی
کے معنی میں کرنا
ہیں
علا
حدیث باب
میں لڑکی کو کھیلنے
دینے یا اس سے
مزاج کا ذکر ہے
مگر تقبیل یا بوسہ
دینے کا ذکر نہیں
تو بر امام بخاری

کا استدلال ہے کہ اگر غریب کی چھوٹی لڑکی کے جسم کو چھونے اور اس سے کھیلنے کی اجازت ہے تو اسے شفقت سے بوسہ دینے میں بھی کوئی ہرج
نہیں۔ جس طرح بڑوں کی تعلیم آداب میں داخل ہے اسی طرح چھوٹیوں پر شفقت بھی آداب میں داخل ہے۔ نبی کریم صلعم بچوں سے بچہ محبت کرتے
تھے یہاں تک کہ چھوٹے بچے آپ پر پیشاب بھی کر دیتے تو آپ برا نہ مانتے، ام خالدہ جو چھوٹی بچی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے
اور آپ کے جسم سے کپڑا اٹھا کر خاتم نبوت سے کھیلنے کا ذکر ہے۔ لفظ وہی میں۔ آخر پر بقیہ حتی ذکر کی بجائے ہے بقیہ حتی ذکر یعنی
من بقائہا۔ یعنی ذکر سے مراد تمہیں کے دیر تک رہنے کا ذکر ہے۔

حَاقِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (۲۰) بَابٌ قَتْلُ لَوْلَا خَشْيَةُ أَنْ يَكُونَ كَلِّ

اپنے بچے سے اٹھا دیتا ہے اس ڈر سے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ باب اولو کو اس خوف سے قتل کرنا کہ اس کے ساتھ

مَعَهُ (۲۱) بَابٌ وَضْعُ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

کھانے دیکھو حدیث ۳۱۸۷ باب بچے کو گود میں لیٹانا

(۲۲) بَابٌ وَضْعُ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخْرِ

دیکھو حدیث ۳۱۸۹ باب بچے کو ران پر ٹھکانا

(۲۳) بَابٌ حَسْنُ الْعَهْرَيْنِ

دیکھو حدیث ۱۶۷۷ باب اچھی طرح وفاقاری کرنا ایماں کے

الْأَيْمَانَ (۲۴) بَابٌ فَضْلُ مَنْ يُعْوَلُ

دیکھو حدیث ۶۱۶۹ باب اس کی فضیلت جو تہم کی پرورش

(۲۵) بَابٌ السَّاعِي عَلَى

دیکھو حدیث ۲۰۰۱ باب بیوہ کی خبر گیری

الْأَرْمَلَةِ (۲۶) بَابٌ رَفْعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَ

کرنے والا سفوان بن سلیم سے روایت ہے جو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے ہیں تو آیا یہ

عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَأَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَأَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے یا اس کی طرح جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور روزانہ کو غنیمتوں میں گھرا رہتا ہے

(۲۷) بَابٌ السَّاعِي عَلَى الْمُسْكِينِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب مسکین کی خبر گیری کرنے والا

(۲۸) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

(۲۹) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

(۳۰) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

(۳۱) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

(۳۲) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

(۳۳) بَابٌ رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبِهَانِ

دیکھو حدیث ۲۰۰۷ باب لوگوں اور چار بیانیوں پر رحم

ملکہ بنتی جو زبردست
مظاہرہ رحم اور
محبت کا ساری
خلوق خدا میں نظر
آتا ہے وہ اللہ
تعالیٰ کے اس رحم
و محبت سے پایاں
کا سواں حصہ ہے
جو وہ اپنی مخلوق
کے متعلق رکھتا ہے
سویں حصہ سے
مراورہ حقیقت یہ
ہے کہ وہ اس کا
ایک نہایت ہی
چھوٹا سا حصہ ہے
مراورہ کہ مخلوق کی محبت
کو جو اللہ سے ملد
عذبات انسانی
میں کام کرتی ہوئی
نظر آتی ہے اللہ
تعالیٰ کی محبت سے
کوئی نسبت نہیں
اس حدیث سے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے

کہ جس قدر صفات مخلوق خدا کے اندر نظر آتی ہیں وہ درحقیقت صفات الہی کا ہی پرتو ہے۔ اگلے قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرا کر قلت ان ذلك العظيم
کا فقرہ چھوڑ دیا ہے۔ بڑھایا ہے۔ سو انزل الله تصدیق قول النبی صلعم والذین کا لیدعون مع الله الخ و اگلے لفظ ہوں ہیں۔ ان النبی صلعم
وضع حدیثاً فی حجرہ بحینکہ خیال علیہ ذنا عابجا و فاتحہ راس کے پیچھے پائی بجا دیا۔ اس سے نبی کریم صلعم کی بچوں سے محبت کا اندازہ ہو سکتا ہے
کہ چھوٹے بچوں کو کس طرح گود میں اٹھا کر ان سے پیار کرتے تھے اور وہ آپ پر پیشاب بھی کر دیتے تو اس سے نفرت نہ کرتے تھے۔ بخاری نے اس باب کے عنوان
میں بتایا ہے کہ ایسی ہی محبت مسلمانوں کو بچوں سے ہونی چاہئے۔ اگلے بیان زیادہ تفصیل سے اور اختلاف الفاظ سے روایت آئی ہے۔ وہ کان رسول
الله صلعم یا خذنی فی غنمہ علی غنمہ و یعدد الحسن علی غنمہ الخ حوی ثم یضعمہا ثم یقول اللهم انی ارجمہا فانی ارجمہا رونی روایۃ فوقع فی قلبی منہ
شیء قلت حدثت بہ کان اولاً اذ اذ اسمہ من ابی عثمان فنظرت فوجدتہ عندی مکتوباً فیما سمعت۔ اگلے بیان لفظ حسن العہد ہے اور عہد کا
لفظ واسع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ راجع نے عہد کے معنی کئے ہیں کسی چیز کی حفاظت اور ہر حال میں اس کا لحاظ رکھنا اور یہ لفظ ضم اور محبت اور
میشاق اور امان اور نصیحت اور وصیت وغیرہ پر بولا جاتا ہے۔ بیان حسن العہد سے جیسا کہ حدیث باب سے ظاہر ہے اس عہد کی وفاداری جو بچوں کے
ساتھ کیا ہے اگلے اس میں آنحضرت صلعم کی حضرت فدیرجی سے وفاداری اور ان کی سنیوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے۔ لفظ قریباً وہی ہے۔ البتہ یہ ذکر ہے
کہ حضرت فدیرجی حضرت عائشہ سے نکاح سے تین سال پہلے فوت ہو گئی تھیں مگر اس میں کچھ غلط فہمی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح تو اسی سال شوال میں ہو گیا
تھا اور رخصت نہ پانچ سال بعد ہوئی۔ آخر میں ماہی صحن کا لفظ چھوڑ دیا ہے۔ اگلے بیان لفظ یہ ہیں۔ عن النبی صلعم قال انا ذاک فل الذیم فی الجنۃ لکن اذ
قال یا صبیحہ السابۃ والنویسۃ۔ اگلے اس کے لفظ یہ ہے۔ اگلی طرح میں جو ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ مسکین تمیم کے لئے ایک
دل میں سقدہ مر دھا کر لگی خبر گیری کو ہماؤنی سبیل اللہ کی طرح قرار دیا یا تمیم سبیل اللہ و صوم ہمار کی طرح۔ اگلے حدیث یہ لفظ ہیں۔ عن النبی صلعم مثلاً۔ ۲۰۰۷ کے لفظ قریباً
۲۰۰۷ کے ہیں۔ اگلے پچھلے حصہ میں کچھ تشریحی لفظ بڑھائے ہیں۔ قال رسول الله صلعم الساعي على الارملة والمسكين كانه في سبيل الله واصحبه قال يشك

(مکرر۔ ۳۲۷۵) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ بْنِ مَتْرَبَةَ (مکرر۔ ۳۲۱۲) (م۔ ۳۲۷۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۳۲۱۲ م۔
(مکرر۔ ۳۲۱۴) (۳۲۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۳۲۱۴ م۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فِي صَلَاةٍ وَقَمِنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي صَلَاةِ اللَّهِ أَرْحَمَنِي وَمُحَمَّدًا

دیکھو حدیث ۳۲۱۴ م۔
ایک نمازیں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ایک عربی نے حالت نماز میں کہا یا اللہ تجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم

وَلَا تَرْحَمْنَا أَحَدًا أَقَلْنَا سَلَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَرَابِيِّ لَقَدْ

دیکھو حدیث ۳۲۱۴ م۔
کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا

حَبَّرَتْ وَأَسْعَأُ رَيْدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ (۳۲۱۵) عَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ سَوَّلَ

دیکھو حدیث ۳۲۱۵ م۔
ولے (درد و زہ) کو تنگ کیا آپ کی مرواؤں کی رحمت تھی

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى لِمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلَ

دیکھو حدیث ۳۲۱۵ م۔
کو تو مسلمانوں کو آپس میں انکے رحم محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے

الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَ عَضْوًا تَدَاخَلَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالشَّهْرِ وَالْحَمَى (م۔ ۳۲۷۷)

دیکھو حدیث ۳۲۷۷ م۔
جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم ایک حصہ دوسرے کو بیماری اور بچاؤ کر لیتا ہے

عَنْ أَبِي بَالِغٍ (مکرر۔ ۱۱۲۵) (۳۲۱۶) عَنْ جُرَيْجِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۱۲۵ م۔
جریر بن عبد اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا يَرِحُ كَلِمَةَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ

دیکھو حدیث ۳۲۱۶ م۔
کہا ہے نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا

تَعَالَى وَاعْبُدْ وَاللَّهُ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِأَوْلِيَاءِ الدِّينِ إِحْسَانًا نَأَى قَوْلَهُ مُنْتَهَا

دیکھو حدیث ۳۲۱۶ م۔
اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور دین سے احسان کرو اللہ کے قول یعنی غفور الرحیم (۳۲۷۸)

فَخَوَّرَ (۳۲۱۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا

دیکھو حدیث ۳۲۱۷ م۔
حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں

زَالَ يُؤَيِّنُنِي جَدْرِيْلُ بِالْبَحْرِ حَتَّى خَلَنْتُ أَتَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا (م۔ ۳۲۷۹) عَنْ ابْنِ جَبْرِ

دیکھو حدیث ۳۲۷۹ م۔
جبریل پر ابیرجھ کو ممانے کے ساتھ دیکھ سکوں گی، تاہم تار تار یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وارث بنا لے گا

عالم کی عقائد
انسان اللہ کے صلہ
دعوت شہادت
مستقر ہونے پر
ایک عمر کے نوجوان
فائقین کا
عشورین لیلہ
انما اشتقنا اهلنا
وسالنا عن من تركنا
في اهلنا فاحترقنا
وكان رفيقنا جمانا
دعوانا باسما
اسی حصہ ہے
فقال ارجعوا الی
اهلکم فاعلموہم
مروہم وصلوہم
کہا اور پیروی اسی
واذا حضرت
الصلوة فلیؤن
نکھو احدکم شتم
لیؤن فکرم الیکم
یہاں کہے پر رحم
ذکر ہے مگر یہاں
تفصیل زیادہ ہے
ان رسول اللہ
قال بینما رجل
بیشتر نظریات
غیبت العرش فوجد
بأنزل فیہا
شرب شہ خورج

فَاذْ كَلَبَ يَلِهُتْ يَأْكُلُ لُغْزَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَبْغِي فِي فَزْلِ الْبَيْتِ فَمَلَأْخَفَهُ شَمَّ امْسَكَ بَقِيَّةَ
فَسَقَى الْكَلْبَ فَغَدَا اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي الْبَهَائِمِ اجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ تَرْتَجِفُ وَاللَّيْمِيُّ جَانِدَارٌ اجْرًا ۱۲۹۸ مِمْ جُو
وہ بھی ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ ایک بکا رکھوڑت کے اسی طرح کہنے کو پانی پلانے کا ذکر ہے۔ پس ہر ایک جاندار پر رحم کرنا ہمارا تک کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیم ہے۔ اسی میں انسانوں پر رحمت کی تعلیم ہے۔ ہر ایک جب تک مسلمانوں کی باہمی رحمت اور محبت کی یہ حالت تھی اس وقت تک ان کا قدم دنیا میں
بھی آگے بڑھتا تھا مگر آج ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو گوی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ کر کسی کی تباہی کے درپے ہوتا ہے۔ اسی قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور
اس قوم کو اس علم سے کیا نسبت جس نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا تھا۔ لہذا قریب قریب وہی لفظ ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم غرض غرضاً فافلح
منہ انسان اوداۃ الاکان لہ صدقۃ اس میں بھی جانوروں پر رحم سکھایا ہے کیونکہ جو کچھ پرندہ اور چاند لھیتی میں سے لکھا جائے اس سب کو اس طرح صدقہ قرار دیا
جس طرح کسی انسان کو دینے کی عیوبت میں یہ صدقہ ہوتا ہے ہر ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی تو دونوں سے نیک سبک کا حکم ہے۔ ہر ایک لفظ ہے۔

۲۲۱۸

۲۲۱۹

۲۲۲۰

۲۲۲۱

۲۲۲۲

۲۲۲۳

۲۲۲۴

۲۲۲۵

۲۲۲۶

۲۲۲۷

۲۲۲۸

۲۲۲۹

۲۲۳۰

۲۲۳۱

۲۲۳۲

۲۲۳۳

۲۲۳۴

۲۲۳۵

۲۲۳۶

۲۲۳۷

۲۲۳۸

۲۲۳۹

۲۲۴۰

۲۲۴۱

۲۲۴۲

۲۲۴۳

۲۲۴۴

۲۲۴۵

۲۲۴۶

۲۲۴۷

۲۲۴۸

۲۲۴۹

۲۲۵۰

۲۲۵۱

۲۲۵۲

۲۲۵۳

۲۲۵۴

مَوْثِقًا مَبْلُغًا ر ۲۲۱۸ عَنْ أَبِي شُرَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ

فَوَثَقًا وَكَلِمَةً ۵۰ ہلاکت کی جگہ ابو شریب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لانا اس کی قسم

لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَأْرُسُوكَ اللَّهُ قَالَ لِيَذِي لَا يَأْمَنُ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا

وہ شخص ایمان نہیں لانا اس کی قسم وہ شخص ایمان نہیں لانا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ جو ایمان لائے اس کی بیویوں سے نہیں بولتا

باب ۳۲۷۹ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۷۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۰ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۱ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۲ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۳ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۴ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۵ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۶ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۷ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۸ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۸۹ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۸۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۰ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۱ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۲ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۳ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۴ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۵ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۶ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۷ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۸ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۲۹۹ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۲۹۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۳۰۰ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۳۰۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۳۰۱ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۳۰۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۳۰۲ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۳۰۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۳۰۳ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۳۰۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

باب ۳۳۰۴ جَارَةٌ يُوَالِقُهَا ر ۳۳۰۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر ۵۲۰۹

دوسے بلکہ کوئی کام دوسرے کی بھلائی کیلئے کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر پچھلے حصہ میں ضعیف سافق الفاظ کا ہے۔ قال النبی صلعم علی کل مسلم صدقة قالوا فان لم یجدنا قال فیعمل بینا یہ فیذقہ نفسه ویصدق قالوا فان لم یستطع اولم یفعل قال فیبعین ۱۵ الحاجۃ المملوون قالوا فان لم یفعل قال فیامر بالخیار او قال بالمعروف قال فان لم یفعل قال فیمسک عن الشر فاقوله له صدقة +

باب ۳۲۲ طیب الکلام وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كلمة

الطيبات عمده بات ابو هريرة نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ

الطيبات صدقة (م- ۳۲۸۳) عن عدي بن حاتم (متكرر - ۴۵۶) (۳۵)

عمده بات صدقے دیکھو حدیث ۴۵۶ ص ۳۵

باب اليريق في الامركله (م- ۳۲۸۴) عن عائشة (متكرر - ۱۳۵) (۳۸۵)

باب برکام میں نرمی کرنا دیکھو حدیث ۱۳۵ ص ۳۸۵

عن انس بن مالك (متكرر - ۳۷) (۳۷) باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا

دیکھو حدیث ۳۷ ص ۳۷ باب تعاون مسلمانوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا

(م- ۳۲۸۶) عن ابي موسى (متكرر - ۳۳۵) (۳۶) باب قول الله تعالى من يشفع

دیکھو حدیث ۳۳۵ ص ۳۶ باب اللہ تعالیٰ کا قول جو اچھی سفارش کرے

شفاعة حسنة يمكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئة يمكن له لعل منها

اس کو اس سے حصہ ہے گا اور جو بری سفارش کرے اس کو اس سے حصہ ہے گا

وكان الله على كل شيء قديرا (متكرر - ۸۵) (۳۷) باب قال ابو موسى كفلين اجزئين

اور اللہ ہر شے پر قہر رکھنے والا ہے اور اللہ ۸۵ (متکرر - ۸۵) کفلین

باب بشية (م- ۳۲۸۷) عن ابي موسى (متكرر - ۶۷) (۳۸) باب لا يمكن النبي

دو اجزے دیکھو حدیث ۶۷ ص ۳۸ باب اللہ تعالیٰ کی نفی میں رہنے کا

صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا (م- ۳۲۸۸) عن تسورق (متكرر - ۱۵۹۹)

دیکھو حدیث ۱۵۹۹ ص ۳۲۸۸ (م- ۳۲۸۹) عن عائشة (متكرر - ۱۳۵) (۳۲۲) عن انس بن مالك

عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سببا با ولا فحشا ولا فاحشا ولا فاحشا ولا فاحشا

دیکھو حدیث ۱۳۵ ص ۳۲۲ انس بن مالک سے روایت ہے

لا احد ناعند المعتبة قاله ترب جبينه (م- ۳۲۲۲) عن عائشة ان رجلا استاذن

کسی پرعتاب کرتے توڑتے اسے کیا ہوا اس کی پیشانی کا خاک آلود ہوتا ہے

دخل رهن من اليهود على رسول الله صلعم فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السام والله لعنة قالت فقال رسول الله صلعم

مهلا يا عائشة ان الله يحب التوفيق في الامركله (عنوان باب امی ہے، فقالت يا رسول الله ولم تسع ما قالوا قال رسول الله صلعم قد قلت وعليكم

السام ۳۷ جو اس کی روایت ہے عساک کی جو ابو هريرة کی روایت ہے مکرر روایت غرار ہو گیا ہے کیونکہ مضمون ایک ہے۔ یہاں بھی اس کی روایت ہے۔

نظير هي ان اعرابيا قال في المحقق فقاموا اليه فقال رسول الله صلعم لا تروموا شتمه وابدلوا من ما فقصت عليه فحك آخوس منكم كما مضمون

بڑھا ہے۔ لفظ یوں ہیں، عن النبی صلعم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه وكان النبی صلعم جالسا انما رجل

یسال او طالب حاجة اقبل علينا بوجه فقال اشفعوا فلتزجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاءه فحسب ما نلفظ یوں ہیں، عن النبی صلعم انه

كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتزجروا وليقض الله على لسان رسوله ما شاءه فحسب ما نلفظ یوں ہیں۔ قال دخلنا على عبد الله

ابن عمر وحين قدم مع معاوية الى الكوفة فذكر رسول الله صلعم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلعم ان من اخبركم احسنكم

خلقا۔ اس میں حسن اخلاق کو نبی کا معیار قرار دیا جو ایک میں م ۳۲۲۲ کی نسبت بھی تفصیل زیادہ ہے۔ ان ہود اتوا النبی صلعم فقالوا السام عليكم فقال

عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وازال والعن روثي، والفحش قالت اولم تسع ما قالوا قال اولم تسع ما قلت وددت

عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في في عیاشی کا خاک آلود ہونا اچھی دعا بھی ہے کیونکہ ان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے

۱۷۷ ص ۳۸۵
آخری حصہ ان الفاظ میں دوہرایا ہے
قال ذكر النبی صلعم النار فتعوز منها
واشاح بوجهه
رأيت من يهين يعني
أكل من نزع يهين
يؤكلها كراهة سائت
ہے، ثم ذكر النار
فتعوز منها و
اشاح بوجهه قال
شعبة امام متين
فلما شك ثم
قال اتعوا النار
ولو مشق متوة
فان لم تجد
فكلمة طيبة
آخری الفاظ کا
تعلق عنوان باب
سے ہے بتایا ہے
کہ انسان صدقے
بھی آگ سے بچ
سکتا ہے اور اچھی
بات سے بھی +
حکایت کر روایت
زیادہ تفصیل سے
آئی ہے۔ قات

تو اپنی پیشانی میں پرکھ دیتا ہے اور ہرقہ عام مجاورہ میں ہکے زجر کے رنگ میں استعمال ہوتا ہے بد دعا کے طور پر نہیں +

۱۳۷۴ میں بیٹا
 گزرتا ہے
 یہ مضمون
 قصہ اسلام الی ذر
 میں گزر چکا ہے
 ویکھو ۱۳۷۴
 ۱۳۷۴ میں مضمون
 زیادہ ہے، قال
 کان النبی صلعم
 احسن الناس و
 اجود الناس و
 اشجع الناس و
 لعدا فرجع اهل
 المدينة ذات
 نیلہ فانطلق
 الناس قبیل
 الصوت فاستقبلهم
 انبیہ صلعم قد
 سبق الناس الی
 الصوت وهو یقول
 لن ترأوا ان
 تراعوا وھو علی
 فرس لا یطیخ
 عری ما علیہ
 سورجی عنقہ
 سعیت فقال لقا
 وجدته یحرق او
 انه لبحر اس میں
 نبی کریم صلعم کی
 تعریف میں نین
 باتیں ہیں۔ سب
 لوگوں سے زیادہ
 خوبصورت۔

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ بَيْتُ أَخِي الْعَشِيرَةَ وَبَيْتُ ابْنِ الْعَشِيرَةَ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کیا برا قبیلے کا بھائی ہے اور کیا برا قبیلے کا بیٹا ہے

فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَ إِلَيْهِ فَمَا انْطَلَقَ
 جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے

الرَّجُلُ قَالَتْ لَأَنَّ عَائِشَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتِ الرَّجُلَ قُلْتِ لَهُ كَذَا وَكَذَا
 چل گیا تو حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے اسے ایسا فرمایا

ثُمَّ تَطَلَّقَتْ فِي وَجْهِهِ وَأَنْبَسَطَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
 پھر آپ کٹا وہ بیٹائی سے اس سے ملے اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ

عَائِشَةُ مَتْنِي عَهْدِي نَبِيٌّ فَمَا سَأَلَنِي شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَذَلَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ
 آپ نے کب مجھ کو جہنم بان پایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک رتبہ کے لحاظ سے بدترین شخص وہ ہے جس سے

تَرَكَهُ النَّاسُ تَقَاءً شَرًّا (۳۹۹) بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ
 لوگ اس کے شر سے بچنے کی خاطر ملنا چھوڑ دیں بابت اچھے اخلاق اور سخاوت اور بخل کا ناپسند کیا جانا

وَقَالَ بَنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ أَجْوَدَ مَا يُكُونُ
 اور بن عباس نے کہا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کی سخاوت

فِي رَمَضَانَ وَقَالَ بُوذُرِّعَةُ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَجْرِ
 کا انور رمضان میں ہوتا تھا اہل اور ابو ذر نے کہا کہ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے

أَرْكَبُ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَأَسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ فَرَجَعُ فَقَالَ رَأَيْتَ يَا مَرْءُ مَا كَرِهَ الْأَخْلَادُ
 کہا کہ اس آدمی کی عزت سارا ہو کر جاؤ اور اس کی بات سنو وہ واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو کہ اللہ اور جس کے اخلاق کا حکم ہے میں

(م۔ ۳۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۳۱) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 دیکھو حدیث ۱۲۳۱ عابر سے روایت ہے

يَقُولُ مَا سَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا (م۔ ۳۲۹)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی تھی کہ آپ نے نہیں کہا ہو

عَنْ قَسْوَرِقٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۵۹۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۴۸۴)
 دیکھو حدیث ۱۵۹۹ دیکھو حدیث ۴۸۴

(م۔ ۳۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا)
 دیکھو حدیث ۲۲۲۳ ازبغ سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَوْ
 کہ میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو مجھے آپ نے بھی اتنی تک نہیں کہا

سب سے زیادہ سخی اور عنوان باب کا حقیقہ اسی سے ہے اور سب سے زیادہ بامردہ ملک لفظ قرآن مجید میں۔ ابھی حدیث م ۳۲۸۸ پر گزر چکی ہے
 یہ کیفیت اختلاف نقلی ہے۔ جارات امراة الی النبی صلعم بیروة فقال سهل للقوم اتدرون ما البرورة فقال لقوم هي شملة فقال سهل هي شملة
 منسوجة فيها حاشيتان تعريف منسوخ من غير و ان اسه شملة كما ہے فقالت يا رسول الله اكسون هذه يا اخاها النبی صلعم محناجا اليها
 فلسها فراها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما احسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبی صلعم لامه اصحابه قالوا اما احنت حين
 رايت النبی صلعم اخاها محناجا اليها ثم سألته ايها وقد عرفت انه لا يسأل شيئا فيمذوه فقال رجوت بركتها حين اسبها النبی صلعم لعل اكنف فيها
 ملا مضمون میں کچھ فرق ہے قال رسول الله صلعم يتقارب الزمان زمانا کے قریب ہو تھے مراد ساعة یا تباری کے وقت کا قریب ہونا ہے، وینقص العمل

م اچھے اعمال کی کمی ہوگی، و یلیق الشیم رجل یا مال کی حرص بڑھ جائیگی عنوان باب کی تعلق اس سے ہے، و یکتل العجم قالوا وما العجم قال القتل القتل

وَلَا لَمْ صَنَعَتْ وَلَا آتَا صَنَعَتْ (۲۰) بَابُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

اور نہ یہ کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا علیہ

(۲۱) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۳) بَابُ الْمُتَّقِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

دیکھو حدیث ۲۳۲۲

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۵) بَابُ أَحِبِّ فِي اللَّهِ

دیکھو حدیث ۲۵۱۱

(۲۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۵) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

دیکھو حدیث ۱۵۱۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ لَا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کوئی قوم دوسری قوم پر نہ ہنسنے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھے ہوں

قَوْلِهِ قَوْلًا وَلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۹)

اللہ کے قول فاولیٰ تک ہم الظالمون تک را محجرات ۱۱۱

(۲۵) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (مُتَكَوِّرًا) (۲۶) بَابُ مَا يَنْهَىٰ مِنَ السَّبَابِ وَ

دیکھو حدیث ۶۲۶۶

اللَّعْنِ (۲۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرًا) (۲۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ

عنافت

عَنْهُ اللَّهُ سَمِعَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْجِي رَجُلًا بِالْفُسُوقِ

کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

وَلَا يَرْهِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَرْتَلَتْ عَلَيْهِ رَانَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبًا كَذَلِكَ (۲۸) (۳۰۰)

کرتا اور نہ اس کی طرف کفر منسوب کرتا ہے مگر وہ لوٹ کر ایسی پرچرتا ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) عَنْ نَابِتِ بْنِ الضَّمَالِ (مُتَكَوِّرًا) (۶۲۱)

دیکھو حدیث ۲۲۲۱

مطالع کے لازم کم ساتھ اس قدر اعلیٰ اخلاق کا برتاؤ بے نظیر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کس بلند مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ مطوی لفظ ہیں گھر کے اندر حضرت صلوات نبی پر یوں کا کام کیا کرتے تھے تو یہ تعلیم دی ہے کہ گھر کے اندر بیوی کو اپنا محکوم سمجھ کر اس سے کام نہ لے بلکہ اپنا رفیق سمجھ کر اس کا کام یا اس کی خدمت بھی کرے۔ مطوی الفاظ میں حدیث کو مذکور ہوا ہے اس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے

تو اس کی محبت اور قبولیت کو دنیا میں پیدا دیتا ہے۔ حکمایاں لفظیوں میں۔ قال انہی صلح لا یجد احد حلاوة الا یمان حقی عجب اللہ لا یحبہ الا اللہ وحقی ان یقات فی النار ارحب الیہ من ان یرجم انی الکفر بعد اذ اذ القنہ اللہ وحقی یكون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ۱۹۸ میں تین باتیں مذکور ہیں۔ اول ناقہ کے عطر کا جو کرمی قدر تفصیل سے ہے اور دوہ باتیں جو یہاں مذکور ہیں۔ اس روایت کے لفظوں میں ہے۔ قال نہی انہی صلح ان یضحت الرجل بعدا یخروج من الا نفع (مداوی ہے جو ۱۹۸ کے لفظوں میں ہے تم وعظہم فی ضحکم من الفظطہ) وقال ہم یضوب احدکم امرات ضوب الفحل (دس طرح جانور کو ہارتا ہے) ثم لعلہ یان نقہا روفی روایۃ جہد العبد علیہ ابو بکر وی روایت اور ۲۶۶ م ۲۶۶ م ابن عمر کی روایت (مذکورہ) ایک ہے۔ یہاں بھی ابن عمر کی روایت ہے اور لفظ بھی م ۲۶۶ کے میں فی بلاد کھڑا۔ علیق کو چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث میں مسلمان کے خون اور مال اور عورت تینوں کو حرام کہیے۔ عنون باب کا تعلق عورت سے ہے۔ ایک پند حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلح سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اس میں تعظیم دی ہے کہ مسلمان مسلمان کو کافر فاسق نہ کہے ورنہ وہ کفر فسق کہنے والے پھر ہی لوٹ کر رہے گا۔ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کی کفریہ تعسیق کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہی وہ ملک مرض ہے جس نے مسلمانوں کی قومی قوت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ مطوی الفاظ میں حدیث کو دو ہر ایسا صلح کہہ کر روایت کی جیسی سے آئی ہے۔ ان ثابت ابن الضمک، وكان من اصحاب الشجرۃ حد ثان رسول اللہ قال من حلفت علی ملة غیرہ لا سلام فهو کما قال را اس کے بعد کا تعلق مسلمانوں میں نہیں ہے وہاں علی بن آدم نذریا لا یصلح ومن قتل نفسہ بشئ فی الدنیا عذاب بہ یوم القیامۃ ومن لعن مؤمنا فهو کفرتہ ومن قذف مؤمنا فهو کفرتہ۔ حلفت کے متعلق دیکھو نوٹ ۱۶ ص ۳۱۳۔ اس میں مسلمان پر لعنت کرنے اور اسے کافر کہنے کو اس کے قتل کی طرح قرار دیا ہے۔ گویا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسے قتل۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۶ ص ۳۱۳ میں فرمایا کہ کفر ایسا بالک کہہ دیا ہے گویا وہ خود اس فتنے کا

ملخصت
اختلاف الفاظ
ہے قال استب
وجلان عند
الخبیر ۱۳۷۶
میں عند النبی نہیں
اور صحیح صحیح معلوم
نہیں ہوتا اس سے
کر رسول اللہ صلعم
کے ارشاد کی اطلاع
اس شخص کو یہ سختی
جو غصے میں تھا
اور یا عند النبی
سے مروی ہے کہ
آپ دور سے دیکھ
رہے تھے غضب
احد ہذا فاشتا
غضبہ حتی انفق
وجہہ و تغیر فقال
الخبیر صلعم انی
لا علم کلمہ لولا قالنا
لذہب عنہ الذین
یحین فانطلق الی
الرجل فاخبرہ

(م۔ ۳۳۰۲) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّاحٍ (متكرر - ۱۲۸۲) (م۔ ۳۳۰۳) عَنْ عَبْدِ آدَةَ ابْنِ
دیکھو حدیث ۱۳۸۲

الضَامِت (متكرر - ۲۵) (م۔ ۳۳۰۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متكرر - ۲۸)
دیکھو حدیث ۲۵
دیکھو حدیث ۲۸

(۲۵) بَابُ مَا يُجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَقَالَ
بَابُ شَيْءٍ وَكُنُوسٍ كَمَا فِي طَرِحٍ وَكَرَّ جَوَابًا

اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنٌ مِنَ الرَّجُلِ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذو الیدین کا کہتا ہے اور ایسا ذکر جس سے
کسی آدمی کی عیب جو نبی مراد نہ ہو

(م۔ ۳۳۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۳۳۶) (م۔ ۳۳۶) بَابُ الْغَيْبَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ
دیکھو حدیث ۳۳۶
بَابُ الْغَيْبَةِ كَرَّهَا

تَعَالَى وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
قول اور نہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو
کیا تم میں سے کوئی نہ کرنا ہے
کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اسے تو تم

فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوْلُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (م۔ ۳۳۰۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
تاہم نہ کرتے ہوا اللہ کا تقویٰ کرنا یعنی توبہ جمع رحمت کرنا اور بارگرم کرنا اور انجحت ۱۲۰

(متكرر - ۱۷۶) (م۔ ۳۳۰۷) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ دُورًا لَكَ نَصَارَ
دیکھو حدیث ۱۷۶
بابی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا
انصار کے اچھے گھر

(م۔ ۳۳۰۸) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (متكرر - ۸۶) (م۔ ۳۳۰۸) بَابُ مَا يُجُوزُ
دیکھو حدیث ۸۶
بابی
ما جس سے مفید اور مستحب

مِنَ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْقَسَادِ وَالرَّيْبِ (م۔ ۳۳۰۸) عَنْ عَائِشَةَ (متكرر - ۲۲۲)
آدمیوں کی غیبت کرنے کا جواز
دیکھو حدیث ۲۲۲

بقول الخبیر صلعم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى لي يا س الجنون أنا أذهب هـ ملق قريبا اني الفانيس حدیث کو وہ ہرایا ہے۔ دیکھو نوٹ ۱
صلعم ملق یہاں تفصیل زیادہ ہے۔ عن ابی ذر قال رایت علیہ رابو ذریہ بردا وعلی غلامہ بردا (۱۷۶) میں حلت ہے) فقلت لو اخذت من اقلبنتہ
کانت حلتہ وواعظیتہ ثوبا اخر فقال کان یبئہ ویبئہ ویبئہ رجل کلام وکان امہ اعجمیة فقلت منها ریت تفصیل ۲۵ میں تیس صرف فخریہ باہر ہی ذکر کرنے
الی النبی صلعم فقال لی اسابت فلما نالقت نعم قال اقلبت من امہ قلت نعم قال انک امرؤ فیکت جاهلیة قلت علی حین سأعتقہ من کبر السن قال نعم ہم
اخرا ذکیر جعلہم اللہ تحت یدین یرکضہن جعل اللہ اصابہ تحت یدینہ فلیطعمہ مما یا علی ولیلبہ مما یلبس ولا یكلفہ من العمل ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ
فلیحنتہ علیہ۔ ملق یعنی اس قسم کے الفاظ جس سے کھنسی آدمی کی کوئی خاص صفت کا اظہار مقصود ہو جیسے لیا ہونا یا چھوٹا ہونا اس میں ہرج نہیں البتہ
اگر اس طرح کسی کی عیب جو نبی کی جائے تو جائز نہیں۔ ملق یہاں نظریوں میں۔ صلی بنا النبی صلعم الظہور کعبین ثم سلم ثم قام الی خشبۃ فی معظمتہ المجد
ووضع یدہ علیہما فی القوم یومئذ ابوبکر وعمر فہما بان یكلفاہما وخرج مسرعان الناس فقالوا اقصوت الصلوة وفی القوم رجل کان النبی صلعم یدہ
ذالیدین فقال یا بنی اللہ اسیت ام قصوت فقال لم اض ولم تقصروا قالوا بل شیت یا رسول اللہ قال صدق ذوالیدین فقام فصلى رکعتین ثم
سلم ثم کبر فجعہ مثل سجودہ او اقول ثم رفع راسہ وکبرہ ہ ملق قریبا انی الفانيس حدیث کو وہ ہرایا ہے۔ دیکھو نوٹ ۱
ہے غیبت کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا فکر ہے ۱۷۶ ملق ابوجمید کہی حدیث جو میں ایک فقرہ اس ضمنوں کا آتا ہے۔ ابواسید کی روایت
م ۸۶ میں اس فقرہ کا ضمنوں کو ہرایا گیا ہے۔ یہاں نظریہ میں۔ قال النبی صلعم خیر دورا لا نصار بنوا الفجارہ ملق یعنی ایسے لوگوں کی پیٹھ کے کچھے ان
کی برائی کا ذکر کرنا ممنوع نہیں کیونکہ اب ذکر کرنا بعض وقت ان کے فسوا یا شرارت سے بچنے کے لئے ضروری آتا ہے جیسا کہ حدیث باب میں ہے ہ ملق یہاں
روایت قدسے اختصار سے آئی ہے۔ قالت استاذون رجل علی رسول اللہ صلعم فقال اذنوا لہ بنس اخوالہم العشرۃ واولان العشرۃ فلما دخل اعلان
لہ الکلام قلت یا رسول اللہ الذی قلت لہ الکلام قال ای عائشة ان شوال الناس من ترک الناس او ودع الناس انتقار فحشہ ہ

(۴۹) بَابُ التَّمِيمَةِ مِنَ الْكِبَارِ (م- ۳۳۰۹) ابْنُ عَبَّاسٍ (متکرر- ۱۷۶)

باب چغلی کرنا بہت بڑے کتا ہوں میں سے ہے

دیکھو حدیث ۱۷۶

(۵۰) بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ التَّمِيمَةِ وَقَوْلُهُ هَذَا مَشَاءٌ بِمِيمٍ وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ

باب چغلی کرنا ناپسندیدہ ہے

اور اللہ تعالیٰ کا قول عیب لگانا اور لاجنابیاں لگنے پھر نورا اور الفکر (۱۰) تباہی جو عرب

لِكَبْرَةٍ يَلْمُزُ وَيَلْمُزُ يُعِيبُ (۲۲۵) عَنْ كَثِيرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حَدِيفَةَ فَقِيلَ لَهَا

لگا نورا لطمے کر کے لے کر ہمزہ اور ہمزہ عرب جوئی کرتا ہے ہم سے روایت ہے کہ ہم حدیفہ کے پاس تھے تو آپ نے کہا کیا

إِنَّ رَجُلًا كَيْفَ فَمَ الْحَدِيثِ إِلَى عَثْمَانَ فَقَالَ حَدِيفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ ایک شخص حضرت عثمان کے پاس رجلی کی بات پہنچاتا ہے تو حدیفہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت فرماتے تھے

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (۵۱) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

کہ چغلی خود جنت میں نہیں جائے گا باب اللہ تعالیٰ کا قول چھوٹی بات سے بچو راجح (۳۰)

الرُّؤُوسِ (م- ۳۳۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۹۶۵) (۵۲) بَابُ مَا قِيلَ فِي

دیکھو حدیث ۹۶۵

باب اللہ جو دوڑنے آدمی کے متعلق

ذِي لُؤْجِهَيْنِ (م- ۳۳۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر- ۱۵۶۵) (۵۳) بَابُ مَنْ أَخْبَرَ

کہا گیا ہے

دیکھو حدیث ۱۵۶۵

صَاحِبًا بِمَا يُقَالُ فِيهِ (م- ۳۳۱۱) ابْنُ مَسْعُودٍ (متکرر- ۱۱۲۲۹) (۵۴) بَابُ مَا

ان باتوں کی خبر ہے جو اس کے متعلق ہی جاتی ہیں

دیکھو حدیث ۱۱۲۲۹

يَكْرَهُ مِنَ التَّمَادُّحِ (م- ۳۳۱۲) عَنْ أَبِي مُوسَى (متکرر- ۱۲۲۱) (م- ۳۳۱۳) ابْنُ

دیکھو حدیث ۱۲۲۱

میں مالوں ناپسندیدہ ہے

بِكْرَةَ (متکرر- ۱۲۴۷) (۵۵) بَابُ مَنْ أَشْفَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ وَقَالَ سَعْدٌ مَا سَمِعْتُ

دیکھو حدیث ۱۲۴۷

باب اللہ جو اپنے بھائی کی تعریف ایسی باتوں سے کرے جو وہ جانتا ہے اور سعد نے کہا کہ میں نے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَحَدٌ مِثِّي عَلَى الْأَرْضِ رَأَى مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عبد اللہ بن سلام کے کسی کی نسبت جو زمین پر نہیں رہا ہو یہ فرماتا ہے میں نے سنا کہ وہ جنت والوں میں

لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (م- ۳۳۱۴) ابْنُ عَمْرٍو (متکرر- ۱۶۳۸) (۵۶) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ

دیکھو حدیث ۱۶۳۸

باب اللہ تعالیٰ کا قول

علا خفیت کی مٹی

کے ساتھ دوہرا کیا

ہے۔ قال تخرج

النبي صلعم من بعض

حيطان المدينة

را وملكة جهوريا

ہے، فسمع صوت

انسانين يعذبان

في قبورهما فقال

يعذبان وما

يعذبان في قبورهما

وانه لكبيره

لفظ وہاں نہیں

پہلے فرمایا کہ کبیرہ

نہیں پھر فرمایا کہ

یہ بہت بڑا گناہ ہے

عنوان باب کا

تعلق اسی سے ہے

کان احدہما لا

یستتر من البول

وکان الآخر

یشی بالشمیة

ثم دعا بخیرین

فکسوا بلسونین

او فتنین فدخل

کسوة فی قبرہما

وکسوة فی قبرہما

فقال اولہ یخفف

عندہما ما یبسیا

اس حدیث میں بعض گناہوں کے متعلق فرمایا کہ وہ کبیرہ نہیں پھر فرمایا کہ وہ کبیرہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ کبیرہ خاص خاص گناہوں کا نام نہیں بعض وقت ویسے

میں ایک بات چھوٹی نظر آتی ہے لیکن تاریخ کے لحاظ سے دوردس ہوتی ہے۔ مثلاً لفظ وہی ہیں لیکن قول الزور والعمل بہ کے ساتھ واضح زیادہ کیا ہے۔

مثلاً پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے لفظ یوں ہیں۔ قال النبی صلعم بعد من شوالناں یوم القیامة عند اللہ ذالرجحین الذی یاتی ہولاً یوحہ وھولاً لا یوحہ

بوجہ براہنت کو اخلاق اسلامی سے خارج کیا ہے۔ مثلاً یہاں روایت مختصر ہے۔ قدہ رسول اللہ صلعم قسمة فقال رجل من الانصار واللہ ما اراد

محمد ہذا اولہ اللہ فایت رسول اللہ صلعم فاخبرته فتمت ووجہہ رچرے کا رنگ بدل گیا، وقال رحمہ اللہ موسیٰ لقد اودی بالکثیرین ہذا فصدرو

۱۲۴۷ ابو بکر کی روایت ہے اور ۱۲۴۱ ہی مضمون کی روایت ابو موسیٰ کی ہے۔ یہاں لفظ ۱۲۲۱ کے ہیں۔ مثلاً آخری حصہ میں کچھ الفاظ کا تفسیر

ہے۔ ان رجلاً ذکر عند النبی صلعم فاشق علیہ رجل خیر فقال النبی صلعم ویعت قطعتم صاحتک بقولہ مراد ان کان احدکم مادھا لا یوالہ

خلیق ل احسب کذا اولک ان کان یزوی انه کذا لک وحسبہ اللہ ولا یزک علی اللہ احد اذ فی روایة، ویلک لک یہ تعینق ۱۶۳۸ کا خلاصہ ہے اس

کے لئے دیکھو نوٹ ۱۶۳۸ مختصر ہے۔ ان رسول اللہ صلعم حین ذکر فی الاثار ما ذکر قال ابو بکر یا رسول اللہ ان اذری یسقط من

احد شقیہ قال انک لست منہم۔ اس میں حضرت ابو بکر کی تعریف ہے کہ وہ کبر والوں میں سے نہیں ہیں۔

عناون باب

کا آخری جملہ ہے

توں آثار اللہ

علاہلہم ادا کافر

یعنی شرانگیزی یا

فتنہ اشخاص مسلمان

کے خلاف ہو گیا

کافر کے یگانہ

ہے اسی طرح آیت

قرآنی میں جو عدل

احسان وغیرہ کا

علم ہے اور برائی

وغیرہ سے روکا

ہے تو اس میں بھی

سلمان اور کافر

دونوں شامل ہیں

اور مسلمان ہو گیا

کافر زیادتی کی پر

بھی جائز نہیں +

مط لفظ قریام

۳۰۸۵ کے ہیں صحت

شروع میں پھر کا

لفظ یہاں نہیں

اور آخر پر یہ لفظ

زیادہ کئے ہیں۔

ولسید بن اعلم

رجل من بنی

زریق حلیف

لیہود۔ عنان

باب کا تعلق اس

فقہ سے ہے

واما ناقفوا ان اثر علی الناس شعرا

یعنی میں دوسرے لوگوں پر شرانگہانہ ناپند کرتا ہوں +

مط تھا سدا ایک دوسرے پر حسد کرنا ہے۔ اور صد یہ ہے کہ جو

نعمت دوسرے کو دی گئی ہے اس کا زوال چاہے اور تدا ابراہیم دوسرے پر پیچھے پھیرنا ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے اعراض کرنا اور اسے چھوڑ دینا اور

ہر دی کا قول ہے کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق ہے یعنی مفاہمت یا قطع تعلق کا اختیار کرنا۔ جس طرح مسلمان پر حسد سے روکا ہے اسی طرح مسلمان کی مفاہمت

کے بھی روکا ہے۔ مگر یہاں لفظ یوں ہیں۔ عن النبی صلعم قال ایاک رد الظن فان الظن الذی الحدیث ولا تجسسوا ولا تخاسروا ولا تخاصموا

کے اندر تدا سے دور کر لینا چاہئے + ملا لفظ ۳۱۶ کے ہیں اور مذہبی کے ساتھ وہ ولا تخاصموا ابراہیم ہے۔ یعنی جس میں قیمت کو اس غرض سے بڑھا نا کہ دوسرے

کو دھوکا دے اور وہ قیمت زیادہ سے بڑھے یہ بدگمانی نہیں اور نہ ہی یہ ظن شخص ہے بلکہ بعض حالات سے آپ نے یہ استدلال کیا کہ یہ دو شخص میں سے ناواقف ہیں +

ملا یہاں لفظ یہ ہیں۔ ۱۔ و قالت دخل علی النبی صلعم یوما قال یا عائشة ما اظن فلا تافلا تافلا یعرفان دیننا الذی نحن علیہ +

تعالی ان الله یؤثر بالعدل والاحسان وایتاؤدی لقرنی وینھی عن الفحشاء والمنکر

اللہ نہیں عدل اور احسان اور ترہیبوں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکا

والنہی یعظیکم لعلکم تتقون وقوله انما بغیکم علی انفسکم ثم تبعی علیکم

ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم زیادہ رکھو رانحل۔ ۹ اور اللہ کا قول تمہاری زیادتی تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے یہ سن۔ ۳۲۔ پھر اس

لینصی ربہ اللہ وترک انثارۃ الشر علی المسلم او کافر رم۔ ۳۱۵

پر زیادتی ہوئی تو فرور اللہ اسکی مدد کرے گا رانحل۔ ۹ اور مسلمان یا کافر کے خلاف فتنہ انگیزی چھوڑ دینا

عائشۃ رض (متکر۔ ۱۲۷۹) (۵۷) باب ما ینھی عن التماسد والتدابیر وقوله

دیکھو حدیث ۲۷۹۹ باب ما ینھی عن التماسد اور مفاہمت سے ممانعت

تعالی ومن شر حاسد اذا حسد رم۔ ۳۱۶ عن ابی ہریرۃ (متکر۔ ۲۰۳۳)

قول اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے (ان سن۔ ۵) دیکھو حدیث ۲۰۳۳

(۲۲۲۶) عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قال لا تبأغضوا ولا تخاصموا ولا تدا ابروا وکونوا عبادا للہ اخوانا ولا

آپس میں بغض اور حسد نہ رکھو اور ایک دوسرے سے مفاہمت نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے

یحل للمسلم ان یتبع اخواه فون ثلاثۃ ایا رم۔ ۵) باب ما ینھی عن التماسد

جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے

امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا (رم۔ ۳۱۱)

بہت بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بعض وقت گمان گناہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا عیب نہ سنانا اور کج بھائی ہونے سے

عن ابی ہریرۃ (متکر۔ ۲۰۳۳) (۵۹) باب ما یکون من الظن

دیکھو حدیث ۲۰۳۳ باب ما ینھی عن التماسد جو گمان جائز ہے

(۲۲۲۷) عن عائشۃ قالت قال لیلۃ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن فلا تاؤ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لیلۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ فلا تاؤ

فلا تا یغیر فان من دیننا شیئا قال اللیث کان رجلا من المنافقین

فلاں ہمارے دین سے کچھ جانتے ہوں مگر لیسٹ نے کہا وہ دونوں منافقوں میں سے تھے

(رم۔ ۳۱۸) عن عائشۃ رض (متکر۔ ۲۲۲) (۶۰) باب ستر المؤمن علی نفسه

دیکھو حدیث ۲۲۲۷ باب ما ینھی عن التماسد مسلمان کا اپنی پردہ پوشی کرنا

۲۲۳۰) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا يَجُلُ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَبِعَرَضٍ هَذَا أَوْ بَعْرُضٍ

کسی شخص کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ قطع تعلق رکھے دونوں ملتے ہیں تو یہ (بھی) منہ پھیر لیتا ہے اور وہ (بھی)

هَذَا أَوْ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (۲۳۲) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَجْرَانِ لِمَنْ

منہ پھیر لیتا ہے دونوں میں سے اچھا وہ جو پہلے سلام علیکم کہتا ہے یا اس کے ساتھ قطع تعلق کا جائز ہونا جو نافرمانی کرے

عَصَى وَقَالَ كُتِبَ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

اور کعب نے جب وہ نبی صلعم سے پیچھے رہ گیا کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا وَذَكَرَ مَسْبُورِينَ لَيْلَةً (۲۳۳) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتَكَ

مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کلام کرنے سے منع فرمایا اور چاروں اہل بیت کا ذکر کیا ہے دیکھو حدیث

(۲۰۵۷) (۲۳۴) بَابُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بَلَدَهُ وَعَشِيًّا (۲۳۵) ۲۰۵۷

یا سہل کیا اپنے ساتھی سے ہر روز ملاقات کرے یا صبح اور شام

عَنْ عَائِشَةَ رَمَتَكَ (متکرر ۲۳۴) بَابُ الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ

دیکھو حدیث ۲۳۴۲ بَابُ ملاقات کرنا اور جو کسی کی ملاقات کو جائے اور ان کے پاس

عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ

کھا نا کھا لے اور سلمان بنی صلعم کے زمانے میں ابو الدرداء کی ملاقات کو گئے اور ان کے پاس کھا نا کھا یا کھا

(۲۳۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرر ۲۳۲) بَابُ مَنْ جُمِلَ لِلْفُؤَادِ

دیکھو حدیث ۲۳۲۵ بَابُ جو فؤاد کیلئے زینت اختیار کرے علی

(۲۳۶) عَنْ أَبِي نَجِيحٍ بْنِ أَبِي اسْمَعِيلَ (متکرر ۵۲۶) بَابُ الْوَأْدِ

دیکھو حدیث ۵۲۶ بَابُ یا کجا اخوت قائم کرنا اور

الْجَلْعِ وَقَالَ أَبُو حَظِيْفَةَ أَخِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي

عہد و پیمانہ کرنا اور ابو حذیفہ نے کہا بنی صلعم علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء میں اخوت

الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَخِي النَّبِيُّ

قائم کی اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا جب ہم مدینہ آئے تو نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان اخوت قائم کی

عَشِيَّةً فَبَدَأْتُهُمْ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَاتِلُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهَا قَالِ أَبُو بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ

فی هذه الساعة الا امر قال اني قد اذن لي بالخروج كثرت ملاقات کا انحصار تعلقات کے گرام ہونے پر ہے اور کثرت ملاقات ممنوع نہیں

یہ تحقیق بھی ۹۹۷ پر گزر چکی ہے ۱۰۱۱ میں اختصار ہے۔ ان رسول اللہ صلعم زاراہل بیت فی الانصار فطعم عندہم طعاماً فلما اراد

ان بخروج امرہم کان من البیت فنضج له علی اساط فیصل علیہ ودعا لہم ملا وفد کا آنا فاسلمت رکھتا ہے اسلئے اس کو پر اگر خاص لباس پہنائے

تو ہر جہتیں حدیث باب میں حضرت عمر نے رسول اللہ صلعم سے اس طرح عرض کیا تو اپنے جمل سے منع نہیں فرمایا البتہ ریشمی لباس کو ناپسند فرمایا ہم کھل روایت

عبدالرشید عمر کی ہے کہ بات میں اور آخر پر کچھ بڑھا یا ہے اور تخفیف ساختات الفاظ بھی ہے۔ قال لی ساء من عبد اللہ ما اے مستہرق قلت ما غلظ من الایام

وخص منہ قال سمعت عبد اللہ يقول ذای عمر علی رجل حلہ من استرق فاتى بها النبي صلعم فقال يا رسول الله اشتغلن بنا لبسها لو فهد الناس اذا قدموا عليك

نقال انما لبس المحرمين لا اخلاق له فمضت في ذلك ما مضى ثم ان النبي صلعم بعث اليه بجملة فاتى بها النبي صلعم فقال بعثت اليك بهذه وقد قلت في ۱۳

ما مثلها ما قلت قال انما بعثت اليك لتصيب بها ما لا يعنيني اسے بیچ کر انی فائدہ اٹھاؤں تو کان ابن عمر کی یہ العلم فی الثوب لہذا الحدیث

یہ تحقیق ہے ۱۰۱۱ میں اختصار ہے۔ ان رسول اللہ صلعم زاراہل بیت فی الانصار فطعم عندہم طعاماً فلما اراد ان بخروج امرہم کان من البیت فنضج له علی اساط فیصل علیہ ودعا لہم ملا وفد کا آنا فاسلمت رکھتا ہے اسلئے اس کو پر اگر خاص لباس پہنائے تو ہر جہتیں حدیث باب میں حضرت عمر نے رسول اللہ صلعم سے اس طرح عرض کیا تو اپنے جمل سے منع نہیں فرمایا البتہ ریشمی لباس کو ناپسند فرمایا ہم کھل روایت عبدالرشید عمر کی ہے کہ بات میں اور آخر پر کچھ بڑھا یا ہے اور تخفیف ساختات الفاظ بھی ہے۔ قال لی ساء من عبد اللہ ما اے مستہرق قلت ما غلظ من الایام وخص منہ قال سمعت عبد اللہ يقول ذای عمر علی رجل حلہ من استرق فاتى بها النبي صلعم فقال يا رسول الله اشتغلن بنا لبسها لو فهد الناس اذا قدموا عليك نقال انما لبس المحرمين لا اخلاق له فمضت في ذلك ما مضى ثم ان النبي صلعم بعث اليه بجملة فاتى بها النبي صلعم فقال بعثت اليك بهذه وقد قلت في ۱۳ ما مثلها ما قلت قال انما بعثت اليك لتصيب بها ما لا يعنيني اسے بیچ کر انی فائدہ اٹھاؤں تو کان ابن عمر کی یہ العلم فی الثوب لہذا الحدیث

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

(۳۳۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۵۲۸) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا
 الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يَهْدِي عَنِ الْكُذِبِ
 (۳۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفِتْرِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِدُّ
 حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي
 إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُمَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا بَارِعًا (متکرر - ۳۳۳)
 (۳۳۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا
 الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يَهْدِي عَنِ الْكُذِبِ
 (۳۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفِتْرِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِدُّ
 حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي
 إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُمَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا بَارِعًا (متکرر - ۳۳۳)
 (۳۳۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا
 الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَا يَهْدِي عَنِ الْكُذِبِ
 (۳۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
 الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفِتْرِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِدُّ
 حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي
 إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُمَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا بَارِعًا (متکرر - ۳۳۳)

یہ طومار حوالینا دلا میطر منھا شیء برہم اللہ کر امة بئہ صلعم واجابة دعوتہ ہلکے یاں سچ کو تام نیکیوں کی جڑ قرار دیا اور جھوٹ کو
 بدیوں کی اور صحیح بھی ہے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے یعنی پھر اس سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن
 لوگوں کو صدیق کہا جاتا ہے وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی صدیق کہا ہے۔ پس ان
 کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا غلطی ہے۔ کذاب بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جانے سے یہ مراد ہے کہ پھر اس کے سچ کی کوئی قدر اللہ
 کے ہاں نہیں ہوتی ہلکے وہی لفظ ہیں جھوٹ بولنے منافی کی نشانی ہے ہلکے ۳۳۳ میں حدیث ہے جس میں نبی کریم صلعم کی روایا ذکر ہے۔ اس میں جو
 جھوٹ بولنے والے کے متعلق ذکر ہے اس کو یہاں دوہرایا ہے۔ قال النبی صلعم رأیت رجلین اتبایا قال الذی زادہ یتفق اشدھ قہ فلکذا اب یکذاب
 بالکذبۃ یحتمل عنہ حتی یتلغ الاذان فیصلعم بہ الی یوم القیامۃ ہلکے ہدی سیرت اور ہیئت اور طریقہ کو کہا جاتا ہے ہلکے مکرر روایت کچھ
 اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ یقول ان اشبه الناس دلا و وضع دستا رملق و ہدی یا رسول اللہ صلعم لابن ام عبدمن حین یخرج من بیتہ الی ان
 یرجم الیہ لا یندزی ما یصلعم فی اہلہ اذ اخلا ہلکے یہ نصاریٰ کے لئے ایک پیشگوئی کا رنگ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دنیا خوب ملے گی اور عام رنگ
 میں بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے کسی کا رزق بند نہیں کرتا کہ وہ اس کا یا اس کی صفات کا انکار کرتا ہے۔

(۵- ۳۳۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۹) (۲۲۹) بَابُ مَنْ لَمْ يُؤَاجِرِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ
دیکھو حدیث ۱۲۲۹ ج ۱ بابک جو لوگوں پر ان کے منہ پر عتاب نہ کرے ج ۱

(۲۲۳۴) عَنْ عَائِشَةَ صَنَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرُحَّصَ فِيهِ فَنَزَّ عَنْهُ
حضرت عائشہ سے روایت ہے بنی سہلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور لوگوں کو اس میں اجازت دیدی تو کچھ

قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُطِبَ فَجَدَّ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ
آدمیوں نے اس سے بچنا چاہا یا یہ بات بنی سہلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے خلیج دیا اشکی حکم بیان کی پھر فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے

أَقْوَامٌ يَتَذَكَّرُونَ مِنَ النَّبِيِّ أَصْنَعُهُ فَإِنَّ اللَّهَ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّ لَهُمْ لَخَشِيَةً
کہ اس کام سے بچتے ہیں جسے میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اس خوف رکھتا ہوں

(۵- ۳۳۴۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (مُتَكَوِّرًا) (۲۰۲) (۲۰۲) بَابُ مَنْ لَمْ يَنْتَهَ عَنِ
دیکھو حدیث ۱۹۰۲ ج ۱ بابک جو اپنے بھائی کی بغیر تاریل

بَغْيٍ تَأْوِيلُ فَهُوَ كَمَا قَالَ (۲۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
کے کفر کرے تو وہ خود و ایسا کرے یا اپنے بھائی کو کہتا ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ كَاخِيَةَ يَأْكُلُ فَرَفَقْدَ بَاءٍ بِهَا أَحَدُهُمَا (۲۳۳) (۲۳۳)
فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے کہ اے کافر تو دونوں میں سے ایک اس کا محل ہوا ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عبداللہ بن مرزوق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کہے

كَاخِيَةَ يَأْكُلُ فَرَفَقْدَ بَاءٍ بِهَا أَحَدُهُمَا (۵- ۳۳۴۳) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّمَّانِ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱)
اے کافر تو دونوں میں سے ایک اس کا محل ہوا دیکھو حدیث ۱۶۲۱ ج ۱

مختلف روایات
اختلاف الفاظ
سے آئی ہے
قسم اللہ صلعم
قسمہ کبعض ما
کان یقسم فقال
رجل من الانصار
والله اهما لقسمه
ما ارديا هما وجه
الله قلت اما انا
لا قولن للنبی صلعم
الله علیه وسلم
فانتبه وهو فی
اصحابه فادرقه
فتنق ذلك علی
النبی صلعم وتغیر
وجهه وغضب
حتى وودت انی
لم اکن اخبرته
ثم قال قد اودت
موسی بالکنز من
ذلك فصبره

یعنی خاص آدمیوں کو مخاطب کر کے عتاب نہ کرے کہ تم نے یہ کام بر کیا یا کیوں کیا بلکہ عام پیرائے میں سمجھانے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ
یہ ہیں کہ ان اللہ صلعم اللہ حیاء من اللذراء فی خدرها فاذا اذرای شیئا یکرهه عرفناه فی وجہہ۔ آپ کے پھرے سے بچان لیتے تھے یعنی وجہ
حیا زبان سے آپ کچھ نہ فرماتے تھے بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تاویل کے ساتھ کسی کو کافر نہانا جائز ہے کیونکہ اس امر پر احادیث شاذ ہیں کہ مشرعیّت
اسلام نے ان لوگوں کو بھی مسلم قرار دیا ہے جن میں اسلام کا سونے سے موٹا نشان پایا جائے۔ مثلاً السلام علیکم کنا جیب آیت قرآنی لا تقولوا لمن العقی
الیکم السلام است مومنائے ظاہر ہے۔ یا من سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں رخصیا تا والی حدیث اس پر شاہد ہے، یا قبل کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کی طرح
نماز پڑھنا رخصیا صلواتنا واستقبل قبلتنا.... فذلک المسلم، پس جب تک ان نشانوں میں سے کوئی ایک نشان کسی میں پایا جائے یعنی وہ میل جول
میں اسلامی سلام کرتا ہو یا اسلام علیکم کہتا ہو۔ یا من سے کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمانوں کی طرح قبل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو تب تک کوئی
تاویل اس کے کفر کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس سے پہلے جو رسول اللہ صلعم نے یا قرآن شریف نے یہ نشان بیان فرمائے کوئی غلطی سے
کسی مسلمان کو کافر کہہ سکتا تھا مگر اس امر اور خالہ نے کیا۔ لیکن شریعت کی وضاحت کے بعد اب کسی شخص کو جو اس شریعت کا پیرو ہے یہ حق نہیں پہنچتا
کہ وہ ایک شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا جو اسلامی طریق پر سلام کہتا ہے یا جو اسلامی طریق پر نماز پڑھتا ہے اس کے قول کی یا اس کے فعل کی
کوئی تاویل کر کے اسے کافر کہے۔ عنوان باب میں بلاشبہ یہ لفظ میں کہ بغیر تاویل کے کافر کہے لیکن باب کی تینوں حدیثوں میں سے کسی ایک میں بھی
تاویل کا لفظ موجود نہیں نہ کوئی ایسے قرائن ہیں کہ ان سے یہ معلوم ہو کہ بغیر تاویل کے کافر کہنا یاں مراد ہے بلکہ صرف تکفیر کا ذکر ہے اور حجت حدیث
ہے نہ کہ عنوان باب۔ زیادہ سے زیادہ عنوان باب کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جب تاویل کے کافر کہے کسی کو کافر نہانا جائز نہیں تو جو شخص بغیر تاویل کے کافر
کہے وہ سخت زیر عتاب ہے۔ یہاں تک کہ وہ کافر کہنے کا مستحق ہو جاتا ہے گو یا یہ اس کی سزا ہے کہ اسے کافر کہنا جائے جس طرح تلک کی سزا قتل ہے *
۱۵ دونوں میں سے ایک اس کا محل ہوا جس صورت میں جسے کہا گیا ہے وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں دونوں میں سے ایک تکفیر کرنے والا ہے *
۱۶ اس کا مضمون م ۳۳۰۱ کے قریب قریب ہے۔ لفظ یوں ہیں۔ من حلفت بعلمة غیر لا اسلام کا ذبا ہو کما قال ومن قتل نفسه بشئ عذب بہ
فی نار جهنم ولعن الثور من قتلته ومن رمی مؤمنا بکفر فهو کفعله *

(۷۴) **بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْكُفَّارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوَّلًا أَوْ جَاهِلًا وَقَالَ عُمَرُ**

بَابِكُمْ جَوَّاسٌ كَافِرٌ لَيْسَ بِكُنَا
جس نے کسی کو تاویل سے یا نادان واقعیت کے سمجھنے کا فرما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

لِحَاطِبِ رَأْيُهُ مُتَأَمِّقٌ فَقَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدَرٌ

حاطب کی نسبت کہا کہ یہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم شاید اللہ تعالیٰ نے

أَظْلَمَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ خَفَرْتُ لَكُمْ (۵-۴۵۳۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

پر درواہوں کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے

(متکرر - ۲۷۵) (۴-۳۳۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر - ۱۹۶۶) (۵-۳۳۲۷) عَنْ

دیکھو حدیث ۲۷۵ دیکھو حدیث ۱۹۶۶

أَبْنِ سَمُرَةَ (متکرر - ۱۲۵۰) (۵-۷۵) بَابُ مَا يَحُورُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ وَلَا مَرُّ لِلَّهِ

دیکھو حدیث ۱۲۵۰ باب جو غصہ اور سختی اللہ کے حکم کے لئے جائز ہے

وَقَالَ اللَّهُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعِظْ عَلَيْهِمْ (۵-۳۳۲۸) عَنْ عَائِشَةَ

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور اللہ سے ان کا مقابلہ کرو (الأنفال - ۳)

(متکرر - ۱۰۵۰) (۴-۳۳۲۹) عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ (متکرر - ۸۰) (۵-۳۳۵۰) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۰۵۰ دیکھو حدیث ۸۰

عَبْدِ اللَّهِ (متکرر - ۱۰۲۵) (۵-۳۳۵۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (متکرر - ۸۱)

دیکھو حدیث ۱۰۲۵ دیکھو حدیث ۸۱

(۵-۳۳۵۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (متکرر - ۳۵۵) (۶-۷۶) **بَابُ الْحَذَرِ**

دیکھو حدیث ۳۵۵ باب حذر سے بچنا

کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، دان معاذ! صلے بنا المبارحة فقرا البقرة فتجوزت فرم ای منافق فرم ای منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتقان أنت ثلثا اتقوا الشمس وصلحها وسبحوا اسم ربك إلا على وجهها - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو سخت تنبیہ کی کہ اس نے کیوں ایک شخص کو متاثر کیا اور بار بار فرمایا۔ اتقان اتقان تم منقذ ڈالتے ہو۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ معاذ وہی لفظ ہیں دیکھو نوٹ ص ۱۱۶۔ یہاں بتایا ہے کہ ایک شخص سے اتنا بڑا اعلیٰ شرک بھی سرزد ہو کہ وہ لات اور عزی کی قسم کھائے تو لا الہ الا اللہ کا تہہ راز کافی ہے۔ کسی کو یہ یقین نہیں کہ اس کے اس فعل کی وجہ سے اسے کافر یا مشرک بنائے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا تہہ راز کرتا ہے۔ ملک یہاں تفصیل دیا ہے۔ اتنا ادراک علم ابن الخطاب فی ركب وهو يجلع بآية نأدهم رسول الله صلعم إلا ان الله ينهأ كما ان مخلقا یا بائحة فمن كان حالفا فليجلع بالله ولا يلائم صمت له یا ان احتقره من - قلت دخل على النبي صلعم وفي البيت قرآن فيه صور فتلون وجهه ثم تناول السرة فطنته ربه نارگی اپنی ذات کے لئے زخمی بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے) وقال قال النبي صلعم من أشد الناس عذا يا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورة ملا قریناً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ نماز کو بہت مبارک کرنے والوں پر انہار نارنگی ہے۔ ص ۲۹۳ اس میں مالک کی روایت اور ۱۰۲ عبد اللہ بن عمر کی روایت کا مضمون ایک ہے۔ یہاں عبد اللہ بن عمر کی روایت ان الفاظ میں ہے۔ قال بینا النبي صلعم رأی فی قبلة المسجد خامة فحکها بیدہ فتعظرت عنون باب کا تعلق اسی سے ہے، ثم قال ان احدکم اذا کان فی الصلاة فان الله حیال وجهه لاشد حبت سے پاک ہے مطلب یہ ہے کہ حالت نماز میں چونکہ انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا خدا کے سامنے کھڑا ہے اس لئے سامنے نہ تھو کے، فلا یتدخمن حیال وجهه فی الصلاة + مثلاً قریناً انہی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ فضالة الابل کے متعلق یہ لفظ چھوڑ دیتے ہیں۔ ترد الماء وترعى الشجر ص ۱۱۶ یہاں تفصیل زیادہ ہے۔ قال احقر رسول الله صلعم محبقة رجبہ کی تصغیر و محضفة و رجبیوں سے گھیرا ہوا، اوحصوا فخرج رسول الله صلعم یصلی فیہا فتبجہ الیہ رجال وجاءوا یصلون بصلواتہ ثم جاء الیة فخصی و اوابط رسول الله صلعم عنہم فلم یخرج الیہم فرجعوا اصواتہم و حصوا الباب دروازے پر کھڑے تھے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فخرج الیہم مغضبا دعوان باب کا تعلق اسی سے ہے) فقال لہم رسول الله صلعم ما ذال بکم صنیعکم حتى ظننت انہ سیکتب علیکم بالصلوة فی بیوتکم فان خیر صلاة المرء فی بیئہ الا الصلاة الملكوتیة - اس سے معلوم ہوا کہ

۱۔ یہ تعین سورہ
متحدہ کی تفسیر میں
موصول گذر چکی ہے
۲۔ یہاں زیادہ
تفصیل ہے۔ ان
مذاہب میں جہل و
کائن بصلعم اللہ
صلعم ثم بآی قومہ
فیصلیہم الصلاة
فخرج الیہم البقرة
قال فتجوزت و رخصت
ہا کا کیا، رجل فصلی
صلواتہ حقیقۃ
ذیلہ ذلک معاذاً
فقال ایہ منافق
نبیذ ذلک الرجل
فاتی النبی صلعم
فقال یا رسول
اللہ انا قوم لعل
بایدینا و سقی
بنوا حنظلا را پیٹے
ہونٹوں کے ساتھ

حضرت صلعم نے چاہتے تھے کہ تراویح کی نماز فرض کی طرح ہو جائے عیب کہ آجکل مسلمانوں میں عام طور پر ہو گئی ہے۔ یہ تہجد کی نماز تھی جس کی پابندی رمضان میں بالخصوص کی جاتی تھی

(۸۰) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْ لَا تَعْبُرُوا» أَوْ كَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ

بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لوگوں کے لئے اور آسانی کو اورنگی میں نہ ڈالو اور آپ لوگوں پر تخفیف

وَالْيَسْرَ عَلَى النَّاسِ (م- ۳۳۶۰) عَنْ أَبِي مُوسَى (متکرو- ۸۴۲۴) (م- ۳۳۶۱)

اور آسانی کو پسند کرتے تھے دیکھو حدیث ۸۴۲۴ اور ۳۳۶۱

عَنْ أَبِي بَرْزَاءَ (متکرو- ۶۳) (م- ۳۳۶۲) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۶۰۰)

دیکھو حدیث ۶۳ اور ۳۳۶۲ اور ۱۶۰۰

(م- ۳۳۶۳) عَنْ الْأَزْوَاقِ بْنِ قَلْبِش (متکرو- ۶۶۲) (م- ۳۳۶۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۶۶۲ اور ۳۳۶۴ اور ۳۳۶۳

(متکرو- ۸۱۶۸) (۸۱) بَابُ الْأَنْبِطَاطِ إِلَى النَّاسِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ دَخَلَ إِلَى النَّاسِ

دیکھو حدیث ۸۱۶۸ بابت لوگوں کے ساتھ کثادہ پیشانی سے پیش آنا اور ابن مسعود نے کہا لوگوں سے میل ملاقات رکھ

وَدِينِكَ لَا تَكَلِّمْتُهُ وَالذَّعَابَةَ مَعَ الْأَهْلِ (م- ۲۳۳۹) عَنْ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

اور اپنے دین میں غل نہ ڈال اور گھر والوں سے خوش ملی کرنا اور اس سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُجَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَفِيْرٍ

کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ ہم سے چھوٹے بھائی سے

يَا أَبَا عَمْرٍو مَا فَعَلَ لَتَغَيَّرَ (م- ۲۳۴۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ الْعَبَّ بِالنَّبَاتِ

خڑتے ابو عمرو سے پہلے کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرا ہوں

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَابٌ يَلْعَبُنِ مَعِي فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری سیمیاں میں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعُنْ مِنْهُ فَيَسِيْرُ مَعِي إِلَى الْفَيْلَعِينَ مَعِيَ (۸۲) بَابُ الْمَدَارَاتِ مِمَّ

گھر نشین ہوتے تو وہ آپ سے چھپ جاتی ہے آپ انہیں پس بھیجتے تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتے با سبک لوگوں کے ساتھ مدارات

النَّاسِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي لَدْرَدَاءٍ إِذَا سَأَلْتُ كَثْرًا فِي وَجْهِهِ أَوْ لَمَّا وَرَأَتْ قُلُوبَنَا

کرنے لگتا اور باجا اور وہ اسے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کے دوہرے دیکھنے میں

ادرجائے دل آن پر

ع ۸۴۲۴ اور ۳۳۶۱
پہلا صحیح بخاری ہے
قال لعايشة
رسول الله صلعم
دمها زين جبل
قال لهما يتر
ولا تغورا
باب كاتعق
حقة سے ہے
ويغورا ولا تغورا
وتطادها قال
ابو موسى يا رسول
رسول الله انا
بارض بيصنع فيها
شوات من العسل
يقال له البتبع
وشواب من الشحير
يقال له العزير
فقال رسول الله
صلعم كل مسكر
حرام
ع ۳۳۶۳
بشواتي كمن كمن
ہے بکسوں دوہرے
دیکھو نوٹ
ع ۳۳۶۳

ع ۳۳۶۳ کے ساتھ لفظ وہی ہیں۔ دیکھو نوٹ ۳۳۶۳ صفحہ ۸۲۶۔ ہاں روایت کچھ اختلاف سے آتی ہے۔ قال كنا على شاطئ نهر يا لاهاوز قد نضب عنه الماء ربابي خشك ہو گیا تھا، بخاری اور بركة الاسلي علی فرس فصله و دخل فرسه فانطلقت الفرس رطبتا میں ہے کہ نماز پڑھتے وقت تکام اس کے ہاتھ میں تھی اور اس طرح گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، فنرك صلاحته وتبصحا حته ادرکها فاخذها ثم جا ففضضه صلاحته ودينار جل له اراى فاقبل يقول انتظرو الے هذا العيظ ترك صلاحته من اجل فرس فاقبل فقال ما عنفتني احد منذ فارقت رسول الله صلعم وقال ان مانزلي متراخر متتابعه دور فدر صليت وتركت لم ات اهلى الى الليل وذكر انه صحب انيسه صلعم فرأى من تيسيره رديني معا لائس كى سموت يابا ديكهو نوٹ ۳۳۶۳ قريبا منى افأ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ نے سختی کرنے سے روکا اور فرمایا فانما بعثتم ميسيرين ہا ملا عنوان باب میں دو باتیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کثادہ پیشانی سے پیش آنا اور اپنے گھر والوں سے دعاوت یعنی مزاح خوش طبع وغیرہ۔ ا مجھ جس شخص کو کسی مسجد کا امام بنا دیا جائے وہ بھی دوسرے لوگوں سے منکرانہ روش سے پیش آتا ہے کہ اس کی نبرداری نبی ہے۔ مسلمان کو اگر ایک طرف خدا سے تعلق پیدا کرنے کا حکم ہے تو دوسری طرف انسانوں سے بھی اچھے تعلقات پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ لوگوں سے انباط سے پیش آئے اور اپنے جوی بچوں کے ساتھ بھی رہنے کیلئے۔ ابن مسعود کی تعلیم میں جو لفظ ہیں وہ دینک لا فکلنتہ اپنے دین کو زخمی نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے بیشک مخالفت نہ کر دگر ایسا نہ ہو کہ اس میں اختلافی سطح سے گرجاؤ جس پر دین قائم کرنا ہے۔ ہاں یعنی ایک بچے سے وہ بات کرتے جو اس کے مذاق کی تھی ہاں حضرت عائشہ جب آنحضرت صلعم کے گھر میں آئیں تو چودہ پندرہ سال کی ایک نوجوان لڑکی تھیں تو یہ تقاضائے عمر گراہوں کے ساتھ کھیلتی تھیں۔ بعد میں آپ کی توجہ اس قدر علم دین کی طرف ہوئی کہ اس کا بڑا ذخیرہ است کو آپ کے ملا ہاں مدارات لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اور سخت کلامی نہ کرنا۔ مدارات ماہر نہ نہیں کیونکہ ماہرہ اس چیز کا

نام ہے کہ انسان دوسرے کے ناپاک خیالات یا اس کے فسق و فجور کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اس کی باتوں میں ہاں ملاتا جائے

كَلَعَتْهُمْ (م- ۳۳۴۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۳۳۴۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سنت کرتے ہیں۔ دیکھو حدیث ۲۲۲۲

أَبِي مُلَيْكَةَ (مُتَكَوِّر- ۱۲۲۲) (۸۳) بَابُ لَا يُلِدُّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شَجَرٍ مَرْتِنٍ

دیکھو حدیث ۱۲۲۲ بابتش مومن ایک سو راغ سے دور تر نہیں کاٹا جاتا

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَلِيمَةَ إِلَّا دُوْحَجْرِيَّةٌ (۲۲۲۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اور معاویہ نے کہا کوئی حلیم نہیں مگر صاحب حجرت کے ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلِدُّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ شَجَرٍ وَلَا حَيْوَتَيْنِ

کہ اپنے فرمایا کہ مومن ایک سو راغ سے دور تر نہیں کاٹا جاتا

(۸۴) بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ (م- ۳۳۴۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (مُتَكَوِّر- ۱۹۹۸)

بابتش مہمان کا حق دیکھو حدیث ۱۹۹۸

(۸۵) بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخَدْمَتِهِ أَيَاكُفُّ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ

بابتش مہمان کی عورت کرنا اور تو اپنی ذات سے اس کی خدمت کرنا اور اللہ کا قول ابراہیم کے معزز مہمان والذی

الْمُكْرَمِينَ (م- ۳۳۴۹) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ (مُتَكَوِّر- ۲۲۱۹) (م- ۳۳۷۰)

دیکھو حدیث ۲۲۱۹

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ (مُتَكَوِّر- ۲۲۱۹) (م- ۳۳۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّر- ۲۲۱۸)

دیکھو حدیث ۲۲۱۸

(م- ۳۳۷۲) عَنْ عُنُقَبَةَ بِنْتِ عَامِرٍ (مُتَكَوِّر- ۱۱۷۷) (م- ۳۳۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۱۱۷۷

(مُتَكَوِّر- ۲۲۱۸) بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالْثَكْلَفِ لِلضَّيْفِ (م- ۳۳۷۴)

دیکھو حدیث ۲۲۱۸ بابتش مہمان کے لئے کھانا تیار کرنا اور تکلف کرنا

عَنْ أَبِي حَجِيْفَةَ (مُتَكَوِّر- ۹۹۶) (۸۷) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الغَضَبِ وَالْحَنْزِ

دیکھو حدیث ۹۹۶ بابتش مہمان کی موجودگی میں غصہ اور جزع

کے مطلب یہ ہے کہ بعض ناپاک لوگوں کے برے افعال کی وجہ سے ہم ان سے دل سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سامنے آجائیں تو یہ نہیں کریں گے کہ ان کو گالی دیں یا مٹہ پھیریں بلکہ سب ملاقات میں حسن اخلاق سے پیش آئیں گے جیسا کہ حدیث باب سے بھی ظاہر ہے کسی کے برے فعل سے نفرت کرنا اور چیز ہے اور اس سے حسن اخلاق سے پیش آنا اور اس کے لفظ ۳۳۷۰ میں ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں اور یہ روایت منسل ہے

۳۱۱۳ میں وہ سور سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ ان النبی صلعم اھدایت له اقبیة من دیباہ مزوڑۃ بالذھب فقسمہا فی ناس من اصحابہ وعزل منها واحداً السخوۃ فلما جاء قال خبات هذا الذک قال ابوب بقرہ انہ بریہ اقاہہ دکان فی خلقہ شیخی۔ آخری الفاظ میں مخرم کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کے اخلاق میں کچھ نقص تھا شاید مال کی محبت تھی یا ویسے کچھ خشونت تھی۔ مگر معاویہ کے اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ انسان تجربہ کر کے ہی علم حاصل کرتا ہے اور حلیم بنتا ہے۔ یعنی حلیم یا قوت برداشت بغیر تجربہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک جگہ سے دور تر دھوکا نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ اگر دھوکا کھا بھی جائے تو پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال دخل علی رسول اللہ صلعم فقال الم اخبارنا تک تقوم اللیل وتصوم النهار قلت بلی قال فلا تغفل تم وتم وصم واظرفان لجسدک علیک حقاً وان نحبینک علیک حقاً وان لزورك علیک حقاً وان لزوجهک علیک حقاً وان عسے ان یطول بک عمروان من حبسک ان تصوم من کل شهر ثلاثۃ ایام فان کل حسنة عشر امثالها فان الذکر الھرکھ قال فتشددت فقلت فانی اطیق غیر ذلک قال ففصم من کل جمعة ثلاثۃ ایام قال فتشددت فشدت فقلت فانی اطیق غیر ذلک قال فصم نبی اللہ داؤد ذلک ما صوم نبی اللہ داؤد قال نصف الذھوۃ مالا لک من باتوں میں سے یہاں صوم الام ضیف کا ذکر ہے رسول اللہ صلعم قال ۵۰ کان یومن باللہ والیوم الاخر فلنیکرم ضیفہ ما تزکھ یوم ولیلۃ والضحیۃ ثلاثۃ ایام فباعد ذلک فهو صدقۃ ولا یحیل له ان یشوۃ عندک (اس کے پاس ٹھہرا ہے یعنی میں دن کے بعد حتیٰ حیر حیر میں ان کو کئی بڑے مالے ہیں جو۔ حدیثی مالک مثله ذرا د من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیار او لیصمت مالا وہی لفظ ہے مالا قریناً انی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے دیکھو نوٹ ص ۵۳۰ مالا یہاں فلا یوذا جادہ کی جگہ ہے فیصل رسالہ باقی لفظ ہی ہیں مالا انی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ ابو الدرداء کے اپنے مہمان مسلمان کے لئے کھانا تیار کرنے کا ذکر ہے۔

عَلَّ اَخْتَلَفَ لَفَاظًا
 سے دوہرایا ہے
 ان ابابکر ترضیف
 رھنا فقال لعبد
 الرحمن دونك
 اضيا ذك فان
 منطلق الى النبي
 صلعم فارغم
 قراهم ران كي
 مناني سے قبل
 ان ابابكر ترضيف
 عبد الرحمن فانه
 بما عنده فقال
 اطعموا فقالوا اين
 رب منزلنا قال
 اطعموا قالوا ما
 عنن يا كلين حتى
 يجي رب منزلنا
 قال اقبلوا عنا

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (متكرر - ۳۹۵)

باب مذکور ہے دیکھو حدیث ۳۹۵

(۸۸) بَابُ قَوْلِ لَضَيْفٍ لَصَاحِبِهِ لَا أَكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ

باب عثمان کا اپنے ساتھی رضیف (بازن) سے کہنا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہ کھا میں اس بارہ میں ابوبکر کی حدیث

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م - ۳۳۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (متكرر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے دیکھو حدیث

(۳۹۵) (۸۹) بَابُ الْكِبْرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالشُّوَالِ

۳۹۵ باب بڑے کی موت کرنا اور گفتگو اور سوال کو بڑا شروع کرے

(م - ۳۳۷) عَنْ زَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ (متكرر - ۱۴۳۸)

دیکھو حدیث ۱۴۳۸

(م - ۳۳۷) عَنْ ابْنِ حَمْرٍ (متكرر - ۵۵) (۹۰) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ

دیکھو حدیث ۵۵ باب جو شعر اور ریزہ

وَالرَّجْزُ وَالْحِدَاءُ وَمَا يَكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

اور رگڑا کرنا اور جو ان میں سے ناپسندیدہ ہے اور اللہ کا قول اور شاعر تو ان کی پیروی گمراہ کرتے ہیں

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں سسگرا رہاں پھرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جو کرتے نہیں

قرآن فانه ان جاء ولم تطعموا للتلقين منه وهم ان کی نارنگی پائیں گے یعنی وہ ہم پر پرخا ہوں گے، نابوا فحرفت انه يجد علي روه مجھ پر پرخا ہوں گے، فلما جاء تخيفت عنه (ایک طرف ہو گیا) فقال ما صنعتم فاخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثرا (اونالاق) امنت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت (مضرو نکل آ۔ ما زائد ہے یا یعنی ای۔ یعنی میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تو نکل آئے، فخرجت فقلت لعل اضيا ذك فقالوا صدق اتانا به قال فانما انظر تنوتوني والله لا اطعمه الليلة فقال الاخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه قال لم ارفق الشوك الليلة تراي بري رات و دیکھو رافسوس ہے یہ ہمانوں پر بدوہ عائنیں بلکہ محض انہارا فوس ہے) ما انتم لم لا تقبلون عنا فراقا لوفادات طعامك فجاہدك فوضع يده فقال يا سم الله الا ولى للشيطان (یعنی نیلے جو کچھ کی باتم کھائی وہ برفا فعل تھا اسی سے عنوان باب ہے یعنی ایسا نہ کرنا چاہئے تھا) فاكلوا كلوبا۔ حدیث ابھی م ۳۳۷ م رگڑا کر رہی یہ لفظ سلمان کے تھے مگر جب آنحضرت صلعم کے پاس ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، الحدیث مضمون ۳۹۵ کا ہے مگر خفیف اختلاف لفظی ہے۔ جاء ابوبکر رضیف لہ او با ضیاف لہ فاضلے عند النبي صلعم فلما جاء قالت امی احتسبت عن رضيفه او اضيا ذك الليلة قال ما عشيتهم فقال عرضنا عليه او عليهم نابوا او فانی ففضيف ابوبکر فبست وجده ربر کا اور ملامت کی، وحلف لا يطعمه فاخترنا اننا فقال يا غنثرا فخلقت العراة لا تطعمه حتى يطعمه فلعل الضيف او الا ضیاف ان لا يطعمه او يطعموه حتى يطعمه فقال ابوبکر كان لهذا من الشيطان ذنبا بالطعام فاكل واكلوا فوجدوا الا رفوض لقمه الا ريامن اسفلها انكزمتها فقال يا اخت بنتي فراس ما هذا فقالات وتوق عينيه انما الان لا كثر قيل ان ناكل فاكلوا وبعث بها الى النبي صلعم فذکر انه اكل منها ۷۷ خفیف اختلاف لفاظ سے دوہرایا ہے۔ آخر میں ایک جملہ بڑھایا ہے۔ ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود اتيا خبير وفترا قاتني الخفل فقتل عبد الله بن سهل فجا عبد الرحمن بن سهل ومحيصة ومحيصة ابنا مسعود الى النبي صلعم ففكلموا في امر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان اصغر القوم فقال للنبي صلعم كبر الكبر رگڑا کر رہی جمع ہے۔ بڑے کو بڑا کر یعنی بڑے کو گفتگو کر کے دو۔ عنوان باب اسی سے ہے، قال يحيى ليكول الكلام وراكره كفتوكا متولى هو، الا كبر ففكلموا في امر صاحبهم فقال النبي صلعم الاستمقون قتيب كرا اقال صاحبكم يايمان خمسين هنكرا قالوا يا رسول الله امرهم نره قال قتيب كبرك يهودي ايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلعم من قبله قال سهل فاذركت ناقة من تلك الابل فدخلت مريءا اللهم فركضتني برجلها فمضت في نفسي ففصلت كچه زياده ہے۔ قال قال رسول الله صلعم اخبروني بشجرة مثلهما مثل المسلم تولى اكلها كل حين باذن ربها ولا تحت رگڑا نہیں، ورقها ذوق في نفسي الخلة فذكرت ان اكلهم وثم ابوبکر وعمر فلما لم ينكلموا عنوان بابك تعلق من حصه سے جو۔ بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے ابن عمر نے کلام کرنا پسند نہ کیا۔ کہا ہے کہ اس موقع پر ایک ال تھا۔ اور اس کا جواب ابن عمر نے میں سے کوئی سے سکا تھا بار ہوا یا چھوٹا، قال النبي صلعم هي الخلة فلما خرجت مع ابی قلت يا اباہ وقم في نفسي

الخلة قال ما صنعت ان تقبلوا لو كنت تلعبا كان احب الي من كذا وكذا اقال ما صنعت الا اني لو اردت ان ابا بكر فكلت ما فكرت

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ

سوئے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان پر

مَا ظَلَمُوْا وَاَوْسِعَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي

ظلم کیا گیا مدد چاہتے ہیں اور جو ظالم ہیں وہ جان لیں گے کہ کونسی پھرتی کی جگہ پھر جاتے ہیں (الشوارح ۲۲۳-۲۲۴) ابن عباس نے کہا کہ

كُلِّ لُغُوْا يَجُوْضُوْنَ (۲۲۴) عَنْ اَبِيْ بَنْتٍ عَنْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

کی لغو باتوں میں گھس رہتے ہیں (۲۲۴) ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ حِمَّةٌ (۲۲۴) عَنْ جُنْدَبٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَلَيْتُ صَلَّيْتُ اللّٰهَ عَلَيْهِ

کہ بعض شعر حرکت ہے (۲۲۴) جندب سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے

وَسَلَّمَ يَنْشِئُ اِذَا اَصَابَهُ حَجْرٌ فَعَاثَرَ فَاَدْمَيْتُ رَاۤسِيْهَا فَقَالَ هَلْ اَنْتِ اِلَّا اَصْبَعٌ

کہ آپ کو ایک بھرنگا اور آپ پھسل گئے تو آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی تو آپ نے فرمایا تو صرف ایک انگلی ہے جو خون

دَمِيَّتُ وَاِنْ سَيْبِلُ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ رَمِيْتُ (۲۲۴) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶)

آلود ہوئی اور جو تونے پایا وہ اللہ کی راہ میں ہے (۲۲۴) ابی ہریرہ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶) سے روایت ہے

رَمِيْتُ (۲۲۴) عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ اَبِيْ اَسْبَدٍ (۲۲۴) عَنْ اَسْبَدِ بْنِ اَبِيْ اَسْبَدٍ

دیکھو حدیث ۱۷۰۶ اس بن اسد سے روایت ہے

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰۤى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ اَمْرٌ

کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بعض بیویوں کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ام سلمہ

سَلِيْمٌ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا اَبْحَشَةَ زُوَيْدِكَ سَوْفَ اِلْتَقَا بِالنَّوْا اَلْبُوْا قِلَابَةً فَتَكَلِمُ

بھی یقین تو آپ نے فرمایا ابْحَشَةَ پر افسوس شیشوں کو ہتھیار

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمُ بَعْضُكُمْ لِعِبَادَتِمْ هَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْفَ

نے ایسی بات کہی کہ اگر تم میں سے کوئی کہے تو تم اس پر عیب لگاؤ یعنی آپ کی یہ بات میرا شیشوں کو

بِالنَّوْا اَلْبُوْا رِيْءًا (۲۲۴) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶)

چلا نا (۲۲۴) ابی ہریرہ سے روایت ہے

(۲۲۴) عَنْ عُرْوَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶)

دیکھو حدیث ۱۷۰۶ اس بن اسد سے روایت ہے

(۲۲۴) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۱۷۰۶)

دیکھو حدیث ۱۷۰۶ اس بن اسد سے روایت ہے

دیکھو حدیث ۱۷۰۶ اس بن اسد سے روایت ہے

ملاحکت مضبوط
اور سچی بات ہے
جو واقعہ کے مطابق
ہو تو فرمایا کہ
شعر کیسا نہیں ان
میں بعض ایسے
بھی ہوتے ہیں جو
حکمت اور آسانی کی
باقول سے بھرے
ہوتے ہوتے ہیں
مطابق ایک نورد
کلام ہے اور عینی
ابن التین کا قول
نقل کیا ہے کہ یہ
دو نواں شعر ہے
بن رواحہ کے ہیں
اگر آپ نے اپنے بھی
ہوں تو یہ بلا زور
نورون کلام ہے
مطابق وہی لفظ میں
دیکھو نوٹ ۱۷
صفحہ ۸۹۸
۲۴۰ قرینا انہی الفاظ
میں حدیث کو دیکھو
ہے۔ آخر میں جہاں
مسئلہ کو رسول اللہ
صلعم نے دیکھا وہاں
ہے راوی رسول
اللہ صلعم سنا حیاً

یعنی ہفتخبر اللون یا چہرے کا رنگ اٹا ہوا۔ اور قال من قالہ کے بعد یہ فقرہ یہاں زائد ہے۔ قلت فانہ فعلان وفلان وفلان واسم من المحضیر لانھا
دیکھو نوٹ اصل حدیث پر ۱۷۰۶ م ۳۳۹۱ میں ہے کہ یہ سفر تھا۔ ابْحَشَةَ آنحضرت صلعم کا ایک حبشی غلام تھا جو اونٹوں کو گا کہ چلاتا تھا۔ قرار بریا شیشوں سے مراد
عورتیں ہیں۔ شیشوں کو ہتھیار یعنی ان اونٹوں کو جن پر عورتیں سوار ہیں ان اونٹوں کو چلانے کا وہ عورتوں کو چلانا تھا۔ آہستہ چلانے کا اس لئے حکم دیا کہ عدی سے
اوتڑ تیز ہو جاتا ہے اور اس کے تیز ہونے سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر سوار اس صفت نازک میں سے ہے تو اسے نقصان پہنچے۔ یہاں عورتوں کو قرار بریا ایسا ہی
ہے جیسا ہم صفت نازک کہہ دیتے ہیں کہ شیش بھی نازک چیز ہے۔ عورتوں کو شیشوں سے تشبیہ دینا نہایت لطیف استعارہ ہے۔ لیکن ابو قتاد نے کہا
اگر تم میں سے کوئی ایسا کہے تو اس پر عیب لگا یا جائے شائد اس میں یہ اشارہ ہو کہ اس کلام میں عورتوں کی نزاکت کا بیان ہے۔ اور کوئی معمولی آدمی ایسا
کلام کہے تو یہ ذکر محبوب سمجھا جائے گا۔ ملاحظہ عینی میں ہے کہ ہرانی نے عمار بن یاسر سے روایت کی ہے لَمَّا هَجَا نَا الْعَشْرُ كُنَّا نَقَالُ لَنَا سَوْا (اللہ صلعم) قَوْلَا
لَهُم كَمَا يَقُولُونَ لَكَ۔ یہ ہجو کی اجازت جو اباقی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اباقی دوسرے کی ہجو کو مانع نہیں۔ اور درنی الحقیقت اس کی زیادتی کی سزا
ہے۔ اور احمد ابوداؤد نسائی میں اس کی حدیث مرفوع ہے۔ جاہد را المشركين بالسنن مشركون سے اپنی زبانوں کے ساتھ ہجو کرو۔ اس نص حدیث سے
جاہد سالی اور جماد قلمی ہر دو ثابت ہیں اور آج اس جہاد قلمی اور سالی کی سب سے بھلا ضرورت ہے۔ چنانچہ وہی لفظ میں حسان بن ثابت کو مشرکین کی ہجو کی اجازت دی ہے

۲۴۰ قرینا انہی الفاظ میں حدیث کو دیکھو ہرانی اس میں مشرکین کی ہجو اس میں مشرکین کی ہجو اس میں مشرکین کی ہجو اس میں مشرکین کی ہجو

(م- ۳۳۸۳) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (متکرم- ۳۱۷۰) (م- ۳۳۸۳) عَنْ

دیکھو حدیث ۲۱۷

الْبُرَاءِ (متکرم- ۱۳۵۴) (۹۲) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ عَلَى الْإِنْسَانِ

دیکھو حدیث ۲۱۷ باب ما یکرہ ان یکن القائل علی الانسان

الشَّعْرَ حَتَّى يَصِدَّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقِرَانِ (۲۲۲۵) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ

کما س کو اللہ کے ذکر اور علم اور قرآن سے روک دے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحًا خَيْرًا

روایت کرتے ہیں فرمایا کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس کے لئے اس

لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا (م- ۳۳۸۵) (متکرم- ۲۲۲۵) (۹۳) بَابُ

سے بہتر ہے کہ شعر سے بھر جائے دیکھو حدیث ۲۲۲۵ باب

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَبَّتْ بَيْمِنِكَ وَعَقْرَى حَلْقِي (م- ۳۳۸۶) عَائِشَةُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیڑا اوںسا ہاتھ خاک آلود ہو اور عقری حلقی ہے

(متکرم- ۱۲۳۹) (م- ۳۳۸۷) عَائِشَةُ (متکرم- ۸۳۲) (۹۴) بَابُ مَا جَاءَ

دیکھو حدیث ۲۳۹ باب ما جاء

فِي زَعْمُو (م- ۳۳۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۲۱۷) (۹۵) بَابُ مَا

بارہ میں آیا ہے دیکھو حدیث ۲۱۷ باب ما جو

جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيَلِكُ وَيَلِكُ (م- ۳۳۸۹) عَنْ أَبِي رَزِينَةَ (متکرم- ۶۹۰) (۹۶)

انسان کے قول وہ لک لک کے بارہ میں آیا ہے دیکھو حدیث ۶۹۰

(م- ۳۳۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۸۹۲) (م- ۳۳۹۱) عَنْ ابْنِ

دیکھو حدیث ۸۹۲ دیکھو حدیث ۸۹۱

ابْنِ مَالِكٍ (متکرم- ۲۲۲۲) (م- ۳۳۹۲) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (متکرم- ۱۲۲۷)

دیکھو حدیث ۲۲۲۲ دیکھو حدیث ۱۲۲۷

(م- ۳۳۹۳) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکرم- ۱۶۱۳)

دیکھو حدیث ۱۶۱۳

عربی فقہ میں
حسان کے رسول
اللہ صلعم کی طرف
سے جواب دینے
اور شرح القدس
سے موید ہونے
کا ذکر ہے۔ یثرب میں
کی سب کو جواب تھا
مطلوبہ لفظ میں
حسان کو بچوں
جو اب دینے کی
اجازت ہے
مطلوبہ اس لئے کہ
شعر کا نماز استہلال
کی جاتا تھا اور
ان میں خوش بشارت
بھی بہت ہوتے
تھے
مطلوبہ قیحا کے بعد
پر یہ زیادہ ہے
اسے دیکھنا ہو
عقوی حلقی
لفظی معنی میں
وہ لکٹ جائے
اس کے بال ہونے
جائیں مگر یہ ہر
اس امر پر یوں
جاتا ہے جو تعجب
میں ڈال دے

دیکھو نوٹ ۳۶۲۳۔ ۳۶۲۴ میں کچھ تفصیل زیادہ ہے۔ ان اہل خا ابی القعین استاذن علی بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استاذن رسول الله صلعم فان اخا ابی القعین لیس هو ارضعني ولكن ارضعني امرأة ابی القعین فدخل علی رسول الله صلعم فقلت یا رسول الله ان الرجل لیس هو ارضعني ولكن ارضعني امرأة قال استاذن له فانها عمك تربت بيمينك راسی سے عنوان باب ہے، قال شروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاة ما يحرم من النسب، لک یہاں لفظوں میں، اراد اللہ صلعم ان ینفر فرأی صفیة علی باب خبائها کنیمة حزینة لانها حاضت فقال عقوی حلقی لثة قریش انک لما استناتم قال انت ارضت یوم النحر یعنی الطوانت قالت نعم قال فانغری اذا دیکھو نوٹ ۳۶۲۳، یعنی جب زعمو یا زعم کہاٹے تو کی مطلب ہوتا ہے۔ یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ایک امر کی حقیقت سے واقفیت نہ ہو یعنی نہ جانتا ہو کہ وہ بات حق ہے یا باطل ہے، اس کے لفظ ۲۲ کے ہیں اس میں یہ لفظ آئے ہیں زعم ابن ابی اہہ قاتل رجل مگر یہاں زعم بمعنی قال ہے، علی پچھلی حدیث اور اس کے لفظ ۲۲ کے ہیں، علی یہاں لفظوں میں قال کا رسول اللہ صلعم ہی سفرو کان معہ علام له اسود یقال له اغضت یجدوا فقال له رسول الله صلعم وحین (عنوان باب کا تعلق اس لفظ سے ہے) یا اغضت رویداک بالقواریر، لفظ نظر فرمایا وہی ہیں۔ اراد کی طرف لافلا ہے، حدیث کو فرمایا امی انما میں دہرایا ہو گزول کے تین جملے پچھڑے ہیں۔ حدیث روایت وخب ان لم اکن اعدل یقرؤن القرآن لا یجاذر تراحمہ۔

(۹۷) **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَا رَأْيَهُ** ۲۲۴۴ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

ملایبی فقہ ابن عباس کی حدیث کا یہاں میں آتا ہے جس کی مکرر روایت آگے آتی ہے۔ عنوان باب کا تعلق آپ کے ارشاد اخسا سے ہے۔

بائیس ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو کٹنا کہ دور ہو جا مل۔ ابن عباس سے روایت ہے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِنَ صَائِدٍ قَدْ خَبَاتُكَ خَيْبَانَا فَمَا هُوَ قَالِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صائد رضی عنہ کو فرمایا میں نے تیرے لئے ایک بات دل میں رکھی ہے تو وہ کیا ہے اس نے

الذُّخْرُ قَالَ اخْسَا رَأْيَهُ ۳۲۰۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَمَتْ كُرًّا ۱۵

کما رُحِّ فَرَمَا يَوْمًا دُورًا بِرَجَا حَامِلًا دیکھو حدیث ۱۵، ۱۵

(۹۸) **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَرِحَبًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ**

بَابُ شَرَفِ زَيْنَانَ كَامَرًا جَائِسًا اور حضرت عائشہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ لِغَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مَرِحَبًا بِابْنَتِي وَقَالَتْ أُمُّ هَانِي جَنَّتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

حضرت غاتمہ علیہا السلام سے فرمایا مرحبا میری بیٹی اور ام ہانی نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرِحَبًا بِأُمَّ هَانِي (۵-۳۲۰۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا ۲۸)

تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی دیکھو حدیث ۲۸، ۲۸

(۹۹) **بَابُ مَا يُرَى مِنَ النَّاسِ بِأَيِّهِمْ (۵-۳۲۰۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا ۴۷)**

بَابُ رُؤْيِ كَوْنِ كَوْنِ النَّاسِ فِي غُرُفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا بَلَا يَجَانُ

(مُتَكَرِّرًا ۴۷-۳۲۰۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا ۴۷-۱۲۸۷)

دیکھو حدیث ۴۷، ۱۲۸۷ دیکھو حدیث ۴۷، ۳۲۰۳

یہاں پر بولا جاتا ہے خصامات الکلب غصناہ ای زحمت مستی نانا زحمت وذلک اذا قلت له اخسا پس اس پر غصم یہ ہے غصم کی حالت میں دور ہو جانا

چپ رہے۔ منظر قریب قریب انہی الفاظ میں ہے کہ وہ ہوا ہے۔ مرت ایک فقرہ چھوڑا ہے۔ حتیٰ اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلعم يتقي بجن ومع النخل اور آخر یہ وہاں کے متعلق کچھ بڑھایا ہے جو ابن عمر کی حدیث ۴۷ میں بھی گذرچکا لفظیوں میں۔ ان کے ابن الخطاب نطلق مع رسول الله صلعم في رهط من اصحابه قبل ابن صياد حتى وجدنا يلعب مع الغلمان في اطم بني مغالة وقد قاب ابن صياد يومئذ الحمد فلم يشع حتى صوب رسول الله صلعم ظهوه بيده ثم قال اتشهد اني رسول الله فنظر اليه فقال اشهد انك رسول الاميين ثم قال ابن صياد اتشهد اني رسول الله فرضه اليه صلعم ثم قال الامنت بالله وسله ثم قال لا بن صياد ماذا اترى قال يايتيه صادق وكاذب قال رسول الله صلعم خلط عليك الامر قال رسول الله صلعم اني خيأت لك خبيثا قال هو اللبخ قال احسان لمن تشاهد انك قال عمر يا رسول الله اتاذن لي فيه اذوب عنقه قال رسول الله صلعم عليه وسلم ان يكن هو لا نسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلعم والي بن كعب الانصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلعم طفق رسول الله صلعم يتقي بجن ومع النخل وهو يخجل ان يسمه من ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد ومضطهم على فراشه في قطيفة له فيها رمية او زمزمة فرأت ام ابن صياد اليه صلعم وهو يتقي بجن ومع النخل فقالت لا بن صياد اي صلات وهو اسم هذا محمد فتناخى ابن صياد قال رسول الله صلعم لو تركته بيني قال سالم قال عبد الله قال رسول الله صلعم في الناس فافشى عليه الله بما هو اهله ثم ذكر لالجال فقال اني اذركموه وما من نبي الا وقد انذرتهم لوجه الله ولكنني ساقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقرمه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور بل مرسا رجب سے ہے جس کے منٹے فراخی یا وسعت کے میں میں اہل میں مرحبا فراخی اور وسعت کی دعا ہے۔ یہ مکرر روایت مختصر ہے۔ قال لما ادم وقد عبد القيس على النبي صلعم قال مرحبا بالوفد الذين جاؤا غير خزايا ولا منألى فقالوا يا رسول الله انا من ربيعة وديننا ودينك مضر وانا لا نصل اليك الا في الشهر الحرام نمرنا بما نر فضله ندخل به الجنة وتدعوه به من وراءنا فقال اربع واربع اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ودعوا رمضان واعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباب والحنقم والتغوير والنزفة ملا ۱۲۸۷ اس کی روایت اور ۱۲۸۷ ابن عمر کی روایت ایک ہی ضمیر کی ہیں۔ یہاں لفظوں میں ان رسول اللہ صلعم قال ان العادر سير فعليه لو اعيرهم القيامة فخر قال هذا عند رجعة فلاون بن فلاون ۴۷۱۷۳۳۷ میں یہ ۳۲۰۳ میں یہ

میں دور ہو جانا چپ رہے۔ منظر قریب قریب انہی الفاظ میں ہے کہ وہ ہوا ہے۔ مرت ایک فقرہ چھوڑا ہے۔ حتیٰ اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلعم يتقي بجن ومع النخل اور آخر یہ وہاں کے متعلق کچھ بڑھایا ہے جو ابن عمر کی حدیث ۴۷ میں بھی گذرچکا لفظیوں میں۔ ان کے ابن الخطاب نطلق مع رسول الله صلعم في رهط من اصحابه قبل ابن صياد حتى وجدنا يلعب مع الغلمان في اطم بني مغالة وقد قاب ابن صياد يومئذ الحمد فلم يشع حتى صوب رسول الله صلعم ظهوه بيده ثم قال اتشهد اني رسول الله فنظر اليه فقال اشهد انك رسول الاميين ثم قال ابن صياد اتشهد اني رسول الله فرضه اليه صلعم ثم قال الامنت بالله وسله ثم قال لا بن صياد ماذا اترى قال يايتيه صادق وكاذب قال رسول الله صلعم خلط عليك الامر قال رسول الله صلعم اني خيأت لك خبيثا قال هو اللبخ قال احسان لمن تشاهد انك قال عمر يا رسول الله اتاذن لي فيه اذوب عنقه قال رسول الله صلعم عليه وسلم ان يكن هو لا نسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلعم والي بن كعب الانصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلعم طفق رسول الله صلعم يتقي بجن ومع النخل وهو يخجل ان يسمه من ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد ومضطهم على فراشه في قطيفة له فيها رمية او زمزمة فرأت ام ابن صياد اليه صلعم وهو يتقي بجن ومع النخل فقالت لا بن صياد اي صلات وهو اسم هذا محمد فتناخى ابن صياد قال رسول الله صلعم لو تركته بيني قال سالم قال عبد الله قال رسول الله صلعم في الناس فافشى عليه الله بما هو اهله ثم ذكر لالجال فقال اني اذركموه وما من نبي الا وقد انذرتهم لوجه الله ولكنني ساقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقرمه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور بل مرسا رجب سے ہے جس کے منٹے فراخی یا وسعت کے میں میں اہل میں مرحبا فراخی اور وسعت کی دعا ہے۔ یہ مکرر روایت مختصر ہے۔ قال لما ادم وقد عبد القيس على النبي صلعم قال مرحبا بالوفد الذين جاؤا غير خزايا ولا منألى فقالوا يا رسول الله انا من ربيعة وديننا ودينك مضر وانا لا نصل اليك الا في الشهر الحرام نمرنا بما نر فضله ندخل به الجنة وتدعوه به من وراءنا فقال اربع واربع اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ودعوا رمضان واعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباب والحنقم والتغوير والنزفة ملا ۱۲۸۷ اس کی روایت اور ۱۲۸۷ ابن عمر کی روایت ایک ہی ضمیر کی ہیں۔ یہاں لفظوں میں ان رسول اللہ صلعم قال ان العادر سير فعليه لو اعيرهم القيامة فخر قال هذا عند رجعة فلاون بن فلاون ۴۷۱۷۳۳۷ میں یہ ۳۲۰۳ میں یہ کی جگہ نصاب ہے۔

(۱۰۰) بَابُ اَلرِّقْلِ خَبِثَتْ نَفْسِي (۲۲۷۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ

بابت ریلوں کے کہ میرا نفس خبیث ہوا علیٰ حضرت عائشہ بنتی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ كُنْ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُولَ لِقَسْتِ نَفْسِي

فرمایا کہ تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ میرا نفس پید ہوا بلکہ یوں کہے کہ میرا نفس سست ہوا

(۲۲۷۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ كُنْ أَحَدُكُمْ

سہل بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا تم میں سے کوئی یوں نہ کہے

خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُولَ لِقَسْتِ نَفْسِي (۱۰۱) بَابُ فَا تَسْتَبُو الدَّهْرَ (۲۲۷۹)

میرا نفس پید ہوا بلکہ یوں کہے کہ میرا نفس سست ہوا بابت زمانہ کو برا مت کہو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) (۲۲۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

ابو ہریرہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دیکھو حدیث ۱۹۵۹

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْمُوا الْعَنْبَ الْكِرَامَ وَلَا تَقُولُوا اخِيبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

فرمایا انگور کا نام کرم نہ کہو علیٰ اور مت کہو زمانے کا نقصان کیونکہ زمانہ نہ برتر صرف

الدَّهْرُ (۱۰۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْكِرَامُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ

اللہ کا ہی ہے بابت علیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کرم ہون کا قلب ہے

وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يَفْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصُّوعَةُ

اور فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن مفلس ہو جیسے آپ کا یہ فرمانا کہ پیدا ان وہ ہے

الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْلِهِ لَا مَلَكَ إِلَّا اللَّهُ فَوَصَّغَهُ بِانْتِهَاءِ الْمَلَكَ

جو غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اور جیسے آپ کا قول حکومت کسی کی نہیں مگر اللہ کی حکومت کو انتہاء کے معنوں

شَمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيضًا فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا (۲۲۸۰)

کیا یہ پھر بادشاہوں کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ بادشاہ جب کسی ہستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں داخل ۳۲۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) (۲۲۸۰) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ قَدَاكِ ابْنِ دَاؤُدَ

دیکھو حدیث ۲۲۷۹ بابت انسان کا اتنا میرے مال بابت آپ پر قربان ہوں

فِيهِ الرَّبِّيْرُ (۳۲۰۸) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَرْثَدَةَ (متكرر) (۳۲۰۸) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي

اے خلیفہ زبیر سے روایت ہے علیٰ دیکھو حدیث ۱۳۲۰ بابت انسان کا اتنا اللہ مجھے آپ پر قربان

اللَّهُ فِدَاكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَايْنَا كَ يَا بَانِي دَاؤُدَ أَتَيْتَنَا

کرے اور حضرت ابو بکر نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم اپنے باپوں اور اپنی ماؤں کو آپ پر قربان کرتے ہیں ۹

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰

مگر اس میں ناپاکی کا خیال نہیں پایا جاتا۔ بہت سے احکام احادیث میں ایسے ہیں بالخصوص اس باب میں جن کا منشاء ایجاب نہیں بلکہ انسان کو آداب سکھانا پو
علیہاں کچھ اختصار ہے۔ قال رسول الله صلعم قال الله يسب بنو ادم الدهر وانا الدهر ميدى الليل والنهار دیکھو نوٹ ۱۵۵ صفحہ ۱۵۵
فصیلت اور بزرگی ہے۔ اور غیب گو انگور کو کہا جاتا ہے لیکن چونکہ انگور کا ناجائز استعمال غالب ہو گیا تھا یعنی انگور زیادہ تر شراب بنانے کے لئے استعمال
ہوتا تھا اس لئے ایک اچھے لفظ کو اس طرح پر استعمال کرنے سے روکنا کہ جس سے طبایح کا میلان ایک بری چیز کی طرف نہ ہو۔ علیٰ کرم ہون کا قلب ہے
کیونکہ وہ تمام بزرگیوں اور بڑائیوں کا منبع ہے اور نور ایمان اور تقویٰ کا اصل تعلق قلب ہی ہے۔ یعنی حکومت ہنئی اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے سب حکومتیں
اسی کے ماتحت ہیں۔ علیٰ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال رسول الله صلعم ويقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن۔ علیٰ زبیر کی یہ روایت مناقب زبیر میں
گزر چکی۔ جمہ لی اللہ علیہ وسلم ابوہ فقال لی ذان ابی داحی۔ علیٰ ۳۲۰ کے الفاظ کو دو ہر کر بڑھایا ہے۔ اظہہ یوم احل۔ علیٰ یہ
لفظ ابو سعید خدری کی حدیث میں ہیں جو باب ہجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گذری ہے۔

ملایا الفاء
 یہ ہیں:۔ انہ اقل
 ہووا بطلعہ مع
 انیسے صلعم ومع
 النبی صلعم صفیة
 مرد قہا علیہ اہلہ
 فلما کان بعض
 الطريق عثرت
 الفاتہ قصر
 النبی سے اللہ
 علیہ وسلم والمرفۃ
 وان اباطلہ قال
 احسب انعم
 رکود پیشے عن
 بدم فانی رسول
 اللہ صلعم فقال
 یابو اسحبہ
 اللہ فان رضی
 بابی سے ہے
 هل اصابت من
 شی قال لا وکن
 عنیت بالمرافۃ قال
 ابو الخلیفۃ ثوبہ
 علی وجہہ فقصر
 قصدها فالقی
 ثوبہ علیہا فقامت

(م- ۳۷۰۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مكرر- ۱۳۹۹) (۱۰۵) **بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ**
 دیکھو حدیث ۳۷۰۹

(م- ۳۷۰۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۳۷۱) (۱۰۶) **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ**
 دیکھو حدیث ۳۷۰۹

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِأَسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِلِسَانِي قَالَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو اسے انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۷۱۱) (مكرر- ۱۳۷۱) (۱۰۷) **بَابُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ**
 دیکھو حدیث ۳۷۱۱

(مكرر- ۹۵) (م- ۳۷۱۲) **بَابُ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر- ۱۳۷۱) (۱۰۸) **بَابُ إِسْمِ الْحَزْنَةِ****
 دیکھو حدیث ۳۷۱۲

(۲۵۰) **عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
 ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا

فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَتْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّيْتُهُ ابْنِي قَالَ
 تو آپ نے فرمایا تم کا کیا نام ہے کہا حزن فرمایا بیکہ تو سہل ہے علیہ اس نے عرض کیا جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اس سے نہیں بدلتا

ابْنِ الْمُسَيْبِ فَمَا زِلْتَ الْحَزْنُ وَزَيْدٌ فَيَذَابُ حَزْرًا (م- ۳۷۱۳) (مكرر- ۱۳۷۱) **عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ (مكرر- ۲۵۰)**
 ابن مسیب کا اس کے بعد بڑے خدق میں برابر خدی رکی

(۲۵۰) (۱۰۸) **بَابُ تَحْوِيلِ الْأَسْمَاءِ إِلَى نِسْبَةِ أَحْسَنِ مِنْهَا (م- ۳۷۱۴) **عَنِ سَهْلِ****
 یا شیتا نام کو اپنے نام سے تبدیل کرنا جو اس سے اچھا ہو

قَالَ لِي بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي سَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى
 کہ منذر بن ابی سید جب پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے آپ نے اسے بنی ران پر رکھا

خَيْرِ ذَهَابٍ وَأَبُو سَيْدٍ سَجَّاسٌ فَهَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي مَر
 اور ابو سید بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے جو آپ کے سامنے بھی مشغول ہوئے کہ ابو سید نے

المرافۃ فشد لهما على راسلتهما فركبهما راحته اذ كانا نرا بظهور المذنبه اذ قال اشرفنا على المذنبه قال النبي صلعم ايون تاشعون عابدون
 لربنا حامدون فلم يزل يقولوا حتى دخل المذنبه لسا اس باب میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام
 کیا ہے لیکن مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص صحیح معنی میں
 اپنے آپ کو اللہ یا رحمن کا عبد بنائے وہ سب سے محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب ترین عبد تو محمد رسول اللہ صلعم ہیں، اور یہ نام بھی انسانوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ باقی
 عبد اللہ اور عبد الرحمن کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ کے دو سب سے بڑے اسماء کی طرف سے اور قرآن مجید میں بھی عبد اللہ (رحمن، رحیم) اور عبد الرحمن (القرآن ۱۰۶) کے لفظ
 آئے ہیں اس لئے یہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ترین اسماء میں مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیے نام رکھوان کے صحیح معنی کے لئے کسی کو کوشش کی جائے وہ لفظ
 قریم ۳۷۱۲ کے میں لا نضعک عینا کی جگہ ہے لا کرامۃ لہ۔ یہ تفسیر کتاب البیوع باب ما ذکر فی الاسواق میں موصول ہو چکی ہے
 امر کہ آنحضرت صلعم کے نام پر نام رکھا جائے اور کنیت پر کنیت نہ رکھی جائے اس کی اہمیت اگر تھی تو رسول اللہ صلعم کی زندگی میں تھی۔ اس بارے میں
 احادیث کا اختلاف ہے۔ اغلب یہ ہے کہ نام اور کنیت دونوں کو ایک جگہ جمع کرنے سے روکا تاکہ غلطی پیدا نہ ہو۔ حدیث یہ روایت چھ اختلاف اور
 اختصار سے آئی ہے:۔ اول لرجل منا غلام فسماه القاسم فملاکنا میں ہے فارادان یسعیدہ محمد (۱) فقالوا لا تکتدیہ یعنی باپ کو ہوا القاسم نہیں کہیں،
 حتی نسال النبی صلعم فقال سموا باسمی ولا تکتنوا بلسانہ (۲) قال ابو القاسم صلعم سموا باسمی ولا تکتنوا بلسانہ (۳) یہ
 کمر روایت مملک (۴) اور م- ۳۷۱۰ دونوں سے اختلاف الفاء سے آئی ہے۔ اول لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا تکتنوا بالی القاسم ولا نضعک عینا
 رجبے ابو القاسم کہ کر خوش نہیں کیے، فاتی النبی صلعم فذکر ذلک له فقال اسم ابک عبد الرحمن و یہ نام نہ مملکنا میں مذکور ہے نوم، ۳۷۱۱ (۵) حدیث صحیحہ

زمین کو کہا جاتا ہے اور سہل اس کی ضد ہے اور سنا اور بھی اطلاق کے لحاظ سے یہ لفظ اسی طرح بولے جاتے ہیں۔ یعنی جس کے خدق میں بھی جو شہادت ہو رہی ہو

أَبُو سَيْدٍ بِأَبْنِهِ فَأَحْتَمِلَ مِنْ فِخْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَاقَ النَّبِيُّ
اچھے بیٹے کے متعلق حکم دیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اٹھایا گیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيِنُ الصَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو سَيْدٍ فَلَئِنَّا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ
تو فرمایا کچھ کہاں سے تو ابو سید نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے وہاں سے لے گئے فرمایا

مَا اسْمُهُ قَالَ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذَرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذَرُ (۲۵۲) عَنْ
اس کا نام کیا ہے عرض کیا فلاں آپ نے فرمایا اس کا نام منذر ہے تو اس دن اس کا نام منذر رکھا گیا ابو ہریرہ

أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمَهَا بَابَةَ فَبَقِيْلُ تَرَكْنِي نَفْسَهَا اسْمًا هَارِ سَوْلَ اللَّهِ
سے روایت ہے کہ زینب کا نام بڑا تھا اس کو کسی نے کہا وہ اپنے آپ کو پاک ٹھہرائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ (۲۵۲) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ (متكرد - ۲۲۵۰) (۱۰۹)
ان کا نام زینب رکھا دیکھو حدیث ۲۲۵۰

بَابٌ مِنْ سَمِيَّ بِأَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ النَّسَّيْ قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَهُ
بابیٹا جو انبیاء کے ناموں پر نام رکھے اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمؑ کو اپنے صاحبزادے

يَعْنِي بَنِي (۲۵۲) عَنْ إِسْمَاعِيلَ قُلْتُ لَا مِنْ أَبِي أَوْ فِي رَأْيِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ
کو برسہ دیا گیا اسٹیل سے روایت ہے میں نے ابن ابی اونی سے کہا کیا آپ نے ابراہیمؑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَصُغِرُ أَوْ كَوَقُضِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
صاحبزادے کو دیکھا کما وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور اگر یہ مقدر ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو

وَسَلَّمَ نَبِيُّ عَاشِلٍ بَنِي وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (۲۵۲) عَنْ الْأَبْرَاءِ (متكرد - ۴۱۱)
تو ایک صاحبزادہ زندہ رہتا لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں رہتا دیکھو حدیث ۴۱۱

(۲۵۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرد - ۱۲۱۱) (۲۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرد -
دیکھو حدیث ۱۲۱۱

۹۵) (۲۵۲) عَنْ أَبِي مُوسَى (متكرد - ۲۱۰۰) (۲۵۲) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
دیکھو حدیث ۲۱۰۰

(متكرد - ۳۹۴) (۱۱۰) بَابٌ تَسْمِيَةِ الْوَالِدِ (۲۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرد - ۱۲۹۲)
دیکھو حدیث ۳۹۴ باب تسمیہ نام رکھنا

بقیہ صفحہ ۱۳۹۴
اسے حزن کہا جاتا ہے حزن کے معنی غم ہیں
عکس الفاظ روایت مذکور نہیں وہ سے سند روایت کا ذکر کر کے کہا ہے کسی طرح یہ روایت (صفحہ ۱۳۹۴) معلوم ہوتا ہے جس نام کا ذکر ابو سید نے کیا وہ اچھا نام نہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل دیا گیا
اسٹیل بڑی نیک مرد اور بڑی نیک عورت اپنے آپ کو نیک بننے سے چونکہ قرآن شریف نے منع فرمایا
راجم - ۳۲ اسٹیل نام بدل کر زینب کر دیا یعنی جس نام سے یہ ام المؤمنین زینب بنت جحش تھیں یا زینب بنت ام سلمہ جو آنحضرت

صلعم کی ربیبہ تھیں۔ اس حدیث کو فریانی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ اس کا تعلق جنانزمی موصول گذر چکی ہے۔ یہ روایت ختم نبوت پر کسی قدر متین دلیل ہے اس کی ایک تبدیل شدہ صورت وہ ہے جسے آنحضرت صلعم کے بعد اجرائے نبوت کرنے والوں نے تمام تصرفات قرآنی کو روکنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ لوعاش ابراہیم مکان صدیقاً نبیاً۔ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نبی ہوتا۔ حالانکہ اس کا مطلب بھی عبادت ہے۔ نہ یہ مقدر تھا کہ آنحضرت صلعم کے بعد نبی ہوا اور نہ یہ مقدر تھا کہ ابراہیم زندہ ہے۔ جس طرح لوکان فیہما الہیۃ الا اللہ لغسد تا۔ بخاری کے الفاظ نہایت صاف ہیں۔ چونکہ یہ مقدر نہ تھا کہ آنحضرت صلعم کے بعد کوئی نبی ہوا اس لئے ابراہیم بھی زندہ نہ ہے۔ اور یہ بھی ایک صحابی کا خیال ہے نہ رسول اللہ صلعم کا ارشاد دیکھیں آپ کے بعد کسی نبی کا نہ ہونا حکمت قرآنی میں سے ہے۔ اور اگر کوئی حدیث اس کے خلاف ہوئی تو اس حدیث کی تاویل کی جانی نہ حکمت قرآنی کی ہے۔ اس کا وہی لفظ ہے۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۳۱۴۔ اس کے یہ روایت تقریباً۔ قال رسول اللہ صلعم سموا باسمی ولا تکتسوا لکنیتہ فانا ناسم اقدم بیکم ورواہ الش عن النبی صلعم۔ اس لفظ کے ہیں دیکھو نوٹ صفحہ ۳۱۴۔ اس کا وہی لفظ ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اس کا وہی لفظ ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت اور وہ ۳۹۴ وغیرہ کی روایت کہتے ہیں۔ یہاں بھی مغیرہ کی روایت ہے اور بہت مختصر۔ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم۔ اس کا وہی لفظ ہے۔ اس کے پچھلے حصہ کو دوہرایا ہے۔ لعدا رفع النبی صلعم وامنہ من الرکوع قال اللہم اجر الوالدین وخوان باب کا تعلق اسی نام سے ہے، وسلمتہ بن هشام وعیاثر بن ابی ربیعۃ۔

(۱۱۱) بَابٌ مِنْ دَعْوَى صَاحِبَةٍ فَتَقْصُصُ مِنْ اسْمِهِ حَرَّوًّا وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ ابْنِ

بِطْلَمٍ جَرَأَيْتُ دَوْمَتُ كِبْرَائِي أَدْرَسَ كَنِيسٍ مِنْ تَمِيمٍ كَرَّ كَرْبَلَةً وَأَبُو حَازِمٍ لَمْ يَرَهُ

هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ (ر) - (۳۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ

بِطْلَمٌ بِحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ (ر) - (۳۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ بَطْلَمٌ

(۱۴۵۶) (ر) - (۳۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ر) - (۳۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ بَطْلَمٌ

أَنْ يُؤَكَّدَ لِلرَّجُلِ (ر) - (۳۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ر) - (۳۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ بَطْلَمٌ

تُرَابِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى (ر) - (۳۴۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ر) - (۳۴۲)

أَبُو حَازِمٍ لَمْ يَرَهُ (ر) - (۳۴۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ر) - (۳۴۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ر) - (۳۴۲)

(۱۴۵۷) بَابُ ابْتِعْضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَنِي لِأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكًا

الْأَمْثَلُ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) - (۳۴۳)

وَقَالَ مَسْرُودٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يُرِيدَ ابْنُ الرِّبْطِ

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)

مجلس بعض وقت
پکارنے میں مخفی
کی خاطر کیا جاتا ہے
مثلاً یا مالک کی
جگہ یا مال اس
میں کسی کی تحقیر
نہیں ہوتی
مجلس یہ تعین کتاب
ان طبع میں موصول
گزر چکی ہے
مجلس یہاں لفظ
یوں ہیں۔ قال
رسول اللہ صلعم
یا عائشہ رضی
میں یا عائشہ ہے
عنوان باب کا
تعین لفظ عائشہ
ہے، ہذا
جہیل یقرئک
السلام قلت و
علیہ السلام و
رحماتہ قالت و
ہریرہ مالہ بنہ
یعنی آپ جہیل
کو دیکھتے تھے مگر ہم نہ دیکھتے تھے، مالک یہاں لفظ یوں ہیں۔ کانت ام سلیم فی النقل رتاع سفر، واجتہد غلام التیم صلعم یسوق بہن فقال النبی صلعم
یا ایحیی و عنوان باب کا تعلق اسی لفظ سے ہے، روید کہ سوتیک بالقرآن و یہاں زیادہ تفصیل سے روایت آئی ہے۔ حال کان النبی صلعم احسن
النام خلیفہ کان لی اخر یقال لہ ابو سعید و عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے یہ چھوٹا بچہ تھا، قال احسبہ فطیمہ (اس کی دودھ پلانے کی مدت ختم ہو چکی تھی،
و کان اذا اجامہ قال یا اباعمیر ما فعل النبی ریبیک جبکہ پہلی کے ساتھ تھی کہ تم جو رہ گئی تھی، تو کان یلعب بہ فریما حضور الصلاة و وہونی بیکننا فیما امر
بالسلاط الذی تھتہ فیکس و روضہ شہ یقیم و تقوم خلفہ فیصلہ بنا۔ املا ابوتراب حضرت علی کی کنیت تھی۔ اور ان الفاظ سے خود آنحضرت صلعم نے ان کو
تعالیٰ طلب فرمایا، جب زمین پر لٹنے کی وجہ سے ان کی بیٹھ پڑی گئی ہوئی دیکھی، عنوان یا باب کا مطلب یہ ہے کہ کنیت عرف باب ہونے کی بنا پر ہی نہیں بلکہ اور
وجہ پر بھی ہو سکتی ہے، تاکہ روایت کے لفظ یوں ہیں۔ قال ان کان حب اسماء علی رضی اللہ عنہ انہ لا ابوتراب وان کان لیفجر ان یعنی
بہا و ما سماہ ابوتراب الا النبی صلعم غاضب یوماً فاظہرہ فخرج فاضطجع الی الجن الی الی اللہ فیما، الہ النبی صلعم یتبہ فقال ہذا مضطجع فی
الجن اظہرہ الہ النبی صلعم و امتلا ظہرہ ترأنا فعل النبی صلعم مسو الذاب عن ظہرہ و یقول اجلس یا ابوتراب، اللہ استکبر حقیقت میں تو جو کل خلق
پر تعریف نام کے ملک یا بادشاہ کا نام بھی حقیقی طور پر لیا جاسکتا ہے لیکن چونکہ وہ عام لفظ میں دئیوی یا شاہ ہوں پر بھی بولا جاتا ہے اسلئے بادشاہوں کا بادشاہ نام صرف
ذات باری کیلئے نزاوار ہے، مالک یہاں لفظ یوں ہیں عن ابی ہریرۃ روایۃ قال اعلم اسم عند اللہ فقال سعید بن جبیر عن سعید بن جبیر عن سعید بن جبیر عن سعید بن جبیر
وہی بملک الاملاک قال سفیان یقول غیبا نفسہ و شامان شاہ۔ مالک یہ تعلق آخر کتاب الکناح میں موصول ہو چکی تھا آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ علی ابوجہل
کی بیٹی سے اس صورت میں نکاح کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دیدیں۔ ابوطالب حضرت علی کے باپ کی کنیت تھی اور وہ حالت مشرک میں ہی فوت ہوئے عنوان باب کا
مطلب یہ ہے کہ کنیت ہی عزت کے نام سے پکلتے ہیں ہرج نہیں۔ مالک قریباً انی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ سولے اسکے کہ بد کے واقف کے بعد یہ فقرہ ہاں آئے
ہے۔ فقہل رسول اللہ صلعم و اصحابہ معہ و ابن غامین مهم اساری من صنادید الکفا و سادۃ قریش۔ اس روایت میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے عبدالممنون
میں اپنی کو جس کے اسلام لانے سے پہلے ذکر کرتے ہوئے اس کو ابوجہل کے نام سے یاد فرمایا۔ عنوان باب سے اس حصہ کا تعلق ہے۔

اور اس کے نام میں سے ایک عرب کو کرنے ملا اور ابو حازم نے ابو ہریرہ سے روایت
کی کہ حجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اباہر
(متکثر - ۲۲۳) (۲۲۳) (۱۱۲) بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَ الْقَبْلِ
و بخیر حدیث ۲۲۳ ملا
یا بطلک بچے کی کنیت رکھنا اور روای اس
(متکثر - ۳۴۲) (۳۴۲) (۱۱۳) بَابُ لَلرَّجُلِ (ر) - (۳۴۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ر) - (۳۴۲) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكَ
و بخیر حدیث ۲۲۳ ملا
یا بطلک ابوتراب کنیت رکھنا
(متکثر - ۳۴۲) (۳۴۲) (۱۱۴) بَابُ ابْتِعْضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
و بخیر حدیث ۲۲۳ ملا
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ ذلیل نام اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اس شخص کا (نام) ہے جو شہتہ نام رکھتا
و بخیر حدیث ۲۲۳ ملا
یا ہلا مشرک کی کنیت
اور سورہ بن مخزم لے گا
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے سولے اسکے کہ ابوطالب کا بیٹا ہے، چاہے غلط
(ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (ر) - (۳۴۳)
و بخیر حدیث ۱۸۹۹ ملا

(م-۳۲۷) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَمْتَكُرُ (۱۷۱) بَابُ الْمَعَارِضِ

دیکھو حدیث ۱۷۱ م ۱۷۱ بابلک کتاب الثبات کرنا

مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِّبِ قَالَ رَأَيْتُ سَمْعَةَ أَسْمَاءَاتِ ابْنِ كَلْبٍ طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ

بھڑ سے بچانے میں وسعت دیتا ہے مصل اور اس نے اس کو سنا کہ ابو طلحہ کا بیٹا کڈ گیا تو پوچھا کہ بچہ

الْغُلَامُ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هَذَا نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَأَحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ

کیا ہے ام سلیم نے کہا وہ بھڑ نہیں مصل اور میں امید کرتی ہوں کہ اس نے آرام پایا اور ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ سچی ہو گیا

(م-۳۲۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م-۳۲۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م-۳۲۸)

دیکھو حدیث ۳۲۸ م ۳۲۸ دیکھو حدیث ۳۲۸ م ۳۲۸

(م-۳۳۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م-۳۳۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م-۳۳۰)

دیکھو حدیث ۳۳۰ م ۳۳۰ دیکھو حدیث ۳۳۰ م ۳۳۰

(۱۲۳۱) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يَبْغِي آتِيَةً لَيْسَ بِشَيْءٍ

۱۲۳۱ بابلک ایک شخص کا کسی چیز کے متعلق کہنا کہ یہ کچھ چیز نہیں اور اس کی نیت ہو کہ یہ سچ نہیں ہے

(م-۳۳۲) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۳۳) بَابُ رَفْعِ الْبَصْرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلُهُ

دیکھو حدیث ۳۳۲ م ۳۳۲ بابلک آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مصل اور لفظ

تَعَالَى أَفْكَارًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقَالَ

تعالیٰ کا قول کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیونکر پیدا ہوا اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیونکر بلند کیا گیا (الفائضہ ۱۷۷-۱۷۸) اور یوں نے

أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَتِ اللَّهُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

حضرت عائشہ سے بتوسط ابن ابی ملکہ روایت کرتے ہوئے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا

(م-۳۳۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م-۳۳۴) بَابُ نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ

دیکھو حدیث ۳۳۳ م ۳۳۳ بابلک

عَنْ عَائِشَةَ (م-۱۰۲) بَابُ نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ

دیکھو حدیث ۱۰۲ م ۱۰۲ بابلک

علا قرینا وہی لفظ ہیں۔ ابو طالب کے نام کی وجہ سے اس باب میں یہ حدیث آئی ہے۔ مصل تعریف ترمذی کے خلاف ہے۔ یعنی اسے الفاظ استعمال کرنا جن سے کوئی اور مننے بھی لے جاسکتے ہوں۔ مصل حد کے معنی میں متنبہ یعنی انسان کو ایک وسعت دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے بچ جائے۔ مصل تعقیق ۶۹ کا ایک ٹکڑا ہے بچخت ہونگ تھا باب باہر سے کام کر کے آیا تو اس رام سلیم نے اس کے دریا ت کرنے پر کہا وہ انفسہ جس کے معنی بھی

ہو سکتے ہیں کہ اسے شکیں ہو گئی ہے اور یہ بھی کہ وہ قوت ہو گیا ہے۔ تباہ و بربادی سے بچنے ہی ہیں۔ اس لئے ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ مصل سچی تو وہ تھیں کیونکہ موت سے بھی بھڑاری دور ہوتی اور شکیں مل جاتی ہے۔ ابو طلحہ نے خیال کیا کہ اس کی مراد وہی ہے جو اس نے سمجھا۔ یہاں عداوت اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مصل یہاں روایت مختصر ہے۔ قال کان اللبیب صلعم فی مسد لہ فعد الحادی فقال اللبیب صلعم اذفن یا اجنحۃ و یحک بالقدادیر و قدواریر کے لفظ کو غور توں کے لئے استعمال کرنا چاہیے اسے تعریف کا ہے، مصل نفاذ یہ ہیں ان اللبیب صلعم کان فی سفوف کان فی سفوف و کان غلام یحد و یمن یقال لہ اجنحۃ نفاذ اللبیب صلعم روید یا اجنحۃ سو تک بالقدادیر قال ابو قلابہ یعنی النساء مصل نفاذ یہ ہیں۔ کان اللبیب صلعم حاد یقال لہ اجنحۃ و کان حسن الصوت فقال لہ اللبیب صلعم روید یا اجنحۃ لا تکسوا لئلا یقول قداۃ یعنی ضعفۃ النساء مصل خفیف اختلاف سے دور آیا ہے۔ قال کان بالحد بیدۃ فزرو فربک رسول اللہ صلعم فرسا لابی طلحۃ فقال ما راینا من شیء وان وجدناہ لبحرۃ مصل یہاں غنوں کا بیشتر حصا و لفظہ اور میں رسال اناس رسول اللہ صلعم عن الکھان فقال لهم رسول اللہ صلعم لیوا بشئ قالوا یا رسول اللہ فانہم یحد فون احیاناً یا بشئ یحدون حقا فقال رسول اللہ صلعم تلك الکلمۃ من الحق یخطئها الجنی فیقرہا بار بار و التا ہے تاکہ وہ اسے محفوظ کرے، فی اذن ولیہ قال اللہ حاجۃ یخطئون فیہا اکثر من مائۃ کنبۃ مصل بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آسمان کی طرف دیکھنے سے انسان کے اندر متذلل اور متضع نہیں رہتا اس کی تردید کی ہے مصل یہاں لفظ یہ ہیں۔ انہ سمع رسول اللہ صلعم یقول ثم فتر علی لابی فینا انا امنی سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری الی السماء و عن ابن باب کتفقی اسی فقرہ سے ہے، فاذا الملك الذی جاد فی ہرۃ قاعد علی کرسی یبارک السماء و الارض مصل یہ مکرر روایت اور الفاظ میں ہے۔ قال بت فی بیت مہیمنۃ و اللبیب صلعم عندہا فلما کان ثلث اللیل الا فرأوا بعضہم قد نظر الی السماء و عن ابن باب کتفقی اسی الفاظ سے ہے، ففران فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لا ولی الا لیباب

ملہ بیان روایت
بت اختصار
آئی ہے۔ انہ
کان مع النبی صلعم
فی حانط من
حیطان الدنیا
وفی بید النبی صلعم
عود یضرب بہ
بین الماد والین
غبار رجل یستفتح
نقال النبی صلعم
افتح و بشوہ بالجنہ
فذاہبت فاذا اذک
ففتحت له و بشوہ
بالجنہ ثم استفتح
رجل اخر فقال
افتح له و بشوہ
بالجنہ فاذا احمر
ففتحت له و بشوہ
بالجنہ ثم استفتح
رجل اخر وكان
مکثنا فیلس فقال
افتح و بشوہ بالجنہ
علی بلوی تصبیح
او تکلون فذہبت
فاذا اعثمان ففتحت
له و بشوہ بالجنہ
فاخبرته بالذی
قال قال الله

(م- ۳۴۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۴۱) (۱۲۰) بَابُ الرَّجُلِ يَفْتُ الشَّيْءَ مُبَدِّدًا
بَابُ نَفْسَانِ كَوْنِي فِي شَيْءٍ مَا تَدْرِي فِيهِ كَيْدُ زَيْنٍ مِنْ مَالِهِ
دیکھو حدیث ۱۶۴۱ ملہ
(م- ۳۴۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۴۰) (۱۲۱) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۴۰ ملہ
(م- ۳۴۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۳۹) (۱۲۲) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۳۹ ملہ
(م- ۳۴۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۳۸) (۱۲۳) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۳۸ ملہ
(م- ۳۴۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۳۷) (۱۲۴) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۳۷ ملہ
(م- ۳۴۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۳۶) (۱۲۵) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۳۶ ملہ
(م- ۳۴۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۶۳۵) (۱۲۶) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْقِسْمِ
بَابُ تَجَوُّبِ كَيْفِ تَقْتِ الشَّرِّ كَمَا رُوِيَ
دیکھو حدیث ۱۶۳۵ ملہ

المستعان ملہ روایت قدسے مختصر ہے۔ قال کنا مع النبی صلعم فی جنازة فخطب بکت الارض یعود وعزوان باب کا تعلق اسی جملہ سے ہے، فقال
یس منکر من احد الا وذن فرغ من معقدہ من الجنۃ والنار فقالوا انلا نکل قال اعلموا کلکم مینوم ما من اعطى والقی الا یہ ملہ خلیف سی کی
بتی ہے استیقظ النبی صلعم فقال سبحان الله ما ذل انزل من الخرائن وما ذل انزل من الفتن من یوقظ صواب الحجریہ بہ از واجہ خط
یصلین رب کاسیۃ فی الدنا عاریۃ فی الاخرۃ ملہ قرینا انی الفاطمین حضرت کو وہر یا ہے۔ فتحدث عنده ساعة کے ساتھ یہاں من العتاکا
لفظ زیادہ ہے۔ و انصار یوں کو جب نبی صلعم نے فرمایا کہ میری میری صفیہ ہے تو انہوں نے کہا سبحان الله عزوان باب کی اسی سے تعلق ہے ملہ یہاں
مضمون زیادہ ہے۔ عن النبی صلعم عن الخذذ وقال انلا یقتل الصید ولا یکتا البعد ولا ینفقار العین ویکتو السن اسکے پچھے حصہ کا مضمون ملہ میں
گذر چکا ہے ملہ چھینک کا جواب یہ ہے کہ چھینکے والے کیسے برکت کی دعا کرے یا کہہ دیکھو حدیث ۲۲۵۵ تسمیت کا اصل شامت خدا کا انام ہے
مکیاں لفظ یوں ہے۔ امرنا النبی صلعم بسبب دعنا ناعن سبعم امرنا بعبادة المریض و ابتاع الجنارة و تسمیت الواطس وعزوان باب کا تعلق اسی جملہ سے
ہے و اجابة الداعی و السلام و نصر المظلوم و ابراد المقسم و دعا ناعن سبعم عن خاتم الذهب او قال حلقہ الذهب وعن لیس الحمر و الدالیہ اجرو
السندس و المیاثر ملہ اس میں کچھ زیادت ہے۔ عن النبی صلعم ان الله عیب العطاس و بکرة التثاؤب فاذا اعطس محمد الله فنج علی کل مسلم سمعہ ان
م یسمیہ و اما التثاؤب فانها من الشیطان فلیردہ ما استطاع فاذا قال ها ضحك منه الشیطان۔ دیکھو نوٹ ملہ صفحہ ۷۷۵

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَطَّ أَحَدٌكُمْ فَلْيَقُلْ أَحْمَدُ لِلَّهِ
 روايت کرتے ہیں کہ فرمایا جب تم میں سے کوئی چھینکے تو وہ الحمد للہ کہے اور اس کا بھائی یا کسی ساتھی

وَلْيَقُلْ لَهُ آخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ
 اس کیلئے پیرحمک اللہ اللہ اللہ اللہ پر رحم کرے کہے جب وہ ان کے لئے پیرحمک اللہ اللہ کے یوں بکہر اللہ و صلوات

يُحْمَدُ لِلَّهِ رَم - ۳۴۳۲۲ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۱۲۸) بَابُ
 بائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہاری حالت سنو کہے بابت جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے

إِذَا تَنَأَوَّبَ فَلْيَضْمَعْ يَدَاكَ عَلَىٰ فِيهِ (م - ۳۴۳۳۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م تکرر - ۲۲۵۲) بَابُ
 جب جہان سے تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھے دیکھو حدیث ۱۳۸۶ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللہ بے شمار حمد والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۹۔- كِتَابُ الْإِسْتِذَانِ

اجازت مانگنے کی کتاب

(۱) بَابٌ بَلَدٌ وَالسَّلَامُ (م - ۳۴۳۳۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م تکرر - ۱۵۰۰)
 بابت سلام کی ابتدا دیکھو حدیث ۱۵۰۰ م

(۲) بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَخَلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 بابت اللہ تعالیٰ کہ قول اسے لوگو جو ایمان لاتے ہو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھر میں نہ جاؤ

حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا أَوْ تَسَلِّمُوا عَلَيْهَا أَوْ تَحَدَّثُوا بِهَا مِنْ يَمِينِهَا
 یہاں تک کہ تم اجازت سے کہو اور اس پر سلام کہو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
 پس اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں نہ جاؤ یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے اور اگر تم سے کہا

ارْجِعُوا فارجعوا هو آذنى لكم والله بما تعملون عليكم ليس عليكم جناح إن
 جانے کہ روٹ جاؤ تو لوٹ آؤ یہ تمہارے لئے زیادہ ہے اور پوچھو کہ تمہارے لئے جس سے جان بچا جائے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تمہارا بیدار

تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
 گھروں میں داخل ہو جو میں تمہارا سامان ہو اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور اللہ جانتا ہے

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَ
 اور سعید بن ابی الحسن نے حسن سے کہا کہ عجم کی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھلا رکھتی تھیں

اللہ ہی نطق میں صرت تفصیل اللہ کی جگہ ہے فقال الرجل یا رسول اللہ شئت لهذا ولم تستفتی
 اس کا سرفزون م ۳۴۳۱ م کی طرح ہے لفظ میں یہ ہے
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب العطاء ویکره العطاؤا فاذا اعطى احدکم وحمد اللہ کان حقاً علی کل مسلم سمعه ان یقول له بسم اللہ واما التناوب فانها من الشیطان فاذا یتناوب احدکم فلا ینا مستطوع فان احدکم اذا تنأوب ضحك مند الشیطان
 یہاں تک ہی حدیث ہے
 الفاتحہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ ادم علی صورۃ وہ وہ لفظ علی صورۃ ہستہ میں نہیں ڈھیر آدم کی طرف جاتی ہے آدم کو یہی صورت پریدہ کہا یعنی بشر
 م ۱۳۸۶ م

کمال اور اگر تمہارے ارد گرد انہی کی طرف لیا جائے تو مراد ہوگی علی صفتہ کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ کمال لفظ منسوب نہیں ہو سکتا اور مراد ہوگی کہ اللہ نے اس میں اپنی صفات رکھی ہیں یعنی ناقص طور پر پہلے استون ذرا غالباً خلقه قال اذہب فلیسزل اولئك الغرور الملاکۃ کما جلوس فاستقم ما یجیونک فانها یجئک الذمۃ تدرک فقال السلام علیک فقالوا السلام علیک رحمۃ اللہ بڑا دودہ در رحمتہ اللہ نکل من یدخل الجنة علی صورۃ ادم فلیزل الخلق ینقص روحہ حتى الاکان اس پر پریش کے لئے کیجئے وہ علی صفتہ ۲۰۰۰ گھروں میں داخل ہونے کے لئے اجازت مانگنے کے متعلق آیت قرآنی کو پیش کرتا ہے جس میں یہ حکم بالبراعت موجود ہے
 لفظ امر واقع ہے اور اسی نے اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا وہ لہذا ہمیں بخیر ہیں علیٰ جمیعہم کہ سینے اور سر ڈھکے رہیں

رُؤسُهُنَّ قَالِ اصْوَفُ بَصَرِكُ عَنْهُنَّ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْضُوا

تو کہا کہ تم اپنی نگاہ ان سے پھیر لو اور عورتوں کو نظر سے بچھڑانے سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نبی

مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا اَفْرو وَجْهَهُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ عُمَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ

رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور قنادہ نے کہا یعنی اس کی حفاظت کریں جو ان کے لئے جائز نہیں ہے

يَعْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ خَائِئِنَّا اَلَا عَيْنٌ مِّنَ النَّظْرِ اِلَى

اور عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نبی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اور انور (۳۱) خائنا اے عین جس سے

مَا نَهَى عَنْهُ وَقَالَ لُذْهَرِيُّ فِي النَّظْرِ اِلَى النَّبِيِّ كَمْ تَحْضُ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَصْمُرُ

حفاظت ہے اس کی طرف دیکھنا اور زہری نے اس عورت کی طرف دیکھنے کے بارے میں کہا جس کو جیسا نہ آیا ہو کہ ان کے کسی ایسے مقام کی

النَّظْرُ اِلَى شَيْءٍ مِنْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ لِّتَنْظُرَ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَكَرِهَتْ عَطَاءُ

طرف دیکھنا مناسب نہیں جس کی طرف دیکھنے کی تو اس کی بانی ہو گو وہ چھوٹی ہو عطا اور عطا نے ان کو نظر کرنا

النَّظْرُ اِلَى جَوَارِيٍّ يَبْعَثُ بِمَكَّةَ اَلَا اَنْ يُّرِيدَ اَنْ يُّشْتَرِيَ (م- ۳۲۷۵)

کی طرف دیکھنے کو نہ پسند کیا جو مکہ بھیجی جاتی تھیں سوائے اس کے کہ وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو

حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۸۱۱) (م- ۳۲۷۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ

دیکھو حدیث ۸۱۱

(متكرر- ۱۱۴۶) (م- ۳۲۷۷) بِأَنَّ السَّلَامَ اسْمُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَأَى أَحْيَيْتُمْ

دیکھو حدیث ۱۱۴۶ باطل السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور جب تم کو سلام یاد دلا

بِتَجْيِئَةٍ فَحَمُّوْا بِأَخْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّوْهَا رَهْ (م- ۳۲۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

کے ساتھ سلام کیا یاد عادی چلنے تو اس سے بتر کے ساتھ تم سلام کرو یاد عادی یا کسی کو لوٹا دو اور انبار (۸۶) دیکھو حدیث ۵۱

(م- ۳۲۷۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں نبی رکھنے کا حکم دیا۔ اگر عورت کے منہ پر نقاب ہو تو نظر نبی رکھنے کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے اور مسلمان آبادی کے اندر مردوں کے لئے بھی نظر نبی رکھنے کا حکم بے معنی ہو جاتا ہے۔ خط بخاری کے ایک عنوان باب میں کتاب الادلہ میں گذر چکا ہے کہ چھوٹی روکی کو بوسہ دینا منع نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں شرم پوشی پیدا نہیں ہوتی جس حفاظت صرف اس صورت میں ہے جس شرم پوشی ہونے کا احتمال ہو۔ خط بیان وایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ قال اردت رسول الله صلعم سلم

صلعم الفضل بن عباس يوم انخرخلفه على عجزه رجعوا حاصرا واحدا وكان الفضل رجلا وضيقا خروبريا فوقف النبي صلعم للناس فيعتهم واقبلت امرأة من خثعم وضيفة تستبغ رسول الله صلعم فطفت الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفت النبي صلعم والفضل ينظر اليها فاختلف بينهما رسول الله صلعم نهما لانهما لا يجيبان فخرجوا فاذن الفضل فعدل وجهه عن النظر وعثمان باب كما اسى من تعفن عيسى عورت کے لئے ہر کھل کھٹا جائز تھا مگر مرد کے لئے ایسی صورت میں اس کی طرف دیکھنا جائز نہ تھا۔ کیونکہ یہاں ہے۔ فاعجبہ حسنہا اور پھر لوگ اسے دیکھتے کسی کو منع نہیں کیا، ایسا نکالت یا رسول الله ان فریضة الله فی الحج علة عبادہ اور کت ای شیئا کبیرا لا یستطیع ان یستوی علی الرحلة فهل یقضی عنہ ان الحج عنہ قال نعم بل کثر قریباً انی لافانہم حدیث کور و ہر یا ہے، اگر دست پر پیشیں تو اس کے حقوق میں سے غض بصوبہ آتی جاتی عورتوں کو تاؤں میں نہ ہے اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے۔ لکن اذا صلعتا مع النبی صلعم فلنا السلام علی اللہ قبل عبادہ اس کے بعد کہ لفظ ہی میں۔ مرت آخر پر شہد کے بعد یہ لفظ بڑھنے میں تم بخیر من الکلام ما شافا اس کے بعد وجود ما ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ التیام میں بھی نماز پڑھنے والا دعا کے بعد وجود ما ہے کہ اس سے

۱۴۰۰ کے لفظ ۳۲۷۸ کے ہیں

(۷) بَابُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى لِكَيْلٍ (م- ۳۷۵۰ ح- ۳۲۵۰) اَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكْوِّرًا ۲۲۵۶)

بَابُ چھوٹے کا بڑے کو سلام کرنا
دیکھو حدیث ۲۲۵۶

(۸) بَابُ إِفْتَاءِ السَّلَامِ (م- ۳۷۵۱ ح- ۳۲۵۱) الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (مُتَكْوِّرًا ۶۷۰)

بَابُ سلام کو رواج دینا
دیکھو حدیث ۶۷۰

(۹) بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرُوفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرُوفَةِ (م- ۳۷۵۲ ح- ۳۲۵۲) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكْوِّرًا ۱۱۰)

بَابُ سلام کرنا خواہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو

(مُتَكْوِّرًا ۱۱۲) (م- ۳۷۵۳ ح- ۳۲۵۳) ابِي أَيُّوبَ (مُتَكْوِّرًا ۲۲۳۰) (۱۰) بَابُ آيَةِ

دیکھو حدیث ۱۱۲
بَابُ آیت کی

الْحِجَابِ (م- ۳۷۵۴ ح- ۳۲۵۴) ابْنِ مَالِكٍ (مُتَكْوِّرًا ۱۹۵۴) (۱۱) ح- ۳۲۵۵) ابْنِ

آیت
دیکھو حدیث ۱۹۵۴

(مُتَكْوِّرًا ۱۹۵۷) (م- ۳۷۵۶ ح- ۳۲۵۶) عَائِشَةَ (مُتَكْوِّرًا ۱۲۷) (۱۲) بَابُ الْأَسْتِذَانِ

دیکھو حدیث ۱۲۷
بَابُ اجازت مانگنا نظر کرنا

مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ (م- ۳۷۵۷ ح- ۳۲۵۷) سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكْوِّرًا ۲۱۹۶) (۱۳) ح- ۳۲۵۸) ابْنِ

کے لیے
دیکھو حدیث ۲۱۹۶

ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَهُ مِنْ بَعْضِ حُجُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كُنِيَ يَنْظُرُ فِي

سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حجرے میں سے جھانکتا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِقْصٍ أَوْ بِمَشَاقِصٍ نَكَاهُ أَنْظُرًا لِئَلَّا يَخْتَلُ الرَّجُلُ بِطَعْنِهِ (۱۴)

تیرے کا پہل بیکر اس کی طرف اٹھے تو یکر اس آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ آپ سے حیرت رکھتا ہے تاکہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ

بَابُ زَنَا الْجَوَارِحِ رَدُّونَ الْقَرُونَ (م- ۳۷۵۸ ح- ۳۲۵۸) ابْنِ حَبَّابٍ (مُتَكْوِّرًا ۲۲۵۸)

بَابُ شرکاء کے علاوہ روجہ افتاء کا زمانہ
دیکھو حدیث ۲۲۵۸

اللَّهُ صَلَّى الْمَدِينَةَ فَخَدَّتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا أَحْيَا تَبَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسَ بِشَانِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزَلَ وَقَدْ كَانَ ابْنُ

ما نزل فی مینتے رسول اللہ صلعم بزینب بنتہ محش اصعب النیبے صلعم ہا عروسا ذذ آ القوم فاصابوا من الطعام ثم خرجوا رقیی متهم دھڑ عتہ

رسول اللہ صلعم فاظالوا المكث تقام رسول اللہ صلعم فرجہ ورجعت معہ کی جو حوافتھ رسول اللہ صلعم ومشیت معہ حتہ جا عقبہ حجرة عائشة

ثم ظن رسول اللہ صلعم انهم خرجوا فرجہ ورجعت معہ حتہ دخل علی زینب فاذا هم جلوس لم يتفرقوا فرجہ رسول اللہ صلعم ورجعت معہ حتہ

يلق عتبة حجرة عائشة فلظن ان قد خرجوا فرجہ ورجعت معہ فاذا هم قد خرجوا فانزل آية الحجاب فنصوب بيبتي وبينه سترا منك يا ايها النبي

اخصر ربي. لعلنا تزوج النبي صلعم زینب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فاخذوا كانه يتما للقيام ثم ريموا لئلا يزالوا تام فلما قام

تام من قام من القوم وقد بقتة القوم وان النبي صلعم جاء ليدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم تاوان نطقة وان اخبرت النبي صلعم فالحجاب

حتى دخل فذهب ادخل فالنبي الحجاب بيبتي وبينه وانزل الله تعالى يا ايها الذين آمنوا انزلوا من فوق الالباب الالمانية اليكم

يا ايها النبي صلعم انزلوا من فوق الالباب الالمانية اليكم في الحجاب قال عروسة انك يا سودة حردا

علي ان ينزل الحجاب قالت فانزل الله عز وجل آية الحجاب. المعنى غرض اجازت طلب کر کے اذر جانے کی یہ ہے کہ صاحب مکان کو اپنی عورت

میں اس کے نقشہ
۲۲۵۶ کے ہیں
نفاذ قریب
دی بی اے السلام
کی نگہ افتاء السلام
تھے اسی سے
نیز ان باب عروہ
کے یہی لفظ ہیں
میں کیا ہیں
عن النبی صلعم
قال لا یحل المسلم
ان یلمح اعضاءه
فقط بل یستغیر
نیز ہذا اویس
ہذا وغیرہا
الذی یسبوا
بالسلام وذا
سقیان اذ صعد
منہ ثلثات مرات
۵ کر روایت
اخصرا وکی شی
کے آئی ہے
کان ابن عبید
سین مقدم رسو

میں اس کے نقشہ
۲۲۵۶ کے ہیں
نفاذ قریب
دی بی اے السلام
کی نگہ افتاء السلام
تھے اسی سے
نیز ان باب عروہ
کے یہی لفظ ہیں
میں کیا ہیں
عن النبی صلعم
قال لا یحل المسلم
ان یلمح اعضاءه
فقط بل یستغیر
نیز ہذا اویس
ہذا وغیرہا
الذی یسبوا
بالسلام وذا
سقیان اذ صعد
منہ ثلثات مرات
۵ کر روایت
اخصرا وکی شی
کے آئی ہے
کان ابن عبید
سین مقدم رسو

قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ (م- ۳۴۷۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (م- ۱۳۸۶) (۲۷) بَابُ

کراچے سرور کی طرف اٹھو
دیکھو حدیث ۱۳۸۶

المصافحة وقال بن مسعود وعلمني النبي صلى الله عليه وسلم التَّشَهُدَ وكفي

مصافح کرنا تھا اور ابن مسعود نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

بين كفيته وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه

آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی اور کعب بن مالک نے کہا میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں

وسلم فقام إلى حليته بن عبد بن عمرو بن لحي حتى صاح حتى وهتأني (۲۳۶۲)

میرے طرف تھیں عبید اللہ اور دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی

عن قتادة قال قلت لانس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه

قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ فرماتے تھے

وسلم قال نعم (م- ۳۴۷۳) عن عبد الله بن هبش (م- ۱۶۳۹) (۲۸) بَابُ

ابنوں نے کہا ہاں
دیکھو حدیث ۱۶۳۹

الاخذ باليدين وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه (م- ۳۴۷۴)

دونوں ہاتھوں کو پکڑنا اور حماد بن زید کے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا

عن ابن مسعود (م- ۵۰) (۲۹) بَابُ الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلُ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

دیکھو حدیث ۵۰

(م- ۳۴۷۵) عن علي بن حكيم (م- ۱۸۶۶) (۳۰) بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ

دیکھو حدیث ۱۸۶۶

(م- ۳۴۷۶) عن معاوية (م- ۱۳۲۰) (۳۱) بَابُ مَنْ أَجَابَ بِذِي زُرٍّ (م- ۱۵۲)

دیکھو حدیث ۱۳۲۰

دیکھو حدیث ۱۵۲

یہاں بھی تشہد سکھانے کا ذکر ہے مگر اور الفاظ ہیں۔ علقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بین کفیه رضوان باب کا تعلق اسی سے ہے یعنی میرا ہاتھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، التَّشَهُدَ کہنا یعنی السورۃ من القرآن الحیات واللوات والطبیات السلام
علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہن السلاطین وعلیٰ عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبیدہ ورسولہ وھو
بین ظہرنا یتذنا فقبض قلنا السلام یعنی علی النبی صلعم، ملا قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جب صحیح رسول اللہ صلعم
قال امیر محمد اللہ باز ما فاخذ بیدہ العباس فقال لا اتراب انت والله بعد الثلاث عبد الصما والله انی لا اری رسول اللہ صلعم سبتونی فی وجہہ وان لا اخرجت
فی وجہہ دنی عبد الملک العتق فاذهب بالی رسول اللہ صلعم فمسأله فہم یقولن الا سرفان کان فینا علمنا ذلک وان کان فی غیرنا امرناہ فاوصی
بنأ قال علی والله لئن سألنا ہذا رسول اللہ صلعم فیہدنا لا یعطینا ہا الناس ابدان انی لا اسالہا رسول اللہ صلعم ابن امیہ لبت بالکان کے
سنتے ہیں اقام رہے اسی سے لبت کے سنے ہیں انامقیم علی طاشتک میں تیری فراہم رہا، ی پر قائم ہوں۔ لبت کو تشہد رکھنے کرنے سے مراد ہے اجابت
بعد اجابت اور اس میں دوام علی الخاۃ کا اظہار ہے اور سعد بن ابی وقاص سے مراد ہے سعادت طاعتک سعادتہ دون صدقہ ہے کہ خفیف سی تغیر لفظی ہے وہ لبت
ہے۔ قال انارہ یعت النبی صلعم فقال یا معاذ قلت لبتک وسعد بن ابی وقاص قال مثلہ ثلثا اهل تدری ما حق اللہ علی العباد ان یصدقوا ولا یشکوا بہ شیئا
ثم سار سارۃ فقال یا معاذ قلت لبتک وسعد بن ابی وقاص قال مثلہ ثلثا اهل تدری ما حق اللہ علی العباد ان یصدقوا ولا یشکوا بہ شیئا
تفہیل سے بیان کیا ہے، سعد ثنا والله احدی الزینۃ رجاہ ابو ذر کو نظر بند کیا تھا، قال کنت امشی مع الخبیر صلعم فی حرقۃ المدینۃ عشاء استقبلنا
احد فقال یا ابا ذر ما احب ان احدا انی ذہباً یا علی لیلۃ او ثلاث عندی منہ دینار الا اصدہ لبت ان ان اقول بہ زرعہ کروں، فی عباد اللہ ہلکنا
وہلکنا اذ ہلکنا وانا تائبینہ کہ تم قال یا ابا ذر قلت لبتک وسعد بن ابی وقاص سے ہے، یا رسول اللہ قال الاکترون ہم الاقلون (الا من قال
ہلکنا وہلکنا) تم قال لی ہلکنا لا تبرح یا ابا ذر حتی ارجع فانطلق حتی غاب عنی فسمعت صوتا خشیت ان یكون عرض لرسول اللہ صلعم فاودعت ان

اذہب ثم وکوت قول رسول اللہ صلعم لا تبرح فمکثت قلت یا رسول اللہ سمعت صوتا خشیت ان یكون عرض لک ثم وکوت قرأت ففکت (باقی صفحہ ۱۲۰۶)

<p>(۳۱) بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ر- ۳۷۴۸ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَتَكْرَمًا بَابُ كَوْنِ شَخْصٍ دَرَسَ مِنْ شَخْصٍ فِي مَجْلِسِهِ</p>	<p>بقیہ صفحہ ۱۴۰ نقال النبی صلعم ذاک حدیث علی ثانی</p>
<p>(۳۲) ۳۷۴۹ بَابُ إِذَا قِيلَ لَكَ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا لِيَقْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ بَابُ جَبِّ تَبِيبٍ كَمَا يَكُونُ فِي مَجْلِسِ كِتَابٍ يُوَاجِدُ</p>	<p>فاخیری اندمن مات من امتی لا شیک با اللہ</p>
<p>(۳۳) ۳۷۴۹ بَابُ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا لِيَقْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ بَابُ جَبِّ تَبِيبٍ كَمَا يَكُونُ فِي مَجْلِسِ كِتَابٍ يُوَاجِدُ</p>	<p>شیا داخل الجزیة قلت یا رسول اللہ وان زنی وان</p>
<p>(۳۴) ۳۷۵۰ بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَحْمَابَهُ أَوْ تَهْنِئًا لِلْقِيَامِ بَابُ جَوَابِ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>سوق قال وان ذنی وان سوق قلت لربی انہ یفخ</p>
<p>(۳۵) ۳۷۵۱ بَابُ لِيَقْوَمَ النَّاسُ ر- ۳۷۵۰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَتَكْرَمًا (۳۷۵۱) بَابُ تَاكْرُوكِ الْاَهْلِ جَانِبِ</p>	<p>قلت لربی انہ یفخ انما بالرداء عقل اشهد تحذیرہ</p>
<p>(۳۶) ۳۷۵۲ بَابُ الْاِحْتِیَابِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقَدْ فُضِّئَ ر- ۳۷۵۲ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَابُ تَقْوَمِ النَّاسِ</p>	<p>ابو ذر بالربینة روفی رواية عن ابی الدرداء نحوہ</p>
<p>(۳۷) ۳۷۵۳ بَابُ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَاءُ الْكُعبَةَ فَحَسْبًا بِيَدِهِ هَكَذَا (۳۷۵۳) بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>روفی رواية عن ابی الدرداء نحوہ روفی رواية بکث</p>
<p>(۳۸) ۳۷۵۴ بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>سند فوق ثلاث صفحہ ۱۴۱ علی یاں نظیر</p>
<p>(۳۹) ۳۷۵۵ بَابُ وَهُوَ مَتَكْرَمٌ بَرْدٌ قُلْتُ اَلَا تَدْعُو اللَّهَ فَتَقْدَرُ ر- ۳۷۵۵ عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>ہیں عن النبی صلعم قال لا یقیم الرجل الرجل من</p>
<p>(۴۰) ۳۷۵۶ بَابُ مَتَكْرَمٌ (۳۷۵۶) بَابُ مَتَكْرَمٌ ر- ۳۷۵۶ عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>من مجلسہ ثم یجلس فیہ علی یاں روایت</p>
<p>(۴۱) ۳۷۵۷ بَابُ عَقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ر- ۳۷۵۷ (۳۷۵۷) بَابُ الشَّوْشِرِ ر- ۳۷۵۷ بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>یوں ہے عن النبی صلعم انہ یخفی ان یقام الرجل</p>
<p>(۴۲) ۳۷۵۸ بَابُ عَنْ عَائِشَةَ ر- ۳۷۵۸ (۳۷۵۸) بَابُ مَنْ أَلْفَى لَهُ وَسَادَةً بَابُ مَنْ يَسْتَعِزُّ بِكَلِمَةٍ يَأْتِي بِهَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ</p>	<p>من مجلسہ وحیالہ فیہ اخرولکن یفتحو و توسعوا و کان</p>

بقیہ صفحہ ۱۴۰
 نقال النبی صلعم
 ذاک حدیث علی ثانی
 فاخیری اندمن
 مات من امتی
 لا شیک با اللہ
 شیئا داخل الجزیة
 قلت یا رسول اللہ
 وان زنی وان
 سوق قال وان
 ذنی وان سوق
 قلت لربی انہ یفخ
 انما بالرداء عقل
 اشهد تحذیرہ
 ابو ذر بالربینة
 روفی رواية عن
 ابی الدرداء نحوہ
 روفی رواية بکث
 سند فوق ثلاث
 صفحہ ۱۴۱
 علی یاں نظیر
 ہیں عن النبی
 صلعم قال لا یقیم
 الرجل الرجل من
 من مجلسہ ثم
 یجلس فیہ
 علی یاں روایت
 یوں ہے عن النبی
 صلعم انہ یخفی
 ان یقام الرجل
 من مجلسہ وحیالہ
 فیہ اخرولکن یفتحو
 و توسعوا و کان

فیہ اخرولکن یفتحو و توسعوا و کان ابن عمر یقول ان یقیم الرجل من مجلسہ ثم یجلس مکانہ علی یاں روایت کن قدر اختصار سے آتی ہے۔ لما تزوج رسول اللہ صلعم زینب ابنتہ حمش دعا الناس طہبوا ثم جلسوا یتحدون قال فاخذ کاہہ تہنئًا للقیام فلم یقوموا فلما رأى ذلک قام فلما قام قام من تمام محہ من الناس وبقی ثلاثۃ وان النبی صلعم جاء لیدخل فاذا النجوم جلوس ثم انہم قاموا فانطلقوا قال فبیت فاخیرت النبی صلعم انہم قد انطلقوا فاجاء حتى ادخل فنہدت ادخلت فی الخیمات بدینہ وبنیہ وانزل اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا لا تنخلوا بیوت النبی الا ان یدون لکم الی قولہ ان ذلکم کان عند اللہ عظیما ملک فرضاہ خاص لمن یرتبطنا بہ حب یرین یرتبطنا ہو یعنی ہاتھوں سے گسٹوں یا پٹریوں کو اس طرح پکڑنا کہ گھڑی کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ احتیاب بھی یہی ہے اور احتیاب عربی کلمہ ہے اسی طرح اپنے آپ کو یا نہ لینا ہے۔ عقیقہ کے پتے نصف حرقی والوالدین تک م ۳۷۵۸ میں اور پچھلے نصف کو م ۳۷۵۶ میں بیان کیا ہے۔ عقیقہ کا ذکر پچھلے نصف میں ہے۔ عقیقہ کی روایت بہت تفسیر ہے۔ قال صلعم النبی صلعم العفو فاسرع ثم دخل البیت جس ضرورت یا ارادہ سے گئے تھے اس کا ذکر اگلے نصف میں ہے۔ سونا تھا اسکو فوراً تقسیم کر دینا چاہئے تھے۔ ملک کا

میں سریکا کہ نہیں اور میں ہی فرق ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلعم یصلی وسط النبی ویرطان من مضجعتہ وینہ وین القبلة تكون لہ الحاجة فاکرہ ان یقوم فاستقبلہ فاقبل

(م- ۳۲۸۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ رَمَتَكَ (م- ۳۲۸۴) عَنْ

دیگر حدیث ۳۲۸۵

عَلَقَةَ رَمَتَكَ (م- ۳۲۸۴) بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (م- ۳۲۸۴)

باب جمع کی نماز کے بعد سونا

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَمَتَكَ (م- ۵۵۳) بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

باب مسجد میں سونا

(م- ۳۲۸۸) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَمَتَكَ (م- ۳۲۸۷) بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا

دیگر حدیث ۳۲۸۸

نَقَالَ جَدُّهُمْ ۳۲۸۳ رَحِمَنُ أَنْ أَمْرٌ سَلِمَ كَأَنْتَ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جائے اور ان کے پاس دو پہر کو جانا اس سے روایت ہے کہ ام سلمہ نبی صلعم کے لئے بھجوانا چاہا یا کرتی تھیں

نَطْعًا فَيُقْبَلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نواہ ان کے پاس اس کھوپڑے پر دو پہر کو سو جا کر تھے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوجاتے

أَخَذَتْ مِنْ عَرْقِهِ وَشَعْرَةٍ فَجَدَّتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سَكِّ قَالَ فَلَمَّا

تو وہ انکی پسینہ اور کچھ بال بھی لیا اسے اس کے پیشانی میں جمع کرتی پھر اسے خوشبو کے ساتھ جمع کرتی کہا جب اس

حَضَرَ أَسْبَنُ بْنُ مَالِكٍ الْوَفَاءُ أَوْحَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنْوِطِهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ قَالَ

بن مالک کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے کفن کی خوشبو میں اس خوشبو سے کچھ ملا لیا جائے اس نے کہا

فَجَعَلَ فِي حَنْوِطِهِ (م- ۳۲۹۰) عَنْ أَسْبَنُ بْنُ مَالِكٍ (م- ۱۲۸۶) بَابُ

تو وہ ان کے کفن کی خوشبو میں ڈالی گئی دیگر حدیث ۱۲۸۶

الْجَلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ (م- ۳۲۹۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَمَتَكَ (م- ۳۲۹۰)

بیسابھی میسر ہو بیٹھا جاتا دیگر حدیث ۳۲۹۱

(۳۳) بَابُ مَنْ نَابِحِي بَيْنَ يَدَيْ لِقَائِهِ مَنْ لَمْ يَخْرِجْ سِيْرًا حَيْثُ فَادَا مَا تَأَخَّرَ بِهِ

باب کسی جو لوگوں کے سامنے راز کی بات کرے اور چاہے ساتھی کے راز کی خبر کسی کو نہ دے جب وہ فوت ہوئے تو اسکی خبر دے

اس میں روایت
اخلاف الفاظ سے
آئی ہے ان النبی
صلعم ذکر لہ صوری
نذاخل علی نالقیہ
لہ وسادۃ رعنون
باب سے اسی
حصہ کا تعلق ہے
من آدم حشوہا
لیف فجلس علی
الارض وصارت
الوسادۃ مینی
دینہ فقال لی
اما کیفک من کل
شهر ثلاثۃ ایام
قلت یارسول
اللہ یعنی میرا
سے زیادہ طاقت
رکھتا ہوں، قال
خمساً قلت یارسول
اللہ قال سبعاً
قلت یارسول اللہ
قال تسعاً قلت یا
رسول اللہ قال
احدا عشرۃ قلت
یارسول اللہ

قال لا صوم فوق صوم داؤد بشرط الیہ صیام یوم واضطار یوم، مطلقاً روایت غنیف اختلاف الفاظ سے آئی ہے، ذہب علقۃ الی الشام
فاتی المسجد فضلیہ رکعتین فقال اللہم ارضقنی جلیساً فقدن الی ابن الدرداء فقال من انت قال من اهل کوفۃ قال الیس فیکر صاحب السور
الذی کان لا یصلیہ غیرہ یعنی حنیفۃ الیس فیکر او کان فیکر الذی اجارہ اللہ علی لسان رسولہ صلعم من الشیطان یعنی حمار او اولیس
فیکر صاحب السواک والوسادۃ رعنون باب کا تعلق اسی لفظ سے ہے، یعنی ابن مسعود کہ یہ کان عبد اللہ یقرأ واللیل اذا لیضتہ قال ف
الذکر والاکاشی فقال ما زال ہلوا حتی کا داؤد بیکوئی وقت سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلقاً روایت محقر ہے۔ قال
کنا نقول بنتغنی بعد الجمعة، مطلقاً ابتدا میں اس قدر زیادہ ہے قال ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب وان کان لیغیرہ به اذا
دعی بہذا اس کے پورے لفظ میں اس میں ذکر ہے کہ حضرت علی دو پہر کے وقت مسجد میں جا کر سونگے، پھر پینہ اس وقت لیتیں جب آپ
سوئے، بال جو گنگھی کرتے وقت چھوڑتے وہ لے لیتیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے سنی میں بال منڈولے تو ابو طلحہ نے وہ بال لے
لئے اور وہ لاکرام سلیم کو دے دیئے، اور انہوں نے وہ خوشبو میں رکھ لئے، ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، مطلقاً حدیث کو قرینا منی
الفاظ میں دوہرایا ہے، لیکن شروع میں یوں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الی قیاد یدخل علی ام حوام، مطلقاً اس قیاد
کا ذکر نہیں، اور وحیث تعلقی راسہ میں چھوڑ دیا ہے، مطلقاً ابو ہریرہ کی روایت اور م ۳۲۳ ابو سعید خدری کی روایت کا سنہون
ایک ہے، میں لفظ یہ ہیں، قال نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین وعن بیعتین اشتمال الصماء والاحتباء فی ثوب واحد
لیس علی فرج الانسان منه شیء، والاملاسة والمنابنۃ

(۴۸) بَابُ طَوْلِ الْجَوَائِدِ وَرَأْدِهِمْ فُجْوَى مَصْدَرٍ مِّنْ تَأْجِيَتْ فَوْصَفَهُمْ بِهَا

باب طویل جوائید اور اذہم فجوئی مصدر من تا جیت فوصفہم بہا

وَالْمَعْنَى يَكْتَابُونَ (۴۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۴۸) بَابُ كَلَامِ

اور معنی ہیں وہ خطیر شہر کرتے ہیں دیکھو حدیث ۴۸ ۴۹

تَتْرَكَ النَّارَ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ التُّورَمِ (۲۲۶۷) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تترک النار فی البیت عند التورم ۲۲۶۷ ابن عمر عن النبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرُكُوا النَّارَ فِي بَيْوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (۲۲۶۸) عَنِ

علیہ وسلم قال لا تروکوا النار فی بیوتکم حین تنامون ۲۲۶۸

أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَرِقُ بَيْتِي بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهَا مِنَ اللَّيْلِ

ابو موسی رضی اللہ عنہ قال احترق بیتی بالمدينة علی اہلہا من اللیل

فَحَدَّثْتُ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا النَّارَ رَأْسُهَا هِيَ

فحدثت بشانہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا النار رأسہا ہی

عَدُوٌّ لَّكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَاطْفِئُوهَا عِنْدَكُمْ (۴۹) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عدو لکم فاذا رايت فاطفئوها عندکم ۴۹ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ

عَنْهُ (۵۰) بَابُ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ (۴۸) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عنہ ۵۰ باب اغلاق الابواب باللیل ۴۸ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ

عَنْهُ (۵۱) بَابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَتَنْفِ الْأَبْطُرِ (۴۹) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

عنہ ۵۱ باب الختان بعد الکبر و تنفی الابطر ۴۹ ابو ہریرہ

(مُتَكَوِّرًا) (۲۱۹) (۵۰) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۵۸) (۲۲۶۸) عَنِ

متکور ۲۱۹ ۵۰ ابو ہریرہ متکور ۱۵۸ ۲۲۶۸

سُعَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

سعيد بن جبیر قال سأل ابن عباس مثل من أنت حین قبض النبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَا مَعْزَنُ سَخَنُونَ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتَنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يَذْبُوهُ

علیہ وسلم قال اما یا معزن سخنون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يذبه

رَوَى فِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِنٌ

روی فی روایت عن ابن عباس قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأنا ختن

(۵۲) بَابُ كُلِّ نَهْوٍ بِأَطْلٍ إِذَا شَغَلَهُ سُخْنٌ طَاعَةَ اللَّهِ وَهِيَ قَالُ لِمَا جَمَعَ

۵۲ باب کل نہوی باطل إذا شغله سخن طاعة اللہ و ہی قال لما جمع

أَقَامَرَكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اقامرک وقولہ تعالی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل اللہ

جَزَاءً لِكَيْلِهِمْ أَوْ شَرَّ تَعَالَى كَقَوْلِهِمْ أَدْرَأُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ لِيَسْأَلَ بَعْضٌ مِنْكُمْ

جزاء لکیلہم او شر تعالی کقولہم ادراکم من ارضکم لیسأل بعض منکم

بِاللَّيْلِ إِذْ أَرَقَدْتُمْ وَمَا ظَنَّمُوا لَاحِقًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ إِذْ تَبَوَّءُوا لِنَفْسِهِمْ

باللیل إذ ارقدتم وما ظنموا لاحقًا علیہم من العذاب إذ تبوؤوا لنفسہم

أَقَامَرَكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اقامرک وقولہ تعالی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل اللہ

بِاللَّيْلِ إِذْ أَرَقَدْتُمْ وَمَا ظَنَّمُوا لَاحِقًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ إِذْ تَبَوَّءُوا لِنَفْسِهِمْ

باللیل إذ ارقدتم وما ظنموا لاحقًا علیہم من العذاب إذ تبوؤوا لنفسہم

أَقَامَرَكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اقامرک وقولہ تعالی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل اللہ

۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰

۲۱۹۲

۲۱۹۱

۲۱۹۰

۲۱۸۹

۲۱۸۸

۲۱۸۷

۲۱۸۶

۲۱۸۵

۲۱۸۴

۲۱۸۳

(۵۰-۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکثر) ۱۹۶۶/۱ (۵۳) بَابُ مَا جَاءَ فِي لِسَانِهِ

دیکھو حدیث ۱۹۶۶/۱ باب اللہ جو دعوات بنانے کے بارے میں آیا ہے

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ

ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھڑی کی شاخوں میں سے یہ ہے کہ جب اونٹوں کو چرانے

رِجَالُهُ الْبُهْمِيَّ فِي الْبَيْتَانِ (۲۶۸) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُنِي

دلے عامارتوں میں تھڑکیں ملنے ابن عمر سے روایت ہے کہا میں نے اپنے آپ کو

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا لِكُنْتِي مِنَ الْمَطْرُودِ يُطْنِي مِنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی آپ کے زمانہ میں، دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک گھر بنا یا جو مجھے مینہ سے بچائے

الْقُدْسِ مَا آعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ (۲۶۹) عَنْ ابْنِ حُرَيْرٍ وَاللَّهُ مَا وَضَعَتْهُ

وہو چکا ہے میں رکھے اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے مجھے اس میں مدد دی ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم جب سے

لَيْبَتُهُ عَلَى لَيْبَتِهِ وَلَا تَرَسَتْ خَلَّةٌ مِمَّنْ قَبِضَ لَيْبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَفِيَانُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں میں نے نہ اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ گھوڑا کا درخت لگایا سفیان نے کہا

فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ هَلِهِ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ بَنَيْتُ قَالَ سَفِيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَبْنِي

اس کا ذکر میں نے ان کے بعض گھر والوں سے کیا تو کہا اللہ کی قسم نبیوں رکھان، بنایا سفیان کی جو کہ نبیوں کے بات عمارت بنانے سے پہلے ہی ہو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرنا

۸- كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

۸۰ - دعاؤں کی کتاب

(۱) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

باب اللہ تعالیٰ کا قول مجھے پکارو میں تماری دعا قبول کروں گا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَبِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مَشْرُوبَةٌ (۲۶۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے (المومن - ۶۰) ہر ایک نبی کی ایک دعا ہے جو قبول کی گئی ابو ہریرہ سے روایت ہے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا وَارْتِدْ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی کی ایک دعا ہے جو وہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں

أَنَّ أَخِيَّ دَعَاؤِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ (۲۶۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

کہ اپنی دعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپا رکھوں انس بن مالک سے روایت ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سَوْلاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا

کرتے ہیں فرمایا کہ ہر ایک نبی نے ایک سوال کیا یا فرمایا ہر ایک نبی کی ایک دعا ہے جو اس نے کی سو وہ قبول کی گئی

بِهَا فَاسْتَجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲) بَابُ أَنْضِلْ

میں نے نبی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے رکھی ہے باب سب سے

الْأَسْتَغْفَارَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى اسْتَغْفِرْ ذَا رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ

اپنا استغفار اور اللہ تعالیٰ کا قول اپنے رب سے مغفرت مانگو وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے وہ تم پر بھیگتا رہے

لفظ وہی ہیں -
دیکھو نوٹ ۱
صفحہ ۱۱۶۵
۲
یہ لفظ ۱۱۶ میں
گزر چکے دیکھو
نوٹ ۱ و ۲

عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا أَوْ يَمِدًا ذَكَرُ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ

بارش صحیح کا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں بار دے گا اور تمہارے لئے نرمی بنا دے گا

أَنْهَارًا وَالَّذِينَ رَاذُوا فَعَلُوا أَفْأَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا وَاللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا

رُوحاً (۲۲۱۰) اور وہ لوگ جو سب بوجہ بیخانی کا کوئی کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں

لَنْ تُؤْتِيَهُمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذَّنْبَ إِلَّا اللَّهُ وَكَمْ يَصُوِّرُ أَعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

اور اللہ کے سوائے کون گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے تو وہ گناہوں کو بخیر نہ جانتے ہیں

عَنْ ۲۲۴۲ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شہاد بن اوس بنی سلمیٰ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ لِلَّهِمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ

کرم سے بڑا استغفار یہ ہے کہ تو کہے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بند ہوں اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرے عذر و عذو پر مدد پر ہوں جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں تیرے حضور

وَأَزَاغَ عَيْدِكَ وَوَعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ لَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤُ بَدَنِي أَخْفِي لِي فَارْتَهَ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ مَنْ

تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور اپنے گناہوں کا تیرے حضور اقرار کرتا ہوں میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوائے گناہوں کی مغفرت

قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمَسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

نہیں کرتا آپ نے فرمایا جو کہے ان پچھنیں کہ ہمارے دن کو کہے اور اس دن شام سے پہلے چلے جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہے

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

اور جو انہیں رات کو کہے اور ان پر اس کا یقین ہو اور صبح سے پہلے چلے جائے تو وہ جنت والوں میں سے ہے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلٍ وَوَاللَّيْلَةَ (۲۲۴۳) عَنْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار

أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ

وَأَتُوبُ فِي لَيْلِيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (۲۲۴۴) بَابُ التَّوْبَةِ قَالَ قَتَادَةُ تَوْبُوا

سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں بے بائب توبہ کن تمہارے گناہوں کی طرف توبہ

إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا الصَّادِقَةَ النَّاصِحَةَ (۲۲۴۵) الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ

كَبِدُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ

نے دو حدیثیں بیان کیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سے جو حدیث

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْقَبْرَ

مومن اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک بھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گر پڑے اور قابر

ملا ستر عدد و کمال ہے جس میں مراد یہ ہے کہ ہر وقت استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ استغفار کے معنی میں طلب غفرنا حفاظت چاہنا اور یہ حفاظت یہ کہ ہ سے یا گناہ کے نتائج سے انبیاء کا ہر کام چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے لایسبغونہ بالقرآن و ہم باہم یصلون اس لئے وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ان کا استغفار گناہ سے حفاظت کے لئے ہوتا ہے اور تاب کے معنی ہیں رجوع کیا اس لئے ان کی توبہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار اور رجوع الی اللہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے نفس پر ایک لمحہ کے لئے بھی

۱۴۱۱

۲۲۴۲

۲۲۴۳

۲۲۴۴

۲۲۴۵

يُرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَذَا قَالَ أَبُو شَهَابٍ بَيِّنَةٌ فَوْقَ أَنْفِهِ

اپنے گناہوں کو ایک کھسی کی طرح دیکھتا ہے کہ اسکی ناک پر گزری تو اسے اس طرح بٹا دیا اور شباب نے اپنے ہاتھ سے ناک کے اندر ایسا کیا۔

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِمَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزَلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ

پھر فرمایا اللہ اپنے بندے کی تو بہتر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک چکر اترے اور وہاں ہلاکت کا سامان ہے اس کے ساتھ اس کی سواری

عَلَيْهَا طَعَامَةٌ وَشِرَابٌ فَوَضَعُ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقِظُ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ

ہے اس پیاس کا کھانا پینا ہے اس نے اپنا سر رکھا اور تھوڑی دیر کے لئے سو گیا پھر وہ جاگا اور اس کی سواری جاتی رہی تھی

حَتَّى اسْتَدْرَأَ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ رَجَعْتُ إِلَى مَكَانِي فَرَجَعْتُ فَنَامَ

اور اسے سخت گرمی اور پیاس لگی یا چڑھنے جایا اس نے کہا میں اپنی جگہ پر واپس جاتا ہوں وہ لوٹ آیا اور تھوڑی

نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ (۵۰۲) مِنْ أَسْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

دیر سو یا پھر اپنا سر اٹھایا دیکھا تو اس کی سواری اس کے پاس ہے علیٰ اس سے روایت ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَفْرَحُ بِمَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَيَّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی تو ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو تم میں سے کوئی

بِعَيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَا يَدْرِي بِأَبِ الضَّبْحِ عَلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ

جو کہ جسے اپنا اونٹ مل جائے اور وہ لے جائے جان زمین میں کہہ کر چکا تھا باب وایں کر وٹ پر لکھنا علیٰ

(م-۳۵۰۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (۵۰۳) بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا (م-۳۵۰۳)

بہنوحدیث ۵۰۳ باب جب پاکیزگی کی حالت میں ہوں رات گزرتے

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۹) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ (۴) مِنْ

دیکھو حدیث ۱۹ باب جو کہ سونے کے وقت کہتے

حَدِيثُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِأَسْمِكَ

حضرت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچھونے کی طرف جاتے تو کہتے تھے کہ نام سے ہی

أَمْوَاتٌ وَأَحْيَاءٌ وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ

مرتا ہوں اور جیتتا ہوں اور جب اٹھتے تو کہتے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف

الشُّكْرُ (م-۳۵۰۴) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۹)

دیکھو حدیث ۱۹ باب

جانتا ہے۔ علیٰ۔ تو یہ کہنے شروع الی اللہ ہیں۔ چاہے وہ رجوع ارتکاب گناہ کے بعد ہو یا پہلے ایک ایک آدمی کی تو یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کے بغیر رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ اور بدی کی تو یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثال میں یہ بھلا ہے کہ اللہ بھی بندے کی تو بہ سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے، اور جب وہ اپنے مانگنے کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے انسان کا کھانا ہونا سامان اسے مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے یہ صورت ایک مثال کے رنگ میں بھلا ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہاں تک کہ ایک گنہگار بندے کی بھی پروا ہے۔ مطلقاً غنوں میں دو طرح پر اشارہ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تھوڑے تھوڑے اور دعاؤں میں مصروف رہتے تو اس کے بعد پھر از سر نو نماز فجر میں کھڑا ہونے کے لئے تھوڑا سا آرام کر لیتے تاکہ پھر پوری قوت سے دعا کی طرف رجوع کریں۔ اور دعا سیرا کہ لیٹنے کی حالت میں ہی آپ دعا اور استغفار کرتے تھے۔ علیٰ یہ کہ روایت اس طرح ہے۔ کان النبی صلعم یصل من العیال احدی عشر ذکوة فاذا اطلع الفجر حیلے رکعتین خفیضتین ثم انضجھ علی شفته الا یمن حتی یسبحی المؤمنین فیؤذنه ثم یقرئ فی الفاتحہ حدیث کو دوہرایا ہے۔ اسلمت ورحمی الیک کی جگہ ہے اسلمت لفظ الیک مطلب ایک ہی ہے۔ علیٰ اس میں نیند کو ایک موت اور بیداری کو ایک احیا قرار دیا ہے۔ علیٰ ابتدا اور آخر سے چھوڑ دیا ہے۔ ان النبی صلعم اوصی وجلا فقال اذ اردت مضجعا فقل اللهم اسلمت نفسی الیک۔ اس کے بعد فان مت علی الغطرۃ تک وہی لفظ ہیں بعد کا حصر نہیں۔

علیہ مطلب نہیں کہ مومن کے گناہ فی الواقع باطنی طرح ہوتے ہیں اور فاجر کے ایک کھسی کی طرح بلکہ مطلب یہ ہے کہ مومن ان گناہوں کو جو اس سے گزرتے ہو سکتے ہیں پھاڑ کی طرح دیکھتا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ گناہ ہونا خدا کے حکم کے خلاف پلنے کا نتیجہ کیسا برے اور فاسق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک کھسی انسان کی ناک پر آکر بیٹھ گئی ہو یا کہ وہ ارتکاب گناہ کی لمبی چوڑی پردہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے مومن گناہ کے ارتکاب سے بچا رہتا ہے اور فاسق ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

مطلوبی لفظ میں
پچھلی رات میں اللہ
تعالیٰ کے نزول کا
ذکر ہے
مطلوبی لفظ میں
دیکھو نوٹ
صفحہ ۵۵
مطلوبی لفظ میں
آخری حصہ کو
مختصر کر دیا ہے
اقوال جبریل علیہ
سلامت و محل لجنہ
اوکان من اهل
الجنة واذ قال
عن یومہ مثله
مک لفظ قریباً
ایک ہیں۔ دعا
کے لفظوں میں
کوئی فرق نہیں
ہے۔ یوزر ورضی
کے لفظ قریباً
ہیں۔ قال کان
الین صلعم اذا ضل

(۵-۳۵۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۶۳۱) (۱۵)، بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ	دیکھو حدیث ۶۳۱	پاگل تھانے حاجت کے وقت دعا کرنا
(۵-۳۵۱۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۲۳) (۱۶)، بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ	دیکھو حدیث ۱۲۳	پاگل جب صبح اٹھے تو کیا کے
(۵-۳۵۱۳) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۲۴) (۲۲)، بَابُ حَذِّقَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۲۴)	دیکھو حدیث ۲۲۴	
(۲۲۴) (۵-۳۵۱۵) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۲۴) (۱۹)، بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ	دیکھو حدیث ۲۲۴	پاگل نماز میں دعا کرنا
(۵-۳۵۱۶) عَنْ ابْنِ بَكْرٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۳) (۱۷)، بَابُ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۳)	دیکھو حدیث ۵۰۳	
(۱۹۳۴) (۵-۳۵۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۱) (۱۸)، بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ	دیکھو حدیث ۵۰۱	پاگل نماز کے بعد دعا
(۵-۳۵۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۶) (۲۰)، بَابُ دَرَادِمٍ وَمَوْلَى لُبَيْبَةَ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۶)	دیکھو حدیث ۵۰۶	
(مُتَكَرِّرٌ - ۵۰۶) (۱۹)، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ حَضَرَ خَاةً بِالدُّعَاءِ	دیکھو حدیث ۵۰۶	پاگل اللہ تعالیٰ کا قول اور ان کے لئے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو جو پھر اپنے بھائی کو دعا
دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ	دیکھو حدیث ۵۰۶	کے ساتھ نماز کرے اور ابو موسیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تمہاری عوام کی مغفرت فرما
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ ابْنِ قَيْسِ بْنِ قَيْسٍ (مُتَكَرِّرٌ - ۵۲۳) (۲۱)، بَابُ سَلْمَةَ بْنِ الْكَوْكِعِ (مُتَكَرِّرٌ - ۱۸۱۲)	دیکھو حدیث ۵۲۳	اے اللہ عبد بن قیس کو اس کا گناہ معاف فرمائے اور

مخض من الليل قال اللهم باسمك ايموت واجيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا والليل نشوينا من الموت كفاك وروى ابو هريره عن ابي هريره
ولا يجهر بصلواتك ولا تحتها انزلت في الدعاء معك بيان لفظ يورين :- كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على خلوات
فقال لنا النبي ذات يوم ان الله هو السلام فاذا فقد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله الى قوله الصالحين فاذا قالها اصاب كل عبد لله
في السماء والارض صلواته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله ثم خير من الصلوات ما شاء. اس کے آخری الفاظ بھی بتائے ہیں
کرونائے ماثرہ کے بعد شان اور جو دعا چاہے کر سکتے ما شاء. علیٰ کمر روایت تخفیف اختد و لفظی سے آئی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ
ذهب اهل الذور بالدرجات والتعظيم المقيم قال كيف وان قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وانما انفقوا من قتلوا هو اليهم
وليس لنا احوال قال اغلوا اخبركم يا مورت ركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا ياتي احد بمثل ما جئتم الا من جاء بمثلته تسجد
في ديبر كل صلاة عفواً وحمد من عفواً او تكبير من عفواً او رايا تيزوں کے بعد تلاوا فثلثين کہے ہیں۔ ان بیان اہل کی جائے حرکتاً لغزیراً الى معاوية
یاتی لفظ ہی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کتب کا لفظ لکھوانے کے معنی میں ہیں سلم بن قیس تھا بن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ عزم تو لکھنے بھی تھے
انوں نے کتب کے اسی مضمون کو دیکھتے کی۔ جب سے غلطی کھائی ہے۔ اللہ یہ ابو موسیٰ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو مغازی میں غزوہ اوفا میں گذر چکی ہے
دیکھو حدیث ۱۸۱۲ میں بیان روایت مختصر ہے۔ فان مرجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم يا عامر لو اوسعحتنا من
هذهنا لك فاني يهد بهم يد كوت الله ولا الله ما اهدت يدنا وذكروا عن ابي هريره عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السابق قالوا
عامر بن الكويع قال رحمه الله (عنوان باب كالتعلق بي سے ہے) وقال رجل من القوم يا رسول الله لو اوسعحتنا به فلما صارت القوم قاتلهم
فاصيب عامر بقائمة سبع نفسه فمات فلما اهو او قد انا واكثرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا النار على اي هوى توفدون قالوا
على سحرانية فقال امر بقوا ما فيها وكسر وها قال رجل يا رسول الله الا نهضت من ما فيها وانسلها قال او ذاك

(م-۳۵۲۲) ابن اَبی اَوْفَى (ممتکون-۸۰۲) (م-۳۵۲۳) حَمْدُ بْنُ مَسْرُورٍ (ممتکون-۸۰۲)
دیکھو حدیث ۱۰۴

(۱۳۸۰) (م-۳۵۲۴) حَمْدُ بْنُ مَسْرُورٍ (ممتکون-۹۹۹) (م-۳۵۲۵) عَالِشَةُ رَمَلَى
دیکھو حدیث ۱۴۹۹

(ممتکون-۱۲۳۵) (م-۳۵۲۵) حَمْدُ بْنُ مَسْرُورٍ (ممتکون-۱۱۴۶) (۲۰) بَابُ مَا يُكْرَهُ
دیکھو حدیث ۱۳۲۹

مِنَ الشَّجَرِ فِي الدُّعَاءِ (۲۲۷۸) ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مَجْعَدَةً
ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر چھ ایک دفعہ لوگوں سے روئی یا اس بیان کرو

مَكْرُوهَةً فَإِنَّ آبِيَتَ فَمَتَّيْنِ فَإِنَّ أَكْثَرَ تَفْثَالَاتٍ مَرَارِدٍ وَلَا تَمَلُّ النَّاسُ هَذَا
اگر تم اس پر راضی نہ ہو تو پھرتیں دو دو اگر تم بہت زیادہ چاہو تو تین بار اور لوگوں کو اس قرآن سے تحفہ کرو

الْقُرْآنَ وَلَا الْفَيْنِكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْتَضِ عَلَيْهِمُ
اور میں نہیں (اس حال پر) نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ گفتگو میں ہوں تو تم ان کو حکایت شروع کرو

فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَيَقَالُ لَهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرٌ كَفِرَ بِهِ لَهُمْ وَهُمْ
اور ان پر ان کی بات کو کاٹ دو اور ان کو رنجیدہ کرو بلکہ چھپو رہو جب وہ تمہیں حکم دیں تو ان سے وعظ بیان کرو اور سنا لیں

لَيْسَتْ هُوْنَةً فَاَنْظُرِ الشَّجْعَةَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنِّي عَهْدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
ابن کو اس کی خواہش ہو اور وہ عام میں قافیہ بندی کا خیال ہو تو اس سے پرہیز کرو دیکھو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ
اور آپ کے صحابہ کا زمانہ پایادہ سوائے اس کے کچھ نہ کرتے تھے یعنی وہ اس کو کہتے تھے سے بچتے تھے

الْأَجْتِنَابُ (۲۱) بَابُ لِيُعْزَمَ الْمَسْئَلَةُ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ (۲۲۷۹) حَمْدُ بْنُ مَسْرُورٍ رَضِيَ
باہم چاہئے کہ سوال میں عدم کرے گا جو کلاس پر خبر کرنے والا کوئی نہیں اس سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَْيُعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کے ساتھ آئے گا

وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْئَرَةَ لَهُ (۲۲۸۰) حَمْدُ بْنُ مَسْرُورٍ رَضِيَ
اور یوں نہ کہ اسے اشرار تو چاہے تو بھروسے کیونکہ اشرار کو بخیر کرنے والا کوئی نہیں ہے

هُوَ يُرَادُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یوں نہ کہے

علی بن ابی نعیم نے کہا کہ میں نے اپنے مولا کو کہا کہ دعا کا ذکر ہے۔ اللہ صلی علیہ وسلم نے دعا کو غنیمت اور نعت دو پر ہے۔ قال فی رسول اللہ صلی علیہ وسلم من دعا فی غلصة وهو نصب كافا یجیب وقد یسعی الکعبة الیما یة قالت یا رسول اللہ انی رجل لا ایمن علی الخیل فضلت فی صدمتہ فقال اللهم یتنه واجعله هادیا مهدياً رعونان باب کا تعلق اسی سے ہے قال فوجبت فی تحمید روایا حسین و دمانہ فارس ہے، امین امین من قوی دوہما قال سفیان فانظرت فی عصبتہ من قوی فانیتہا فاحرقتها ثم ادیت النبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس سے بچنا چاہئے کہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ سوچتا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعا شروع میں ہوا مگر عبات میں تو اس کا مانگ منہ نہیں مگر دعا کو مقرر کرنے کے تکلف میں لگ جاتا سورگے مٹانی ہے کہ عین یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہی تو دیکھا اس پر جو کوئی کرتے نہیں سکتا۔ لیکن دعا کرنے والا اگر مجھے اے اللہ تو چاہے تو دیدے تو دعائیں تو تیرا پیدا نہیں ہوتی اس سے حکم ہے کہ دعا عام سے کرے یعنی دعا کی پوری قوت اور فیصد کے ساتھ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنَّ شَيْئًا لِيَعْزِمُ الْمَسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهُ لَهُ (۲۲)

اے اللہ مجھ کو معاف کرے اور مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے تو تم کے ساتھ ایسے کچھ ایسا ہے کہ جس پر جب کہنے والا کوئی نہیں ہے

بَابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْجَلْ (۲۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

بَارئ بن عبد کے دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ جلدی نہ کرے

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتِ قَوْمٍ لَيْسَتْ جِب

تم میں سے ایک شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے یعنی میں نے کہا کہ میں نے دعا کی گھڑی دعا

لِي (۲۳) بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا شَعْرِي دُعَا الْعَبْدِ

قبول نہیں ہوتی بلکہ بارئ دعا میں ہاتھ اٹھانا

اور ابو موسیٰ اشعری نے کہا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بِيَاضَ ابْطِئَةٍ وَقَالَ بِنُ مَعْرُوفِ النَّبِيِّ

نے دعا کی پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میں نے آپ کی غلوں کی سفیدی دیکھی اور ابن عمر نے کہا نبی صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَايِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مَا صَنَعْتُ خَالِدًا (م- ۳۵۲) عَنْ

علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں تیرے حضور میں کبھی اسی ظاہر کرتا ہوں جو خالد نے کیا

أَيُّ (متکرم) (۵۸) (۲۴) بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرِ مُسْتَقْبَلٍ لِقَبْلَةٍ (م- ۳۵۲) عَنْ

دیکھو حدیث ۵۸۱ ہاتھ اٹھانے کی طرف رخ نہ کرتے ہوئے دعا کرنا

أَيُّ (متکرم) (۵۴) (۲۵) بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبَلٍ لِقَبْلَةٍ (م- ۳۵۲) عَنْ

دیکھو حدیث ۵۴۸ ہاتھ اٹھانے کی طرف رخ نہ کر کے دعا کرنا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (متکرم) (۵۴) (۲۶) بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۵۴۴ بارئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

وَسَلَّمَ لِحَادِيهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَيُذَكِّرُهُ مَا لَمْ يَذَكِّرْهُ (م- ۳۵۲) عَنْ أَبِي

اپنے خادم کے لئے نبی عمر کی اور مال کی کوئی دعا کرنا

۹۹۹ (۲۷) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَوْثِبِ (۲۲۸۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

۹۹۹ کے بارئ مشکل کے وقت دعا کرنا ابن عباس سے روایت ہے

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعُو عِنْدَ الْكَوْثِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مشکل کے وقت (یوں) دعا کرنے کوئی مسجد میں مولیٰ اللہ کے جو

الْعَظِيمِ الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

عظمت والا وہ علم والا ہے کوئی مسجد میں سوائے اللہ کے جو سمافوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے

اس میں بیان کیا ہے کہ دعائیں استقلال ہو۔ دعا میں استقلال فی الحقیقت اس شخص میں پیدا ہو سکتا ہے جس میں اعلیٰ درجہ کا استقلال موجود ہو۔ اور یہ دعائیں استقلال سے خود انسان کے اندر اعلیٰ درجہ کی قوت استقلال پیدا ہوتی ہے جو شخص نہ چاروں وقت دعا کرے تنگ جاتا ہے اس کی دعا میں قبولیت کا رنگ بھی پیدا نہیں ہوتا بعض مقام صبح کے لئے انسان دعا کرتا ہے ایسے جتنے ہیں کہ ساری عمر رہے تو تنگ نہیں چلے بٹے شادی دعا خدا کا نام دنیا میں پہنچے اور اس کے بندے اس کے حضور جھکیں۔ یا اور اس قسم کی دعائیں جو عظیم شان مقام کے لئے ہوں ہاتھ ابوموسیٰ کی یہ حدیث موصول مغازی میں گذری ہے دیکھو حدیث ۳۵۲ ہاتھ فردہ بنی جنیم میں یہ حدیث گذری ہے۔ دیکھو حدیث ۱۸۱ ہاتھ میان نفاذ میں۔ عن النبی صلعم رفع یدین یہ حق ثابت بیاض ابطنہ ہاتھ کر روایت اتھار سے آئی ہے بیانا النبی صلعم یخطب یوم الجمعة رخصتیں قبل کی طرف بیٹھ ہوتی ہے نفاذ رجل فقال یا رسول اللہ ادع اللہ ان یسقینا فتعینت السموم وطرناحے ما کا الرجل یصل الی منزله فلم تنزل الی الجنة المہیلة فقام فذک الرجل او غیرہ فقال ادع اللہ ان یصوفہ عننا فنوحنا فقال اللهم حوا الینا ولا علینا تجعل السحاب یتقطر حول المنیة ولا یقطر اهل النبیة ہاتھ میان نفاذ میں قال محرم النبی صلعم اللہ علیہ وسلم الی هذا الصلعم یتسبی فذوا ویتسبی ثم استقبل البقرة وقلت وادع دیکھو حدیث ۳۵۲ کے نفاذ بضمون م ۳۵۲ سے ملتی ہیں۔ قالت امی یا رسول اللہ خادک ان ادع اللہ له قال اللهم الذرمانہ وولہ وبارک له فیما اعطیتہ ہ

اس کے حضور جھکیں۔ یا اور اس قسم کی دعائیں جو عظیم شان مقام کے لئے ہوں ہاتھ ابوموسیٰ کی یہ حدیث موصول مغازی میں گذری ہے دیکھو حدیث ۳۵۲ ہاتھ فردہ بنی جنیم میں یہ حدیث گذری ہے۔ دیکھو حدیث ۱۸۱ ہاتھ میان نفاذ میں۔ عن النبی صلعم رفع یدین یہ حق ثابت بیاض ابطنہ ہاتھ کر روایت اتھار سے آئی ہے بیانا النبی صلعم یخطب یوم الجمعة رخصتیں قبل کی طرف بیٹھ ہوتی ہے نفاذ رجل فقال یا رسول اللہ ادع اللہ ان یسقینا فتعینت السموم وطرناحے ما کا الرجل یصل الی منزله فلم تنزل الی الجنة المہیلة فقام فذک الرجل او غیرہ فقال ادع اللہ ان یصوفہ عننا فنوحنا فقال اللهم حوا الینا ولا علینا تجعل السحاب یتقطر حول المنیة ولا یقطر اهل النبیة ہاتھ میان نفاذ میں قال محرم النبی صلعم اللہ علیہ وسلم الی هذا الصلعم یتسبی فذوا ویتسبی ثم استقبل البقرة وقلت وادع دیکھو حدیث ۳۵۲ کے نفاذ بضمون م ۳۵۲ سے ملتی ہیں۔ قالت امی یا رسول اللہ خادک ان ادع اللہ له قال اللهم الذرمانہ وولہ وبارک له فیما اعطیتہ ہ

من غلبت الرجال (م- ۳۵۴۵) عن أنس بن مالك في التَّعْوِذِ بِأَبِي التَّوَعُّذِ	عبداللہ سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۲۶۷۷	باب عذاب
من عذاب القبر (م- ۳۵۴۶) عن أنس بن مالك في التَّعْوِذِ بِأَبِي التَّوَعُّذِ	قبر سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۲۶۷۷	باب عذاب
(متکو- ۱۲۹۹) (م- ۳۵۴۸) عن عائشة في التَّعْوِذِ بِأَبِي التَّوَعُّذِ مِنْ	دیکھو حدیث ۱۲۹۹	دیکھو حدیث ۲۰۱۱	باب عذاب
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (م- ۳۵۴۹) عن أنس بن مالك في التَّعْوِذِ بِأَبِي	فتنہ سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۱۳۰۰	باب عذاب
التَّعْوِذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ (م- ۳۵۵۰) عن عائشة في التَّعْوِذِ بِأَبِي	گناہ اور قرض سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۲۶۵۰	باب عذاب
الْأَسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ (م- ۳۵۵۱) عن أنس بن مالك في التَّعْوِذِ بِأَبِي	بزدلی اور سستی سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۱۳۳۷	باب عذاب
بَابُ التَّعْوِذِ مِنَ الْبُخْلِ وَالْبُخْلِ وَوَقَائِمٍ (متکو- ۱۲۹۹) (م- ۳۵۵۲)	باب بخل سے بناہ مانگنا	دیکھو حدیث ۱۲۹۹	باب عذاب
أَرَادْنَا أَسْقَا حَنَارَهُ (م- ۳۵۵۳) عن أنس بن مالك في التَّعْوِذِ بِأَبِي	ارادنا کے معنی ہیں ہم میں سے گے ہونے	دیکھو حدیث ۱۳۰۰	باب عذاب
بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجْعِ (م- ۳۵۵۴) عن عائشة في التَّعْوِذِ بِأَبِي	باب وباد اور بیماری کے دور کرنے کی دعاء	دیکھو حدیث ۲۶۵۷	باب عذاب

اور لغظ م ۱۳۳۷ کے قریب قریب میں۔ قال رسول اللہ صلعم لایب طلحة التمس لنا غلاما من غلامک یخبر منی فخرج ربی ابطلحة یردفنی وراہ فکنت احد م رسول اللہ صلعم کما نزلت فکنت اسمعیک ان یقول اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبل والجبین وضلع الدین و غلبة الرجال وعنوان بابی سے ہے، فلہ اذل اخذ امره حتى اقتلت من

خیر او قبل بصفیة بنت حیثمی قد حازها کنت اراہ بحوی وراہه بعباءة او کسآء ثم یرد قبا وراہه حتى اذا کان بالسهباء صنم حیثمی فی نطح ثم ارسلنی فدعوت رجلا فاکلوا وکان ذلک بناء ہا فتم اقبل حتى ید الہ احد قال هذا جلیل یحینا ونحیہ فلما اشرف علی المدینة قال اللهم انی احم مانین جیلہما مثل ما حم بہ ابراهیم مکتہ اللهم بآرک اللهم فی مدہ وصد نعمہ وکلمة لفظ یوں ہیں قل سمعت ام خالد بنت خالد قال ولم اسمع احد اسمع من النبی صلعم غیرها قالت سمعت النبی صلعم یتعوذ من عذاب القبر کمرر روایت کے لفظ یہ ہیں، کان سون یا ہر جنسوں کے کون عن النبی صلعم ان کان یا مویہون اللہ انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی اذ الی اعوذ بک من فتنۃ الازنیاء یعنی فتنۃ الدجال واعوذ بک من عذاب القبر کمرر روایت کا مضمون م ۳۵۵۳ کے تشریح میں ہے جو ۲۶۵۷ کی مکرر روایت ہے۔ اور م ۳۵۵۴ کا مضمون ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ قالت دخلت علی عجزان (م- ۳۵۵۳) میں یہودیہ ہے، من عجزی یہود المدینة وقتا لانی ان امر القبر یبذل یون فی قیورہم نکلن بہتہما ولم انعم ان احد قہما فخریتہا ودخل علی النبی صلعم فقلت لہ یا رسول اللہ ان عجزین وکرت لہ فقال صدقت انہم یبذل یون عذابا سمعہ الہما ثم کلمنا فداؤہ بعدہ فی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر فیرت مراد عالم یرت ہے یرت من عذاب کا ذکر قرآن کریم کی کئی سورتوں میں موجود ہے فداؤہ بعدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی توجہ اس توجہ کی وجہ سے نبی کریم صلعم کی اس دعا کی طرف ہوتی ہے لفظ نکتہ کے ہیں۔ کلمنا مکرر روایت کچھ کی جیسی سے آئی ہے۔ ان النبی صلعم کان یقول اللهم انی اعوذ بک من الکسل والہرم والذہم والغموم ومن فتنۃ القبر وعذاب القبر ومن فتنۃ النور وعذاب النور ومن شو فتنۃ الخفی واعوذ بک من فتنۃ العفور واعوذ بک من فتنۃ السیر الرجال اللهم اغفر عنی خطایا ہی بناء العظیم والبروتی قلبی من الخطایا کما نقیت الشوب الا یش من الذہب ویا عبد یفی وین خطایا ہی کما یا عدت بین العشر والاعوذ کلمنا اس مکرر روایت کا مضمون م ۳۵۵۴ اور م ۳۵۵۵ کا ایک حصہ ہے یہاں لفظ یہ ہیں۔ قال کان النبی صلعم یقول اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال وکلمنا لغظ م ۳۵۵۴ کے میں یہ یعنی فتنۃ الدجال کے تشریح کی غما کو کچھ اور

۲۶۵۷ اذ الی عروہ برہا ہے کی عمر ہے جیسا انسان کما ہوا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تشریح میں ہے لکیلا یعلم بعد علیہ من انہما ہوا فی ربہما ہوا فی ربہما کلمنا

۱۲۲۲ کا
 آخری حصہ ان
 الفاظ میں روایا
 ہے۔ ان آیتیں
 صلح کان اذا
 قال معہ اللہ
 لمن حمدہ فی
 الركعة الاخری
 من صلاة الفجر
 قلت اللهم انج
 عیاش بن ابی
 ربيعة اللهم انج
 الولید بن الولید
 اللهم انج سلمة
 بن هشام اللهم
 انج المستضعفین
 من المؤمنین
 اللهم اشد و
 عطانت علی مخرجہ
 اللہ اجعلہا
 سنین کثیرہ
 ۱۲۲۲ کا
 پہلا حصہ چھوڑ
 دیا ہے لفظ میں
 بعث الیہ وسلم
 سورۃ یقول لہم

رم- ۳۵۴۳ عن ابی ہریرۃ (متکثر- ۲۹۲) (م- ۳۵۴۴) عن ابی ہریرۃ (متکثر- ۵۴۶)

دیکھو حدیث ۱۲۹۲ ۱۲۹۲ دیکھو حدیث ۵۴۶

رم- ۳۵۴۵ عن عائشۃ (متکثر- ۱۳۵۰) (م- ۳۵۴۶) عن علی بن ابی طالب

دیکھو حدیث ۱۳۵۰ ۱۳۵۰

متکثر- ۱۳۴۸ (۶۰) باب الذاعرب للمشرکین (م- ۳۵۴۷) عن ابی ہریرۃ

دیکھو حدیث ۱۳۴۸ ۱۳۴۸ باب مذکوروں کے لئے دعا کرنا

متکثر- ۱۳۵۱ (۶۱) باب قول لیسے صل اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر لی ما

دیکھو حدیث ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اے اللہ میرے لئے مغفرت فرما جو

قد مت وما اخرجت (م- ۲۲۸) عن ابی موسیٰ عن النبی صل اللہ علیہ وسلم انہ

جس نے اپنے بھائی اور جس نے مجھے رکھا اور موسیٰ بنی اسرائیل کے لئے دعا کی اور اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

کان یدعو بهذا الدعاء رب اغفر لی خطیبتی وجملی واسرا فی امری کلہ

کہ آپ یوں دعا کرتے تھے اے میرے رب میری غلطی مجھ کو معاف فرما اور میری لاشعری اور میری لاشعری لاشعری لاشعری

وما انت اعلم بہ منی اللهم اغفر لی خطایا ای وکمدنی وجملی وکھڑی وکل

اور وہ جسے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے اے اللہ میرے لئے میری غلطیوں کی مغفرت فرما اور جس کی اولاد تیار نہیں کر سکا اور میری لاشعری اور

ذک عندی اللهم اغفر لی ما قد مت وما اخرجت وما اسررت وما اعلنت انت

میری جہول اور یہ سب مجھ میں ہے اے اللہ میرے لئے اس کی مغفرت فرما جو میں نے آگے بھیجا اور جو میں نے پیچھے رکھا اور جس نے مجھ کا

المقدم وانت الموحجرو انت علی کل شیء قدیر (م- ۳۵۴۸) عن ابی موسیٰ

اور جس نے دعویٰ کیا تو ہی آگے بڑھنے والا اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے

الاشعری (متکثر- ۲۲۸) (۶۲) باب الدعاء فی الساعۃ التي فی یوم الجمعة

دیکھو حدیث ۲۲۸ ۲۲۸ اس گدڑی میں دعا کرنا جو جمعہ کے دن میں ہے

رم- ۳۵۴۹ عن عائشۃ (متکثر- ۵۵۰) (۶۳) باب قول النبی صل اللہ علیہ وسلم

دیکھو حدیث ۵۵۰ ۵۵۰ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

القرآن فاصبوا فداوات النبی صلعم وجد علی قبی ما وجد علیہم فقلت شہد فی صلاۃ الفجر ویقول ان عصیۃ عبد اللہ ورسولہ

۱۲۲۲ میں کچھ تفصیل زیادہ ہے۔ اے عائشہ! کہاں الیہود و المسلمون علی النبی صل اللہ علیہ وسلم یقولون السام علیک ففطنت عائشۃ انی

تو لہم ففطنت علیک السام والاعنة فقال النبی صلعم مہلاً یا عائشۃ ان اللہ یحب الرقی فی الامر کلہ ففطنت عائشۃ ان اللہ اولم تسمع ما

یقولون قال اولم تسمعی ارد ذلک علیہم فاقول وعلیکم ہلکہ اس کے لفظوں میں۔ قال کنا مع النبی صلعم یوم الخندق فغفل ملا اللہ

جودہم ویسوتہم نارا کما شغلوا عن صلاۃ اوسطی حین غابت الشمس وہی صلاۃ العصر وہی خفیۃ سے اختلاف سے دوہرایا ہے۔

قدم اللفظ بن عمرو علی رسول اللہ صلعم فقال یا رسول اللہ ان دو ساعد عصمت وابت فادع اللہ علیہم فاقض الناس الیہم وعلیہم فقال

اللہم اھدا دوساوات ہم۔ اس قوم کا سردار خود ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ان کے لئے

بد دعا کی جائے۔ اور حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو یہ گمان بھی ہوا کہ آپ بد دعا کریں گے مگر آپ نے بجائے بد دعا کرنے کے ان کے حق میں صلح کی دعا کی۔

تو عام حالات میں جہاں مشرکین کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں ان کے حق میں دعا کرنا تعلیم اسلامی کے مطابق ہے۔ مگر مغفرت کا لفظ وسیع ہے

اور ملحق مغفرت کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں ذنب کا ذکر کوئی نہیں اسلئے عاقبہ وہ اعمال صالحہ ہیں جو انسان نے کئے اور ماخوذہ اعمال جن کے کرنے سے

وہ قاصر رہا۔ ماقدام کے لئے بھی مغفرت مانگی اس لئے کہ اعمال صالیہ پر اجر کا مترتب کرنا بھی خدا کے اختیار میں ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی مغفرت آتی

یگا ہے۔ اور جن کے کرنے سے قاصر رہا انکی وجہ سے طلب مغفرت ظاہر ہے۔ انبیاء میں ماخوذہ اعلیٰ درجہ کے اعمال میں جو وہ بوجہ بشریت کی کمزوری یا دیگر

ساملوں کے نہ لینے کے لئے قمر ہے۔ لہذا یہاں اختصار ہے۔ عن النبی صلعم ان کان یدعو اللہ اغفر لی خطیبتی وجملی واسرا فی امری ۲

مومنات اعلم بہ منی خطیبتی وجملی واسرا فی امری ۲

۲۲۲۲

يَسْتَجَابُ لِمَنَافٍ لِّيهُوْدٍ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فَيُنَادِرُهُمْ - ۳۵۸۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَتَكَوْرٌ

کوڑوں کے پاس میں ہماری دعا قبول ہوگی اور ہمارے مشفق راجی دعا قبول نہیں ہوگی

۱۳۵۰ (۶۴) بَابُ التَّائِيْدِيْنَ رَم - ۳۵۸۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكَوْرٌ - ۲۷۶۸)

۱۳۵۰ باب التائیدین کہنا دیکھو حدیث ۲۷۶۸

(۶۵) بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ رَم - ۳۵۸۲ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَتَكَوْرٌ - ۱۱۲۸۹)

باب فضل التہلیل کہنا دیکھو حدیث ۱۱۲۸۹

(۲۲۸۶) عَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَنْ قَالَ هَشْوَرًا كَانَ كَمَنْ اَخْتَقَ رَقِيْعَةً مِنْ وَادٍ

عمر بن میمون سے روایت ہے کہ جس نے داہرہ والا کلمہ دہرایا تو وہ اس کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل کی

اِسْمَاعِيْلٍ رُوْفِي رُوَابِيَةٍ فَقُلْتُ لِلرَّبِّ يَرْجِيْهِمْ مَنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرُو بْنِ

اولاد میں سے غلام آزاد کیا اور ایک روایت میں ہے جس سے کہا آجپے یہ کس سے سنا

مَيْمُوْنٍ فَآيْتَتْ عُمَرُو بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ ابْنِ ابْنِ أَبِي كَيْلٍ

پھر میں عمر بن میمون کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے یہ کس سے سنا کہا ابن ابی کیل سے

فَايْتَتْ ابْنَ ابْنِ كَيْلٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيُوْبَ الْأَنْصَارِيِّ يَخْلِيَتْهُ

پھر میں ابن ابی کیل کے پاس گیا اور کہا آپ نے یہ کس سے سنا کہا ابو ایوب انصاری سے

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۲۸۷) بَابُ فَضْلِ التَّشْعِيْرِ رَم - ۳۵۸۳

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں باب فضل التشعیر کہنا دیکھو حدیث ۲۲۸۷

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ وحمدہ

وَحَمْدُهُ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حَطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

دن میں سو مرتبہ کہا تو اس کے گناہ مگر جائیں گے گو وہ سمندر کی جھانگ کی مانند ہوں گے

(۲۲۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيَّتَانِ

دو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو زبان پر

عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

پیکر ہیں لیکن ترازو میں بھاری اور رکھن کو محبوب سبحان اللہ العظیم

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (۲۲۸۹) بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (۲۲۸۹) عَنْ أَبِي

سبحان اللہ وحمدہ کہنا باب فضل ذکر اللہ کے ذکر کی فضیلت ابو موسیٰ

مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رُبَّهٖ

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے

وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مِثْلُ الْحَمِيْرِ وَالْأَمِيَةِ (۲۲۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اور اس کی جو نہیں ذکر کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْمِزُونَ أَهْلَ الدُّكْرِ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں پھرتے ہیں

فَاذْأَوْجَدُوا قَوْمًا يَدْعُونَ إِلَهُهُمْ أَوْ أَهْلَهُمْ أَوْ حَاجَتَهُمْ قَالَ فِي حَقِّهِمْ

جب وہ کسی قوم کو دیکھتے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں تو پکارتے ہیں اپنی حاجت کی طرف آؤ کہ تو وہ انکو اپنے پروردگار سے

نہ اگر کچھ گناہ ہی مراد لئے جائیں تو جب انسان کی زندگی میں اصلاح ہوئی ہے اور دنیا کی لذت قدم اٹھتا ہے تو پچھلے گناہ خود گرجتے ہیں

کتاب الدعوات
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
ان المہجرات اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیک قال علیک
فقال عائشہ انہ
علیک ولعلک اللہ
وغضب علیک
فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ علیک
یا ارفق وایاک
والصغیر ارفق
قالت اولم تسم
ما تاتانا قال اولم
تسمعی ما قلت
رددت علیہم
فیستجاب لی فیہم
ولایستجاب لی فی
آخری الفاویہ
عنوان باب ہے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ مگر یہ جملہ زائد
ہے فان الملائکۃ
تؤمن
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دیکھو نوٹ نمبر
۵۵۵
کتاب الدعوات
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
اللہ تعالیٰ کی
نافی سے پکارنا
یہ اس کے ہوں کا
گرجتا ہے اور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشربہ انتہارم ولے

بار بار رحم

کہنولے کے نام سے

۸۱- کتاب الرقاق

۸۱- رقت کی کتاب

(۱) **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَيْشَ إِلَّا بِالْآخِرَةِ**

باب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول

حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے

(۲) **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

نِعْمَتَانِ مَغْبُوتَانِ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الضُّعْفُ وَالْقِرَاءَةُ (۳۵۸۶) **عَنْ**

دو نعمتیں ہیں بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکا کھاتے ہیں صحت اور فراغت

ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۹۱) (۵) (۳۵۸۷) (۳۵۸۸) (۵) (۳۵۸۸)

دیکھو حدیث ۲۲۹۱

دیکھو حدیث ۳۵۸۸

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۷۹۲) (۲) بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَقَوْلُهُ

دیکھو حدیث ۱۷۹۲

باب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اور اللہ تعالیٰ

تَعَالَى أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكِبَارٌ فِي الْأَمْوَالِ

کا قول دنیا صرف کھیل اور تماشہ اور زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا

اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت چاہنا

وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَسْحَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْدِيهِمْ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَكُونُ

جسے بارش کی طرح کھانسیوں کو اس کی روئیدگی نے خوش کر دیا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور قوس سے زبرد دیکھا ہے پھر

حَطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ

وہ چوراج پرا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی اور دنیا صرف دھوکے

الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُودِ (۳۵۸۹) (۳) سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۳۳۲) (۳) بَابُ

کامسامان ہے (الحمد لله - ۱۰)

دیکھو حدیث ۱۳۳۲

قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ وَسَيْلٌ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول

دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم سافر ہو یا راہ چلنے والا

(۲۲۹۲) **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلِكِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ وَسَيْلٌ

دونوں شانے پکڑے پھر فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم سافر ہو یا راہ چلنے والے اور ابن عمر

ابن عمر يقول إذا أفسيت فلا تنتظر الصبا حوادا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ

کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کو نونہ کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کو شام کا انتظار نہ کرو

مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (۳) بَابُ كَيْفِي الْأَمَلِ وَطَوْلِهِ وَقَوْلُهُ

اور اپنی صحت میں اپنی بیماری کیلئے زمانہ اٹھانے اور اپنی زندگی سے اپنی تنہا کیلئے باب آرزو اور اس کی ردازی کے باروں اور اللہ تعالیٰ

۱۲۲۵ رفاق حقیق

کی جمع ہے جو فرقہ سے ہے اور فرقہ

رحمت ہے۔ اس کتاب کی یہ نام اس

نے رکھا گیا کہ اس کی احادیث قلب

میں رقت پیدا کرتی ہیں

مطلی صحت اور فراغت انسان کو

دو نعمتیں دی گئی ہیں مگر انہی دو نعمتوں

میں وہ پروا نہیں کرتا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا

اور اس لئے ان کے بارے میں دھوکا کھاتا ہے

مسیبیاں صرف عن النبی صلعم

مثلاً ہے ایک حکمور ہے۔

یہاں لفظ ہے۔ عن النبی صلعم

قال اللهم لا عيش الا عيش

الآخرة فالصلح الا انصار والمهاجرة

خفيف اختلاف الفاظ سے دوہرایا ہے۔

کننا رسول اللہ صلعم

الحنان دھو حوض

دھن منتقل للتراب

وبعد بان نقل اللهم لا عيش

الآخرة - فاختصر

۱۲۲۵

۱۳۳۲

۳۵۸۸

۳۵۸۸

۱۷۹۲

۱۳۳۲

۳۵۸۹

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

کافول جو آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی معرفت دھوکے کا سامان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما

مَتَاعٌ الْعُرُورِ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهَمُ الْأَمَلُ شَوْفَ يَعْلَمُونَ وَقَالَ

ان کو رہنے دو کہ تمہاری اور فائدہ انگھائیں اور آرزو ان کو غفلت میں رکھے سو غریب جان لیں گے اور حج (۳) اور حضرت علی

عَلِيٌّ ارْتَحَلَتْ الدُّنْيَا مَدِيرَةً وَأَرْتَحَلَتْ الْأَخْرَجَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَقْتَمَا

نے فرمایا کہ دنیا بیٹھ پھیر کر کوچ کر جاتی ہے اور آخرت کوئی کر کے سامنے آ جاتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے میں

بَنُونَ فَلَوْ نَوَّأْنَا مِنْ أَبْنَاءِ الْأَخْرَجَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ

سو تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو کیونکہ آج عمل ہے

وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ يَبْزُخُ حِجَابَهُ بَيْبَاءُ عِدَّةٍ (۲۲۹۳) عَنْ

اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت نہیں ہوگا بجز حجبہ کے معنی سے دور کر دیا

عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مَرَّتَيْنِ وَخَطَّ

عبداللہ سے روایت ہے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا اور ایک

خَطًّا فِي لَوْسَطِ خَارِجَاتِهِ وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ

درمیان میں کھینچا جو اس سے باہر نکل گیا اور کئی خط چھوٹے چھوٹے اس خط کی طرف کھینچے جو درمیان میں ہے اس مربع خط

مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَيُحِيطُ بِهِ

کے اس جانب سے جو اندر کی طرف ہے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اہل ہے جس نے اسے

أَوْقَدَ أَحَابِرِيَّةً وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخَطُّ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ

گھیرا ہوا ہے اور یہ جو باہر نکلا ہے اس کی آرزو ہے اور یہ چھوٹے خطا جاتے ہیں

فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا أَهْمَشَةُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا أَهْمَشَةُ هَذَا (۲۲۹۴) عَنْ

اگر یہ اسے نہ لگا تو یہ اسے پہنچے گا اور اگر اسے وہ نہ لگا تو یہ اسے لگے گا

أَنْسِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کھینچی اور فرمایا یہ آرزو ہے اور یہ

أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ لَكَ إِذَا جَاءَهُ الْأَخْطُ الْأَقْرَبُ (۵) بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ

اس کی اہل وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ قریب کا خط اسے آیتا ہے باب جو ساٹھ برس کو پہنچا

سَنَةً فَقَدْ أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي لَعْمَرٍ لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ نَعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ

تو عمر کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر باقی نہیں رہنے دیا اس لئے کہ تم کی وجہ سے کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو

تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ التَّذَكُّرُ (۲۲۹۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نصیحت پڑھنا اور نصیحت پڑھنے اور تم سے اسے پاس نظر سے آجگاہ کر لینا کیا یا الفاظ (۳) اور ہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَى أَمْرِي آخِرَ أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً (۲۲۹۶)

کہ فرمایا اللہ نے میرے انسان کا عذر باقی نہ چھوڑا کہ اسے یہاں تک پیچھے رہنے دیا کہ وہ ساٹھ برس کو پہنچا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا

يُنَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي ثَلَاثِينَ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوْلُ الْأَمَلِ (۲۲۹۷) عَنْ

انسان کا دل دو چیزوں کے ہاویں برابر جوان رہتا ہے دنیا کی محبت اور درازی امید

أَنْسِ مِنْ رِوَايَتِهِ

۲۲۹۳

یعنی انسان کی زندگی حادثات سے بھری ہوتی ہے۔ ایک حادثہ سے بچ نکلے گا تو دوسرا آئے گا۔ دوسرے سے بچ نکلے گا تو تیسرا۔

۲۲۹۴

۲۲۹۵

۲۲۹۶

۲۲۹۷

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيُكْبَرُ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ

مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ النَّبَالِ وَطَوْلُ الْعُمُرِ (۲) بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتِغِي بِهِ وَجْهَ

دو چیزیں رہتی ہیں جو مہنگی جانی ہیں مال کی محبت اور عمر کا طول باب وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی رضا مندی طلب کی جاتی ہے

اللَّهُ فِيهِ سَعْدٌ (۳) ۵۹۰-۳ حَنْ مُخْمُو دِينَ الرَّبِّ (مُتَكَرِّرٌ ۷۰) (۲۲۹۸) حَنْ

اس کے متعلق سعد کی روایت ہے اور دیکھو حدیث ۷۰

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَبْدُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس

الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَبِيغَةَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا

مومن بندے کا بدلہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کی پیاری چیز لے لی اور اس سے میری منیٰ کی خاطر میری

الْجَنَّةِ (۴) بَابُ مَا يُجْزَى مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالنَّفَاسِ فِيهَا (۵) ۵۹۱-۳ حَنْ

سوائے جنت کے نہیں ہے باب دنیا کی رونق اور اس میں رحمت سے ڈرانا

سَكْرٌ وَبَنُ كَوْفٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۷) (۱۲۳۳) ۵۹۲-۳ حَنْ عَقِبَةَ بَيْنَ عَامَرٍ (مُتَكَرِّرٌ ۳۱) ۵۹۳-۳ حَنْ

دیکھو حدیث ۲۷ اور ۳۱

أَبِي سَعِيدٍ (مُتَكَرِّرٌ ۷۵) (۵) ۵۹۴-۳ حَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

دیکھو حدیث ۷۵

(مُتَكَرِّرٌ ۱۲) ۵۹۵-۳ حَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرٌ ۱۲) (۱۲) ۵۹۶-۳ حَنْ

دیکھو حدیث ۱۲ اور ۱۲

خَبَابٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۸) (۲۱) ۵۹۷-۳ حَنْ خَبَابٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۸) (۲۱) ۵۹۸-۳ حَنْ

دیکھو حدیث ۲۸ اور ۲۸

عَنْ خَبَابٍ (مُتَكَرِّرٌ ۲۸) (۲۸) ۵۹۹-۳ حَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

دیکھو حدیث ۲۸ اور ۲۸

یہ حدیث کتاب الجنائز میں مذکور ہے۔ اس کا مضمون زیادہ ہے۔ و زعم محمد بن عقیل رسول اللہ صلعم وقال عقل حجة في دارهم قال سمعت عبات بن مالك الانصاري ثم احبني سام قال عن ابي علي رسول الله صلعم قال ابن يوفى عيد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغى به وجه الله الا حرم الله عليه النار

تعلق حدیث کے آخری الفاظ سے ہے۔ وکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما تبسط علی من کان قد کفر فتناسوا لها کما تناسوا لها تلهیکم کما التھتم۔ میں اس آوی نقرہ کی جگہ سے دیکھتا ہوں کہ کتنا اھک کہہ گا۔ اسی الفاظ میں دو ہر ایسا ہے اس کے آخر میں ہے وکن اخاف علیکم ان تناسوا فیہا کما خفیت اخلاوت الفاظ سے دو ہر ایسا ہے۔ قال رسول اللہ صلعم ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض قیل وما برکات الارض قال زھرة الدنیا راسی سے عنوان باب ہے فقال له رجل هل یاتی الخیر بالشور یعنی مال تو ایک خیر ہے کیا اس سے شریک ہوگی فصحت النبی صلعم حتی ظننا انه ینزل علیہ ثم جعل یمسح عن جبینہ فقال ابن السائل قال انا قال ابو سعید لقد محمد ناہ عن طعم ذلک قال لا یاتی الخیر الا بالخیر ان هذا المال خضرة حلوة وان کل ما ائبت الریبہ یقتل حیطاً اولیہ امرتکے قریب کر دیتا ہے الا کلمة الخضرۃ اکلت حتی اذا امتدت حاضر تاها استعقلت الشمس فاجترت وثمطت وبالت ثم عادت فاکلت وان هذا المال حلوة من اخذہ حقیقہ ووضفہ فی حقہ فنعیم المعونة ہو ومن اخذہ بغير حقہ کان الذی یاکل ولا یتبع کما قالہ کاشری ہے کہ جب انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح جانور کھاتا جائے اور اس کا پیٹ نہیں بھر تا تو وہ اس کیلئے قوت کا موجب نہیں ہوتا بلکہ دل دنیا کی ہوس اس طرح بڑھتی ہے کہ اطمینان قلب باقی نہیں رہتا۔ یہی اسی الفاظ میں دہرایا ہے۔ اپنی قرن خیر القرن اور اسکے بعد کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ہم ۱۲۱۱ عبد اللہ بن سعید کی روایت ۱۲۲۳ کے مضمون کے مطابق ہے۔ یہاں بھی روایت عبد اللہ بن سعید کی ہے اور لفظ ۱۲۱۱ اس کے ہیں۔ یہ خفیت اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ قال سمعت خباباً وقد اتتہ الکتی یہ مکتا سبغانی بطنہ وقال لولا ان رسول اللہ صلعم نہا فان ندحو بالموت لم دعوت بالموت ان اصحاب محمد صلعم مضوا ولم تنقصہم الدنیا بسختی وانا اصعبا من الدنیا ما لا یجد له موضعاً الا التراب وعلما ان بابک تعلق اسی حصہ سے ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ ائبت خباباً وہو یبغی حاسطاً له فقال ان اصحابنا

م الذین مضوا لم تنقصہم الدنیا بسختی وانا اصعبا من بعدہم شیئاً لا یجد له موضعاً الا التراب۔ اہل معرفت بڑی الفاظ دہرائے ہیں ہاجرتا مع رسول اللہ صلعم قضی

وَعَسَى اللَّهُ سَخَّ فَرَاغَهُ تَعَزُّزَكَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ

اس کا دوزخ چاہے سو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور بڑا دھوکا باز اللہ کے مستحق تم کو دھوکے میں نہ ڈالے شیطان

لَكَ عِدُوٌّ وَأَقْرَبُ فَاتَّخِذْ وَاللَّهِ عَدُوًّا لِمَنْ كَفَرَ بِهِ لِيَكُونَ نَوَاصِرًا مِّنْ أَصْحَابِ السُّعُورِ جَمْعُهُ سَعِيرٌ

تمارا دشمن ہے سو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں (الفطر: ۵-۶) سعیر

قَالَ مُجَاهِدٌ الْغُرُورُ الشَّيْطَانُ ۵۹۹ (م) عَنْ ابْنِ أَبِي عَرَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

کی جمع سے مجاہد نے کہا غرور شیطان ہے دیکھو حدیث ۱۳۵

(۹) بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ (م) ۶۰۰ (م) عَنْ مُرْدَاةَ بْنِ الْأَسَدِيِّ (م) تَكْرُرًا (۱۸۰۱)

باب نیکوں کا گزر جانا دیکھو حدیث ۱۸۰۱

(۱۰) بَابُ مَا يَتَّقِيهِ مِنَ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ كُدِّمَتْ عَلَيْهَا

باب مال کے فتنے سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم لوگ مال اور تمہاری اولاد کو فتنے سے (التقآن: ۱۰)

(م) ۶۰۱ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م) تَكْرُرًا (۱۳۲۹) (م) ۶۰۲ (م) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م) تَكْرُرًا

دیکھو حدیث ۱۳۲۹ دیکھو حدیث

(۲۲۹۹) (م) ۶۰۹ (م) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَا كَلَّكَ أَحَبَّ أَنْ لَّهُ لِيَوْمِ مِثْلِهِ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ

فراتے تھے کہ اگر ابن آدم کا ایک اذی کے برابر مال ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے لئے اس کے ساتھ ملا کر اتنا ہی اور ہو اور ابن آدم کو

آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنْ

کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی اور اس پر رجوع برکت کرتا ہے جو توبہ کرے ابن عباس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن کا

الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ ۶۰۰ (م) ۶۰۱ (م) ۶۰۲

حصہ سے یا نہیں کہا اور میں نے ابن زبیر کو اس کے گھر پر یہ کہتے تھے ۵۱

عَبَّاسٍ بَنِ سَهْلٍ بَنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَمْلَأُ فِي خُطْبَتِهِ

بن سہل بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے ابن زبیر کو کہیں مینبر پر خطبہ میں کہتے تھے

يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ

اے لوگو بنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے

وَإِذَا مَلَأَ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا لَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ

وا دی دی جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ دوسری ہو اور اگر اسے دوسری دی جائے تو اس کے ساتھ تیسری چاہے گا اور

جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَابَ (م) ۶۰۰ (م) ۶۰۱ (م) ۶۰۲ (م) ۶۰۳

ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کچھ نہیں بھر سکتا اور اس پر رجوع برکت کرتا ہے جو توبہ کرے اس بن مالک سے روایت ہے

۱۔ ضعیف اختلاف سے دوہرایا ہے اور آخر میں ہ لفظ پڑھائے ہیں بن کا تعلق عثمان باب سے ہے قال ابنت عثمان يظهور وهو جالس على المقاعد رمية من ابي جندب کا نام ہے مقوضا فاحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترضأ وهو في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من ترضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركبه ركبتين ثم جلس غفر له ما في تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا وادعوا تكلموا يعني ناهي يرحلت ثم كروى في ۱۳۵ میں نہیں ہ لفظ یوں ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ لم یذہب الصالحون الا دل فاکول ویغنی حفالة الشعیر او التمر یا ما لہم اللہ باللہ قال ابو عبد اللہ یقال حفالة وحتالة ۱۔ لم یذہب ابتدائی حصہ ان الفاظ میں دوہرایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال عبد الدینار والد رحمہم والقطیفة رکیل والخصیفة رجاور ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرض ۱۔ لفظ یہ ہیں۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان ابن آدم وادیان من مال لا یبتغی ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب ۱۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ربوی کی غلطی سے اسے قرآن کا حصہ ٹھہرایا گیا۔ مگر خود مسلم نے بھی اس روایت کو کمزور سمجھا ہے ۱۔

۱۸ تھوڑے
اختلاف الفاظ
سے دوسرا ہے
کنت اھشی مع
النبی صلعم فی
حرۃ المدینۃ
فی استقبال احد
فقال یا ابا ذر
قلت لیک یا
رسول اللہ قال
ما یسوی ات
عندی مثل احد
ھذا ذھباً تمضی
علی ثالثۃ وعلی ثانیۃ
منہ دیناراً وراشیاۃ
ارجدہ لذات
الا ان اقول بہ
رے تعظیم کردن
فی عبادۃ اللہ هلکنا
وھلکنا وھلکنا
عن بیئینہ وعن
شمالہ ومن خلفہ
تم مشنی فقال
ان الا کثرین ہم
الا قلوب یوم
القیامۃ الامن

(۱۴۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا

باب ۱۴۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں پسند نہیں کرتا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا میرے پاس ہو

(۴۰۶-۴۰۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (مُتَكَوِّرٌ ۱۱۵۲) (۴۰۶-۴۰۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ ۱۰۶۱)

(۱۴۵) بَابُ الْغَنِيِّ غَنَى النَّفْسِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَيْحْسِبُونَ أَنَّ مَا نَعُدُّهُمْ بِهِ مِنْ

باب ۱۴۵ دل کا غنی ہی روح حقیقت، غن ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے ہیں

مَرَلٍ وَبَيْنَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ دُونَ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ قَالَ ابْنُ

(ابن ابی اور بیٹے اللہ کے قول میں دونوں، اے اللہ، ہم لہا عاملون تک والمؤمن - ۱۶۳ تا ۱۶۵ ابن عیینہ نے مارہم لہا غافلین سے مراد ہے)

عَيْزَةَ لَمْ يَعْمَلُوا لَأَبْدٍ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوا (۴۰۸-۴۰۹) عَنْ أَبِي

انوں نے اسے نہیں کیا، ضروری ہے کہ اسے کریں ابو ہریرہ

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا غنا کثرت مال سے نہیں ہوتا غنا حقیقت میں

الْغَنِيُّ غَنَى النَّفْسِ (۱۴۶) بَابُ فَضْلِ لَفْقَرٍ (۴۰۸-۴۰۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

دل کا غنی ہے باب ۱۴۶ فقر کی فضیلت

(مُتَكَوِّرٌ ۲۰۲۱) (۴۰۹-۴۱۰) عَنْ خُبَّابِ (مُتَكَوِّرٌ ۶۸۵) (۴۱۰-۴۱۱) عَنْ عِمْرَانَ

دیکھو حدیث ۲۰۲۱ دیکھو حدیث ۶۸۵

ابنِ حُصَيْنٍ (مُتَكَوِّرٌ ۱۲۶۸) (۴۱۱-۴۱۲) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (مُتَكَوِّرٌ ۲۰۸۳) (۴۱۲-۴۱۳)

دیکھو حدیث ۱۲۶۸ دیکھو حدیث ۲۰۸۳

عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرٌ ۱۲۰۲) (۴۱۳-۴۱۴) بَابُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب ۱۴۳ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَخَلِيفَتِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا (۴۱۳-۴۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ ۲۰۶۹)

صحابہ کا گزارہ کر دیکھا اور دنیا سے ان کا الگ ہونا دیکھو حدیث ۲۰۶۹

(۴۱۳-۴۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ ۲۰۶۹)

قال هلكن او هلكت او هلكتا وعن شماله وعن خلفه فقال ان الا کثرین ہم الا قلوب یوم القیامۃ الامن
توازی سمعت صوتاً اذ ارتفع فتخوفت ان یكون قد عرض للنبی صلعم فاردت ان اتیه فذکرت قوله لی لا تبرح حتی اتیک فلم ابرح حتی اتانی قلت یا
رسول اللہ لقد سمعت صوتاً اذ تحوت فذکرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاک جبریل اتانی فقال من مات من مات من امتک لا یشترک باللہ شیئاً دخل
الجنة قلت وان ذی وان سوق قال وان ذی وان سوق (مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کی سزا جھکت کر آخرت میں چلا جائے گا) ۱۰۶۱
ابو ہریرہ کی روایت کا سنون ۱۱۵۲ ابو ذر کی روایت کے سنون کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہاں لفظ م ۱۰۶۱ کے ہیں جو کثرت روایت خفیف
اختلاف الفاظ سے آئی ہے۔ اور رجل علی رسول اللہ صلعم فقال لرجل عندہ جالس ما را یتک فی هذا فقال رجل من اشرف الناس هذا والله حشری
ان خطب ان یتکم وان یشفع ان یشفع قال فسکت رسول اللہ صلعم ثم مر رجل فقال له رسول اللہ صلعم ما را یتک فی هذا فقال یا رسول اللہ هذا
رجل من فقراء المسلمین هذا احوی ان خطب ان لا یتکم وان یشفع ان لا یشفع وان قال ان لا یتکم لقلوبہ فقال رسول اللہ صلعم هذا اخیر من
هل الارض مقلی لکم قریباً وی لفظہم۔ ومنہا من ایتتہ لہ ثم تہ فہو یدرہا میاں آخرت ہے۔ وہی لفظ میں ۱۰۶۱ میں لفظ میں ہیں۔ قال
لم یا کمال اللہ صلعم علی ان حقی مات دھا اکل خبزاً ہرقاً احق مات ۱۰۶۱ مگر قریباً ہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
وقت حضرت عائشہ کے گھر میں ہر تھوڑے سے ہوتے ۱۰۶۱ مکر روایت بہت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ۱۰۶۱
میں نہیں کان یقول اللہ الذی لا الہ الا ہوان کنت کا عہد بکنی علی الارض (زمین کا سمارالیت تھائیں سخت بھوک سے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جانا تھا)
من الجوع وان کنت لا تشد الحجر یجرہا بذھتھا، علی بطنی من الجوع وان لقد تعدت روماً علی طریقہم الذی یخرجون منہ ربانی یرصفہ (۴۱۳)

ملہ اس کے لفظ میں ہے۔ ان رسول اللہ صلعم قال سدوا وادخلوا ان لن يدخل احکم علی الجنة وان احب الی اعمالہ وادھا الی اللہ وان قل۔

ملہ مکرر روایت کی پیش سے آئی ہے۔ قات مثل النبیل صلعم امی الاعمال احوالی اللہ قال ادوها وان قل وقال الکفا من الاعمال مانطیقون۔

ملہ قریباً نبی اللہ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔

ملہ اسی ضمن کی روایت البیہریہ کی ۳۱۶ اور ۳۱۷ پر گزری ہے اپنے آپ کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسانوں سے کیا ہے۔

(۴۲۲-۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۲۹) (م-۳۶۲۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا)

۴۹۸ (۵-۳۶۲۲) عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا) (۱۰۰۳) (۵-۳۶۳۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدُّوا وَأَوْقَارُ مَبْرُودًا أَشْرُودًا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا أَوْ لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَتَغَمَّدُ اللَّهُ

بِمَعْرَفَتِهِمْ وَرَحْمَتِهِ (م-۳۶۲۵) (۵-۳۶۲۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا) (۵-۳۶۲۶) (م-۳۶۲۶)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا) (۳۶۰) (۱۹) بَابُ التَّجَاوُغِ مَعَ الْخَوْفِ وَقَالَ سُقَيَانُ مَا فِي لُقْمَانَ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَى مَنْ لَسَمَهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقِيْمُوا

التَّوْبَةَ وَالْأَنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ زَكَاةٍ (م-۳۶۲۷) (۵-۳۶۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا) (۳۶۱) (۲۰) بَابُ الصَّبْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُؤُا وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ

(م-۳۶۲۸) (۵-۳۶۲۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا) (۴۸۹) (م-۳۶۲۹) (۵-۳۶۲۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

شَجَبَةٌ (مُتَكَوِّرًا) (۲۱) (۲۱) بَابُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ لَرَبِيعِ بْنِ خَدِيمٍ مَنْ كَلَّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ (م-۳۶۳۰) (۵-۳۶۳۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مُتَكَوِّرًا) (۲۱۵۷)

(۲۲) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلٍ قَالَ رَمَى - ۳۶۳۱ (۳۶۳۱) وَرَأَى كَاتِبَ الْمُغَيَّرَةِ بَابُ قِيلٍ وَقَالَ كَاتِبُ بَيْتِكَ كَاتِبُ
(متکرر۔ ۵۰۔ ۲۳۳) بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دیکھو حدیث ۵۰۔ ۲۳۳ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ اور جو اٹھاد اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمِتْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تو اچھی بات کے یا خاموش رہے یا اللہ تعالیٰ کا قول وہ کوئی بات نہیں کرتا اگر تم نے اس کو اس کی جگہ پر ہمتا جو اس نے کہا
(۳۶۳۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سہل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو چھے اس چیز
لَيْظَمَنَّ لِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ (رَمَى - ۳۶۳۲) (۳۶۳۲) عَنْ کی ضمانت دیتے ہیں جس کے دونوں چہرہ کے درمیان سے اور جھانکے دونوں پاؤں کے درمیان جو تو اس کو اپنے جنت کا ضامن بن کر گناہ
أَبِي هُرَيْرَةَ (رَمَى - ۲۲۱۸) (رَمَى - ۳۶۳۳) عَنْ أَبِي شَرِيحَةَ الْخَزْرَجِيِّ (رَمَى - دیکھو حدیث ۲۲۱۸ (رَمَى - ۳۶۳۳) عَنْ أَبِي شَرِيحَةَ الْخَزْرَجِيِّ (رَمَى -
(۲۲۱۹) (رَمَى - ۳۶۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَمَى - ۲۳۰۰) (۲۳۰۰) (رَمَى - ۲۳۰۰) عَنْ أَبِي دیکھو حدیث ۲۲۱۹ (رَمَى - ۳۶۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَمَى - ۲۳۰۰) (۲۳۰۰) (رَمَى - ۲۳۰۰) عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہی انسان اللہ کی رضا کی کوئی بات کہتا ہے وہ اسے کوئی ایسا
اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بِالْأَيْدِي مَا يَرْفَعُ اللَّهُ يَهْدِيهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ نہیں دیتا اللہ اس کی وجہ سے اور بے بند کو دیتا ہے اور کہی انسان کوئی بات اللہ کی ناراضگی کی کہتا ہے
سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بِالْأَيْدِي مَا يَنْهَى فِي جَهَنَّمَ (رَمَى - ۲۳۰۰) بَابُ الْبُكَاءِ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے بَابُ الْبُكَاءِ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ کے ڈر سے رونا
(رَمَى - ۳۶۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَمَى - ۲۲۲۸) (۲۲۲۸) بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ دیکھو حدیث ۲۲۲۸ (رَمَى - ۳۶۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَمَى - ۲۲۲۸) (۲۲۲۸) بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ
(رَمَى - ۳۶۳۶) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُدَيْرٍ (رَمَى - ۱۵۴۰) (رَمَى - ۳۶۳۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ دیکھو حدیث ۱۵۴۰ (رَمَى - ۳۶۳۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَجُلًا فِيهِمْ كَانَتْ سَلَفَتْ أَوْ قَبَلَتْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو پہلے گوئیے یا تم سے پہلے بولنے

عنه من رسول
ان معاذ يهتف
الى المخيرة ان
الكتب التي بحديث
سمعه من رسول
اللله صلعم قال
فكتب الى اله اخيرة
ان سمعه يقول
عند انصوافه
من الصلوة لا
الاله الا الله وحده
لا حول ولا قوة الا
بالحق وله الحمد
وهو على كل شئ
قدير ثلاث مرات
قال وكان ينطق
عن قيل وقال و
كثرة السؤال
واضاعة المال
ومعوج دعوات و
عقود الامهات و
وواد اليتامات

عنه من رسول ان معاذ يهتف الى المخيرة ان الكتب التي بحديث سمعه من رسول اللله صلعم قال فكتب الى اله اخيرة ان سمعه يقول عند انصوافه من الصلوة لا اله الا الله وحده لا حول ولا قوة الا بالحق وله الحمد وهو على كل شئقدير ثلاث مرات قال وكان ينطق عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ومعوج دعوات وعقود الامهات وواد اليتامات

عنه من رسول ان معاذ يهتف الى المخيرة ان الكتب التي بحديث سمعه من رسول اللله صلعم قال فكتب الى اله اخيرة ان سمعه يقول عند انصوافه من الصلوة لا اله الا الله وحده لا حول ولا قوة الا بالحق وله الحمد وهو على كل شئقدير ثلاث مرات قال وكان ينطق عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ومعوج دعوات وعقود الامهات وواد اليتامات

اَتَاَهُ اللهُ مَا لَمْ يَرْجُو وَلَكِنْ اَعْطَاهُ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لِيُنْبِئُوا نِيَّ اَبِ
اشترنے سے مال اور بیٹے دیکھے فرمایا جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا اپنے بیٹوں سے کہا میں کیسا باپ تھا

كُنْتُ قَالَ لَوْ اَخِيْرَ اَبِ قَالَ فَارْتَهَلْتُمْ يَدَيْكُمْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا فَاَسْرَهَا قَتَادَةَ لَمْ يَلْجِزْ
انہوں نے کہا اچھا باپ کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کوئی اچھا کام بطور ذریعہ نہیں سمجھنا

وَرَانُ يَقْدَمُ عَلَى اللهِ يُعْرَبُ بِهِ فَانظُرُوا فَاِذَا مِتُّ فَاحْرِقُوْنِي حَتَّى اِذَا اصْرَتْ
اور اگر وہ اشک سے ملنے جائے گا تڑپ سے خدا سے دعا کی جائے کہ میری جگہ سے میرا جلا دو

فَحُمًا فَاشْحَقُوْنِي اَوْ قَالَ قَاَسْهُكُوْنِي ثُمَّ اِذَا كَانَ رِيْحًا صَافٍ فَادْرُوْنِي فِيهَا
تو مجھے تیس ڈالو پھر جب تند ہوا مجھے اس میں بھیر دو

فَاخِذْ مَوَاتِيْعَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَرَبِّيْ فَعْمَلُوْا فَقَالَ اللهُ كُنْ فَاِذَا رَجُلٌ قَاَلِمٌ مِّمَّكُمْ
یہ اس سے اس پر عہد لیا میرے رب کی قسم سوائوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے فرمایا میرا تو ناماں وہ ایک آدمی تھا کھڑا ہوا

قَالَ اُمِّيْ عَبْدِيْ مَا سَمَّيْتُكَ عَلٰى مَا فَعَلْتِ قَالَ فَمَا فَعَلْتِ اَوْ فَرَّقْتِ مِّنْكَ فَمَا
پھر فرمایا اسے میرے بندے! مجھے کس چیز میں نے اس پر نام دیا کہ جو تو نے کیا کیا تیرا شوخ

تَلَا فَاَكَانَ رَحْمَةً اللهُ مُحَمَّدٌ نَّتُ اَبَا عَثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ
جسے اس نے پایا یہ بھی کہا اللہ نے اس پر عہد کیا پھر میں نے یہ حدیث ابو عثمان سے بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے سلمان کو ایسا ہی سنا

زَادَ فَادْرُوْنِي فِي النَّجْرِ وَكَمَا حَدَّثَ (۲۶) بَابُ الْاِفْتِهَارِ عَنِ الْعَاصِمِ (۲۳۰۸)
سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سزا میں بھیر دو ایسا بیان کیا

عَنْ اَبِيْ مُوسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا بَعَثَنِي
ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے

الله كَمِثْلِ رَجُلٍ اَتَى قَوْمًا فَقَالَ رَاَيْتُ الْجَنِيْثَ يَبْعِيْنِيْ وَيَرَانِيْ اَنَا التَّنْبِيْزُ الْعَرِيَانُ
مجھے یہ کیا بھیجا اس شخص کی طرح ہے جو ہماری قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے پوری دونوں آنکھوں سے لنگر دیکھا ہے اور تمہاری

فَالنَّجَاءُ لِيْ اَوْ اَنَا لِحَا عَتَّةٍ طَائِفَةٌ فَادْرُوْنِي اَعْلٰى اَهْلِيْهِمْ فَتَجَوُّوْا كَذَبَتَهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحُوْهُمْ
صاف صاف اور انہیں انہوں میں نہات تو اس کی نشان دہی کرو تو ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور پہلی رات سے آرام سے چلا اور دوسرا

الْجَنِيْثُ فَاجْتَا اَهْلَهُمْ (۲۳۰۸) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۱۵۳۸) (۲۳۰۹)
نے نہات مثال کی اور ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور کہا میں نے یہ سنا اور اس کو ہلکا کر دیا اور دیکھو حدیث ۱۵۳۸

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۱۰) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنْعَمْتُ
دیکھو حدیث ۱۰ باب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر تم وہ ہوتے

مَا اَعْلَمُ لَكُمْ نِعْمَةً قَلِيْلًا وَلِبَكِيْمٍ كَثِيْرًا (۲۳۰۹) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
جو میں جانتا ہوں تو نیکوئی تم تصور نہیں کرتے اور بہت سے روایت ہے

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَكُمْ نِعْمَةً قَلِيْلًا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو نیکوئی تم تصور نہیں کرتے

وَلِبَكِيْمٍ كَثِيْرًا (۲۳۰۹) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۲۲۸۸)
اور بہت سے روایت ہے دیکھو حدیث ۲۲۸۸

یہاں اس مثال میں
سنا ہوں کے بد
تاریخ سے ڈرایا ہے
اور بتایا ہے کہ اگر
تم اپنی اصلاح
نہیں کرتے تو نیکوئی
ہلکا ہو جاؤ گے
علاوہ اسی پر
پہلا حدیث کے زیاد
کے ساتھ بیان کیا
ہے۔ انہوں نے
رسول اللہ صلی
یقول انما مثل
ومثل الناس
کمثل رجل استوفى
ناذرا فلما اصابته
ما سأل جمل الفراء
وهذا التواضع
التي تقع في النار
يقول فيها اجعل
يا زعمون وان
بناها ويخلصه
فيقتل من فيها
رجيم كركه اس
بما كرت فانما
الظلم بجرح
رفيقه جبارا
بند عن النار
وهم يقتلون
فيها
علاوہ اسی پر
سزا میں بھیر دو
کون
۲۳۰۸
۲۳۰۹
میں فرمایا ہے
حضرت عائشہ کی
روایت ہے

جس میں خطاب است محض ہے تو بیان لوگوں کو فرمایا جو آپ کے بہت پیچھے آئے تھے اور جن کے اعمال بگڑ گئے وہ یہاں روایت مختصر ہے۔ ان کا
النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لکم نعمة قليلا وليكثيرا .

(۲۸) بَابُ مَحَبَّةِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ (۲۳۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَحَبَّةِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ وَ مَحَبَّةِ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِهِ

صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آگ پر شہوات کا پروردہ ہو گیا اور جنت پر مشقتوں کا پروردہ ہو گیا۔

(۲۹) بَابُ الْجَنَّةِ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِمَّنْ شَرَاكَ نَعْلَيْهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

جنت تمہیں سے ایک کے ایک کے ہونے کے تیسے سے زیادہ قریب ہے اور آگ اس طرح دوزخ

را (۲۳۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ

أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِمَّنْ شَرَاكَ نَعْلَيْهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ (۲۳۱۱) عَنْ أَبِي

عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت

ہویرہ (متکو۔ ۱۰۶۔ ۳۰) بَابُ لَيْتَنظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ اسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى

دیکھو حدیث ۱۰۶۔ ۳۰۔ بابت انسان اسے دیکھے جو اس سے کمتر ہو اور اس کو نیچے دیکھے

مَنْ هُوَ فَوْقَهُ (۲۳۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو اس سے اوپر ہو ابوہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

قَالَ رَأَى أَحَدًا كَرِهَ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلَيْتَنظُرُ إِلَى مَنْ

کہ آپ نے فرمایا جب تمہیں سے کوئی اس کی طرف دیکھے جسے اس میں مال اور صورت میں فضیلت دی گئی تو چاہئے کہ اس کی طرف نہ دیکھا

هُوَ اسْفَلَ مِنْهُ (۲۳۱۳) بَابُ مَنْ هُمُ الْمُحْسِنُونَ أَوْ السَّيِّئُونَ (۲۳۱۳) عَنْ ابْنِ

دیکھو اس سے کمتر ہے بابت جو نیکی یا بدی کا ارادہ کرتے ابن عباس رضی

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا يَرُوي عَنْ زَيْنِ

بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کے متعلق روایت کرتے ہیں جو آپ اپنے رب عزوجل سے روایت

عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنْ كَتَبَ اللَّهُ كُتُبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ فَمَنْ

کرتے تھے کہا ہے فرمایا اللہ نے یہ بیان اور یہاں تک کہ وہی ہیں اور یہاں تک کہ وہی ہیں تو جو نیکی

هُمْ مُحْسِنُونَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ مِمَّنْ بِهَا

کا ارادہ کرے اور اسے عمل میں لائے تو اللہ سے اس کے لئے اپنے پاس ایک کاپی لکھی جتنی کہ وہ اس سے اس کا ارادہ

فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِينَ أَلْفَ ضِعْفٍ إِلَى الْأَضْعَافِ

کی اور اسے کر لیا تو اللہ سے اس کے لئے اپنے پاس دس نیکیاں لکھی جتنی کہ وہ اس سے سات سو گئے تک لکھ اس سے بھی چندہ چندہ

كَثِيرَةٌ وَمَنْ هُمُ السَّيِّئُونَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ

اور جو بدی کا ارادہ کرے اور اسے ذکرے اللہ سے اس کے لئے اپنے پاس کاپی لکھی جتنی کہ وہ اس سے اور اس کے لئے

هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ وَاحِدَةً (۲۳۱۴) بَابُ مَا يُغْنِي مِنَ مَخْرَجَاتِ الدُّنْيَا

بدی کا ارادہ کیا اور اسے عمل میں لایا تو اللہ سے اس کے لئے اپنے پاس ایک لکھی جتنی کہ وہ اس سے اور اس کے لئے

مِنْهَا مِثْلُهَا (۲۳۱۵) بَابُ مَا يُغْنِي مِنَ مَخْرَجَاتِ الدُّنْيَا (۲۳۱۵) عَنْ أَبِي

اس کے لئے اپنے سے زیادہ مال یا برصورت کے انسان کی طرف دیکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کیوں نہیں ملا تو چاہئے کہ جب ایسا خیال پیدا ہوا تو اسے

دور کر کے لیکن اپنے سے کمتر کی طرف دیکھ کر وہ بھی بہتوں سے بھی حالت میں ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ ہی وسیع مغفرت اور رحمت کا بیان ہے کہ وہ انسان کو بدی کے

مغفرت ارادہ پر نہیں پکڑتا بلکہ ارادہ کر کے پھر اس سے موثر پہنچ گیا تو وہ اس کا بیج جاننا جو اللہ کے خوف سے ہو گا ایک نیکی کے طور پر لکھی جاتا ہے لیکن اگر نیکی کا ارادہ کیا

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

اور پھر اسے کر لیا تو وہ بھی لکھی لیکن انسان کے رائے کی وجہ سے لکھی جاتی ہے جو جب تک ارادہ کو عمل میں بھی لے لے تو اس پر چندہ چندہ از مرتب ہوتے ہیں

۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰

وَمَا أَظْفَرُهُ وَمَا أَجْلَدُهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ وَثَقَالٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ رِيحَانٍ وَلَقَدْ آتَى

گنجان پڑا توڑت ہے کہ قدر دل اور سب کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا اور مجھ پر ایک

عَلَى زَمَانٍ وَمَا أَبَانِي أَكْبَرَ بَايَعْتُ لَنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّةُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ

وقت آیا تھا اور میں کوئی بدوائیں کرنا تھا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ بھی خرید و فروخت کروں اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسے اسلام اسکو مجھ پر پھیر

نَصْرًا وَإِنِّي أَرَدْتُ عَلَى سَاعِيهِ فَمَا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَا رِيعٍ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

دیتا اور اگر عیسائی ہوتا تو اس کی دالی اس کو مجھ پر پھیرنا تھا اور آج تو میں فلان اور فلان کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا

(۲۳۱۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عبداللہ بن مرزوق سے روایت ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَشْمَأُ النَّاسَ كَالْأَيْلِ الرَّمْيَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً (۲۳۱۷)

فرماتے تھے کہ لوکل ایسے سو اونٹوں کی طرح ہیں کہ تو ان میں سواری کے قابل کوئی اونٹ نہیں پائے گا

بَابُ الرِّيَاءِ وَالشُّعْبَةِ (۲۳۱۸) عَنْ سُلَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّ بَابِ يَقُولُ قَالَ

باب الیاء وہ عمل جو دکھال اور شہرت کے لئے ہے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے ان کے سوا کسی دو مرتبے کو نہیں سنا کہ وہ کہتا ہو کہ میرے صلے نے فرمایا

غَيْرَ كَذَبْتُ مِنْهُ فَمَعْنَاهُ يَقُولُ قَالَ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ سَمِعَ

تو میں ان کے قریب ہوتا اور ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کیلئے کام کرے گا اللہ اسکی تعزیر

اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَأَى يَرَأَى اللَّهُ بِهِ رُبَّمَا مِنْ جَاهِدِ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

کرے گا اور جو دکھائے کیلئے کام کرے گا اللہ اسکی جس حقیقت لوگوں کو دکھائے گا باجائے جو اللہ کی فرمائش میں اپنے نفس سے جہاد کرے

(۲۳۱۹) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَمَتْكَ (۲۳۲۰) بَابُ التَّوَضُّعِ (۲۳۲۱) دیکھو حدیث ۲۳۲۰

عَنْ إِبْنِ رَمْتِكَ (۲۳۲۵) (۲۳۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيُؤْتِي عَادِيَّ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا

فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے دل سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا

تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي

اور مجھے اپنے بندے کا مجھ سے قرب حاصل کرنا سچا اور زور سے اتنا مجھ سے قرب نہیں جتنا اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے بلکہ اور میرا

يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْأَفْعَلِ حَتَّى أُرْحَبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ لَنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ

بندہ برابر تو عمل سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں

عربی میں میرا حق اس سے دلاؤ تا مسلمان کو اس کا اسلام مجبوراً تاکہ وہ کسی کا حق نہ مارے اور غیر مسلم کو اس کا وہ الٹی سبھی ظاہری حکومت و عمل سواری کے قابل اونٹ ہی وہ اونٹ ہے جس سے نفع پہنچتا ہے یہی حالت انسانوں کی بیان فرمائی کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے اللہ اور کالعدم کے حکم میں ہیں۔ یعنی انہوں نے کسی اور صحابی سے نہیں سنا کہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتا ہو۔ بلکہ اس کے لفظ میں ۲۳۲۱ کے لفظ تو واضح وضع سے ہے۔ اپنے مرتبہ سے تنزل کا اظہار کرتا۔ بلا قریباً انہی

الفاظ میں دو ہر ایسا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ کی اونٹنی عضو بار سے جو سب سے بڑھ کر تیز رفتار سمجھی جاتی تھی۔ ایک اعرابی کا اونٹ آگے نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان حقائق علی اللہ ان لا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعه اللہ۔ جسے بلند کرتا ہے پھر دوسرے کو آگے بڑھا کر اسے نیچا بھی دکھاتا ہے۔ ایک معمولی واقعہ میں ایک اخلاقی سبق سکھایا کہ جو دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے وہ اپنی فوقیت پر اترا لے نہیں۔ بلکہ انکساری دکھائے کہ نہ کسی وقت اسے نیچا بھی دکھایا جائے گا۔ بلکہ یعنی خدا کے نزدیک خدا کا قرب حاصل کرنے کا سب سے پسندیدہ ذریعہ ان فرائض کا ادا کرنا ہے جو اس پر عائد کئے گئے ہیں۔ یہی مقدم ذریعہ ہے فوائد اس کے بعد آتے ہیں۔

۲۳۱۶ ۲۳۱۷ ۲۳۱۸ ۲۳۱۹ ۲۳۲۰ ۲۳۲۱ ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۳۲۶ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳۲۹ ۲۳۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۳۶ ۲۳۳۷ ۲۳۳۸ ۲۳۳۹ ۲۳۴۰ ۲۳۴۱ ۲۳۴۲ ۲۳۴۳ ۲۳۴۴ ۲۳۴۵ ۲۳۴۶ ۲۳۴۷ ۲۳۴۸ ۲۳۴۹ ۲۳۵۰ ۲۳۵۱ ۲۳۵۲ ۲۳۵۳ ۲۳۵۴ ۲۳۵۵ ۲۳۵۶ ۲۳۵۷ ۲۳۵۸ ۲۳۵۹ ۲۳۶۰ ۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۴ ۲۳۶۵ ۲۳۶۶ ۲۳۶۷ ۲۳۶۸ ۲۳۶۹ ۲۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۲ ۲۳۷۳ ۲۳۷۴ ۲۳۷۵ ۲۳۷۶ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۲۳۷۹ ۲۳۸۰ ۲۳۸۱ ۲۳۸۲ ۲۳۸۳ ۲۳۸۴ ۲۳۸۵ ۲۳۸۶ ۲۳۸۷ ۲۳۸۸ ۲۳۸۹ ۲۳۹۰ ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۲۳۹۳ ۲۳۹۴ ۲۳۹۵ ۲۳۹۶ ۲۳۹۷ ۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ۲۴۰۰

وَبَصِيرَةِ الْإِنْسَانِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاكَ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمِشُّ بِهَا وَإِنْ سَأَلْتَنِي

اور اس کی وہ آنکھ جس سے نہ دیکھتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ جس کو نہ چھو سکتا ہے اور اس کا وہ پاؤں جس سے نہ چل سکتا ہے اور اگر وہ مجھ سے پوچھے

لَا عِطِيَّةَ وَلَا زِيَارَةَ لِي لَأَجْعِدَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدَتْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ

ہے تو مرد میں سے دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور مجھ کو کسی بات میں جسے میں نہ کرنا چاہوں اتنا تو وہ نہیں

لِقِسْرِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا كَرِهْتُ مَسَاءَ تَهْرَمٍ (۳۹) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہو یا جیسا تو مردوں کی روح کے قبض کرنے میں ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا رہا اور میں اسکی ناپسند کو پسند نہیں کرتا مگر اسے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَمَا تَزِدُّ وَقَامَرُ السَّاعَةَ إِلَّا كَلِمَةً الْبَصْرَ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَلَى

کا قول میں اس گھڑی کے ساتھ بیجا گیا ہوں جیسی یہ دونوں انگلیاں اور اس گھڑی کا امر نہیں مگر انکھ کے لحو کی طرح یا اس سے بھی قریب ہو سکتا ہے

كُلِّ شَيْءٍ قَدْ تَزِدُّهُ - ۳۴۸ من سنن ابن ماجہ (متکرر ۱۹۸۰) (۳۱۸) من سنن ابن ماجہ (متکرر ۱۹۸۰) من سنن ابن ماجہ (متکرر ۱۹۸۰)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثْتُ وَالسَّاعَةَ كَمَا تَأْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں اس گھڑی اس طرح بیجا گیا ہوں جیسی یہ دونوں انگلیاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَمَا تَأْتِي يَعْزُبُ عَنْ (۴۰) بَابُ طُلُوعِ

روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں اس گھڑی کے ساتھ اس طرح بیجا گیا ہوں جیسی یہ دو انگلیاں مگر باب طلع کا

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (۴۱) بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ (۴۲) مِنْ عِبَادَةِ

مغرب سے نکلتا ہے باب جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ عبادہ بن

ابن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ

عاصم سے روایت کرتے ہیں فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے

ہم یہ سب کلام بطور مجاز ہے جس سے ناواقفوں کو گھوڑے لگتی ہے۔ انسان کے ہاتھ پیر آنکھ، کان وہی ہوتے ہیں یا اس کے اندر ایک خلائی طاقت اور خدا کی قوت پیدا ہو جانا اور کچھ دیکھتا ہے تو خدا کی قوت سے دیکھتا ہے سنتا ہے تو اسی قوت سے سنتا ہے پکڑتا ہے تو اسی طاقت سے پکڑتا ہے چلتا ہے تو خدا کی طاقت سے چلتا ہے۔ خدا کی طاقتیں اسکے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں۔ خدا اللہ تعالیٰ کو کسی بات میں تردد

نہیں ہوتا اس سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اندر تردد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایسے انسان کی روح کو قبض کرے مگر قضاء قدر کا قانون اٹل ہے۔ مگر یہاں لفظ یوں ہیں:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظلم الشمس من مغربها فإذا طلعت قرأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع لغنيا إيمانهم لهم يمكن أمت من قبل أو كسوف في أيديهم أخيرا فلو انفق وقت الساعة وقد نشرو الرجلان فربما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقوم الساعة وقد انصرفت الرجل بلين ففخته فلا يطعمه ولتقوم الساعة وهو يلط حوضه فلا يبيعه فيه ولتقوم الساعة وقد أكلته إلى فيه فلا يطعمها۔ اس کے پچھلے حصہ میں تو صرف قیامت کے ایک ایک آجانے کا ذکر ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آجائے گی۔ اور اس قدر تیزی سے آئے گی کہ جس کی پرے کا سودا دوا دنی کی کڑا کھول کر کر رہے ہوں گے وہ بھی سودا کرنے پائیں گے۔ پچھلے حصہ میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مغرب سے طلوع آفتاب نہ ہو۔ اور یہی حدیث پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ کتاب الفتن کے آخر میں آئی ہے۔ ویجوز علیہ السلام وہاں قیامت کے آنے سے پہلے کچھ اور امور کا بھی ذکر ہے جن میں سے ایک علم انسان جنگ ہے۔ دو گروہوں کی جنگ جن کا دعویٰ ایک ہو گا۔ اور دوسرے امور جو حضرت درعیان نبوت کا پیرا ہوتا۔ حکم کا اٹھایا جاتا۔ زراہوں کی کثرت۔ بیعت حقنہ اور قتل ہونا۔ کثرت مال۔ عمارتیں بربت بنانا۔ وغیرہ۔ اور بعض حدیثوں میں دس نشا نوں کا ذکر آتا ہے جن میں سورج کا مغرب سے طلوع اور وہ خان اور وہاں اور خروج یا خروج اور زلزلہ جیسی ابن مریم اور زلزلہ و حال اور تین شخصت مذکور ہیں تو یہ سب نشانات ایسے ہیں کہ ان کا ظہور قیامت سے پہلے نہیں ہوا اور ظاہر ہے کہ کبھی کی آمد اس لئے ہے کہ لوگ ایمان لائیں بلکہ اس کے ساتھ اسلام کا غلبہ اور ایمان پر ہو گا۔ تو میں دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو طلوع آفتاب مغرب ان نشا نوں سے بالکل علیحدہ ہے اور طرد نظام شمس کی اتنی تیزی ہے مگر اس وقت ایمان لانے نہ لاسے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یا مغرب طلوع آفتاب استعارہ ہے جس سے مراد ہے کہ آفتاب اسلام مغرب سے طلوع ہو گا یعنی مغرب دینا ایمان لانے کی اور یہ دوسرے معنی اس لئے بھی درست معلوم ہوتے ہیں کہ اول اسلام مشرق کی طرف ہی بڑھتا چلا گیا اور مغرب اس سے محروم ہے اور قرآن کریم بھی اس بات کو ضروری ٹھہراتا ہے کہ کسی وقت اسلام جہاں ایمان پر غالب لائے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک مغرب میں اسلام نہ چلیے

لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَالْتِ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِ إِيَّانَا لَمَّا كَرِهَتْ

اور جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے حضرت عائشہ نے یا آپ کی کسی بیوی نے عرض کیا ہم تو موت کو

الْمَوْتِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَاللَّيْنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَحْضَرَهُ الْمَوْتُ بَشَّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ

پسند نہیں کرتے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا مندی اور اجر اور اذی تو بخیر دی جائیگی

وَكُوْنَهُمْ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا آمَنَهُمْ فَأَحْبَبَ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ

ہے پس کوئی چیز اس کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی جو اس کے سامنے ہوتی ہے سو وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اور

وَرَأَى الْكَافِرَ إِذَا أَحْضَرَهُ بَشَّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعَقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا آمَنَهُمْ

اور کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے سزا دینے کی خبری جاتی ہے پس کوئی چیز اس کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہوتی

كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ (۳۳۱۹) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جراگنے آئے ہوتی تو وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ ابو موسیٰ بنی امی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ

ہیں کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے

اللَّهُ لِقَاءَهُ (۳۳۲۰) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَتِي أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ملنا پسند کرتا ہے دیکھو حدیث ۳۳۲۰

(۳۳۲۰) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَتِي أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عہد تیریوں میں سے

مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاءً يَا تَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُ لَوْ نَهَى عَنِّي السَّاعَةَ

کچھ لوگ سمجھتے طبیعت تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ سے پوچھتے تھے کہ وہ کب مرے گی یا تو میری

فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعْشَى هَذَا لَا يَدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ

کہ آئے گی تو آپ ان میں سے سب سے چھوٹے کو دیکھ کر فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہ آئے گی اور وہ کب مرے گا تو

عَلَيْكَ كَوْسَاعُهُ كَيْدُ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ (۳۳۲۱) عَنْ أَبِي قَدَادَةَ بْنِ رَجِيٍّ أَنَّ

تماری گھڑی آجائے گی ہشام نے کہا میں ان کی موت سے

كَانَ يُجِدُّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرْجِعٌ

بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَمُسْتَرْجِعٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرْجِعُ وَالْمُسْتَرْجِعُ مَدَنَةٌ قَالَ لَعِبْدِ الْمُؤْمِنِينَ

اور اس سے لوگ آرام میں ہو گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آرام یا بیرواں اور لوگوں کے اس سے آرام میں ہونے کا کیا مطلب ہے فرمایا

يَسْتَرْجِعُ مَرْتَنٌ نَصِيبِ الدُّنْيَا وَإِذَا هَكَالِى رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ سَيَسْتَرْجِعُ مَدَنَةً

مومن دنیا کی تکلیف اور اس کی لذت سے اللہ کی رحمت میں آرام پائے گا اور بدکار سے لوگ اور شرم

الْعِبَادَةِ وَالْبِلَادِ وَالسُّجُودِ وَالذَّوَابِ (۳۳۲۱) عَنْ أَبِي قَدَادَةَ (هَكَوْ) (۳۳۲۱)

اور درشت اور ہمارے آرام پائے گا

علاقہ تری انہی اٹھا
میں دہرا یا ہے۔
بھی کالفا پیاں
نہیں اور آفریج
فقہ بڑھایا ہے
قالت فکانت تلال
اشوکلہ تکلیف
الشیخ صلح قرہ
اللہم الرقیق
الاعطالہ اس میں
تایا ہے کہ آپ کا
موت کو اختیار
کرنا احب لقاہ
اللہ کے ماتحت
آتا ہے
اس مکرر
روایت ہا نصیران
۳۳۲۰ میں نہیں
بکم ۲۱۶۹ میں
ہے جسے یہ آفری
حصہ ہے اور یہ
ان الفاظ سے
شرع ہوتی ہے
ان رسول اللہ
صام کان بین
یہ یہ روکواس
کے پورے افغان
ہیں جو ۱۶۹ میں
ہیں۔ اس میں آتا
ہے کہ آپ نے
فرمایا ان اللوت
سکان جس سے
عنوان باب سب
۳۳۲۱ میں اس سے
صاف معلوم ہوا
کہ الساعۃ یا قیامت

کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معنی میں بولا ہے اور ان میں سے ایک معنی ایک شخص کی موت بھی ہیں جیسا کہ ہشام نے یہاں تفسیر کی ہے
ملکہ یہاں لفظ یہ ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مسترجع ومسترجم هذه المؤمن يسترجع

۲۳۲۲) عَنْ ابْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ

ابن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الْمَيِّتَ فَلَا تَلَاةَ فِي يَرْحَمُ اثْنَانِ وَيَتَّبِعِي مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ

پہچھے میں جنہوں میں جاتی ہیں تو دو ہیں اور ایک میں اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار اور اس کا مال اور اس کا عمل

فَيَرْحَمُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَتَّبِعِي عَمَلَهُ (م- ۳۶۵۶) ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (م- ۳۶۵۷)

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ذُجْرَةَ صَيْحَةً وَقَالَ ابْنُ عَتَّاسٍ التَّاقُورُ الصُّورُ الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ

بوق کی شکل کا ہے ذجرتہ صنت آواز اور ابن عباس نے کہا کہ تاقور المدثر ہے از سنگ ہے راجفہ کی طرح ہونے والا

الْأُولَى وَالرَّادِفَةُ التَّفْخَةُ الثَّلَاثِيَّةُ (م- ۳۶۵۸) ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۱۵۶)

ابن ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(م- ۳۶۵۹) ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۱۵۶) بَابُ مَا يَقْبُضُ اللَّهُ الْأَرْضَ

ابن ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَوَاكَ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۶۶۰) ابْنُ أَبِي

نافع بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۹۵۴) ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَبِئْسَ صِلَةَ اللَّهِ

ابن ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَكُونِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَبْرَةٌ وَاحِدَةٌ يُعَكِّفُهَا الْجِبَارِيُّ بَيْدًا

فرمایا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی جبار سے اپنا تھوس لے لے پٹنے کا

كَمَا يُكْفَى أَحَدَكُمْ خَبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ نَزْلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ

جیسے تم میں سے کوئی اپنی روٹی کو سفر میں لٹا پٹتا ہے وہ اجنت والوں کی نعمانی کہنے ہوگا کہ تمہارے لوگوں میں سے ایک شخص آیا اور کہا

بَارَكَ الرَّسْمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَنْزَلِ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور اس رسم رحمن آپ پر برکت کرے کیا میں آپ کو قیامت کے دن اجنت والوں کی نعمانی کی خبر دوں

قَالَ بَلَى قَالَ كَكُونِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرمایا ہاں سماعتین ایک روٹی کی طرح ہوگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا

میں اس کے نقشہ میں ہیں۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احكام عوض عليه عقله غداوة وعشيتا زما النار واذا الجنة فيقول هذا مقعدك حتى تبعث و هي نفضت من صدور كيا جزية اور نفضت في الصور سے کیا روا ہے عام معنی صورت قرن یا سنگ میں جیسے گل اور گل فوج کو جمع کرنے کے لئے بجا جاتا ہے اور یہاں ماوہہ نغمہ فی الصور جس کا تعلق قیامت سے ہے۔ قرآن شریف میں دو دفعہ نغمہ فی الصور کا ذکر ہے۔ اور مزہ پہلی مرتبہ آسمانوں اور زمین کی مخلوق پر ہونے کی یعنی دنیا

تا بود کردی جائے گی اور دوسرے نغمہ سے انسان پھر زندہ کئے جائیں گے تم نغمہ فیہ اشرفی فاذا اعمه قیام یظنون۔ یہ تو وہ نغمہ فی الصور ہے جس سے دنیا تیار ہو کر پھر دوسرے نغمہ سے ایک نئی زندگی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ صورت انسانی کی بجلی یا تو سنگ ہے اور اس کا بجا جانا اس طرح ہے جیسا کہ انسان کی جیسے یہ صورت کلام صرف اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے حکم سے ہے دنیا نابود کی جائے گی اور پھر ایک نئی زندگی کا ظہور ہوگا اور اولین اور آخرین جمع ہو جائیں گے۔ مگر مگر روایت کو انہی الفاظ میں دہرا یا ہے۔ دو دفعہ سے پہلے میں فدعا اللہ علیہ وسلم انہ عن ذلک۔ دوسرا فاسمع منهم اور فرقہ المسلمین کی طرح ہے لکن المسلمین علیہم انحصار ہے۔ قال اللہ علیہ وسلم یصعق الناس حين یصعقون فانکون اول من قام فاذا انکس احتضن العرش فنادی کانت فیہ من معن رواہ ابوسعید عن النبی صلعم علیہ السلام علی قرآنی اوی نفضت من۔ یہ نغمہ آتے ہیں۔ یہ یقبض اللہ اہل جہنم

أَخْبَرَك بِإِدْرَاهِمِهِمْ قَالَ إِيذَاهُمْ بِالْأَمِّ وَتَوْنٌ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ تَوْنٌ وَتَوْنٌ

ان کے سان کی خبروں ان کا سامن بالام اور تون ہے انوں نے کہا کہ یہ کچھ ہے کماہل اور کماہل

يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَيْدٌ هَذَا سَبْعُونَ الْفَارَسِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

ان کے کھینچے کا بڑھا ہوا گوشت ستر ہزار آدمی کھا میں نے کماہل سے روایت ہے

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُخْشَى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے قیامت کے دن لوگ اپنی زمین پر اٹھنے کے جائیں جو زمینداروں کی

بَيْضَاءَ عَفْرَاءٍ كَقَرْصَةِ نَعْمِي قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرَهَا لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ

مات ستھری روئی کی طرح ہوگی سہل یا کسی اور نے کہا اس میں کسی کے لئے نشان نہ ہوگا

(۲۵) بَابُ كَيْفَ أَحْشَرُ (۲۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

باہر ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْشَى النَّاسَ عَلَى ذَلَالٍ طَرِيقٍ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ

فرمایا کہ لوگوں کو تین طرح پر اکٹھا کیا جائے گا امید رکھنے والے ڈرنے والے

وَأَنْتَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَذَلَالَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَارْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَخَشْيَةٌ

اور دو ایک اونٹ پر اور تین ایک اونٹ پر اور چار ایک اونٹ پر اور دس ایک اونٹ پر اور باقی

بَقِيَّتُهُمْ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَيْبِتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَنُصِبَ مَعَهُمْ

لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی وہ ان کے ساتھ دو پر کو آرام کرے گی جہاں وہ دو پر کو آرام کریں گے اور ان کے ساتھ رات گزریگی جہاں وہ رات

حَيْثُ أَصْبَحُوا أَوْ تَمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُوا (۲۳۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متحدہ - ۱۹۴۶)

میں میں گے اور میں ان کے ساتھ اٹھیں گی جہاں وہ اٹھیں گے اور ان کے ساتھ شام گزریگی جہاں وہ شام کریں گے

(۲۳۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متحدہ - ۱۵۱۵) (۲۳۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متحدہ - ۱۵۱۵)

دیکھو حدیث ۱۵۱۵

دیکھو حدیث ۱۵۱۵

ملے نزل وہ چیز ہے جو جہان کے لئے پتے تیار کی جاتی ہے اس قسم کی احادیث جو عام اخوت سے تعلق رکھتی ہیں بعض وقت بعض راویوں کے ان حقائق کو پتے طور پر لکھنے کے باعث انکا مفہوم غلطو فاسد ہو گیا ہے یہ تو ایسا کچھ امت کے دن زمین ایک روئی کی طرح ہوگی جسے رحمن اللہ پلے گا جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام درجہ پریم ہو جائے گا اور اس سے لگی حدیث میں بھی زمین کو سمات ستھری روئی کی طرح کہا ہے۔ مگر

۱۹۴۶

۱۵۱۵

میں بعد میں فرمایا کہ یہ جنت والوں کیلئے بطور نزل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زمین تو اس دنیا میں بھی سب تلاش کرنے والوں کے لئے روئی بنا کر رکھی ہے اور اس لئے روئی کا حکم ہی رکھتی ہے اور یہاں کا گوشت اور مچھلی کے کبڈ کا بڑھا ہوا حصہ یہاں بھی لوگوں کو سامن کا کام دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں سخت کرنے والوں کی محنت کے ثمرات کی طرف اشارہ ہو۔ جو شخص محنت کرتا ہے اس کے لئے زمین روئی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے روحانی طور پر محنت کی ہے ان کو اس کا ثمرہ روحانی رنگ میں ملے گا۔ وہ کیا ہوگا اس کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مالاہیوں رات کا اذن صحت کا مصداق ہے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے متعلق کچھ فرمایا ہے اور وہ محفوظ نہیں رکھ سکے تو اس زندگی میں زمین سے روئی اور سامن سب کچھ ملتا ہے اور اگر یہ نعمت جنت کے متعلق ہے تو اس کی حقیقت اسی عالم میں بھی ملے گی۔ مگر حشر کے اصل معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ اور یہ لفظ دنیا میں اکٹھا کرنے پر بھی بولا گیا ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے حشر کا ذکر آتا ہے۔ اخراج الذین کفروا من اهل الکتاب من ديارهم لادى الحشر جس سے مراد ان کا جلا وطن کر کے دوسری جگہ اکٹھا کر دینا ہے۔ اور احادیث میں ایک حشر کا ذکر آتا ہے جو ملک شام کی طرف ہوگا۔ چنانچہ ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے انکہ تھشرون و ثمانین ہ شرا انقام دجالا در کسبانا و تھشرون علا و جوهکو۔ یہاں یہاں اور سوار پٹنے اور موتوں کے بل پٹنے کا ذکر ہے۔ اور موتوں کے بل پٹنے سے مراد ذات کی حالت میں چلتا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس حدیث میں تین گروہ کئے ہیں۔ راغبین۔ راہبین اور وہ جن کو آگ چلائے گی۔ آیا اس سے مراد میدان حشر کا حشر ہے یا اس دنیا میں لگی حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف حشر کا ذکر آتا ہے کہ وہ یہاں ہوگا اور حشر کے میدان میں اونٹوں کا ذکر ہے محل بھی ہے سولنے اس کے کجا زہو۔ جو کہ ہے کہ جس حشر کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ اسی دنیائے متعلق رکھتا ہے اور یہ پیگمونی کسی عظیم انسان جنگ کے متعلق ہو یا اور کسی مصیبت غلطی کے متعلق۔ اگر لے قیامت کے متعلق لیا جائے تو راغبین سابق اور ترمذی کے اور راہبین عام مؤمن۔ اور تیسرا گروہ کفار کا ہوگا۔ مگر وہی لفظ ہے۔ کافر کے حشر الیہ کا ذکر ہے۔ علامت ابتدائی حشر لفظ ذیل میں دہرایا ہے۔ سمعت النبی صلعم یقول انکم ملاوا اللہ حفاة عراة مشاة غلا۔ دیکھو نوٹ ۱۵۱۵ ص ۱۵۱۵ لفظ یہاں ہے۔ سمعت رسول اللہ صلعم یخطب علی المنبر یقول انکم ملاوا اللہ حفاة عراة غلا

۱۲۶۲۔ ۳۶۴۷ عن ابن عمر (متکونہ ۱۵۱۵) ۲۳۲۷۱ عن عائشة رضی اللہ عنہا	عزیزت عائشہ سے روایت ہے
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غورا قالت	دیکھو حدیث ۱۵۱۵ اصل
عائشة فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض فقال لا مرد	کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
أشد من أن يلبسهم ذاك (۳۳۲۷۱) عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله	عائشہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
عليه وسلم في فبنة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	حضرت ہونگے کہ انہیں یہ بات نکلے اور اے صلی
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	ایک شخص میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم خوش ہو کر تم جنت والوں کی چوتھائی ہو
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	ہم نے عرض کیا ہاں فرمایا تم خوش ہو کر تم جنت والوں کا نصف ہو
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	ہم نے عرض کیا ہاں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں تمھاری جگہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں کا
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	نصف ہو گے اور یہ اس لئے کہ جنت میں صرف لقمہ ہی جائے گا
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	اور تم شریک والوں
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	کے مقابلہ میں ایسے ہو جیسے کابول کے بل کی کھال میں سفید بال
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	یوہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	فرمایا
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	سب سے پہلے شخص جو قیامت کے دن بلائے جائیں گے آدم ہیں پھر انکی ذریت کا ہر بونگا اور کجا بونگا یہ
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	تمہارا باپ آدم ہے آدم کیسے بیک وسعدیک
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	تو فرماتے کہ اپنی نسل میں سے جنم کے حقدار نکال لو
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	وہ کہیں گے میرے رب کھٹے نکالوں فرماتے گا
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	برسوں سے ننانوے نکال لو
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	رخصا بنے کہا
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	یا رسول اللہ جب ہم میں سے برسوں سے ننانوے نکال لئے گئے
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	تو ہم میں سے کیا باقی رہ جائیگا فرمایا میری
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	امت دوسری امتوں کے درمیان سیاہ بیل میں
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	سفید بال کی طرح ہے
أهل الجنة قال لا تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال	بائیک اللہ عز وجل کا قول

ملے خفیہ اذکانت سے دوہرایا ہے قام فینا الجبے مسلح مخطب فقال انک عشتون حفاة عراة کما یبدا ان اول خلق نعیہ الایة و ان اول الخلاق یتکلی يوم القيامة ابراھیم دانہ سیماء برحال من امتی فیئفؤہم ذات الشمال فاقول یارب اصیبا فیقول انک لاتدری ما احدنا و اولک فاقول کما قال العین الصالحہ کنت علیہم شهیدا مادمت فیہم الی قوله الحکیمہ قال فیقال انہم لم یزلوا امرتہم علی عقابہم نہ دیکھو نوٹ اسل حدیث پر ملے دیکھو نوٹ ۱۲۶۲ صفحہ ۱۱۶۶ ملے اس وقت مناسب کی حالت تھی اور موجودہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں مسلمان کل

دنیا کی آبادی کی ایک چوتھائی ہیں۔ اور وہ زمانہ بھی آئے گا جب دنیا کی آبادی کی ایک تہائی پھر نصبت ہونگے اور ایک حدیث میں دو تہائی کا لفظ بھی ہے جو لفظ علی الدین کلمہ کے مطابق ہے۔ اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے + ملے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وقت کی حالت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ جنت میں سویں سے صرف ایک جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے باقی لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق مواجھت کر جنت میں جائیں گے +

لَنْ تَزُولَ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ أَزْفَتِ الْأَزْفَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (م- ۳۶۶۶)

۳۶۶۶ م دیکھو حدیث ۱۱۱۵۱

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَبْيَضُ أُولَئِكَ

۳۶۶۷ م دیکھو حدیث ۱۱۱۵۲

أَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ ابْنُ

۳۶۶۸ م دیکھو حدیث ۱۹۸۲

عَبَّاسٍ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْأَسْبَابُ قَالَ الْوَصْلَاتُ فِي الدُّنْيَا (م- ۳۶۶۷)

۳۶۶۹ م دیکھو حدیث ۱۹۸۳

ابن عمر رضي الله عنهما (م- ۳۶۶۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ فِي الْأَرْضِ

سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ إِذَا نَهَمَ (م- ۳۶۷۸) بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَهِيَ الْحَقَاقَةُ لِأَنَّ فِيهَا التَّقَابَ وَحَوَاقِ الْأُمُورِ الْحَقَّةُ وَالْحَقَاقَةُ وَاحِدٌ

الْقَارِعَةُ وَالْغَارِثِيَّةُ وَالصَّاحَّةُ وَالتَّغَابُنُ غَيْبُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلُ النَّارِ (م- ۳۶۷۹)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَبِئْسَ مَا يَنْقُضِي بَيْنَ

النَّاسِ بِاللَّيْلِ (م- ۳۶۷۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۳۶۶۹) عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۳۶۷۹) بَابُ مَنْ نُوْقِسَ الْحِسَابُ عَذَابٌ (م- ۳۶۷۰)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۳۶۷۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۳۶۷۰)

۳۶۶۶ م سے دوہرا ہے
قال رسول الله صلعم يقول الله يا آدم في قول لميك وسعديك والخبر في يدك قال يقول اخرج بعث الملك قال ما بعث النار قال من كل الف تسع مائة وتسعة وتسعين فذاك حين يتييب الصعير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكران من كل الف وما هم بسكران واكن عذاب الله شديد فاقتد ذاك عليهم فقالوا يا رسول الله ايتنا ذلك الرجل قال ابشروا فان من يا جوج وما جوج الفت وهن كحل رجل خم قال والذئب نفسى كما في يدك الى كاطعه ان يكونوا

ثلاث اهل الجنة قال محمد نا الله ولا نفاسم قال والذئب نفسى في يدك لا طمع ان تكونوا مشطوا اهل الجنة ان مئكار في الام كمثل الشعرة البيضاء في جلد النور الا سود او الرقبة رطل في ذراع المحار ويصير ثوبك صغرا في يدك بين افق يدي من عن النبي صلعم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احد منهم في رشحته الى انصاف اذنيه ثم يمسك اس دينا من يدهم قتل سب من رجا هم من اوراسى كاسب من بينه فيصد موتا ہے۔ تمامت کے دن حقوق العباد میں اسی کا سب سے پہلے فیصلہ ہو گا۔ مسلم کی روایت میں قیامت کے دن کا ذکر ہے یہاں لفظ عام ہیں۔ مسک یہاں لفظ یوں ہیں۔ ان رسول اللہ صلعم قال من كانت عنده مظلعة لاخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسنته فان لم يكن له حسنت من سيات اخيه فطرح عليه۔ قرینا وہی لفظ میں جو ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہو قیامت میں اس کے قصاص کا ذکر ہے۔ مسک یہاں پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی انبئ صلعم قال من نوَّقِسَ الْحِسَابُ عَذَابٌ كَذَلِكَ قَالَ لَيْسَ يَتَعَلَّقُ فَنُوتِمْ حِاسِبًا يَسِيرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرْضُ۔ کعبہ نوٹ لے کر لکھو ۲۲۔ ایک اہم روایت انبئ صلعم فقہم لکم چھوڑ دیا ہے۔ روایت بیان نہیں کی ہے۔

زِيَادَةٌ كَيْسُ حَوْبِ عَدْنٍ خَلْدٌ عَدْنَتْ يَارِضٌ أَقَمْتُ وَمِنْهُ الْمَعْدَنُ فِي مَعْدِنٍ

پھلی کے پیلے کا بڑھا ہوا گوشت ہوگا ملاء عدن میں کھلے عونت باوض میں نے رز میں ہیں، قیام کیا اور اسی سے معدن ہے اور فی محلہ

صَدَّقِي فِي مَنْبِتِ صَدَّقِي (م- ۳۶۷۴) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م- ۱۴۶۸)

صدق ملاء صدق کے پیدا ہونے کی جگہ میں دیکھو حدیث ۱۴۶۸

(م- ۳۶۸۰) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (م- ۲۰۲۶) (م- ۳۶۸۱) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (م- ۳۳۳۳)

دیکھو حدیث ۲۰۲۶ دیکھو حدیث ۳۳۳۳

رَأَى ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ يَخْدُمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اللَّهُ يَقُولُ كَاهِلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ كَيْتُكَ رَبَّنَا وَسَعْدُكَ يَقُولُ هَلْ

اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا۔ جنت والو وہ کہیں گے ہماری رب ہم قبول کرنے اور فرما بجزواری کے لئے حاضر ہیں

رَضِينَا ثُمَّ يَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ

اللہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو رہے کہیں گے ہم کیوں خوش نہیں اور تو نے ہمیں وہ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا

فَيَقُولُ أَنَا أَعْطَيْتُكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَإِنِّي شَأْنِي أَحْضَلُ مِنْ ذَلِكَ

اللہ فرمائے گا میں تم کو اس سے بہتر چیز دوں گا انہوں نے کہا ہے ہماری رب اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز

فَيَقُولُ أَجَلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا اسْتَخِطُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا (م- ۳۶۸۲) عَنْ

ہے اللہ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پر اتاروں گا تو اس کے بعد کسی میں تم پر نہ اتاروں گا میں ہوں گا ملاء

أَبْنِ زَيْدٍ (م- ۱۲۹۴) (م- ۳۳۳۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دیکھو حدیث ۱۲۹۴ دیکھو حدیث ۳۳۳۲ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

وَسَمِعَهُ يَقُولُ مَا بَيْنَ كَمَا فِي مَسْبَرَةٍ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ لِلرَّاكِبِ الْمُسْتَوْرِجِ

کہا ہے فرمایا کہ کافر کے دونوں گندھوں کے درمیان تیس دن سفر رفتار سوار کے تین دن کا سفر ہے ملاء

ملاء یہ حدیث

ابھی پچھے گذر

سکی۔ اب جنت

کے کھانے کی

کیفیت اس دنیا

میں کوئی نہیں سمجھ

سکتا

ملاء ابو ذر کی

روایت میں

فی مقصد صدق

ہے۔ اور یہ

لفظ قرآن کریم

میں آئے ہیں

مگر معدن صدق

کے لفظ قرآن

شریف میں نہیں

آئے

ملاء وہی لفظ

ہیں

ملاء وہی لفظ

ہیں۔ دونوں

حدیثوں کی مضمون

ایک ہے جنت

میں اکثر فقراء

اور دوزخ میں اکثر عورتوں کے ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے لئے دیکھو نوٹ ملاء صفحہ ۴۴۲ ج ۱ میں زیادہ تفصیل ہے۔ قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم إذا صاروا أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار حتى يجعل بين الجنة والنار ثم ينادي منادياً أهلاً

الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنتهم۔ موت کا فرح کر دینا یہ ہے کہ

خود موت پر موت دارو ہو جائے۔ اس لئے موت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ملاء یہ حدیث نعمائے جنت کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس کی

سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی نعمائے الہی کے وعدے دیئے اور وہ وعدے

پورے کئے۔ مگر یہاں بھی مومنوں کے لئے سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کا حاصل ہونا تھا۔ وحی اللہ عنہم ورضواناً جنت کی نعمتوں

کے رنگ میں سمجھا یا ہے کہ اس زندگی میں بھی سب سے بڑی نعمت جو ایک شخص کو مل سکتی ہے وہ کھانے پینے آسائش کی چیزیں نہیں بلکہ رضائے

الہی ہے۔ ملاء لفظ ۱۸۹ کے ہیں۔ ملاء جس فرج نعمائے جنت کے ذکر میں اس دنیا کی چیزیں مراد نہیں ہی حال جہنم کے عذاب کا ہے۔ یہاں ہے

کہ کافر اتنا موتا ہو جائے گا کہ اس کے دونوں گندھوں کے درمیان فاصلہ کہ تیس دن سفر رفتار سوار تین دن میں لے کر سکے گا۔ اور احمد کی ایک حدیث

میں ہے کہ دوزخ والے دوزخ میں اس لئے بڑے کئے جائیں گے کہ ان میں سے ایک کے کان کے مو اور کندھے کے درمیان سات سماں کے سفر کا فاصلہ ہوگا

اور ترمذی اور نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ متکبروں کا حشر قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ وہ انسانوں کی شکل میں چبوتیوں کی طرح ہونگے

یوں اگر روحانی رنگ میں دیکھا جائے تو آج ہر یورپ کا عیسائی آنتارکٹیکا پہننے کا خواہشمند ہے کہ اسی سے ساری دنیا بھری ہوئی ہو۔ حالانکہ

فی الحقیقت انکی حیثیت چبوتیوں سے زیادہ نہیں۔ روحانی حقائق کو جسمانی رنگ میں ظاہر کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ حدیث زیر بحث میں ممکن

ہے کہ معرفت کافر کا روحانی نقشہ کھینچنا کبھی ہوگا کہ یہاں جہنم کا ذکر نہیں۔

(۲۳۳۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ

انسان کی روایت میں ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے ان کا نام جنسی رکھیں گے۔

بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَعْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَسْمِيهِمْ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ

بعد کہ انکو اس سے سیاهی پہنچی ہوگی نکالے جائیں گے سو وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے ان کا نام جنسی رکھیں گے۔

(م-۳۶۸۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (مترک-۲۰) (۲۳۳۶) عَنِ النَّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

نعمان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يُؤَمِّرُهُمُ الْقِيَامَةُ لِرَجُلٍ تَوَضَّعَ فِي

قیامت کے دن دو رخ والوں میں سے سب کے عذاب الاعداء غنم ہوگا کہ اسکے دنوں قدموں کے نیچے چنگاری رکھ دی جائے گی جس سے اس کو داغ ابھارے گا۔

أَخْصَصَ قَدَمَيْهِ جَمْرًا يُغَيِّرُ مِنْهَا دِمَاعَهُ (م-۳۶۸۶) عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ (مترک-۲۰)

نعمان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

(۲۳۳۷) (م-۳۶۸۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَلَفَةَ (مترک-۲۰) (۲۳۳۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

عبدالرحمن بن حلفہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

(مترک-۲۰) (۱۷۲۰) (م-۳۶۸۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مترک-۲۰) (۲۳۳۹) عَنِ عِمْرَانَ

عمران بن حصین سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

أَبْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ

انسان کی روایت میں ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گے تو جنت والے ان کا نام جنسی رکھیں گے۔

مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ أَجْمَعِينَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دو رخ سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے ان کا نام جنسی رکھا جائے گا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ:

۲۳۳۵
روایت میں ہے
کہ جب میں جنت
میں داخل ہوں گے
تو جنت والے
ان کا نام جنسی
رکھیں گے۔

۲۳۳۶
نعمان سے روایت ہے
کہ میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۷
عبدالرحمن بن
حلفہ سے روایت ہے
کہ میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۸
عبدالرحمن بن
حلفہ سے روایت ہے
کہ میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
عمران بن حصین
سے روایت ہے کہ
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۲۳۳۹
میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے
سنا کہ:

۴۹۷۳۷۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

دیکھو حدیث ۴۹۷۳۷۹ یا یوسف حوسنی کے بارہ میں اور اللہ تعالیٰ کا

تَعَالَى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَبِئْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قول ہم نے کئے کوثر دہلیست داکوثر اور عبد اللہ بن زید کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ أَصْبَرُ وَأَحْتَى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ (۴۹۷۳۷۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَرِّرًا ۴۹۷۳۳۸)

صبر کرے یاں تک کہ تم مجھے حوض پر ملو گے دیکھو حدیث ۴۹۷۳۳۸

(۴۹۷۳۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا

عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں

فَرَطْنَا عَلَى الْخَوْضِ كَيْدُ فَعْنِ رِحَالٍ فَمَنْ كُنْتُمْ كَيْدُكُمْ مِنْ دُونِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ

حوض پر تھرا پائیں رو بہوں اور تم سے پہلے آدمی اٹھائے جائیں گے پھر وہ میرے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو میں کون کا

أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدٌ نُوَابِعُكَ

اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بھوکے کیا نئی بائیں نکالیں گے

کسی قدر اختصار سے اور کس کس اقتدار و نقل سے آئی ہے۔ قال اناس یہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ القیامۃ فقال هل تضارون فی الشمس لیس دو تھا سخی ایک قالوا لایا رسول اللہ قال هل تضارون فی العر

لیلة المد لیس دو تہ صحاب قالوا لایا رسول اللہ قال فاکثر تزونه يوم القیامۃ کذا لک مجید اللہ اناس فیقول من کان یعبد اللہ فلیستعہ فیئب من کان یعبد الشمس ویئبہ من کان یعبد القمر ویئبہ من کان یعبد الطوائعیت وشیقی ہذا ہ الامۃ فیہا منافقوا فیہا قیا یتہم اللہ فی ظہیر الصدورۃ اتی یعرفون فیقول اناریکہ فیقولون نعوذ باللہ منک ہذا امکا تا حتی یا تینار بنا فاذا اتانا رنا عرنا و قیا یتہم اللہ فی الصورۃ الی یعرفون فیقول اناریکہ فیقولن انت ربنا فیبتہوہ ویضرب جسوسہم و عنوان باب اسی سے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کون اول من یجیز و دعاہ الرسل یومئذ اللہم سلم سلم وہ کذالیب مثل شوک السعدان اما زایبہ شوک السعدان قالوا یلے یارسل اللہ تلک فانہما مثل شوک السعدان غیر انہما لایعلم قدر عظمہما الا اللہ فخطفت اناس باعما نہم عنہم الموبق بعلمہ ومنہم الخردل شم بیخرا حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادہ و اراد ان یفرج من النار من اراد ان یفرج من کان یشہد ان لا اللہ الا اللہ امر الملک ان یخیر یوہم فیوہم بدلا لہ انار السجود و سمر اللہ علی النار ان تامل من ابن ادم اثر السجود فیفرج یوہم قد اعششوا فیصیب علیہم ما یقال لہ ما راحیا قینینون نبات الحبة فی سمیل السیل ویقی رسل مقبل یوسجہ علی النار فیقول یارب قد قشبتی و یسھا و اخرتنی و کاذبا صوف و صی عن النار فلا یزال یسج اللہ فیقول لعلک ان اعطیتک ان تسألنی غیرہ فیقول لا و عز تک لا اسالک غیرہ فیصوف وجہہ عن النار ثم یقول بعد ذلک یارب تری فی الی باب الجنة فیقول لیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ و یلک ابن ادم ما اعذرک فلا یزال یدعو فیقول لعل ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ فیقول لا و عز تک لا اسالک غیرہ فیقرہ الی باب الجنة فاذا ارأی ما یسھا سکت ماشاء اللہ ان سکت ثم یقول و اب و دخلنی الجنة ثم یقول اولیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ و یلک ابن ادم ما اعذرک فیقول یارب لا تجعلی اشقی خلک فلا یزال یدعو حتی یضیک فاذا ضحک عتہ اذن لہ بالدخول فیہا فاذا دخل فیہا قیل لمن من کذا فیسئلی ثم یقال لہ لمن من کذا فیسئلی حتی تنقصہ بۃ الامانی فیقول لہ ہذا لک و مثله معہ قال ابو ہریرۃ و ذلک الرجل اشراہل الجنة و دخل قال داوود سعید الحدری جالس مع ابی ہریرۃ لا یخیر علیہ شیئا من حدیثہ حتی انشئ الی قولہ ہذا لک و مثله معہ فقال ابوسعید سمعت رسول اللہ صلعم یقول ہذا لک و عشرۃ امثالہ قال ابو ہریرۃ حفظت مثله معہ۔ تشریح کے لئے دیکھو ۴۹۷۳۳۸ پر نوٹ و ملاحظہ ہو وہ جگہ ہے جہاں پانی جمع کیا جائے اور کھوکے کے تیر کثیر مروی ہیں اور لغت میں بھی کوثر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حد یا قدر و قیمت میں کثیر ہو۔ اور نبی کریم صلعم کے حوض کا ذکر احادیث میں ہے اور وہ آخرت کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی آنحضرت صلعم کو کثیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح پانی کا حوض جسمانی طور پر میرا فی کاکم دیتا ہے اور حیات کا سرچشمہ ہے اسی طرح روحانی طور پر میرا فی نبی صلعم کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور آپ کو روحانی حیات کا سرچشمہ عطا کیا گیا ہے۔ اور ایک مصلیٰ میں وہ برقی کوہ یا گیا ہے۔ مگر آنحضرت صلعم کو جو روحانی حیات کا سرچشمہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس لئے توہ آپ کیلئے خاص بھی ہے۔ اور احادیث میں آنحضرت صلعم کے حوض کا جو حقیقت سے بھی ذکر آیا ہے اور برقی کے لئے بھی حوض کا ذکر ہے۔ اور صحیح ہے جو ابن عباس نے لکھا کہ آتوت میں جو کثر ذی حوض کے نام سے لوسم ہے وہ بھی درحقیقت اسی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو کثر کی اصل تفسیر ہے۔ لہذا یہاں ہے۔ عن ابیہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فرطک علی الخوض و لک بچھہ حصہ کا مضمون و لک بچھہ حصہ کا مضمون ابن عباس کی روایت میں بھی گذرا ہے۔

۶۸۲۱
۶۸۲۲
۶۸۲۳
۶۸۲۴
۶۸۲۵
۶۸۲۶
۶۸۲۷
۶۸۲۸
۶۸۲۹
۶۸۳۰
۶۸۳۱
۶۸۳۲
۶۸۳۳
۶۸۳۴
۶۸۳۵
۶۸۳۶
۶۸۳۷
۶۸۳۸
۶۸۳۹
۶۸۴۰
۶۸۴۱
۶۸۴۲
۶۸۴۳
۶۸۴۴
۶۸۴۵
۶۸۴۶
۶۸۴۷
۶۸۴۸
۶۸۴۹
۶۸۵۰
۶۸۵۱
۶۸۵۲
۶۸۵۳
۶۸۵۴
۶۸۵۵
۶۸۵۶
۶۸۵۷
۶۸۵۸
۶۸۵۹
۶۸۶۰
۶۸۶۱
۶۸۶۲
۶۸۶۳
۶۸۶۴
۶۸۶۵
۶۸۶۶
۶۸۶۷
۶۸۶۸
۶۸۶۹
۶۸۷۰
۶۸۷۱
۶۸۷۲
۶۸۷۳
۶۸۷۴
۶۸۷۵
۶۸۷۶
۶۸۷۷
۶۸۷۸
۶۸۷۹
۶۸۸۰
۶۸۸۱
۶۸۸۲
۶۸۸۳
۶۸۸۴
۶۸۸۵
۶۸۸۶
۶۸۸۷
۶۸۸۸
۶۸۸۹
۶۸۹۰
۶۸۹۱
۶۸۹۲
۶۸۹۳
۶۸۹۴
۶۸۹۵
۶۸۹۶
۶۸۹۷
۶۸۹۸
۶۸۹۹
۶۹۰۰

(۲۳۳۹) عَنْ ابْنِ جُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كُنْتُ أَدْرِحُ شَامَ مِنْ	ابن عمر بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
حَوْضٍ كَمَا بَيْنَ جَرِيَاءَ وَأَذْرَجَ (م- ۳۶۹۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر- ۱۹۸۸)	مابین حوض سے جتنا کہ جریاء اور اذرج کے درمیان فاصلہ ہے
(۲۳۴۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مِثْلُ رَأْسِ	عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے
شَهْرٍ مَاؤُهُ أبيضٌ مِنَ اللَّيْلِ وَرِيحُهُ أَطيبٌ مِنَ الْمِسْكِ وَكَيْزَانُ كَجَوْزِ السَّمَاءِ	برابر ہے اس کا پانی دوپہ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے آنسوؤں کے ستاروں کی طرح
مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَطْمَأُ أَبَدًا (۲۳۴۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	ہو یعنی بے حساب جس نے اس سے پیاد وہ بھی پیاسا نہیں ہوگا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْ رَحَّضِي كَمَا بَيْنَ آفِلَةَ وَصَنْعَاءَ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مقدار اتنی ہے جتنا آفیلہ اور صنعا میں کے درمیان ہے
مِنَ الْيَمِينِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْإِبَارِئِقِ كَعَدَدِ حَبِّ جَوْزِ السَّمَاءِ (۲۳۴۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ	اور اس میں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر آنسوؤں ہیں
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے خوابوں میں میں رہا تھا کہ ناگاہ میں ایک نہر سے گھا جس کے دونوں کنارے
رِقَابُ الدَّرِّ الْمُحَوَّرِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَبْرَيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ	پر اندر سے خالی بوتلوں کے چھپے ہیں میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے
رَبُّكَ فَإِذَا طِينَةٌ أَوْ طِينَةٌ مَسْكٌ إِذْ فَرَسْتُكَ هُدًى (۲۳۴۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ	کہ عطی کا چادر دیکھا تو اس کی ہنسی ہا اسکی خوشبو خوشبودار ہوگی جو ہادیہ درلوی کوں شک ہوگا
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبُرْدَانَ عَنِ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي حَوْضٌ حَوْضٌ فِيهِمْ	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگ میرے اصحاب میں سے حوض پر میرے سائے آئیں گے جہاں تک کہ میں
اخْتَلَجُوا أَدْوِي قَائِلٌ لِبُرْدَانَ عَنِ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحَدٌ تَوَابَعَكَ (۲۳۴۴) ب)	انہیں بچان لوں گا وہ میرے سائے سے پلانیے جائیں گے تو میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں اور فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُرْطُومَ عَلَى الْحَوْضِ	سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر قمارا پیشرو ہوں
مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبٍ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَطْمَأُ أَبَدًا لِبُرْدَانَ عَنِ أَقْوَامٍ أَعْرَفْتُهُمْ وَ	جو حوض چھو کر گزے گا پئے گا اور جو پئے گا وہ بھی پیاسا ہوگا
يَعْرِفُونِي ثُمَّ يَحَالُ بَنِي وَيَبْتَهِمُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ فِيهِ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ	مجھے پہچانیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ جائے گا پھر مجھ کو ابو حازم نے کہا نعمان ابن ابی عیاش نے مجھ سے

۶۸۵۱ سے ۶۸۶۰ تک یہ تو قیامت کے حوض کا ذکر ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سسر چشمہ حیات روحانی جو یہاں جاری ہے وہ بھی یہی صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور وہاں کے کوزوں کا آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت ہونا بتاتا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ بھی جو ان کوزوں کے خوب چھینے کو ترک نہ کر لیتے ہیں ان گنت ہیں، بلکہ یعنی شام اور میں، بلکہ ہی مضمون ۲۳۳۸ میں گزرا ہے۔

فَقَالَ هَذَا سَمِعْتُ مِنْ سَهْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَ رِيَّةً
تُوناً كَمَا تَمَنَّى سَلَّ مِنْ أَسِي لِرِجَالِهَا؟

میں نے کہا ہوں کہ میں ابو سعید خدری کے متعلق کوئی حدیث نہیں

لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا قَوْلَ رَأَيْتُمْ مَنِيَّ فَيَقُولُ رَأَيْتُمْ كَمَا أَخَذَ رِيَّةً
میں نے نہیں سنا اور وہ اس میں بڑھاتے تھے تو میں کہوں گا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر کہا نہیں کرتا آپ نہیں جانتے کہ آپ بعد انہوں نے کیا نئی

بَعْدَكَ قَوْلَ شُحْقًا شُحْقًا لِمَنْ غَيْرِ بَعْدِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُحْقًا بَعْدَ الْيَقَالِ
بائیں میں نے اس میں کوئی چیز کوئی کون کا دوسری ہو اس کے لئے جو میرے بعد تیرے ہی کی اور ابن عباس نے کہا شحقا دوسری ہو گا جاتا ہے

سَعِيدٌ بَعِيدٌ وَأَسْحَقٌ أَبَدٌ ۴۳۲ ۴۳۳ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
صحیح (یعنی) دور اور اسحق سے دور کیا سعید بن المسیب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں

أَنَّهُ كَانَ يَحْدِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرُدُّ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
کہ وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيَحْلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ رَأَيْتُمْ
یوم کے سامنے آئیں گے تو وہ حوض سے شادینے جا رہیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ ہے وہ اصحاب تمہارا ہے تو فرمائیے گا آپ کو کچھ

لَا عِلْمَ لَكُمْ بِمَا أَخَذْتُمْ أَبَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى آذَانِهِمْ الْقَهْقَرَى رَمَ
علم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا تھا بائیں میں نے دلیل نہیں

۳۶۹ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَمَتْكَ ۴۳۳ ۴۳۴ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ الرَّهْزَلِيِّ
دیکھو حدیث ۴۳۳ ۴۳۴ اور شعیب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَحْدِثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحْلُونَ وَقَالَ عَقِيلٌ
ابو ہریرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کرتے تھے

فَيَحْلُونَ (۴۳۳ ۴۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا
ابو ہریرہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کہتا

قَائِمٌ إِذَا مَرَّةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَأَمْ فَقُلْتُ
ہوں گا تو تمہارا ایک گروہ نظر آئے گا یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان میں سے ایک آدمی نکلے گا وہ کہے گا اؤ

أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ لَمْ يَمُوتُوا أَبَعْدَكَ عَلَى
میں کہوں گا کہ مرے وہ کہے گا اللہ کی قسم تو تمہاری طرف میں کہوں گا ان کا کیا حال ہے وہ کہے گا وہ آپ کے بعد

أَوْ بَارَهُمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا مَرَّةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِي وَ
پیشوں پر اٹھ پھر گئے پھر ایک گروہ نظر آئے گا یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان میں سے

بَيْنَهُمْ فَقَالَ هَأَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ لَمْ يَمُوتُوا
ایک شخص نکلتا وہ کہے گا اؤ میں کہوں گا کہ مرے وہ کہے گا اللہ کی قسم تو تمہاری طرف میں کہوں گا ان کا کیا حال ہے وہ کہے گا

ارْتَدُّوا أَبَعْدَكَ عَلَى آذَانِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يُخْلَصُ مِنْهُمْ إِلَّا مَثَلُ
وہ آپ کے بعد ایسی پیشوں پر اٹھ پھر گئے سو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بچے گا مگر اسی مثال

هَيْلِ النَّعِيمِ (۴۳۳ ۴۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۴۵۶) رَمَتْكَ ۴۳۳ ۴۳۴ عَنْ
ان چاروں کی ہنگامی بغیر ہر ایک کے پھرا رہا جاتا ہے دیکھو حدیث ۴۳۳ ۴۳۴

جُنْدِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ
روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

میں تو فرماتا ہوں کہ میں نے سنا ہے

جُنْدِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ
روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

جُنْدِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ
روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

جُنْدِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ
روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

جُنْدِبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ
روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

۴۳۳

۴۳۴

۴۳۵

۴۳۶

۴۳۷

لفظ قریباً وہی
میں عن ابی
ہریرہ کی حدیث ہے
عن اصحاب اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
مطلب ایک ہی ہے
یعنی بہت قریب ہیں
کے معنی میں سے کہ
یہ دو گروہ دو قسم
کے لوگ ہیں ایک
کفار میں جوئی لفظ
مرتد ہو گئے اور
ایک عصا آجینے
ناقرانہ
وہی لفظ ہیں دیکھو
نوٹ اس مسئلہ کے

رَأَبَابُ جَعْفُ الْقَدَمِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي

باب قلم اللہ کے علم پر خشک ہو گیا اور اللہ نے اسے علم کی بنا پر گمراہ ٹھہرایا اور ابی ہریرہ نے کہا مجھ سے

الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ جَعْفُ الْقَدَمِ بِمَا أَنْتَ لَأَبْنُ عَتَابٍ لَهَا

جی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم اس پر خشک ہو گیا جو تو بتائے والا ہے ابن عباس نے کہا

سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ (۳۴) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ

سابقون والموثون۔ انہیں کیسے سعادت آگے بڑھی ہے عمرو بن حصین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْعَرُفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَعْمَلُ

یا رسول اللہ کیا جنت والے دونوں والوں سے راگ، فاشخت کئے جاتے ہیں فرمایا ہاں عرض کیا کہ عمل کرنے سے

الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خَلَقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسِرُّ لَهُ (۳۵) بَابُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا

عمل کرتے ہیں فرمایا ہر ایک وہ کرتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جو اس کیسے آسان کیا گیا ہے باب اللہ اشرف جانتا ہے

كَأَنَّهُ أَعْمَلِينَ (۳۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرر - ۳۳۲) (۳۶-۳۷) عَنْ

کہ وہ کیا کر نیوے ہیں دیکھو حدیث ۳۳۲

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي هُوَ يَرَى مَا تَعْمَلُونَ (۳۸) (متكرر - ۳۱۸)

دیکھو حدیث ۳۱۸

بَابُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا (۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر - ۱۰۶۵)

باب اور اللہ کا امر مقدر کیا جڑا اندازه ہے

(۳۹-۴۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متكرر - ۱۰۹۲)

دیکھو حدیث ۱۰۹۲

یہ واقعہ کے خشک ہو جانے سے مراد حضرت ابی ہریرہ سے ہے کہ اب کوئی نئی بات نکلنے کے قابل نہیں جو چھ لکھنا تھا لکھا جا چکا۔ علم الہی حکم کا خشک ہو جانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی نئی بات نہیں آتی زمانہ اور مکان کے لحاظ سے تمام دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ باقی اور ہر گاہ سب کے علم کے سامنے ہے۔ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہر چیز سے نئی بات نکلے گی۔

فرمایا اس کا تعلق ہی علم الہی سے ہے۔ حدیث ۳۱۸ میں صرف علم الہی کا ذکر ہے کہ اللہ کو علم ہے اہل جنت کے کام کون کرے گا اور اہل نار کے کون۔ دوسرے حصہ میں سوال صرف عمل کی نیوے والوں کے متعلق ہے اور عمل کا لفظ لکھے اعمال پر ہی بولا جاتا ہے۔ فقہم اہل العالمین قال عمران۔ ۱۷۵۔ مثل هذا فليعمل العالمون والشفقة ۱۶۱۔ تو میں سوال یہ تھا کہ کیا اعمال کی کیا ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا انسان کو پیدا اسی لئے کیا گیا ہے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور پھر ان اعمال کا پیمانہ ان کے لئے آسان ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی پیدا ہونے کی فطرت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس عرض کا حاصل کرنا ان کے لئے مشکل بھی نہیں رہتا۔ اس کے نقطہ پر یہ مسئلہ النبی صلعم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين دیکھو نوٹ ۳۶ صفحہ ۳۱۸۔ اولاد کی جگہ ذرا دی کا لفظ ہے باقی لفظ اوپر کے ہیں۔ ۱۷۵ کا پچھلے حصہ جو ابی ہریرہ سے مرفوع ہے الفاظ ذیل میں دوہرایا ہے۔ قال رسول الله صلعم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودونه وينصره ائمه كما تبخرون البهيمة هل تجدون فيها من جد عاد حقي انكم لو انتم تجدونها قالوا يا رسول الله افرأيت من يعوق وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين دیکھو نوٹ ۳۶ صفحہ ۳۱۸۔ یہ حدیث کہ ہر بچہ خواہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اور خواہ کافر کے فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اس بات پر ذیل قانع سے کہ پیدائش کی رو سے کوئی مشقی اور سعید نہیں سمجھ سکتا ہے اپنے باپ کے عمل سے بنتا ہے اور سعید اپنے نیک اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتے کو حکم دینا کہ اسے ایسا کہو جو شخص اس کے علم پر ولادت کرتا ہے۔ حدیث یعنی ایک قانون کے مطابق ہے اور اصل ہے۔ ۱۷۵ میں یہ لفظ ہے۔ قال رسول الله صلعم لا تسال المرأة طلاقا حتى تستفرغ حوضها وتغسل فان لها ما قدر لها۔ ما قدر لها یعنی جو کچھ تو اس میں رکھی ہو وہ حاصل کرے۔ وہ حاصل کر سکتی ہے جو کچھ ۱۷۵ میں روایت تفسیر ہے۔ كنت عند النبي صلعم اذ جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والي بن كعب ومعاذ ان ابنا ليعقوب بن كعبه فرغت اليها الله ما اخذ والله ما عطف كل باجل فلتصبر ولتحتسب۔ كل باجل یعنی ہر شخص کے لئے ایک میعاد علم الہی میں مقرر ہے۔ ۱۷۵ ضعیف اختلاف سے دوہرایا ہے۔ انا بدینما هو جالس عند النبي صلعم الله عليه وسلم جاهد رجل من الانصار فقال يا رسول الله انما نصيب سبيك وخب المال كيف ترى في الغزى فقال رسول الله صلعم الله عليه وسلم اوانك تفتعلون ذلك لا عليكم ان لا تفتعنوا فانها ليست تسمة كتب الله ان تخرج الا هي كاذبة۔ اس کے آخر میں ہے کہ اگر عدل کر دہی تو جو طرح میرا ہو نیوالی ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت عدل ہونے سے غور پر نہیں ہوتا۔

(۲۳۴۷) عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خُطْبَةً مَّا تَرَكُ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ

مَنْ جَهْلُهُ إِنْ كُنْتَ لَا دَرِيءَ لَشَيْءٍ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفْ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ

عَنْهُ فَرَأَاهُ فَعَرَفَهُ (م- ۱۱۳) عَنْ عَلِيٍّ (م- ۲۰) (۴) بَابُ الْعَمَلِ

بِالْحَوَاتِمِ (م- ۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۳۹۲) (۱۳) (۱۳) عَنْ

سَهْلِ (م- ۱۳۳۵) (۵) بَابُ الْقَاءِ التَّنْذِيرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

بِالْحَوَاتِمِ (م- ۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۳۹۲) (۱۳) (۱۳) عَنْ

سَهْلِ (م- ۱۳۳۵) (۵) بَابُ الْقَاءِ التَّنْذِيرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

بِالْحَوَاتِمِ (م- ۱۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۳۹۲) (۱۳) (۱۳) عَنْ

سَهْلِ (م- ۱۳۳۵) (۵) بَابُ الْقَاءِ التَّنْذِيرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

خطبہ صلیبی کی
خاص شہرت
اور حدیث فقہ میں
ہے تو یہاں بیان
کا یہی منشا معلوم
ہو تاہم یہ کہ
وہاں جو جو امور
قیامت تک ہونے
والے ہیں ان سب
کا آپ نے ذکر
فرمایا اور جن امور
کا آپ نے ذکر فرمایا
وہ بطور بیگنی تھے
اللہ تعالیٰ کو ان سے
بھی ہر چیز کا علم

ہے وہ اس میں سے جس قدر چاہتا ہے اپنے کسی برگزیدہ بندے سے پڑھا ہر فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ واقعات کے متعلق میت سی پیگونیوں
احادیث میں مذکور ہیں۔ خطبہ میں کچھ اختصار ہے۔ کتاب جو سامع اللہ صلیع ومعہ عودہ نیکت فی الاصلی وقال ما حکم من احد الا قد کتب مقعدا
من النار وامن الجنة فقال رجل من القوم الا انکل یا رسول الله قال لا اعملوا فکل منکم وکم قرا فافتا من اعطى وانثى الایة۔ یہاں بھی مضمون
قریب قریب ہے۔ ہر شخص کی دونوں یا جنت میں جگہ بھی ہوتی ہے یعنی علم الہی میں ہے تو ایک شخص نے کہا جب ہم نے جنت میں ہی جانا ہے تو
اسی پر بھروسہ کیوں کریں اور اپنے عمل کیوں کریں تو آپ نے فرمایا میں نیک عمل کرو اور نیک عمل ہی کرنے والے کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر
اس کے کرنے میں سے وقت نہیں رہتی۔ اور اسی کے مطابق آپ نے آیت پڑھی۔ قاتما من اعطى وانثى وصدق بالحقى نفسه وروہ للسنوہ۔ جو
شخص خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس کے لئے اچھا عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔
خطبہ کیونکہ بعض وقت دشمن اچھے عمل کرتا رہتا ہے مگر پھر اسے کوئی ٹھوکہ لگتی ہے تو غلط رہتے پڑ جاتا ہے۔ اور صحیح رہنے کو چھوڑ دیتا ہے۔
میں تحقیق اختلاف سے دوہرایا ہے۔ شہداء ماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرہم فقال رسول اللہ صلعم لرجل من منہ یدعی الاسلام هذا
من اهل النار فلما حضوا القتال قاتل الرجل من اهل النار وکثر به الجراح فاقبته فجلد رجل من اصحاب النبی صلعم فقال یا رسول
الله لیریت الذی حدث انہ من اهل النار قد قاتل فی سبیل الله من اهل النار کثرت به الجراح فقال النبی صلعم اما انہ من اهل النار
فکاد بعض المسلمین یرتاب فبیضا هو علی ذلك اذ وجد الرجل الم الجرح فاهوی بیده الی کتاتہ فانزع معها سهما فانتحر بها فاقبته
رجال من المسلمین الی رسول الله صلعم الله علیه وسلم فقالوا یا رسول الله صدق الله حدیثک قد انتحرن فلان فقتل نفسه فقال
رسول الله صلعم الله علیه وسلم یا بلال قم قاتلن لا یدخل الجنة الامم من وان الله لیورین هذا الذین بالرجل الفاجر۔ اس میں ہے کہ آپ
نے ایک شخص کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے حالانکہ وہ مشرکوں سے خوب جنگ کرتا تھا تو آپ کی پیشگوئی یوں سچی ہوئی کہ آخر اس
نے خودکشی کر لی۔ یہاں اختصار ہے۔ ان رجلا من اعظم المسلمین غناء عن المسلمین (مسلمانوں کی طرف سے خوب کام آئی والا)
فی غزوة غزاہم النبی صلعم الله علیه وسلم فنظر النبی صلعم الله علیه وسلم فقال من احب ان ینظر الی الرجل من اهل النار فلینظر
الی هذا فاقبته رجل من القوم وهو علی ملک الحال من اشد التامس علی المشرکین حتی جرح فاستعجل الموت فجلد ذبا یہ سیفہ بین
تذ یہ حتی خرج من بین کتفیه فاقبل الرجل الی النبی صلعم الله علیه وسلم مسوعا فقال اشهد انک رسول الله فقال دما ذک قال قلت
لفلان من احب ان ینظر الی رجل من اهل النار فلینظر الیه وکان من اعظمنا غناء عن المسلمین فرقت انہ لا یموت علی ذک فلما جرح
استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبی صلعم الله علیه وسلم عند ذلک ان العبد یعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنة ویعمل عمل
اهل الجنة وانه من اهل النار وانما الاعمال بالحواتیہ۔ دعوان باب انی الفان سے ہے۔ ملا نذریہ ہے کہ ایک شخص کے کہ اگر میرا یہ کام ہو
جائے تو میں نیچسرات کروں گا تو اس کے ایسے کہنے سے خدا کا کوئی قانون نہیں بدل جاتا۔ یہاں حدیث جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔ لیکن حدیث
کو رد ہلا میں مؤثر سمجھا گیا ہے۔ ایسا ہی وہاں سے بھی رد ہلا جاتی ہے۔

(م-۲۳۳) ابن عباس (متکررہ- ۱۳۰۹)

دیکھو حدیث ۱۳۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس طرح اس قسم کے نام سے بار بار

۸۳- کتاب الایمان والذوہر

۸۳- فتویٰ اور نذر کی کتاب

۱) باب قولہ تعالیٰ لا یؤخذکم اللہ باللغو فی آیمانکم و لکن یتؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته ایام و عشرتہ مساکین من أوسط ما نطعمون

باب اسٹی تعالیٰ کا قول اس طرح ہے حقیقت قسموں کے بارے میں تم پر گرفت نہیں کرتا لیکن اس پر گرفت کرتا ہے

جس پر تم قسم کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ اس کے چھوں کو کھانا کھانا ہے اور یہاں لکھا ہے جو تم اپنے گھروں کو کھاتے ہو

أہلینکم و أدکسوتهم و أخریزر قبة فمن لم یجد فصبیام ثلاثہ آیام ذلک کفارة

یا ایک غلام کا آزاد کرنا سو دن یا تین دن کا روزہ ہے یہ قسموں کی قسموں کا کفارہ ہے

آیمانکم و إذا حلفتم واحفظوا ایماکم کذلک یدین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتقون

جب تم قسم کھاؤ اور اس قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اس قسم سے لے کر یہ آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ڈرو اور تقوا

(م-۲۳۴) ابن عباس (متکررہ- ۱۹۱۱) (۲۳۵)

عبدالرحمن بن عمر سے روایت ہے

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْمَةَ لَا تَسْأَلُ الْوَادَةَ

کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فَلَئِنكَ إِنْ أَوْبَيْتَ عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتَ رَأِيهَا وَإِنْ أَوْبَيْتَ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعْتِ

کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگے وہی گئی تو تم اس کے ہر دے جاؤ گے اور اگر تمہیں بن مانگے ہی گئی تو اس قسم قمار کی بدیہی کی گئی

عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيِّنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرْتُمْ عَنْ بَيِّنِكَ وَأَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

اور جب تم کسی عہد پر قسم کھو اور دیکھو کہ اس کے خلاف کرنا اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دو اور وہ کر دو جو بہتر ہے

(م-۲۳۵) ابن عباس (متکررہ- ۱۸۱۸) (۲۳۶)

ابن عباس سے روایت ہے

عن يبيدني

عَنْ يَبِيدِنِيِّ هُوَ خَفِيفٌ اِخْتَارَتْهُ أَنِي هُوَ...

عمل میں لفظ یوں میں روایت ہے... النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول معنا التراب وهو یقول والله لولا الله ما همتنا دعوان باب کا تعلق اسی سے ہے یعنی برایت لشرکی تو تین سے ہی ملی ہے، والا معنا ولا صلینا فانزلن سکیتہ علینا و وثبت الاذان و ان لا قیسا و المشکون تمنا علینا اذا اردوا فکتہ آییننا لفظ یوں میں ان ابابکر رضی اللہ عنہم لم یکن یحیف فی بیین قاطحتی انزل اللہ کفارة الیمن وقال لا اختلف علی یعیین قولت غیرہا خیرا منها الا آیت الذی ہوشیر و کفرت

عن یبیدینی... قال ثم لیثنا ما شاء الله ان نلیث ثم اقی ثلاث ذور غیر الذی تحملنا علیها فلما انطلقتنا قلنا اوقال بعضنا والله لا یمارک لنا انینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسفله فحلف ان لا یعملنا ثم حملنا فارجو بانا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل کرہ فایتنا فقال ما اننا حملناک بل اللہ حملک وانى والله ان شاء الله لا اختلف علی بیین قاری غیرہا خیرا منها الا نعت عن یبیدنی والذی ہوشیر و کفرت عن یبیدنی لیسک یمان جھلے اور ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن الامخون انسابون يوم القیامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله لان یبیترام راکرے) احدک یمینہ فی اهلہ (اپنی بیوی کے متعلق) انتم زیارہ گناہ کی بات ہے، لہ عند اللہ من ان یعطی کفارة النی اقترض اللہ علیہ۔ جیسا کہ اگلی حدیث میں ذکر ہے ہم کو یہ قسم کھانی جاتی تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو مجھے ملحق دینیہ یا معنی چھوڑنے کے فرمایا کہ قسم کا کفارہ دے دینا بہتر بات ہے

اس کے لفظ میں ہے۔ ان
 امراتہ من الانصار
 انت الخیر صلعم
 معھا اولاد لھا
 فقال الخیر صلعم
 والذی نفس
 بیداک انکما حدیث
 انقاس الی
 قالہا فلا شراہ
 علی بیان مضمون
 زیادہ ہے۔ ان
 رسول اللہ صلعم
 اور ک عمریت
 الخطاب وهو
 سیدتی رقب
 یحلف بایسہ
 فقال الایات
 اللہ ینہا کرات
 غلظوا یا بانی کرم
 من کانت حالکما
 فلیحلف باللہ او یؤدی
 لیصمتہ
 علی بیان وایت

(۴۳-۳۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکدر- ۱۶۸۷) بَابُ لَا تَخْلَعُوا يَا بَنِي كَعْبٍ
 دیکھو حدیث ۱۶۸۷ بَابُ ابْنِ بَابِ دَاوُدَ كَيْفَ دَعَا كَعْبٌ

(۴۴-۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکدر- ۱۲۵۰) بَابُ ابْنِ عُمَرَ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰

(متکدر- ۱۲۵۰) قَالَ جَاهِدُوا أَوْ آثَارَهُ مِنْ عِلْمٍ يَا قُرْعِلْمَاءُ (۳۷-۳۷)
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰ عابد نے کہا ادا آثارہ من علم والا حقاقت۔ یہ علم کو مین پہلوں کی خبریں کہیں کرتے ہوئے

عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکدر- ۱۲۵۰) بَابُ ابْنِ قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰

(متکدر- ۱۴۱۸) بَابُ لَا يُخْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ وَلَا يَالِطَوَاعِيَّتِ
 دیکھو حدیث ۱۴۱۸ بَابُ لَاتِ اِدْعُو عَزَىٰ كَيْ قَوْمٍ دَعَا فِي جَانِبِ

(۴۸-۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکدر- ۱۹۶۶) بَابُ مَنْ حَلَفَ
 دیکھو حدیث ۱۹۶۶ بَابُ جَوْنُو كَيْ سِيْرَتِي

عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُخْلَفْ (۴۹-۳۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکدر- ۲۱۸۲)
 قسم کھائے گوات قسم نہ دی گئی ہو

(۵۰) بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سُوءٍ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 بَابُ جَوْرَاتِ اِسْلَامِ كَيْ سَوَا كِي اِدْعُو كِي قَوْمِ كَهَائِي

وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكُمْ يَنْسَبُ إِلَى الْكُفْرِ
 جَوْرَاتِ اِدْعُو كِي قَوْمِ كَهَائِي قَوْلَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَرِهِي اِدْعُو كِي قَوْمِ كَهَائِي

(۵۰-۳۷) تَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ (متکدر- ۷۲۱) بَابُ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ
 دیکھو حدیث ۷۲۱ بَابُ شَيْءٍ لَوْ كَيْ كَرِ جَوْرَاتِ كَهَائِي

یوں ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ینہا کراتن تخلصوا یا بانی کرم قال عمرو بن لوط ما حلفت بها منذ سمعت النبي
 صلعم ذاکرا ذی طرف سے بیان کرتے ہوئے، ولا یشترکوا لہم سے کی طرف سے نقل کرتے ہوئے، و لکن اس کے لفظ میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لا تخلصوا یا بانی کرم معہ ابتداء میں یوں ہی ہے۔ عن زیدم قال کان بیننا ہذا النجی من جرم و دین الا شعریین و ذوا حاد و کنا عننا
 ابی حوصی الا شعری فخرت الیہ طعام فیہ لحم و جاج۔ اس کے بعد کے الفاظ غلط ہیں۔ مگر آری میں فلما انطلقنا قلنا ما صنعتنا کے بعد میں
 کچھ لفظ زیادہ ہیں۔ حلفت رسول اللہ صلعم لا یصلنا و ما عندنا۔ ما یصلنا ثم حملنا تغلظنا رسول اللہ صلعم یمیدہ واللہ لا نفلیم اربہ افرحنا
 الیہ فقلنا لہ انا اتیمانک لعلنا نخلعت ان لا یصلنا و ما عندنا ما یصلنا فقال انی لست انا حلفت کہ اس کے بعد کے لفظ پھر اس حدیث کے
 ہیں۔ و لکن لفظ غلطوں کے ہیں۔ مگر روایت میں زیادہ تفصیل ہے مگر چاندنی کی انگلی کی کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم اصطنع
 خانقا من ذهب و کانت یصلہ فیصل قصہ فی باطن کفہ قصص الناس ثم انه جلس علی المنبر فترغہ فقال انی کنت الیس هذا الخاتم واجعل قصہ
 من داخل فرئی بہ ثم قال واللہ لا الیہ اید ان من الناس خوا انیسہم۔ عیشہ یہ تعلق اور باب لا یحلف باللات والعزى میں گذر چکی ہے، ایک
 سکر لکھ کر دینے کے بعد لوات دعویٰ کی قسم یقیناً لکھ کر ہے، عرف اس قدر کافی سمجھا ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے مگر آج علما کی یہ حالت
 ہے کہ خواہ ایک کلمہ فی الواقع کفر کا ہوا یا نہ ہو لیکن ان کے خیال میں وہ کلمہ کفر ہو تو بزار وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہے نمازیں پڑھے رونے رکھے
 زکوٰۃ دے۔ حج کرے گروہا سے کافر ہی کہیں گے۔ کماں محمد رسول اللہ صلعم اور کہاں یہ لوگ۔ علی بیان مضمون کچھ زیادہ ہے۔ قال النبی صلعم من حلف
 بغیر ملة الا سلام ہو کما قال قال ومن قتل نفسه بشی عذاب بہ فی نار جہنم و لعن المؤمن کتلتہ و من رمی ہو منا بکفر فهو کفرت۔ یہاں لفظ کتلتہ
 میں فہو کما قال اور ہی لفظ مکتب میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ شریک یا کفر کیا تو اس وقت اور اس حالت میں وہ کافر یا مشرک ہے۔
 اور یہ اسی کے مطابق ہے کہ ایک شخص جب زنا کرے تو اس وقت وہ عموماً نہیں ہوتا مگر اس کا مشرک یا کافر ہونا ایک ایسی حالت ہے جن کا علاج جیسے کلمہ کی تعیین

یہ کلمہ کفر عرف اس قدر ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے پھر مسلمان کا مسلمان ہے۔ یقیناً آج ہمارے علماء کا اسلام وہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلعم کا اسلام تھا۔

<p>وَشَدَّتْ وَهَلْ يَقُولُ اَنَا بِاللّٰهِ تَعْمَلُكَ (م- ۳۷۵۱) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۱۵۵۳)</p> <p>اور تو مجھے اور کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کرتا ہوں، پھر تیری مدد ملے</p>
<p>(۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْمُوا بِاللَّهِ جِهْدًا أَيْمَانِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ</p> <p>باب اللہ تعالیٰ کا قول اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی جو مشورہ تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے کہا ابو بکر نے</p>
<p>أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَدْتُ نَفْسِي يَا لِدُنِّي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا قَالَ لَا تَقْسِمُ</p> <p>کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ! میں نے اپنے آپ کو سوچا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے</p>
<p>(م- ۳۷۵۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۶۷۰) (م- ۳۷۵۲) عَنْ اِسْمَاءَ رَضِيَ عَنْهَا (م- ۶۸۹)</p> <p>دیکھو حدیث ۶۷۰ م دیکھو حدیث ۶۸۹ م</p>
<p>(م- ۳۷۵۴) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۵۰۰) (م- ۳۷۵۵) عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ</p> <p>دیکھو حدیث ۵۰۰ م</p>
<p>رَهْبٍ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۱۹۷۷) (۱۰) بَابُ اِذَا قَالَ اشْهَدُ بِاللَّهِ اَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ (م- ۳۷۵۶)</p> <p>دیکھو حدیث ۱۹۷۷ م باب جب کہیں اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں یا اللہ کے ساتھ گواہی دے</p>
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۱۲۱۲) (۱۱) بَابُ عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (م- ۳۷۵۷)</p> <p>دیکھو حدیث ۱۲۱۲ م باب اللہ عزوجل کا عہد</p>
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ عَنْهُ (م- ۱۱۲۲) (۱۲) بَابُ اَلْحَلْفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ</p> <p>دیکھو حدیث ۱۱۲۲ م باب اللہ کی عزت اور اس کی صفات اور کلمات کی قسم</p>
<p>وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَسْتُوذِعُ بِعِزَّتِكَ</p> <p>اور ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں</p>

وَمَا شَاءَ اللَّهُ
وَشَدَّتْ كَسْتُمْ
گویا انسان کو
مشیت الہی میں
شریک ٹھہرایا گیا
اس لئے اس سے
منع فرمایا۔ لیکن
بعض لوگوں نے
شہ کے ساتھ اس
کو جواز دیا ہے۔
یعنی ما شاء اللہ
شہ شددت کیونکہ
شہ سے مشیت
الہی میں دوسرا
شریک نہیں بنتا
اسی قسم کا کلمہ ہے
انا باللہ و بیک جن
میں ہر چیز، شکر
ہے تو نام بخاری
نے عنوان باب
میں سوال رکھا ہے
کہ یوں کہہ سکتے

ہے۔ انا باللہ قسم بیک اس قسم کے کلمات کا مدار مشیت پر ہے۔ لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ ایسے کلمات بولنے سے کسی حد تک یہ نکتہ ضرور ہوتا ہے کہ انہیں قوش
کیا جائے اور خدا کے سوائے دوسرے کی رضا ہونے میں ایک قسم کا کلمہ شکر ضرور ہے۔ عظیم و عظیم الہی حدیث ہے جس کا ایک مختصر سا کلام یہاں مکرر لائے
ہیں۔ انا باللہ صلعم بقول ان ثلاثا فی بنی اسرائیل اراد اللہ ان یتلذذ بهم فیعت ملکا فاتی الابرص فقال تقطعت بنی اعمالیان فلا یلاذوا
لی الا باللہ شہ ہذا رخصتہ باب اسی جہد سے ہے، ہذا کہ لحدیث ہے عظیم آیت میں کہ اللہ نے تمہیں کھانے کا ذکر ہے، تحقیق میں جو آگے کیا تب تبغیر میں رسول
آئی ہے حضرت ابو بکر کو قسم کھانے سے روکا۔ آنحضرت صلعم کی اکثر قسم والی نفسی ہیں ہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ ایسے موقع پر آتی ہے جہاں گویا اللہ تعالیٰ کو
بظہر گواہ بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کو آپ کے مع کرنے سے صاف حلیم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ کوک قسم کلمات کی کریں
قرآن کریم میں ہی آتا ہے۔ واحفظوا ایمانکم انہی قوموں کی حفاظت کر دینی زیادہ قسم نہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو اسے پورا کر دو۔ عظیم حدیث میں سات چیزوں کا
حکم ہے اور سات سے روکا ہے۔ یاں صرف اس قدر ہے۔ قال امرنا النبی صلعم یا مولانا المصمم وہاں لفظ امرنا اور انفسم میں یعنی قسم کھانی جانتے تو اسے پورا
کیا جائے۔ دوسرے کی قسم کو صرف اس صورت میں پورا کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ لفظ قریبا، انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے بعض
جگہ احتضوا کہ جسٹے واضح کر دیتے ہیں۔ یاں صرف اسماء اور سعد اور ابان کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے، وہاں ان کے علاوہ معاذ بن جبل اور زید بن ثابت
اور ابراہیم کی آدمیوں کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلعم کی
حاجزادی نے آپ کو قسم دیکر پیغام بھیجا کہ ضرور آئیں تو آپ نے تشریف لے گئے۔ عظیم حدیث اس کی روایت اور ۵۰۰ روایتیں کا عنوان ایک ہی وہاں لفظ
قریباً ۵۰۰ ہے، دیکھو لفظ صلوٰۃ ۲۸۵ کے قریب ہی لفظ میں اس میں ہل جہت کی تصریح میں آتا ہے تو اللہ جل جلالہ لا یرو۔ اگر وہ اللہ پر کسی قسم کھانے تو اللہ سے
پورا کر دیتے ہیں۔ عظیم حدیث میں لکھا جاتا ہے اللہ کو حاضر جان کر گواہی دیتا ہوں۔ عظیم حدیث میں لکھا جاتا ہے اللہ کو حاضر جان کر گواہی دیتا ہوں۔ روایت کا
مضمون شریک ایک ہی ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ مسئلہ صلعم ای انسانہ صیرطال قرنی ثم الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ الذین یدعونہم شہ
یعدینہ شہاۃ فقال ابراہیم وكان انصفاً یأتیہونا ونحن فلان ابن ملجم بالاشہاد وادوا لہم۔ آخری الفاظ دکان اسمائنا نبونا ونحن فلان ابن ملجم بالاشہاد
والہم نہ لفظ ۵۰۰ میں ہے۔ ان سے حلیم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں نہیں کھائے۔ روکا جاتا تھا خواہ گواہی کے موقع پر ہو یا کسی اقترا نامہ کے وقت ہ

حدیث کے چھپے حصہ کو لکھ کر دیا ہے۔ وعن النبی صلعم قال من حلف علی اربعین کا ذیہ لیقظہ ما مال رجل مسلم اذ قال اخیه لقی اللہ وهو علیہ غضبان فانزل اللہ تعالیٰ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينِي رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

ابو ہریرہ سے روایت کی کہ ایک شخص جنت و دوزخ کے درمیان رہتا ہے

فَيَقُولُ يَا رَبِّ اضْرِبْ عَنِّي عَظْمِي عَنِ النَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ

گزرے گی ہے باپ الصواعط جبریل جنم عظمی میں نظر میں

أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَسُحْبَةُ أَهْلِهَا وَ

قال النبی صلواتی تو ای جہنم تقبل ہوں سحبتے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا عِغْفَى لِي مِنْ بَرَكَتِكَ (م- ۴۵۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ہل من عزید حتی یضع ویت العزوة فیھا قرآنہ

رَمْتَكَ (م- ۱۹۲) بَابُ قَوْلِ الرَّحْلِ لِعَمْرٍو اللَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمْرٍو كَعَيْشِكَ

تقلیل قطقط وعزتك رعتان بآب کا تعلق ہی سے ہے و رتوی بعضہا الی بعضی حدیث کی تشریح کرنے و دیکھو

عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۲۷) بَابُ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِاللُّغْوِ

۴۵۹ سے ہے و رتوی بعضہا الی بعضی حدیث کی تشریح کرنے و دیکھو

فِي آيَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كَوْمًا كَسَبَتْ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْمُحْسِنِينَ (م- ۳۷۰)

کے لئے و دیکھو صفحہ ۱۱۶

عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۹۱) بَابُ إِذَا حَنَّتْ نَائِسَةٌ فِي الْأَيْمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ

۱۱۶ اس حدیث ہے

تَعَالَى وَلَكَيْنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ لَا تُؤْخَذُ فِي مَا نَسِيتُمْ (م- ۴۷۱)

یہاں صرف یہ نظر لیں - و حین قال

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۲۰) بَابُ مَا خَطِيئَةُ النَّاسِ بَيْنَ عَمَلِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ

نہا اهل الا فاك ما قالوا فبأھا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۴۲) بَابُ مَا خَطِيئَةُ النَّاسِ بَيْنَ عَمَلِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ

اللہ وکل حدیثی خطا تھے موالیہ صلواتی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۴۲) بَابُ مَا خَطِيئَةُ النَّاسِ بَيْنَ عَمَلِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ

فتمام اللہ صلواتی

عبد اللہ بن ابی قتادہ ابن حبیبہ فقال لسعد بن عبادۃ اصحاب اللہ دعوان بآب کا تعلق اسی جملہ سے ہے لنتقلوہ... کو دہرا یا ہے... اس میں یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنت سے دوسو بار بے لطفی کے متعلق باز پرس نہیں کرے گا جب تک کہ اس بات کو عمل میں نہ لائے... ان آدمی قال لا حرج قال لا حرج کان لا حرج... ان آدمی قال لا حرج قال لا حرج کان لا حرج... ان آدمی قال لا حرج قال لا حرج کان لا حرج... ان آدمی قال لا حرج قال لا حرج کان لا حرج...

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

۱۲۶۲

بَيْنَ النَّاسِ اللَّهُ مُسْمِعٌ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمًّا قَلِيلًا	در میان انسانان اگر وہ شراعت سے والے جانے والا ہے اور پھر ۱۲۶۳ اور شراعت میں ذکر کا قول اور شراعت کے بدلے تمہاری قیمت نہ دو
إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّذُكْرَانٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا	جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو رائے - ۱۲۶۴ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو
تَتَعَضُّوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (م- ۱۳۷۷)	اور قسموں کو توڑ کر کے بعد از تکرار و مانا گوئیے نہ توڑو اپنے اوپر خدا من گھڑا ہے ورائے - ۱۳۷۷
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مكرر) (۱۱۴۴) (۱۸) بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي الْمَعْصِيَةِ	دیکھو حدیث ۱۱۴۴ باب اس بارے میں قسم جو ان کے اختیار میں نہ ہو اور ن فرمائی کے لئے
وَفِي لِعْظَبٍ (م- ۳۷۷۳) عَنْ أَبِي مُوسَى (مكرر) (۱۳۱۸) (م- ۳۷۷۳) عَنْ	اور عقیقہ کی مائیں قسم دیکھو حدیث ۱۳۱۸
عَائِشَةَ (مكرر) (۱۲۶۶) (م- ۳۷۷۵) عَنْ أَبِي مُوسَى (مكرر) (۱۳۱۸) (۱۱۹)	دیکھو حدیث ۱۲۶۶ دیکھو حدیث ۱۳۱۸
بَابُ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصِدًّا أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمْدًا أَوْ	باب اس کے لئے کہ اللہ کی قسم میں آج بات نہیں کروں گا پھر نماز پڑھی یا قرآن پڑھی یا سبحان اللہ کہا یا الحمد للہ کہا یا
هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نَبِيِّهِ وَقَالَ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ لِكَلَامِ أَرْبَعِ سُبْحَانَ اللَّهِ	واللہ اللہ کہتا تو وہ اس کی قیمت پر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلام چار میں سبحان اللہ
وَأَحْمَدٌ لِلَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَبُو سَعْيَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ	اور احمد اللہ اور اللہ اکبر اور اللہ اکبر ابو سعید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے لکھا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هُوَ قَوْلُ تَعَالَى إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَقَالَ جَاهِدُ كَلِمَةَ	ایسی بات کی طرف جو ہمیں ہے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور مجاہد بنے کہا تقویٰ کا کلمہ
التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (م- ۳۷۷۶) عَنْ الْمُسَيَّبِ (مكرر) (۱۹)	واللہ الا اللہ ہے دیکھو حدیث ۳۷۷۶

مطالعہ صحیح بخاری
تفصیل زیادہ ہے۔ قال رسول اللہ صلعم من صلب علی یمین صلب علی یمین صلب یمین ہے یمین صلب سے مراد وہ قسم ہے جس پر انسان کو مجبور کیا جائے یا اسے روکا جائے کہ لوگوں کے سامنے قسم کھائے یا قطع ہر حال میں اس پر مسلم بنی اللہ ہو علیہ غضبان یا قول اللہ تصدیق ذلک ان الذین یشترکون بعہد اللہ وہا یمینہم ثمنا قلیلا الی اخر الایمان فی فضل الایمان میں تیس فقہان ما حد کلام ابو عبد

الرحمن فقالوا لکن ان قال فی الذلک کانت لی بار فی ارض ابن حمزہ فایتیہ رسول اللہ صلعم فقال بیتک اویبیتہ قلت اذا اجعلت علیہا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلعم من جملت علی یمین صلبہ ہو فیہا ناجر یقطع بہا مال امرئ مسلم لقی اللہ یوم القیامۃ وهو علیہ غضبان من کلمت تمیز ہے۔ قال ارسلنی اصحابی الی النبی صلعم اللہ علیہ وسلم اسالہ المحملون فقال واللہ لا احکم علی شیء ووافقتہ وهو غضبان فلما انبیتہ قال انطلق الی اصحابک فقل ان اللہ اوان رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم ینکرکم یحبہ آپ کے پاس سواری کا کوئی انتقام نہ تھا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کریں سواری نہیں لے سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اونٹ آگئے تو آپ نے انہیں سواری دے دی۔ لفظ میان اختصار سے وہ مختصر حدیث کا بیان کیا ہے جس کا لفظ عنوان باب سے ہے۔ حین قال لہا اهل الا ملک ما قالوا فبرأها اللہ مما قالوا کل حدیثی طائفة من الحدیث فانزل اللہ ان الذین جاؤا بالانک العشر الا بیات کلہا فی ہر اونی فقال ابو بکر الصدیق وكان یقول علی مسطح لقرآنہ منہ واللہ لا انفق علی مسطح شیئا ابدا بعد الذی قال لعمریہ فانزل اللہ ولا یاتل اولوا الفضل منکروا السعة ان یقولوا الی القربی الیة قال ابو بکر یل واللہ انی لاحت ان یفر اللہ الی خرجم الی مسطح النقیة الی کان یضقی علیہ وقال واللہ لا انزعھا عنہ ابدا۔ اس میں گو حضرت ابو بکر نے نصیحت کے لئے قسم نہیں کھائی مگر قرآن سے اسمان ذکر کے کی قسم بھی ایک رنگ میں نافرمانی ہی ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضرت ابو بکر نے مسطح کی ایسا پھر شروع کر دی۔ لفظ میں بھی اختصار ہے لفظ یہیں قال آیت رسول اللہ صلعم فی نفر من الاشعریین فرأفتہ وهو غضبان فاستخلفناہ فخلعت انہ لا یعملنا ثم قال واللہ ان شام اللہ لا اجعلت علی یمین فاری غیرہا خیرا منها الا اللہ الذی ہو خیر وفضلہا کما یحکم یاں بہت اختصار ہے قال لما حضرت ابی طالب التواکب تاجارہ رسول اللہ صلعم فقال قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احب لک بما عند اللہ اس میں اللہ الا اللہ کی نصیحت بیان کی ہے۔

(م- ۳۷۷۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم- ۲۲۸۸) (م- ۳۷۷۸) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَسَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۳۷۷۸

(۲۷۶۹) بَابٌ مِّنْ حَلَفٍ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ ثَمُودًا

بابت جو قسم کھانے کے پاس بیت پھرتیں جانے کا اور مینہ اہلیوں کا تھا

(م- ۳۷۷۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (متکرم- ۲۷۶۹) بَابٌ مِّنْ حَلَفٍ أَنْ لَا

دیکھو حدیث ۳۷۷۹

يَشْرَبَ نَبِيذًا أَشْرَبَ جِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيًّا أَوْ مَشَرَفِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ

یا عسیر یا تو بعض لوگوں کے نزدیک اس نے قسم نہیں توڑی

وَكَيَسَّتْ هَذِهِ بِلَا نَبِيذٍ قَوْلُ عَدَدٍ (م- ۳۷۸۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم- ۲۷۷۰)

اور یہ ان کے نزدیک نہیں ہے جیسے

(۲۳۵۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

سودہ بنتی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا سَأَةٌ فَلَمَّا مَسَكْنَا شَمَّ مَارَلْنَا تَنْبِيذَ فِيمَا حَتَّىٰ صَارَ

کرتے ہیں گما کر ہماری ایک بکری مرنی تو ہم نے اس کی گال کو ننگ پھر ہم پیراس میں ہنسیہ بلاتے تھے پھر ایک کو

شْتَارًا ۲۲) بَابٌ إِذَا حَلَفْتَ أَنْ لَا يَأْتِيَنَّكَ مَا كَلَّ شَمْرًا يَخْتَرُّ وَمَا يَكُونُ مِثْلَ الْأَدَمِ

شک پر نہ یا اسے جب قسم کھائے کہ سالن دکھائے گا تو رونے کے ساتھ پھر کھائی اور سالن کی طرح

(م- ۳۷۸۱) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم- ۳۰۹۲) (م- ۳۷۸۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکرم- ۱۹۰۵)

دیکھو حدیث ۳۷۸۱

فَأَقَامَ فِي مَشْرُوبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نِيلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ أَلَيْتَ شَهْرًا وَتِسْعًا وَعِشْرِينَ نِيلَةً

میں نے ایک قسم کی شراب پے جو کھجور یا کشمش یا شہد وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ خواہ وہ نشہ دینے والی ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کے کھر کو نیکہ کہہ دیا جاتا ہے اور نیکہ کو کھر۔ طلا۔ انگوریں پانی ڈال کر اور اسے پکا کر تیار کیا جاتا ہے جس کو ایک تھانی پانی خشک ہو جائے اور طعمہ انگور کا اور ہے۔ اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے مگر کھجور پر بخاری نے امام کے نزدیک فرید نہیں کی بلکہ قریب قریب وہی لفظ میں وہ ان امام اسید صاحب النبیہ صلعم عرس قدما النبیہ صلعم العرسہ فكانت العرسہ خادومہم فقال سهل للقوم هل تدرون ماسقته قال ائعت له ثمراتی تو میں انیل حتی اسمع علیہ فسقته آیاہ دیکھو نوٹ ۲۳ صفحہ ۱۲۲۱ ملاحظہ ہو کے آخری جیلے کو ان الفاظ میں دوہرایا ہے۔ ما شہیم ال محمد من خبز مذہودوم ثلاثة آیات حتی لحن بالله۔ یہاں خبز کے ساتھ ما دوم کا لفظ ہے یعنی رونی جس کے ساتھ سالن بھی ہوتا مگر اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کھجور کو سالن کہا گیا ہے یا نہ۔ اور اس بحث کی آج چند ان ضرورت ہے۔ یوں سالن میں ہر چیز جاتی ہے جس کے ساتھ روٹی کو ملا کر کھایا جائے۔ بلکہ میں کہیں خبیث اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔ قال ابو طلحہ کام سلیم لقد سمعت عورت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرت فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقرا من شعير ثم اخذت شمرا لهما فقلت اني اخبز به وجعته ثم ارسلتني الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وبعه الناس فعطت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلتك ابو طلحة فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معه قروا فانظروا وانظلق بين ايدهم حتى حنت اباطحة فاخبرته فقالت ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت والله ورسوله اعلم فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلعم فاقبل رسول الله صلعم ابو طلحة حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلني يا ام سليم ما عندك فالت ذك الخبز قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الخبز فطقت وصعدت ام سلمة عركه لهما فذمه وعنوان بائع فقلت اسي لفظ سے ہے یہاں بھی کو سالن فرمایا ہے کہ نال یہ رسول الله صلعم ما شاء الله ان يقول ثم قال ايذان اضرقة فاذن لهم قائلوا حتى مشبروا ثم خرجوا ثم قال انذون اضرقة فاذن لهم فاكل القوم كلهم وشجروا والقوم سبعون او ثمانون وجرا

عبدی ہند میں سبحان اللہ وجمہ سبحان اللہ اعظم یہاں ترتیب اسی طرح ہے کہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ کھلے میاں نظاریوں میں۔ قال قال رسول اللہ صلعم کلمہ وقت گذشتہ ازخری من مات عجل لہ ثناء ادخل النار وقت ازخری من مات لا عجل لہ ثناء ادخل الجنة ۱۳۰۰ حدیث روایت اختصار سے آئی ہے۔ الی رسول اللہ صلعم من ساقطہ وکانت انفاک وجب

<p>۱۱ یاں کچھ نہ تھا۔ زیادہ میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا الاحل بالتیہ وانما لا امری ماونے نہن کا نہت ہجرتہ الی اللہ وردسولہ فہجرتہ الی اللہ برسولہ وہن کا نہت ہجرتہ الی دنیا بیسبھا انا امراتہ یتزھا فہجرتہ الی ما ہا اجرالیہ ہن سے اتلالی کیا ہے کہ قسم میں بھی نہت کا</p>	<p>اعتبار ہے یعنی کس امر پر قسم کھانی تھی اس کی نیت یہی ہوتی گی۔ ۱۱۵۹ م حدیث ہے جس کے آخری حصہ کو جس میں ماں کے توبہ کے بخور پر صدر کر دینے کا ذکر ہے۔ یوں بیان کیا ہے۔ صحت کعبین مالک فی حدیثہ وعلی الثلاثہ ان من خلغوا</p>	<p>(۲۳) باب التیة فی الايمان (متر- ۸۳، ۸۴، ۸۵) عن عمر بن الخطاب (متر- ۱۱)</p>	<p>باب التیہ نسوں میں نیت (۲۴) باب اذا اهدى ماله على وجوه التذرية والتوبة (متر- ۸۶، ۸۷) عن عمر بن الخطاب</p>	<p>باب التیہ جب اپنے مال کو نذر اور توبہ کے طور پر ابن مالک (متر- ۱۸۵۹) (۲۵) باب اذا حرم طعامه وقوله تعالی یا ایہا</p>	<p>ابن مالک (متر- ۱۸۵۹) باب التیہ جب اپنے کھانے کی چیز کو حرام کرے اور اللہ تعالیٰ کا قول لے لے النبي لم يحرم مما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله عفو ورحيم قد</p>	<p>کیوں تو اسے حرام کرتا ہے اور اللہ نے تیرے لئے صلح کیا ہے کیا تو بی بیوں کی رضا چاہتا ہے اور اللہ بخشنے والا رحیم کریم ہے فرض الله لكم تحلة ايما نكح وقوله لا تحرموا اطياب ما احل الله لكم</p>	<p>اللہ نے تمہارے لئے تمہاری تحریروں کا غدارہ معز کر دیا ہے (تلازم ۱۱) اور اللہ کا قول اپنے لئے وہ ہے جو تمہاری چیزیں حرام نہ نظر آجائیں اور اللہ نے تمہارے (متر- ۸۵، ۸۶) عن عائشة (متر- ۲۰۶۲) باب الوقاع بالتذرية وقولها</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۰۶۲ باب التیہ نذر کو چھوڑ کرنا یوفون بالتذرية (متر- ۳۷۶) عن ابن عمر (متر- ۲۳۷۸) (۳۷۷)</p>	<p>نذر کو چھوڑ کرے (بہر والا ص ۱۷۰) دیکھو حدیث ۲۳۷۸ عن عبد الله بن عمر (متر- ۲۳۷۸) (۳۷۸) عن أبي هريرة (متر- ۳۷۷)</p>	<p>دیکھو حدیث ۲۳۷۸ دیکھو حدیث ۳۷۷ باب التیہ من لا یغفر بالتذرية (متر- ۳۷۹) عن عمران بن حصين (متر- ۳۷۸)</p>	<p>باب التیہ من لا یغفر بالتذرية (متر- ۳۷۹) عن عمران بن حصين (متر- ۳۷۸)</p>	<p>باب التیہ نذر اور جہاد کے لئے چیز تم خرچ کرو یا کسی نذر کی منت مانو تو اللہ سے باب التیہ نذر فی الطاعة وقا انفقتم من لفقته او نذرتکم من نذیر فان</p>	<p>اللہ یغفرہ وما لایطیب لہ من انصار (متر- ۲۳۵۷) عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبي</p>	<p>صلی اللہ علیہ وسلم قال من نذر ان یطیب اللہ فلیطبه اللہ فلیطبه اللہ ومن نذر ان یعصیه فلا</p>	<p>یغفرہ (۲۹) باب اذا اذرتك راو حلفت ان لا یكلمک انسا تا فی الجاهلیة ثم اسلم</p>	<p>(متر- ۳۷۹) عن ابن عمر (متر- ۱۰۱۵) (۳۸۰) باب من مات وعليه نذر</p>	<p>دیکھو حدیث ۱۰۱۵ باب التیہ جہاد کرنا اور اس پر نذر ہونا</p>
---	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---

فقال فی اخر حدیثہ ان من توبی انی اذنہم من ما لی حدیثہ الی اللہ ورسولہ فقال النبی صلعم اهلک علیک بعض مالک فهو خیر لک
۱۱۱۱ انہی انفا میں حدیث کو دومر یہ ہے آخر پر یہ بڑھا یا ہے۔ وقال فی ابراہیم بن موسی عن هشام بن اعدولہ وقد حلفت فلا تخبرنی بذلك
احدا ہمک یاں لفظ یوں ہیں۔ یقول اولم ینہوا عن النذر ان النبی صلعم قال ان الذاریکا یقدم شیئا ولا یؤخر واما یتسخر بہ بالتذیر
من الجلیل ۱۱۱۱ لفظ ۲۳۳۸ کے ہیں ۱۱۱۱ فلا اس کے لفظ یوں ہیں۔ قال النبی صلعم لا یزنی ابن آدم الذنر شیئی لم یکن قولہ ولكن یطہقہ الذنر الی
النذر قد قرارہ فیستجیر اللہ بہ من الجلیل قیوفی علیہ ما لہ یکن یوفی علیہ من قبل ۱۱۱۱ کے لفظ میں نذر مان کر پورا نہ کرے کیوں میں شیئ کیا گیا ہے

وَأَمْرًا مِنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَتْ أَهْلًا عَلَى نَفْسِهَا صِدْقًا يَقْبَأُ فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا وَقَالَ

ابوہریرہ نے عرض کیا کہ عورت کو جس کی ماں نے اسے بچہ پر قبائیں نماز پڑھنے کی سنت مانی تھی کہ اس کی طرف سے نماز پڑھنے اور

ابن عتبّاس سے روایت ہے کہ (م- ۹۱-۳۷۹) عن عبد الله بن عبد بن مسعود (متکرو- ۱۲۷۷) (م- ۹۲-۳۷۹)

ابن عباس سے بھی ایسی روایت ہے دیکھو حدیث ۱۲۷۷

عن ابن عتبّاس (متکرو- ۹۳۷) باب التذریر فيما لا يملك وفي معصية

دیکھو حدیث ۹۳۷ باب اس کی سنت جو تکلیف میں نہ ہو اور نہ ہی کی سنت

(م- ۹۳-۳۷۹) عن عائشة (متکرو- ۲۳۵۶) (م- ۹۴-۳۷۹) عن ابن عتبّاس (متکرو- ۹۴۰)

دیکھو حدیث ۲۳۵۶ دیکھو حدیث ۹۴۰

(م- ۹۵-۳۷۹) عن ابن عتبّاس (متکرو- ۸۶۳) (م- ۹۶-۳۷۹) عن ابن عتبّاس (متکرو- ۸۶۳)

دیکھو حدیث ۸۶۳ دیکھو حدیث ۸۶۳

(۲۳۵۷) عن ابن عتبّاس قال بيننا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا

قالتم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا

ہے تو اس کے متعلق دریافت فرمایا صحابہ نے عرض کیا ابو اسرائیل کی منہ مندی ہو کہ کھڑا رہے اور نہ بیٹھے گا اور نہ

يترككم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة فبنتكم ولا يستظل وليقعد

بات کر گیا اور روزہ رکھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم کو دو بات کرے اور سایہ میں آجائے اور بیٹھ جائے

وليتم صومه (۳۲) باب من نذر ان يصوم اياما فوافق التجر او الفطر

اور پانچ روزہ پورا کرے گا باب جس نے چند خاص دنوں کے روزہ رکھنے کی سنت مانی اور وہ دن باقر عید یا عید الفطر کا دن آئے

(م- ۹۷-۳۷۹) عن عبد الله بن عمر (متکرو- ۱۰۰۵) (م- ۹۸-۳۷۹) عن زياد بن جبير

دیکھو حدیث ۱۰۰۵ دیکھو حدیث ۱۰۰۵

(متکرو- ۱۰۰۵) باب هل يدخل في الايمان التذور الارض والغنم والزرع

دیکھو حدیث ۱۰۰۵ باب کیا زمینوں اور نذروں میں زمین اور کھجوریں اور گھنٹیں اور سامان آسکتے ہیں

والامتعة وقال بن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اصببت ارضاكم

اور ابن عمر نے کہا حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تم نے ایسی زمین لی ہے

اصب ما لا تقط انفس منه قال ان شئت حبست اصلها وصدقت بها

کہ کیا اچھا ماں لکھے کبھی نہیں ملا آپ نے فرمایا چاہو تو اس کے اصل کو روک لو ورنہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو

کتاب الايمان والذکر
یوں ہیں۔ ان
سعد بن عبادہ
الا نصاری
استفتی النبی
صلی عن ذر
کان علی امہ
فتوت قبل ان
تقضیه فانہ
ان یقضیہ عنہا
فکانت سنتہ بعد
ما کف احداث
دو بار یا جو قال تی وح
رکعت میں اور آوی
النبی صلی فقال
انہ ان اخطی ردہا
ابھی ہے، نذرت
ان حججہ وانما
مات فقال النبی
صلی اللہ علیہ
وسلم وکان علیہا
دین اکتت فاضیہ
قال نعم قال
فافتن اللہ فهو
احب بالاضار
موسیٰ بن عقبہ
مکر روایت
مخبر ہے عن
النبی صلی قال
ان اللہ لغنی
عن قولی یہ خدا

نفسه وراه يمشي بين ابنيه هـ اس کے نظریہ میں۔ ان النبی صلی عنہما راہی رجلا یطوف بالکعبۃ بزمام و ہمارا، اور غیرہ فقطعہ ہ علیہ مکر
روایت کچھ اختلاف سے آئی ہے۔ ان النبی صلی عنہما راہی رجلا یطوف بالکعبۃ باشان یقول انا کا جزامہ تریا بنوں کا حلقہ جو اونٹ کی ناک میں ڈالا
جاتا ہے اور اس سے ہمارا بانڈھی جاتی ہے، فی الفطر ناک میں ہونے کا کوکر میں ہے سنت میں نہیں، فقطعہا النبی صلی عنہما ہ شہ امرہ ات
یقولہ ہیدا ہ۔ یہ دونوں حدیثیں یہ دکھانے کے لئے ہیں کہ غالباً کسی سنت کی وجہ سے، اب کیا کیا تھا تو آپ نے ایسی نذر ماننے کو درست نہیں مانا ہ
لیکن بظاہر ان نذروں میں معصیت نہیں کیوں چونکہ یہ اپنے آپ کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالنا تھا اس لئے اسے معصیت ہی قرار دیا گیا ہے ہ لکھیاں
نظر اور ہیں۔ مسئلہ ان عمر عن رجل نذر ان لا یاتی علیہ یوم الا ساءم فوافقہم ارضی او فطر قال لقد کان لکوفی رسول اللہ اسوقہ حصنہ لکوفی
یصوم یوم الاضحی والفقیر ولا یزیر صیامہما ہ لکھیاں نظر میں ہیں۔ اکتت مع ابن عمر قال لکوفی فقال نذرت ان اصوم کل یوم ثلاثا۔ او
اربعاء ما عشت فوافقت هذا الیوم یوم الفطر قال امر اللہ برفاء النذر ونہین ان یصوم یوم الفطر او عید فقال مثله لا یزیر علیہ ہ

وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْتِي حَاءٌ

اور ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے سب مالوں میں سے مجھے زیادہ محبوب میرا حواء ہے

بِحَائِطِ لَهْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ (م- ۳۷۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرو- ۱۸۲۲)

ان کی دروازہ مسجد کے سامنے کا دروازہ تھا دیکھو حدیث ۱۸۲۲ ع

۸۳- کتاب کفارات الیمان

۸۳- کتاب کفارات الیمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) بَابُ كَفَّارَاتِ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ

بَابُ كَفَّارَاتِ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ

مَسَاكِينَ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ فِدْيَةُ مَنْ صَامَ

مَسَاكِينَ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ فِدْيَةُ مَنْ صَامَ

أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكًا وَيُذَكِّرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ مَا كَانَ فِي

أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكًا وَيُذَكِّرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ مَا كَانَ فِي

الْقُرْآنِ أَوْ أَفْصَاحِيَّةً بِالْحَيَاءِ وَقَدْ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا

الْقُرْآنِ أَوْ أَفْصَاحِيَّةً بِالْحَيَاءِ وَقَدْ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا

فِي الْفِدْيَةِ (م- ۳۸۰۰) عَنْ كَعْبِ بْنِ شِجْرَةَ (م- ۲۹۲۷) بَابُ قَوْلِهِ

فِي الْفِدْيَةِ (م- ۳۸۰۰) عَنْ كَعْبِ بْنِ شِجْرَةَ (م- ۲۹۲۷) بَابُ قَوْلِهِ

تَعَالَى قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكَ مِجْلَةً أَيْمَانُكَ وَاللَّهُ مَوْلَاكَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

تَعَالَى قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكَ مِجْلَةً أَيْمَانُكَ وَاللَّهُ مَوْلَاكَ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

مَنْ يَتَّخِذِ الْكُفَّارَةَ عَلَى الْغَيْبِ وَالْفَقِيرِ (م- ۳۸۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-

مَنْ يَتَّخِذِ الْكُفَّارَةَ عَلَى الْغَيْبِ وَالْفَقِيرِ (م- ۳۸۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-

متکرو- ۹۸۰) بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْبِرَ فِي الْكُفَّارَةِ (م- ۳۸۰۲)

متکرو- ۹۸۰) بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْبِرَ فِي الْكُفَّارَةِ (م- ۳۸۰۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۷۹۹) بَابُ يُعْطَى فِي الْكُفَّارَةِ عَشْرَةٌ

یہ اسی قدر تھا سے وہہ ایہ ہے۔ فان خرجنا مع رسولہ صام یم خیر فسلم نغم ذہنا ولا فضة الا الاموال والثياب المتاع فاهنی رجل من بقر الطيب يقال له دفاعة بن زيد لرسول الله صام غلاما يقال له منعم فوجه رسول الله صام الى وادي القرى حتى اذا كان بواي القرى بيضا مدم يخط رجلا لرسول الله صام اذا سمع حافر وقتل خالد اناس حينئذ له الجنة فقال رسول الله صام ولا الذي نفسي مودة ان الصلوة التي اخذها يوم خيبر من المغام لم تصبها النعام فشتغل عليا قارا فلما سمع ذلك الناس جا مد رجل يشواك اوحم اليك اني صلي الله عليه وسلم فقال شواك من نارا وشواكان من نارا هل اذ شويك تشرح برهاني ہے :- اتية يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لوفن قد نوت فقال ابو ذيك هو اتمك قلت نعم قال فدية من صيام او صدقة او نسك واخبرني ابن عون عن ابي بصير قال صيام ثلاثة ايام والنسك عشرة وعاشا والساكنين ستة هل قريبا وهي لفظ بين صرت اعلى افقر منا کے بعد فقہ مجہود دیا ہے۔ فوالله ما بين لا يبتها يربيد المحترين اهل بيت افقر من اهل بيتق۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیر کو کئی کفارہ نہیں بلکہ کفارہ کیلئے اگر کچھ بیت المال سے دیا جائے تو فقیر اسے اپنے معرفت میں لاسکتا ہے۔ لنگ قریباً ہی لفظ ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ مجہود میں لایموا لرجل من الاغنام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹنے کا ذکر نہیں۔

مَسَاكِينٍ قَرِيْبًا كَانَ اَوْ يَبْعِيْدًا رَمَزًا (۳۸۰۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۱۹۸۰) قَرِيْبِي هُوْنَ يَادُوْرَكَ رَشْتِي كَسَلْتِ

دیکھو حدیث ۱۹۸۰ سے

(۵) بِاَبِ صَاعِ الْمَدِيْنَةِ وَمَدِيْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْكَةٍ وَوَأْتَوْا اَوْتًا

باب مدینہ کا صاع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مد اور اس کی برکت اور مدینے والوں کا

اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنٍ (۳۳۵۸) عَنْ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ

نہا بعد قبل اس کا وارث ہونا ہے

كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدًّا اَوْ ثَلَاثًا بِمَدِّ كَوْمِ الْيَوْمِ قَرِيْدًا

علیہ وسلم کا صاع تھا آج کے مد کی نسبت ایک مد اور ایک ثمانی مد تھا اس میں

رِيْدِي فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (۳۳۵۹) عَنْ كَا فَرَجٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي

عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں زیادتی ہوتی تھی

زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدُّ اَلْاَوَّلُ وَفِي كِفَاةِ الْيَمِيْنِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے جو پہلا مد تھا اور برکت سے اور دوسرے کے کفارہ میں نبی

بِمَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو قَتِيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مَدًّا كَا اَعْظَمَ مِنْ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ابو قتیبہ نے کہا کہ مالک نے ہم سے کہا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑھا

مَدِّكُمْ وَلَا تَزِيْلُ لِفَضْلِ الْاَقْرَبِيِّ مَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ

ہے اور ہم فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد میں ہی دیکھتے ہیں اور مالک نے مجھ سے کہا

لَوْ جَاءَ كِرَامِيْرٌ فَضْرَبَ مَدًّا اَصْغَرَ مِنْ مَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِي

اگر تمہارے پاس ایبیر آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد دیا تو اس

شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْطُوْنَ قُلْتُ كَمَا تَعْطُوْنَ بِمَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْلَا تَرَوْنَ

مد سے ادا کرتے ہو گے ہیں تمہاری جہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے دیکھ کر گے تو کہا کیا آپ نہیں دیکھتے

اَنَّ الْاَمْرَانَ مَا يَجُوْدُ اِلَى مَدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَزًا (۳۸۰۴) عَنْ اَسْبَرِ

کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کی طرف ہوتا ہے

ابْنِ مَالِكٍ رَمَزًا (۱۱۰۴۲) بِاَبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى اَوْ تُخَوِّرُ رِقَبَةً وَاَيُّ الرِّقَابِ

دیکھو حدیث ۱۱۰۴۲ سے

اَزْكٰى (۳۸۰۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۱۱۹۷) بِاَبِ عَمْرِو بْنِ اَبِي رَمْلَةَ

دیکھو حدیث ۱۱۹۷ سے

بَابُ كِفَارَةِ مَنْ مَدَّ رِجْلًا مِنْ رِجْلِ اَبِي رَمْلَةَ

باب کفارہ میں مد بردار ام ولد

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

۱۹۸۰

ہے۔ ساتھ وقت ایک مکین کو کھانا کھلانا ایسا ہی ہے جیسا ساتھ مکینوں کو ایک وقت میں۔ باقی کفارہ قسم میں وہ مکینوں کو کھانا کھلانا مباحث قرآنی سے ثابت ہے۔ مد لفظ قریشی ہی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مناظرہ ہوا۔ امام ابو یوسف صاع آٹھ رطل کا سمجھتے تھے تو امام مالک اپنے گھر کے اندر گئے اور صاع نکال لائے اور کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے تو امام ابو یوسف کہتے ہیں وہ پانچ رطل اور ایک ثمانی رطل تھا۔ چونکہ میں کفارہ سے کا ذکر ہے اور اس میں غلہ وغیرہ ناپ کر دینا ہوتا ہے اس لئے مد کی بحث کیا گئی ہے۔ مد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مد ہے۔ رطل تھا اور صاع چھ رطل کا ہوتا ہے اس لئے آپ کا صاع پانچ رطل ہوا۔ مد میں لفظ یوں ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيائهم وصاعهم ومنهم۔ مد لفظ قریشیوں سے ہے۔ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فوجئ بغيره۔

وَالْمَكَاتِبِ فِي الْكُفَّارَةِ وَحَسْبُ وَادَّ الرَّادُّ وَقَالَ طَاوُسٌ يَجُزِي الْمَدْبُورَ وَالْمَوْلَى	اور حدیث ۳۸۰۶	اور طائوس نے کہا	ہر اورام ولد کا فطرت کرنا ہے
۳۸۰۶ (م) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۸) بَابُ إِذَا أُخْتُقَ فِي الْكُفَّارَةِ	۳۸۰۶ (م) دیکھو حدیث ۳۸۰۶	بابت جب کفارہ میں فہم نہ کرے	
لَيَمُنَّ بِكُونِ وَلَاؤُهُ (م) ۳۸۰۷ (م) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۹) بَابُ	۳۸۰۷ (م) دیکھو حدیث ۳۸۰۷	تو اس کی بیعت کی ہوگی	
الْأَسْتِنَاءِ فِي الْإِيمَانِ (م) ۳۸۰۸ (م) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَمَتَكَ رَمَتَكَ	۳۸۰۸ (م) دیکھو حدیث	فہم میں استثناء کرنا ہے	
۳۸۰۸ (م) ۱۳۱۸ (م) ۳۸۰۹ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۱۰) بَابُ الْكُفَّارَةِ	۳۸۰۹ (م) دیکھو حدیث ۱۳۱۸	بابت کفارہ دینا قسم کے فہم نہ	
قَبْلَ الْحَنْثِ وَبَعْدَهُ (م) ۳۸۱۰ (م) عَنْ زُهْدِ الْأَنْبَرِيِّ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۱۱) ۱۳۱۸	۳۸۱۰ (م) دیکھو حدیث ۱۳۱۸	کرنے سے پہلے اور اس کے بعد	
۳۸۱۱ (م) ۳۸۱۲ (م) ۳۸۱۲ (م) عَنْ زُهْدِ الْأَنْبَرِيِّ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۱۲) ۱۳۱۸	۳۸۱۲ (م) دیکھو حدیث ۱۳۱۸		
۳۸۱۳ (م) ۳۸۱۳ (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَمَتَكَ رَمَتَكَ (۱۳) ۲۳۵۱	۳۸۱۳ (م) دیکھو حدیث ۲۳۵۱		

من پر وہ غلام ہے، ایک کرنے کے لیے سے مرے کے پھر تم آزاد ہو۔ ام ولد وہ پوتی ہے جس کے بطن سے رز کا پیدا ہو۔ مکاتیب وہ غلام جو آزاد کی کے لیے غم سے حاصل کرے۔ فہم میں کچھ فرق ہے۔ ان رجلا ہوں الاغنیاء وغیرہم لوگ وہ ولم یکن لہ ما لہ غیرہ فہم النبی صلوات اللہ علیہ وسلم

فقال من يشتر به معنى فاشتر به تعيم من الخاتم بنما ثمانية وروهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبد اقطيبا مات عام اول *
 ۱۳۱۸ بیان روایت مختصر ہے۔ انہما آزادوں ان نشتری بريرة فاشترطوا علیہا الولاء فذکرت ذاک للنبی صلوات اللہ علیہ وسلم فقال
 اشترطها انما لولا لمن اشترق۔ الولاء لمن اشترق عام نفعہ ہیں اور سب صورتوں پر حاوی ہیں + مکہ استثناء کے ایک حصے اشارہ اشارہ
 بھی ہیں وہی میں مراد ہیں قسم کے ساتھ انشاء اشارہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ فہم سے حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ میں اپنے رائے کو پورا نہ کر سکوں +
 ۱۳۱۸ اس کے نفاذ قرآن ۲۷۵ کے ہیں + اس کے نفاذوں ہیں + مثال سلیمین لا طوفن اللیلۃ علی سبعین امرؤ کل تلذ غلاما باقائل
 فی سبیل اللہ فقال نہ صاحبہ قال سہیل بن یعنی الملک فل ان شاء اللہ نفسی فطاعت ہن فلم تلت امرأۃ منہن بولد الا واحدة بشوق غلام
 فقال ابو ہریرۃ بریرۃ قال نوال ان شاء اللہ دم یحنت وکان در کانی حاجتہ رجعت علی پوری جو مافی، وقال ہریرۃ قال رسول اللہ صلوات اللہ
 علیہ وسلم لو استنذرت عن اب باب کا تعلق اسی نفاذ سے اور اس سے پہلے جلد میں اشارہ لگائے سے ہے ۳۷۳۷ میں اسی کے قریب قریب انفاذ
 اور مضمون میں چمک اس کا مضمون اور رقم ۳۷۳۷ کی طرح ہیں لیکن کہیں کہیں تعریف اختلاف نفعی ہے۔ یہاں نفعیوں ہیں۔ فان کنا عند ابی
 موسی وکان بیننا و بین ہذا النبی من جرم اخارہ وموعوتہ قال فقدم طدام قال وقدیم فی طوامہ لحم وجاجہ قال ذی القوم رجل من بنی
 تیم اللہ اسمہ کانہ مولی قال فلم یبدان فقال لہ ابو ہریرۃ ان ذی قریظہ را بیت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم یا کل منہ قال انی را یتہ یا کل شیئا
 قد رتہ فخلقت ان لا احمہ ایدنا فقال ادن اخبر عن ذات اتینا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم فی رھط من الا شعریین استخمدہ وهو
 یقسم نعمنا من لحم العذرة قال یوی احسبہ قال وهو غضبان قال واللہ لا احمکرم ما عھدکما احمکرم قال فانطلقنا فاتی رسول اللہ
 صلوات اللہ علیہ وسلم ینھب ابل فقبل ابن ہولاء الا شعریون قاتینا فامرنا بنحس ذوق عن الذری ذل فانذرنا فقلت لا صحابی اتینا
 رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم استخمدہ فخلعت ان لا یحملنا ثم ارسل الینا فحملنا فی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم بیئتہ واللہ لئن تغفلنا
 رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم لا نفلح ابن الرجوع ابی الی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم فلذکرہ بیئتہ فرحنا فقلنا یا رسول اللہ اتیناک استخمدک فخلعت ان لا
 تحملنا ثم حملنا فقلنا انظرنا انک نسیت یمذک قال انطلقوا فانما احماکر اللہ انی واللہ ان شاء اللہ لا اخلعت علی یمین فازی غیرہا
 خیرا منها الا اتیت الذی ہو خیر و تحملتہا رجوع ابی باب کا تعلق انہی انفاذ سے ہے + ۳۸۱۱ اور ۳۸۱۲ میں صرف دوسرا سند رواۃ
 سے کہ عن زہدہم ہذا کہہ کر چھوڑ دیا ہے + مکہ قرینا وہی لفظ ہیں +

۸۵۔ کتاب الفرائض

فرائض کی کتاب جلد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہے انتہا رحم والے اور اللہ ہی

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِمَّا تَرَكَ فَإِنْ قَانَ

اور اللہ تعالیٰ کا قول اور تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں جا کہی حکم دیتا ہے کہ اگر کسی نے دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے پھر

كُنَّ نِسَاءً فَوَلِيُّهَا فَبِهِنَّ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

اگر (اولاد میں) دو (یا اس) سے اوپر عورتیں ہوں تو ان کے لئے اسکی دو تہائی ہو جو اس نے چھوڑا اور اگر ایک ہی عورت ہو تو اس کیسے نصف ہے

وَلَا يُولِيهِ لَكُمْ لِوَاوَاهُ وَلَا لِبَنَاتِكُمْ لَكُمْ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا قَانَ وَلَا يُؤْتِي

اور اس کے ماں باپ کے لئے دو تہائی میں سے ہر ایک کے لئے اس کا چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا ہے اگر اس کی اولاد ہو تو اسکی اولاد نہ ہو تو

لَهُ وَلَوْلَا ذُو الرَّحْمَةِ لَمُنَّ بَيْنَهُمُ الْوَارِثُونَ فَإِنْ كَانَ لَكُم مِمَّا تَرَكَ إِذَا قَانَ

اگر ماں باپ ہی کے علاوہ ہوتے تو اس کی ماں کے لئے چار حصہ ہے اور اگر اس کے بہائی ہوں تو اسکی ماں میں سے چھٹا حصہ ہے وصیت

وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا أَوْ أَبْنَاءً أَوْ إِخْوَةً أَوْ إِخْوَاتٍ مِمَّا تَرَكَ فَوَلِيُّهَا

وکی اولاد (کی) کے بعد اس کے لئے کی ہو یا قرض کے قائلہ باپ اور قائلہ بیٹے تو نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے قائمہ کے کاغذ سے

فَوَيْصِيَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا قَانَ

زیادہ نزدیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہر فرقہ پر کیا گیا ہے اللہ جانتے وہ حکمت والا ہے اور قائلہ لئے اس کا نصف ہے جو تمہاری عورتوں

لَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ وَإِنْ قَانَ كَانَ لَكُمْ وَإِنْ قَانَ كَانَ لَكُمْ وَإِنْ قَانَ

چھوڑیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان کی اولاد ہو تو تمہارے لئے اس کا چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا ہے وصیت وکی اولاد کی کے بعد

يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينًا أَوْ دِينًا أَوْ أَبْنَاءً أَوْ إِخْوَةً أَوْ إِخْوَاتٍ مِمَّا تَرَكَ

جو انہوں نے بی جو یا قرض کے اور ان کے لئے اس کا چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو

وَلَوْ كَانَ لَكُمْ مِنْهَا نِصْفٌ مِمَّا تَرَكَ فَوَلِيُّهَا أَوْ دِينًا أَوْ دِينًا

ان کے لئے اس کا چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا ہے وصیت وکی اولاد کی کے بعد جو تمہارے لئے بی جو یا قرض کے اور اگر کوئی بی جو یا قرض

يُورِثُ كَلَاكَةً أَوْ أَمْرًا أَوْ لَهًا أَوْ لَهًا أَوْ لَهًا أَوْ لَهًا أَوْ لَهًا

بی جاتی ہے کلاہ ہو یا عورت اور اس کا بہائی یا بہن جو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کیسے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس

أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْغُلَّتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا خَيْرٌ مِمَّا

زیادہ ہوں تو وہ تمہاری میں سے ہر ایک میں اور قرض کے اور قائلہ لئے اولاد ہو یا قرض کے اور اگر کوئی بی جو یا قرض کے

وَصِيَّةً مِمَّا تَرَكَ فَإِنْ قَانَ كَانَ لَكُمْ وَإِنْ قَانَ كَانَ لَكُمْ

بابت فرائض کی تعلیم اور عقیدہ بن جانے کے تو ان کو تہائیوں سے پہلے علم حاصل

يُغْيِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظُّنِّ (م- ۳۸۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۳۳۳) وَأَبُو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فرضیتہ کا صحیح ہے
جو کچھ فرض کیا گیا
میسے نماز زکوٰۃ
وغیرہ۔ اور
ورثہ کے حصص
مقررہ کو بھی نہیں
کا جاتا ہے اور
ہاں وہی مردوں
اور عورتوں میں
میں تقسیم کرنے کو
کا جاتا ہے۔ اور
حصص مقرر کرنے
میں گویا مال کو قطع
کر کے ایک ایک
حصہ سے دیا
جاتا ہے۔
عقلمندان نظر میں
میں وہ عروست
فخاؤنی رسول
انہ صلعم و ابو یوسف
وہا ماشا بن
کا تانی وقد ائچی
علیٰ فقوہ اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم تصعب علی
وقوہ فافتت
فقدت رسول
اللہ کہت ہجرت
فی مالی کیسفت
القضی فی مالی
فام عینی بطی
حقی نزلت آیۃ
الحدیث
میں میں چھوڑ
چھوڑو یا سے نظر
یوں ہیں۔ قال
رسول اللہ صلعم
ابو ذر والظن

فقہ والظن کتاب الحدیث ولا یحسبوا ولا یتأخضروا ولا ینزہوا ولا ینزہوا ولا ینزہوا ولا ینزہوا

قَالَ لِحَقِّ الْغَرَايِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (۲۳۶۱) بَابٌ مِيرَاثِ

کو اپنے نے فرمایا مقررہ حصے ان کے حق داروں کو پہنچا دو جو میراثی ہے وہ قریب تر مرد کو حق ہے۔ بابت بیٹوں کا میراث

الْبَنَاتِ (۲۳۶۲) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۳۶۱) عَنِ

دیکھو حدیث ۲۳۶۲ اور ۲۳۶۱ (تکراراً) سے سعد بن ابی وقاص سے

الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ آتَانَا مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ

بن یزید سے روایت ہے کہ ہم نے ہاس معاذ بن جبل سے کہا اور امیر ہو کر آئے تھے ان میں سے

عَنْ رَجُلٍ تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

ایک شخص کے بارہ میں پوچھا جس نے وفات پائی اور بیٹی اور بیٹی ہیں پھر لڑکیوں نے نصف بیٹی کو دیا اور نصف بہن کو دیا

(۲۳۶۱) بَابٌ مِيرَاثِ ابْنِ الْأَبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ

بابت بیٹے کے بیٹے کا میراث لینا جب بیٹا نہ ہو اور بیٹے نے کہا بیٹوں کی اولاد

يَمْرُكَةَ الْوَالِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهُمْ وَكَرَّ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرَهُمْ وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ

جب ان کے سوائے اولاد نہ ہو ان میں سے لڑکے اولاد سے لڑکیوں کی طرح ہیں اور ان میں سے لڑکیاں

يَرْتُونَ كَمَا يَرْتُونَ وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرْتُونَ مَعَ الْأَبْنِ

لڑکیوں کی طرح ہیں اولاد کی اولاد وارث ہوتی ہے جیسے اولاد وارث ہوتی ہے اور وہ لڑکیوں کی طرح ہیں اور وہ لڑکیوں کی طرح ہیں

(۲۳۶۲) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۳۶۲) بَابٌ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعِ ابْنَةٍ

دیکھو حدیث ۲۳۶۲ اور ۲۳۶۲ (تکراراً) سے ابن عباس سے بابت بیٹی کی بیٹی کا میراث لینا

عَنْ هُرَيْبِ بْنِ شَوَّحِبِيلٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ ابْنِ زَوْجَتِهِ

ہزب بن شروہبیل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ سے روایت کی گئی اور بیٹی کی بیٹی اور بیٹی کے متعلق پوچھا گیا

فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ وَأَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَمِعْتُ بَعْضَ قَسْرٍ

تو فرمایا بیٹی کا نصف ہے اور بہن کا نصف ہے اور ابن مسعود کے پاس جاؤ وہ ضرور میری موافقت کریں گے اور ابن مسعود

مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ يَقُولُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَّكَ إِذَا وَقَّانَا مِنَ الْهَيَّاتِ

سے پوچھا گیا اور انہیں ابو موسیٰ کی رائے کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا تب تو میں گمراہ ہوں اور میں راہ چاہتا ہوں میں نے نہ پوچھا میں اور میں

فِيهَا مَا فَخُولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفَ وَالْإِبْنَةَ الْكَلِمَةَ الثَّلَاثِينَ

فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا بابت نصف بہن اور بیٹی کی بیٹی کا میراث لینا

فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَفَّى فقلت يا رسول الله ان لي ما لا أكثر وليس يرثني الا ابني انا تصدق بثلثه ما لي قال لا قال قلت فان شئت قال لا

قلت الثلث قال الثلث كبير ان تركت ولانك اغذيوا خير من ان تركهم عائلة يتكفون الناس وانك لن تدفق نفقة الا آخرت عليها

حتى اللقنة ترفيها الى في امراتك فقلت يا رسول الله ان شئت عن جھوق فقال لن تخلت بعدى فتعمل عملاً تريد به وجه الله الا ازودت به

رفعة ودرجة ولعل ان تخلت بعدى حتى يذفع بك اقوام ويضربك اخرون لكن الباش سعد بن خوله يرفي له رسول الله صلعم ان مات

بمكة قال سفيان وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي وثلثه يشرط لبي كريم صلعم من نبي نكاحي اور اولاد کا نفقہ وسیع ہے۔ ایک

متوفی بیٹے کی اولاد اس متوفی بیٹے کی قائم مقام ہوگی جس طرح بیٹے کی بیٹی بیٹی کے ساتھ وارث ہوتی ہے۔ مگر وہی نفقہ ہے۔ اس میں صورت یہ

میراث لینا جو بیٹوں کے حصے مقرر کر دیئے گئے ہیں ان یا پاد فائدہ یا بیٹی وغیرہ جو باقی رہے سے مراد وہ ہے جو میراث حصوں والوں کو دینے کے بعد باقی رہے وہ صورت ہے جب ایک شخص کی اولاد کوئی نہیں یا صرف ایک ہی لڑکی ہے تو نصف جائداد دے گی یا دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو دو تہائی لیں گی لیکن جب اولاد نہ ہو اور اس میں لڑکی بھی ہوں تو باقی سب جائداد ان کو ملے گی۔

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۲۳۶۱ اور ۲۳۶۲

۱۔ جن آیات سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ واداء میں داخل ہے۔ انہی سے یہ استدلال بھی صحیح ہوگا کہ پوتا وندلہن میں ہے۔ ہاں جب تک باپ موجود ہے واداء وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک بیٹی موجود ہے اس بیٹے کا بیٹی وارث نہیں ہوتا۔ مگر وفات یافتہ بیٹے کی اولاد کے وارث ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ یہ اقوال اس بارہ میں ہیں کہ واداء کی موجودگی میں بیٹلی وارث ہوتا ہے یا نہ۔ وہی نفاذ میں ہے۔

وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَإِنَّهَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَا أَنَّهُ يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا	جو باقی رہا وہ ابن کا ہے	موم نے ابو موسیٰ کو ابن مسعود کے قول کی خبر دی تو فرمایا جب تک کہ علم ہر قسم میں موجود ہے
تَسْلُوبِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكَ دَرَاهِمَ) بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْأُخْوَةِ وَ	تو مجھ سے نہ ہو جو	باب اور بھائیوں کی میراث کی میں واداء کا میراث لینا اور
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ آبٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ	حضرت ابو بکر اور ابن عباس اور ابن زبیر نے کہا واداء باپ ہے	اور ابن عباس نے یہ کہا یا بنی آدم
وَاتَّبَعَتْ مَلَآئِكَةُ آبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَى وَيَعْقُوبَ وَكَمْ يَذُكُرُونَ أَحَدًا خَالَتْ أَبَا بَكْرٍ	واعتبت ملائکہ ابی ابراہیم واسحق و یعقوب و کئی ذکر نہیں ہوا کسی نے حضرت ابو بکر کی مخالفت	ان کے بعد
فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتُوا أَرْوُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْثِي	حالیہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے زمانہ میں بہت تھے	اور ابن عباس نے کہا میرے
ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنُ ابْنِي وَيُذُكُرُ كَسْمَعْنَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَبْنُ	بھائیوں کو چھوڑ کر میرا پوتا میرا وارث ہوگا اور کیا میں اپنے بیٹے کے بیٹے کا وارث نہیں ہوں گا اور حضرت عمر اور حضرت علی اور ابن مسعود	
مَسْعُودٌ وَزَيْنٌ أَقَارِيلُ مُخْتَلِفَةٌ (م- ۳۸۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۳۳۶۰)	اورندہ سے مختلف اقوال روایت کے جاتے ہیں	دیکھو حدیث ۳۳۶۰
(م- ۳۸۲۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۳۸۲۴) بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَ	دیکھو حدیث ۳۸۲۴	باب اولاد و غیرہ کے ہوتے ہوئے خاوند کا میراث
غَيْرِهِ (م- ۳۸۲۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۳۸۲۷) بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ	دیکھو حدیث ۳۸۲۷	باب اولاد و غیرہ کے ہوتے ہوئے بیٹی
وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ غَيْرِهِ (م- ۳۸۲۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مكرر - ۳۸۲۹)	طہرت اور خاوند کا میراث لینا	دیکھو حدیث ۳۸۲۹
(۱۱) بَابُ مِيرَاثِ الْأَخْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصِيْبَةٌ (م- ۳۸۳۸) عَنْ الْأَسْوَدِ	بہنو کا میراث لینے کے ساتھ عصبہ ہر مکی وجہ سے میراث لینا	
(مكرر - ۲۳۶۱) (م- ۳۸۲۹) عَنْ هُرَيْزِيلٍ (مكرر - ۲۳۶۲) بَابُ مِيرَاثِ	دیکھو حدیث ۲۳۶۱	باب اولاد بہنوں اور
الأخوات والأخوة (م- ۳۸۳۳) عَنْ جَابِرٍ (مكرر - ۱۵۸۸) بَابُ كَيْسَفَتْوَاكَ	دیکھو حدیث ۱۵۸۸	باب اولاد سے فوتی جانے والی

۳۸۲۵۔ روایت ہے۔ اور م ۱۲۲۳ ابن عباس کی۔ دونوں کے مضمون کا وہ حصہ مفترک ہے جو بیان بھی مذکور ہے۔ یہاں اس حصہ کو بیان کر کے حضرت ابو بکر کے اس فیصلہ کا ذکر کیا ہے کہ واداء اب کے حکم میں ہے۔ قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت موقنا امن هذا الامه خليفه لا اخذته وانكن خليفه الاسلام فمضى او قال غير فاقه انزله ابنا او قال قضاه انا به وبي نقض في ويكعوث ولا صفر ۶۱۹۔ ملكيا من انحصار به۔

قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورتیں امراء من بی بی لیمان سقط میتنا بقرة درجہ ام عید او امه ثم ان المرأة التي قضی علیها بالقرقة توفیت فقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان میراثها لبينها ووزوجها وان العقل ريت، علی عصبتها، مک یان نقض یہ ہے۔ فقضی فیما معاذ بن جبل علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصف للابنة والنصف للاخت ثم قال سليمان قضی فیما ولم یذکر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نقض یہ ہیں۔ قال عبد الله لا قضین فیها لبقضاء النبي صلعم الابنة النصف ولا ابنة الابن السدس وما بقی فلالاخت مک، اس کے نقض یہ ہیں۔ دخل علی النبي صلعم وانما رضى فدا ما بوضوء موقضا ثم نقض علی من وضوئه فاقتت فاقه یارسلو الله انذلک اخوات فذلک ایه الفرائض

قُلْ اللَّهُ يُغْفِرُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ وَهُكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَكَأَنَّ أُمَّهُ نَصَفَتْ مَا

كُفِّرَ اللَّهُ تَبِينَ كَلَامُهُ بَارِعٌ فِيهِ قَوْلُهُ تَبِينَ إِذَا كُنَّ أُولَادًا وَنَحْوِهَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَرَكَ وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُمَّتَيْنِ فَلَهُمَا التَّلْثَانُ مَا تَرَكَ

ہے جو چھوڑا اور وہ اس ذہن کا وارث ہوگا مگر اس کی اولاد نہ ہو پھر اگر وہ چھوڑا تو ان کے لئے اس کی دو تہلی ہے جو چھوڑا

وَأَنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَاؤًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُدْرِكُنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ

اور اگر بھائی اور بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لئے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور تمہارے لئے انہوں کو یہاں کرنا کہ

تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳۸۳۰) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۱۸۵۰) (۱۲۷) بَابُ

ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے (الف- ۱۱۷۷) دیکھو حدیث ۳۸۳۰ باب اول

ابْنِي عِمْرَانَ أَحَدُهُمَا أُمَّهُ لِلْأُمَّ وَالْأَخُ وَالْوَجُّ وَالْوَجُّ وَالْوَجُّ مِنَ

دو بچے کے بیٹے ان میں سے ایک ماں کی طرف سے بھائی ہے اور دوسرا غاوتہ ہے اور حضرت علی نے فرمایا غاوتہ کیلئے نصف ہے اور ماں کی طرف سے

الْأُمَّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نَصْفَانِ (۳۸۳۱) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر)

بھائی کے لئے چھٹا حصہ ہے اور جو باقی رہا وہ دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہے دیکھو حدیث

(۱۱۱۴) (۳۸۳۲) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۲۳۶۰) (۱۵) بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

دیکھو حدیث ۳۸۳۲ باب ذوی الارحام علیہ السلام

(۳۸۳۳) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۱۱۱۰) (۱۶) بَابُ مِيرَاثِ الْمَلَاعِنَةِ

دیکھو حدیث ۱۱۱۰ باب لعان کرنے والی عورت کا میراث لیتا ہوا

(۳۸۳۴) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۱۹۴۷) (۱۷) بَابُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ حُرَّةً

دیکھو حدیث ۱۹۴۷ باب اولاد صاحب فراش کی ہوگی خواہ آزاد اور عورت

كَانَتْ أَوْ أَمَةً (۳۸۳۵) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۱۰۲۱) (۲۳۶۲) ر- عَنِ ابْنِ

ہو یا لونڈی علیہ السلام دیکھو حدیث ۱۰۲۱ باب اولاد صاحب فراش کے لئے ہے

حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا لِمَا جَاءَ الْفِرَاشِ (۱۸) بَابُ الْوَلَدِ مِنَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا بیٹا صاحب فراش کے لئے ہے باب اولاد کے غلام کی

أَعْتَقَ وَمِيرَاثِ الْفَقِيْطِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرَّةً (۳۸۳۷) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۳۱۹)

میراث اس کیلئے جو جس نے آزاد کیا اور جو کچھ لاوارث پایا جائے اس کی میراث اور حضرت عمر نے فرمایا اٹھایا میراث کی آزاد ہے دیکھو حدیث ۳۱۹

(۲۳۶۲) ر- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (متکثر) (۱۱۱۰) (۱۶) بَابُ مِيرَاثِ الْمَلَاعِنَةِ

ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اولاد اس شخص کیلئے ہے جو آزاد کرتا ہے

ملکہ نطفہ یہ ہیں
اخراية تولدت
خاصة سورة
النساء يستقر ذلك
قل الله يغفركم
في الكلاله
ملکہ اس کے نطفہ
یہ ہیں۔۔۔ قال
رسول اللہ صلعم
انا اولی بالموثق
من انفسهم فمن
مات وترک مالا
فعالہ لسوا لی
العصبة ومن
ترک کلاً (بوجہ)
اوضیاً فآراضان
ہو جائے اولی پیر
جیسے چھوٹے بچے
فان اولیہ فلا ذی
لہ (چاہئے کہ مجھے
اس کے لئے بلایا
جائے) +
ملکہ قربانی وہی
نطفہ ہیں +
ملکہ عورتوں کی
طرف سے قریبی
ملکہ ابتدا میں
قال درۃ کو چھوڑ
کر انھی الفاظ میں
دوہرایا ہے مگر
آخر میں جعلنا

مولی کے بعد قال نطفہا والذین عاقدت ایمانہا کہ روایت ہے کہ اگر عاقدت کرنے والی عورت کی اولاد ہو جائے تو
اس کی میراث عاقدت کے ہی ہے مگر یہاں نطفہ ہی ہے۔۔۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم من ولادہا ذریعۃ الخیر صلعم بینہما والذین
اولاد بالکفر اتے چرکہ آپ نے بیٹا عورت کو دیا اس سے استدلال کیا ہے کہ اس کی وارث بھی وہی ہوگی، ملکہ فراش ذریعہ سے نکلی ہے اور ذریعہ اور ذریعہ
و دونوں پر اتے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا فراش ہے۔۔۔ حدیث کو انھی الفاظ میں دوہرایا ہے، اس میں آنحضرت صلعم کا فیصلہ ہے
الولد للفراش وللاحر المحرمین صاحب فراش کا ہوگا اور ذریعہ محسوم کہا جائے گا۔۔۔ ملکہ یہاں روایت مختلف ہے۔۔۔ اشاعتیت برسرین
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم ترثہا فان الولاء لمن اعشق واھدی لہا شاة فقال ہولہا صدقة ولناھدیة قال الحاکم وكان
ذوہما سوا وتقول الحاکم رسول وقال ابن عباس رایتہ عبدی

<p>۱۹) باب مِيرَاتِ السَّائِبَةِ (۳۳۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَرَأَى أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ (م- ۳۸۳۹) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكُمُ ۳۱۹</p>
<p>اور جاہلیت والے سائیب کرتے تھے</p>
<p>۲۰) باب رَأَيْتُم مِّنْ كُنَائِرِ مَنْ قَوْلِهِ (م- ۳۸۴۰) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا) (م- ۳۸۴۱)</p>
<p>بائیں اس کانٹہ پر اپنے انگوٹھ سے بیزار رہی ظاہر کرے</p>
<p>عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۱۰۲) (۲۱) رَأَى إِذَا اسْمُ عَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ أَحْسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَا يَةَ وَقَالَ لَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيَذَرَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفْعَهُ</p>
<p>میراث اس کی ہے جو آزاد کرنے اور تمیم واری سے مرفوعاً بیان کیا جاتا ہے</p>
<p>قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَفَمَاتِهِ وَاسْتَلْفِزَانِي صَوَّوْهُنَّ الْخَبْرَ (م- ۳۸۴۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (۳۲) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ</p>
<p>میراث اس کی ہے جو آزاد کرنے اور تمیم واری سے مرفوعاً بیان کیا جاتا ہے</p>
<p>اللِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ (م- ۳۸۴۳) (۳۱) ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (م- ۳۸۴۴) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (۳۳) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ</p>
<p>میراث اس کی ہے جو آزاد کرنے اور تمیم واری سے مرفوعاً بیان کیا جاتا ہے</p>
<p>(م- ۳۸۴۵) عَنْ آتِشَ بْنِ قَالِحٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۷۶) (م- ۳۸۴۶) عَنْ آتِشَ بْنِ قَالِحٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۷۶) (م- ۳۸۴۷)</p>
<p>میراث اس کی ہے جو آزاد کرنے اور تمیم واری سے مرفوعاً بیان کیا جاتا ہے</p>
<p>(۲۴) بَابُ مِيرَاتِ الْأَسِيرِ قَالَ وَكَانَ شَرِيحَ يُوْرَثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ</p>
<p>بائیں قیدی کا میراث لینا بخاری کتاب ہے اور شرح و عن کے ہاتھوں میں قیدی کو</p>

میں سائیب وہ
 اور تمیم وہی جاتی
 اور اس غلام کو
 بھی کہا جاتا ہے
 جس کا مال کوئی
 نہیں یعنی مالک
 اس کو آزاد کرتے
 وقت کر کے کہ
 تو سائیب ہے۔
 تو پھر پیشہ غلام
 مرفوعاً تو اس کا
 ورثہ مالک نہ لے
 سکتا تھا۔
 میں سائیب ہے
 مرفوعاً غلام
 کو سائیب کرنا ہے
 اس حدیث سے
 یہ استدلال کیا
 گیا ہے کہ چونکہ
 اسلام میں سائیب
 نہیں ہے اس لئے
 اگر ایسا آزاد کر دے
 غلام مرفوعاً تو
 اس کی وراثت
 مالک کو جائے گی

والله اعلم بالصواب

۱۹) باب مِيرَاتِ السَّائِبَةِ (۳۳۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَرَأَى أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ (م- ۳۸۳۹) عَنْ عَائِشَةَ رَمَتْكُمُ ۳۱۹

۲۰) باب رَأَيْتُم مِّنْ كُنَائِرِ مَنْ قَوْلِهِ (م- ۳۸۴۰) عَنْ عَلِيٍّ (مُتَكَرِّرًا) (م- ۳۸۴۱)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۱۰۲) (۲۱) رَأَى إِذَا اسْمُ عَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ أَحْسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَا يَةَ وَقَالَ لَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيَذَرَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفْعَهُ

قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَفَمَاتِهِ وَاسْتَلْفِزَانِي صَوَّوْهُنَّ الْخَبْرَ (م- ۳۸۴۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (۳۲) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ

اللِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ (م- ۳۸۴۳) (۳۱) ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (م- ۳۸۴۴) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۳۱۹) (۳۳) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ

(م- ۳۸۴۵) عَنْ آتِشَ بْنِ قَالِحٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۷۶) (م- ۳۸۴۶) عَنْ آتِشَ بْنِ قَالِحٍ (مُتَكَرِّرًا) (۱۵۷۶) (م- ۳۸۴۷)

(۲۴) بَابُ مِيرَاتِ الْأَسِيرِ قَالَ وَكَانَ شَرِيحَ يُوْرَثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ

۲۱) رَأَى إِذَا اسْمُ عَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ أَحْسَنُ لَا يَرَى لَهُ وَلَا يَةَ وَقَالَ لَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيَذَرَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفْعَهُ

۲۲) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ

۲۳) رَمَتْكُمُ مَّا يَرْتُدُّ

۲۴) بَابُ مِيرَاتِ الْأَسِيرِ قَالَ وَكَانَ شَرِيحَ يُوْرَثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ

وَيَقُولُ هُوَ أَحْسَبُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجْرُ وَصِيَّةِ الْأَمِيرِ وَعَتَاةٌ وَهِيَ مَالٌ
اور کہتے تھے کہ وہ اس کا زیادہ محتاج ہے اور عمر بن عبد العزیز نے کہا قیدی کی وصیت کرنے کو اور اس کے وراثت میں اس کو اس کو اس کو

فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَنْعَخِرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالٌ يَصْنَعُ قِيَمَهُ مَا يَشَاءُ (۵-۸۴۷)

وہ اپنے مال میں تصرف کرے جائز رکھو جب تک وہ اپنے دین سے نہ پھر جائے کیونکہ وہ اس کا مال ہے اس کے متعلق جو چاہے کرے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۱۱۱۳) (۲۵) بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاْفِرَ وَلَا الْكَاْفِرُ
دیکھو حدیث ۱۱۱۳

الْمُسْلِمُ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ (۸۴۸-۳) عَنْ أَسَامَةَ
بَابُ مَسْأَلَةُ الْمَسْأَلَةِ

نہیں ہوتا اور جب کوئی میراث کے تقسیم کیا جانے سے پہلے اسلام لائے تو اس کی میراث نہیں ہے

ابن زَيْدٍ (مكرر-۸۴۵) (۲۶) بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمَكَاتِبِ
دیکھو حدیث ۸۴۵

النَّصْرَانِيِّ وَرَأْفِهِمْ مِنَ النَّعْيِ مِنْ وُلْدِهِمْ (۲) بَابُ مِنْ أَدْعَى أَخَا أَوْ ابْنِ أَخٍ
اور اس کا گناہ جو اپنے بیٹے سے انکار کرے

(۳-۸۴۹) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-۱۰۲۱) (۲۸) بَابُ مِنْ أَدْعَى رَأْفَتِ أَبِيهِ
دیکھو حدیث ۱۰۲۱

(۳-۸۵۰) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (مكرر-۱۸۴۰) (۲۳۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
دیکھو حدیث ۱۸۴۰

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْتَجِبُوا عَنِ آبَائِكُمْ وَمَنْ رَجَبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كَفَرٌ (۲۹) بَابُ
اپنے باپوں سے روگردانی نہ کرو جو جس نے اپنے باپ سے روگردانی کی تو وہ کفر ہے

رَأَى أَدْعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا (۳-۸۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مكرر-۱۵۳۸) (۳۰) بَابُ الْقَائِلِ
دیکھو حدیث ۱۵۳۸

(۳-۸۵۲) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-۱۵۹۴) (۳-۸۵۳) عَنْ عَائِشَةَ (مكرر-۱۵۹۴)
دیکھو حدیث ۱۵۹۴

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - ۸۴۸ میں موت ایک شخص اس قول کا حضرت عمر کی طرف منسوب ہے۔ لا يرث المؤمنون الكافرا ولا الكافرون المسلمین کی
موت کچھ منسوب نہیں ہے۔ مسند حدیث کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اختصار ہے۔ ۱۔ مقتضی سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال رسول خدا
یا رسول اللہ ابن ابی عنبہ ابن ابی وقاص عہد الی اللہ ائمہ انظر الی شہدہ وقال عبد بن زمعة ہذا اخی یا رسول اللہ ولاد علی قراش الی من
ولیدتہ فتلو رسول اللہ صلعم الی شہدہ قرأی شہدہا بعد العتبة فقال ہو نلت یا عبد الولاد القراش ولوا ہوا الحیو ورجع فی ہذا یا سودة بنت
زمعة قالت فلم یسودہ قط ۲۔ ۸۴۸ کا کچھلا حصہ دوہرا ہے اور اس میں کچھ بڑھایا ہے۔ ۱۔ سمعت النبی صلعم یقول من ادعی الی غیر ابیہ وہو
یعلم انہ غیر ابیہ فالخیر علیہ حرام من ذکرہ لابی یقول فقال وانا معضہ ان ذی ذی دعا قلبی من رسول اللہ صلعم ۲۔ ۸۴۸ میں پھر کافر کا نام ہے جس نے
یہاں کفر سے مراد ناشکرگی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بعض فقہاء کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا
ہے۔ اسکی ضمنوں کی حدیث بودرکی ۱۵۳۸ پر گزرتی ہے۔ دیکھو نوٹ ۸۴۸ میں ۱۵۳۸ کا پہلا حصہ مشی و مثل الناس سے نفع فی انصار
تک چھوڑ کر باقی مضمون کو انہی الفاظ میں دوہرایا ہے جس میں دعوہ و توفیق میں سے ہر ایک کا ایک طرف کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ۲۔ ۸۵۱
قیافہ سے ام علی ہے اور قیافہ نسا کا بچا ہے اور قیافہ وہ ہے جو شہداء کا جمع کرنا ہے ویقفوا الاشیاء اس باب کا تعلق کتاب الفرائض سے
اس طرح ہے کہ سب کے معاملہ میں اسکی شہادت قابل قبول نہیں لگتی ہے اور دراصل اسکی شہادت کی تہذیب سے اسکی شہادت لفظی سے دوہرایا ہے
ان رسول اللہ صلعم دخل علی سودة بنت قیس وادعی علیہ فقال الم تری ان حجرتی انظر انظر انظر الی زید بن سامة وادعی علیہ فقال ان هذا
الاقدم بعضہا من بعض ۳۔ ۸۵۲ میں تفصیل زیادہ ہے۔ دخل علی رسول اللہ صلعم ذات دم وهو مسودہ فقال یا عائشہ الم تری ان حجرتی الم تری

عنه عن النبي صلعم قال من ترك ما لا يفلو ثمة ومن ترك كلاً فليس له ميراث اسلکی شریعت میں کافر اور مسلمان کے ساتھ میراث کیوں سلوک ہے اگر کوئی شخص اسلام لے آتا ہے تو اپنے باپ کی جائداد سے محروم کیا جاتا ہے مگر ہمسائے اس ملک یعنی ہمسائے مسلمان کی وارثت سے محروم نہیں کیا جاتا اس لئے مسلمان کو بھی غیر مسلم کی وارثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا ۲۔ ۸۵۱ میں صرف یہ لفظ ہی اس لئے لکھا گیا ہے انہی صلعم قال

۱۱۱۳ ۸۴۵ ۱۰۲۱ ۱۸۴۰ ۱۵۳۸ ۱۵۹۴

۸۴۸ میں موت ایک شخص اس قول کا حضرت عمر کی طرف منسوب ہے۔ لا يرث المؤمنون الكافرا ولا الكافرون المسلمین کی موت کچھ منسوب نہیں ہے۔ مسند حدیث کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اختصار ہے۔ ۱۔ مقتضی سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال رسول خدا یا رسول اللہ ابن ابی عنبہ ابن ابی وقاص عہد الی اللہ ائمہ انظر الی شہدہ وقال عبد بن زمعة ہذا اخی یا رسول اللہ ولاد علی قراش الی من ولیدتہ فتلو رسول اللہ صلعم الی شہدہ قرأی شہدہا بعد العتبة فقال ہو نلت یا عبد الولاد القراش ولوا ہوا الحیو ورجع فی ہذا یا سودة بنت زمعة قالت فلم یسودہ قط ۲۔ ۸۴۸ کا کچھلا حصہ دوہرا ہے اور اس میں کچھ بڑھایا ہے۔ ۱۔ سمعت النبی صلعم یقول من ادعی الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالخیر علیہ حرام من ذکرہ لابی یقول فقال وانا معضہ ان ذی ذی دعا قلبی من رسول اللہ صلعم ۲۔ ۸۴۸ میں پھر کافر کا نام ہے جس نے یہاں کفر سے مراد ناشکرگی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بعض فقہاء کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسکی ضمنوں کی حدیث بودرکی ۱۵۳۸ پر گزرتی ہے۔ دیکھو نوٹ ۸۴۸ میں ۱۵۳۸ کا پہلا حصہ مشی و مثل الناس سے نفع فی انصار تک چھوڑ کر باقی مضمون کو انہی الفاظ میں دوہرایا ہے جس میں دعوہ و توفیق میں سے ہر ایک کا ایک طرف کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ۲۔ ۸۵۱ قیافہ سے ام علی ہے اور قیافہ نسا کا بچا ہے اور قیافہ وہ ہے جو شہداء کا جمع کرنا ہے ویقفوا الاشیاء اس باب کا تعلق کتاب الفرائض سے اس طرح ہے کہ سب کے معاملہ میں اسکی شہادت قابل قبول نہیں لگتی ہے اور دراصل اسکی شہادت کی تہذیب سے اسکی شہادت لفظی سے دوہرایا ہے ان رسول اللہ صلعم دخل علی سودة بنت قیس وادعی علیہ فقال الم تری ان حجرتی انظر انظر انظر الی زید بن سامة وادعی علیہ فقال ان هذا الاقدم بعضہا من بعض ۳۔ ۸۵۲ میں تفصیل زیادہ ہے۔ دخل علی رسول اللہ صلعم ذات دم وهو مسودہ فقال یا عائشہ الم تری ان حجرتی الم تری

۸۴۸ میں موت ایک شخص اس قول کا حضرت عمر کی طرف منسوب ہے۔ لا يرث المؤمنون الكافرا ولا الكافرون المسلمین کی موت کچھ منسوب نہیں ہے۔ مسند حدیث کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اختصار ہے۔ ۱۔ مقتضی سعد بن ابی وقاص و عبد بن زمعة فی غلام فقال رسول خدا یا رسول اللہ ابن ابی عنبہ ابن ابی وقاص عہد الی اللہ ائمہ انظر الی شہدہ وقال عبد بن زمعة ہذا اخی یا رسول اللہ ولاد علی قراش الی من ولیدتہ فتلو رسول اللہ صلعم الی شہدہ قرأی شہدہا بعد العتبة فقال ہو نلت یا عبد الولاد القراش ولوا ہوا الحیو ورجع فی ہذا یا سودة بنت زمعة قالت فلم یسودہ قط ۲۔ ۸۴۸ کا کچھلا حصہ دوہرا ہے اور اس میں کچھ بڑھایا ہے۔ ۱۔ سمعت النبی صلعم یقول من ادعی الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالخیر علیہ حرام من ذکرہ لابی یقول فقال وانا معضہ ان ذی ذی دعا قلبی من رسول اللہ صلعم ۲۔ ۸۴۸ میں پھر کافر کا نام ہے جس نے یہاں کفر سے مراد ناشکرگی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بعض فقہاء کے لئے یہ شرط نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسکی ضمنوں کی حدیث بودرکی ۱۵۳۸ پر گزرتی ہے۔ دیکھو نوٹ ۸۴۸ میں ۱۵۳۸ کا پہلا حصہ مشی و مثل الناس سے نفع فی انصار تک چھوڑ کر باقی مضمون کو انہی الفاظ میں دوہرایا ہے جس میں دعوہ و توفیق میں سے ہر ایک کا ایک طرف کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ۲۔ ۸۵۱ قیافہ سے ام علی ہے اور قیافہ نسا کا بچا ہے اور قیافہ وہ ہے جو شہداء کا جمع کرنا ہے ویقفوا الاشیاء اس باب کا تعلق کتاب الفرائض سے اس طرح ہے کہ سب کے معاملہ میں اسکی شہادت قابل قبول نہیں لگتی ہے اور دراصل اسکی شہادت کی تہذیب سے اسکی شہادت لفظی سے دوہرایا ہے ان رسول اللہ صلعم دخل علی سودة بنت قیس وادعی علیہ فقال الم تری ان حجرتی انظر انظر انظر الی زید بن سامة وادعی علیہ فقال ان هذا الاقدم بعضہا من بعض ۳۔ ۸۵۲ میں تفصیل زیادہ ہے۔ دخل علی رسول اللہ صلعم ذات دم وهو مسودہ فقال یا عائشہ الم تری ان حجرتی الم تری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وحده
کی جمع ہے۔ اور
حق اصل میں وہ
ہے یا وہ چیزوں
کے درمیان روک۔
اور صدقہ و محامد
اشرف یا اللہ تعالیٰ
کی منع کہ جوئی چیزیں
کو بھی کہا جاتا ہے
یعنی احکام الہی
جو بعض اشیاء کی
مانعت کے ہائے
ہیں ہیں اور ان کی
سزاؤں کو بھی۔
کیونکہ مراد بھی ایسے
فعل سے دو مردوں
کو روکنے والی چیز
ہے۔
اس باب میں
کوئی آیت قرآنی
یا حدیث نہیں ملنے
قرآن شریف میں
ہے و ناک حدیث
اللہ فلا تقربوا
إلیہا
الفاظ کو وہ برابر
ہے۔ و کچھ توٹ
ص ۴۵
اس حدیث
میں شراب کی سزا
نبی صلعم سے مرت
چھڑ گئی اور
جو توں سے مارتا
جو کا مشاہات

۸۶۔ کتاب الحدود و دود

۸۶۔ سننوں کی کتاب

باب مَا يَجْزِي مِنَ الْحُدُودِ رَأْيَ بَابٍ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
باب مدو سے بجا وقت پر کرنا ہے باب شراب نہ پنی جلنے اور ابن عباس نے کہا

يَنْزِعُ مِنْهُ نَوْزًا لَا يُيْمَانُ فِي لَوْزَا (م- ۳۸۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- متکرو- ۱۱۸۰)
و ان سے ایمان کا نور زمانے کے وقت نکال دیا جاتا ہے دیکھو حدیث ۱۱۸۰

(۲) بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ (۲۳۴۵) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
باب جو شراب پینے والے کو مارنے کے ہائے میں آتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے

اللَّهُ عَذَابُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُوبٌ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالْبَعَالِ وَجَدَلْ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں چھڑیوں اور جو توں سے مارا اور حضرت

أَبُو بَكْرٍ أَوْ بَعِيْن (۳) بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي لَبِيْتِ (م- ۳۸۵۵) عَنْ عَقْبَةَ
ابو بکر نے چالیس کوٹے مانے ملک باب جس نے گھر میں سسنا دینے کا حکم دیا

ابن الحارث (م- متکرو- ۱۱۲۴) (۴) بَابُ الضَّرْبِ بِالْحَرِيدِ وَالْبَعَالِ (م- ۳۸۵۶)
دیکھو حدیث ۱۱۲۴ باب چھڑیوں اور جو توں سے مارتا

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (م- متکرو- ۱۱۲۴) (م- ۳۸۵۷) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (م- متکرو- ۲۳۴۵)
دیکھو حدیث ۱۱۲۴ دیکھو حدیث ۲۳۴۵

(۲۳۴۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ روایت ہے

قَدْ شَرِبْتُ قَالَ أَصْرُبُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِيمَا الضَّارِبُ بِبِدَةٍ وَالضَّارِبُ بِبَعْلَةٍ
جس نے شراب پی، ہوئی تھی تو فرمایا ہے مارو ابو ہریرہ نے کہا سو ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے مارنا تھا اور کوئی جوٹے سے

وَالضَّارِبُ بِشُوبِهِ فَلَمَّا انصرفت قَالَ بَعْضُ لِقَوْمِ أَخْرَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا
مارتا تھا اور کوئی پکڑے سے مارنا تھا ہے وہ چلا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے تو اپنے فرمایا ایسا مت کہو اور

لَا تَعِينُوا عَلَيْهِ وَالشَّيْطَانُ (۲۳۴۶) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
شیطان کو اسکے خلاف مدد نہ دو علی بن ابی طالب سے روایت ہے

نظر آتا ہے کہ انرا پہنچنا نہیں بلکہ لوگوں میں ذلیل کرنا ہے اور تہذیب کوئی معین نہیں فرمائی حضرت ابو بکر نے اسے ایک قانون کا رنگ دیکھا جس کو کڑے سزا کی سنگ
حضرت ابو بکر کے زمان میں ہی کوڑا خاص طرز کا مرنے نہ تھا بلکہ جلد سے مارا مرتا ایسی سزا دیتا تھا جس کا اثر بلند تک پہنچے مثلہ سرفی وغیرہ سے۔ یہ یعنی یہ
ضروری نہیں کہ کسی کھلی جگہ میں یا بہت لوگوں میں سزا دی جائے، بلکہ شاد بگائی جگہ ہے دھو سکواں (پرست) اور اس کے بعد دھوا یا فشن علیہ باقی نفلہ ہی میں
شرابی کو جو توں اور سو ٹوک مارنا نہ کرے بلکہ وہی نفلہ میں مشہدی نفلہ میں، علی یعنی جب سزا لگنی تو اب اسے رانہ کہہ کر جو کت وقت اور سوائی کی زیادہ شہر سے
شاہد دہرا سوائی میں بند ہوتے۔ جس کے بھی حدم ہو کہ فی الحقیقت سزا بہت ہی ملکی تھی کسی نے ہاتھ سے نہیں مارا یا کہ کسی نے کڑے سے تو ان چیزوں کوئی چیزاں نہیں ہیں گئی

قَالَ مَا كُنْتُ لَأَقِيمَ حَدًّا أَعْلَىٰ أَحَدٍ فَيَمُوتُ فَأَجِدَنِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ

فرمایا کہ میں کسی پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو میں کسی پر پانچ نہیں کہتا اور وہ مشرکوں کے کیونکہ

كُومَاتٍ وَدِينَةٍ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ سِنَةً (۳۳۶۸) عَنْ

اگر وہ مر جائے تو میں اس کا خون بہا دوں گا۔ یہ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو قائم نہیں کیا۔

السَّائِبِ بِنُزَيْدٍ قَالَ كُنَّا تَوْتِي بِالشَّارِبِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سائب بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور حضرت زید کا زمانہ

وَأَمْرَةٌ ابْنِ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَقَوَّمُوا إِلَيْهِ بِأَيْدِي نِيَّانٍ وَعَالِزًا أَوْ قَرِيبَتَنَا

اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں شرابیوں کے پاس لایا جاتا تھا تو ہم اس کی طرف گھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں اور اپنے جوڑوں اور

حَتَّىٰ كَانَ الْخِرَاءُ مَرَّةً عُمَرَ جِلْدًا أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذْ اذْتَعَا وَفَسَقُوا جِلْدًا ثَمَانِينَ

پہنچ چاروں سے نلے ساتتے، یہاں تک کہ حضرت عمر کی امدت کا آخر ہوا تو ہمیں کوٹھے لگانے میں ایک کرب کوٹوں نے مریش کی اور میں شکر کیا تو

(۵) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّحِرٍ مِنَ اللَّهِ (۳۳۶۹)

باب شراب پینے والے کو لعنت کرنا ناپسند کیا جاتا اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلِيَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ

عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی تھا اس کا نام عبد اللہ

عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ يُقْبَلُ جَمَارًا أَوْ كَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

تھا اور اسے جمار کے نام سے لقب کیا جاتا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَ فِي الشَّرْبِ ابْنَ فَاتِي بِهِ يَوْمًا فَأَمْرًا بِهِ فَيُجْرَبُ

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب پینے میں کوڑے لگوائے تھے چنانچہ وہ ایک دن لایا گیا تو اس کے متعلق حکم دیا

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ أَلْوَنُهُ مَا أَكْرَمَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تو اسے کوڑے لگانے لگے وگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر کہ تمنا زیادہ لایا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَلَّى اللَّهُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (۳۳۵۸) عَنْ ابْنِ

اس کو لعنت نہ کرو وشرابی تم میں جانتا ہوں یہ کہہ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔

هُوَ يَزِيدُ (۳۳۶۷) بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ (۳۳۶۹)

دیکھو حدیث ۳۳۶۷ باب چور جس وقت چوری کرتا ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

يَزْنِي لِرَأْسِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ

تو وہ مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور جب کوئی کفریہ گناہ کو وہ مومن بننے کی حالت میں چوری نہیں کرتا۔

بعض شرابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ آلودی دیا کہ وہ لوگوں کو حد نہیں دے سکتے۔ اس سنت کو قائم کرنے سے روایات کوڑوں کی مشابہت ہو گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس وی اور کوڑوں کی سختی سے جی کوئی شخص مر ہی سکتا ہے۔ کسے باقی باجوئے یا کپڑے سے ماریا تو اس سے موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی پاپوں کوڑے نہ لگائے جاتے تھے۔ بلکہ معمولی طور پر زبرد و کوب کیا جاتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیرات کا انحصار حالات پر تھا۔ اور حضرت عمر نے سزا یعنی صرف اس لئے دی کہ لوگ زیادہ

حدود سے تجاوز کرنے لگے۔ چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مال زیادہ آگیا تھا اس لئے تعزیر کے لوازمات میں سے سزا بخوری بھی بڑھ گئی۔
بعض مال لگے اور پانچ لاکھ یا پانچ سو روپیہ دھرموں۔ مگر بائیں وہ خارج از اسلام نہیں۔ لگے یہاں کوڑے لگانے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ اوپر کی احادیث میں عادت گذر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ یا کپڑے یا جوڑے سے ہاتھ تھے اس سے معلوم ہوا کہ جلد کا لفظ بہت وسیع معنی استعمال ہوتا تھا۔ اس لئے لفظ مومنوں میں۔ انہی انجیہ صلح بیکران قاہر رضو بہ فعدنا من رضو بہ بیہ و و متامن رضو بہ بعلہ و متامن رضو بہ جو رہ فلما انصرفت قال رجل مالہ اخراہ اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکو فواعون الشیخان علی اخیو کہہ لہ لایہ ابو ہریرہ کی روایت عنہ لاکہ ایک حدیث ہے اور اس میں شرابی کا ذکر نہیں۔ سنہ ۱۱۱ میں اس کا ذکر ہے۔

۲۳۰۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

بَارِكَ فِيهِ رِجْسُهُ لَكُلِّ مَلَكٍ مِّنْ سَمَوَاتٍ وَتُرَابِ

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الشَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّمُ يَدِهَا وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

تَقَطُّمُ يَدِهَا قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يُرَدُّونَ أَكْثَرُ بَيْضِ الْحَدِيدِ وَاحْبِلُ كَانُوا يُرَدُّونَ

أَكْثَرُ وَهَذَا مَا يَسُوهُ دَرَاهِمُهُمْ (۸) بَابُ الْحُرِّ وَدُكَّارَةُ (۸۰-۳۸۶) عَنْ عِبَادَةَ

ابْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَوِّرًا) (۱۱-۱۹) بَابُ ظَهْرِ الْمُؤْمِنِ حَتَّىٰ الْأَخْفَىٰ حَرِّدٌ أَوْ حَرَّقٌ

(۸۰-۳۸۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْرَمٍ (۲-۱۰) بَابُ إِقَامَةِ الْحُرِّ وَدَوِّ

الْأَنْتِقَاوِ حُرِّمَاتِ اللَّهِ (۸۰-۳۸۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۶-۱۱) بَابُ إِقَامَةِ

الْحُرِّ وَدَعْوَىٰ لَشَرِّ نَفْسٍ وَأَلْوَضِيعٍ (۸۰-۳۸۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۵۵۹-۱۲) بَابُ

كُرَاهِيَةِ الشَّقَاعَةِ فِي الْحُرِّ إِذَا رَفَعَ إِلَىٰ لِسْطَانِ (۸۰-۳۸۶) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا)

(۱۵۵۹-۱۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

بَابُ شَرِّهِ فِي الْقَوْلِ

عَلَىٰ جَنَابِهِمْ نَبِيٌّ
تَوْبَهُ لَعْنَتٌ وَتَحْقِيقٌ
چوری کرے جس پر
بے کسی خاص
شخص پر
بے بیعتہ اندے
کو بھی کہا جاتا ہے
اور خود کو بھی
اور رجل یارستہ
تھوڑی قیمت کا
بھی ہو سکتا ہے
اور زیادہ کا بھی
اگر یہاں کم قیمت
اشیا مراد لی جائیں
تو یہ صرف مالانہ
کے طور پر ہوگا
کہ ایک مختصر سی
چیز کے لئے ایک
شخص اپنا ہاتھ
کٹوا لیتا ہے۔
کم سے کم کتنی
چوری پر ہاتھ
کاٹا جا سکتا ہے
یہ اس کے ذکر آتا

ہے۔ یہاں آیت کا حوالہ دے کر اسے مختصر کر دیا ہے باقی لفظ قریباً وہی ہیں۔ حال کن عند النبی صلعم فی مجلس فقال یا یعوفی علی ان لا
تثنو کما یابا لہ شینا ولا شوقا ولا توفاد قرأ ہذہ الامیۃ کلہا قدین فی منکر فاجوز علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فوجوب یدہ فہو
کفاوتہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسدتہ اللہ علیہ ان شاء شقولہ وان شاء عدیہ یہ بیان ذکر ہے کہ جس کو اس کے جرم کی سزا اس دنیا میں
مل گئی وہ اس کے لئے کفارہ ہو جاتی ہے۔ گویا اس سزا نے جرم کو پاک کر دیا ہے یعنی مومن محفوظ ہے سوائے اس کے کہ اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا
ہے یا کسی کا حق لیا ہے ارتکاب جرم کی صورت میں سزا ہوگی اور اگر کسی دوسرے کا حق لیا ہے تو سزا ہوگی یا اس کا حق اس سے واپس دلایا جائے گا
یہ آیت بکرہ کی روایت اور م ۶۲ عبد اللہ بن عمر کی روایت کا مضمون ایک ہے۔ یہاں بھی ابن عمر کی روایت ہے اور قدسے اختلاف
انفال سے آئی ہے۔ قال رسول اللہ صلعم فی حجة الوداع الا ای شہر تعلمونہ اعظم حرمة قالوا الا لا شہر تاخذ اقال الا ای بلد تعلمونہ اعظم حرمة
قالوا الا بلد تاخذ اقال الا ای یوم تعلمونہ اعظم حرمة قالوا الا یوم تاخذ اقال فان اللہ تبارک وتعالیٰ قد حرم و ما دکم و ما اولکم و اعراضکم
الا بحکمہ حکمہ یومک ہذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا الا اهل بلغت غلا قائل ذلک یحییونہ الا نعم قال ویجکرو ویبککلا ترجعن بعدہ
کفاؤا یضوب یضدکیر فاب بعض۔ اس میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مالوں اور ان کی عزتوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے انہی الفاظ میں
حدیث کو دوہرایا ہے۔ آخری حصہ کا تعلق عنوان باب سے ہے۔ واللہ ما انتقم لنفسہ فی شئی یوقی اللہ قطحین تنہک حرمان اللہ فیلتقم اللہ بکم کیا
حدیث کو اختصاراً بیان کیا ہے۔ ان اسامہ کلم النبی صلعم فی امراة فقال انما ہلک من کان یبکک انہم کانوا یقبون الحد علی الوضیع ویفکون الشریف
والذی نفسی یدہ لوفاطة حولت ذلک لقطعت یدہا۔ ملاحظہ فرمائیے ۱۵۵۹ کے الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ اہلک الذین من قتلکم کی بجائے
ہے حل من قتلکم۔ ملاحظہ فرمائیے اس سے مراد رستم سے روکن ہے اور قطع رحم سے مراد تعلقات رجمی کو ٹھونڈ کر رکھنا۔ قطع لسان بھی زبان کو روکنے کے معنی میں
آتا ہے۔ اسی باب تقطع ید کے معنی ہاتھ روکن بھی ہو سکتے ہیں خواہ وہ قید سے ہو یا کسی اور طرح پر یا ہاتھ کو کاٹنے سے قرآن کریم میں اس موقع پر دو کو اور چور

کی سزا کی بعد دیگر سے بیان کیا ہے۔ ڈاکو کی سزا مثل باسبیب ہے اس لئے کہ ڈاکو میں خون بھی کر دیا جاتا ہے۔ باقی بر صفحہ ۱۲۸۱

<p>۱۳۸۱</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>وفيكم يقطع وقطع عوان من الكف وقال قتادة في امر اوس وقت فقطعت</p> <p>۱۳۸۲</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۸۳</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۸۴</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۸۵</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۸۶</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۸۷</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۸۸</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۸۹</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۹۰</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۹۱</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۹۲</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۹۳</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۹۴</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۹۵</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۹۶</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۹۷</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۳۹۸</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>۱۳۹۹</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>	<p>۱۴۰۰</p> <p>اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور</p> <p>شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم</p> <p>حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>

اور قید اور قید بھی قطع یہ کہ اندر آتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں السارق اور السارقة سے مراد عادی چور ہو یعنی جن کو عادت پڑ جائے اور بار بار آئیں ان کو ہاتھ کاٹنے کی عبرتناک سزا دی جائے۔ اسی لئے آیت میں نکالنا من الله کا لفظ پڑھا گیا ہے۔ اور دراصل جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے سزاؤں کا انحصار حالات پر ہے۔ بعض حالات میں قطع یہی ضرورت اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ اس قوم یا ملک کے حالات اس کے متقاضی ہوں۔ (صفحہ ۱۷۱) ملک جمہور کے نزدیک دایاں ہاتھ کاٹنا چاہئے۔ لیکن اگر سزا دینے والے نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو وہی کافی ہے۔ مثلاً اس میں بھی شارع نے تخفیف یا زنی کی گنہ گش رکھی ہے۔ دینا رکے چھتے حصے سے کم کی چوری کو قابل معافی سمجھا ہے۔

مثلاً میں یوں ہے۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربه دينار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربه دينار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربه دينار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربه دينار.

میں ہاتھ کاٹنے کا لفظ بھی نہیں۔ مراد صرف سزا دینا ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کاٹنے کی قیمت معین نہیں ہو سکتی۔ غالباً اس وقت عام قیمت رجب و نبار کے قریب ہوگی۔ ۲۳۷۳ میں تین درہم ذکر ہے۔ مثلاً عن عائشة مثله لہ کہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لفظ قریباً ہی میں جو ۳۸۸ کے ہیں۔

۱۷۱ یعنی فی ادنی من جفۃ ادنی من کل واحد منہما و دشمن و قریباً چینی۔ مثلاً اس کی قیمت دس درہم تھی۔ مثلاً ان بیوں مکر روایات کے لفظ ۳۷۳ کے ہیں۔ مثلاً وہی لفظ ہیں۔ مثلاً یہاں حد بیعت بہت مختصر ہے مگر اس کا مضمون ۱۵۵۹ میں نہیں بلکہ ۲۰۹ کے آخر پر آیا ہے یہاں لفظ یہی۔ ان الیہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع ید امرأۃ قالت عائشۃ و کانت تاتی بوزن ذلک فارفع صاحبها الی الیہ صلح فتابت وحسنت تو بہت زیادہ

۱۳۸۱

اور اس قدر مال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے اور حضرت علی نے پیچھے سے کاٹا اور قادم نے ایسی عورت کے متعلق جس نے چوری کی تھی اور

شما لها ليس الا ذلك (۲۳۷۱) عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(۵-۳۸۷۷) عَنْ عَبْدِ كَاثِرِ الصَّامِتِ (متکرر-۱۷)

دیکھو حدیث ۱۸۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے اسم تبارک والے

بار بار رحم

کرنیوالے کے نام سے

۸۷- کتاب الحاربین من اهل الکفر والردة

۸۷- کتاب ان کافروں اور مرتدوں کے احکام جو جنگ کرتے ہیں

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِیْنَ یُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ یَسْعَوْنَ

اللہ تعالیٰ کا قول

ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں

اور زمین میں فساد

فِی الْاَرْضِ فِی سَادِّ اَنْ یُقْتَلُوْا اَوْ یُضَلَّوْا اَوْ یُقَطَّعْ اَیْدِیْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ

پھیلانے میں یہ ہے کہ وہ قتل کئے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے

اَوْ یُنْعَوْنَ مِنْ الْاَرْضِ (۵-۳۸۷۷) عَنْ اَسْنِ (متکرر-۱۸۶) بَابُ

جائیں یا انہیں قید کیا جائے (۱۸۶-۳۳۰)

دیکھو حدیث ۱۸۶

باب مرتد یا نبیوں

یَجْسِمِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِبِیْنَ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ حَتّٰی یَهْلُکُوْا (۵-۳۸۷۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ و افغان

یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے

عَنْ اَسْنِ (متکرر-۱۸۶) بَابُ لَمْ یَسْقِ الْمُرْتَدُوْنَ الْحَارِبُونَ حَتّٰی مَاتُوْا

دیکھو حدیث ۱۸۶

باب مرتد لڑنے والوں کو پانی نہیں پلا یا گیا

یہاں تک کہ وہ مر گئے

۱۔ لفظ قریباً
۲۔ لکھا کہ یہی ہیں۔
۳۔ فہو کفارۃ لہ کے
۴۔ ساتھ بڑھا گیا ہے
۵۔ و ظہور۔ اور
۶۔ ان شد حدیث یہ
۷۔ وان شاد غفر لہ
۸۔ پر صل حدیث
۹۔ کو تتر کر کے لٹھیا
۱۰۔ ہے قال ابو عبد
۱۱۔ اللہ اذا تاب
۱۲۔ السارق بعد ما
۱۳۔ قطع یدہ کا قتل
۱۴۔ شہادتہ و کل
۱۵۔ عدو و کذا لک
۱۶۔ اذا تاب قبلت
۱۷۔ شہادتہ یعنی
۱۸۔ توہ سزا کے بعد
۱۹۔ ہے یہ نہیں کہ ایک
۲۰۔ شخص جوئی کر کے
۲۱۔ کرنے کریں نے
۲۲۔ توہ کی مگر قرآن

شریعت میں ڈاکو کی سزا کے ذکر میں ہے الا الذین تباؤا من قبل ان یقتلوا علیہم المائدہ-۳۲ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو اگر پکڑا جائے سے پہلے اپنی اصلاح کر چکا ہے اور فاسقانہ زندگی کو چھوڑ کر صلاحیت اختیار کر چکا ہے تو جی سے سزا معاف کی جا سکتی ہے۔ اس لئے پتھر کے بار سے یہ بھی یہ درست ہونا چاہئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر چور کی اصلاح کے لئے اور طریقوں پر کوشش کی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسا نو عمر چوروں کی اصلاح کے لئے خاص قسم کے جیلخانے بنائے جاتے ہیں ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ مسلمان بخاری نے اس عنوان سے ہی بنا دیا کہ مرتدین کو وہی سزا دی جا سکتی ہے جو کافروں کو۔ اور دونوں کے لئے شرط رکھ دی ہے الحاربین یعنی ان میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں ان کی سزا کا بیان ہونا چاہئے۔ اور ہر مرتد کا حکم اس کتاب میں نہیں ہے۔ ساتھ جنگ و طبع پر ہے ایک میدان میں نکل کر جنگ کرنا اس پر جنگ کے احکام عادی ہیں اور ایک جنگ ڈاکوؤں وغیرہ کی ہے کہ وہ بھی امن کو تباہ کرتے اور جنگ کے سے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور مال لوٹنے کے لئے جان تک مار دیتے ہیں۔ اور یہاں اسی قسم کے حاربین کا ذکر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس آیت کو لاکر بتا دیا۔ انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ والمائدہ-۳۳ جسے مفسرین نے عربوں کا ذکر کیا ہے۔ اور کتاب الحاربین میں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ باقاعدہ جنگوں کا ذکر کتاب الجہاد اور کتاب لغز میں ہے۔ گز چکا۔ مسلمانوں کی روایت کسی قدر اختلاف الفاظ سے آئی ہے مگر مضمون وہی ہے۔ قتلم علی النبی صلعم لغز من عکلی فاسلموا فاجتوا والمدینۃ فامرهم ان یاتوا ابل الصنادقۃ فیشربوا من ابدالہا والیابھا فقتلوا فصخوا فارتدوا وقتلوا رعایتھا واستاوا فبعث فی آثارھم فاتی ہم فقتلہم وارسلہم وسلم اعینہم فتلہم بحمہم حتی ماتوا۔ دیکھو نوٹ ۱۷ صفحہ ۶۷، نوٹ ۱۸ صفحہ ۹۸۔ اس پچھلے نوٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمت یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کو میں نے لانے سے پہلے آیت انما جزاؤ الذین یحاربون اللہ والمائدہ-۳۳ نازل ہوئی اس لئے انہیں قتل کی سزا دی گئی۔ لہذا یہاں فرمت یہ لفظ ہے۔ ان النبی صلعم قطع العربیین ولم یجسہم حتی ماتوا۔ لہذا یہ سب جیسا کہ نوٹ ۱۷ صفحہ ۶۷ میں گذر چکا بطور قصاص تھا۔ جو اس وقت کہ قرآن فون تھا اور یہودیوں کی مشرتبت میں بھی قصاص کا ہی طریق تھا۔ مگر آئندہ کے لئے قرآن کریم میں ان حاربین کی سزا کو چار صورتوں تک محدود کر دیا گیا۔ قتل، ہلبیل، یا پتھر پر کھانا، قید۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عنوان کتاب کے علاوہ ہر عنوان یا باب میں امام بخاری نے اس بات کو بتکارا بیان کیا ہے کہ یہ سزا حاربین اہل الفتن کے لئے ہے یعنی عام مرتدین کے لئے نہیں بلکہ جو مرتدین ڈاکو ماریں اور فتن کریں اور اذیت پہنچائیں +

۳۸۷۸-۳۸۷۹ عَنْ اَبِي سُرَيْبَةَ مَتَكَوْر- (۱۸۶) (۳) بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۶ باب بنی میں ارشاد علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ اَعْيُنُ الْمُحَارِبِيْنَ (۳۸۷۹-۳۸۸۰) عَنْ اَبِي سُرَيْبَةَ مَتَكَوْر- (۱۸۶)

رہنماوں کی آنکھوں میں رگم (سلائی پیر والی) دیکھو حدیث ۱۸۶

(۳۷) بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ (۳۸۸۰-۳۸۸۱) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مَتَكَوْر- (۲۲۸)

باب اس کی فضیلت جو بجا بیوں کو چھوڑے دیکھو حدیث ۲۲۸

(۳۸۸۱-۳۸۸۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَتَكَوْر- (۲۳۰۶) (۲۳۰۷) بَابُ اِشْمِ الزُّنَاةِ كَوْلِ

دیکھو حدیث ۲۳۰۶ باب زنا کاروں کا کہہ اشر تعالیٰ

اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْرَبُوا الزُّنَاةَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا (۳۸۸۲-۳۸۸۳)

کا قول اور زنا نہیں کرتے (الفرقان ۶۸-۶۹) اور زنا کے قریب نہیں جاتے یہ ہے جانی چہ اور پلڑتہ زنی اس میں ۳۲۰

عَنْ اَبِي سُرَيْبَةَ مَتَكَوْر- (۴۳) (۳۸۸۳-۳۸۸۴) عَنْ اَبِي عَتَّابٍ مَتَكَوْر- (۲۳۶۹)

دیکھو حدیث ۴۳ دیکھو حدیث ۲۳۶۹

(۳۸۸۴-۳۸۸۵) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مَتَكَوْر- (۱۱۸۰) (۳۸۸۵-۳۸۸۶) عَنْ عَبْدِ اللهِ مَتَكَوْر- (۱۸۷۳)

دیکھو حدیث ۱۱۸۰ دیکھو حدیث ۱۸۷۳

رَجِمَ الْمُحْصَنُ وَقَالَ الْحَسَنُ مِنْ زَنِي بِاخْتِابِ حَدِّهِ حَدُّ الزَّانِي

شاہی شدہ کو سنگسار کرنا اور حسن نے کہا جس نے اپنی بہن سے زانیہ

(۲۳۷۴) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجِمَ الْمَرْأَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ

حضرت علی سے روایت ہے جس وقت انہوں نے ایک عورت کو جمعہ کے دن سنگسار کیا اور کہا کہ اسے

۱۔ یہ خفیہ اختلافاً
۲۔ نقلی ہے۔ قدیم
۳۔ رھطاً من عقل
۴۔ علی النبی صلعم
۵۔ کا فرائی الصفقة
۶۔ یعنی اس میں صف
۷۔ مسجد نبوی میں پھینکا
۸۔ فاجتنبوا
۹۔ المدینة فقتلوا
۱۰۔ یا رسول الله اجنبا
۱۱۔ ورسلا فقال ما
۱۲۔ اجد لك الا
۱۳۔ ان تلحقوا باهل
۱۴۔ رسول الله صلعم
۱۵۔ فاقوا فقتلوا
۱۶۔ من الهانها
۱۷۔ ابر الهانها صحوا
۱۸۔ ومنوا وقتلوا
۱۹۔ الراعي داسنوا
۲۰۔ الزود فانی للنبی
۲۱۔ صلعم الصریح
۲۲۔ تبعث الطلب
۲۳۔ فی اثارهم فمات
۲۴۔ ترجل النهار

اے ہم فامر بسا میرا فاحشیت فکھلہم و قطع این ہمہ وارجلہم وما حمہم ثم القرافی الحرة يستسقون فما سقوا ما قال ابو قتابة
سوقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله دیکھو نوٹ ۲۳۷۴ و نوٹ ۲۳۷۴ میں صاف ہے کہ یہاں بھی خفیہ نقل کی جیسی ہے۔ ان رھطاً من عقل
او قال عربیہ ولا اعلمہ الا قال من عقل قدموا المدینة فامر لهم الخیة صلعم بقتلوا و امرهم ان یخرجوا فقتلوا من ابوالہا و البانہا
فقتلوا حتی اذا برؤا قتلوا الراعی داسنوا و اسنوا قول الذم قبل الخیة صلعم فذوقه فبعث الطلب فی اشرهم فمات و قطع النهار حتی سقی ہمہ فامر
ہم فقطع این ہمہ وارجلہم و سمر اعینہم فالقرا یا حرة یستسقون فلا یسقون قال ابو قتابة فلو لا قوم سوقوا وقتلوا کفر و ابدوا
اینا ہم و حاربوا الله ورسوله دیکھو قریباً انی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ صرف تجا بانی اللہ کے بعد اجتماعاً طیبہ و تقرقاً علیہ۔ والفقزہ
چھوڑ دیا ہے۔ عنون باب کا تعلق اس فقرہ سے ہے۔ رجل دعتہ امرأة ذات منصب وجمال الی نفسها قال فی اخاف الله یہ شخص ان میں سے
ہے جنہیں اشر تعالیٰ ایسے سامنے میں لگا دیکھو یہضم کی جگہ توکل ہے۔ یعنی تکفل اور اضعفت کی جگہ توکل دیکھو قریباً وہی لفظ میں۔ ویشوب الخمر
زیادہ ہے۔ یرفع العلم کی جگہ یقل العلم ہے۔ دیکھو یہاں مضمون زیادہ ہے۔ قال رسول الله صلعم لا یزنی العبد حیث یزنی و هو مؤمن ولا یسوق
حیث یسوق و هو مؤمن (۲۳۷۹) یہاں تم بوجہاں ہے۔ ولا یشوب حیث یشوب و هو مؤمن ولا یقتل و هو مؤمن قال حکمہ قتلت لاین عباس کیہت
یزنی لایمان منہ قال فلکن اور شیک بیان اصابعہ ثم اخرجهما فان تاب عاد الیہ فلکن او شیک بیان اصابعہ دیکھو مگر روایت کچھ کی جیسی سے
آئی ہے۔ قال النبی صلعم لا یزنی الزانی حیث یزنی و هو مؤمن ولا یسوق حیث یسوق و هو مؤمن ولا یشوب حیث یشوب و هو مؤمن و التوبة
معروفة بین ربی کہہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دیکھو مضمون اور الفاظ قریباً وہی ہیں۔ عند الله اور ان ذلك لعظیم کے الفاظ چھوڑنے
میں دیکھو یہاں صرف اس قدر ہے۔ قلت یا رسول الله مثله (یعنی کھیل حدیث کے مطابق) البتہ یہاں یہ زیادہ کیا ہے۔ قال عمرو وقد ذکرہ احد
الرحمن وکان حدیثاً عن سفیان عن الاعمش و منصور و واصل عن ابی وائل عن ابی ہبیرة قال دخلتہ

رَجِمَهَا سِتَّةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۳۷۵) عَنْ الشَّيْبَانِيِّ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنگا رکھی گئی
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگا رکرایا
نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ التَّوْرَةِ أَمْ بَعْدَ قَالَ لَا أَدْرِي (م-۳۸۸۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ	ہاں میں نے کہا کیا سورہ نور سے قبل یا بعد کہا میں نہیں جانتا تھا
عَبْدِ اللَّهِ (م-۳۸۹۳) بَابُ لَا يَزِيحُ الْجَنُونَ وَالْجَنُونَةُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ لَعْمَرٍ	دیکھو حدیث ۳۸۹۳ باب جنوں مرد اور جنوں عورت کو سنگا نہیں کیا جائے گا اور حضرت علی نے حضرت
أَمَّا عَلِمْتُ أَنْ الْقَوْمَ زُفِعَ عَنِ الْجَنُونَ حَتَّى يُفَيَّقُوا وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ	میرے کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ قلم جنوں سے اٹھا یا گیا ہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور سولے
النَّارِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (م-۳۸۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۳۸۹۲) بَابُ	دل سے یہاں تک کہ وہ جاگ اٹھے دیکھو حدیث ۳۸۹۲ باب
لِلْعَاهِرِ الْحَجْرِ (م-۳۸۸۹) عَنْ عَائِشَةَ (م-۱۰۲۱) (۲۳۷۵) عَنِ ابْنِ	زانی کہنے کے بعد دیکھو حدیث ۱۰۲۱ باب ابو ہریرہ سے
هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَىٰ لِلْفَرَّاشِ مِنَ الْعَاهِرِ الْحَجْرِ (م-۳۸۹۱) بَابُ	روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیجا صاحب فرش کے لئے ہے اور زانی کہنے کے بعد حدیث ۳۸۹۱ باب
الرَّجْمِ فِي الْبِلَاطِ (م-۳۸۹۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م-۱۰۲۸) (۲۳۷۵) بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُضَلِّ	بلات کے پاس سنگا کرنا دیکھو حدیث ۱۰۲۸ باب سنگا کرنا
(م-۳۸۹۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م-۳۸۹۳) بَابُ مَنْ أَصَابَ ذُنْبًا وَدُونَ الْحَدِّ	دیکھو حدیث ۳۸۹۳ باب جو ایسا نہ کرے جس پر سزا مقرر نہیں ہے

۳۸۸۷
۳۸۸۸
۳۸۸۹
۳۸۹۰
۳۸۹۱
۳۸۹۲
۳۸۹۳
۳۸۹۴
۳۸۹۵
۳۸۹۶
۳۸۹۷
۳۸۹۸
۳۸۹۹
۳۹۰۰
۳۹۰۱
۳۹۰۲
۳۹۰۳
۳۹۰۴
۳۹۰۵
۳۹۰۶
۳۹۰۷
۳۹۰۸
۳۹۰۹
۳۹۱۰
۳۹۱۱
۳۹۱۲
۳۹۱۳
۳۹۱۴
۳۹۱۵
۳۹۱۶
۳۹۱۷
۳۹۱۸
۳۹۱۹
۳۹۲۰
۳۹۲۱
۳۹۲۲
۳۹۲۳
۳۹۲۴
۳۹۲۵
۳۹۲۶
۳۹۲۷
۳۹۲۸
۳۹۲۹
۳۹۳۰
۳۹۳۱
۳۹۳۲
۳۹۳۳
۳۹۳۴
۳۹۳۵
۳۹۳۶
۳۹۳۷
۳۹۳۸
۳۹۳۹
۳۹۴۰
۳۹۴۱
۳۹۴۲
۳۹۴۳
۳۹۴۴
۳۹۴۵
۳۹۴۶
۳۹۴۷
۳۹۴۸
۳۹۴۹
۳۹۵۰
۳۹۵۱
۳۹۵۲
۳۹۵۳
۳۹۵۴
۳۹۵۵
۳۹۵۶
۳۹۵۷
۳۹۵۸
۳۹۵۹
۳۹۶۰
۳۹۶۱
۳۹۶۲
۳۹۶۳
۳۹۶۴
۳۹۶۵
۳۹۶۶
۳۹۶۷
۳۹۶۸
۳۹۶۹
۳۹۷۰
۳۹۷۱
۳۹۷۲
۳۹۷۳
۳۹۷۴
۳۹۷۵
۳۹۷۶
۳۹۷۷
۳۹۷۸
۳۹۷۹
۳۹۸۰
۳۹۸۱
۳۹۸۲
۳۹۸۳
۳۹۸۴
۳۹۸۵
۳۹۸۶
۳۹۸۷
۳۹۸۸
۳۹۸۹
۳۹۹۰
۳۹۹۱
۳۹۹۲
۳۹۹۳
۳۹۹۴
۳۹۹۵
۳۹۹۶
۳۹۹۷
۳۹۹۸
۳۹۹۹
۴۰۰۰

۳۸۸۷
۳۸۸۸
۳۸۸۹
۳۸۹۰
۳۸۹۱
۳۸۹۲
۳۸۹۳
۳۸۹۴
۳۸۹۵
۳۸۹۶
۳۸۹۷
۳۸۹۸
۳۸۹۹
۳۹۰۰
۳۹۰۱
۳۹۰۲
۳۹۰۳
۳۹۰۴
۳۹۰۵
۳۹۰۶
۳۹۰۷
۳۹۰۸
۳۹۰۹
۳۹۱۰
۳۹۱۱
۳۹۱۲
۳۹۱۳
۳۹۱۴
۳۹۱۵
۳۹۱۶
۳۹۱۷
۳۹۱۸
۳۹۱۹
۳۹۲۰
۳۹۲۱
۳۹۲۲
۳۹۲۳
۳۹۲۴
۳۹۲۵
۳۹۲۶
۳۹۲۷
۳۹۲۸
۳۹۲۹
۳۹۳۰
۳۹۳۱
۳۹۳۲
۳۹۳۳
۳۹۳۴
۳۹۳۵
۳۹۳۶
۳۹۳۷
۳۹۳۸
۳۹۳۹
۳۹۴۰
۳۹۴۱
۳۹۴۲
۳۹۴۳
۳۹۴۴
۳۹۴۵
۳۹۴۶
۳۹۴۷
۳۹۴۸
۳۹۴۹
۳۹۵۰
۳۹۵۱
۳۹۵۲
۳۹۵۳
۳۹۵۴
۳۹۵۵
۳۹۵۶
۳۹۵۷
۳۹۵۸
۳۹۵۹
۳۹۶۰
۳۹۶۱
۳۹۶۲
۳۹۶۳
۳۹۶۴
۳۹۶۵
۳۹۶۶
۳۹۶۷
۳۹۶۸
۳۹۶۹
۳۹۷۰
۳۹۷۱
۳۹۷۲
۳۹۷۳
۳۹۷۴
۳۹۷۵
۳۹۷۶
۳۹۷۷
۳۹۷۸
۳۹۷۹
۳۹۸۰
۳۹۸۱
۳۹۸۲
۳۹۸۳
۳۹۸۴
۳۹۸۵
۳۹۸۶
۳۹۸۷
۳۹۸۸
۳۹۸۹
۳۹۹۰
۳۹۹۱
۳۹۹۲
۳۹۹۳
۳۹۹۴
۳۹۹۵
۳۹۹۶
۳۹۹۷
۳۹۹۸
۳۹۹۹
۴۰۰۰

سزا کا کور ہے وہ سنت نہیں کلا سکتی اور اس کی سزا میں مراحت سے مذکور ہے الزانی والرافیہ فاجل واکل واحد منہما مائة جلد۱۰ اور سارے قرآن شریف میں زنا کے لئے رجم کا ذکر نہیں بلکہ وہ میرے موقع پر جہاں لوڈیوں کے لئے سزائے زنا کا ذکر ہے وہاں فعلیہ من نصعت ما علی المحصنات من العذاب والنساء۔ ۵۱۲۱ آئی ہیں اور عورتوں کی نسبت نصف سزا دی جائے گی۔ تو رجم کا نصف بھی کوئی نہیں۔ پس جن احادیث میں سزائے رجم کا ذکر ہے وہ سورہ نور کے نزل سے پہلے کے واقعات ہیں۔ ۵۱۲۱ میں امت اختصار ہے۔ ان رجلا من اسلام ابی رسول اللہ صلعم فتح ثلثہ انہ ذن زنی شہد علی نفسه اربع شہادات فامر بہ رسول اللہ صلعم فرجم وكان قد احسن۔ ۵۱۲۱ لفظ قریباً مکنانہ کے ہیں۔ البتہ وہاں بار بار اس شخص کے آنحضرت صلعم کے سامنے آنے اور آپ کے منہ پھیر لینے کا ذکر ہے۔ یہاں اختصار سے ہے۔ حتی وقد علیہ اربع مرات۔ ۵۱۲۱ حضرت عائشہ کی حدیث میں رسول اللہ صلعم کے یہ لفظ آتے ہیں۔ والولد للفراس وللعاہر الحجر۔ جہاں حجر کے معنی محروم کیا جانا ہیں۔ دیکھو حدیث ۱۰۲۱۔ ۵۱۲۱ میں اختصار ہے۔ قالت اختصم سعد و ابن زعفرہ فقال لئن صلعم مہونک یا عبد بن زعمرة الولد للفراس و احججی منہ یا سودة زلونا فکتبتہ عن اللیث للعاہر الحجر لک ابو ہریرہ کے یہ الفاظ حضرت عائشہ کی حدیث ۱۰۲۱ میں جو ایک ہی حدیث ہے گذر چکے ہیں اور آپ کی حدیث م ۳۸۸۹ میں بھی آئی ہے۔ ۵۱۲۱ بلط مسجد نبوی کے حجرہ کے پاس یا مسجد اور بازار کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ اور وہ بلاط رضاعیہ ہے۔ پھر جو فرش کیلئے استعمال ہتھے ہیں، سے مخصوص تھا۔ ۵۱۲۱ لفظ یہ ہیں۔ ابی رسول اللہ صلعم یہودی و یہودیۃ قد احدنا جیقا و دونوں نے زنا کیا، فقال لہم ما یجوز فی کتابکم قالوا ان احبارنا احد توازنا ہر کر کے ہیں، فخدمیم الوحیہ رمونہ کا کارنا و التعمیہ (منہ پیش کی طرف کر کے سوار کرنا یہ رسوائی کے لئے کیا جاتا تھا، قال عبد اللہ بن سلام ادعہم یا رسول اللہ یا لتوراة فانہ یحفظہم احدہم بن ہلاۃ الیہ الرجم و جعل یقرأ ما قبلہا وما بعدہا فقال لہ ابن سلام ارفع یدک فاذا الیہ الرجم تحت یدہ فامر ہما و رسول اللہ صلعم فرحما قال ابن عمر فرجع عبداللہ لاط قرائت الیہودی اجنا علیہا۔ ۵۱۲۱ آخر ایک جواز ہے کہ ذکر لکھا جائے۔ لفظ یہ ہیں۔ من رجلا من اسلام جاب اللیث صلعم فاعترف بانہ اذ اعترف عن اللیث صلعم اربع مرات قال لہ اللیث صلعم ابلہ جنون قال لا اقل احصنت قال لہم فامر بہ تویم بالصلی الی اللیث

الحوارۃ فادونک فرجمتہ ما ت فقال لہ اللیث صلعم خبرا و صل علیہ لم یقل و رض ابن جریر عن الزہری فصل علیہ ۵۱۲۱ جیسے زنا کے یہودی جیسے بوس و کارہ

فَاخْبَرَ اِلَامًا مِمَّنْ فَلَا عَقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ اِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا قَالَ عَطَاءٌ لَمْ

بغير امام کو اطلاع دے تو توبہ کرنے کے بعد اس پر کوئی سزا نہیں جبکہ وہ فتویٰ پوچھنے آئے عطاء نے کہا

يُعَاقِبُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَنُ جَرِيحٍ لَمْ يَكُنْ يُوَاقِبُ الَّذِي جَاءَهُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی اور ابن جریر نے کہا آپ نے اس کو سزا نہیں دی جس نے

فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظُّبْيِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ

رمضان میں جوارح کیا تھا اور حضرت عمر نے ہرن والے کو سزا نہیں دی اس بارہ میں ابو عثمان ابن مسعود سے

مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۳۸۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكر- ۹۸۰)

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دیکھو حدیث ۹۸۰

وَكُنَّ عَائِشَةُ اَتَى رَجُلًا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ احْتَرَقْتُ

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا کہ میں جل گیا

قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَمْرٍ آتَى فِي رَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي

فرمایا یہ کس طرح ہے ہوا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اسے فرمایا صدقہ دو اس نے کہا میرے پاس

شَيْءٌ فَجَلَسَ وَاتَاهُ اِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَّمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا

کچھ نہیں پھر وہ بیچ گیا اور ایک شخص گدھا چلاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ طعام رکھتا تھا عبدالرحمن نے کہا میں نہیں

أَدْرِي مَا هُوَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ هَا اِنَا اِذَا

جاننا وہ کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا جل جائیو اللہاں ہے؟ عرض کیا میں یہاں ہوں

قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي جَرِيحٍ مَاتِي مَا لَهِيَ طَعَامٌ قَالَ فَكَلَّمَهُ قَالَ لَمْ

فرمایا یہ لے اور اسے صدقہ کر کے عرض کیا کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر میرے دل کے پاس کوئی کھانا نہیں فرمایا تو اسے کھاؤ

عَبْدُ اللهِ الْحَدِيثُ الْاَوَّلُ ابْنُ قَتَادَةَ اَطْعَمَ اَهْلَكَ (۲) بَابُ رَاذِ الْاَقْرَبِ بِالْحَدِّ

بخاری کتاب ہے پہلی حدیث زیادہ واضح ہے کہ اپنے اہل کو کھلا دے باطلہ جب قابل سزا جرم کا اقرار

وَلَمْ يَمَيِّزْ هَلْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ رَأْسُهُ مِنْ اَنْسَابِ رِجَالِكُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

کرنے اور بیان نہ کرے تو کیا امام کو جائز ہے کہ اسکی پردہ پوچھی کرے اس بن مالک نے روایت ہے

قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِجَاءِ رَجُلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي اَصْبَتُ

کہا میں نبی صلی اللہ کے پاس تھا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قابیل

حَدًّا اَفَارَقْتَهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ

سزا جرم کا ارتکاب کی ہے مجھ پر حد قائم کیجئے کیا اپنے اس سے اس جرم کے متعلق نہ پوچھا کہ اور نماز کا وقت آیا اس نے نبی صلی اللہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَأْخُذْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ قَامَ رَأْسُهُ

علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو وہی شخص آپ کی طرف اٹھا

الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي اَصْبَتُ حَدًّا اَفَارَقْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ

اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے میرے بارہ میں کتاب اللہ کو قائم فرمائیے آپ نے کہا

صَلَبْتُ مَعْنًا قَالَ لَعَنَهُ قَالَ فَاِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ حَدُّكَ

کی قسم نے مجھے ساتھ ناز نہیں پڑھی عرض کیا یا رسول اللہ نے تمہارا گناہ یا فرمایا تمہاری سزا معاف کر دی ہے

عطاء نے کہا
حالت احرام میں
ہرن کا شکار کیا
تھا
عطاء نے کہا
بہت مختصر ہے
ان رجلا وقع
بامرات فی
رمضان فاستغف
رسول اللہ صلعم
فقال هل تجد
رقية قال لا
هل تستطیع حیاء
شهر من قتل لا
قال فاطعم
ستین حکیمانہ
عطاء نے کہا
ابو ہریرہ کی حدیث
مستطیع ہی معصوم
ہے
عطاء نے کہا
اپنے میں جن کا
اثر وہ سر سے کسی
ذات پر پہنچا ہے
جیسے قتل جو جوری
وغیرہ ان جرم
میں کوئی معافی نہیں
اور بعض کا اثر
صرف اپنی ذات
تک محدود ہوتا
ہے معلوم ہوتا
ہے یہ جرم اسی
قسم کا تھا اور
آنحضرت صلعم کو اس
کا علم تھا یا اس نے
بیان کیا تو راضی ہے
ضروری نہیں سمجھا
پس جب وہ خود

اپنے گناہ کا معاف ہوا اور یہ گویا ایک رنگ کی علی توبہ تھی اور پھر اس نے نماز بھی پڑھی تو پچھتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کر دیا

(۱۳) بَابٌ هَلْ يَقُولُ الْاِمَامُ لِلْمِقْرَ لَعَلَّكَ كَسَمْتَ اَوْ عَمَزْتَ (۳۳۷۰) ح

باب ۱۳ کیا امام اقرار کرنے والے کے کہ شاکر تو نے باقہ سے چھوٹا یا کچھ سے اشارہ کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لَمَّا اَنَّى مَا عَزَبُنِي مَا لَكَ الْبَيْتِ صَلَّى اللهُ

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ما عزن تک بنی سلی، اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهْ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ نَطَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ

تو آپ نے اس سے فرمایا شاکر نے تو نے یا نظر ڈالی عرض کیا یا رسول اللہ نہیں فرمایا

اِنَّكُمْ لَا يَكُنِيَنَّ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ اَمْرٌ بِرَجْمِهِ (۱۳) بَابٌ سُؤَالُ الْاِمَامِ الْمِقْرَ

تو کیا اس سے زیادہ راحت سے پوچھا کہ کیا نہیں کہا تم نے اپنے کفار کو کھانا دیا

هَلْ اَخَصَّتْ رَم - ۳۸۹۵ ح اِنِّي هُوَيْرَةَ (مکتوبہ ۲۰۶۲) (۱۵) بَابٌ اِلَّا حَتَّى

نے نکاح کیا ہے بیکھو حدیث ۲۰۶۲ باب ۱۵ زنا کا اقرار

بِالزَّانِر - ۳۸۹۶ ح اِنِّي هُوَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ (مکتوبہ ۱۲۶۲) (۱۶) - ۳۸۹۷

کرن بیکھو حدیث ۱۲۶۲

ح اِبْنِ عَبَّاسٍ (مکتوبہ ۲۳۷۸) (۱۶) بَابٌ رَجْمِ الْخُلَعِ مِنَ الزَّانِ لَا اَخَصَّتْ

باب ۱۶ زنا سے عاقل کو سنگ مار کر مارنے کی شادی شدہ ہو

(۳۳۷۸) ح اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَقْرَبِي رَجَا لَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدٌ

ابن عباس سے روایت ہے کہ میں ہاجرین میں سے چند آدمیوں کو دیکھا یا کرتا تھا

السَّخْنُ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا اَنَا فِي مَازِلِهِ بَيْتِي وَهُوَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ فِي اَخْو

بن عوف تھے یہی جب تھیں مٹی میں ان کے ڈیرہ میں تھا اور وہ عمر بن الخطاب کے پاس تھے اور یہ آخری جگہ

حَجَّةٍ حَجَّهَا اِذْ رَجَعْتُ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا اِنِّي اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

کہا تو ہے جو انہوں نے کیا تو عبدالرحمن بن عوف میرے پاس دیکھ آئے اور کہا کاش آپ ایک شخص کو دیکھیں کہ آج امیر المؤمنین کے

الْيَوْمَ فَقَالَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدِمَتْ عَمْرٌو لَقَدَّا

پاس آیا اور کہا امیر المؤمنین کیا آپ کو فحاشی کے بارہ میں کوئی خیال ہے کہتا ہے کہ اگر حضرت عمرو وفات پا گئے تو میں

بَايَعْتُ فَلَا تَأْوِلُوهُ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ اِنِّي بَكْرَةَ اِلَّا قَالَتْهٖ قَمَمْتُ فَغَضِبَ عَمْرٌو ثُمَّ قَالَ

نفاق کی بیعت کروں گا اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کی بیعت تو اچھا کھلی سو بوری ہو گئی تو حضرت عمر ناراض ہوئے پھر فرمایا

رَايْتُ اَنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةُ فِي لِنَاسٍ فَمَحَدٌ رَهُمْ هُوَ لَدَا الدِّينِ بَرِيدٌ

میں شام کو لوگوں میں کھڑا ہوں گا اور ان کو ان لوگوں کے متعلق آگاہ کروں گا جو چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کے معاملات و حکومت

اَنْ يُعْصِبُوهُمْ اَمْرُهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ

کو چھین لیں عبدالرحمن نے کہا میں نے عرض کیا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہم

فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاءَ النَّاسِ غَوَاةً هُمْ قَاتِلُهُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُونَ عَلٰى اَقْرَبِكَ

کیونکہ حج کے موسم میں زمیں لوگ اور حرام امن میں جمع ہوتے ہیں اور یہی لوگ آپ کے قریب بیٹھے ہیں غالب ہوں گے

حَيْنَ تَقُومُ فِي لِنَاسٍ اَنَا اَسْتَحْيٰ اَنْ تَقُومَ فَتَقُولُ مَقَالَةً يَطْبُرُهَا عِنْدَكَ كَمَا مَطْبُرٌ

جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوں گے اور مجھے کوڑ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کوئی بات کہیں اور سے ہر ایک پھیلانے والا ہے منسوب کر کے

عربی متن کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور ترجمہ لکھا ہے۔

بقدر احصاء اذا قامت البيعة او كان المحل والاعزازة الرغوة انك باي نطق اي حقره من اي قال سفيان لكن احتفظت الاما وقد رحم رسول الله صلعم ورجعنا بعدا

اگلی حدیث مفصل ہے وہیں اس پر بحث ہوگی۔

وَأَنْ لَا يَعْوَهَا وَأَنْ لَا يَضْعَوْهَا عَلٰمًا وَاضِعَهَا فَاَهْلٌ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَارْتَمَا

اور لوگ اسے محفوظ رکھیں گے اور نہ اسے اپنے محل پر رکھیں گے تو آپ تو قوت کریں یہاں تک کہ آپ سوچنے پہنچ جائیں کیونکہ وہ ہجرت

دَارُ الْهِجْرَةِ وَالشَّنَّةُ فَتَخْلُصُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولُ مَا قُلْتَ مِمَّا كُنَّا

اور سنت (نبوی) کا گھر ہے سو آپ بھدا اور اور شریف لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے پھر آپ پوری طاقت رکھتے ہوئے

فَيَعِي أَهْلٌ لِعِلْمِ مَقَالَتِكَ وَيَضْعُونَهَا عَلٰمًا وَاضِعَهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ

جو کتا جائیں کہ وہیں تو علم والے آپ کی بات کو محفوظ رکھیں گے اور اسے بر محل رکھیں گے تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے چاہا

اللَّهُ لَا قُوَّةَ مِنْ بَيْنِكَ أَوْلَ مَقَامِ أَوْمَةٍ بِالْمَدِينَةِ قَالَ بِنُ عَتَابِ بْنِ قَعْدٍ مَنْ

تو میں نے پہنچ کر سب سے پہلے جو میں کو کھڑا ہوں گا تو اسی بات کو لے کر کھڑا ہوں گا ابن عباس نے کہا ہم ذوالحجہ

الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَجَلْنَا الرَّوَاحِينَ زَاعَتِ

کے بعد مدینہ آئے تو جب جمعہ کا دن ہوا تو ہم نے جب سوچ ڈھل گیا چلنے میں جلدی کی

النَّاسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ بِنِ عَمْرٍو بِنِ نَفِيلِ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمَذْبَحِ فَخَلَسْتُ

یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو مہر کے کونے کے پاس بیٹھا ہوا پایا میں اس کے پاس بیٹھا

حَوْلَهُ تَمَسَّ رُكْبَتِي رُكْبَتُهُ فَلَمَّا أَنْشَبَ أَنْ خَرَجَ عَمْرٍو بِنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا

میرا گلہنا اس کے گلہنے سے چھو رہا تھا سو میں زیادہ دیر بیٹھا تھا کہ حضرت عمر نے جب میں نے ان کو سامنے آئے دیکھا

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِنِ عَمْرٍو بِنِ نَفِيلٍ لِيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مِنْذُ

تو میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے کہا آج حضرت عمر ایسی بات فرمائیں گے کہ جب سے آپ

اسْتَخْلَفَ فَافَكَّرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عَمْرٍو عَلَيَّ الْمَذْبَحِ

قلیدہ لکھے ہیں نہیں فرمائی سب سے میری بات کو مانا اور کتا چھو گیا اب یہ نہیں کہ ایسی بات فرمائیں جو اس سے پہلے میں فرمائی

فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ قَاتِسِيُّ عَلَيَّ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي قَاتِسٌ

جب مؤذن خاموش ہوا تو کھڑے ہوئے تو اشرف شریف کی جیسے اس کی شان کے نمایاں ہے پھر فرمایا اے ابوعبد اس سے ایک بات

لَكَ مِمَّا قَالَتْ فَذَرْنِي أَنْ أَقُولَهَا لَأَذْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيَّ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا

کتابوں جو میرے لئے مفید کی ہے مجھے کہوں میں نہیں چاہتا شام کو میری موت کا دن میری عمر ہے جس نے اسے سمجھا اور اسے

وَعَاَهَا فَلْيَمِدَّتْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَأِحَتُهُ وَمَنْ حَشَى أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أَجَلَ

حفظ کیا سو اسے بیان کرے جہاں تک اس کی سواہی اس کو پہنچائے اور جسے ڈر ہو کہ اسے نہ سمجھ سکے تو میں تم کو ہا زارت نہیں

لَأَحْدَانٍ يَكْذِبُ عَلَيَّ إِنْ أَلَّهِ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ

دینا کہ جھوٹ بھوٹ ہا نہ لے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور آپ پر کتاب اتاری

فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّحْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَعَبَدْنَا هَارِجِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

سو اس میں سے جو اشر نے اتارا رحیم کی آیت ہے ہم نے اسے پڑھا اور اسے سمجھا اور اسے حفظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَجَمْنَا بَعْدَهُ فَخَشِنَ أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَاتِسٌ وَاللَّهُ

نے سگ رکھا اور ہم نے بھی اچھے بد سگ رکھی سو مجھ کو ڈر ہے کہ اگر لوگوں پر لمبا زمانہ گذرا تو کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ کی قسم

مَا يَجِدُ آيَةَ الرَّحْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضَلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّحْمِ فِي كِتَابِ

ہم رحیم کی آیت کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اللہ کے ایک فریضہ کے چھوڑنے سے گمراہ ہو جائیں جسے اللہ نے اتارا اور رحیم کتاب اللہ

اللَّهُ حَتَّى عَلَيَّ مَنْ زَنِ إِذَا أَحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ السَّاعِرِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَارَ الْجَمَلُ

ہیں اس پر ثابت ہے جو زنی کرے جبکہ ہر شادی شدہ ہومردوں میں سے اور عورتوں میں سے جب شہادت قائم ہو جائے یا حمل ہو

اَوَّلَ الْاَعْرَافِ ثُمَّ اِنَّا لَنَّا نَقْرُؤُهَا فَمَا نَقْرُؤُهَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنِ اَبَائِكُمْ

یا اقرار ہو پھر ہم کتاب اللہ میں سے جو پڑھا کرتے اس میں پڑھنے سے اپنے باپ و اواسے روگردانی نہ کر دو

فَاِنَّهُ كَفَرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنِ اَبَائِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنِ اَبَائِكُمْ اَلَا

کیونکہ یہ تمہارے لئے کفر ہے کہ تم اپنے باپ و اواسے منہ پھیرو

ثُمَّ اِنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَطْرُقُوْنِي كَمَا طَرَقَ عِيْسَى ابْنُ

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو جیسے عیسیٰ بن مریم کے حق میں غلو

مَرِيْمَ وَقَوْلُوْا عِبَادُ اللّٰهِ وَّرَسُوْلُهُ ثُمَّ رَاٰهُ بَلَغْنِيْ اَنْ قَاتِلًا مِنْكُمْ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ مَاتَ

کیا کیا اور کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے پھر مجھے یہ بات بھی ہے کہ تم میں سے کوئی نہ لڑتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر حضرت

عُمَرُوْا بِاَيْحَتٍ فَلَا تَاْفَلَا يَخْتَرْنَ اَمْرُوْا اَنْ يَقُوْلَ اِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةٌ اِنِّيْ كَبُرْتُهَا

عمر کے تو میں فلا کی بیعت کروں گا کسی شخص کو یہ بات دھوکہ میں نہ لگے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت ایک تھی اور دوسری ہونگی

وَوَقَّمتْ اَلَا وَاِنَّمَا قَدْ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ وَفِيْ شَرِّهَا وَاَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَّقِطْعُ

سنو وہ بیعت ایسی ہی تھی لیکن اللہ نے اس کی برائی سے محفوظ رکھا اور تم میں سے کوئی نہیں

الْاَعْتِنَاقِ اِلَيْهِ وَمِثْلُ اِنِّيْ يَبْكُ مِنْ بَايَعِ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُوْرٍ مِّنَ الْمَسْلُوْمِيْنَ فَلَا

کہ حضرت ابوبکر کی طرح کہ میں اس کی طرف چلتا ہوں جس نے کسی شخص کی بیعت مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کی تو نہ اس کی

وَبَايَعُهُ وَلَا الَّذِيْ بَايَعَهُ تَعَزُّةً اَنْ يُقْتَلَ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَلْقِ نَاجِحِيْنَ تَوَفَى

بیعت کی جائے اور نہ اس کی جس نے اس کی بیعت کی کہ نہ ان کے نفس کے دھوکہ سے دونوں کے متعلق قتل کی جائے گا اور نہ حضرت

اللّٰهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْ الْاَنْصَارَ خَالِفُوْنَا وَاَجْتَمَعُوْا اِيَّاكُمْ فِيْ

ابوبکر نام میں سے بہترین شخص تھے جو حق اللہ کے لئے نبی صلعم کو وفات دی البتہ انھارنے ہماری ہی گفتگی اور سارے ہی ساعدہ کی

سَقِيْعَةً بَيْنِيْ سَاعِدَةً وَخَالَفَ حَتّٰى عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُوْنَ مِنْ مَّعْهَمَا وَاَجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ

بیشک میں جمع ہوئے اور حضرت علی اور حضرت زبیر نے جو ان کے ساتھ تھے ہماری مخالفت کی اور مہاجرین حضرت ابوبکر کی طرف

اِلَى اِنِّيْ بَكْرٌ فَقُلْتُ لَا اِنِّيْ بَكْرٌ يَا اَبَا بَكْرٍ اَنْطَلِقُ بِمَا لِيْ اِحْوَانًا هُوَ كَا بَرٍّ مِنَ الْاَنْصَارِ

اکٹھے ہوئے تو میں نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر ہمارے ساتھ ہمارے ان انصار بھائیوں کی طرف چلے

فَاَنْطَلَقْنَا تَرْبِيْدُهُمْ فَلَمَّا ذَرُوْنَا مِنْهُمْ لَقِيْنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَاحِبَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَلَّ

تو ہم ان کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہوئے روانہ ہوئے سو جب ہم ان کے قریب پہنچے تو انہی میں سے دو تنک شخص ہم کو ملے تو دونوں اس کو لڑا

عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ اَيْنَ تَرْبِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقُلْنَا تَرْبِيْدًا حِوَانًا

جس پر لوگ متفق ہوئے تھے اور دونوں نے کہا مہاجرین کے گروہ کہاں کا ارادہ کرتے ہو ہم نے کہا ہم اپنے ان بھائیوں یعنی انصار

حضرت عمر کا کلام

بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں۔ فقرا ناھا و غقلناھا و دعیناھا۔ اسے ہم نے پڑھا اور سمجھا اور اسے ہم نے محفوظ کیا۔ اور دوسری طرف

کہتے ہیں کہ لہا ما ذکر جانے تو لوگ کہیں گے کہ آیت جسم قرآن شریف میں نہیں۔ اگر اسے محفوظ کیا تھا تو وہ کہاں چلی گئی؟ اور خود بھی وہ آیت پڑھ

کر نہ سائی کہ کیا آیت تھی پس آیت سے مراد حکم ہے اور کتاب اللہ سے مراد حکم الہی ہے یا اس سے مراد تورات ہے۔ کیونکہ تورات آپ کے سامنے

لا کر رکھی گئی تو اس میں آیت رحم تھی۔ باقی رہا یہ کہ قرآن کریم میں تو انی کے رحم کا حکم نہیں بلکہ کوڑوں کا حکم ہے۔ اور نبی صلعم نے رحم کیا تو اس کی

توجیہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ حکم رحم اسی وقت تک تھا جب تک جلد کا حکم قرآن شریف میں نازل نہ ہوا تھا تب ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ

جلد کے حکم کے نزول کے بعد آپ کو کسی زانی کو عواذ سے کا اتفاق نہیں ہوا اس لئے صحابہ میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ رحم کا حکم سنت رسول اللہ سے قائم ہے

اس کی کوئی مثال نہیں کہ وہی الہی کا ایک حکم ہو اور آنحضرت صلعم سے ترک کر کے دوسرا حکم دیں۔ ان اتباع الاماہود تھی الیہ

ہاں میں حضرت

عمر کی طرف یہ

میان منہ پیکر

گیا ہے کہ کتاب

اللہ میں ایک تہ

آیت ربہ تھی

اور دوسری

آیت تھی۔ کا

ترغبا عن

ابا تکھ فاعا کفر

بکہ۔ مؤثر الذکر

نبی صلعم کی حدیث

ہے۔ اور رحم کے

متعلق حضرت

علی نے فرمایا کہ یہ

آپ کی سنت ہے

یونکہ یہ سنت ہے

بعض اہل بیت

سے پایا جاتا ہے

کہ آنحضرت صلعم

نے زانیوں کی

نگہاری کا حکم

ہو یا تو ظاہر کتاب

اللہ سے مراد

میں قرآن کریم

نہیں بلکہ اللہ کا

حکم ہے۔ جسے نبی

کریم صلعم علی میں

لائے۔ اگر یہ معنی

تو لئے جائیں تو

حضرت عمر کا کلام

هُوَ كَايٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَا لَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا تَقْرُبُوهُمْ أَفَضْنَا الْأَمْرَ كَقَوْلِكَ وَاللَّهِ

کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہیں دووں نے کہا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان کے پاس نہ جاؤ اور اپنے کام کا فیصلہ کرو میں نے کہا اشکرتی

لَنَا بَيْنَهُمْ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَاهُمْ فِي سَاعِدَةٍ فَذَادَ رَجُلٌ مَزْمَلٌ

ہم انکے پاس جا رہے تھے سو ہر روز ہوتے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے بنی ساعدہ کی جنگ میں دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا جس نے کہا میں نے ان کے درمیان

بَيْنَ ظَهْرَيْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا اسعدُ بْنُ حَبَابَةَ فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا

میں نے کہا انہیں کیا ہوا انہوں نے کہا

وَوَعَكَ فَلَمَّا اجْلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهُدُ خَطِيئَتَهُمْ فَأَشْفَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَقَامَا

انہیں بخاری ہوا ہے جب ہم ٹھوڑی دیر بیٹھے تو انکے خطیب نے تشہد پڑھا اور اشک کی تعریف کی جیسے اس کی شان کے شایان ہے پھر کہا امان

بَعْدُ فَخَنَ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَيْبِيَةُ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ مَعَشَى الْمُهَاجِرِينَ رَهْطًا وَقَدْ

بجلا ہم انصار راشدین اور اسلام کی فوج اور ہاجرین کے گروہ تم صرف ایک جماعت ہو اور تمہاری قوم میں

دَقَّتْ دَاقَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يَرِيدُونَ أَنْ يُخَازِنُوا مَنِ اصْلَانَا وَأَنْ يُخَضِّنَا

سے گنتی کے آدمی (میں) آئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری برہمنوں سے نکال کر بھینک دیں اور ہم کو حکومت سے

مِنَ الْأَمْرِ فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَدْتُ مَقَالَةَ أَجْحَبِيَةَ إِبْرِيدَانَ

تعمیر کر رہی تھی وہ فی موضع ہوا تو میں نے چاہا کہ کہوں اور میں نے کئی کئی بار اور زیادہ دیکھا اور

أَقْدَمَا بَيْنَ يَدَيَّ ابْنِ بَكْرٍ وَكُنْتُ إِدْرِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ

چاہتا تھا کہ اسے عزت ہو کر سے پہلے میں کہوں اور میں اس میں سے بعض غصے کی باتوں کی طاقت کرنا تھا جب میں نے چاہا کہ کہوں تو حضرت

أَبُو بَكْرٍ عَلَا سَلَكٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْضِبَهُ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْكَمَ مِنِّي وَ

ابو بکر نے فرمایا کہ تمہیں زیادہ اور میں نے پسند کیا کہ ان کو ناراض نہ کروں سو حضرت ابو بکر نے اور وہ مجھ سے زیادہ زیادہ دیکھا اور

أَوْ قَرَّ اللَّهُ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَجْحَبْتَنِي فِي تَرْوِيئِي الْأَقَالَ فِي بَدَائِهِمْ وَمِثْلَهَا

تھے اور کئی قوم انہوں نے کئی کئی بار دیکھا تو یہ صورت مضمون میں اچھا لگا تھا میں چھوڑ کر اپنے فی البدیہہ وخصم میں اسی طرح کہا

أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَّرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَكُمْ أَهْلٌ وَلَنْ

یا اس سے بہتر یہاں تک کہ تم کو خوش ہونے سے روکا گیا کہ جو تم نے اپنے میں خوبوں کا ذکر کیا سو تم اس کے اہل ہو اور اس

لَعِبْرَتٍ هَذَا الْأَمْرُ الْهَذَا الْحَيُّ مِنْ قَرِيْشٍ هُمْ أَوْ سَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيَتْ

حکومت قریش کے اس قبیلے کے سولہ اور کسی کے لئے تسلیم کیا جائے گا - وہ عرب میں نسب اور گھر کے لحاظ سے بہترین ہیں اور میں نے

لَكُمْ أَحَدَهُ ذَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَبَايَعُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِعِدَارِي عَبْدِ اللَّهِ

قرآن سے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو پسند کر کے سو ان دووں میں سے جس کو چاہوں گی بیعت کرو اور انہوں نے میرے ہاتھ اور ابو بکر نے

ابْنِ الْجُرَاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَأَمَّا كَرَّةٌ بَيْنَا قَالَ عَيْدُهَا كَانَ اللَّهُ أَنْ أَقْرَبُ فَمَضَى

بن جو ان کے ہاتھ کو پکڑا اور وہ ہاتھ دے دیا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگلیوں سے صرف یہ بات کہہ کر اپنے ہاتھ سے اس کی ہاتھوں کو دھری

عَنْ عِيٍّ لَا يَقْرُبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَمْرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ

گردن ماری خانے اور مجھے کان کے قریب نہ کرے تو مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ میں نبوی قوم پر باہر نکالنا جاؤں میں بن حضرت ابو بکر ہیں

اللَّهُمَّ إِنْ أَنْ تَسْأَلُ إِلَيَّ لِقَائِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَحْدُهُ الْآنَ فَقَالَ قَائِلٌ

اے اللہ مگر یہ کہ تم نے میرے سامنے موت کے وقت ایک بات تو یہ صورت بنا لے جس سے میں اسے نہیں پاتا تو انصار میں سے ایک

مَنْ الْأَنْصَارِ أَوْ جَدِيهَا الْحَيُّ وَعَدَّ يَفْعَالًا الْمَرْجُوبُ مِنْ أَمِيٍّ وَمِنْكُمْ أَمِيٌّ

کئے وہ اس کے کان میں ہی اس کی وہ بڑی گاڑی ہوئی جس سے اوٹل اچھا آپ کو مجھ سے میں اور میں ہی اس کی بڑی شاخ ہوں اسے قریش کی شاخ

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

میں سے ایک

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فَاكْثِرِ اللَّفْظَ وَارْتَفَعِ الْأَصْدَاتُ حَتَّى فَرَّقَتْ مِنَ الْإِخْتِلَافِ

ہم میں سے ایک بکر ہوگا اور تم میں ایک بکر ہوگا اور تم کو شکر زیادہ ہو اور اور واژیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ میں اختلاف سے دور

فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَاكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتَهُ

تو میں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ آگے کرے سوا انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے انکی بیعت کی اور مہاجرین نے ان کی بیعت کی پھر اٹھانے

الْأَنْصَارُ دَنَزُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

ان کی بیعت کی اور ہم سعد بن عبادہ پر کوئی ہتھیار نہیں تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا

فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُو بْنُ الْقَافِلِ مَا وَجَدْنَا فِيهَا حَضْرَتًا مِنْ

میں نے کہا اللہ نے سعد بن عبادہ کو مارا حضرت عمر نے کہا اشک کی قسم میں نے اس میں ہم حاضر ہوئے ہمارے کوئی بات حضرت ابو بکر

أَمْرًا قَوْمِي مِنْ مَبَايَعَةِ ابْنِي بَكْرٍ خَشِيتُ أَنْ لَا نَقْرَأَ الْقَوْمَ وَكَلِمَةً تَكُنُّ بَيْعَةً أَنْ تَبَايَعُوا

کی بیعت سے زیادہ موجب قوت نہ پائی ہم نے اس کے کہہ کر ہم لوگوں سے ہمارے بیعت نہ ہوئی تو وہ ہمارے جدا اپنے میں

رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا قَالُوا مَا بَايَعْتَهُمْ عَلَى مَا لَا تَرْضَى وَإِنَّمَا نَخِيتُ لَهُمْ فَيَكُونُ قَسَادًا

سے ایک شخص کی بیعت کر لیں گے پس یا ہم بھی ان کی بیعت کریں گے جس پر ہم راضی نہیں تھے یا ان کی بیعت نہ کریں گے تو خدا دہرے گا

فَمَنْ بَايَعَهُ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَتَّبِعْهُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ

سو جس نے مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی تو نہ اس کی پیروی کی جائے اور نہ اس کی بیعت کی اس کی بیعت کے بغیر کے دھوکہ

تَغْوَةٌ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ۝ بَابُ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ

سے دونوں کے قتل کیا جائے گا اور یہ ہے بائیکاٹ کرنے اور عورت کو کوڑے لگانے کا طریقہ اور انہیں صلا دینا کا طریقہ زانیہ عورت اور زانی مرد

فَأَجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا زَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

ہر ایک کو ان میں سے سو کوڑے مارو اور ان پر نہ لڑائی نہیں اللہ کے حکم کی تعمیل سے نہ روکے

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ إِهْمَانَا طَرَفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو اور ان دونوں کی مزا پر مومنوں کا ایک گروہ موموں کو

الزَّانِيَ لَا يَبْغِيهِ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَبْغِيهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ

زانیہ کو بوجھ کر نہیں کہتا مگر زانیہ کو بوجھ کر سے یا مشرک سے اور زانیہ کو بوجھ کر نہیں کہتی مگر زانیہ کو بوجھ کر سے یا مشرک سے اور

حُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابْنُ عَيْنَةَ زَأْفَةٌ قَامَةٌ الْحُدُودِ رَم - ۳۸۹

مومنوں پر حرام ہے ابن عینہ نے کہا زأفہ اور بانی حدود کے قائم کرنے کے متعلق ہے

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَمْتَكُور - (۱۲۴۴) رَم - (۳۸۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْتَكُور

دیکھو حدیث ۱۲۴۴ دیکھو حدیث ۳۸۹۹

(۱۲۴۴) (۱۱۸) بَابُ لِقَى أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخْرَجِينَ رَم - ۳۹۰۰ عَنْ ابْنِ

بائیکاٹ معاصی کے مرتکبوں اور مخرجوں کو نکال دینا

عَبَّاسٍ رَمْتَكُور - (۱۲۱۸۹) (۱۹) بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ غَائِبًا

دیکھو حدیث ۱۲۱۸۹ بایک جو غیر حکم کو سزا دینے کا حکم ہے اور خود اس سے غیر حاضر ہو

عَنْهُ رَم - ۳۹۰۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَمْتَكُور - (۱۲۴۴) (۲۰) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۲۴۴

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ سَتَظْعَمُ مِنْهُ كَيْدَهُ طَوْلًا إِنَّ تَبَيَّنَ مِنَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَا

اللہ تعالیٰ کا قول اور جو کفر تم میں سے یہ مقدور نہیں رکھتا کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے

۱۵

بت مختصر ہے
صحت البیہ صلی
اللہ علیہ وسلم
یا مرفین زنی
ولم یخصر جملہ
مانہ و تعرب
عام ردی و ردیہ
ان عربی الخطاب
غوب ضم لم
نزل تلك السنة

۱۶

صرف سزا کا ذکر
ہے ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قضی فیہ
زنی ولم یخصر
بنفی عام بإقامۃ
الحود علیہ

۱۷

جیسا کہ حدیث باب
سے ظاہر ہے
مراوان کو گھریں
میں نہ آئے وینا
ہے

۱۸

لفظ قد یحیی
کے ہیں عورت
آخر میں راویوں
نلا ناوا و آخر فلا نا
کہہ کر قائل علی الخرج
نہیں کی جو موم
میں موجود ہے

۱۹

قریباً ہی لفظ ہیں
و در فقرے چھوڑ
دینے ہیں -۱- جو
انفہ متہ -۲- والذک
قائل علی رسول

مَدَكَتْ اَيْمَانَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

ان میں لوڈیوں سے نکاح کر کے جن کے قہرانے پہلے ہاتھ مالک ہوئے اور اشرقتلے ایمان کو خوب جانتا ہے تم آپس میں ایک ہی ہو

فَاِنْ كُنْتُمْ يٰۤاَهْلِيْنَ اَوْ اَوْلَادَكُمْ يٰۤاَهْلِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ

سو انہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح میں لاؤ اور ان کو دستور کے موافق ان کے مرد سے دو پاک و امن ہوں نہ کھلی جاواری کریرال

وَلَا مُتَخِذَاتٍ اَخْدَانٍ فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اِلَيْنَ بِغَارِحَتِهِنَّ نَعْفُ مَا عَلَي

اور نہ وہ پردہ آشف رکھنے والی پھر جب وہ نکاح میں لانی جائیں تو اگر بھیجی فی کا اور کتاب کریں تو ان کے لئے آزاد عورتوں کی مزا سے

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوْا وَاٰخِرُ دَعْوَانَا

یہ تم میں سے اس کے لئے ہے جسے ہلاکت میں پڑنے کا خوف ہو اور اگر تو صبر کرو تو تمہارے لئے بہتر

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۲۱) بَابُ اِذَا ذُنِبَ الْاِمَامَةُ ر-۳۹۰-۲ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

اور اشر مغفرت کرنا اور رحم کرنا اور اللہ اللہ (۲۵) بابل جب نوٹھی نہ تاکرے

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مُّتَكَوِّرًا (۱۰۶۹) (۲۲) بَابُ لَا يَتْرِبُ عَلٰى لَامَةٍ اِذَا زُنِبَتْ وَلَا

دیکھو حدیث ۱۰۶۹ بابل جب نوٹھی نہ تاکرے تو اسے علامت نہ کی جائے اور نہ جلا وطن

تُنْعَى (ر-۳۹۰-۳) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ فَرَمَتْكَوْرًا (۱۰۶۹) (۲۳) بَابُ اَحْكَامِ اَهْلِ

کی جائے دیکھو حدیث ۱۰۶۹ بابل اہل ذمہ کے احکام

الذَّمَّةِ وَرِاحِصَاتِهِمْ اِذَا زُنُوْا وَاَوْفَعُوْا اِلَى الْاِمَامِ (ر-۳۹۰-۴) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

جب وہ نہ تاکریں اور امام کے پاس راضی کریں اور ان کا نکاح

اَبِي اَوْفَى فَرَمَتْكَوْرًا (۲۳۷۵) (۲۴) ر-۳۹۰-۵ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمُرَةَ فَرَمَتْكَوْرًا (۶۲۸) اِلٰى

دیکھو حدیث ۲۳۷۵ بابل

(۲۴) بَابُ اِذَا رَجَعَتْ اِمْرَاَتُكَ اَوْ امْرَاَةٌ غَدِيْرَةٌ بِالزَّوْجِ اَعْدَتْ اِلْحَاكِمَ وَالتَّائِبَ اَهْلًا

بابل جب اپنی بیوی یا دوسرے کی بیوی پر حاکم اور لوگوں کے سامنے نہ تاکا الزام لگائے تو

عَلَى اِلْحَاكِمِ اَنْ يَّبْعَثَ اِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رَمِيَتْ بِهٖ (ر-۳۹۰-۶) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

حاکم پر لازم ہے کہ اس کی طرف کسی کو بھیجے اور اس کے متعلق پوچھے جو اس پر الزام لگایا گیا ہے

رَمَتْكَوْرًا (۱۲۶۴) (۲۵) بَابُ مَنْ اَذْبَ اَهْلَهُ اَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَقَالَ

دیکھو حدیث ۱۲۶۴ بابل جو حاکم کی اجازت کے بغیر اپنے اہل یا اس کے سوا کسی کو تنبیہ کرے اور ابو سعید نے

اَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتَ فَاَرَادَ اَحَدُ اَنْ يَّمُرَ بِكَ يَدِيْهِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب نماز پڑھے اور کوئی چاہے کہ اس کے سامنے سے گذر جائے

فَلْيَدْنِ يَدَيْهِ فَاِنَّ اَبِي فُلَيْحَةَ اَتَتْهُ وَفَعَلَهُ اَبُو سَعِيْدٍ (ر-۳۹۰-۷) عَنْ عَلِيٍّ (رَمَتْكَوْرًا ۲۴۴)

تو اسے ہٹانے اور نہ مانے تو اس سے رازے اور ابو سعید نے ہی کہا

ملیں لفظ میں
ان رسول اللہ صلعم
سئل عن الاماذا
ذمت واما تحسن قل
ان ذمت فاجلوا
ضم ان ذمت
فاجلوا وهاثم ان
ذمت فاجلوا
ثم معوها ولو
بعضها قال بن
بعضها لا ذمت
بعد الثالثة او
الرابعة. میان
سوال اور جواب
صرف اس نوٹھی
کے متعلق جو میں
انے نکاح نہیں کیا
اور سزا جلد ہے
تو اور نہ کو نہیں
مطلق لفظ ۱۰۶۹
کے ہیں اس میں
کو نہیں کہ نوٹھی نے
نکاح کیا ہے یا نہ
تو معلوم ہوتا کہ نکاح
شدہ نوٹھی اور غیر
نکاح شدہ نوٹھی
کے لئے ایک ہی حکم
ہے یعنی جلا ورو
کوڑوں کی تعداد
محصنات سے نصف
بڑے نص قرآنی
ہے پس محسنات کی
مزا سونے سوکھے

کے نہیں بھیجے آزاد عورت خواہ نکاح شدہ ہو یا نہ ہو یہ لفظ ہی لفظ میں۔ آخر میں یہ لکھا کہ بعضہم العاصمۃ بڑھا ہے والا دل احساس حدیث میں اہل ذمہ
کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر احمد کی روایت میں جو اس کے لفظ یوں ہیں فقال نعم رحمہم یودوا و یؤدوا و یؤدوا تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مگر حدیث میں صحت مذکور ہے کہ نوٹھی
کے فیصلہ کے مطابق تھا وہی لفظ ہی ہے۔ مگر قریباً ہی القائلین حدیث کو وہہر ایسے۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب امام یا حاکم کے پاس
شکایت پہنچے تو وہ تحقیقات کرے۔ مگر تاویب یا تنبیہ سزا نہیں۔ اس لئے اس کے لئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مگر مکرر روایت مختصر ہے۔۔
قالت جہاد ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع راسہ علی فخذی فقال حسبت رسول اللہ صلعم والناس ولسوا اهلہ صا
ضابنہ وجعل یصلع بیہ و فی خاصوقی وعزبان باب کا تعلق اسی سے ہے، ولا یمنعن من العون الا ما کن رسول اللہ صلعم فانتزل اللہ آیۃ التبیعہ

۳۹۰۸-۸ (م)	عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَوِّرًا) ۲۴۶ (۲۶۷) بَابٌ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ	دیکھو حدیث ۲۴۶	بابت کے ساتھ کسی شخص کو دیکھنے والے سے
۳۳۷۹ (م)	عَنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا	مغبر سے روایت ہے	کس حدیث میں عبادہ کے نام
۳۹۰۸-۸ (م)	مَعَ امْرَأَتِي كُضِبَتْهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ فَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی	کے ساتھ دیکھوں تو اسے تلوار سے ماروں گا اور وہ گزرتی کروں گا
۳۳۷۹ (م)	فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٌ لَا نَأْغِيْمُنَهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنْهُنَّ ۲۴۷ (۲۶۸) بَابٌ	آپ نے فرمایا کیا تمہیں سوچی غیرت سے تعجب ہوتا ہے اس سے زیادہ غیرت وہاں ہوں اور اشرفی سے بھی بڑھ کر غیرت وہاں ہے	بابت
۳۹۰۹-۹ (م)	مَا جَاءَ فِي لَتَعْرِيفِ ۲۴۸ (۲۶۹) بَابٌ كَيْفَ	دیکھو حدیث ۲۴۸	بابت کے بارے میں کیا ہے
۳۳۸۰ (م)	التَّعْرِيفُ وَالْأَدَبُ ۲۴۸ (۲۶۹) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى	ابو بردہ سے روایت ہے	تنبیہ کی یاد ہے
۳۹۱۰ (م)	اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ۲۴۹ (۲۷۰)	فرماتے تھے کہ سوائے اشرفی کے دوسریں سے کسی حد کے دس سے زیادہ کوڑے نہ مانے جائیں	
۳۹۱۱ (م)	عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۲۴۸ (۲۶۹) ۳۹۱۱ (۲۷۰)	دیکھو حدیث ۲۴۸	
۳۹۱۲ (م)	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۲۴۹ (۲۷۰) ۳۹۱۲ (۲۷۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ (مُتَكَوِّرًا)	دیکھو حدیث ۲۴۹	
۱۰۵۷ (م)	عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۲۵۰ (۲۷۱) ۱۰۵۷ (۲۷۱) بَابٌ مَنْ أَظْهَرَ الْفَرْجَ حَشَةً	دیکھو حدیث ۲۵۰	
۱۰۵۷ (م)	وَاللَّطِخَ وَالثَّمِيمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ۲۵۰ (۲۷۱) ۱۰۵۷ (۲۷۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (مُتَكَوِّرًا) ۲۵۰ (۲۷۱)	دیکھو حدیث ۲۵۰	
۳۹۱۴ (م)	عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) ۲۵۱ (۲۷۲) ۳۹۱۴ (۲۷۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) ۲۵۱ (۲۷۲)	دیکھو حدیث ۲۵۱	

۳۹۰۸-۸ (م) قائل اقبل او متبر
 ۳۳۷۹ (م) فلذکر فی لکنہ شریفاً
 ۳۳۷۹ (م) وقال جلست
 ۳۳۷۹ (م) الناس فی قفلادة
 ۳۳۷۹ (م) فی اموت لکلان
 ۳۳۷۹ (م) رسول اللہ صلعم
 ۳۳۷۹ (م) وقد اوجح فحوة
 ۳۳۷۹ (م) بلایہ انفا لافشا
 ۳۳۷۹ (م) بتلے ہیں کہ جب
 ۳۳۷۹ (م) سب سے برطہ
 ۳۳۷۹ (م) کہ غیرت والا خدا
 ۳۳۷۹ (م) ہے تو اسی کے حکم
 ۳۳۷۹ (م) کے مطابق ہونا
 ۳۳۷۹ (م) چاہئے اور کسی شخص
 ۳۳۷۹ (م) کو حق نہیں کہنے
 ۳۳۷۹ (م) طہر کسی کو قتل
 ۳۳۷۹ (م) کرے نہ اس شخص
 ۳۳۷۹ (م) خود اختیار کی
 ۳۳۷۹ (م) طور پر جائز ہے
 ۳۳۷۹ (م) مطلقاً ایک شخص
 ۳۳۷۹ (م) دوسرے کی بیوی
 ۳۳۷۹ (م) پر حملہ کر کے اس سے
 ۳۳۷۹ (م) زنا کرنا چاہتا ہے
 ۳۳۷۹ (م) یا اسے مان چاہتا
 ۳۳۷۹ (م) ہے تو اس صورت
 ۳۳۷۹ (م) میں جس طرح بھی
 ۳۳۷۹ (م) مداخلت کر سکے

جائز ہے نہ مطلقاً نہ قریباً نہ الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ ان امراتی ولدت غلاما اسود میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی عورت نے جو بچہ پیدا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کا باپ اس کے لفظ سے دھوکا نہ کھانا چاہئے ہاتھ سے مارنا یا کپڑے سے مارنا یا سوتی سے مارنا سب جلد میں داخل ہے۔ اور یہ وہی بچہ ہے جس میں مہم ایسے صلعم لفظ میں ہے۔ قال لا عقوبة فوق عتقہ ضوابط الا فی حق من حدود اللہ۔ لکن قریباً وہی لفظ میں ہے۔ عظیم ۱۰۴۱۔ ابیرہ کی روایت اور ۱۰۵۷۔ عبد اللہ بن عمر کی روایت ایک بیٹھوں کے متعلق ہیں۔ روزوں کا لانا یا نہیں روایت ابیرہ یہی ہے۔ اور لفظ میں ہے۔ صحیح رسول اللہ صلعم عن الرمال فقال له رجال من المسلمین فانك يا رسول الله تو اصل فقال رسول الله صلعم انکم مثلی انی انیت بطعمہنی دبی ویسحقین قلما ابوات انیتوا عن الرمال واصل ہم یوما ثم یوما ثم راوا الہلال فقال لواتا خروا ذکرک الکل ہم ذمیتہ کے لئے دیکھا کہ اسی کا لفظ عنوان باقی ہے۔ حین ابوام عتق مہم میں صرف ماعت کا ذکر ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ انہم کا فوا یقولون (عنوان باقی) اسی سے تعلق ہے۔ علی عہد رسول اللہ صلعم اذا اشاروا واطحا ماجزا فان یبعوثہ فی حکا ثم حتی یؤذہ الی رمالہم۔ عتق عرف چھو ہر ایسا ہے۔ قائل ما انعم رسول اللہ صلعم بنفسہ فی شفی یوقی الیہ حتی یتھمک من حرمات اللہ فینتقم اللہ علیہ مکر روایت کی بیٹی سے آئی ہے۔ مشہدات المتلا حنین وانا ابن خمس عشرة فرت بینہما فقال زوجہا کذبت علیہا ان اسکنا قال حفظت واک من الزھوی ان عبادت بہ کذا وکذا فیروان جادت بہ کذا وکذا ان کانہ حرة فھو وصمت الزھوی یقول جادت بہ للای یکرہ۔ مکر روایت مختصر ہے۔ ذکر ابن عباس المتلا سین فقال عبد اللہ بن شد ادھی التی قال رسول اللہ صلعم لو کنت رجلا

امراة عن غیر ذیة قال لا تکل امرأة اعلمت۔ اس کے لفظ ۱۰۵۷ کے ہیں۔

(۳۱) بَابُ رَفِي الْمُحْصَنَاتِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْرَارٍ

بَابُ مَا كَانُوا يَرْمُونَ مِنْ عَمَلٍ يَرْمُونَ بِهِ تَمْتِ كَمَا أَوْجَدُوا لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

شَهِدَاءُ فَاجِلِدُوهُمْ مَرَّتَيْنِ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ

تو انہیں اسی کوڑے کا ڈھک اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو اور وہی منافقان

الْقَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ہیں مگر جو بعد میں توبہ کریں اور اصلاح کریں تو انہیں بخش دیا جائے اور ان کے لئے برا عذاب ہے

الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَافِلَاتِ الْأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ

جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تمہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لئے برا عذاب

عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۱۸-۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَابُ قَذْفِ

بے رحمی کا عذاب (۳۱۸-۵) سے روایت ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

الْعَبِيدِ (۳۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ

کے غلاموں کے بارے میں کہنا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَسْلُوكَةً وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالِ جَلْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا

فرماتے تھے کہ جو اپنے غلام پر تمہمت لگائے اور وہ اس سے بری ہو تو اس نے کہا تو قیامت کے دن اسے کوڑے کاٹنے پڑیں گے

أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ (۳۲) بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْأَمَامُ رَجُلًا فَيُضْرِبُ أَوْ يَخْلَعُ

کے لئے اسے کوڑے کی لاقچہ اور ہیرا بولنے، کہنا

عَذَبَهُ وَقَدْ فَخَلَهُ عَمْرٌ (۳۱۹-۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بَابُ

اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۸۸- کتاب الدیات

۸۸- دیاتوں کی کتاب

(۱) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَاقْتُلْ مُؤْمِنًا مَعْتَمِدًا فَبِغْضٍ

بَابُ مَا كَانُوا يَرْمُونَ مِنْ عَمَلٍ يَرْمُونَ بِهِ تَمْتِ كَمَا أَوْجَدُوا لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰

کتاب الدیات کی ابتدا اس آیت سے کی ہے جس میں مومن کو عمدہ قتل کرنے والے کے لئے مزائے جہنم کا ذکر ہے۔ اور اس کے نفاذ میں مجزاۃ جہنم خالدہ فیہا۔ خالد کے معنی صرف رہنے کے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا شخص کبھی دوزخ سے باہر نہ نکلے گا۔ کیونکہ کافر اور مشرک بھی اپنے اپنے گنہگاروں کی سزا جہنم سے باہر نکل آئیں گے اور ایسے ہی لفظ احکام وراثت کی نافرمانی کے موتمر بھی آتے ہیں۔ دامن بیص الله ورسوله ویتعدا حد وده بدخله نارا اخالد افہا النساء۔ (۱۲) اور ویسے بھی تم سے کہ تم نے کفر سے کہ جو مسلمان اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ آخر کار جہنم سے باہر آجائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ایسے شخص کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہ۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر گناہ کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو مومن کے قتل عمد میں توبہ کا دروازہ کیونکر بند ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں جو قتل کے لئے سزا ہے اس سے توبہ نہیں چلا سکتی۔ سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثہ وراثت قبول کر لیں +

(۱۳) بَابُ إِذَا أَقْرَبَ الْقَتْلُ مَرْءَةً قَتَلَ بِهَا (م- ۳۹۳۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم)

باب تک جب ایک مرتبہ قتل کا اقرار کرے تو اسی اقرار سے وہ قتل کیا جائے گا

(۱۱۵۷) بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ (م- ۳۹۳۹) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (متکرم)

باب تک مقتولہ عورت کے بدلے قاتل مرد کا قتل کرنا

(۱۱۵۷) بَابُ الْقصاصِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجَرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ

باب تک مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں کے بارہ میں قصاص لینا

الْعِلْمِ يَقْتُلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُدَّكَّرُ عَنْ شَرِّهَا قَدْ أَمَرَتُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَلٍ يُسَلِّمُ

ذاتی مرد کو مقتولہ عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا اور حضرت علی سے بیان کیا جاتا ہے کہ عورت سے مرد کا قصاص لیا جائے گا ہر ایک جرم میں جو

نفساً قتلاً وہما من الجراح ویراہ قال عمرو بن عبد العزیز و ابن ابراہیم و أبو الزناد عن

عمر کیا جائے تو وہ اس کی جان تک پہنچے یا اس تک ہو رہی زخموں میں اور عمر بن عبد العزیز اور ابن ابراہیم اور ابو الزناد اور ان کے ساتھ ہر ایک ہی قول

أصحابہ و جرحت أخت الربیع أنسا ف قال للنبی صل الله علیہ وسلم القصاص

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص لازم ہے

(م- ۳۹۴۰) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم) (۱۱۵۷) بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ ائْتَمَّ

باب تک جو شخص اپنا حق یا بدلہ پورا کرے تو اس کے

دُونِ السُّلْطَانِ (م- ۳۹۴۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم) (۱۹۰) (م- ۳۹۴۲) عَنْ أَبِي

بغیر خود سے لے کر

هُرَيْرَةَ (متکرم) (۲۳۸۹) (۲۳۸۵) عَنْ حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى

حمید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا

الله عليه وسلم فسئل دالیه مشقفا فقلت من حدّك قال انس بن مالك (۱۶)

تو آپ نے تیرا اس کی طرف سپرد کیا میں نے کہا کہ انس بن مالک نے

بَابُ إِذَا مَاتَ فِي الزَّحَامِ أَوْ قَتِلَ (م- ۳۹۴۳) عَنْ عَائِشَةَ (متکرم) (۱۲۸۷)

باب تک جب جرم میں مرتلے یا قتل کیا جائے

مقربیا انما انما

میں حدیث کو دیکھ کر

ہے۔ آخر میں یوں

ہے۔ فرض و اسے

بالجوارحہ ذوقی

ذوقی بھجورین

اس سے اقرار قتل

کیا تو اسے منزلی

قتل دی گئی

مکرر روایت

بیت مختصر ہے

ان ائیسے علم قتل

بہو گیا بھجورین

قتلہا علیہ اوصلہ

لہا

مسلر ربیع بنت

الشرع نے ایک

عورت کا وراثت

کوڑو یا تھا۔ تو اس

کے وراثت پر

رہی نہ ہوئے

تب رسول اللہ صلی

نے قصاص کا حکم

دیا۔ (۱۲۵۹)

میں کر چکا گیا

اخت الربیع کا

ذکر ہے جو بظاہر درست نہیں۔

اخت کا لفظ سہم معلوم ہوتا ہے۔

اللہ اعلم بالصواب۔

میں لفظ یہ ہیں

قال لہذا فی قولہ

فقال لا تلاحون

ذکر ہے جو بظاہر درست نہیں۔ اخت کا لفظ سہم معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میں لفظ یہ ہیں قال لہذا فی قولہ فقال لا تلاحون اور میں فقلنا کر اھدیۃ المرضی للدوا وعلما افان قال لا یبقی احد منکم الا لہذا غیر العباس فانہ لیرضدکم استلال اس سے کیلئے کہ ان میں عورتیں اور مردوں موجود تھے اور سب کو بطور قصاص دوائی پلانے کے لئے کہا۔ قصاص کے معاملات کا تعلق حکومت سے ہے اور ایک شخص کو حج جب و سمران چھین لے تو وہ حق باو شاہ ہی دلا سکتا ہے۔ اسی طرح قصاص کا تعلق بھی باو شاہ سے ہے اور اسی کے توسط سے قصاص لیا جا سکتا ہے لیکن بعض خاص حالات میں انسان پتا بچاؤ کرے تو جائز ہے جیسے مثلاً حفاظت خود اختیار کرے کہ دو مرد اس کو مارنا چاہتے اور وہ پتا بچاؤ سے مار کر ہی کر سکتا ہے تو مارنا جائز ہے یا جیسے مثلاً حدیث باب میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کے گھر میں جھانکے تو وہ اپنے بچاؤ کے لئے اس کی طرف کوئی چیز پھینک سکتا ہے یا گو یا مدخلت بجائے اپنے آپ کو بچانے کی صورت ہے۔ حدیث کے لفظ صرت یہ ہیں جو حدیث میں مذکور ہے خون الاخوان السابغون اور یہاں لانے کی غرض صرت یہ ہے کہ اسی اس دے دوسری حدیث میں آئی ہے جو اس کے آتی ہے اور جو کا تعلق عنوان باب سے ہے۔

میں تقریباً وہی لفظ ہیں۔ نو اطلاع فی بیعت احد و لہم تاذن لہ خذ ذمہ بخصاۃ نفقات عینہ ما کان علیک من جناح۔ بعض نے اس صرت

تخلیظ کے معنی میں لیا ہے یعنی مطلب صرت یہ ہے کہ دو مردوں کے گھروں میں جھانکنے سے سختی سے روکا ہے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ جب ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا تو آپ نے تیرا اس کی طرف سپرد کیا میں نے کہا کہ انس بن مالک نے

(۱۷) بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَاةً أَوْ دِيَّةً لَهُ (م- ۳۹۴۵) عَنْ سَلْمَةَ وَرَمْتَكْر (۳۹۴۷)

بَابُ جَبْ قَتَلَ سے اپنے آپ کو قتل کرنے کو اس کے خون جائز نہیں ہے۔ دیکھو حدیث ۳۹۴۷

(۱۸) بَابُ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَائِيَا (۳۳۸۷) عَنْ زُهْرَانَ بْنِ حَمَّانٍ أَنَّ

بَابُ جَب کسی کو دانتوں سے کاٹنا اور اس کے سامنے کے دانت گرے۔ عزان بن حمان سے روایت ہے کہ

رَجُلًا عَضَّ مِنْ رَجُلٍ فَازْدَادَ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنَائِيَا فَأَخْتَصِمُوا إِلَى النَّبِيِّ

ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ دانتوں سے کاٹا، اس نے بنا ہاتھ اس کے منہ سے نکالا تاکہ اس کے دانت گرے انہوں نے نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ لَدِيَّةً لَكَ (م- ۳۹۴۶)

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا پیش کیا تو آپ فرمایا تم میں سے کسی اپنے بھائی کو دانتوں سے کاٹتا ہے۔ جیسے اونٹ چبا کر ہاتھ لے کر کوئی دانت

(۳۹۴۶) عَنْ يَعْلَى (م- ۸۲۰) بَابُ السِّنِّ وَالسِّنِّ (م- ۳۹۴۶) عَنْ أَنَسٍ

دیکھو حدیث ۸۲۰ بَابُ السِّنِّ وَالسِّنِّ بابت لالہ دانت کے عین دانت

رَمْتَكْر (۱۲۵۹) بَابُ دِيَّةِ الْأَصَابِعِ (م- ۳۳۸۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

بَابُ دِيَّةِ الْأَصَابِعِ بابت انگلیوں کی دیت ہے۔ ابن عباس بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا هَذَا سِوَاءٌ لِيَعْنِي الْخَنْضِرَ وَالْإِبْهَامَ (م- ۳۹۴۸)

کرنا ہے کہ اپنے فریاد اور براہیوں یعنی پھینکی اور گنگوٹھا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۳۳۸۶) بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ

بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ بابت جیسے کہ لوگ کسی کو قتل یا زخمی کریں تو کیا سب کو سزا دی

يُعَارَبُ أَوْ يُفْتَقَسُ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُطَرِّفُ بْنُ الشَّيْبِ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ

دوسرے کو قتل کرنے یا سب سے قصاص لینے کا۔ دو آدمیوں نے ایک شخص کے قتل

أَنَّهُ سَوَّى فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ بِالْخُرِّ وَقَالَ لَا أَخْطَأُ نَأْفًا بَطْلًا شَهِدَا دَتَهُمَا وَأَخْذَا

گوای دی کہ اس نے ہمدی کی ہے تو طرٹ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور کو لے کر لاسے اور کہتا ہے (شہادت میں) اعلیٰ ہوئی تو انہوں نے دونوں

بِدِيَّةِ الْآوَلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَذْكَمَا تَعْمَدُ ثَمَّ لَقَطَعْتُكُمَا (م- ۳۳۸۸) عَنْ ابْنِ

کی شہادت کو باطل ٹھہرا اور دونوں سے یہی کہ دیت لی اور فرمایا تم کو جو کلمہ ہو تا کہ وہ دونوں اور دینا میں کو تو دونوں کو دیتے کوٹانا ابن عمر

عَمْرٌ رَفِيءٌ لَللَّهِ عَنَّهُمَا أَنَّ غُلَامًا قَتَلَ غِيْلَةَ فَقَالَ عَمْرُ لَوْ اشْتَرَكْتُمَا فِيهَا أَهْلَ صَنْعَاءَ

روایت ہے کہ ایک لڑکا جو سوکے سے قتل کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا صغافہ ولسب اس میں شریک ہوئے تو میں

لَقَتَلْتُمَا وَقَالَ مَغَايِرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ أَبِيهِ إِنَّ أَوْبَةَ قَتَلَتْ أَصْبِيًّا فَقَالَ عَمْرٌ مِثْلَهُ

انکو قتل کرنا اور مغیر بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چار آدمیوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو حضرت عمر نے فرمایا ایسی

ان کو لوگ بھی تھی

اسی سے جنہوں نے باپ سے، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رحمت وهم يتحدون ان عامرا حبط عمله فجت الى النبي صلعم فقلت يا نبي

اللَّهِ فَمَا أَفَى وَأَمَى دَعَاؤُا ان عامر حبط عمله فقال كذب من قالها ان له لا حرج من اثنين انه لجاهد الجاهل وای قتل ذیہ علیہ علیہ مکرر

حدیث ۸۸ کا ایک ٹکڑہ ہے اور ۸۹ ہر سنت کی مکرر روایت ہے۔ یہاں لفظ یہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا انہوں نے اپنے منہ سے ٹوٹے ہوئے مکرر روایت ہے، انھار

بعض کاتون سے ہے کہ یہی صورت میں بیت المال سے دیت اس کے ورثہ کو دانی جاسے گی۔ نام جاری نے حدیث باب سے اس کی تردید کی ہے۔ حدیث مکرر روایت بہت مختصر آتی ہے۔ ان فرجیہ صلی اللہ علیہ وسلم انی غیر فقال رجل منهم استفاد باعامر من ہنیہا تک فخذ ہم فقال انی صلعم من اسانی قالوا عامر فقال رصہ اللہ فقالوا یا رسول اللہ ہلا اذاعتنا یہ زیست کی وعاسے یہ سبھا گیا کہ وہ شہید ہو جائیں گے قاصیب سبھیہ بیتہ وہیسا کہ مکرر میں ہے ان کی اپنی تلوار ان کو لوگ بھی تھی

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مِقْرَانَ مِنْ لُطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مَهْرًا

اور حضرت ابوبکر اور ابن الزبیر اور حضرت علی اور سید بن مقران نے ایک لٹھی سے لٹھا یا اور حضرت عمر نے وہ لٹھا کیا اور

ضَرْبَةً بِالذَّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَوْاطٍ وَأَقْتَصَّ شَرِيحٌ مِنْ سَوْاطٍ وَكُمُوشٍ

پر لٹھا یا اور حضرت علی نے تین کوڑوں کا لٹھا یا اور شریح نے کوڑے اور زخم کا لٹھا یا اور

(۳۹۴۹) مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَابْنُ مَرْثَدَةَ (۳۹۵۰) بَابُ الْقِسَامَةِ وَقَالَ لَا شَعَثَ

ابن قیس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو ميثمه وقال ابن أبي عمير

كَمْ يُعَدُّ بِهَا مَعَاوِيَةُ وَكَانَتْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ امْرَأَةً

عَلَى الْبَصْرَةَ فِي قَتِيلٍ وَجَدَ عَيْدٌ بَيْتٌ مِنْ بَيْتِ السَّمَاوِينَ إِنْ وَبَّيْدَ أَحْصَاهُ بِدِينِهِ

ذُرًّا لَا تَطْلُقُهُ النَّاسُ فَإِنَّ هَذَا الْأَيْقُظُ فِي عَمَلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَمَبَ ۳۹۵۰

سَهْلُ بْنُ أَبِي حَكْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۹۵۱) (۳۹۵۲) مِنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ لَمْرَبِينَ عَبْدًا

الْعَزِيزِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ يَوْمَ النَّاسِ ثُمَّ أَدْرَنَ لَهُمْ فَوَجَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقِسَامَةِ

قَالَ نَقُولُ الْقِسَامَةَ الْقَوْلُ بِمَا حَقُّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخَلْفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا

أَبَا قِلَابَةَ وَنَضَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُؤُسٌ لَا اجْتَاذُوا

أَشْرَافَ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ رَجُلٌ فَخَصَّنِي بِدِينِ

أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرُدَّهُ أَكُنْتُ تَرْتُمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا

عَلَيَّ أَرْسِلَ بِحُضْرٍ نَكَحْتِي أَكُنْتُ لِقَطْعِهِ وَكَمْ يَرُدُّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَرَأَيْتَ مَا قَتَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطًّا إِلَّا فِي رَأْسِهِ تَكَلَّاتِ خِصَالٍ رَجُلٌ فَكَلَّ

لِلَّذِي وَجَدَهُمْ فَكَلَّمَهُمْ صَاعِدًا قَائِلًا مَا لَكُمْ لَا تَلْمِزُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلِقْنَا إِلَى خَيْرِ قَوْمٍ نَأْتِيهِمْ

الْكِبْرُ الْكَبِيرُ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى مَنْ شَاءُوا مَا لَكُمْ أَلَيْسَ قَالَ لِي جَعَلْتُمْ قَوْلَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ إِذَا نَادَى بِأَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْهُمْ قَوْمٌ مِنْهُمْ

دَعَا فَوَدَّاهُ مِنْ أُمَّلِ الْعَرَبِ فَجَاءُوا مِنْ عَرَبِيَّةٍ مِنْهُمْ بِيَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِ الْعَالَمِينَ مِنْ مَقَرِّ بَيْتِ

دَيْتٍ وَوَدَّوهُمُ الْعَرَبُ حَرَمَهُمْ أَيْ شَاءُوا أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُمْ كَمَا كَانُوا يَأْتُونَ قَوْمًا جَاءَهُمْ

لٹھا یا اور سید بن مقران نے ایک لٹھی سے لٹھا یا اور حضرت عمر نے وہ لٹھا کیا اور حضرت علی نے تین کوڑوں کا لٹھا یا اور شریح نے کوڑے اور زخم کا لٹھا یا اور ابن قیس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو ميثمه وقال ابن أبي عمير كَمْ يُعَدُّ بِهَا مَعَاوِيَةُ وَكَانَتْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ امْرَأَةً عَلَى الْبَصْرَةَ فِي قَتِيلٍ وَجَدَ عَيْدٌ بَيْتٌ مِنْ بَيْتِ السَّمَاوِينَ إِنْ وَبَّيْدَ أَحْصَاهُ بِدِينِهِ ذُرًّا لَا تَطْلُقُهُ النَّاسُ فَإِنَّ هَذَا الْأَيْقُظُ فِي عَمَلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَمَبَ ۳۹۵۰ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَكْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۹۵۱) (۳۹۵۲) مِنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ لَمْرَبِينَ عَبْدًا الْعَزِيزِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ يَوْمَ النَّاسِ ثُمَّ أَدْرَنَ لَهُمْ فَوَجَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقِسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقِسَامَةَ الْقَوْلُ بِمَا حَقُّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخَلْفَاءُ قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ وَنَضَبَنِي لِلنَّاسِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُؤُسٌ لَا اجْتَاذُوا أَشْرَافَ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ رَجُلٌ فَخَصَّنِي بِدِينِ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرُدَّهُ أَكُنْتُ تَرْتُمُهُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَيَّ أَرْسِلَ بِحُضْرٍ نَكَحْتِي أَكُنْتُ لِقَطْعِهِ وَكَمْ يَرُدُّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَرَأَيْتَ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطًّا إِلَّا فِي رَأْسِهِ تَكَلَّاتِ خِصَالٍ رَجُلٌ فَكَلَّ لِلَّذِي وَجَدَهُمْ فَكَلَّمَهُمْ صَاعِدًا قَائِلًا مَا لَكُمْ لَا تَلْمِزُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلِقْنَا إِلَى خَيْرِ قَوْمٍ نَأْتِيهِمْ الْكِبْرُ الْكَبِيرُ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى مَنْ شَاءُوا مَا لَكُمْ أَلَيْسَ قَالَ لِي جَعَلْتُمْ قَوْلَ الْإِسْرَائِيلِيِّينَ إِذَا نَادَى بِأَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْهُمْ قَوْمٌ مِنْهُمْ دَعَا فَوَدَّاهُ مِنْ أُمَّلِ الْعَرَبِ فَجَاءُوا مِنْ عَرَبِيَّةٍ مِنْهُمْ بِيَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِ الْعَالَمِينَ مِنْ مَقَرِّ بَيْتِ دَيْتٍ وَوَدَّوهُمُ الْعَرَبُ حَرَمَهُمْ أَيْ شَاءُوا أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُمْ كَمَا كَانُوا يَأْتُونَ قَوْمًا جَاءَهُمْ

مُحْرَبَةً لِنَفْسِهِ فَقَتَلَ أَوْ رَجُلٌ زَنِي بَعْدَ احْتِصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

یا حج قلہ سے اور کسی کو قتل کیا سو وہ قتل کیا جائے گا یا ایسا شخص جو شادی کے بعد زنا کرتا ہے یا ایسا شخص جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے

وَأُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَقَوْمٌ أَوْلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتُ أَسْبُ بِنَ مَا لَكَ أَنْ رَسُولٌ

اور اسلام سے منہ ہوجا تا ہے بلکہ تو لوگوں نے کہا کیا اس نے بیان میں کیا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي الشَّرْقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ بَدَّهْمُ فِي الشَّامِ فَقُلْتُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میں ہاتھ کاٹا اور آنکھوں میں سلاخی پھیری پھر انہیں دھوپ میں ڈولا یا میں نے کہا

أَنَا أَحَدٌ لَمْ يَكُ حَدِيثُ أَتَيْتُ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي أَنْتَ أَنْ تَقْرَأَ مِنْ عَمَلِي ثَمَانِيَةَ قَدَمًا عَلَى

میں تم سے اس کی حدیث بیان کرتا ہوں مجھ سے اس نے بیان کیا کہ قبیلہ عکلی میں سے آٹھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَيِّ عُرَّةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقَمَتْ

خدمت میں آئے اور اسلام پر بیعت کی انہوں نے اس مقام کی رتبہ کیا کہ ان کو ناموافق پایا اور ان کے

أَجْسَاهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَحْتَسِبُونَ

جسم بیمار ہو گئے تو انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آپ نے فرمایا تم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ

مَعَ رَاعِيَتَانِي إِيْلَهُ فَصَبِيحُونَ مِنَ الْبَانِيَةِ وَأَبُو الْهَيْثَمِ الْقَائِلُ ابْنُ فُحْرٍ سَوَاءٌ فُؤَادُهُنَّ

ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کا دنگوں میں چلے جاؤ تاکہ ان کا وودھ اور پیشاب تمہیں ملے انہوں نے کہا بہت اچھا سو وہ نیکے اور ان کا

الْبَانِيَةِ وَأَبُو الْهَيْثَمِ الْقَائِلُ ابْنُ فُحْرٍ سَوَاءٌ فُؤَادُهُنَّ فَصَحُّوا فَفَقَتُوا دَارَ عِمْرَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا

دودھ اور ان کا پیشاب پیادہ اچھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور انہوں کو بھگا

الْقَدَمِ فَبَايَعَهُمْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي النَّازِلِهِمْ فَأَدْرَكُوا

سے لگنے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے سو وہ پکڑے گئے اور لائے

رَجُلَيْنِ يَوْمَئِذٍ فَأَمْرَهُمْ فَقَطَعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِعُوا عَيْبَهُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ فِي

انہوں کے متعلق حکم دیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلاخی پھیری پھر انہیں دھوپ

الشَّامِ حَتَّى مَا تَوَقَّعْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَهُ هُوَ كَأَنَّهُ أُرْتَدَّ وَأَعْرَبَ الْإِسْلَامَ

میں ڈولا یا ہاں تک کہ وہ مرے غلط میں نے کہا کہ اس پر اس سے سخت تھا جو انہوں نے کیا اسلام سے منہ ہوجائے

وَقَتُّوا أَوْ سَوَّ قَوْا فَقَالَ عَنَسَةُ بِنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطَّ فَعَلْتُ أَنْتَرِدُ

اوتوق کیا اور بھری کی تو عنسہ بن سعید نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج جیسا اس حدیث کو سنا بھی نہیں تھا میں نے کہا

عَلَى حَدِيثِي يَا عَنَسَةُ قَالَ لَا وَلَكِنْ جِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَاللَّهِ لَا يُبْزَلُ هَذَا

عنسہ کیا آپ میری حدیث کو رد کرتے ہیں کیا نہیں آپ نے حدیث بائیں درست بیان کی ہے اللہ کی قسم یہ تو ک بھلائی سے

أَبْجَدُ بِرِي مَا حَاشَ هَذَا الشَّيْخَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ

وہیں گے جب تک یہ شیخ ان میں ہو میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَّ عَلَيْهِ لَقَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَدَّ ثَوْبَهُ عِنْدَ فُرُجِهِ

آپ کے پاس انصار کے چند آدمی آئے آپ کے پاس بائیں کرتے لیے ان میں سے

رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَتَلَ فُحْرًا بَعْدَ مَا فَادَاهُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ

ایک شخص ان کے درمیان سے نکلا سو وہ قتل کیا گیا وہ اس کے بعد نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ خون میں تڑپ رہا ہے

فَرَجَّوْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھی نے ہمارے ساتھ

۱

عرف مرتد ہونے پر قتل کا اگر نہیں بلکہ ارتداد کے ساتھ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ بھی کرتا ہے تو اس طرح قتل اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ پیسے قرآن شریف میں بھی ہے۔ اخراجاً والذکرین بخاری ص ۳۳۰ (۳۳۰) اور صحیح زکریا کے صحیحی و صحیحی نوٹ

۱

اس شخص کی ٹوٹ مٹا ہے اور میں گد پکلی ہے

۱

كُنْتُ مَعَهَا فَخَرَجَ بَيْنَ آيِدَيْنَا فَاذْأَخْنُ بِهِ يَلْتَضِحُّ فِي الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

بَاتِينَ كِي پھر ہم سے اور میان سے اٹھا اور ہم نے اسے اچھک دیکھا کہ خون میں تر ہے رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَ تَطْتُونَ أَوْ تَوْنٌ قَتَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ

نکلے اور فرمایا کہ جس کے متعلق تم را خیال ہے کہ اسے قتل کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ یہودیوں نے

فَارْسَلْنَا إِلَى الْيَهُودِ فَمَدَّعَاهُمْ فَقَالَ أَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا قَالُوا أَلَا قَالِ اقْرَضُونَ نَقْلُ

اسے قتل کیا ہے آپ یہودیوں کی طرف آوی بیجک نہیں بلایا اور فرمایا کیا تم نے اسے قتل کیا انہوں نے کہا نہیں آپ نے کیا کیا تم اس بات

تَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلْتُمْ فَقَالُوا مَا يَا لَوْنٍ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ

پر را مئی ہو کہ پچاس یہودی قسم کھا میں کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا انہوں نے عرض کیا وہ تو پورا کر کے کہ ہم سب کو قتل کریں پھر نہیں کھالیں

قَالَ أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ هَذَا قَالُوا مَا كُنَّا لَنُخْلِيفَ فُودَاهُ مِنْ

فرمایا کیا تم اپنے میں سے پچاس از ہیوں کی قسموں سے دیت کے حقدار بنا چاہتے ہو انہوں نے عرض کیا ہم تو قسم نہیں کھا کئے تم آپ نے

عِنْدِي قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ لِي خَلْعًا خَلِعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرِقَ أَهْلَ بَيْتِ

اس کی دیت اپنے پاس سے اور میں نے کہا زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ہزہ میں سے ایک شخص کو خارج کر دیا تو وہ رات کے وقت

مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَاثْبَتَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَذَفَرْنَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فِجَاءً نَتْ

یمن والوں کے ایک گھرانے میں بھاڑ دیکر میں گھس آیا تو ان میں سے ایک شخص اس کے لئے بیمار بنوا اور اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے

هَذِيلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْمُؤَسَّبِ وَقَالُوا قَتَلْنَا صَاحِبَنَا فَقَالَ

قتل کیا تو ہزہ میں سے امیر یہی کو کھڑا لیا اور موسم یعنی لام رجب میں اسے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ ہفت

أَنْتُمْ قَدْ خَلَعْتُمْ فَقَالَ يُقْسِمُ مَسْمُونٌ مِنْ هَذِيلٍ مَا خَلَعُوهُ قَالَ فَاقْتَسَمَ مِنْهُمْ سَعَةً

کر دیا ہے اس نے ماکہ انہوں نے اسے خارج کر دیا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا ہزہ میں سے پچاس آدمی قسم کھا میں کہ انہوں نے اسے خارج نہیں کیا تو

وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا وَقَرَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّكِّ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَأَقْتَدَى بِمِثْلِهِ مِنْهُمْ

ان میں سے پچاس آدمیوں نے قسم کھائی اور میں نے ایک شخص شام سے آیا تو اس سے مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے تو اس نے اپنی قسم کے بدلے ہزہ

بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ فَادْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعُوا إِلَيَّ أَخِي الْمَقْتُولِ فَقَرَّتْ يَدَا بَيْتِهِ

درہم دے دیئے اور انہوں نے اس کے بدلے دوسرا آدمی رکھا تو حضرت عمر نے اسے مقتول کے بھائی کے حوالہ کر دیا اور اس کا ہاتھ اس کے

قَالُوا فَأَنْطَلَقُوا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا أَحَقُّ إِذَا كَانُوا بِخَلْعَةٍ أَخَذُوا مِنَ السَّمَاءِ

باتھ میں نیدر گیا انہوں کی ہر روانہ ہوئے اور وہ پچاس آدمی ہزہ میں نے قسم کھائی بیان تک کہ جب وہ وقاص پہنچے تو بارش نے نہیں

فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَأَتَتْهُمْ الْغَارِ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَا تَوَابَعُوا

آیا وہ ایک غار میں داخل ہوئے جو پہاڑ میں تھا اور پہاڑ ان پچاس آدمیوں پر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ سب مر گئے اور دونوں

وَأَفَلَّتِ الْغُرَبَانِ اتَّبَعَهُمَا حَجْرٌ فَسَوَّرَ رَجُلٌ آخَرَ الْمَقْتُولِ فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ

ساتھ رہی راقاں اور مقتول کا بھائی بھاگے اور ان کے پیچھے ایک پتھر آیا اور مقتول کے بھائی کا پاؤں توڑ دیا وہ کھیل زندہ رہا پھر میں اس کا

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَقَادَرًا رَجُلًا بِالنِّسَابَةِ ثُمَّ نَبِيٌّ مِنْ مَصْنَعٍ فَأَمَرَ

ہوں عبد الملک بن مروان نے ایک شخص سے قسامت کے طور پر قصاص لیا پھر یہ کرنے کے بعد چھٹا یا اور ان پچاس آدمیوں کے متعلق حکم

بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَحَا عَنْ الدِّيَارِ سَبْعَةَ أَلْفٍ إِلَى الشَّامِ (۳۳۳) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اظْهَرْنَا فِي

دیا جنہوں نے قسم کھائی تھی تو ان کا نام دفتر سے کاٹا گیا اور انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا ہاتھ جو کسی کے گورنر میں بھاگے

بَدَيْتُ قَوْمًا فَفَقَعُوا عَيْنَهُ فَارَادِيَةٌ لَهُ (۳۹۵) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۲۵)

اور وہ اسکی آنکھ پھوڑا لیں تو اسکی کوئی دہشت نہیں دیکھو یہ حد ۲۲۵

۱ اور وہ اسکی آنکھ پھوڑا لیں تو اسکی کوئی دہشت نہیں

کافی انظر الیہ
کو چھوڑ کر باقی
نقد وہی ہیں۔
دیکھو نوٹ مثل
صلی اللہ علیہ وسلم
تو مثل صلی اللہ علیہ وسلم

(۵-۳۹۵۲) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرم-۲۱۹۴) (۳۳۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

دیکھو حدیث ۲۱۹۴

أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ امْرَأًا أَطْلَعَكَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَتْهُ

ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اجازت طلب کئے بغیر میری اجازت دیکھیں بھاگے اور تو اسکی

بخصوصاً فقہات عینہ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (۳۳۸۹) بَابُ الْمَرْأَةِ (م-۳۹۵۳) عَنْ

حدیث نکہ صحت اور اس کی کتب پھر سے ترجمہ نہ کوئی جرم نہیں

أَبِي جُرَيْجَةَ (متکرم-۲۱۹۴) (۲۵۸۹۴) بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ (م-۳۹۵۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

دیکھو حدیث ۲۱۹۴

(متکرم-۲۱۹۴) (۳۳۹۰) بَابُ الْمَرْأَةِ بِنِ شَعْبَةَ عَنْ مَرْوَةَ عَنْ مَرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا اسْتَشَارَتْ

دیکھو حدیث ۲۱۹۴

فِي امْلَاحِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُبْرَزِيُّ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عِدَّةً

معلق مشورہ لیا جو عورت کے پیش میں ہو تو مہینہ روئے گا

أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ لَهَا مِنْ مَسْلَمَةٍ أَنَّهَا شَهِدَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ

نزدی تو محمد بن مسلم نے شہادت دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کے گواہ ہیں

(م-۳۹۵۵) عَنْ حُرَّةَ (متکرم-۲۱۹۴) (۳۳۹۰) عَنْ حُرَّةَ (متکرم-۲۱۹۴) (۳۳۹۰)

دیکھو حدیث ۲۱۹۴

(۲۶) بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصِيَّةُ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَالِدِ

باب عورت کے پیش میں بچہ کے متعلق اور کہ عورت کے والد اور اس کے عصبیہ ہے نہ اس کے والد پر

(م-۳۹۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۲۱۹۴) (۳۹۵۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرم-۲۱۹۴)

دیکھو حدیث ۲۱۹۴

(۲۶) بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا وَبِذِكْرِ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ بَعَثَتْ إِلَى

باب جو غلام یا بچے کے دوسرے سے اور بیان کیا جاتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی کی خدمت میں اس کے

۱۔ قریباً نہیں
۲۔ الفاظ میں حدیث
۳۔ تو زور دیا ہے
۴۔ عاقلہ عاقل
۵۔ کی جمع ہے اور
عقل روکنے کے
۶۔ معنی میں آتا ہے
اور اوٹ کے
۷۔ ہاندھنے کو بھی کہا
جاتا ہے تویت
۸۔ کو عقل یا قواس
لگانے سے کہا گیا
۹۔ ہے کہ اس کی وجہ
سے متعلق کن کن
۱۰۔ قاتل کو مارنے
سے رک جاتے
۱۱۔ تھے اور یا اس
خانہ سے کہ عورت
کے اوٹ متعلق
۱۲۔ کہ وہی کے من
۱۳۔ میں ہاندھنیے
جاتے تھے
۱۴۔ لکھیاں لفظ
۱۵۔ میں ہیں۔ قالہ
۱۶۔ سالت علیا ہل
عند کو شئی ما
۱۷۔ نہیں فی القرآن

وقال مرة قالين عند الناس فقال والذي فلق الحنب وبرأ انفسه ما عندنا الا ما في القرآن الا انها يعطى رجل في كتابه وما في الصحيحه قلت وما في الصحيحه قال العقل وتكاث الاسير وان لا يقتل مسلم بكاف ويكفر نوث ۳ صفحہ ۴۴۴ مکرر روایت بہت اختصار سے آتی ہے۔ لفظوں میں۔ ان امراتین من ہذا یل دمت احد اھما الا خاری فطرح جنینھا تقضی رسول اللہ صلعم قہا بغیرۃ عبد او امہ ۳۳۳ بیان لفظوں میں۔ ان عمرشہد الناس من معہ الخیہ صلعم قضی فی السقط وقال المبرز انما سمعہ تقضی فیہ بغیرۃ عبد انامہ قال انت من یشہد معك علی هذا فقال محمد بن مسلمة انا اشہد علی الخیہ صلعم بعقل هذا ۳۳۳ اس کے لفظوں میں۔ انہ سمع المبرزۃ بن شعبۃ یحدث عن عمرانہ استشارہم فی املااح المرأۃ مثلہ ۳۳۳ یہ مکرر روایت کچھ کی بیش کے ساتھ آتی ہے۔ ان رسول اللہ صلعم قضی فی جنین امرأۃ من بنی لحيان بغیرۃ عبد او امہ ثم ان المرأۃ التي تقضی علیہا بالغیرۃ وقت فقضی رسول اللہ صلعم ان میرا شہا لبینھا وزوجھا وان العقل علی عصبیتھا ۳۳۳ یہ روایت بھی قد کے مختلف ہے۔ قال فتنتلت امرأۃ فان من ہذا یل فومت احد اھما الا خاری یحجر قتلھا وما فی بطنھا فاختصم الی الخیہ صلعم فقضی ان دیۃ جنینھا غرۃ عبد او ولیۃ وقضی دیۃ المرأۃ علی عاقلہا ۳۳۳ اس باب کا دیت کی کتاب سے تعلق یوں سمجھا گیا ہے کہ کسی کام پر کسی کو نگانے سے ہلاکت کا خطرہ ہے اور اس صورت میں دیت لازم ہوگی۔ استخوان کی بجائے بعض روایتوں میں استعوان بھی ہے یعنی عاریتاً کسی سے۔ غلام اور بچے کی تخصیص اس سے کن کہ اول الذکر جو بچہ ہو کہ جس کے اور دوسرا بچہ نابالغ ہو نیکی کی دوسرے کے تصرف میں ہوتا اور اوٹ میں اس کے تعلق میں ہے کہ ام سلمہ نے نبی کی خدمت میں اس کے ذرا کو نہ بھیجا

مُعَلِّمِ الْكِتَابِ ابْعَثْ اِلَيْ عَلَمًا يَتَّقُ شُونَ صَوًّا وَلَا تَبْتَثْ اِلَى حُرًّا (م-۱۳۹۵)

دست دو کتا بھیجا کہ میرے پاس لڑکوں کو بھیج دو کہ ان کو دیکھیں اور آزاد کو نہ بھیجیں

عَنْ اَبِي سُرَيْبَةَ (م-۱۳۹۶) (۲۸) بَابُ الْمَعْدِنِ جَبَّارٌ وَالْبُدَّ جَبَّارٌ (م-۱۳۹۷)

دیکھو حدیث ۱۳۹۶ جبار کا کوئی نانا اور ان میں اور کوئی نانا اور ان میں سے

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۳۹۸) (۲۹) بَابُ الْجَمَاءِ جَبَّارٌ وَقَالَ ابْنُ سَلِيمٍ

دیکھو حدیث ۱۳۹۸ جبار کا کوئی نانا اور ان میں اور ان میں سے

كَأَنَّهُمْ لَا يُضَمُّونَ مِنَ التَّفْحِيَةِ وَيُضَمُّونَ مِنَ زِيَادِ الْعِنَانِ وَقَالَ سَمَاءُ بْنُ زَيْدٍ

کہ وہ جبار بنانے کے لئے ماننے کا تاوان نہ دلاتے تھے اور تکلم کے پھیرنے کا تاوان دلاتے تھے اور اس وقت جاؤ کہ بعض لفظان پہنچے اور

التَّفْحِيَةُ اَلَا اَنْ يَنْخَسَ اِنْسَانُ الدَّرَابَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ مَعْقِلٍ تَضَمُّنٌ مَا عَاقَبْتَ اَنْ

جانے کلمات ماننے کا تاوان نہیں سوائے ان کے کہ کوئی آدمی چاہے کہ وہ پھیرنے سے اور شرح سے کہ کوئی تاوان نہیں مگر جبار بنانے کو ماننے تو وہ اس

يَضْرِبُ بِهَا فَتَضْرِبُ بِرَجُلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَسَمَاءُ اِذَا سَأَلَ الْمَكَارِي سَمَاءُ اَعْلَى امْرَأَةٍ

کے ہرے لپٹے پاؤں سے ماننے اور جانے مانا کہ اگر کیا کہ نہ مانا کہ سے کہانے جس بہ عورت سوار ہو وہ

فَتَجْعَلُهَا لِيَّ عَلَيَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ اِذَا سَأَلَ دَابَّةً فَاَنْتَبِهَا فَهِيَ ضَامِنٌ لِمَا اَدْنَى

گڑھے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے اور شعبی نے کہا جب چارہ پائے کہ پائے اور اسے تنگ کرے تو اس کا تاوان دیکھو حدیث ۱۳۹۷

وَرَانٌ كَانَ خَلْفَهَا مَاتَ سِدْرًا لَمْ يَضْمَنْ (م-۱۳۹۸) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۳۹۹)

اور اگر اس کے پیچھے آدم سے چلا ہو تو کوئی تاوان نہیں ہے دیکھو حدیث ۱۳۹۸

۳۰) بَابُ اِذَا مَاتَ مَن قَتَلَ ذِمِّيًّا بَعْدَ حُرْمٍ (م-۱۳۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

بابت اس کا گناہ جو مذہبی جو م کے قتل کرے

(م-۱۴۰۰) (۳۱) بَابُ اَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ (م-۱۴۰۱) عَنْ اَبِي

دیکھو حدیث ۱۴۰۰ جبار کا کوئی نانا اور ان میں اور ان میں سے

حَجْرَةَ (م-۱۴۰۲) (۳۲) بَابُ اِذَا ظَمَّ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا سَبَّ الْقَضِي

دیکھو حدیث ۱۴۰۲ جبار کا کوئی نانا اور ان میں اور ان میں سے

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِي سَلِيمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م-۱۴۰۳) عَنْ اَبِي سَعِيدٍ

اسے ابو ہریرہ نے بنی علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے

(م-۱۴۰۴) (۳۳) بَابُ اِذَا سَبَّ اَبِي سَعِيدٍ (م-۱۴۰۵) (م-۱۴۰۶)

دیکھو حدیث ۱۴۰۴ جبار کا کوئی نانا اور ان میں اور ان میں سے

عظما جبار ہے باقی لفظ وہی ہیں یعنی اس کی دیت کچھ نہیں ہے مگر وہی لفظ میں معاذ کہ قتل کرنا یا جنت کی خوشی سے بھی محروم رہے گا

۱۳۹۵ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۳۹۶ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۳۹۷ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۳۹۸ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۳۹۹ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۰ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۱ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۲ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۳ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۴ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۵ کے الفاظ میں اور جبار ہے
۱۴۰۶ کے الفاظ میں اور جبار ہے

(۳) بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِ وَالْمُرْتَدَةِ وَقَالَ بَنُ حَمْرٍ وَ الزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ نَقَلُوا مَرْتَدًا

باب مرتد مرد اور عورت کا حکم ملے اور ابن عمر اور زہری اور ابراہیم نے کہا مرتدہ عورت کو قتل کیا جائے گا ملے

وَأَسْتَبْتَابَتْهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ

اور ان سے توبہ کا مطالبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نکرا سکتا ایسی قوم کو راہ راست پر چلائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور

شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَأُولَئِكَ

انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا ان لوگوں کی

جَزَاءُ لَهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

سزا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اسی میں رہیں گے اور وہ ان سے

عَذَابُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ

عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی توبہ اللہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَهُمْ

بیشک مجھے والا لہر مان ہے وہ لوگ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی

وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطْيِيسَهُمْ أَرْغَامًا لِلَّذِينَ

اور وہی گمراہ ہیں نال عمران ۱۸۹ تا ۱۸۵ اور فرمایا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرتے

أُوذُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ

جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ نہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر لوٹا دینگے نال عمران ۷۹ اور فرمایا وہ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر

آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا وَقَالَ

ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں سستے پر چلائے گا نال النساء ۱۱۳ اور فرمایا

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى

جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوگا تو عنقریب اللہ ایک قوم لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَقَالَ وَلَكِنْ مِنْ شَرِّ مَا بَلَغْتُ مِنْ أَفْئِدَةٍ إِهْمِمْ

مومنوں کے سامنے نرم اور کافروں کے مقابلہ پر غالب والا مادہ ۵۴ اور فرمایا لیکن وہ جس کا سینہ کفر پر کھل جائے تو ان پر شرکی طرف

غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْفِتْيَانِ الَّذِينَ آمَنُوا

سے غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَنَسِيَ اللَّهُ

اور کہ اللہ کافر قوم کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا یہی وہ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر

وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جرم يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْغَافِلُونَ

اور انکی آنکھوں پر اللہ نے گھڑ دی اور یہی غافل ہیں دائمی ۱۰۶-۱۱۸ لا جرم جو فرماتا ہے امر واقع ہو کر وہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے

إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُلْقُونَكَ مِنَ الْأَشْرِكِ

اللہ کے قول تم ان رہتے ہو لیکن پھر تمہارا رب اسکے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دائمی ۱۰۹-۱۱۱ اور فرمایا وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے بیان تک

ملے مرتد کے حکم کے بارے میں کتاب الحارین من اهل الكفر والردة میں بحث گذر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کے عنوان میں ہی یہ بتا دیا کہ قابل سزا وہ مرتد ہیں جو عمارتیں میں سے ہوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں اور آیات قرآنی جس قدر اس باب میں لائے ہیں ان میں سے کسی میں بھی مرتد کے منہ لے کر قتل کا ذکر نہیں۔ بلکہ مرتد ان کیلئے منہ لے کر آخرت کا ذکر ہے اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری سزا ہے۔

ملے مرتد کے حکم کے بارے میں کتاب الحارین من اهل الكفر والردة میں بحث گذر چکی ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کے عنوان میں ہی یہ بتا دیا کہ قابل سزا وہ مرتد ہیں جو عمارتیں میں سے ہوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں اور آیات قرآنی جس قدر اس باب میں لائے ہیں ان میں سے کسی میں بھی مرتد کے منہ لے کر قتل کا ذکر نہیں۔ بلکہ مرتد ان کیلئے منہ لے کر آخرت کا ذکر ہے اور ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری سزا ہے۔

ملے اس کے خلاف آیات بھی موجود ہیں کہ مرتد عورت قتل نہ کی جائے اور اصولاً بھی چونکہ مرتد کو صرف اسی حالت میں قتل کیا جاتا ہے جب وہ عمارتیں میں سے ہو یعنی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے۔ کسی کو ڈاکو وغیرہ مار کر قتل کرے۔ اور عورتیں چونکہ عموماً جنگ نہیں کرتیں اس لئے وہ قتل کے حکم سے بھی بچی رہتی ہیں۔ شاہد بن اثمر نے مرتد کا قتل جائز سمجھا ہے ان کی مراد بھی ایسی مرتد عورتیں ہی ہوں جو قتل کریں یا دشمن کے ساتھ جائیں +

عَنْ دِينَكَرَانَ اسْتَطَاعُوا مِنْ يَدَيْهِ دِينَكَرَانَ دِينَكَرَانَ وَهُوَ كَانَتْ

کہو گئے تھے دین کران سے اپنے دین سے مراد ہو جائے پھر نہ مر جائے درانجا کہ وہ کافر ہی ہے

وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

تو ایسے لوگوں کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں رہیں گے

خَالِدُونَ (م- ۳۹۶۹) عَنْ عِكْرِمَةَ (م- ۱۳۷۸) (م- ۳۹۷۰) عَنْ أَبِي

دالبقرہ - ۲۱۷) دیکھو حدیث ۱۳۷۸

مُوسَى (م- ۱۱۰۰) (۳) بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبِي قَبِيلٍ لِعُرَائِضٍ وَاسْتِئْذَانِ إِلَى الرِّجْمِ

دیکھو حدیث ۱۱۰۰) باب ان کا قتل کرنا جو رائفن کے قبول کرنے سے انکار کریں اور ان کا ارتداد کی طرف منسوب کرنا ۱۱۰۰

عربیوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین سے مراد ہو جائے پھر نہ مر جائے درانجا کہ وہ کافر ہی ہے اور یہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں رہیں گے اور یہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں رہیں گے اور یہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں رہیں گے

من بدل دینہ فاقلوہ۔ اس پر کچھ بحث نیٹ ملاحظہ فرمائیے ۶۹ میں گذر چکی ہے۔ مگر یہاں یہ تصریح ہے کہ یہ لوگ زندیق تھے۔ زندیق کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ جو شخص درپردہ کافر اور بظاہر مسلمان ہو جیسے منافق، مہر جس کا کوئی مذہب نہیں اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کا منکر ہے۔ ثنویہ کی ایک قوم جو دوزخوں کی قاتل تھی، مگر اس کی صحیح تشریح یہ معلوم ہوتی ہے کہ زندیق زند کا پیر ہے۔ اور یہ مزدک کی کتاب ہے جس کی تعلیم بھی کہ عورتیں اور جاہل مذہب لوگوں کی مشترک ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بات کو تسلیم کر کے کہ جاہل مذہب لوگوں کی عصمت اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی اس قسم کے افعال اس وقت سرزد ہوتے جن کی وجہ سے حضرت علی نے ان کو ایسی سخت سزا دی۔ ورنہ حضرت علی کے ماتحت آتش پرست بھی تھے اور عیسائی بھی اور بت پرست بھی۔ مذہبی عقائد کی بنا پر حضرت علی سے ایسی سزاؤں کا دین ثابت نہیں۔ باقی رہا یہ کہ حضرت علی نے ان کو جلوا یا تو طبری کی روایت عینی میں منقول ہے کہ حضرت علی نے ان کو قتل کر کے ایک گڑھے میں ڈلوادیا۔ اور پھر ان پر کلڑیاں جم کر کے ان کو آگ لگا دی۔ اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے اسکی وجہ یہ ہو کہ یہ زندیق مردوں کے دفن کرنے کے بجائے ان کے جلانے کے قائل ہوں اور اسی وجہ پر حضرت علی نے ان کی لاشوں کو جلوا یا ہو۔ اور حضرت ابن عباس کا یہ کہنا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلانا اور نہ عرف قتل کرتا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ حضرت علی نے انیس زندہ جلوا یا بنا کر منشا عرف یہ ہے کہ انکی لاشوں کو جلانا نہ چاہئے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لہذا یقیناً بعد اب اللہ۔ انہیں جو یہ نفاق آئے ہیں من بدل دینہ فاقلوہ تو ان الفاظ کو اپنی عیوب پر حمل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس عقیدے میں ہر ایک بن کو تبدیل کرنے والا قتل کیا جائے گا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ مثلاً ایک یہودی عیسائی ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اسے بھی قتل کرنا چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ منشا ان الفاظ کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر من بدل سے مراد صرف مسلمان لیا جائے یعنی جو مسلمان اپنا دین تبدیل کرے تو اسے قتل کیا جائے تو یہ اصل قرآنی آیت (الکواہ فی الدین کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح من شاذ علیہ من شاذ فکفر کے خلاف ہے۔ قرآن شریف نہ صرف مرند کیلئے سزا کوئی تجویز نہیں کرتا بلکہ ہر شخص کو اختیار دیتا ہے کہ جس میں وہ چاہے ہے۔ اسلئے لازماً ان الفاظ حدیث کے وہ معنی کرنے پڑینگے جو اصل قرآنی کے خلاف نہ ہوں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ جگت کے وقت کا ہے۔ جنگ کے وقت جو شخص اپنے مذہب کو تبدیل کرے گا لازماً اپنی جماعت سے بھی الگ ہو جائے گا۔ ایسا تبدیل مذہب کرنے والا صرف اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرتا بلکہ دشمن کی جماعت کے ساتھ جاملتا ہے۔ امام بخاری نے انھار میں من اهل الکفر والودعہ کو اٹھا کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے یعنی اہل تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر لے کر فریب تھے مگر جو شخص مرتد ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ جانے گا۔ اور اس لئے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا پڑے گا جو ان کے ساتھ تھا۔ یہاں ابتدائی حدیثیں سننا کے ضمنوں کو کچھ پیشی کے ساتھ بیان کر کے اس پر ۱۸۲۳ کے ضمنوں کا ایک حصہ بڑھا یا ہے۔ لفظ یوں ہیں من قال اقبلت الی انبیہ صلعم وھی رحلوان من الا شعریہن احدھما عن یحییٰ واکلفھن مسادی ورسول اللہ صلعم یستاک فکلاھما سال فقال یا ابانحوا او یا عبد اللہ بن قیس قال قلت والذی بعثت ما اطلعانی علی ما فی انفسھما وما شعرت انھما یضیان العمل فکانی انظر الی سوالھ تحت شقہ قلصت فقال لن اولنا نستعمل علی علمنا من اولادہ وعلنا کا ضمنوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اذھب انت یا اباموسیٰ او یا عبد اللہ بن قیس الی المن ثم اتبعہ معاذ بن جبل فلما اقام علیہ الفلہ وسادۃ قال انزل واذا وجل عندک مروق قال ما هذا قال کان یہودیاً فاسلم ثم تھود قال اجلس قال لا اجلس حتی یقتل قطعاً اللہ ورسولہ ثلاث مرات فامرہ فقتل ثم انزل فاقام اللیل فقال احدھما اما انا فاقوم وانا م وادجونی یومی ما ادجونی قومتی۔ پچھلے حصے میں جس شخص کا ذکر ہے اس کے متعلق یہاں صرف اسی قدر ہے کہ وہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا تو اب وہ یہودی نہیں بچھے جت کہ اسے قتل نہیں کیا گیا۔ اگر اس پر لازم صرف اسی قدر تھا تو یہ قتل کی کوئی وجہ نہیں۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ یہودی انحضرت صلعم کے سامنے یہ منسوب کیا کرتے تھے کہ پیسے مسلمان ہو جائیں پھر انکار کریں تا دوسرے مسلمانوں پر برا اثر پڑے۔ انھما بالذی انزل علی الذین اھتوا وجھ النھار واغفروا اخرہ دعائھم یہودن انھما۔ اگر مرند واجب القتل ہوتا تو اس قسم کا منسوب ہونا ممکن تھا۔ علاوہ ازیں جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا قرآن شریف میں نہ صرف کہیں مرتد کی سزا قتل نہیں بلکہ اصول یہ قائم کیا ہے کہ ان کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں۔ اور یہی کریم صلعم کے سامنے لوگ مسلمان ہو کر مرتد ہوتے ہے آپے کسی کو قتل نہیں کیا سولے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو۔ دیکھو حدیث ۹۵۳ جہاں عاف ذکر ہے کہ ایسا عافی رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر بیعت کی اگلے دن بخاریں مبتلا ہو گیا (باقی صفحہ ۱۵۰)

تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ وَكَانَ

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ ٹھہرانے کے بعد کہ انکو ہدایت کرے یہاں تک کہ وہ ان کے لئے تقویٰ کی راہیں کھول کر بیان فرمائے

ابن عمرؓ یرأهم شيء اخرج الله وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار

چہ (۸) اور ابن عمرؓ کو اللہ کی تمام مخلوق سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اہل اور کہا کہ وہ ان آیتوں کی طرف چلے جو کافروں کے حق میں اتاریں

تجملوها على المؤمنين (م- ۳۹۷۷) عن علي (متكرر- ۱۷۱۵) (م- ۳۹۷۷) عن ابي

اور انہیں مومنوں پر چسپان کیا

سلمة وعطاء بن يسار (متكرر- ۱۷۱۴) (۲۳۹۱) عن عبد الله بن عمرو ذكر الحوروية

وکیچھو حدیث ۱۷۱۴۲۳ عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے اور انہوں نے حورویہ

فقال قال لبيء صلى الله عليه وسلم يمزقون من الاسلام مروق السهم من

کا ذکر کیا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہاں سے ہوتا ہوتا

الرهمية (ب) باب من ترك قتال الخوارج للثأف وان لا ينفر الناس عنه

نکل جاتا ہے باب جو خوارج سے نہ ڈرتے تاہفت قلوب کی خاطر اور اسلئے کہ لوگ اس سے بھاگ نہ جائیں

(م- ۳۹۷۹) عن ابي سعيد (متكرر- ۱۷۱۴) (۲۳۹۱) عن ابي

وکیچھو حدیث ۱۷۱۴۲۳ سیر بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے

قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج

سہل بن حنیف کو کہا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نکل جانے کے متعلق کچھ فرمایا

شيئا قال سمعته يقول واھوى بيده قبل لعراق يخرج منه قوم يقرؤن

ہو کہ میں نے سنا آپ فرماتے تھے اور اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا یہاں سے وہ لوگ نکلیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے

القران لا يجاوزوا قرانهم يمزقون من الاسلام مروق السهم من الرهمية

وہ ان کی ہتھیلیوں سے کچھ نہیں اترے گا اسلام سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جو تیر نشانہاں کے پازر نکل جاتا ہے

(۸) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو گروہ باہم جنگ

فتنان دعوتهما و احدا (م- ۳۹۸۱) عن ابي هريرة (متكرر- ۱۷۱۳)

کریں دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا وکیچھو حدیث ۱۷۱۳۲۳

سے۔ یہاں ابوسلمہ اور عطاء بن یسار ابوسعید سے روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بہت مختصر ہے۔ انھما اتيا ابا سعيد الخدري فسألاه عن الحوروية

اسمعت النبي صلعم قال لا اودى ما الحوروية سمعت النبي صلعم يقول يخرج في هذه الامة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاحكم صلواتهم بقرؤن

۱- یعنی اس زمانہ کے بدترین لوگ تھے جن سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا۔ اس لئے کہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی صورت عقائد کی بنا پر جنگ کرتے تھے چنانچہ خوارج نے حضرت علی کے ساتھ جو جنگ کی تو عرف اس وجہ سے کہ آپ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کافر نہیں کیوں قرار نہیں دیتے۔ اہل قرینا انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا جو بعض بحث کے لئے وکیچھو نوٹ ملتا ہے صفحہ ۸۳ نوٹ ۱ تا ۱۳ صفحہ ۸۴ ۱۷۱۴ خود حضرت ابوسعید خدری کی روایت

سے۔ یہاں ابوسلمہ اور عطاء بن یسار ابوسعید سے روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بہت مختصر ہے۔ انھما اتيا ابا سعيد الخدري فسألاه عن الحوروية اسمعت النبي صلعم قال لا اودى ما الحوروية سمعت النبي صلعم يقول يخرج في هذه الامة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاحكم صلواتهم بقرؤن القرآن لا يجاوزوا قرانهم يمزقون من الاسلام مروق السهم من الرهمية (ب) باب من ترك قتال الخوارج للثأف وان لا ينفر الناس عنه (م- ۳۹۷۹) عن ابي سعيد (متكرر- ۱۷۱۴) (۲۳۹۱) عن ابي قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته يقول واھوى بيده قبل لعراق يخرج منه قوم يقرؤن القرآن لا يجاوزوا قرانهم يمزقون من الاسلام مروق السهم من الرهمية (۸) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل فتنان دعوتهما و احدا (م- ۳۹۸۱) عن ابي هريرة (متكرر- ۱۷۱۳) کریں دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا وکیچھو حدیث ۱۷۱۳۲۳

(۱۹) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَاثُلِ (م- ۳۹۸۲) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (م- ۱۱۵۸)

بارہل جوتاویل کرنے والوں کے بارہ میں آیا ہے

(م- ۳۹۸۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۲۹) (م- ۳۹۸۴) عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ (م- ۲۹۸۰) (م- ۳۹۸۵) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م- ۱۳۷۴)

دیکھو حدیث ۲۹

دیکھو حدیث ۲۹۸

دیکھو حدیث ۱۳۷۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کر فرمائے گئے نام سے

۹۰۔ کتاب الاکراہ

۹۰۔ مجبور کیا جانے کے احکام

(۱) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا مَنَ أَمْرًا وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَكِن مِّن شَوْحٍ

بَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِ مگر مجبور کیا جانے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو البتہ جس کا سینہ

یعنی ایک شخص کا قول بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوتا ہو مگر وہ اس کی تاویل کر کے اسے شریعت کے مطابق ٹھہراتا ہو یعنی میں ہے کہ علماء میں اس باب سے کوئی اختلاف نہیں یعنی سب علماء اس پر متفق ہیں کہ تاویل کرنے والا اپنی تاویل کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی علامت نہیں

کی جائے گی جب اس کی تاویل زبان عربی کے محاورہ کے مطابق ہو یا اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہو۔ مسئلہ اول سے زیادہ مفصل ہے اور اس کے لفظ قریباً وہی ہیں جو ۲۵۵۲ کے ہیں۔ حدیث میں کسی تاویل کا ذکر نہیں مگر امام بخاری نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر نے ہشام کی تکذیب کی تو گو رسول اللہ صلعم نے ہشام کو بھی حق پر ٹھہرایا مگر حضرت عمر پر کوئی گرفت نہیں کی کیونکہ حضرت عمر کے پاس ہشام کی قرأت کے انکار میں یہ دلیل تھی کہ رسول اللہ صلعم نے ہی انہیں بھی وہ صورت پڑھانی تھی مگر اس میں کوئی قرأت ایسی تھی جس کا علم حضرت عمر کو نہ تھا۔ مسئلہ ثانی سے زیادہ تفصیل ہے لفظ قریباً قریباً ۲۳۹۶ کے ہیں قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبي صلعم قالوا اينالهم يظلم نفسه فقال رسول الله صلعم ليس كما تظنون انما هو كما قال لقمان لا بد يا بني لا تتفكر بالله ان الشريك يظلم عظيم صحابہ نے آیت کے سمنے اور طرح پر تجھے مگر اس غلطی کی وجہ سے قابل مواخذہ نہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلط تاویل کرنے والے پر بھی گرفت کوئی نہیں۔ مسئلہ ثانی سے یہاں اس کا آخری حصہ مختصراً بیان کیا ہے۔ غدا على رسول الله صلعم قال رجل من اهل حشون فقال رجل منا ذلك منافق لا يجمل الله ورسوله فقال النبي صلعم الا تقوله بقول لا الذالك الله يبيته بذك وجه الله قال بلى قال فانه لا يوافي عبد يوم القيامة به الا حرم الله عليه النار رجوا كوني قيامت کے دن لا ان الذالك الله کو بیکر کے گا اللہ اس پر آگ کو حرام کرے گا، یہ تکفیر کے شدید ایوں پر امکا و ضرب کاری ہے۔ رسول اللہ صلعم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لئے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے لے منافق نہ کہو اور اگر وہ اللہ کی رضا کو نظر رکھتا ہے تو آگ اس پر حرام ہوگئی لیکن بہر حال کلمہ کے قائل کو کافر یا منافق کہنے سے اپنے روکا جاوے۔ مگر روایت کسی قدر کی بیٹی کے ساتھ آئی ہے۔ یہاں ابو عبد الرحمن کے الفاظ سے استراہوتی ہے۔ بتنازع ابو عبد الرحمن حبان بن عطية فقال ابو عبد الرحمن لحبان لقد علمت الذي جزأ صاحبك على الدمار يعني عليا قال ما هو لا ابا لك قال شئ سمعته يقول قال ما هو انك بعد عشتك ۱۳۹۶ کا مضمون شریع ہوتا ہے) قال یعنی رسول اللہ صلعم والذیر و ابا مرثد رواہ ابن اسلمی جگہ مقداد بن الاسود ہے) وكننا فارس قال انطلقنا من تاور ارضة خارجة قال ابو سلمة هكذا قال ابو عوانة حابر فان فيها امرأة معها صحيفة من صاحب بن ابي بلتعنة الى مشركين فأتوني بها فانطلقت اهلنا فمناحنا افرسانا حتى اذناها حيث قال لنا رسول الله صلعم تسير على بعيرها وكان كتب الى اهل مكة بمسير رسول الله صلعم اليهم فقلنا ان الكتاب الذي معك قالت ما هي كتاب فانحننا بها بعيرها فاستغفرتنا رحلها فمنا وجدنا شيئا فقال صاحبنا منى صحبنا كتابا قال فقلنا لقد علمنا ما كان يد رسول الله صلعم ثم حلفت على ان لا نرى مخالفت به لئن نحن الكفاب ولا جرم ذك فاهوت الى سخنها وهي تحت جرة يسا و فمنا خرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلعم فقال عمر يا رسول الله قد خاف الله ورسوله والمؤمنين وعني فاضرب عنقه فقال رسول الله صلعم يا احاطب ما مسمك على ما صنعت قال يا رسول الله مالي ان لا اكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني اردت ان يكون لي عند القوم بياقهم باعنا اهل و مالنا وليس من ايمانك احد الا له هنالك من قومك من يدع الله ببعن اهل و ماله قال صدق لا تقولا له الا خير قال فلما عمر فقال يا رسول الله قد خاف الله ورسوله والمؤمنين وعني فاضرب عنقه قال اوليس من اهل بدر ومالنا ذك لعول الله اطعم حلهم فقال لعول اما شذمة فحق اوجبت لك الجنة فاغر وقت عيناه (حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے) فقال الله ورسوله اعلم بظاہر جارتک فعل اسلام کبھی عزوت کا

۹۰۔ مگر چونکہ اس نیت تک بھی بعضی صورت اپنا چاؤ مشفقو تھا، انہوں نے اپنے فعل کی جوتابلی کی اسے رسول اللہ صلعم نے قبول فرمایا۔ کاش مسلمان رسول صلعم کی فرمائش کی ان دونوں کو کبھی سب سے نہیں

بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَالَ إِنْ تَقِوا

کفر پر کھل جائے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے (تھل ۱۰۰) اور فرمایا سوائے ان کے کہ ان کے سے کسی

ہنہم تقاة وھی تقیة و قال ان الذین تو فاهم الملائکة ظالمی انفسهم

خج بجاؤ کرو اور ان کے لئے تقویٰ ہے اور تقویٰ انہیں غیور اور غیور بنانا ہے اور ان کے لئے عذاب ہے اور ان کے لئے عذاب ہے

قالوا انهم کنتم قالوا انما استضعفین فی الارض قالوا انکم کنن ارض الله

فرشتوں کے کما کما میں تم تھے انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین فرخ نہیں تھی

واسعة فتبا جردا فینها الی قوله عفو او قال المستضعفین من الرجال و

کہ تم اس میں ہجرت کرتے اللہ کے قول عفو غفور (انک ان النار ۷۷ تا ۹۹) اور فرمایا اور کمزور مردوں اور عورتوں

النساء والولدان الذین یقولون الی قوله نصیرا قال ابو عبد الله فعذر الله

اور بچوں میں سے وہ جو کہتے ہیں اللہ کے قول نصیر (انک ان النار ۷۷) ابو عبد اللہ نے کہا پس اللہ نے ان

المستضعفین الذین لا یمتنعون من ترک ما امر الله به والمکروه لا یكون

کمزوروں کو عذر و فرار دیا جو اس فعل کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتے جبکہ اللہ نے حکم دیا اور مکروہ وہی ہے

الا مستضعفین غیر متمتعین من فعل ما امر الله به وقال الحسن الترقیة الی یوم القیامة

جو کمزور ہو اس سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا جس کا اسکو حکم دیا گیا اور حسن نے کہا تقیہ قیامت تک ہے

وقال ابن عباس فین یمکرهه اللصوص فیطلق کسب بشی و به قال ابن عمر

اور ابن عباس نے کہا اس کے بارے میں جس کو چور مجبور کرے اور وہ طلاق دینے کو یہ کچھ بھی نہیں جانتا اور ابن عمر

وابن الزبیر والشعبی والحسن وقال النبی صلی الله علیه وسلم الاعمال بالنیة

اور ابن الزبیر اور شعبی اور حسن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا اعتبار نیت پر ہے

۳۹۸۶- عن ابن هزيرة رضى (متكرو- ۳۹۲) باب من اشتد الطرب

دیکھو حدیث ۳۹۲ تک باب من اشتد الطرب جوار اور قتل

والقتل والهوان علی لکفر (۳۹۸۷- ۳۹۸۷) عن ابن هزيرة رضى (متكرو- ۱۵)

دیکھو حدیث ۱۵ تک والقتل والهوان علی لکفر (۳۹۸۷- ۳۹۸۷) عن ابن هزيرة رضى (متكرو- ۱۵)

علا تقاة اور
تقیہ کے لئے
بجاؤ کرنا ہی میں
مگر مشورہ سے تقیہ
کا جو بالخصوص
اہل تشیع میں بہت
وسعت اختیار
کر چکا ہے اس سے
کوئی تعلق نہیں
جب ایک شخص
کو مجبور کیا جائے
اور وہ کسی حق
بات کا انکار کرے
اپنی جان بچائے
اس کا حکم قرآن
کریم کی اس آیت
سچ جس سے کتاب
الاکلہ کی ابتدا
ہوتی ہے الامین
اگر وہ تقیہ مطہین
بلا ایمان سے
مجبور کیا جائے تو
ذہ اپنی جان بچانے
کے لئے انکار کرے
دے مگر اس کا
دل ایمان سے
مطہن ہو تو اس
گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے مگر یہ ایمان کا ادنیٰ مقام ہو کچھ گے لوٹ ۱۵ جہاں کھلایا گیا ہے کہ صلاوت ایمان اسی کو ملتی ہے جو خدا اور اس کے رسول کے لئے
پر قسم کی ذلت برداشت کرے یاں تک کہ ضرورت ہو تو جان بھی دیدے۔ لیکن یہ بات کہ ایک شخص شخص دوسروں سے خفا کے لئے اپنے عقائد کے خلاف
ظاہر کرتا رہے یہ جھوٹ اور منافقت ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ اور اس قسم کے جھوٹ اور نفاق کو اسلام سمجھت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
مطہن یعنی یہ مجبور یاں قیامت تک پیش آتی رہیں گی ۱۵ یعنی مجبوری کی حالت میں جو طلاق دی جائے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی چ ۱۵ ۳۹۲ کا کچھلا حصہ
دوہرا ہے۔ ان النبی صلعم کان یحرف فی الصلاة اللهم افرع عیاش بن ابی ربيعة وسلمة بن هشام والولید بن الولید اللهم انجز المستضعفین
من المؤمنین اللهم اشد وطناک علیہم وابعث علیہم سنین کسفی یوسف۔ مستضعفین کے لئے دعا کی وجہ سے اس باب میں اس کا ذکر کیا
۱۵ لفظ صفا کے ہیں، صلاوت ایمان اسی کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھے۔ مگر یہ مجبور رکھنا لڑے لفظوں سے نہیں
بلکہ امام بخاری نے عنوان باب میں ظاہر کر دیا ہے کہ اس محبت کا اظہار انسان کے عمل میں اس طرح ہو کہ مار رکھنا اور قتل کیا جانے کو اور ہر قسم کی ذلت
برداشت کرنے کے لئے تیار رہے۔ اور یہ چیزیں خدا اور اس کے رسول کے لئے اسے مشکل نظر آئیں۔ اگر اس عنوان باب سے ایک طرح اللہ اور اس
کے رسول کی محبت کی صحیح تفسیر کی ہے تو دوسری طرف اس سے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا انکار موت کے سامنے بھی انسان کو صلاوت
ایمانی سے محروم کر دیتا ہے۔ پس جب انسان جبر کی حالت میں انکار کرے تو وہ درحقیقت صلاوت ایمانی سے محروم ہوتا ہے، اور ایمان کے
ادنیٰ ترین مرتبہ پر ہوتا ہے۔

(۳۹۸۸-م) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۷۵) (م- ۳۹۸۹) عَنْ خَبَّابِ

دیکھو حدیث ۱۷۵

ابْنِ الْأَدْرِثِيِّ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۷۱۶) (م- ۳۹۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَحْوَهُ فِي الْحَقِّ وَ

بَابِ اس شخص کی بیچ کے متعلق جو مجبور کیا گیا ہو یا اس کی مانند ہونے کے

غَيْرِهِ (م- ۳۹۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۷۱۶) (م- ۳۹۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَحْوَهُ فِي الْحَقِّ وَ

دیکھو حدیث ۱۷۱۶

الْمُكْرَهَةِ وَلَا تُكْرَهُهُ افْتِيَانُكَ عَلَى لِبَاغَاءِ اَنْ اَرْدَنْ تَحْضِنًا لَلْبَتَغْوِ اعْرَضَ لِحَيَاةِ

مجبور کیا جائے اس کا نکاح جائز نہیں ولا تکرہوا اور اگر انہوں نے (۳۳) اور اپنی لونڈیوں کو برکاری پر مجبور نہ کر دیا وہ بچا جائے ہیں تاکہ وہ دنیا کی

الذُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اَكْثَرِ اِهْرَهْنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (م- ۳۹۹۱)

زندگی کا سامنا کرنا اور جوئی نہیں مجبور کرے گا تو ان شران کے مجبور کیا جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

عَنْ خُسَاءَ بِنْتِ خَدَّامٍ (مُتَكَوِّرٌ - ۲۰۳۲) (م- ۳۹۹۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرٌ -

دیکھو حدیث ۲۰۳۲

۲۰۳۲) بَابُ جَبِّ مَجْبُورٍ كَيْفَ جَاءَ يَمَانُكَ كَقَلَامِ كَوْهَبٍ كَرِهَ يَالَسَ فَرَحْتَ كَرِهَ تَوْبَهُ جَابِئِينَ اَوَّلِيهِمْ لَوْ كُنَّ

بَابُ جَبِّ مَجْبُورٍ كَيْفَ جَاءَ يَمَانُكَ كَقَلَامِ كَوْهَبٍ كَرِهَ يَالَسَ فَرَحْتَ كَرِهَ تَوْبَهُ جَابِئِينَ اَوَّلِيهِمْ لَوْ كُنَّ

بَعْضُ النَّاسِ فَإِنَّ نَذْرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرٌ اَهُوَ جَابِئِينَ بِنِعْمِهِ وَكَذَلِكَ اَنْ دَبَّرَكَ

نے کیا اگر خریدنے والے نے اس کے بارہ میں منت مانی ہو تو وہ ان کے خیال میں جائز ہے اور اسی طرح اگر کسی نے دیکھا

بعضیوں نے کہا ہے: سمعت سعید بن زید يقول لقد رأيتني وان عمر موقوف على الاسلام ولو انقض احدنا ما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينقض اس حدیث میں ایک طرف ان نکالیں کی طرف تو جبر دلائی ہے جو ابنتا اسلام میں مسلمانوں نے اسلام کی خاطر اٹھائیں مگر اسلام سے پھرے نہیں۔ اور دوسری طرف

اسلام کی بادشاہت کے زمانہ میں ان نکالیں کی طرف توجہ دلائی ہے جو حضرت عثمان نے مسلمانوں کے ہاتھ سے اٹھائیں کہ اگر وہ بھی ان کے سامنے چور چور ہو جائے۔ پس جب تک مسلمان وین کی خاطر تکلیف اٹھاتے تھے وہی زمانہ ان کے لئے اچھا بھی تھا۔ اور قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچیں اور باہر تھیں وہی جاتیں تو انہوں نے رسول اللہ صلعم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے پہلی امتوں کے مصائب کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسلام تو بالآخر غالب ہوگا۔ لیکن تم یہ خواہش نہ کرو کہ یہ صیبتیں جلد دور ہو جائیں اور بیچ تو یہ ہے کہ جو عبادت الہانی اور کامیابیاں ان مصائب سے حاصل ہوئیں وہ بعد میں نہ ملیں۔ یعنی ایک شخص مجبور کیا گیا ہے تو آیا وہ بیچ کر سکتا ہے یا مجبور کی مانند ہو یعنی فی الواقع اسے بیچ کے لئے مجبور تو نہیں کیا گیا مگر حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ سوائے بیچ کے اسے چارہ نہیں خواہ مجبور کسی امر میں ہو یا ناسخ میں۔ اسی باب کے نیچے امام بخاری یہود کے معاملہ کو لائے ہیں۔ ان کے ایک قبیلہ کو عداوت کی گئی۔ تو رسول اللہ صلعم نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنا جو مال چاہیں بیچ دیں۔ تو ان کو مجبور کی مانند رکھا ہے مگر وہ ایک امر میں مجبور کئے گئے تھے۔ یعنی وہ اس ہزلے کے مستحق تھے جو ان کو دی گئی۔ تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اگر مجبور کئے گئے آدمی کا قیاس بھی اسی پر ہو سکتا ہے یعنی اس کی بیچ جائز ہوگی خواہ وہ امر میں مجبور ہو یا ناسخ اسے مجبور کیا جائے۔ صحیح صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیچ کرنے میں مجبور کے حکم میں نہ تھے۔ یہ درست ہے کہ جب ان کو عداوت کا حکم دیا گیا اور جان اور مال پر فروخت کرنے کی اجازت دی گئی تو انہیں فروخت کے سوائے چارہ نہ تھا۔ لیکن فروخت پر مجبور وہ شخص کہلائے گا جسے یہ کہا جائے کہ تم یہ جاننا اس قیمت پر بیچ دو ورنہ تمہیں یہ نقصان پہنچا جائیگا اس حالت کی بیچ جائز نہیں ہو سکتی جیسے اس حالت کی طلاق یا نکاح یا نکاح میں تفصیل کچھ زیادہ ہے۔ انقال بینما نحن فی المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلعم فقال انطلقوا الی یہود فخرنا معہ حتی جئنا بیت المدی واس فقام النبی صلعم فنادی اھم یا معشر یہود اسلموا اسلموا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم فقال ذلک ارید ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا ان الارض لله ورسوله والی ارید ان اجدیکم ضمن وجہ منکر ببالہ شیناً فلیجعه والا فاعلموا انھا الارض لله ورسوله ۱۵۷ عنان باب کے متعلق حدیث نیچے آتی ہے۔ آیت قرآنی کو محض تائید کے لئے پیش کیا گیا جو برکاری اور نکاح میں امر مشترک ایک مرد اور ایک عورت اکٹھا ہونا ہے ایک جائز طریق پر اور دوسرا جائز طریق پر تو قرآن کریم نے ناپائیدار طور پر ایسے جمع ہونے پر مجبور کرنے سے روکا ہے۔ پس استدلال یہ ہے کہ جائز طریق پر بھی جمع ہونے پر مجبور کرنا درست نہیں۔ ۱۵۷ ذہبی لفظ میں ہے اس کے لفظ یوں ہیں: قلت یا رسول الله یتناہم النساء فی البضا عنہن قال نعم قلت فان البکر تستامر فاستحی فاستحک قال سکتا تھا انہما ۱۵۷ اشارہ خفیوں کی طرف ہے۔ مگر کرنے سے مراد ہے اپنے درمے پیچھے آنا اور گردینا۔

ملے میں لفظوں
ہیں۔ ان رجلا
من الانصار
دبھلو کا ولایت
لہ مال غیرہ قبیلہ
ذکر رسول اللہ
صلعم فقال من
یشترہ معی
فاشترا بہ نعیم
بن الخوام ثم اقامتہ
درہم قال فسمعت
سبا بن یقول عبدا
قبطیا مات
عام اول - حدیث
میں آکراہ کا کوئی
نہ کر نہیں، نگریاں
ایک غلام مدیر
کیا گیا اور اس
مالک کے پاس
اور کوئی مال نہ تھا
تو رسول اللہ صلعم
نے اس کے مدبر کرنے
کو درست نہ ٹھہرایا
کہ اس وارثوں
کو نقصان پہنچتا
ہے۔ البتہ یہ بات
بالبدایت ظاہر
ہے کہ جب مالک
ایک چیز کی فروخت
کرنے پر راضی نہیں
اور اس پر مجبور کیا
گیا ہے تو سووا
چونکہ تراوی فریقین
سے ہوتا ہے اس
لئے وہ سووا اجازت
نہیں

۳۹۹۳-۳۹۹۴ عن جابر بن عبد الله (متكرر) (۱۰۶۶) باب من الاكراه كراهة وكراهة واحد
دیکھو حدیث ۱۰۶۶

۳۹۹۴-۳۹۹۵ عن ابن عباس (متكرر) (۱۹۰۲) باب اذا اشكرهت المرأة
دیکھو حدیث ۱۹۰۲

عَلَى لِرَدِّهَا فَلَاحِدًا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَكْرِهُم مِّنْ قَوْمٍ فَأَرْسِلْ مِنْهُمُ الْمُرُسَلِينَ
تو اس پر کوئی حد نہیں ہے اور تعالیٰ کے قول کی وجہ سے اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان شران کے جو کچھ چاہے بعد بخشے والا

عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ
مربان ہے اور نور (۲۳۳) اور لیث نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ صفیہ ابوعبید کی بیٹی نے مجھے

أَنَّ عَبْدًا مِّنْ رَّبِيعِ الْأَمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِّنْ الْخُمُسِ فَأَسْتَكْرَهَهَا حَتَّى
کر حکومت کے غلاموں میں سے ایک غلام نے ایک لونڈی سے جو رقیعت کے خمس میں سے تھی زنا کیا اور اس پر زبردستی کیا تاکہ

اِقْتَضَاهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْخَدَّ وَنَفَاةً وَلَمْ يَجِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا
کہ اس کی بکارت کو زائل کر دیا تو حضرت عمر نے اسے حد کے کوڑے لگائے اور اسے جلا وطن کیا اور لونڈی کو کوڑے لگائے اس کے لئے کہ اس نے

قَالَ الرَّهْمِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرُ يُفْتَرَعُهَا الْحَرِيُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكْمَ مِنَ الْأَمَةِ
اسے مجبور کیا تھا اور زہری نے ہا کرہ لونڈی کے متعلق کہا ہے جس کی بکارت آنا د مرد زانیہ کرنے کا کئی قیمت حکم ہا کرہ لونڈی سے لگائے اسکی

الْعَذْرَاءُ عَرَبِيَّةٌ رَقِيَّتُهَا وَيُجَلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الشَّيْبُ فِي قَضَاءِ الْأَمَةِ
قیمت کے اندازہ سے (اس قسم سماوان وھول کرے) اور اسے کوڑے لگائے جائیں اور غیر لونڈی کے بارہ میں

عَزْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْخَدْرُ (۳۹۹۵-۳۹۹۶) عن أبي هريرة (متكرر) (۱۰۸۶)
فیصلہ میں کوئی تاوان نہیں ہے

(۸) بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِمَا حَبَّ إِتَانُهُ إِخْوَهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ حُكْمَهُ
باب مرد کا اپنے ساتھی کے متعلق قسم کھانا کہ وہ اس کا بھائی ہے جب ڈر ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا اس کی مثل

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَكْرُوهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَدْبُ عَنْهُ الْمَطْلُومُ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَجِدُ لَهُ
اور اسی طرح ہر شخص میں ہر چیز کا ہے اور وہ ڈرتا ہو تو لازم ہے کہ اس سے غلوں کو رفع کرے اور اس کے چلنے کے لئے اسے اور اسکی مدد کو

فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَطْلُومِ فَلَا قَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ وَإِنْ قَاتَلَ لَمْ يَشْرَبْ
چھوڑے اگر وہ مظلوم کو بچانے کے لئے لڑا تو اس پر دیت ہے اور نہ قصاص اور اس کے چلنے کے لئے اسے اور اسکی مدد کو

الْخَمْرُ أَوْ لَنَا كُلُّنَا كَلِمَةُ الْمَيْتَةِ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تَقْرُبُ بَدِينِ أَوْ تَهْبُ بِهِتَ وَتَحُلُّ
پڑے گی یا مردار کھانا ہوگا یا پھر غلام بچنا پڑے گا یا قرضہ اس کے لئے کہنا ہوگا یا عقد

عُقْدَةٌ أَوْ لَتَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي السَّلَامِ وَسِعَتْ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
توڑنا ہوگا یا قرضہ ہر تیسے مسلمان یا بھائی کو قتل کر دینے کے تو اس کیلئے یہ جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْلُومُ إِخْوَةُ الْمَسْلُومِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرُ
کی وجہ سے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور بعض لوگ زمین صحتی کہتے ہیں کہ اگر اس سے کہا گیا کہ تم کو قرضہ دینا چاہیے، ہوگی

ملتا انھی الفاظ میں وہ ہا ہے۔ آیت لایحیل کہ ان تزوا النساء کہ ہا کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے جاہلیت کی اس رسم کی اصلاح ہوئی کہ جو عورت
عورت کو ورثہ میں لیا جاتا تھا اور اس کے خلاف مرضی نحو اس سے نکاح کر لیتے یا کسی اور سے کر لیتے ہا لکھ کر روایت بہت اختصار سے آئی ہے۔ قال رسول اللہ
صلعم حاجو ابراہیم سارۃ دخل بها قرۃ قریۃ فیہا ملک من الملوک اوجبار من الجبارۃ فارسل الیہ ان ارسل الی ہا فارسل ہا فقام الیہا فقامت
تو ہا و تصیوہ فقالت الذہم ان کنت اہمت ذاک رسولک فلا تسلط علیک الا فوظف حتی رکض برجلہ

أَوْلَاتُ كُلِّ الْمَيْتَةِ أَوْلُنَقْتَلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرُومٍ لَسَمِعَهُمْ لَانَ
یا ہر تیرے بیٹے یا تیرے باپ یا قرابتی کو قتل کر دینے کو تو س کیلئے جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ

هَذَا كَيْسٌ مُضْطَرٌّ نَاقِضٌ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتَلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ
ظنی مجبور نہیں ہے پھر اس بات کو توڑنے میں اور کہتے ہیں اگر اس سے کہا گیا کہ ہم ضرور تیرے باپ کو یا تیرے بیٹے کو قتل

لَتَتَّبِعَنَّ هَذَا الْعَبْدُ أَوْ تَغْرِبُ دِينٌ أَوْ تَهْبُ يَلْزَمُهُ فِي لِقَائِنَا لَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ
کر دیں گے یا تم کو یہ غلام بنانا ہوگا یا قرآن کا قرا کرنا ہوگا یا ہجر کرنا ہوگا تو قیاس کی بنا پر یہ باتیں صحیح ہو گئی اور اس پر لازم آئے گا کہ تم لوگ تم

وَلَقَوْلِ لَبِيحٍ وَالْهَبَةِ وَكُلِّ عَقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ فَتُرَوِّبُنَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ
اور ہم کہتے ہیں کہ بیع اور ہجر اور ہر ایک عقد اس بارہ میں باطل ہے وہ قرابتی اور غیر قرابتی میں بغیر کتاب اور سنت کے

مَحْرُومٍ وَغَيْرِهِ بَغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فرق کرتے ہیں باطل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنی

لَا مَرَاتِهِ هَذِهِ أَخْتِي وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَقَالَ التَّخْتَنِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا
بیوی کی نسبت فرمایا یہ میری بہن ہے اور یہ اللہ کے راستہ میں ہے اور ابراہیم غنیمی نے کہا کہ اگر قسم لینے والا ظالم ہو

فَنَيْتَةُ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنَيْتَةُ الْمُسْتَحْلِفِ (م-۳۹۹۶) عَنْ عَبْدِ
تو قسم کھا کر نئے کی نیت کا اعتبار ہے اور اگر وہ مظلوم ہو تو قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہے

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (مکتوبہ ۱۱۶) (م-۳۹۹۷) عَنْ أَبِي
دیکھو حدیث ۱۱۶۳ دیکھو حدیث ۱۱۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اے اللہ! تمہارے والے بار بار رحم کر فرمادے گا کے نام سے

۹۱- کتاب الحیل

۹۱- حیلوں کی کتاب

(۱) بَابٌ فِي شَرْكِ الْحَيْلِ أَنْ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي لَا يَمَانٍ وَغَيْرِهَا
باب حیلوں کا ترک کرنا اور ہر ایک کیلئے وہی ہے جو وہ نیت کرے قسموں میں ہو یا دوسری چیزوں میں

ما حنیفوں کے
زودیکہ مجبوری دد
ہے جب انسان کو
خود قتل کی دھمکی
دی جائے اور اگر
کسی دوسرے کے
مشفق دھمکی ہو تو
وہ جبر نہیں۔ لیکن
اس میں دوسروں
ہو سکتی ہیں۔ اگر
دھمکی فوری ہے
مثلاً اگر ایک شخص
کو پکڑ کر کہا جائے
کہ ہم تیرے بیٹے
یا باپ یا قرابتیوں
موجود ہے قتل
کرتے ہیں تو یہی
ہی مجبوری ہے
جسے اپنے نفس کے
مشفق اور اگر وہ
بیٹا یا باپ یا قرابتی
دینے والوں کے
اس وقت صرف
میں نہیں تو یہ مجبوری
نہیں مگر یہ اپنے
نفس کے مشفق
میں صحیح ہے اگر
کسی شخص کو یہ کہا
جائے کہ تم ایسا

اقرار کرنا ہو کہ وہ دو روزہ فلاں وقت اور فلاں دن ہم تم کو قتل کر دیں گے تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ امام بخاری نے حنیفوں پر یہ الزام دیا ہے کہ وہ قیاس اور استحسان
میں فرق کر کے جس چیز کو قیاس کی رو سے ناجائز ٹھہراتے ہیں اسی کو استحسان کی رو سے جائز کر لیتے ہیں۔ مگر استحسان ایک صحیح اصول ہے اور قیاس میں بعض
وقت غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ بشریعت کا منشا بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے ظالم یا ظالما کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس لئے جو قیاس اس قسم کا
ہوگا اس کو استحسان کی بنا پر روک دیا جائے گا۔ مثلاً یعنی حنیفوں کے نزدیک اجمعی اور قریبی کے لئے دھمکی میں فرق ہے۔ مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ اسلامی
بھائی بھی ویسا ہی بھائی ہے جیسا جھپٹی اور اس پر اگلی حدیث دلیل لائے ہیں المسلم انھو المسلمہ ۱۱۶۳۔۱۱۶۴ کا صحت پہلا حصہ یہاں بیان کیا ہے۔ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انھو المسلمہ لا یظلمہ ولا یسلطہ ومن کان فی حاجۃ اخیه کان اللہ فی حاجتہ یعنی مسلمان نہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرے اور نہ اسے ظلم
کے ہاتھ میں چھوڑے۔ علی غشیف اختلافات فغنی ہے۔ قال رسول اللہ صلعم انھو احاک ظالمًا او مظلومًا فقال رجل یا رسول اللہ انھو اذ انکاد
مظلومًا انزایت اذ انکاد ظالمًا کیعت انھو قال تحجزہ او تمنعہ من الظلم فان ذلک نصیہ۔ اس میں دوسرے کو ظلم سے روکنے کا بھی اس کی حد قرار
دی گئی ہے۔ علی حیل حیلہ کی جمع ہے اور حیلہ یہ ہے کہ کسی نفعی طریق سے مقصود تک پہنچا جائے مفردات میں ہے کہ اس کا اکثر استعمال ان باتوں
پر ہے جن میں برائی ہے لیکن بعض وقت اس پر بھی استعمال ہوتا ہے جس میں عفت ہو۔ اسی پہلے استعمال کے لحاظ سے امام بخاری نے بابی ہر قسم ۱۱۶۳

رقبہ ۱۲۱۳
 سب سے پہلا باب
 اس کتاب میں
 تزکیہ الحیل رکھا
 ہے۔ فقیرین سے
 جیسے غارتوں
 قرار دیئے گئے
 ہیں۔ امام بخاری
 نے انکی مخالفت
 کی ہے۔ اور جگہ
 باب باندھ کر یا
 حدیث ناکر قال
 بعض الناس
 بڑھا یا ہے جس
 مراد امام ابو حنیفہ
 یا حنفی فرقہ کے
 پیرو ہیں۔ حنفی
 شاعرین بخاری
 نے ان اعتراضات
 کو تشبیح کر کے بیان
 میں لیا ہے مگر یہ
 سب فقہاء بہت

۳۹۹۷-۳۹۹۸	عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَمْتَكُورَ - (۲) بَابُ فِي الصَّلَاةِ
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۳۹۹۸-۳۹۹۹	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْتَكُورَ - (۳) بَابُ فِي الزَّكَاةِ وَأَنَّ لَا
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۳۹۹۹-۴۰۰۰	يُفْرَقُ بَيْنَ هَجْتِمٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَعَرِّقٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ رَم - ۳۹۹۹
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۰-۴۰۰۱	عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَمْتَكُورَ - (۴) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۱-۴۰۰۲	فِي عَشْرِينَ وَمِائَةً بَعِيرٍ حَقَّتَانِ فَإِنَّ أَهْلَكُمَا مُتَعَمِدًا أَوْ دُوبَهَا أَوْ أَحْتَالَ فِيهَا فَرَأَا
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۲-۴۰۰۳	مَنْ الزَّكَاةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَم - (۵) ۴۰۰۲ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۳-۴۰۰۴	فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَانَ أَنْ يَتَّخِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بَعِيرًا أَوْ
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۴-۴۰۰۵	بَدْرًا أَوْ مِثْلًا مِنْ الصَّدَقَةِ يَوْمَ أَحْتِيَاجًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ زَكَاةَ لِبَلْبَةٍ قَدْ
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲
۴۰۰۵-۴۰۰۶	أَنْ يَحْوَلَ الْحَوْلُ يَوْمَ أَوْ يَسْتَوْجِزَ جَازَتْ عَنْهُ رَم - (۶) ۴۰۰۵
	دیکھو حدیث ۱۷۱۲

کے اختلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقہاء بہت کے لحاظ سے بہت بلند پایہ ہیں مگر امام بخاری کی امر تہ بھی فقہاء بہت میں کسی طرح کم نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا عبور چونکہ احادیث پر امام بخاری سے کم ہے اس لئے جہاں حدیث کی مزج سند امام بخاری کو ملی ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ پر یا فقہ حنفی پر اعتراض کیا ہے اور وہ اعتراض بعض وقت درست بھی ہوتا ہے اور بعض وقت غلط بھی ہوتا ہے۔ (صفحہ حمدانی) بلکہ قریباً ہی الفاظ میں دوہرا یا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نسبت پر ہے۔ یہی بار بار وہ کسی کام میں نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو حدیث ۱۷۱۲ اور اس پر نوٹ ۱۷۱۲ اس کے نظروں سے اس قدر ہیں، یعنی اللہ صلعم قال لا یقبل اللہ صلوة احدکم الا اذا احتضرت حاشیٰ بیضاء۔ اس میں جید کو کوئی ذکر نہیں، مگر مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلا وضو نماز کے لئے نہ کھڑا ہو جائے اس خیال کے کہ وضو نہ ہونے سے نماز میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا، بلکہ قریباً وہی لفظ ہے باب کا لفظ ان الفاظ سے ہے لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقۃ۔ دیکھو نوٹ ۱۷۱۲ صفحہ ۳۳۸، بلکہ خشیۃ اخشاۃ الفاظ سے دوہرا یا ہے، ان احوال کا جواب الی رسول اللہ صلعم ناثر الراس فقال یا رسول اللہ اخبرنی ما اذا فرض اللہ علی من الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئاً فقال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الصیام قال شہر رمضان الا ان تطوع شیئاً قال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکاة قال فاخبرہ رسول اللہ صلعم شواہم الاسلاہ رواد احکام زکوٰۃ (وس) قال والمذی امرکم لا تطوع شیئاً ولا انقض صیاماً فرض اللہ علی شیئاً فقال رسول اللہ صلعم افلم ان صدق اذ دخل الجنة ان صدقہ صدقہ یہ صدقہ کہ روئی راستی سے اور بغیر کوئی حیلہ تلاش کرنے کے تعمیل احکام کرے، ۱۷۱۲ اس قسم کے جیسے اس حدیث کے مخرجات میں جو آج آئی ہے کیونکہ یہ اللہ کے فرض میں مٹا دیا کرنا ہے، البتہ اگر مٹا کوئی کام نہ کیا گیا ہو اور مال نصاب سے کم ہو گیا ہے یا تلف ہو گیا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ لفظوں میں اختلاف ہے۔ قال رسول اللہ صلعم بکون کنز احدکم یوم القیامۃ شیئاً قال قرع یقرضہ صاحبہ فی طلبہ ویقول انما لکن قال واللہ لن یزال یتطلبہ حتی یتسطبہ فی طلبہ فاناہ راسیۃ ہاتھ کو بڑھا کر سانپ کے منہ میں دے دیکھا، وقان رسول اللہ صلعم اذا ما رب النعم لم یعط حقہا تسلط علیہ یوم القیامۃ حتی یطرحہا باحقاقہا، مگر یہاں بھی تنفیذ کے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے جیلوں پر چوٹ کی سبب کہ ایک طرف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ زکوٰۃ سال کے اندر کسی وقت نہ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں اگر حیلہ کر کے ایک دن پہلے بھی اپنے مال کو ادھر ادھر کر کے تو اس پر زکوٰۃ نہیں پڑے گی، یہاں لفظ یوں ہیں: قال استفتی سعد بن عبادۃ الا انصار ی رسول اللہ صلعم فی نذر کان علی امہ وتوفیت قبل ان تعضیہ فقال رسول اللہ صلعم انقضہ عنہا

۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

صَدَقَهَا (م-۲۰۰۸) عَنْ عُرْوَةَ (م-۱۱۹۲) (۹) بَابُ إِذَا غَصِبَ جَارِيَةٌ فَرَسَمَ أَيْهَا

دیکھو حدیث ۱۱۹۲ ع ۱ باپ جب لونڈی کو زبردستی چھین لے اور کندھے کے

مَاتَتْ فَقَضَى بِقِيَمَةِ الْجَارِيَةِ الْبَيْتَةَ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبَهَا فَهِيَ لَهُ وَبِئْسَ

وہ مرگئی اور وفات یافتہ لونڈی کی قیمت پر فیصلہ ہو جانے پھر مالک کو وہ مل جائے تو وہ اس کی ہے اور قیمت

الْقِيَمَةِ وَلَا تَكُونُ الْقِيَمَةُ شِمْنَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ جَارِيَةٌ لِلْغَاصِبِ كَأَخْذِهِ

واپس کر دی جائے گی اور قیمت مول قرار نہیں دی جائے گی اور بعض لوگ (مخفی) کہتے ہیں کہ لونڈی چھیننے والے کی ہوگی اس لئے کہ اس

الْقِيَمَةَ وَفِي هَذَا اِحْتِمَالٌ لَمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيحُهَا فَغَصَبَهَا

نے قیمت لے لی اور اس قول میں اس شخص کے لئے حیل ہے جو دوسرے شخص کی لونڈی کی خواہش رکھتا ہو جسے وہ فروخت نہیں کرتا یہاں غصب

وَأَعْتَلَّ بِأَيْهَا مَا تَتَّ حَتَّى يَأْخُذَ رِبْهَا قِيَمَتَهَا فَيُطِيبُ الْغَاصِبَ جَارِيَةَ غَيْرِهِ

کرے گا اور جت کرے گا کہ وہ مرگئی نتیجہ ہوگا کہ اس مالک اس کی قیمت لے دے گا اور غاصب کے لئے دوسرے کی لونڈی عدل ہو جانے کی

قَالَ لَيْسَ صِلَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ وَالْكَرِيمُ عَلَيْكَ وَحَرَامٌ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْ أَنَّكُمْ الْقِيَامَةَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے مال تم پر حرام ہیں اور قیامت کے دن ہر دغا باز کے لئے ایک جھنڈا ہوگا

(م-۲۰۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (م-۱۲۲۲) (۱۰) بَابُ (م-۲۰۱۰) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

دیکھو حدیث ۱۲۲۲ ع ۱۰ بابت

(م-۲۰۱۰) (۱۱) (۱۱) بَابُ فِي النِّكَاحِ (م-۲۰۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲۰۱۰)

دیکھو حدیث ۲۰۱۱ ع ۱۱ بابت نکاح کے بارہ میں دیکھو حدیث ۲۰۱۰ ع ۱۱

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ الْبِكْرَ وَلَمْ تَزُوجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ

اور بعض لوگ (مخفی) کہتے ہیں اگر کنواری لڑکی کی اجازت نہ لی جائے اور اس نے نکاح نہیں کیا پھر ایک شخص نے جایا اور دوجھوئے

شَاهِدِي زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَنْبَتَ الْغَاصِبُ نِكَاحَهَا وَالزُّوجُ يَعْلَمُ

گواہ کھڑے کہے کہ اس نے اس سے اس کی رضامندی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور قاضی نے نکاح کو درست قرار دیا اور یہ نوج جانتا ہے

أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَّأَهَا وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ (م-۲۰۱۲) عَنْ

کہ کوئی بھڑائی ہے تو کوئی بھڑائی نہیں کرے اور وہ نکاح صحیح ہے

الْقَاسِمِ (م-۲۰۱۳) (م-۲۰۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۲۰۱۳) (م-۲۰۱۳)

دیکھو حدیث ۲۰۱۳ ع ۱۳ دیکھو حدیث ۲۰۱۳ ع ۱۳

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدِي زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ

اور بعض لوگ (مخفی) کہتے ہیں اگر کوئی شخص حیل کرے اور دوجھوئے گواہ اس بات پر پیش کرے کہ اس نے ایک غیر عورت سے اس کے حکم

فَلَيْبُ بِأَمْرِهَا فَأَنْبَتَ الْغَاصِبُ نِكَاحَهَا وَإِلَّا فَالزُّوجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَزُوجْهَا قَطُّ

سے نکاح کیا ہے، ورنہ مخفی اس کے ساتھ نکاح کو درست قرار دے گا مگر نوج جانتا ہے

کراس نے بھی اس سے نکاح نہیں کیا

أَمَّا أَنَا فَبَشِّرُوا لَكُمْ تَقْصِيمَ مَوْتٍ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ إِنْ يَكُونُ أَمِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضَى لَهُ عَلَى الْغَوَامِ أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَ

يَا خَلِيفَةَ أَقْطَعُ لَكَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ بِمَا كَرِهَ رِوَايَتُكَ لِي فِي نَفْسِي مِنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ لَا تَكْتُمُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ وَلَا النَّثِيبَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذَا سَأَلَ إِذَا سَأَلَ تَعْلَمُ نَفْسُهُ بَعْضَ فَرَضِي مَوْتِي بِمَا كَرِهَ كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ مِنْ بَعْضِي أَوْ كَيْفَ تَسْتَأْذِنُ مِنْ بَعْضِي

كُنِيَ رِيًّا وَتَقَوُّوا أَدْرَمَاتٍ لَيْسَ لِنِكَاحِ قَرَارٍ وَيَدْعُو كَرِيمًا مِثْرًا بِشَيْءٍ مَحْرَمٍ هُوَ كَمَا جَسَّ نَسَبِي لَيْسَ لِنِكَاحِ تَسْلِيمِ كَمَا يَطْلِقُكَ مَلَائِكَةُ

الْبَدَنِ مِنْ بَيْتِكَ وَتَقَوُّوا بِرِضَائِهِ مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ دُنَى جَوْفِ قَوْفَتِ أَنْ يَزُوجَ وَهِيَ كَارِهَةٌ قَارِصَلَتِ الْبَنِي مُنْجَبِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ عِدَا الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ

ابْنِي جَارِيَةٌ قَالَا غُلَاغُضِينَ فَاغْنِ عَنْهُ بِنْتُ خَدَامِ أَنْفَعَهَا إِنْ هِيَ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَاحًا ذَلِكَ عَمَّا نَسِيَ الْبَنِي مِنْ صِدْقِ كَوْدِمَرٍ أَيْ بَابِ

قَالَ يَسْعَى هَذَا الْبُكَاحُ وَلَا يَأْسُ بِالْمَقَامِ لَهُ مَعَهَا رَمِي مِمَّا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

تو یہ نکاح اس کے لئے صحیح ہوگا اور کوئی ہرج نہیں کہ وہ اس زوجت کے ساتھ ہے

رَمِي مِمَّا (۲۰۳۱) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هُوَ رَجُلٌ جَارِيَةٌ يَتِيمَةٌ أَوْ يَتِيمَةٌ أَوْ يَتِيمَةٌ

دیکھو حدیث ۲۰۳۱ اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایک شخص ایک یتیم یا کنواری لڑکی پر فریفت ہو جائے اور وہ انکار کرے

فَاخْتَالَ فَيُحَاوِلُ بِشَاهِدِي زَوْجِي عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَادْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةَ قَبْلَ

پھر وہ حید کرے اور دو گھوڑے کو اس بات پر لائے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے پھر وہ یتیم بلوغ کو پہنچ جائے اور اسے ہرجائے اور

الْقَاضِي شَهَادَةَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجِ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوُطْءُ (۲۰۳۲) بَابُ

قاضی جھوٹی گواہی کو قبول کرنے اور زوج اس کے چھٹا ہونے کو جانتا ہے اس کے لئے ہجرتی حلال ہو جاتی ہے بَابُ

مَا يَكُونُ مِنَ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَّاءُ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عورت کا اپنے خاوند اور سوگنوں سے حید کرنا ناپسندیدہ ہے اور جو اس کے پاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ رَمِي مِمَّا عَنْ عَائِشَةَ رَمِي مِمَّا (۲۰۵۱) بَابُ مَا يَكُونُ

پر نازل ہوا دیکھو حدیث ۲۰۵۱ بَابُ مَا يَكُونُ

مِنْ الْأَحْتِيَالِ فِي الْفِرَاقِ مِنَ الطَّاعُونَ رَمِي مِمَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَمِي مِمَّا

بھاگنے کے لئے حید کرنا ناپسندیدہ ہے دیکھو حدیث

(۲۰۶۱) رَمِي مِمَّا عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَمِي مِمَّا (۲۰۵۵) بَابُ فِي الْبَيْتَةِ

۲۰۶۱ دیکھو حدیث ۲۰۵۵ بَابُ فِي الْبَيْتَةِ

وَالشُّعْبَةَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ رَهْبَةً أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى تَكْتَسِبَ عِنْدَهَا

شعبہ کے بارہ ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہزار درہم یا زیادہ کا ہجرت کرے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس

سَيَنْزِلُ وَأَحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْأَوْهَابُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَأَجَلَ مِنْهَا فِي الْفَرَسِ الْمَسْرُورِ

کئی سال تک رہے اور اس بارہ میں وہ حید کرے پھر مسکرتیو اس میں رجوع کرے تو ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور اس نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ رَمِي مِمَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَمِي مِمَّا) (۲۰۶۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کے بارہ میں مخالفت کی اور زکوٰۃ کو ساقط کیا دیکھو حدیث ۲۰۶۹

ہیں۔ یہ حالت قال رسول اللہ صلعم ان ابیکو تسقیون قال او انھا صماہا صل اس کے لفظ قریشم ۲۷۳۳ کے ہیں صرف ایک فقرہ زائد ہے۔ جہاں حضرت سووہ کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یوں کہن فقری لیا ہوا ہے۔ الیہ۔ اس کے بعد یہاں ہے و کان رسول اللہ صلعم یشد علیہ ان یوجا منہ الیہ۔ رسول اللہ صلعم کو بیعت ناگوار تھا کہ آپ کے جوڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس قدر نفاست پسند تھے نیز دیکھو نوٹ ۱

صفحہ ۲۶۰ پر تقریباً وہی لفظ ہے۔ آخر میں بڑھا یا ہے۔ فرجہ عمر بن سو وروانی روایت) انما انصرف من حدیث عبد الرحمن۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر شام میں طاعون کے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے سرخ سے واپس آگئے مگر یہاں کسی جیلے کا ذکر نہیں ہے بلکہ مکرر روایت خفیف کسی جہتی سے آئی ہے۔ انہ باہر میں سعید سمع اسامۃ بن زید یحدث سعد ان رسول اللہ صلعم ذکر الوجود فقال وجزاو عذاب عذب بہ بعض الاہم ثم بقی منہ بقیۃ فینہب المرثۃ ویاتی الاخری فمن سعید جارضی فلا یغفر من علیہ ومن کان یارضی وقعر ہا فلا یغفر فرائدہ و دیکھو نوٹ ۱ ص ۲۶۰ اس کے لفظ فینہب المرثۃ ویاتی الاخری کبھی علی جائے گی کبھی پھر آجائے گی ایک پیشگوئی کے طور پر میں کہ طاعون دنیا میں ایک دورہ کے طور پر آتی اور جاتی رہے گی یعنی کبھی ایک دور ہوگا اور طاعون پھیل جایا کرے گی کبھی دو دور آجائے گا اور وہ بالکل جاتی رہا کرے گی + لہذا بخاری کی حدیث ۲۰۶۹ میں اور پھر یہاں ۲۰۱۸ میں ہے۔ العائد فی ہبتہ کا کلب یعود فی قریبہ۔ اس کی بنا پر یہاں المحدثیہ کے استدلال کے متعلق کہا ہے خالف رسول اللہ صلعم مگر یہ لفظ سخت میں کیونکہ ان سے ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سختی عمدتاً رسول اللہ صلعم کی مخالفت کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ اگر انہوں نے کسی حدیث کی بنا پر استدلال کیا ہے تو وہ حدیث صحیح نہ ہو یا ان کا قیاس غلط ہو یا انہیں بخاری والی حدیث کا علم نہ ہوا ہو۔ لیکن اس صورت میں صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ انہیں غلطی نہ تھی۔ ایسے حیدوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے بعض لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ اور میں وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس بیعت لفظ لکھے ہیں و ملا مکرر روایت یوں ہے: قال النبی صلعم علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کا کلب یعود فی قریبہ لیس لنا مثل السوہ۔ یہ فقرہ ۲۰۶۹ میں نہیں ہے۔ ہمارے لئے بری مثال نہیں ہے

ملک تریابی غفلت
 میں +
 ملخصیف انتہ
 سے دوہرایا ہے
 قال دعوہ من
 الشوریہ جاء
 المسورین
 عنہم فوضعہ
 علیہم تکلیفًا خلقت
 معہ الی سعد
 فقال ابورافع
 للمسور الا تامر
 ہذا ان یشترک
 منی بیئۃ الذی
 فی وادی فقال
 لا اذیبہ علی
 ابوعبائہ اما
 مقطعة واما
 مجذبة قال
 اعطیت خمساً
 نقداً فمئنتہ
 ولما انی سمعت
 النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم یقول الجار
 احق بصقبہ ما
 بعتکہ او قال ما
 اعطیتک قلت
 لیس فی ان معنی
 لم یقل ہکذا
 قال لکنہ قال لی

(۱۹-۴۰) **عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّعْبَةُ لِلْبُحَيْرِ ارْتِمَتْ**
 دیکھو حدیث ۴۰، ۱۸۰ ملکہ اور بعض لوگ (صحیح) کہتے ہیں ہر نکتہ کے لئے شعوبہ ہے پھر
عَمَدًا إِلَى مَا شَدَّ دَعَا فَاَبْطَلَهُ وَقَالَ ابْنُ اشْتَرَى دَارًا فَخَفَاتَ اَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ
 جس چیز کو مضبوط کیا تھا اس کا ضد کیا اور اسے باطل کیا اور کہا اگر ایک گھر خریدے اور اسے ڈر ہو کہ ہمسایہ شعوبہ کر کے لے لیگا
بِالشُّعْبَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ الْجَارُ الشُّعْبَةَ
 پھر وہ سوتھوں میں سے ایک حصہ خرید لے پھر باقی کا خرید لے اور ہمسایہ کے لئے شعوبہ بچے حصہ
فِي السَّهْمِ الْاَوَّلِ وَلَا شُّعْبَةَ لَهُ فِي الْبَاقِي الدَّارِ وَكَهْ اَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ رَمَى
 میں ہے اور باقی گھر میں اس کا کوئی شعوبہ نہیں اور اس کے لئے جائز ہے کہ ہمسایہ جلد کرے
۴۰-۴۰ عَنِ السُّورِ بْنِ حَنْزَلَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ اِذَا اَدَّانَ
 دیکھو حدیث ۴۰، ۱۸۰ ملکہ اور بعض لوگ (صحیح) کہتے ہیں کہ جب جاہل کو شعوبہ کو بیچ کر دے
يُبْدِي الشُّعْبَةَ فَلَهُ اَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَبْطُلَ الشُّعْبَةُ فِيهِ الْبَائِعُ الْمَشْتَرِيَ الدَّارِ
 یعنی شعوبہ والے کا حق باقی تر ہے، تو اس کے لئے جائز ہے کہ جلد کرے یہاں تک کہ شعوبہ کو باطل کر دے اور بیچنے والا گھر خریدار کو ہمسایہ
وَيُجَدُّهَا وَيُدْفَعُهَا لِيَوْمٍ وَيُعْوَضُهُ الْمَشْتَرِيَ اَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ الشُّعْبُ فِيهَا
 اور اس کی حد بندی کر دے اور اسے اس کو دیدے اور خریدار اس کو اس کا ٹولہ ایک ہزار درہم دے دے تو شعوبہ دے کے اس میں کوئی
شُعْبَةٌ (۴۰-۴۰) عَنِ ابْنِ رَافِعٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنْ اشْتَرَى
 شعوبہ باقی نہ رہے گا ملکہ دیکھو حدیث ۴۰، ۱۸۰ ملکہ اور بعض لوگ (صحیح) کہتے ہیں اگر کسی گھر کا حصہ خریدے
نَصِيبَ دَارٍ فَادَّانَ يَبْطُلُ الشُّعْبَةُ وَهَبَ لَابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ بَيْنَ
 اور شعوبہ کو باطل کرنا چاہیے تو اپنے نابالغ بیٹے کو ہمسایہ اور اس کو قسم نہیں دی جا سکتی
(۴۵) بَابُ اِحْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيَهْدِيَ لَهُ رَمَى عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ السَّرْعَدِيِّ
 باہل عامل یعنی ملازم کا جلد کرنا کہ اسے شغور یا جلے
(متکورد-۸۰۵) (۴۰-۴۰) عَنِ ابْنِ رَافِعٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ
 دیکھو حدیث ۴۰، ۱۸۰ ملکہ اور بعض لوگ (صحیح) کہتے ہیں
اِنْ اشْتَرَى دَارًا بَعَثَ رَيْنَ اَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَأْسُ اَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ
 کہ اگر ایک مکان میں ہزار درہم بے خریدنے کا ارادہ کرے تو کوئی ہرج نہیں کہ جلد کرے یہاں تک کہ مکان کو

لکن انہ ملکہ ان حیلوں میں سے جن کا راستہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء نے خود لوگوں کو بتایا ہے بہت سے ایسے ہیں جو احکام شریعت کا ابطال کرتے ہیں +
 ملکہ یہ مکرر روایت مختصر ہے۔ ان سعدا سادہ بیتا باربعینا متفقاً فقال لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بصقبہ لما اعطیتک
 ۱۵۰۰ ہفت بہت مختصر ہے اور اس کی تفصیل ۱۱۰۵ میں ہے یہاں اس سے بھی زیادہ تفصیل ہے۔ وقال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً علی صدقات
 بنی سلیمہ یروی ابن التبتیہ فلما جا محاسبہ قال ہذا ما نکر وھذا اھدیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلاً جلست فی بیت امیرک و امرک حتی تاتیک
 ہدیتک ان کنت صادقاً ثم غطیتا فھمن اللہ واشفی علیہ ثم قال اما یص فانی استعملی الرجل مکر علی العمل ہما ولان اللہ فیاتی فیقول
 ہذا ما لکر وھذا اھدیہ اھدیہ لی اقل جلس فی بیت اربہ وامہ صحتہ تا فیہ ہدیہ واللہ لا یأخذ احد مکر ہینا بئیر حقہ الا لقی اللہ علیہ بیوم
 القیامۃ فلا عرف احدکم لقی اللہ یعمل بعبادۃ اللہ عا او یعترف لھا سخاوا او شاکتہ ثم رفع ید لا حتی یروی بیانہ ابطہ یقول اللہم هل یلذت
 واس کے بعد کے لفظ راوی کے اپنے میں یعنی آپ کا بھائی اور قول میری آنکھوں کا دیکھنا ہوا اور کون کون سا ہوتا ہے، بصواب میں وسمہ اذنی
 حال کے یہ کہنے کو کر کے مجھے حلف ہے نام بخاری نے مال کہا ہے کہ ایک جملہ قرار دیا ہے اور محض یہ ہے کہ فقہاء کے ال کھانے کے جیسے اسی قسم کے ہیں کیونکہ
 ہر حال آخری عرض ہو جاتی ہے کہ دوسرے کا حق کھانے کا کوئی راستہ نکل گئے۔ ملکہ یہاں حدیث کا صرف ایک فقرہ دوہرایا ہے۔ الجار احق بصقبہ

بِعِشْرِينَ أَلْفَ دَرْهِمٍ وَيَنْقُدُ تِسْعَةَ أَلْفِ دَرْهِمٍ وَتِسْعِمَا نُوَّةٍ دَرْهِمٍ

میں ہزار دو درہم پر رہی ہے اور ایک کو تو ہزار نو سو تانہ سے درہم دے

وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَيَنْقُدُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ أَلْفَ فَا نَ

اور تیس ہزار میں سے جو باقی رہتا ہے وہی دس ہزار ایک درہم اس کے عوض ایک دینار دینے سے ہر ہر

طَلَبَ الشَّرِيعِ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دَرْهِمٍ وَلَا أَفْلا سَبِيلَ لَهُ عَلَى

شعیرہ نہیں ہے تو اسے میں ہزار دو درہم کو لے گا ورنہ اس کے لئے مکان لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے

الدَّارِ فَإِنْ اسْتَحَقَّتْ الدَّارُ رَجْعَ الْمُشْتَرِي عَلَى لِبَائِعِ يَمَادِ فَعَرَّيْلَهُ وَهُوَ

پھر اگر مکان کی اور کا نکلا تو خریدنے والا اسے اسی قیمت پر بیچنے والے کو لوٹا دے گا جو اس نے اس کو دی تھی اور وہ

تِسْعَةَ أَلْفِ دَرْهِمٍ وَتِسْعِمَا نُوَّةٍ وَتِسْعُونَ دَرْهِمًا وَدِينَارًا لِأَنَّ الْبَيْعَ

تو ہزار نو سو تانہ سے درہم اور ایک دینار ہے اس لئے کہ فروخت شدہ چیز کا

حِينَ اسْتُجِشَّ أَنْتَقِضَ الصَّرْفُ فِي الدَّيْنَارِ فَإِنْ وَجَدَهُ هَذَا الدَّارِ عَيْبًا

حق دار جب سے اس کا نکلا تو دینار کے متعلق جو معاملہ خریدار اور فروخت کنندہ میں ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس مکان میں

وَكَمْ سَتَحَقُّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دَرْهِمٍ قَالَ فَاجَا زَهُنَا الْخِذَاءُ

عیب پائی اور وہ دوسرے کا نہیں نکلا تو اسے فروخت کر کے لوٹے کہ جس ہزار دو درہم کی ایک چیز اور ایک دینار کی ایک چیز کا

بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ لَيْسَ صَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَدَاءٍ وَلَا خِشْيَةٍ وَلَا غَابِلَةٍ

کر لوٹے، مسلمانوں میں یہ دھوکہ جا کر رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عیب ہے نہ فریب نہ آفت علی

(م-۲۰۲۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ (م-۱۰۹۸) تکرار

دیکھو حدیث ۱۰۹۸ علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشریہ انبارم والے بار بار رحم کر پڑنے کے نام سے

۹۲- کتاب التعمیر

۹۲- تعمیر کی کتاب ۳

(۱) بَابُ أَوَّلُ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّوَسُّلِ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ

باب اولیٰ دینی (۱) سے پہلے چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وہ سچا خواب ہے علی

علا فقہاء کے ان جیلوں کا ذکر کر کے جن سے وہ ایک دوسرے کا مال کھلے کو جائز رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مکروا بیان کیا ہے جو بطور تعلق باب ۱۹ میں گذرا اپنے کسی شخص سے ایک سو کا تھا جس کے متعلق یہ لکھا بیع المسلم المسلم لا حائل ولا حثب ولا غابلة تو اس میں یہ لکھا کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے سوا بیچیں تو کسی قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں سادہ قلم اسلامی جس کے رو سے اگر کسی چیز میں نقص ہو تو وہ بھی ظاہر کر دینا چاہئے اور کہاں یہ فقہاء کے حیلے جن کے رو

سے دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز بنایا گیا ہے علی لفظ ۲۰۲۱ کے ہیں + غلط تعبیر کا لفظ عبر سے مشتق ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا۔ اس سے اعتبار اور عبرت ہیں جن سے مراد ہے اس چیز کی معرفت سے جو شاہدہ ہیں ہے اس چیز کی معرفت کی طرف جانا جو شاہدہ ہیں نہیں اور تعبیر کا لفظ رؤیا یعنی خواب سے مخصوص ہے۔ گویا خواب کے ظاہر حالات سے ان کے باطن یا اصلیت کی طرف عبور کرنا + علی اس باب کا عنوان ہی یہ بتاتا ہے کہ وہی کا لفظ شریعت اسلام میں وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور رؤیا صالحہ یا سچے خواب کو بھی وہی کہی ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ مسلم امر ہے کہ رؤیا لے صالحہ میں نبی اور غیر نبی شریک ہیں۔ اس لئے باوجود ختم نبوت کے وہی انہی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ الرؤیا الصالحہ سے مراد سچا خواب ہے۔ اور بخاری کی بعض روایات میں الرؤیا الصالحہ قہ بھی آتا ہے +

(۳) بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ (۲۰۲۶) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (مُتَكَوَّرٌ) (۱۲۸۸)

باب خواب اللہ کی طرف سے ہے
دیکھو حدیث ۱۲۸۸

(۳۹۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

يَقُولُ إِذَا أَرَأَىٰ أَحَدَكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فليحمد الله عليها
فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے پسند کرنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے پس پڑھے کہ اس پر اللہ کی حمد کرے

ويحمد الله بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإثمها من الشيطان
اور اسے یاد دہوں سے بیان کرے اور جب اس کو سوا (ایسا خواب) دیکھے جسے ناپسند کرنا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے

فليستعد من شئها ولا يدكرها ولا يحدثها ولا يتذكرها (۴) بَابُ الرُّؤْيَا
پس چاہئے کہ اس کی شے سے بچا جائے اور اس کا نام نہ لے کرے یہ اسے نقصان نہیں پہنچاے گا۔ بَابِ رَوَايَةِ

الصَّالِحَةِ حَبْرَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبِيِّ
نبوت کے چھ یا تیس اجزائوں میں سے ایک جزو ہے

ایسی قدر اس کے
رویا میں دوہری
باتیں بھی دکھائی
جاتی ہیں مکان
اور زمانہ دونوں
لحاظ سے جڑنا سچ
ہونے نبی کریم ص
کے بعض رویا آج
تیرہ سو سال بعد
نہایت صفائی سے
پوسے ہوئے ہیں
اور تیرے ابھی
اندہ ہی صفائی
کے پوسے ہوتے

ہمیں گئے ہوں اس بارے میں روایات اور بھی ہیں جن میں چھ یا تیس کی بجائے پچیس سے یک چھتر تک مختلف حصوں کا ذکر ہے۔ مگر اس میں جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے حصے ہو سکیں۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ نبوت آنحضرت صلعم کے ساتھ منقطع ہو گئی تو دنیا صالح کے نبوت کا چھبیسواں یا چھبیسواں یا ستیسواں وغیرہ حصہ ہونے سے کیا مراد ہے تو بعض نے کہا کہ اگر خدا کے طریق پر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ روئے صالح نبوت کے مطابق ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ وہ علم نبوت کا ایک حصہ ہے اور فتح الباری میں ابن عبد البر سے مالک کا قول منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا روایا کی تعبیر ہر شخص کر سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا ابالنبیوت یلیجب پھر فرمایا ابالروایا جزو من النبوت فلا یلیجب بالنبوت گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روئے صالح کو نبوت کا ایک جزو قرار دینا مجاز کے رنگ کا کلام ہے۔ یعنی فی الحقیقت تو نبوت ایک مرتبہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو کھڑا کرنا ہارہے تاکہ وہ اس کی رضا کی راہ میں اس کی مخلوق پر بظاہر کریں۔ پھر اس کی تائید کرنے لے اللہ تعالیٰ پر دوسری غیب کی خبریں بھی ظاہر فرماتا رہا ہے جو اس عالم کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بطور تائید تھا۔ اور روئے صالح میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر غیب کی خبریں فرما کر اس عالم کے واقعات کے متعلق ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ تو یوں روئے صالح میں ایک رنگ نبوت کا لیا گیا اور وہ نبوت کا ایک جزو بن گئی۔ اس طرح پر نہیں کہ نبوت کے اصل کام میں سے کچھ کام اس کے ذریعے ہوتے ہیں تاکہ وہ کام مکمل کو پہنچ چکا بلکہ اس رنگ میں کہ اس اصل کام کی تائید کے لئے جو غیب کی خبریں اس عالم کے واقعات کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر ظاہر فرماتا تھا ان کو روئے صالح کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جاری رکھا ہے تاکہ اس ذریعے سے بھی انبیاء کی تائید ہوتی رہے اور تا نبوت پر یہ ایک شہوت جب تک دنیا باقی ہے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں سے اب بھی کلام کرتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ بعض احادیث میں اسے چھبیسواں یا چھبیسواں یا چھبیسواں یا چھبیسواں یا ستیسواں وغیرہ حصہ کیوں کہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اس روایا کی روشنی کی نسبت کے لحاظ سے ہو لیکن بعض روایات روشن ہوتے ہیں اور بعض ان سے کم ہو سکتی ہیں اور رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا اس امت میں صلحا کے ساتھ کلام کرنا بھی ثابت ہے۔ و حالیکہ مومن میں غیران یکرہوا انبیاء (علیہ السلام) اور یہ کلام جسے الامام کے نام سے منوم کیا جاتا ہے اس حدیث کے روایات میں شامل ہے (صدقہ حضرت جلال) بلکہ یہاں روایے سے مراد روئے صالح ہے یعنی میں سے کہ یہ مشروعیت کی اصطلاح ہے کہ روایا کو روئے صالح سے مخصوص کیا ہے ورنہ فی الحقیقت ہر خواب روایا ہے خواہ وہ جھوٹی ہو یا سچی۔ اور روایا کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس کی عظمت یا مشروعیت کے لحاظ سے ہے۔ حدیث ۱۲۸۸ کہ صرف ابتدائی حصہ ہر ایک کے عن النبوت صلعم قالوا لرؤیا من اللہ والحدیث من الشیطان ویکنونہ ۱۲۸۸۴۸ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا تو اب و سرور بیان کر دینا چاہئے۔ ہاں ۲۰۲۶ میں یہ تصریح کی جو کہ فلاحدیث بدلا من حدیث انہی لوگون بیان کرے ہیں محبت رکھتا ہے۔ دیکھو ہاں پر نوٹ۔ آج امت مسلمان ہیں جو یورپ کی مادہ پرستی سے متاثر ہو کر خواب کو محض ایک خیال سمجھتے ہیں جسکے نتیجے کوئی فائدہ نہیں مگر اب خود یورپ اس بات کا قائل ہو رہا ہے کہ کوئی خواب بھی معنی نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایسا خواب کیجیے جسے ناپسند کرنا ہے تو وہ شیطان ہے تو اس پر منوم بھی ہو سکتا ہے تو کہ شیطان اسے کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح شیطان جاگتے ہیں بعض وقت جھوٹی آرزوئیں انسان کے دل میں ڈالتا ہے اس طرح خواب بھی بعض وقت ایک غلط

نکارہ انسان کو دکھا دیتا ہے۔ تو ایسی باتوں کے لوگوں سے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہاں اس موخریہ عالمکی فصیحت قرآنی ہے کہ دعا سے دونوں مفصل ہوتے ہیں۔

بنا زینب ابی الغنفری
میں حدیث کو روایت کیا
ہے دیکھو نوٹ
صفحہ ۷۵
کتاب الروایا الحنفیة
من الرجل الصالح
کی جگہ پر دیا المؤمن
باقی لفظ دہی ہیں۔
۲۳۹۷
۲۳۹۸

(۲۳۹۷) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۳۹۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۳۹۷) دیکھو حدیث ۱۲۸۸ دیکھو حدیث ۲۳۹۶ دیکھو حدیث ۲۳۹۷

(۲۳۹۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۳۹۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۳۹۷) دیکھو حدیث ۲۳۹۶ دیکھو حدیث ۲۳۹۷

رَبِّكَ رُبِّي أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرُؤْيَا الصَّلَاةِ حُجْرًا مَن
کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ

سَمِعْتُ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مَن التَّبَوُّةِ (۵) بَابُ الْمُبَشِّرَاتِ (۲۳۹۷) عَنْ أَبِي
چھبیس برس اجزا میں سے ایک جزو ہے۔ بَابُ مَبَشِّرَاتِ ابویہرہ سے

هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا بَقِيَ مِنَ التَّبَوُّةِ الْآ
روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ فرماتے تھے کہ نبوت میں سے صرف مبعثات رہ

الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا أَوْ مَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ لِرُؤْيَا الصَّلَاةِ (۶) بَابُ رُؤْيَا يُوسُفَ
کہنے میں لوگوں نے عرض کیا اور مبعثات کیا ہیں فرمایا اچھی خواب مبعثات

وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوفًا وَأَنَا الْغَامِسُ
خواب اور اللہ تعالیٰ کا قول جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کو اس کے لیے گیارہ تاروں اور سوئے اور

وَالْقَمُورَ آيَةٌ لَهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ
پہا نہ کرو دیکھا میں نے انکو دیکھا کہ جھک کر سجدے میں رہا ہے۔ کہا میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا

فِيكَيدِ وَالْكَيْدِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْأَسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ
دروہ و تیرے سے کوئی عقلی تدبیر کرے گی کہ شیطاں انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تیرا رب تجھے ہے

رَبِّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
دیکھا ان تجھے باتوں کے معنی سمجھانے کا اور اپنی نعمت تجھے پورا اور یعقوب کی اولاد پر پوری کرے گا

كَمَا آتَاهَا عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلِ رَبِّكَ هُمُومٌ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَبِّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا
جس طرح اس نے پہلے تیرے دادا اور باپ پر ہم اور اسحاق پر لے کر آئی ایک تیرا رب بنانے والا حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ

أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رُؤْيَايَ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ لِي كَذَا أَخْرَجَنِي مِنْ
کا قول ہے میرے باپ پر میرے خواب کی تفسیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا اس نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے

السَّجْنِ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي
نکلا اور نہیں یاد ہے سے آیا اس کے بعد جو شیطاں نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان قید خانے کو لاد دیا تھا

لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَدْرِي
جس پر چاہے لطف کرنا ہے وہ علم اور حکمت والا ہے میرے رب! باتوں نے مجھے حکومت دی اور مجھے باتوں کے معنی سکھائے

الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا
آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے مجھے فرماؤ کہ میں تم پر وفادار رہوں گا

ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں نہ حق نہ پرانی۔ ہاں مبعثات، باقی ہیں۔ اور انی مبعثات میں اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی داخل ہے جسے عام اصطلاح میں امام کہا جاتا ہے مگر جسے حدیث میں کلام کے نام سے موصوم کیا گیا ہے چنانچہ فتح الباری میں ہے۔ ویرد علیہم الالہام فان فیہ اخبارا بلسیكون هولاء انبیا بالنسبة للوحی كالرؤیا۔ وبقیم لغیر الالہام۔ وقد اخبر کثیرا من الاولیاء عن امور منیة فكانت کما اخبرنا +

وَأُحْفِنُ بِالصَّالِحِينَ فَاطِرُ الْبَدِيعِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالْبَارِي وَالْخَالِقِ وَاحِدٌ مِنَ الْمَلَكِ

اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملائیے اور دوست - ۱۰۰۰-۱۱۱۱ فاطر اور باری اور مبتدع اور باری اور خالق ایک ہیں بادیہ پیدا و

بَادِيَةٌ رَمِي بِبَابِ رُوْيَا اَبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّامِيَّ قَالَ يَا بَنِي

سے شق ہے باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویا اور اسے تعالیٰ کا قول سبب وہ اس کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا تو کہا

رَانِي اَرْمِي فِي لَمَنَامٍ اِنِّي اَذْجِيكَ فَاَنْظُرْ مَا اَذْجِي قَالَ يَا اَبْتَ اَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ

اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو دیکھ تیری کیا رائے ہے کیا میرے باب جو مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ

سَيَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّادِرِينَ فَلَمَّا اسَلَمَا وَتَلَّهُ لِلْحَجِيْمِ نَزَادِي نَاهَا اَنْ

تو مجھے گرا کر لاش چاہے مہر کر فیولوں میں سے پائے گا تو جب دونوں نے فرما کر درباری کی اور اسے مانتے کے بل لیا اور ہم نے اسے پکا راکو

يَا اَبْرَاهِيْمَ قَدْ صَدَقْتَ الرَّوْيَا اَنَا كَذَلِكِ نَجْرِي لِحُسَيْنَيْنِ قَالَ مَجَاهِدٌ اسَلَّمَ اسَلَّمَ

اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نے یہی کر فیولوں کو اسی طرح بلا رہی تھے جس میں رصافات ۱۰۲ تا ۱۰۵ آجائے گئے اسلما اسلما

مَا اَمْرِي بِهِ وَتَلَّهُ وَضَعَهُ بِاَلْاَرْضِ (۸) بَابِ التَّوَاطُعِ عَلَى الرَّوْيَا (۲۰۳۱)

جس کا دونوں کو حکم ہوا تھا و تله اپنا منتر میں پر رکھا گیا باب سے خواب میں تواضع کا ہونا

عَنْ ابْنِ مَكْرُمٍ (مكرر ۱۰۱۱) بَابِ رُوْيَا اَهْلِ السَّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالثَّوَلِ

دیکھو حدیث ۱۰۱۱۱ باب قیدیوں اور فساد کرنے والوں اور شرکوں کی خواب سے

لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنُ فَنَبَّاهُ قَالَ اَحَدُهُمَا لِرَآئِي اَدَانِي اَعْصِرْ حَمْرًا وَا

اللہ کے قول کی وجہ سے اور ان کے ساتھ قید خانہ میں دو فوجان گئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب بخواتے ہوئے دیکھا

قَالَ لِاِخْرَجْنِي اَرَانِي اَجْمَلُ فَوْقَ رَاسِي خُبْرًا تَاكُلُ الظَّيْمَةَ نَيْشَرًا تَرْدِي بِهِ

ہے اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر دو شاہان اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک بھیرو تیار ہے

اِنَّا نَرُكَ مِنَ الْحَسَنِينَ قَالَ لَا يَا بَنِيكَمَا طَعَامُ تَرْتَرُ قَانَهُ اَلَا نَبَا لَكُمْ اَبْتَ اَدِيْلَهُ قَبْلُ

کہ ہم آپ کو نیکو کاروں میں سے دیکھتے ہیں کہ جو کھانا نہیں چاہتا ہے تمہارے پاس آنا نہیں پائے گا کہ میں اسکی بھیرو میں تادونگا قبل اس

اَنْ تَابِيْكُمْ اذْ لَكُمْ مَا عَلِمْتِي رَبِّي اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ

کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے یہ اس سے ہے جو میرے رب نے چھوڑ دیا ہے ان قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اس پر ایمان نہیں

بِالْاِخْرَقَهُمْ كَالْفُرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَائِي اَبْرَاهِيْمَ وَاسْتَحَقَّ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ

لانے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا پیرو ہوں میں

لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ اَكْثَرُ

من سب نہیں کہ کسی چیز کو کبھی اللہ کے ساتھ شریک کریں یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبِي السَّجْنِ اَذْذِيَابٌ مُّتَغَيَّرُونَ وَقَالَ الْفَضِيلُ

شکر نہیں کرتے اے میرے قید خانہ کے دو ساتھیو! کیا ایک ایک خداوند فضیل نے اس کو بتوہ پرا

ملی پہلی آیت میں حضرت یوسف کے رویا کا ذکر ہے اور دوسری میں اس کے پورا ہونے کا ذکر ہے یہ گویا اس خواب کی تعبیر تھی یہ ملی اس آیت میں حضرت ابراہیم کے رویا کا ذکر ہے اور کس طرح وہ پوری ہوئی حضرت ابراہیم کا خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جانا بتا ہے کہ انبیاء کا رویا بھی وحی کے حکم میں ہے مگر یہ پورا اور رنگ میں ہوا جس سے معلوم ہوا کہ نبی کا رویا تعبیر طلب بھی ہو سکتا ہے۔ ۱۳۳ مکرر روایت کچھ اختلاف سے آتی ہے۔ ان انا سارا انا ایلة العذار فی السبع الا واخروات انا سارا انا انھا فی الصفا والاخر و ملائیس عشر

اور آخر کا ذکر نہیں، فقال النبي صلعم التمسوها في السبع الا واخره ملائیس اس باب میں سورہ یوسف کا وہ حصہ نقل کیا ہے جس میں تین مختلف قسم کے آدمیوں کی خواب میں یہ سب مشرک تھے ایک بادشاہ اور دو قیدی۔ اور ایک ان میں سے فی الواقع ایسا مجرم تھا کہ جس کی سزا صلیب تھی۔ اس لئے امام بخاری نے فساد کرنے والوں کا لفظ بڑھا دیا ہے۔ تینوں کے خواب سچے ثابت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ خواب شرکوں اور فساقوں کو بھی آجاتے ہیں۔ اور سچا خواب وحی کا ذی ترین مرتبہ ہے۔ پس ان کو سب انسانوں میں عام رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ وحی کا کم و بیش تجربہ ساری نسل انسانی کو ہے۔ پھر ہمیت اعلیٰ درجہ کے لوگوں میں وہ مصطفیٰ غیب کے رنگ میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ یوں وحی الہی کا ایک ثبوت عام انسانوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ پھر تمام قوموں میں انبیاء کو بھیج کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ائینہ کا مصطفیٰ غیب بھی ساری نسل انسانی کو دیا گیا ہے۔

لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَتَّقَرْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

اپنے کسی مرید کو کہا اسے خدا کے بندے کی ایک ایک غذا دینا چھے ہیں یا اشر جو اکیلے سب پر غالب ہے

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْ لَهُمْ مَوَاطِنُ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ قَالُوا نَزَّلَ اللَّهُ هَٰمِينَ

اسے چھوڑ کر تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے رکھے ہیں اشر نے ان کی کوئی دلیل نہیں بتاوی

سُلْطَانِ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ آمْرَانِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيمِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ

حکم اشر کے سوائے اور کسی کا نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوائے اور کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ

الْقَاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبِ السُّجُنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْبِعُ رُبَّةً شَمْرًا أَوْ أَقْمَالًا خَوْفِ صُلْبِ

نہیں جانتے اسے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلانے کا اور دوسرا لہجہ پاجا

فَنَأْكُلُ الطَّيْرَ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ لَهُمْ نِذِيرٌ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ

تو پرندوں کے سر سے ٹوک کر کھا لیں گے اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو اور اسے جس کے متعلق اس نے یقین تھا

مِنْهُمَا إِذْ كَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاكَ الشَّيْطَانُ ذَكَرْتَهُ فِي فَلْسِ فِي السُّجُنِ بَضْعَ سَبْعِينَ

کروہ ان دونوں میں سے ربانی پاجا نے کہا میرا ذکر اپنے آقا کے پاس کرنا کہ شیطان نے اسے اپنے آقا کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا سو اسے

وَقَالَ لِمَلِكِ رَافِي أَدَى سَبْعِ بَقَرَاتِ سَمَانَ يَا كَلْبُ سَبْعِ عِجَافٍ وَسَبْعِ سَبْعِ لَاتِ

اور بادشاہ نے کہا میں نے سات موٹی گاؤں دیکھی ہیں انہیں سات ذیلی گاؤں کہا گئی ہیں اور سات سبز خوشے

خَضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسَاتُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِذْ كُنْتُ مِنَ اللَّوْثِ يَا تَعْبُدُونَ

اور سات اور خشک اسے اہل دربار میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو

قَالُوا أَضْعَافٌ أَحْلَامٌ وَمَا فَنُ بِنَادِيْلَ أَحْلَامِ يَعَالِمِينَ وَقَالَ لِنَزِي بَجَاهِنَا

انہوں نے کہا پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں اور اس نے جوان دونوں رکھ دیوں میں

أَذْكَرُ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَلَيْسَ كَذِبًا وَيَا قَارِئِ السُّورِ يَوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ

ہا ہوا تھا اور اسے ایک وقت کے بعد یاد آئیں نہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا مجھے جانے دو وہ وقت اے صوفی میں سات موٹی گاؤں کی تعبیر

سَمَانَ يَا كَلْبُ سَبْعِ عِجَافٍ وَسَبْعِ سَبْعِ لَاتِ خَضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسَاتُ لَعْنَةُ أَرْجَمِ رَافِي

بتاؤ مجھے سات موٹی گاؤں میں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات اور خشک سات کوئی لوگوں کی طرف لوٹ کر جانوں

النَّاسِ لَعْنَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَبْعِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرْوَةٌ فِي سَبْعِ

ساکروہ جان میں کہ تم حسب معمول سات سات کھیتی کر لگے تو جو کچھ کاٹو اسے اپنے خوشی میں ہی رہنے دو

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كَلْبُ مَأْتِدُهُمْ لَهْمٌ

سوائے تھوڑے کے جس سے تم کھاؤ پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے وہ سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کھینے پھلے سے

إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَادِثُ النَّاسُ وَيُفَصِّصُونَ

مجھ کیا ہے سوائے تھوڑے کے جو تم محفوظ کر لو پھر اس کے بعد یکساں آئے گا جس میں لوگوں پر مشن برسا یا جائے گا اور ہمیں وہ انگوڑی

وَقَالَ لِمَلِكِ اسْتَوْثِنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَكَ الرَّسُولُ قَالَ رَجِعْ إِلَى رَبِّكَ وَأَذْكَرُ أَفْتَحِلْ

پوچھ لو اسے اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ سو جب قاصد اس کے پاس آیا گا اپنے آقا کے پاس واپس جا اور آذکر انھیں رکھنے

مِنْ ذِكْرِ أُمَّةٍ قَرْنٍ وَيُفَرِّقُ أُمَّةً وَسَيَّارٍ وَقَالَ بَرَسُ كُنَّاسٍ يَعْصُرُونَ الْأَعْنَابَ

پہا ذکر سے ہے اُمّت زمانہ اور اُمّت بھی پڑھا جاتا ہے (یعنی) بھول اور ان عباس نے کہا پوچھو تھے

وَالَّذِينَ تَحْصِنُونَ خَيْرٌ سَوْنٍ (۳۲-۳۳) حَسْبُ الْبَرِّ هَرَبَةٌ (۳۲-۳۳) (متکرر)

تھوڑے سے محفوظ کر لو گے تصونون محفوظ کر لو گے

تعمیر ۱۵۲۴

۱۵۲۴ کے آخری
تھوڑے کو ان
القاسمیں وہ پڑا
ہے۔ وقال رسول
الله صلعم و
فی السجون ما
نبت يوسف ثم
اتاني الداعي
لا جبهه +

1524

(۱۰) بَابٌ مِّنْ رَّأْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ رَم - ۴۰۳۳ عَنْ أَبِي

يَابُثَ جُونِي مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَوْنِ خَوَابٍ يَرَى

هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۹۵ (م - ۴۰۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۲۳۹۲ (م - ۴۰۳۵)

دیکھو حدیث ۱۹۵ دیکھو حدیث ۲۳۹۲

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۴۸۸ (م - ۴۰۳۵) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۱۴۸۸ ابرقوادہ سے روایت ہے

قَالَ لَيْتَ صَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَأْيِي فَقَدْ رَأَى الْحَقُّ (م - ۴۰۳۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

كَرْبِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَعَى فَرَايَا جَسْنِي كَمَا وَدَيْهَا تَوَسَّلَ لِي بِحُجْرَتِي

رَوَايَتٌ هِيَ كَمَا نَعَى لِي مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَوْنَهُ يَرَى مَا كَوْنَهُ يَرَى كَمَا كَوْنَهُ يَرَى

بِالْحَدِيثِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقُّ فَاَنَّ

الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُ نِيَّ (۱۱) بَابٌ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَوَاهُ سَمُرَةُ (م - ۴۰۳۶) عَنْ

شَيْطَانٍ مِيرِي صَوْرَةٍ بِرَيْسِي هُوَ كَمَا بَابُ رَاتِ كِي خَوَابٍ اسے سرہ سے روایت کیا گیا

أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۳۶۶ (م - ۴۰۳۸) عَنْ حَبِيبِ اللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ (مُتَكَوِّرًا) ۱۵۴۳

دیکھو حدیث ۱۳۶۶ دیکھو حدیث ۱۵۴۳

(م - ۴۰۳۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) ۳۴۰۰ (م - ۱۱۲) بَابُ الرُّؤْيَا يَأْتِي النَّهَارَ وَقَالَ بَنُ

عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سَلِيمٍ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلَ رُؤْيَا اللَّيْلِ رَم - ۴۰۴۰ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ابن سیرین سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ دن کا خواب رات کے خواب کی طرح ہے

(مُتَكَوِّرًا) ۱۲۸۶ (۱۳) بَابٌ رُؤْيَا النِّسَاءِ رَم - ۴۰۴۱ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ أَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (مُتَكَوِّرًا)

دیکھو حدیث ۱۲۸۶ بَابُ عَوْرَتِي كَوْنِ خَوَابٍ

دیکھو حدیث ۱۲۸۶

۹۵ کے درمیان میں حکم لکھنے کو کچھ مشین کے ساتھ دوہرایا ہے۔ سمعت النبی صلعم بقول من رآنی فی المنام فیرانی فی البقعة ولا یتمثل الشیطان بی قال ابن سیرین اذا رآه فی صورته اس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا ایک روایت میں آتا ہے۔ فلما رآنی فی البقعة کویا کہ وہ مجھے حالت بیداری میں دیکھتا ہے۔ ورنہ حدیث کا مفہوم خواہ اہل

عمر تک بھی محدود رکھا جائے ٹھیک نہیں رہتا۔ پھر فرمایا شیطان میری صورت پر تشکل نہیں ہوتا یعنی ایسا خواب بھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابن سیرین نے اس پر بڑھایا ہے کہ جب آپ کو اپنی اصل صورت پر دیکھے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تشکل کے طور پر کسی اور صورت میں آپ کو دیکھا جائے وہ غلط مکرر روایت کے لیے حدیث میں آدھ کی حدیث کا کچھ مضمون بڑھایا ہے۔ قال النبی صلعم من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی ریمری شکل میں بن سکتا، دو رویا المؤمن جزو من سنتہ وادبعین جزا من النبوة، مسند مکرر روایت کچھ کمی مٹی کے ساتھ آئی ہے۔ قال النبی صلعم الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فمن رآی شیئاً یکرهہ فلیتحدث عن شئالہ ثلاثاً لئلا یتعود من الشیطان فانما لا تقصوه وان الشیطان لا یتزایا بی ریمری شکل اختیار نہیں کرنا، مسند مکرر یہ روایت کتاب التعمیر کے آخر میں آئی ہے، مسند قریباً وہی لفظ ہیں۔ انانا شکم کے بعد الباریت زیادہ کیا ہے۔ یعنی گزشتہ رات خوابوں کی چابیاں تو نبی صلعم کو دی گئیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ خزانے اب تم نکال سبے ہو یعنی یہ پیشگوئی آپ کے اتباع کے ہاتھ پر پوری ہوئی، مسند پہلا حصہ مجھو ذکر خفیف اختلاف افطی سے دوہرایا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم قال ارانی اللیلۃ عندنا الکعبۃ فزیت رجلاً آدم کا حسن ماانت رآہ من آدم الرجال لہ لیلۃ کا حسن ماانت رآہ من اللہم فن رجلاً انقطر ماہ متکلم علی رجلین او علی عواقب رجلین بطوفت بالبدیت فسات من ہذا نقیل المسیح ابن مریم ثم اذا اناب رجل جعلی قططاً عوراً العین الیمنی کا تھا عذبة طافیة فسات من ہذا انقیل المسیح الدجال۔ دیکھو نوٹ ۳ صفحہ ۵۹۶ اس حدیث کو جو ابن مریم کے آنے اور سب الرجال کے ظہور سے تعلق رکھتی ہے تعبیر روایکے ذکر میں لائے سے یہ صاف منشا ہے کہ رویا میں جو نظارہ آئندہ کا دکھایا جاتا ہے وہ تعبیر طلب بھی ہو سکتا ہے، مسند میں صرف یہ لفظ ہیں۔ ان رجلاً الی رسول اللہ صلعم فقال انی رایت اللیلۃ فی المنام و ساق الحدیث۔ اصل حدیث اس کے آتی ہے، مسند قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ ام حرام کے گھر میں دن کے وقت آپ کو رویا دیکھے کا ذکر ہے جس میں آپ کو اپنی امت کے لوگ بادشاہ دیکھائے گئے، مسند میں ایک قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ اس میں کسی صورت کے رویا کا ذکر نہیں صرف یہ ذکر ہے کہ ام لعلوانہ عثمان بن مطلق کے حق میں جو قوت ہو گئے تھے کچھ کلمات کہے تھے لہذا اگلی مکرر روایت میں اس کے بعد ام لعلوانہ کے رویا میں ان کی حالت کو دیکھنے کا ذکر ہے

<p>(م-۲۲۳) عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ (مُتَكَوِّرًا ۶۷۲) (۱۴۴) بَابُ الْحَلْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا دیکھو حدیث ۶۷۲ بائبل پر بیان خواب شیطان کی طرف سے ہے جس میں جب</p>	<p>علیہ یوں نہری کہ روایت سے اسی حدیث مذکور کے متعلق یہ</p>
<p>حَلْمٌ فَلْيَبْصُرْ عَنْ نَيْسَارَةَ وَلَا يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (م-۲۲۴) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ پر بیان خواب دیکھے تو ابی قاتادہ نے اور اشرار اور بل کی پناہ مانگے</p>	<p>لفظ آتے ہیں قال رسول اللہ صلعم نے فرمایا</p>
<p>(مُتَكَوِّرًا ۱۲۸۸) (۱۴۵) بَابُ اللَّبَنِ (م-۲۲۷) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو (مُتَكَوِّرًا ۷۷۸) دیکھو حدیث ۱۲۸۸ بائبل دودھ بٹا دیکھو حدیث ۷۷۸</p>	<p>قال رسول اللہ صلعم نے فرمایا</p>
<p>(۱۴۶) بَابُ إِذَا اجْرَى اللَّبْنُ فِي اطْرَافِهِ أَوْ اطْرَافِهِ رَمَ ۲۰۵ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بائبل جب دودھ اس کی اطراف میں جاری ہو یا اس کے ناخنوں میں</p>	<p>بہ حالت واضح ہے نعمت فراغت</p>
<p>ابْنِ عَمْرٍو (مُتَكَوِّرًا ۷۷۸) (۱۴۷) بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ (م-۲۲۶) عَنْ أَبِي دیکھو حدیث ۷۷۸ بائبل خواب میں قمیص</p>	<p>لعممان عینا بخاری فاخرت رسول</p>
<p>سَعِيدِ بْنِ الْحَدَّادِي (مُتَكَوِّرًا ۲۱) (۱۴۸) بَابُ جَزَأِ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ (م-۲۲۷) عَنْ دیکھو حدیث ۲۱ بائبل خواب میں قمیص کھینچنا</p>	<p>اللہ صلعم فقال ذاك عمله - یعنی</p>
<p>أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْحَدَّادِي (مُتَكَوِّرًا ۲۱) (۱۴۹) بَابُ النَّخْوَةِ فِي الْمَنَامِ الرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ (م-۲۲۸) دیکھو حدیث ۲۱ بائبل خواب میں سبز چھینے اور سبز باغ</p>	<p>اس کے بعد اعلان نے روایا دیکھا کہ</p>
<p>۲۰۸) عَنْ قَلْبِ بْنِ عَمْرٍو (مُتَكَوِّرًا ۷۹۵) (۱۴۹) بَابُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ (م-۲۲۹) دیکھو حدیث ۷۹۵ بائبل خواب میں عورت سے کپڑا اٹھانا</p>	<p>عثمان کے لئے ایک جاری چشمہ جو</p>
<p>عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَوِّرًا ۲۵) (۱۵۰) بَابُ تَيَابِ الْجَزْبِ فِي الْمَنَامِ (م-۲۳۰) عَنْ عَائِشَةَ دیکھو حدیث ۲۵ بائبل خواب میں ریشم کے کچھڑے</p>	<p>تور رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ یا میں کاش ہے</p>
<p>(مُتَكَوِّرًا ۱۷۵) (۱۵۱) بَابُ الْمَفَاتِيحِ فِي الْمَنَامِ (م-۲۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا ۳۶۶) دیکھو حدیث ۱۷۵ بائبل مفاتیح کی بھینچیں</p>	<p>بہ حالت واضح ہے انفا حدیث سے</p>

بہ حالت واضح ہے
 نعمت فراغت
 لعممان عینا بخاری
 فاخرت رسول
 اللہ صلعم فقال
 ذاك عمله - یعنی
 اس کے بعد اعلان
 نے روایا دیکھا کہ
 عثمان کے لئے
 ایک جاری چشمہ جو
 تور رسول اللہ صلعم نے
 فرمایا کہ یا میں کاش ہے
 بہ حالت واضح ہے
 انفا حدیث سے
 یا میں کاش ہے
 رویا کے فرق پر
 دیکھو نوٹ

صفحہ ۵۴۵ علیہ تخفیف اختلاف بعضی سے دوہرایا ہے۔ اور ابتدا میں اور تو اوہ کے متعلق لکھا گیا ہے وہاں سے اس میں اضافہ فرمایا ہے۔ لفظ یہ ہے۔ جمع رسول اللہ صلعم یقول الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان فاذا حلم احدکم بالحلم لیکوہ قلب صبح عن یساره ولست تعدن بالله منہ فلن یصوہ علیہ مطلب یہ ہے کہ دو وہ کی تعبیر کیا ہے حدیث قریشی انی الفناظیر منہ یابا ہے۔ دو وہ بچہ کی تعبیر علم سے کی ہے وہ لفظ وہی ہے۔ اخطاری کی جگہ اطرائی ہے۔ یہ کہ قریشیوں کو حفظ ہے یہ قمیص کی تعبیر دین سے کی ہے وہی لفظ وہی ہے۔ یسارہ کی جگہ یسارہ ہے۔ یہ کہ روایت اختصار سے آئی ہے یا کہ زیادتی بھی ہے۔ کنت فی حلقتہ فیہا سعد بن مالک ظن عمر فصر عبد اللہ بن سلام فقالوا هذا رجل من اهل الجنة فقلت له انهم قالوا لکن اقال سبحان الله ما کان ینبئہ لهم ان یقولوا ما لیس لهم بہ علم انما رأیت کذا عبد عمرو وضع فی روضۃ خضراء فغضب فیہا و فی رأسها عروۃ و فی اسفلها منصف والمصنف الی صریف فقیل اوفۃ قرینت حتی اخذت بالعروۃ فقصصتها علی رسول الله صلعم فقال رسول الله صلعم یعورت عن عبد الله وهو اخذ بالعروۃ الوضیۃ ۱۹۵۷ میں اس کی تعبیر رسول اللہ صلعم نے یوں فرمائی۔ الروضۃ الا سلام وہی اولاد عبد عمرو اولاد اسلام و تلك العروۃ عروۃ الوضیۃ یعنی العروۃ العروۃ حتی توتہ ما اریتک فی المنام موتن کے بعد ہے۔ اذا رجل یحلمک فی سقۃ محبرہ ایک شخص نے آپ کو ایک شبی کپڑے کے ٹکڑے میں اٹھایا ہوا ہے۔ لیس میں تفصیل زیادہ ہے اور جب پہلی روایت میں رجل ملک یہاں اسے ملک کہا ہے جس سے معلوم ہوا وہ فرسہ جبریتہ انسان تھا۔ لفظ یوں ہیں:- قانت قال رسول الله صلعم اریتک قبل ان اترجک موتن ذمیت الملک یحلمک فی سقۃ من حررققت له اکثرت فکثفت فاذا حی انت فقلت ان یکن ہذا من عند الله یصدہ ثم اریتک یحلمک فی سقۃ من حررققت: اکثرت فکثفت فاذا حی انت فقلت ان یکن ہذا من عند الله یصدہ: لفظ وہی لفظ ہیں کہ حضرت فی یہی دوزخ ان کی جایاں میرے ہاتھ میں ہیں وہی کہے ہیں جو کہے قال ابوہریرہ کہ میں نے کہا ہے۔ قال سعد بن ابی وقاص ان جو امام الکل ان اللہ یجزم الاموال الذریۃ التي کانت تکتب فی الکتاب قبلہ فی الاموال والحدود والحدود الیہاں جو امام الکل کی جو کتا اللہ تعالیٰ موت سے امور کو جو جلی کتابوں میں لکھے جاتے تھے ایک یا دو امراض میں جمع کر دیتا ہے اور قرآن کریم ہے اور حدیث میں جو انہا کے موطائی ہیں وہ بھی اور حدیث میں۔ یہاں حدیث کو لائے کی غرض یہ ہے کہ

کہ رویا میں خوابوں کی بھینچیں آپ کے ہاتھ میں ہیں گیس جس کی تعبیر تھی کہ آپ کی امت کو بادشاہ تھا اور شوالہ میں لگے

وَرَدَى قِتَادَةَ وَيُوتِسُ وَهَشَامَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ
اور قتادہ اور یونس اور ہشام اور ابو ہریرہ نے ابن سیرین سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے راویوں نے
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُورِجَهُ لِبَعْضِهِمْ كَلِمَةً فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفِ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راویوں سے یہ حدیث ہے اور بعض نے ان ساری باتوں کو حدیث میں داخل کیا ہے یعنی ان کا موضوع ہونا بیان کیا گیا
أَبِيْنَ وَقَالَ يُوْسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِقْدَا قَالَ
اور عوف کی حدیث بہت واضح ہے اور یونس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ قید کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے بخاری
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْأَخْلَافِ الْأَخْثَاقِ ۲۰۴ بَابُ الْعَيْنِ الْجَمْرِيَّةِ
نے کہا اغلالی گردن میں ہی ہوتی ہیں ۲۰۴ باب آغراب میں جاری چشمہ دیکھنا
فِي لِمْنَا م (م-۲۰۵) عَنْ أَمِّ الْعَلَاءِ رَضِيَ عَنْهَا (م-۱۷۲) ۲۰۴ بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۲۰۵ باب نزع پانی سے پانی
مِنَ الْبَيْتِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَى النَّاسِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نہاں یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو جائیں اسے ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے
(م-۲۰۵) عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (ممتکرم-۱۷۲) ۲۰۹ بَابُ نَزْعِ الذُّنُوبِ الذُّنُوبِيْنَ
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۲۰۹ باب نزع گناہوں سے ایک یا دو ذول کو مروی
مِنَ الْبَيْتِ بِضَعْفٍ (م-۲۰۶) عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (ممتکرم-۱۷۲) (م-۲۰۵) عَنِ ابْنِ
کے ساتھ گناہ دیکھو حدیث ۱۷۲ م
هُرَيْرَةَ (ممتکرم-۱۷۲) ۳۰۱ بَابُ الْأَسْرَاحَةِ فِي لِمْنَا م (م-۲۰۵) عَنْ
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۳۰۱ باب خواب میں آرام کرنا
أَبِيْ هُرَيْرَةَ (ممتکرم-۱۷۲) ۳۱۱ بَابُ الْقَصْرِ فِي لِمْنَا م (م-۲۰۵) عَنِ
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۳۱۱ باب خواب میں محل روکنا
أَبِيْ هُرَيْرَةَ (ممتکرم-۱۷۲) (م-۲۰۶) عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (ممتکرم-۱۷۲)
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۲۰۶
(م-۳۲) بَابُ الْوُضُوْعِ فِي لِمْنَا م (م-۲۰۶) عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ (ممتکرم-۱۷۲)
دیکھو حدیث ۱۷۲ م ۳۲ باب خواب میں وضو کرنا

ملا قرینا منی القاف
 میں حدیث کو دیکھ کر
 کہ آخر پر بڑھا گیا ہے
 قالت ورايت
 نعمان فی النوم
 عینا تجری
 غشت و رسول اللہ
 صلعم فتکرت
 ذکاءه فقال
 ذاك عمله یحوی
 له و یہ وہ حصہ ہے
 جو ۲۰۵ م
 ابھی گنہا جاری
 چنے کی تعمیر آپ
 نے یوں فرمائی
 کہ یہ انسان کا
 عمل ہے +
 ملا خضیتہ اغلالی
 لفظی سے وہ لوہا
 ہے۔ قال رسول
 اللہ صلعم بینا
 اتا علی باؤ نزع
 منها اذ جہاد ابو
 بکر و عمر فاخذ
 ابو بکر الدلو
 فنزع ذنوباً و
 ذنوبین و فی
 نزعہ ضفعت
 نفعوا لله له ثم

اخذها ابن الخطاب من يدي ابى بكرة فاستخالت في يده غريباً فلم ازل اعبرته كما من الناس يغري فريه حتى ضرب الناس بطون +
 ۱۷۲ م کے قریب قریب ہیں مضمون کے لئے دیکھو اور ہر کی روایت + ملا ۲۰۵ م ۲۰۵ م ابو ہریرہ کی روایت اسی مضمون کی ہے۔
 جو ابن عمر کی روایت ۱۷۲ م کا مضمون ہے اور یہ پہلے ۱۷۲ م پر لکھی چکی ہے۔ ۲۰۵ م کے لفظ قرینا ہی ہیں جو ۱۷۲ م کے میں + ۱۷۲ م خضیت
 اختلاف لفظی سے آئی ہے۔ قال رسول اللہ صلعم بینا اتا اننا کم رأیت انی علی حوض استقی الناس فاتانى ابو بکر فاخذ الدلو
 من يدي لبى حتى فنزع ذنوبين و في نزعہ ضفعت والله يغفر له فاتى ابن الخطاب با فخذ منه فلم يزل
 ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر - اس میں تعبیر کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ ذکر ہے کہ ابو بکر نے میرے ہاتھ سے ڈول لیا
 تاکہ مجھے آرام نہ دے مگر شاہد اس میں ہی تھا کہ آپ کی وفات کے بعد خلافت حضرت ابو بکر کے سپرد ہوئی۔ ملا قرینا منی القاف میں حدیث کو دوہرا لیا ہے
 میں بھی تعبیر کا کوئی ذکر نہیں صرف یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلعم نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا اور وہ حضرت عمر کا تھا + ۱۷۲ م کا صرف
 ایک حصہ میں مختصر بیان کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلعم دخلت الجنة فاذا اننا بقصوم من ذهب فنقلت لمن هذا فقالوا الرجل من قریش فما
 منعی ان ادخله یا ابن الخطاب الا ما اهل من غیرك قال وعلیک انما رسول اللہ + ملا قرینا منی القاف میں خواب میں ضرورت کا ذکر م

م نہیں بلکہ کسی کو وضو کرتے دیکھنے کا ذکر ہے +

(۳۵) بَابُ إِذَا رَأَى بَقْرًا أَوْ خَرُوفًا مِمَّنْ رَمَى فِي مَوَاطِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م-۴۸) عَنْ أَبِي مُوسَى (م-۱۶۲۲) رَمَتْ كُرُوحًا

بَابُ إِذَا رَأَى بَقْرًا أَوْ خَرُوفًا مِمَّنْ رَمَى فِي مَوَاطِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م-۴۸) عَنْ أَبِي مُوسَى (م-۱۶۲۲) رَمَتْ كُرُوحًا

(۳۶) بَابُ التَّخْرِيفِ فِي الْمَنَامِ (م-۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۶۲۱) (م-۱۶۲۱) بَابُ

بَابُ التَّخْرِيفِ فِي الْمَنَامِ (م-۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۶۲۱) (م-۱۶۲۱) بَابُ

إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُوْرَةٍ فَاسْتَكْنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ (م-۳۳۹) عَنْ عَبْدِ

إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُوْرَةٍ فَاسْتَكْنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ (م-۳۳۹) عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَانَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ

اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَانَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ

خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمُهَيْبَةَ وَهِيَ الْحَجْفَةُ قَاوَلَتْ أَنْ وَبَاءَ

خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمُهَيْبَةَ وَهِيَ الْحَجْفَةُ قَاوَلَتْ أَنْ وَبَاءَ

الْمَدِينَةَ نَقَلَ إِلَيْهَا (م-۳۲) بَابُ الْمَرْأَةِ السُّودَاءِ (م-۴۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

الْمَدِينَةَ نَقَلَ إِلَيْهَا (م-۳۲) بَابُ الْمَرْأَةِ السُّودَاءِ (م-۴۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ابْنِ عُمَرَ (م-۳۳۹) (م-۳۳۹) بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ (م-۴۱) عَنْ

ابْنِ عُمَرَ (م-۳۳۹) (م-۳۳۹) بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ (م-۴۱) عَنْ

ابْنِ عُمَرَ (م-۳۳۹) (م-۳۳۹) بَابُ الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ (م-۴۱) عَنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَمَّ بِحَيْبٍ لَمْ يَبْرُكْ كَلَّفَ أَنْ يَتَّقِيَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَمَّ بِحَيْبٍ لَمْ يَبْرُكْ كَلَّفَ أَنْ يَتَّقِيَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ

وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يُفْضَوْنَ مِنْهُ صَبَّ فِي أذُنِهِ

وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يُفْضَوْنَ مِنْهُ صَبَّ فِي أذُنِهِ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

إِلَّا نَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ صُورِ صَوْرَةٍ عَرَبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَعَهَا وَكَيْسَ يَنْفَعُ

ملا کچھ چھوڑ کر روایت کو دوہرایا ہے۔ عن النبی صلعم قال رأیت فی المنام انی انا جاور من مکة الارض بها نخل فذهب وحلی الی انہا الیماة او حیحی فاذا فی المدینة یترب و رأیت فیہا بقرا واللہ خیر فاذا هم المؤمنون یوم احد و اذا اذ الخیر و ایا اللہ من الخیر و قال الصدوق النبی اتانا اللہ ببعید یوم بدر ۱۶۲۲ اور کمر روایت میں صرف بقرا کا نفا ہے ان کے ذبح کیا جائے گا ذکر نہیں۔ مگر امام احمدی روایت میں بقرا تخر ہے اور اسی سے عن ابن باب ہے

متعلق آتا ہے کہ وہ مجھوں تک فرماتے تھے مگر چونکہ ان چیزوں کے بانی غرض پرشہ تھے۔ اسی لئے اس عمل میں بیان کیا تو تصویر پرنفس بحث کیلئے دیکھو روش ملاحظہ صفحہ ۱۳۶

روفي روايته عن ابي هريرة قوله من كذب في رواية روفي روايته عن

ملان تعلیقات

کی رو سے یہ ابو

ہریرہ کا قول ہے

یعنی مرفوع نہیں

اور اس سے اگلی

حدیث میں اسے

ابن عباس کا قول

قرار دیا ہے

مطلیہا لفظ یہ

میں قال ہوا

دہن علم دہن

صورت فوج

مطلیہا آنکھوں کو

دکھلانے سے مراد

یہ ہے کہ ان کی

طرف دیکھنا سبب

کرے یعنی ایسا

خواب بیان کرے

حواس نے نہیں

دیکھا۔ افزا تو

دہ بھوٹ ہے

جو دوسرے پر

ابو هريرة روايته من يه ابو هريرة كذا يقال في

ابن هريرة قوله من صور ومن علم ومن استمع من ابن عباس

ابو هريرة كذا يقال في كذا يقال في كذا يقال في

متكرد (۲۳۹۸) (۲۳۹۹) ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

دیکھو حدیث ۲۳۹۸

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

من أقرى القرى أن تيري عينيه ما لم تر (۲۴۰۰) باب إذا رأى ما يكره فلا

بتا نوں میں سے سب بڑا بتان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو وہ دکھلانے جو اس نے نہیں دیکھا

یخبر بها ولا يذکرها (۲۴۰۱) (۲۴۰۲) ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ہے تو اسکی خبر نہ لے اور نہ اسے بیان کرے

سعيدين الحدري (متكرد ۲۳۹۳) (۲۴۰۳) باب من لم يتركها ولا يذکرها

دیکھو حدیث ۲۳۹۳

باب من لم يتركها ولا يذکرها

یصعب (۲۴۰۰) ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وہ صحیح تعبیر نہ کرے

أني رأيت اللذبة في المنام ظلة تنطف الثمن والعسل فأدعى الناس يملقون

کہیں نے آج خواب میں ایک باول دیکھا جس سے کھلی اور شدت پکارتی ہے

فالمستكبر والمستقل وراذ أسبب وأصل من الأرض إلى السماء فأدرك أخذت به

میں سے لیتے ہیں کوئی زیادہ اوکھٹا اور دیکھا کہ ایک ری زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی ہے

سویں لوگوں کو دیکھتا ہوں ہاتھوں سے اس

جو دوسرے پر

باندھا جائے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا، افزا سے قرار دیا ہے جو خود انسان اپنے اوپر باندھے کہے میں نے یہ دیکھا ہے

حالا کہ وہ نہیں دیکھا۔ شاید

اسے سب سے بڑا افزا اس لئے قرار دیا کہ اس میں عمدت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ دوسرے کے متعلق تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے

مگر اپنے متعلق تو انسان خواب

جانتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کی تعلیم میں سچائی کے ساتھ کس قدر محبت پائی جاتی ہے

کہ ایک جھوٹا خواب بیان کرنے کو بھی جس

سے کوئی فائدہ مقصور نہیں بتان عظیم قرار دیا گیا۔ مگر روایت اختلاف الفاظ سے آتی ہے۔ یہ یقول لقنک انت ازمی الرؤیا

موضوعی حتی سمعت ابا قحافة یقول وانا لکنک لازی الرؤیا

موضوعی حتی سمعت النبی صلعم یقول الرؤیا الحسنة من الله فاذا راى احدكم ما يجب فلا یحذث به الا

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

من یجب واذا راى ما یکره فلیتعد به لا یحذث به الا ما یکره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے

بار بار رحم

کرنیوالے کے نام سے

۹۳۔ کتاب الفتن

۹۳۔ فتنوں کی کتاب

۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ تَضَلُّوا عَنْكُمْ**

باب جو اللہ تعالیٰ کے قول کے بارہ میں آیا ہے اور ایسے فتنے سے بچو جو تم میں سے عورت ان کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے

خَاصَّةً وَمَا كَانَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْذَرُ مِنْ الْفِتْنِ (م۔ ۴۷۔ ۴۸) عَنْ

والا انفال (۲) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں سے ڈرانا

أَسْمَاءُ (ممتکرو۔ ۲۳۴۵) (م۔ ۴۸۔ ۴۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ممتکرو۔ ۲۳۳۸)

دیکھو حدیث ۲۳۴۵ دیکھو حدیث ۲۳۳۸

رقبہ صفحہ ۱۵۳۲
واصوات قال
فاطلعننا فيه فاذا
فيه رجال ونساء
وعراة واذا هم
ياتيهم لهن من
امغل منهم فاذا
اتاهم ذلك
اللبب وضوضا
رطلتا تيسين قال
قلت لهما ما
هو لاد قال تالا
لي انطلق انطلق
قال فاطلعتنا

فَاتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرٌ مِثْلُ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسِيبُ وَإِذَا عَلِيٌّ شَطْرَ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ رَجَمَ عُنْدَهُ حِجْرًا كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ
النَّاسُ يَسِيبُ مَا يَسِيبُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ رَجَمَ عُنْدَهُ الْحِجْرَةَ فَيُغْرِقُهُ فَأَهْوَى رَأْسَهُ فِيهَا وَاسْتَمَعَ لَهَا حَتَّى تَقْرَأَ مِنْهَا مَا تَقْرَأُ فِي حِجْرٍ فَيَنْطَلِقُ يَسِيبُ ثُمَّ
يَرْجِعُ إِلَيْهِ كَمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَوَقَفَهُ فَأَهْوَى رَأْسَهُ فِيهَا فَغَرِقَ حَتَّى رَأَى رَجُلًا مَرَّتًا وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ تَجِيءُهَا رَأْسُ سَكْرَانَ يَتَّقَى وَيَسْمَعُ حَوَاطِدَ مَا قَالَ قَلَّتْ لَهَا
مَاهُنَ إِذَا قَالَ قَالَتْ لِي أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ فَيَنْطَلِقُ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مَعْتَمَةٍ رُكْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ فُورٍ مَعْمُومٌ يَأْتِيهِمْ الرِّبِيعُ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِهِ
الرَّوْضَةُ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَأَكَادُزِي رَأْسَهُ طَوَّلًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنَ الْكُرْطِلَانِ رَأْيَتُهُمْ قَطَقَ قَالَ قَلَّتْ لَهَا مَا هَذَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا
لِي أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَاتَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ رَأَيْتُ فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَارِعٌ مِنْهُمْ لَمْ يَرَوْهُمْ قَطُّ عَظِيمٌ مَتَّى إِذَا أَحْسَنُ
قَالَ قَالَا لِي أَرِقُ فِيهَا بَعْضِي أَيْكٌ وَرَحْمَتُكَ قَالَ فَوَقَفْنَا فِيهَا فَاتَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلْبَعٌ ذَهَبٌ وَبَيْنَ قَضِيَّةٍ رَأْسُهَا كَمَا ذَكَرْتُ فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
فَاتَيْنَا بِابِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفَتَحْنَا فَنَاقَلْنَا فِيهَا رَجُلًا شَطْرَ مَنْ خَلَعَهُمْ كَمَا حَسَنُ مَا أَتَتْ رَأْيَ وَشَطْرًا كَقَبْرٍ مَا أَتَتْ رَأْيَ قَالَ
قَالَا لَهَا إِذْ هَبُوا فَفَتَحُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ قَالَ دَاؤُنْهُزُ مَعْتَمَرٌ يَجْرِي كَانُ مَاءَهُ الْخَضِرُ وَرَأْسُهُ فِي الْبِيضِ فَذَهَبُوا وَفَتَحُوا فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
رَجُلًا بِلْبَعٍ ذَهَبٌ ذَلِكَ السَّيِّءُ عَنَمٌ فَضَارُوا فِي أَحْسَنُ صَوْرَةٍ قَالَ قَالَا لِي هَذَا جَنَّةٌ عَدْنٌ وَهَذَا كَمَا مَنَزَلُكَ قَالَ فَسَمِعْتُ صَوْتًا يُرِيدُ لِي نَظَرَ
أَوْ يَرِيهِمْ كَيْفَى فَإِذَا قَصُوفٌ مِثْلُ الرِّيَابِ الْبَيْضِ (مَعِيدُ بَرَكِي رَجُلٌ) قَالَ قَالَا لِي هَذَا كَمَا مَنَزَلُكَ قَالَ قَلَّتْ لَهَا بَارِكُ اللَّهُ فِيكَمَا ذَوَاتِي فَأَدْخَلَ قَالَا
أَمَا الْإِنِّ فَوَازَتْ دَاخِلَهُ قَالَ قَلَّتْ لَهَا فَوَازَتْ مِنْهُ الْعَلِيَّةُ حَبِيْبًا مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتَ قَالَ قَالَا لِي أَمَا أَنَا فَسَخَّرْتُكَ أَمَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي
أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَتْلُو دَاسَهُ بِالْحِجْرَانِ فَانْجَزِ الْفَرْقَانَ فَيُرْفَضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَشْرِي شَرَشَ تَهْ إِلَى
قَفَاهُ وَمُخْرَجُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَانْجَزِ الْفَرْقَانَ وَأَمَا الرَّجُلَانِ وَالنَّسَاءُ الْعَرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنْدِ
الْتَوْرَةِ فَانْجَزِ الْفَرْقَانَ وَأَمَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسِيبُ فِي النَّهْرِ وَيَنْقَمُ الْحِجْرَةَ أَكْثَلَ الرِّيَابِ وَأَمَا الرَّجُلُ الْكِرْبِيُّ الْمَرْءُ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ حَبِيْبًا وَيَسِيبُ
حَوْلَهَا فَانْجَزِ الْفَرْقَانَ وَأَمَا الرَّجُلُ الطَوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَانْجَزِ الْفَرْقَانَ وَأَمَا الْوَلْدَانَ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودَاتٍ عَلَى الْفَطْرِ قَالَ
فَقَالَ بَعْضُ الْمَسْلُومِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَادَا لِمَنْ تَكُونُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَا لِمَنْ تَكُونُ وَأَمَا الْعَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يَشْطَرُّونَهُمْ حَسَنًا وَشَطْرًا فَيَأْتِيهِمْ
قَوْمٌ يَخْلُطُوا أَعْمَالًا حَالًا وَآخِرًا مِمَّا تَأْتَاهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ۳۳۳ كَأَخْرَى حَضْرًا بِرَأْسِهِ مِثْلُ بَرِيَّةٍ مَعْتَمَرٌ يَجْرِي كَانُ مَاءَهُ الْخَضِرُ وَرَأْسُهُ فِي الْبِيضِ فَذَهَبُوا وَفَتَحُوا فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مُتَعَمَّرٌ فَمَا يَكُلُ مَوْلُودَاتٍ عَلَى الْفَطْرِ ۳۳۳ مِنْ أَوْلَادِ النَّاسِ كَالْفَطْرِ وَأَبْيَانٌ مَزِيدٌ يَرْجِعُ فَرَانِي كُلِّ مَوْلُودٍ كَالْفَطْرِ مِنْ رُجُلٍ بَعْدَ عَرْضِ كَيْدَا وَادَا لِمَنْ تَكُونُ
بِعْنِي كَمَا تَكُونُ فِي أَوْلَادِي حَضْرًا بِرَأْسِهِ مِثْلُ بَرِيَّةٍ مَعْتَمَرٌ يَجْرِي كَانُ مَاءَهُ الْخَضِرُ وَرَأْسُهُ فِي الْبِيضِ فَذَهَبُوا وَفَتَحُوا فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كِي نَابِغٌ وَأَوْلَادِي حَضْرًا بِرَأْسِهِ مِثْلُ بَرِيَّةٍ مَعْتَمَرٌ يَجْرِي كَانُ مَاءَهُ الْخَضِرُ وَرَأْسُهُ فِي الْبِيضِ فَذَهَبُوا وَفَتَحُوا فِيهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
ذُوَانُ تَاكُفَرًا وَرُكُونًا الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ الْكَلْبُ هُوَ الْكَلْبُ
مَوْسِمٌ كَوَيْتِي ۳۳۳ فَتَحَتُهَا اسْتِعْمَالُ بِلَاؤِ مَصِيبَتِهِمْ قَتْلُ عَذَابٍ غَيْرِهِ يَرْجِعُ هُوَ ۳۳۳ اس آیت قرآنی میں ان فتنوں سے ڈرا جائے جن کی ہیبت میں ظالموں کے ساتھ
اچھے لوگ بھی آجاتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ایک قسم میں ظالموں کی کثرت ہو جائے تو پھر قوم پر ہی سزا آتی ہے اور سزا میں اچھے بڑے سب آجاتے ہیں۔ حدیثوں میں آفری

زمانہ کے متعلق اسی قسم کے فتوے کا ذکر ہے اسی لئے اس آیت قرآنی سے ابتدا کی ہے اور اس آیت قرآنی میں الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے جو اس فتنے پر ختم ہوجاتی ہے ۳۳۳ اس میں

۱
عباس سے بیٹے
اپنے قریباً انہی الفاظ
میں وہ فرمایا ہے
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

(۴۹-۴۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَمَتْكَ (۲۳۲۲ ب) (۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	دیکھو حدیث ۲۳۲۲ ج ۲۱ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توں
وَسَلَّمَ سَتْرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تَكْفُرُ بِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ	تم میرے بعد ایسے کام دیکھو گے کہ تم انکو ناپسند کرو گے اور عبد اللہ بن زید نے کہا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَرُ فَاحْتِ التَّقْوَىٰ عَلَى الْخَوْضِ (۴۰-۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَرَمَتْكَ	گھبر کر وہاں تک کہ تم مجھ سے توڑیں پر نیو دیکھو حدیث
(۱۶۰۹) (۲۴۰۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ	ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جسے اپنے امیر کی کوئی
أَمْرٍ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا لَمَاتَ مِثْرًا تَجَاهِلِيَّةً	بات ناپسند ہو تو صبر کرے کیونکہ جس نے باضت برابر بھی بادشاہ سے خرچ کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا
(۴۰۸۱-۴۰۸۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مَتَكْرَمًا ۲۴۰۱) (۲) عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ	دیکھو حدیث ۲۴۰۱ ج ۲۱ جنادہ بن ابی امیر سے روایت ہے
قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِيثٌ	کہا ہم عبادہ بن صامت کے ہاں گئے اور وہ بیمار تھے ہم نے کہا اللہ آپ کو صحت دے آپ کوئی حدیث
يُحْدِثُ يَتَّفَعَلُ اللَّهُ بِهِ سَمْعَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى	بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوا اللہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچا کر کہا کہ نبی صلی اللہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَالِعِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَنِّي	علیہ وسلم نے ملایا جو ہم نے آپ کی بیعت کی (مترادف ہے) کہ ان شرطیں جو آپ نے ہم سے لیں یہ تھا کہ اپنی خوشی کی حالت میں اور اپنی
مَلَسْتُهُنَا وَمَكْرَهُنَا وَعَسِيْنَا وَيَسِيْنَا وَأَوْثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا تَنَازِعَ الْأَمْوَالَ الْأَمْوَالَ	ناخوشی کی حالت میں اور اپنی تنگی کی حالت میں اور اپنی آسانی کی حالت میں اور اپنی حق تنگی کی صورتوں میں نہیں گے اور نہ تجارتی کرے اور نہ بھی کہ
أَنْ تَرَوْا كَثْرًا أَوْ أَحَادًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (۴۰۸۲-۴۰۸۳) عَنْ أُسَيْدِ بْنِ مَخْضَمٍ	کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہوگی
(مَتَكْرَمًا ۱۶۰۹) (۳) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيَّ اغْيِلْمَةَ سَغْمَاءَ	دیکھو حدیث ۱۶۰۹ ج ۲۱ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توں میری امت کی تباہی میری قوت نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہے۔ حدیث ۱۶۰۹ میں یہ مراد ہے کہ اس حدیث کا منشاء بھی نظام جماعت کا استحکام ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض وقت امیر کی طرف سے زیادتی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہو خواہ فی الواقع اس پر ظلم نہ ہوا ہو تو دونوں صورتوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ صبر کرنا چاہئے اور یہاں سلطان سے خرچ کو جاہلیت کا فعل ٹھہرایا ہے۔ مگر اگلی حدیث میں جو اس کی نگر روایت ہے بجائے خورج من السلطان شبراً کے لفظ میں من فارق الجماعۃ شبراً جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے اتحاد کے سامنے انفرادی ظلم کوئی شے نہیں اور جو شخص اپنے اوپر کسی ظلم کی وجہ سے اتحاد و جماعت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یعنی اسلام کی تعلیم کی روح سے وہ شخص جاہل رہا۔ مگر خورج من السلطان کی جگہ فارق من الجماعۃ ہے۔ باقی لفظ وہی ہیں۔ مگر کفر وہ ہے جو اسلام سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے اور تعلیم اسلامی کا کھلا انکار بھی مبینہ اور ہی کا ایک قول مذکور ہے کہ علماء اس بات پر ہیں کہ اگر امیر ظالم ہو اور بغیر فتنہ کے یعنی مسلمانوں میں فو پیدا کرنے کے اور ظلم کے اس کی بیعت سے قطع کر سکتے ہوں تو کریں وہ نہ صبر کریں۔ مگر یہاں لفظ یوں ہیں: - ان وجلا فی النبی صلعم فقال یا رسول اللہ استعملت قلاتا ولم تستعملنی قال انکھ سترون بعدی اشارة فاصبروا حتی اتلقونی۔ ۱۶۰۹ میں ہے کہ یہ شخص انصار میں سے تھا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ انصار کی حق تلفی تو میرے بعد ہوگی۔ دیکھو نوٹ ۱۶ صفحہ ۸۸۴ مگ اغیلیمۃ غلامہ کی تصغیر ہے جو غلام کی جمع ہے۔ اور غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے پیدا ہونے سے بلوغت کو پہنچنے تک۔ اور یہاں مراد ایسے نوجوان ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور ایک جوش اور جذبے میں قوم کو بردا کر دیتے ہیں +

(م-۲۰۸۳) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُرْوَةَ (م-۱۶۱۰) (۴) بِأَبِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَكَيْفَ حَدِيثُ ۱۶۱۰ م

وَسَلَّمَ وَيُلِّقُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ (م-۲۰۸۴) عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ (م-متكرر)

عرب کیلئے تباہی ہے ایسی شر سے جو قریب آگئی ہے

(۱۵۱۲) (م-۲۰۸۵) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (م-متكرر) (۵) (۹۵۰) بِأَبِ قَوْلِ الظُّهُورِ الْغَيْثِ

وَكَيْفَ حَدِيثُ ۹۵۰ م

(م-۲۰۸۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-متكرر) (۶) (۲۰۳) عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ

وَكَيْفَ حَدِيثُ ۲۰۳ م

عَبْدُ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ

ابو موسی کے ساتھ تھا سو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موعود گھڑی سے پہلے ایسے

لَا يَأْتِي مَا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكْتُمُ فِيهَا الْهَرَجُ وَالْهَرَجُ الْقَتْلُ

دن ہوں گے جن میں جہل اترے گا اور علم اٹھایا جائے گا اور ان میں ہرج زیادہ ہوگا اور ہرج قتل ہے

(م-۲۰۸۷) عَنْ شَقِيقٍ (م-متكرر) (۲۰۳) (۵) (۲۰۳) عَنْ أَبِي وَائِلٍ (م-متكرر) (۲۰۳)

وَكَيْفَ حَدِيثُ ۲۰۳ م

(م-۲۰۸۹) عَنْ أَبِي أُرَيْبٍ (م-متكرر) (۲۰۳) (۶) (۲۰۳) بِأَبِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ زُرَيْحٍ

وَكَيْفَ حَدِيثُ ۲۰۳ م

۱۶۱۰ م مکرر روایت میں تفصیل زیادہ ہے: قال أنت جالتهم إلى هزيمة في مسجد النبي صلعم بالمدينة ومعا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق يقول هلكت ممتي على يد غلظة مروان لعنة الله عليهم غلظة رايه نويسون پرانشکی لعنت ہو فقال ابو هريرة لو شئت ان اول نمى فلان وبني فلان

لفعلت واس کے بعد عمرو بن یحییٰ کا قول ہے اور یہ الفاظ ۱۳۱ میں نہیں ہیں) نکلتے آخر ہر صحابی الی بنی مروان حین ملکوا بالانعام رحمت معاویہ کی حکومت کے زلنے میں، فاذا ارأهم غلما فاحدا فکا قال لنا علی بن ابی طالب ان یومنا انهم قتلنا انت اعلم۔ امت کی ہلاکت سے مراد اس وقت کے لوگوں کی ہلاکت ہے۔ نیز وکیف نوٹ ۱۵ صفحہ ۸۳۲ م تک تحقیق اختلاف سے روایت کو دو ہر ایسے۔ قالت استنبط النبی صلعم من النوم محمدا وجهه یقول لا اله الا الله ویل للعرب من شر قدا اقترب فتح الیوم من دم یا جوب و ما جوب مثل هذه وعقد سفیان تسعین او مائة قیل انهمک وینا الصالحون قال نعم اذا انکذا الخبث۔ یہاں یہ صراحت کر دی ہے کہ یہ لفظ آنحضرت صلعم نے خواب سے بیدار ہو کر فرمایا جس سے عاف معلوم ہونے سے کہ یہ نظارہ آپ کو رویا میں دکھایا گیا۔ اور اس میں پیشگوئی ہے کہ یا جوب اور ما جوب کے غلبے سے عرب پر بھی تباہی آئے گی۔ اور عرب سے مراد سلطنت اسلامی ہے۔ وکیف نوٹ ۱۵ صفحہ ۷۷ م تک قریباً وہی لفظ ہیں۔ آپ کے سوال کے بعد صحابہ کا جواب بڑھا یا ہے۔ قالوا لا۔ دیکھئے میں فتنوں کے وقوع کی پیشگوئی ہے مگر مکرر روایت کسی قدر اختلاف الفاظ سے آئی ہے، عن انیسے صلعم اللہ علیہ وسلم قال یقارب الزمان ینقض العمل ویلیق القمح (مخمل دیوں کے اندر پیدا ہو جائے گا) ونظہر الغنق ویکثر الهرج قالوا یا رسول اللہ ایم ہو قال القتل القتل۔ فتنوں کے ظہور کے علاوہ کثرت ہرج کا بھی ذکر فرمایا۔ اور ہرج کثرت شر یا فتنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں حدیث میں اسے قتل کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی فتنوں کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یقارب الزمان سے مراد قیامت کبریٰ کا قرب ہو یا مسلمانوں پر کسی تباہی کا آنا ہو۔ اور ان چیزوں کا ظہور بھی مسلمانوں میں ہی خصوصیت سے ہو۔ عمل کی کمی اور مجمل کا دیوں میں پیدا ہو جانا مسلمانوں سے اس زمانہ میں خاص ہے، مگر اس کا تعلق بھی اعلیٰ ہے کہ مسلمانوں سے ہی ہرج و مرج کے اندر جہالت نازل ہو گئی ہے اور علم اٹھ گیا ہے، مگر قریباً وہی لفظ ہیں، مگر یہاں لفظ یوں ہیں: قال انی لجالس مع عبد اللہ والی موسی رضی اللہ عنہما فقال ابو هريرة سمعت النبی صلعم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل، مگر یہاں لفظ یوں ہیں: عن عبد اللہ و احسبہ دفعه قال بین یدی الساعۃ ایام الهرج یزول العلم ویظہر فیها الجہل قال ابو موسی والهرج القتل بلسان الحبشة (دنی روایت) انه قال لعبد اللہ تعلم لا ایام التي ذکر النبی صلعم اللہ علیہ وسلم ایام الهرج نحوہ قال ابن مسعود سمعت النبی صلعم اللہ علیہ وسلم یقول من شر اول الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، مگر عنوان باب کے لفظ وہ ہیں جو حضرت انس نے حجاج کے مظالم کی شکایت پر رکھے اور ان کا مطلب صرف اس قدر تھا کہ اس سے بھی بدتر زمانہ مسلمانوں پر آنے والا ہے یا شاید یہ مطلب ہو کہ جس قدر بعد غد نبوی سے ہوتا جائے گا اسی قدر مسلمانوں میں نیکی کی رغبت کم ہوتی جائے گی

ملہ نبی مسلم نے جو کچھ
فتن کے متعلق فرمایا
اس سے حضرت
انس نے یہ قیاس
کیا ہے کہ اس وقت
کے فتنوں سے بھی
بڑھ کر فتنے سامانہ
پرائیں گے۔
ملہ قرینا وہی لفظ
ہیں۔ صواب
الحجرات کے بعد
یہ بڑھا یا جو بڑھ
اذا واجہ کی یصلیون
یعنی مجروحوں کی
مرا واپ کی بیبیاں
نصیب اور جگانے
کی غرض یہ بھی کہ
وہ نہ بڑھیں
اور خدا کے حضور
عاجزی اختیار کریں
یہاں عنوان باب کے
کوئی لفظ نہیں من
یہ ذکر ہے۔ ما فافا
انزل من الغنم
کیسے کیسے فتنے آئے
ہیں۔ اس سے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ
عنوان باب میں

(۲۲۰۴) عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ مَالِكٍ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلَقْنَا

زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ ہم ابن مالک کے پاس آئے اور ان سے ان تکلیفوں کی شکایت کی تو

مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ صِدْرٌ وَأَفْرَاتُهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَوَرَمَانَ إِلَّا الَّذِي بَعْدَكَ شَرٌّ مِنْهُ

حجاج سے پہنچتی نہیں تو انہوں نے کہا صبر کرو کیونکہ تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر جو اس کے بعد ہوگا وہ اس سے بدتر ہوگا۔

حَتَّى تَلْقَوُا بِكُمْ سَمْعَةَ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۲۰۹) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

یہاں تک کہ تم اپنے رب کے جاملو میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

(متکرر۔ ۱۰۰) (۷) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ

دیکھو حدیث ۱۰۰ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی

فَلَيْسَ مِنَّا (م- ۲۲۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (متکرر۔ ۲۳۸۳) (م- ۲۲۰۹) عَنْ أَبِي

تو وہ ہم میں سے نہیں ہے دیکھو حدیث ۲۳۸۳

مُوسَى (متکرر۔ ۲۳۸۳) (۲۲۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۲۳۸۳ ابو ہریرہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

قَالَ لَا يَشِيرُ أَحَدٌ كَرْمًا عَلَى آخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي عُرْفِي

کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا شاید شیطان اس کے ہاتھ کو کھینچ لے

يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (م- ۲۲۰۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر۔ ۳۱۵)

اور وہ دوزخ کے گڑھے میں گر پڑے دیکھو حدیث ۳۱۵

(م- ۲۲۰۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (متکرر۔ ۳۱۵) (م- ۲۲۰۹) عَنْ أَبِي مُوسَى (متکرر۔ ۳۱۶)

دیکھو حدیث ۳۱۵ دیکھو حدیث ۳۱۶

(۸) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَقَادٍ يُضْرَبُ

باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میرے بعد لوٹ کر کہنا نہ ہو جانا

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (م- ۲۲۰۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکرر۔ ۲۲۰۹) (م- ۲۲۰۹)

کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو دیکھو حدیث ۲۲۰۹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکرر۔ ۳۹۲۶) (م- ۲۲۰۹) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متکرر۔ ۶۲)

دیکھو حدیث ۳۹۲۶ دیکھو حدیث ۶۲

صرف فتنوں کی غفلت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ملہ وہی لفظ میں حدیث کے لفظی عنوان باب میں بھی ہیں۔ ملہ ۲۲۰۳ کے آخر ہے کہ یہی روایت ابو
موسٰی نے کی ہے یہ بھی اسکی مکرر روایت ہو لفظ وہی ہیں۔ ملہ یعنی ہنسی ہنسی میں بھی ہتھیار دوسرے کی طرف نہ کرے شیطان ہاتھ کو کھینچ لے یہی بے اختیار ہے یہ بھی
ہا تو چل جاتا ہے۔ مگر شیخ بیان زیادہ موزوں ہے یعنی شیطان لے آسائے اور وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے دوزخ میں پڑے۔ ملہ روایت امی الغنم میں ہے مگر
۲۲۰۵ میں جواب نہ کہ نہیں یاں آخر پڑھا ہے۔ قال نعم۔ ملہ اسکے لفظیوں میں۔ ان رجلا مر فی مسجد باسہم قد ائذنی نصرہا فامر ان یاخذوا
بعضہا لا یخفی ش مسلما۔ ملہ مکرر روایت یوں ہے۔ عن النبی صلعم قال اذا امر احدکم فی مسجدنا اذنی سو قنوا معہ بل فیسک علی نصالہا اذ قال
فلیقبض بکفہ ان یصیب احدہن المسلمین معنا شیء۔ ملہ وہی لفظ ہے دیکھو نوٹ ۳ صفحہ ۲۳۔ ملہ وہی لفظ میں۔ ملہ خفیف اختلاف لفظی کے علاوہ آخر
پر وہ ضمنوں زیادہ کیا ہے جسک تعلق عنوان باب سے ہے۔ لفظ یوں ہیں۔ ان رسول اللہ صلعم خطب الناس فقال الاذنون ای یوم ہذا اقلوا اللہ و
رسولہ اعلم قال حتی ظننا انہ سیدنبہ بغیر اسمہ فقال اللین یوم النور قلنا بل یا رسول اللہ قال ای بلنا ہذا الیست بالبلۃ اللہ قلنا بل یا رسول اللہ قال
فان دعانا کما دعواکوا واعرصکم وابتشارکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا الا ہل بلدت فلنا نعم قال اللہم انظروا فیصلیہم لظنا
الغائب فانہ رب مبلتہ ینزلہ من ہوا وعلی لہ فکان کذلک راس کے بعد کہ حصہ ۶۲ میں نہیں، قال لا ترجعوا بعدی کقادی یضرب بعضکم رقاب بعض
فلما کان یوم حرق ابن الحضرمی حین موافقہ بحارۃ بنہ قد امة قال اشرفنا علی ابی بکرۃ فقالوا اھذا ابوبکرۃ یرک قال عبد الرحمن فھا ثقی ای

عن ابی بکرۃ انہ قال لو دخلوا علی ما بہشت بغصۃ من دفاع کے لئے ایک باتس کی چوڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ (باقی بر صفحہ ۱۵۳۷)

۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰

(م-۲۰۹۹) عن ابن عباس (متکو-م ۲۵) (م-۲۱۰۰) عن جریر (متکو-د-۱۰۶)	دیکھو حدیث ۲۵، ۷۷	دیکھو حدیث ۱۰۶، ۱۰۷
(۹) بَابُ تَكْوُنُ فِتْنَةِ الْقَاعِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ (م-۲۱۰۱) عن أبي هريرة	بَابُ	ایک فتنہ ہوگا جس میں بیٹھ رہنے والا کھڑا ہوئے سے بہتر ہوگا
(متکو-د-۱۶۰۸) (م-۲۱۰۲) عن أبي هريرة (متکو-د-۱۶۰۸) (۱۰) بَابُ إِذَا اتَّقَى	دیکھو حدیث ۱۶۰۸، ۷۷	بَابُ جب وہ مسلمان بنی
(م-۲۱۰۳) عن الحسن (متکو-د-۲۷) (۱۱) بَابُ كَيْفَ	تو اوروں کے ساتھ بافتا بل ہو جائیں	دیکھو حدیث ۲۷، ۷۷
المسلمان سيقيهم ماء (م-۲۱۰۵) عن حذيفة بن اليمان (متکو-د-۱۶۱۱) (۱۲)	بَابُ	کی جماعت نہ ہو تو کیا کیا جائے
الأمر إذا لم تكن جماعة (م-۲۱۰۶) عن أبي الأسود (متکو-د-۱۹۰۶)	بَابُ	جو اس بات کی ناپسند کرتا ہو کہ کفر اور ظالموں کو گروہ کرے
(۱۳) بَابُ إِذَا بَقِيَ حَذَائِقُ مِنَ النَّاسِ (م-۲۱۰۷) عن حذيفة (متکو-د-۲۳۱۵) (۱۴) بَابُ	بَابُ	جب کوئی بچے لوگوں میں رہ جائے
التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ (م-۲۲۰۶) عن سلمة بن الأكوع	فتنہ میں باہر نکلنا ہو جانا	سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ وہ حجاج کے پاس گئے تو اس نے کہا ابن اکوع تم
ارتدت على عقبك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو	اپنی ایرٹیوں پر واپس لوٹ گئے کہ تم نے باہر نکلنے کی اختیار کی انہوں نے کہا نہیں لیکن نبی صلعم نے مجھے کو باہر میں رہنے کی اجازت دی	دی برکتاً

بیان کی اور جب ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اگر مجھ پر چڑھائی کریں تو میں بائیں کی چھڑی سے بھی مقابلہ نہ کروں یہی مسک حضرت عثمان کا تھا۔
 (صفحہ ۷۷) حضرت ابن عباس کی روایت م ۲۵ کا آخری فقرہ یہاں دوہرایا ہے۔ قال النبي صلعم لا ترون داعية كفتار يضيوب بعضكم بعضا رقاب بعض + لفظ متا کے ہیں۔ عثمان باب کا فقرہ حجۃ البوداع کے خطبہ میں آئے فرمایا + لفظ قاعدان لوگوں کو کہا گیا ہے جو ہوا میں حصہ نہ لیتے تھے۔ اس کے بالمقابل قائم وہ ہوگا جو اس میں حصہ لے۔ منشا ہے کہ بعض فتنے اس قسم کے ہوں گے کہ ان میں حصہ نہ لینا ضرر لینے سے بہتر ہوگا + لفظ کفارتا کفارتا تک دوہرایا ہے۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۸۳۳، ۸۳۴ م ۱۱ کے لفظ میں + لفظ ابتدائی حصہ میں وضاحت زیادہ ہے۔ لفظ یوں ہیں، سوخت بسلاھی قبالی الفتنۃ فاستقبلتی ابو بکر فقال این تزید قلت ازید نصرة ابن عم رسول الله صلعم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ + من هذا الرجل ہے، قال قال رسول الله صلعم إذا تواجد المسلمان سيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال انه اود قتل صاحبه + تک طلب یہ ہے کہ جب ایک میر مسلمانوں کا اجتماع نہ ہو اور اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے + لفظ ۱۶۱۱ کے الفاظ میں ہی روایت کو دوہرایا ہے۔ دیکھو نوٹ م ۸۳۴، ۸۳۵۔ بَاب سے تعلق ان الفاظ کا ہے۔ فان لم يكن لهم جماعة ولا اعداءم قال فاعتزل تلك الفرق كلها يعني جب علیہ علیہ علیہ لو یاں ہوں جو ایک دوسرے سے سسر پیکار میں اور نہ ایک جماعت ہے نہ ایک امام تو اس صورت میں سب سے الگ ہٹنا بہتر ہے۔ یہ مسائل میں اختلاف کا ذکر نہیں بلکہ حکومت کے اختلافات کا ذکر ہے۔
 جب ایک بادشاہ پر اتفاق نہ ہو اور نظام حکومت میں اتحاد نہ رہے + لفظ حدیث باب میں ایسے کردوسلمانوں کا ذکر ہے جو مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں جنگ کرتے گو وہ دل سے یہ نہ چاہتے تھے۔ دیکھو نوٹ صفحہ ۷۷، ۷۸ مسلمانوں کے باہم فساد میں جو لوگ فتنہ پیدا کرتے والے ہوں یا ظلم کرنے والے ہوں ان کا قیاس کفار پر کیا ہے + لفظ قریباً یعنی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے + لفظ عنون باب میں اور حدیث باب میں یہ ذکر ہے کہ ایسی حالت میں کیا کرے۔ مگر ظری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا علیک یا عثمانك و معنك عواجمہ۔ ایسے حالات میں عام لوگوں سے جو اور فاسخ فاسخ ہو میں کے ساتھ ہو جن میں یا نہ تھا اور اچھے خلاق ہوں + لفظ مکرر روایت ۱۶۱۱ کے الفاظ میں آئی ہے۔ حدیث میں ایسے زمانے کا ذکر ہے جب دنیا غالب آجائے اور یا امت اور امانت لوگوں میں سے اٹھ جائے۔ ان لوگوں کو کھانا یا کھانے لوگ کہا ہے + لفظ باہر نہیں ایسے مذہب کی وجہ سے ایسا دیا جانے پر مذہب میں ہجرتیں کر کے آئے تھے پھر بعض فتوں کی وجہ سے انہیں شہر تھوڑے جگہ چل کر ہجرت کرنا پڑا۔ عنون باب کا یہی منشا ہے + لفظ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے المؤمنین بعد ہجرت پر امانت کی ہے۔ تو سلمہ نے جواب دیا کہ میں ہجرت کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی رسول اللہ صلعم کے اذن سے ہے۔ اس لیے کہ تم فتنہ پورے اس کی خاطر علیہ علیہ کی اختیار کر لینے کی اجازت ہے +

اس باب میں
اس فتنے کا ذکر ہے
جو حضرت عثمان کے
خلاف اٹھا یا گیا
اور جس کا آخری نتیجہ
ان کی شہادت
تھی۔ فتنے چونکہ
اکثر اوقات جنگ
کے ذریعہ سے ہی

ان یتمثلوا بہذہ الابیات عند الفتن قال امرؤ القیس		
بیت پڑھیں	بیت پر مضمیں	امراؤ القیس نے کہا ہے
الحرب أول ما تكون فتية	تسعى بزينتها لكل جهول	اپنی زینت کے ساتھ ہر ایک جاہل کو راغب کرتی ہے
حتى إذا اشتعلت غضباً	ولت عجوزاً غيظاً حليل	توڑھی بوکر پھر جاتی ہے کوئی اس کا خاندان دیکھتا ہے وہاں نہیں ہوتا
شمطاً يبتكر لونها وتغارت	مكر ودهة للشوم والتقبيل	اس کا رنگ تبدیل کر دیتا ہے اور اسے بوسہ دینا ملے
(م- ۳۱۱۶) عن حذيفة بن اليمان (مترجم: ۳۵۲) (م- ۳۱۱۷) عن ابي موشى (مترجم: ۳۵۳) (م- ۳۱۱۸) عن ابي وايلش (مترجم: ۱۳۷۸) (۱۸) باب (م- ۳۱۱۹) عن ابي بكر (مترجم: ۱۸۶۰)	دیکھو حدیث ۳۱۱۶	دیکھو حدیث ۳۱۱۷
دیکھو حدیث ۳۱۱۸	باب ۱۸	دیکھو حدیث ۱۸۶۰

آتے ہیں اس لئے
ان فتنوں میں آزمائش
کو جنگ کے ساتھ
تشبیہ دی ہے۔
ابتداء میں ہر ایک
جاہل قوم یا جاہل

گروہ اس کی طرف اس طرح دوڑتا ہے کہ گویا وہ ایک معشوق ہے۔ سنی کا لفظ زبان عربی میں لوٹیڑیوں کے زنا پر بالخصوص ولا جاتا تھا اور ان کے زنا کو سنی یا مساعا
اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی کمائی، مالک کو لاکر دیتی تھیں جس طرح پیشہ کا لفظ زبان اردو میں ہے۔ جنگ کا جو لفظ عرب کے شاعران ابیات میں کھینچا ہے وہ
آج بھی اسی طرح صحیح ہے جیسا عرب میں آج سے تیرہ سو سال پیشہ تھا کہ ابتدائیں سب قومیں اس کی طرف دوڑتی ہیں۔ گویا اس سے ان کی کل کامیابیاں بستہ
ہیں مگر یا تو خطرناک اس سے متفرق ہونے لگتی ہیں۔ ابتدا میں احمد کو کسی قدر متفرک کر کے قریباً انہی الفاظ میں دوہرایا ہے قلت انا کما قال لک قال انک علیہ اذ علیہا
لجیوی ولا تشرف علیہا نہیں اور اگے الصوم کا لفظ نہیں۔ اس حدیث میں حضرت عمر کے وجود کو ایک باب قرار دیا گیا ہے جس کے احوالوں کا ظہور ہوگا اور اس باب
کے کس میں حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ سنی فرقہ میں حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوئے اور اتنی کو نمودار کنوجہ الجواک مصداق قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ
کل عالم سلائی کو انہوں نے ہلا دیا دیکھو یوت ۱۴ ص ۱۱۴۔ مسئلہ مکرر روایت کسی قدر اختصار سے آئی ہے۔ قال خرج النبی صلعم الی حانظہن حوائط المدینة
لما جتہ وخرجت فی اثر کف لمداء خل الحانظہ جلست علی بابہ وقات لا کون الیوم یاب النبی صلعم ولہ ما ہر فی ذہب النبی صلعم یقضی حاتمہ ورجس
خلقت البیہ نکشف عن سابقہ وہ لا ہما فی البیہ فی اذ ابو بکر یستادن علیہ لیدخل فقلت کما انت حیثی استاذن لک فوقت فجت الی النبی صلعم فقلت
یا نبی اللہ ابو بکر یستادن علیک قال ائذن لہ وشرہ بالجنۃ فدخل فیما عن یمین النبی صلعم فکشف عن سابقہ وہ لا ہما فی البیہ فی اذ ابو بکر یستادن علیہ لیدخل فقلت کما
انت حیثی استاذن لک فقال النبی صلعم ائذن لہ وشرہ بالجنۃ فیما عن یمین النبی صلعم فکشف عن سابقہ وہ لا ہما فی البیہ فی اذ ابو بکر یستادن علیہ لیدخل فقلت کما
فیہ مجلس ثم جاہ عثمان فقلت کما انت حیثی استاذن لک فقال النبی صلعم ائذن لہ وشرہ بالجنۃ فیما عن یمین النبی صلعم فکشف عن سابقہ وہ لا ہما فی البیہ فی اذ ابو بکر یستادن علیہ لیدخل فقلت کما
اس میں فتوں کی طرف اشارہ ہے)۔ فدخل فلم يجد معهم شيئاً فتحول حتى جاء مقابلاً بهم على شفة البیہ نکشف عن سابقہ وہ لا ہما فی البیہ فی اذ ابو بکر یستادن علیہ لیدخل فقلت کما
اخالی واد عواہن ان یاتی قال ابن المسیب فقلت ذلک قورہم اجتمع ما ہنا وافرود عثمان مملکہ خفیف اختلاف لغتی سے دوہرایا ہے۔۔۔ قیل
لا ساعۃ الا تکلم هذا یعنی حضرت عثمان سے گفتگو کریں مثال قد کلمتہ ما دون ان افحہ باکار یعنی گفتگو تو کی ہے مگر میں فتنہ کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا
یعنی ان کے خلاف لوگوں کو اس میں سکتا)۔ اکون اول من یفتنہ وما انا بالذی اقول لرجل بعد ان یکون امیراً علی رجلین انت خیر لینی میں پر تعریف
کرنے کا مادی نہیں یا یہ کہ اگر امیر میں کوئی نقص ہو تو اس کو چھپا کر یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں) بعد ما سمعت من رسول اللہ
صلعم یقول یجاہ برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحداد برحاح فیطبع بہ اهل النار فیقولون ای فلان المت کنت تأمر بالمعروف وتنہی
عن المنکر فیقول انی کنت امر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ یعنی میں جب آپ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے کہتا ہوں تو وہ
اس پر عمل نہیں کرتا)۔ حضرت امام کو جس باب سے حضرت عثمان سے گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا وہ ولید بن عقبہ کا معاملہ تھا جو حضرت عثمان کے گورنروں میں سے
تھے۔ اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے شراب پی ہے اور بعض نے کہا کہ گفتگو اس غیبت وغیرہ کے بلے میں کرنے کو کہا گیا تھا جو حضرت عثمان کے بلے میں لوگوں میں
ہو رہی تھی۔ حضرت امام نے کہا کہ گفتگو تو میں نے کی ہے۔ اور ۱۵۷ ص ۱۸ میں ہے کہ میں نے الگ ہو کر ان سے گفتگو کی ہے لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ اس وجہ سے لوگوں
کو ان کے خلاف اکوڈں ورفتنوں کا دروازہ کھولوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو فتنہ برپا ہوئے اور انہیں اس کے متعلق جو کچھ رسول اللہ صلعم
نے بطور پیشگوئی فرمایا تھا اس کا علم صحابہ کو علم طور پر تھا۔ اس باب میں ان فتوں کا ذکر ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کے سلسلے میں بعد میں پیدا ہوئے۔

(۲۴۰۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ

عبداللہ بن زید اسدی سے روایت ہے کہ جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ

إِلَى بَصْرَةَ بَعَثَ عَلِيٌّ عُمَارَةَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَبَحَا

بصرہ کی طرف چلے تو حضرت علی نے عمر ابن یاسر اور حسن بن علی کو بھیجا تو وہ دونوں کو فریضہ میں جاکرے پاس آئے اور سہرے

الْمَذْبُورِ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَوِيًّا السِّنِّي فِي أَعْلَاكِهِ وَقَامَ عُمَارَةُ اسْفَلَ مِنْ

پر چڑھے تو حسن بن علی زبر پر سب اور چڑھے ہوئے اور عمر احسن سے نیچے کھڑے ہوئے

الْحَسَنُ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عُمَارَةَ يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدِ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ

تو ہم ان کی طرف جمع ہوئے تو میں نے عمارہ کو سنا کہتے تھے کہ حضرت عائشہ بصرہ کی طرف تشریف لے گئی ہیں اور

وَاللَّهُ إِنَّهَا لَتَرْجُو نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ

اللہ کی قسم وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ

وَتَعَالَى ابْتِلَاؤُكُمْ لِيُعْلَمَ أَيُّكُمْ رَاطِبٌ فِيهِمْ أَمْ هِيَ رَاطِبٌ فِيهِمْ أَمْ هِيَ رَاطِبٌ فِيهِمْ

نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ جان لے کہ تم اس رضا کی اطاعت کرتے ہو یا اس دھرتی عائشہ کی تمہارے پاس

(متنبر ۱۶۸۲) (۲۴۰۷) عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ دَخَلَ أَبُو مُسْعَبٍ أَبُو مَسْعُودٍ وَعَلِيٌّ

دیکھو حدیث ۱۶۸۲ اور اس سے روایت ہے کہ میں ابو موسیٰ اور ابو مسعود عمارہ کے پاس آئے

عُمَارَةَ حِينَ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ فَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ مَا دَاوُدُ أَتَيْتَ

ہنہیں حضرت علی نے کہ فریضوں کی طرف بھیجا تھا کہ انہیں جنگ کیلئے کیلئے آمادہ کریں دونوں نے نماز کے بعد سے تمہارا

أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ أَسْرَائِلِكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ مِنْذُ اسْمَيْتَ فَقَالَ عُمَارَةُ مَا

ہوئے ہوں تمہارا کوئی کام اس سے برا نہیں دیکھا جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو عمار نے کہا جیسے تم دونوں

رَأَيْتَ وَمَنْكُمَا مَنْذُ اسْمَيْتُمْ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ رِبَاطِنَا كَمَا عَنِ هَذَا الْأَمْرِ وَكَمَا هَا

سلمان ہوئے ہوں تمہارا کوئی کام اس سے برا نہیں دیکھا جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو اور زبیر مسعود نے دونوں کو ایک

حَالَةً حَالَةً ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ (۲۴۰۸) عَنْ شَرِيْقِ بْنِ سُلَيْمٍ رَأَى ابْنَ أَبِي دَاوُدَ

جوڑا بنایا پھر سب مسجد کی طرف چلے عمار نے دیکھ کر عرض کیا

(۲۴۰۹) (۲۴۰۹) بَابُ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِعَقْمِ عَدَايَا (۲۴۰۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

باب جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرے ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِعَقْمِ عَدَايَا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہے تو عذاب ان سب کو پہنچاتا ہے جو اس میں ہوں

جو ان کے قابل ہیں

(صفحہ ۱۱۸۸) میں پر امی مضمون کی حدیث ابو داؤد کی گندی دیکھو نوٹ ۳ صفحہ ۸۲ ۸۸ میں لفظ ہیں۔ تام عمارہ علامت اب الکووفہ

فان کو عائشہ و ذکر مسالہ اذ قال انھا زوجة نبيك صلعم في الدنيا والاخرة ولكنها اهما ابتليهما صلعم في جنگ میں سے ہے اس جنگ میں مسلمانوں کے

لئے بڑی مشکلات کا سامنا تھا..... اور یہ فیصلہ کرنا واقعی مشکل تھا کہ کس کا ساتھ دیا جائے نہ صرف اس لئے کہ دونوں طرف اسیں زبردست

مخفی میں تھیں یعنی ایک طرف حضرت علی دوسری طرف حضرت عائشہ زبیر اور طلحہ بلکہ اس لئے بھی کہ اس جنگ کی بنیاد ایک ایسے اختلاف پر تھی جس کا فیصلہ نہایت

دشوار تھا۔ حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر کا حضرت علی سے معاہدہ تھا کہ وہ سب سے پہلے قائمین عثمان کو مزید اس اور حضرت علی خائف تھے کہ اگر انہوں نے ان پر

ہاتھ ڈالا تو پھر اس گروہ کا غلبہ تھا اس لئے ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اس لئے مسلمان مذہب تھے اور جس طرح سمجھ میں آیا اور ہر حال ہو گئے۔ اگلی روایت

میں آتا ہے کہ ابو مسعود صاحب دعوت تھے اس لئے انہوں نے ہی یہ دو ملے دوسرے دونوں اصحاب کو اپنے عمار کو اپنے لئے کہ وہ سفر سے آئے تھے اور اب جھوٹے مسجد

پہنچے تھے اور ابو موسیٰ کو اس لئے کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہاں لفظ یوں ہیں کنت جالٹا مع ابی مسعود وابی موسیٰ و عمارہ فقال ابو مسعود ما ہاں

اصحاب احدہ الا نؤشت غلقت فیه غایک رسول نے تمہارے لئے کوئی اور تمہارے اصحاب میں سے ایسا نہیں کہ اگر چاہوں تو میں اس کو کوئی کوئی عرب بیان نہ کر سکوں (باقی صفحہ ۱۵۴)

رتقیہ صفحہ ۱۱۵۳۹
لبا بعلہ النبی صلعم
ان فارسا ملکنا
ایضہ کسوی قال
لن یعلم قوم ولو
امرہم امراتہ
اس کے لئے کیجیو
نوٹ ماہ ۲۴
آپ نے کوئی عام
قانون بیان نہیں
فرمایا بلکہ خاص اس
موقع کے لئے یہ لفظ
فرمائے ہو چکا ہو کیونکہ
نے اس روایت کو
جنگ جمل کے سلسلہ
میں بیان کیا۔ اس
لئے اس حدیث کو
میاں لائے ہیں
اس موقع پر یہ بحث
بھی کی گئی ہے
کہ عورت کا بھی ہو
سکتی ہے یا نہیں
جمہور نے اس کا
جواب نفی میں دیا ہے
مگر طبری نے اس
کو تسلیم کیا ہے
اور بعض محدثوں
میں اسے جائز
تھیرا ہے اور
مکمل کے اس لفظ
جو ان کے قابل ہیں

ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ آخِئَةً لِّأَعْمَارِهِمْ (۲۱) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ

پھر اپنے آپ کو ان کے مطابق آخیہ بنائیں گے اور بائیں

عَلِيِّ إِنَّ ابْنِي هَذَا السَّيِّدُ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيهَ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

کہ میرا بیٹا سرور ہے اور امید ہے کہ اللہ کے ذریعہ مسلمانوں کے دو فتنوں کے درمیان صلح کر دے گا

(۲۱) عَنْ الْحَسَنِ (مُتَكَرِّرًا) (۲۲۰) (۲۲۰) عَنْ خَوْلَةَ قَالَ أَرَسَلْتَنِي أَسَافَةً

وہ مجھ کو مدینہ ۱۲۰۰

إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ لَأَنْتَ سَيِّسًا لَكَ الْإِنَّ فَيَقُولُ مَا خَلَفَ صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ

پہنچا اور کہا کہ وہ تم سے ابھی پہنچیں گے اور کہیں گے

لَكَ لَوْ كُنْتُ فِي يَدَيْهِ لَأَسَدًا أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ كَرِهْتُ

ان سے کہنا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ شیر کے مزین ہوتے تو ہمیں میں پسند کرنا کہ آپ کے ساتھ اس میں ہوں گمراہی اور مسلمانوں کیساتھ

أَرَهُ فَمَنْ دَعَيْطَنِي شَيْئًا فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنِ وَحَسْبِينِ وَأَبْنِ جَعْفَرٍ وَأَقْرَبِي رَاحِلَتِي

کرنا ایسا کام ہے جسے میں رہا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ مذہب میں حسن اور حسین اور جعفر کے بیٹے کے پاس گیا تو انہوں نے میری راہ کو

(۲۲) بَابُ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بَخْلًا وَهُوَ (۲۲۰) عَنْ

بائیں جب کچھ لوگوں کے سامنے کچھ کے پھر وہاں سے نکل کر اس کے خلاف کے نافع سے

تَنَافَعٍ قَالَ لِمَا خَلَعَهُ أَهْلُ لَيْدِيَّةٍ يَزِيدُ بِنُ مَعَاوِيَةَ يَزِيدُ بِنُ مَعَاوِيَةَ جَمْعُ ابْنِ عُمَرَ حَمِيمَةً وَوَلَدَهُ

روایت ہے کہ جب مدینے والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت تو زیدی تو ان میں سے اپنے ملازموں اور اولاد کو اٹھایا

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْصَبُ لِكُلِّ شَاؤٍ رِجْلًا وَأَنَا

اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرماتے تھے کہ ہر مہو کے باز کے لئے قیامت کے دن ایک چمچ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُرًّا تَأْتِي بَابُ مَا يَأْتِي هَذَا الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَضْرُوبًا

کہہ رہا کیا جائے گا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر اس شخص کی بیعت کی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی

أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَبَايَعَهُ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصَبُ لَهُ الْقِتَالَ وَإِنِّي لَا

دیکھ کر بازی نہیں سمجھتا کہ ایک شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر کی جائے اور پھر اس کیلئے لڑائی لڑائی جائے اور میں تم سے

أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَخَلَعَهُ وَلَا يَبَايَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَأَنَّ الْقَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

کسی کو نہیں جانتا جس نے اس کی بیعت توڑی یا اس بارہ میں کسی کی بیعت کی مگر یہ میرے اور اس کے درمیان قطع تعلق ہو گا

(۲۳) عَنْ أَبِي لَيْثُمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَرَمْرُوانَ بِالشَّامِ وَشَيْبَانُ بْنُ زَيْدٍ

ابو المنہال سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد اور مروان شام میں رہا کرتے اور ابن زبیر

رقیعی صفحہ ۱۵۴۰
وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلعم اعيب عند من استسواعك في هذا الامر قال عثمان يا ابا سعبد وما رأيت منك ولا من صحبتك هذا شيئا منذ صحبتنا انبى صلعم اعيب عند من اباطا كما في هذا الامر قال ابو سعبد وكان مؤسرا يا غلام هات حلتيك فاعطني احداهما ابا موسى فالآخرى عما قال وقال روحافيه الى الجدة وروين كرجو كوطيل (صغرى هذا) بلية اى آيت قرآني كى تفسيره جابترائى كى تى اى كى ه و اتقرا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منك خاصة عذاب جب آتايه تو بؤن كى ساته كچھ

تھامے سے کچھ روایت ہے کہ مجھ کو سامنے کچھ نہیں ہے کچھ رکھا تھا تو تم

ان سے کہنا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ شیر کے مزین ہوتے تو ہمیں میں پسند کرنا کہ آپ کے ساتھ اس میں ہوں گمراہی اور مسلمانوں کیساتھ

جنگ میں قتل کر دیا ہوا لکن اس نے کلر پڑھا تھا تو اس پر نبی صلعم بہت ناراض ہوئے اور بار بار فرمایا۔ آفتلہ بعد ما قال لا الذالاک اللہ اس لئے وہ مسلمان پر کسی حال میں تلوار اٹھانا

ملعونہ قادش
کی جمع ہے اور وہ
ایک گروہ تھا جو
حضرت امام حسین
کی ترک مسامت
پر ندامت کی وجہ
سے اپنے آپ کو
تو امیں کہتے تھے
اور ان کا سردار
سیمان بن مویث
اور ان کا دعویٰ
تھا کہ ہم فدا نہیں
چاہتے اور امام حسین
کے خون کا مطالبہ
کرتے ہیں اور وہ
بعض اور اس کے گروہ
و نواح پر غالب ہو
گئے
یعنی مروان بن
الحکم مطلب یہ کہ
موجودہ لڑائیاں
صرف دنیا کے لئے
ہو رہی ہیں کہ
بادشاہت تکس کی
مطلبین یہ بھی
مناقت ہے کہ
ظاہر طور پر اسلام
کا اترا بھی کرتے
ہیں مگر کفر کے کلمات
کھلے طور پر کہتے ہیں
یا کفر کے کام کرتے
ہیں اس سے معلوم

بِمَكَّةَ وَوَتَبَّ الْقُرَاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى
 کہیں اٹھے اور قاری بصرہ میں اٹھے
 تیریں اپنے باپ کے ساتھ ابو بزرہ اسلمی کے پاس گیا
 یان تک
 دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عِلْيَةَ لَهُ مِنْ قَصَبٍ يَجْلِسُ إِلَيْهِ
 کہ ہم ان کے پاس ان کے مکان میں گئے اور وہ بائیں کے ایک بالاخانہ کے سایہ میں بیٹھے تھے حوان کا تھا
 سوہم ان کے پاس بیٹھے
 فَأَنْشَأَ ابْنِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ مَا دَقَّقَ فِيهِ النَّاسُ
 اور میرے باپ نے ان سے کچھ گفتگو کرنے کا آغاز کیا اور کہا ابو بزرہ آپ نہیں دیکھتے تو کب کن باتوں میں پڑ گئے ہیں
 فَأَقُولُ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ نَكْرَهُ يَا ابْنِي أَحْتَسِبْتُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْيَ أَصْبَعْتُ سَاحِطًا عَلَيَّ
 سربیلی بات، حوس نے نہیں کہے ہوئے سنایا تھی کہ میں تو اسے اٹھ کے نزدیک ثواب کا موجب سمجھتا ہوں کہ میں فریض کے قبلوں سے
 أَحْيَاءُ فَرِيضٍ أَنْكُرُ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ لِذِي عِلْمَتُمْ مِنَ الدَّلِيلِ وَ
 نارا من ہوں اے عرب کے گروہ تم جس حالت میں تھے تم سے چاہتے ہو
 الرِّقْلَةَ وَالضَّلَالَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
 نادیاری اور گمراہی کی حالت میں اور اللہ نے تم کو اسلام کے ذریعہ
 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمیں بجا یا بیان کیا
 بَلَّغَكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ وَإِنَّ ذَلِكَ الَّذِي بَالِغًا
 کہ تمہاری حالت ایسی ہوئی تو تم دیکھتے ہو اور یہ وہ دنیا ہے جس نے تمہارے درمیان فساد ڈالا یہ شخص جو شام میں ہے
 وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُوا إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا ۲۴۱۱
 اشد کی قسم وہ دنیا پر ہی لڑ رہا ہے
 حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہا کہ
 الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى السَّهْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّا يَوْمَئِذٍ نَسِيرُونَ
 آج کے منافق ان سے بدتر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے وہ اس وقت اپنے لوگوں کو چھپاتے
 وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ ۲۴۱۲
 تھے اور آج چرچا کر رہے ہیں
 حذیفہ سے روایت ہے کہ نفاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَأَمَّا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ (۲۴۱۳) بَابُ مَا لَا تَقُومُ
 اور آج جو کچھ ہے وہ ایمان کے بعد کفر ہے
 بَابُ مَوْعُودِ كَعْرِي
 السَّاعَةَ حَتَّى يَخْطُ أَهْلُ الْقُبُورِ (م- ۲۴۱۴) مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۴۱۶) (۲۴۱۷) بَابُ
 نہیں آئے گی بیان تک کہ قبروں والوں پر رگ کیا جائے گا
 دیکھو حدیث ۲۴۱۶ اور ۲۴۱۷
 يُغَيِّرُ الزَّمَانَ حَتَّى يَعْلُدَ دَاكُوتَانَ (۲۴۱۸) مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 زمانہ کا بدل چکانیاں تک کہ لوگ قبروں کی پر جا کریں گے
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْرِبَ الْيَاكُوتَ نِسَاءً دَرَسًا عَلَى ذِي الْخَلْصَةِ
 نے فرمایا کہ موعود گمراہی نہیں آئے گی
 یہاں تک کہ وہ کسی عورت کی خنجر (ت) کا طواف کریں گے

ہو تا ہے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو دنیا میں پروکریں کے معاملہ میں بیباک ہو گئے تھے اور علامہ بعض نکات لکھ کر کہتے تھے یا ان کے اعمال ایسے تھے
 کہ ان میں دین کا احترام باقی نہ رہا تھا، یعنی ایسا فتنہ ہو گا کہ لوگوں کی یہ آرزو ہو گی کہ کاش وہ مر گئے ہوتے اور قبروں میں ہوتے۔ الساعۃ سے مراد حادثہ
 فتن میں ساعت وسطی۔۔۔ بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک نسل یا ایک قوم کی تباہی اور قیامت کبریٰ بھی، مہا مہا لکھا کہ ایک کلمہ دوہرایا ہے: عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتی یعد الرجل فیقول یا لیسنۃ مکاتہ، ملک الیات۔ اعجاز یا جو تڑپوں ان کے حوکت کرنے سے مراد
 ان کا طواف کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر خدائے واحد کو چھوڑ کر لوگ جب تہوں کی پرستش کی طرف آجائیں تو وہ ان کی تباہی کا وقت ہے۔

وَدَوَّالْخَلِصَةَ طَائِعِيَةً دَوَّسَ لَتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَمَى (۲۱۲۵) عَنْ

اور دوا (خلصہ) طائعیہ دوس کا بت تھا جس کی وہ جاہلیت میں پرستش کرتے تھے

أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَرَّرٌ ۱۵۷۸) (۲۵) بَابُ خُرُوجِ النَّارِ وَقَالَ أَسَسَ قَالَ لَيْتَهُ صَلَّ

ابو ہریرہ (متکرر ۱۵۷۸) باب نکلنے کی آگ اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَادَى فَتَشْتَرِي النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

وہم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی علامتوں میں سے پہلی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی

(۲۱۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو غمگین نہیں آئے گی

حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيئُ أَعْدَانَ قَبْلِ بَصُورِي (۲۱۲۶) عَنْ

یہاں تک کہ جو زہریں سے آگ نکلے جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفِرَاتُ أَنْ يَشْرِبَ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے شربت

عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَهَبٍ مَنْ حَضَرَكَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا رَمَى (۲۱۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

جائے جو اس کے پاس موجود ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے

(مُتَكَرَّرٌ ۲۱۲۶) (۲۶) بَابُ (م) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَيْبٍ (مُتَكَرَّرٌ ۷۵۲)

دیکھو حدیث ۲۱۲۶ باب نکلنے دیکھو حدیث ۷۵۲

(۲۱۲۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی

حَتَّى تَقْتُلَ قَتْلَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدَةٌ

یہاں تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں لڑیں ان کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہوگی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا

وَحَتَّى يَبِيعَتْ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَهْمُ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ

اور یہاں تک کہ تیس کے قریب دجال کذاب بولیں جو جہاں سے ہر ایک کہے گا وہ اللہ کا رسول ہے

حَتَّى يُفِيضَ لِعِلْمٍ وَكَذَّابٌ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتُظْهِرُ الْفِتْنُ وَيَنْتَهِرُ الْهَرَجُ

اور یہاں تک کہ علم لے لیا جائے اور زلزلے بہت آئے لگیں اور زمانہ قریب ہو جائے اور فتنے ظاہر ہوں اور ہرج منہج بھلی تھی

وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَلْتَفِتَ إِلَيْكَ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يَمْتَرِبَ الْمَالُ مَنْ يَقْبَلُ صِدْقَتَهُ

زیادہ ہو اور یہاں تک کہ تیس مال بہت ہو جائے اور پیسے لگ جائے یہاں تک کہ مال والے کو کارگ جانے کا اس کا ہمدرد کون بیٹھتا ہے

دیکھو نوٹ ۱۵
صفحہ ۸۱
مذکورہ ترمیمی نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حجاز میں مدینہ کے علاقہ میں ایک آگ نکلی اور اس کی ابتدا ایک بڑے بھاری زلزلہ سے ہوئی جو مدینہ، بحری جادوئی آسانی کی تیسری تاریخ بدھ کے دن عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک رات پھر ظہر کیا اور آگ مدینہ سے کچھ فاصلہ پر جس کو بعض لوگ آج میں نصف دن کا فاصلہ لکھا ہے) ۷۵ کی جانب نمودار ہوئی اور وہ ایک بڑے وسیع علاقہ میں تھی اور اس کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ مدینہ سے پانچ منزل کے فاصلے سے نظر آتے تھے اور یہ پتھروں کو پھیلانی پہلی جاتی تھی۔ اور اس سے ایک سرخ دریا بہ رہا تھا جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح تھی۔ اور زلزلے میں سے کہ اہل علم کا اس آگ کے نکلنے پر تو اڑے دیکھا۔ عین اہل علم یہ ہے کہ کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے جس سے آگ اور لافا سیال آدہ نکلے جس سے بصری ایک مشہور مقام کا نام ہے جو دمشق سے تین منزل دھڑ ہے۔ تیسرا الباری میں ملوئی وحید الزمان نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ حجاز میں آگ نکلنے سے آپ کی مراد یہ ہو کہ حجاز میں ریل جاری ہوگی اور یہ فرمان آپ کا صحیح ہوا۔ جبکہ بڑی مستعدی سے حجاز میں ریل بن رہی ہے اور مشرق سے مغرب تک لوگوں کو لے جائیگی اس کا مطلب بھی دیکھو۔ یہ خوب چسپاں ہوتا ہے۔ مسافر ذات کا تعلق ایک تو اس سونے کے خزانے سے ہے جو انگلستان نے جنگ عظیم میں وہاں پہنچایا اور عرب کے بددوں کو سونا دے کر لڑکی سے ستم فرمایا۔ اس پر یہ لفظ بھی خوب چسپاں ہوتے ہیں کہ جو کوئی وہاں موجود ہے اس میں سے کچھ نہ لے کیونکہ یہ فی الحقیقت اسلام کے ساتھ خدا کی قیمت تھی اور جنہوں نے یا تھا وہ بالآخر خسرو اللہ نیا والا خرچہ کا مصداق ہوئے۔ کیونکہ ٹیکسوں کی صورت میں پھر وہ سونا واپس بھی لے لیا گیا۔ مگر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً الا انہ قال جمعو عن جبل من ذھب ۱۰ مہیاں لفظ لیں ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تصدقوا فیما فی علی الناس ذمان یسئو بصدقاتہ فلا یصلوا من یقبلوا ۱

وَحَتَّىٰ يُعْرِضَهُ فَيَقُولَ لِيَذْبِئْهُ عَلَيْهِ لَا آذِبُ لِي بِهِ وَحَتَّىٰ يَتَّوَلَّ

اور یہاں تک کہ اسے پیش کرے سو جس پر اسے پیش کرے گا وہ کھٹکے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تک کہ لوگ عمارتوں

النَّاسِ فِي بُنْيَانٍ وَحَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَدْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَ

کے پاسے میں فخر کریں اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر پر سے گزرنے کا اور لے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور

حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا نَازًا اطَّلَعْتُ دَرَاهِمًا النَّاسِ يُعْرَضُ امْنُوا الْجَمْعُ

یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب کی نکلے پس جب وہ نکل پڑے اور لوگ اسے دیکھیں ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں

فَذَلِكَ حِينٌ لَا يَنْفَعُ لِنَفْسٍ أَيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلِ اَوْ كَسَبَتْ فِي اٰيْمَانِهَا

تو یہی وقت ہے کہ کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان میں نیک کام نہیں

خَيْرٌ اَوْ لَتَقْوَمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرْنَا الرَّجُلَانَ تَوْهَمًا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَّبِعَانِي وَلَا

کیا اور ضرورت قائم ہوگی اور وہ آدمیوں نے آپس میں کڑھ پھیلایا ہوگا اور اس کی خرید و فروخت نہ کرے

يَطُوبَانِي وَهَلْ تَقْوَمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ اَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَدِّهِ لَعَجْتَهُ فَلَا يَطْعَمُهُ وَ

ہونگے اور نہ اس سے پیٹ پکے ہوں گے اور ضرورت قائم ہوگی اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دیکھ کر نہیں آئے ہوگا مگر ابھی اس نے پیا نہیں ہوگا

لَتَقْوَمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلْطَمُ حَوْصَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَتَقْوَمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اَكْلَهُ

اور ضرورت قائم ہوگی اور وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا لیکن وہ اس میں پانی نہ لے گا اور ضرورت قائم ہوگی اور اس نے اپنے

اَلِي فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا (۲) بَابُ ذِكْرِ الدَّجَالِ (۱۷۴) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ

منہ کی طرف نہ اٹھایا ہوگا تو اسے نہ کیا سیکھا جاوے گا دجال کا ذکر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

اٰخِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَالِ مَا سَأَلْتَهُ وَرَأَيْتَهُ قَالَ لِي مَا يَصُوْرُ

عظیم وسلم سے دجال کے تعلق کسی نے اس قدر نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا آپ نے مجھ سے فرمایا تمہیں اس

مِنْهُ قُلْتُ لَا تَهْمُ يَقُوْلُوْنَ اِنْ مَعَهُ جَبَلٌ خَيْرٌ وَهَرَمًا قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلٰى

کوئی بات ضرر پہنچا سکتی ہے جس نے عرض کیا اس کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زبور کا پہلو ہوگا اور ہاں ہی نہیں کہنے کو اپنے فرمایا وہ ایشیہ پر اس

اَللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

سے زیادہ خیر ہے دیکھو حدیث ۱۵۴۳

(مَتَكَ) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

دیکھو حدیث ۱۷۴۵

(مَتَكَ) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

دیکھو حدیث ۱۷۴۵

(مَتَكَ) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

دیکھو حدیث ۱۷۴۵

(مَتَكَ) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

دیکھو حدیث ۱۷۴۵

(مَتَكَ) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴) (۱۷۴) عَنْ اَبِي سَمُرَةَ مَتَكَ (۱۵۴)

عطا یہاں ذکر قیامت کرنے کا یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ جن نشانات کا یہاں تذکرہ ہے وہ ایک لمبے زمانہ پر تمدن میں دورے کے گردہ لڑنے والے اس جنگ عظیم میں تھے جس کا نام عیش میں بھی مقتلہ عظیمہ یا جنگ عظیم ہی رکھا ہے ان کا دعویٰ بھی ایک ہی تھا یعنی جنگ کے ذریعہ سے دنیا کے امن کو قائم رکھنا جو عیش مدعیان نبوت بھی بہترے اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں علم دین جیسا اس زمانہ میں اٹھایا گیا ہے خاندانی کھٹا ہو دینا ہی دنیارہ گئی ہے۔ زلز لوں کی کثرت فتنوں کا ظہور کثرت فتنوں کی بدلتا ممالک کی کثرت، عمارتوں پر فخر، سب نشان ایک عہد تک ظاہر ہو چکے ہیں اور شاید ابھی اور بھی زیادہ صفائی سے ظاہر ہوں، مغرب سے آفتاب کا طلوع اگر ایسے ظاہری معنی پر ہے تو اس نظام عالم کے درہم برہم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آفتاب اسلام کا طلوع ممالک مغربی میں ہو گیا کیونکہ پہلے ترہ سو سال تک اسلام کا مشرق کی طرف ہی زیادہ رہا ہے۔ آخری الفاظ میں بتایا ہے کہ قیامت آئے گی تو ایسی حالت میں کہ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے اور ایک تباہی آجائے گی۔ اس حدیث کے بعض حصص میں بھی گذر چکے ہیں مثلاً ۱۷۱۱ میں ابتدائی حصہ اندرسوں اللہ تک دیکھو نوٹ ۱۳ صفحہ ۱۸۳ اس کے بعد کہ حصہ فیعیض تک م ۲۹۲ میں گذرا ہے طلوع الشمس من مغربها والا حصہ ۱۹۱۱ میں آیا ہے ۱۷۱۱ میں لفظ یوں ہیں ہوا ہون علیہ من ذلك وہ یعنی دجال خدا کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے کہ اس کو یہ سامان نے مطلب یہ کہ فی الواقع وہ لوگوں کا کوئی بہادر اور ترسا تھا ساتھ نہیں لگی۔ مگر شایع نہیں مراد ہے کہ وہ اس سے زیادہ حقیر ہے کہ خدا اس کیسے ان چیزوں کو اس کی صداقت کا نشان بننے تو مطلب یہ ہوا کہ کومن اس سے گمراہ نہیں ہونگے ۱۷۱۱ میں لفظ یوں ہیں۔ ارادہ عن الیہ صلعم قال اعود عین الیہ عنہا کا جماعتیہ طاقتیہ (جس کا نوجوا گیا ہے) ۱۷۱۱ میں لفظ یوں ہیں۔ قال قال الیہ صلعم یحی الدجال حتی یتزل فی ناحیة المدینة تم تر حفت المدینة ثلاثا وشارح جفات فیخرج الیہ کل کا فرد ونافق۔ دیکھو نوٹ ۱۷ صفحہ ۲۱۱ ۱۷۱۱ اس کے لفظ م ۸۰۳ کے ہیں ۱۷۱۱ لفظ م ۸۰۳ کے ہیں۔ دجال کا رعب مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دجال کے مدینہ وغیرہ جانیے مراد اس کے رعب کا وہاں پہنچنا ہے۔ مرکز اسلام اس کے رعب سے محفوظ رہے گا۔

(م-۳۶) ابن ابی شیبہ (متکرم-۸۰۴) ۲۲۱۹	ابن ابی شیبہ (متکرم-۸۰۴) ۲۲۱۹
ابن ابی شیبہ (متکرم-۸۰۴) ۲۲۱۹	ابن ابی شیبہ (متکرم-۸۰۴) ۲۲۱۹
(م-۳۷) ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸	ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸
ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸	ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>۹۲- کتاب الاحکام</p>	
(۱) باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول اذ دعوا اليه من امر الله	ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸
(۲) باب قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول اذ دعوا اليه من امر الله	ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) ۲۲۱۸

ابن ابی شیبہ روایت کے لفظ ۸۰۴ کے ہیں۔
 ابن ابی شیبہ روایت کے لئے دیکھو نوٹ ۲۲۱۹ صفحہ ۴۶۹۔
 ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) کے لفظ ۱۵۱۲ کے ہیں۔
 ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) دیکھو نوٹ ۲۲۱۸ صفحہ ۴۴۰۔
 ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) دیکھو نوٹ ۲۲۱۸ صفحہ ۴۴۰۔
 ابن زینب (متکرم-۱۵۱۲) دیکھو نوٹ ۲۲۱۸ صفحہ ۴۴۰۔

اور بادشاہ یا آقا کا حکم حکم الہی کے ماتحت ہی ہے۔ اس آیت کو بطور اصول لائے ہیں یعنی سب پر مقدم اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد اولوالامر کی اطاعت۔ اسی لحاظ سے ہر مسلمان کے لئے قابل پیروی سب سے پہلے قرآن شریف ہے۔ اس کے بعد حدیث اس کے بعد فقہ۔ آیت کا دوسرا حصہ بیان نقل نہیں کیا۔ فان تنازعتم فی شئی فرددہ الی اللہ والی الرسول۔ اگر اولوالامر کے ساتھ کسی بلے میں جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف وٹانا یعنی قرآن و حدیث سے اس کا فیصلہ کرو۔ ۳۵۶ کا درمیانی حصہ بیان دوہرایا ہے۔ ان رسول اللہ صلحہ قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں ہی داخل ہے۔ اس سے علیحدہ نہیں اس لئے کہ خود اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اور امر تو ہم میں نہیں آسکتا کہ رسول خدا کے حکم کے مخالف حکم لے۔ اسی طرح پر فرمایا کہ جو میرے امیر کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی کیونکہ امیر آپ کے حکم کے ماتحت ہی مقرر کیا گیا۔ پس اس کی اطاعت رسول کی اطاعت میں داخل ہے۔ ہاں اگر وہ خدا یا رسول کے حکم کے خلاف حکم لے تو اس کا حکم ان الفاظ میں ہے لا طاعة للخلق فی معصیة اللہ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ امیر کی اطاعت ہی سب کچھ ہے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں بلکہ سمجھایا ہے کہ امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت میں اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت میں داخل ہے پس رسول یا امیر کی اطاعت ترک نہیں جیسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ ۳۳۱ سے حدیث نبوی کا مضمون شریعہ ہوتا ہے تعین اختلاف لفظی سے بیان کیا ہے ان رسول اللہ صلحہ قال الاکلک رابع دکلک مسؤل عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس رابع دھو مسؤل عن رعیتہ والرحل رابع علی اهل بیتہ وھو مسؤل عن رعیتہ والمرایة رابعیة علی اهل بیت زوجہا وولده دھو مسؤل عنہم وعلی مال سیتہ وھو مسؤل عنہ الا فلککم رابع دکلک مسؤل عن رعیتہ۔ اس میں ہم کو جو بعض لوگوں پر پتھر ہوا نکاحا حکم فرمادیا گیا ہے۔ مرد کو اپنے گھر والوں کا عورت کو اپنے خاندان کے اہل بیت کا حتی کہ غلام کو بھی اپنے آقا کے مال کا حکم ٹھہرایا گیا ہے تو اپنی اپنی جگہ پر ان سب کے حکم ہانسنے کے قابل ہیں۔ ۳۱۱ اہلیت ہر جگہ شرط ہے۔ عنوان کی تائید میں حضرت عاصی کی حدیث لائے ہیں۔ انھذا

۳۱۱ الامرو فی قریش..... ما قالوا الذین قریش میں حدیث امیوت تک ہی جب تک وہ دین کو قائم رکھیں یعنی ان میں سے کسی اہلیت ہو۔ مثلاً قریش ہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔

(م- ۴۱۲۲) عَنْ ابْنِ مَسْرُودٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۵۶۷) (۳) بَابُ آجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِمَى لِقَوْلِهِ

دیکھو حدیث ۱۵۶۷ باب اس کا اجر جو حکمت کے ساتھ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ کے

تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَجِدْ رِيْمًا أَنْزَلَ اللَّهُ قَائِدًا وَلَيْكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (م- ۴۱۲۳) عَنْ

قرآن کی وجہ سے اور جو اس کے مطابق حکم نہ دے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ فاسق ہیں

عَبْدِ اللَّهِ رَضٍ (مُتَكَرِّرًا - ۶۷۷) (۴) بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَمَا لَمْ يَنْصُرْ مَعْصِيَةَ

دیکھو حدیث ۶۷۷ باب امام کی بات سننا اور فرمانبرداری اگر ناچاہے گناہ نہ ہو

(م- ۴۱۲۴) عَنْ ابْنِ مَسْرُودٍ (مُتَكَرِّرًا - ۴۲۲) (م- ۴۱۲۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا)

دیکھو حدیث ۴۲۲ دیکھو حدیث ۴۲۵

(۲۲۰۱) (م- ۴۱۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۳۵۵) (م- ۴۱۲۷) عَنْ

دیکھو حدیث ۱۳۵۵ دیکھو حدیث ۱۳۵۵

عَلِيِّ رَضٍ (مُتَكَرِّرًا - ۱۸۲۲) (۵) بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ لِمَا رَأَى آعَانَهُ اللَّهُ

دیکھو حدیث ۱۸۲۲ باب جو حکومت نہیں مانگتا تو اللہ اسکی مدد کرتا ہے

(م- ۴۱۲۸) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضٍ (مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵۱) (۶) بَابُ

دیکھو حدیث ۲۳۵۱ باب

مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وَكُلَّ إِلَيْهَا رَهًا - (م- ۴۱۲۹) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضٍ

جو حکومت مانگے تو وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا

(مُتَكَرِّرًا - ۲۳۵۱) (۷) بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْخُرُوصِ عَلَى الْإِمَارَةِ (۲۲۲۰)

دیکھو حدیث ۲۳۵۱ باب حکومت کی خورج سے نا پسندیدہ ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ دَسْتُمْ حُرُوصُونَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ حکومت کی خورج سے نا پسندیدہ ہو

عَلَى الْإِمَارَةِ وَدَسْتُكُمْ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْبَعُمُ الرُّضْعَةَ وَتَبْسُتُ الْفَلْاطِمَةَ

لیکن وہ قیامت کے دن ندامت ہوگی دودھ پلانے والی تو اچھی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری ہوگی

(رَوَى فِي رِوَايَةٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ

اور ایک روایت میں ابو ہریرہ سے اسی کا قول مروی ہے

۱۵۶۷ لفظ ۱۵۶۷ کے ہیں، یہی ہیں۔ لہذا الامام سے مراد عرب کی حکومت بھی ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں وہی حاکم ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ انہیں دوسرے قبائل پر ایک بڑا اثر حاصل تھا۔ اغلب ہے کہ آپ نے یہ لفظ کسی خاص موقع پر فرمائی ہے۔ لہذا اس کے الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ دیکھو نوٹ ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ جس طرح مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینے کو بہت بلند مرتبہ کا کام بتایا ہے۔ یعنی محض ایک کام میں مشقت یا

تکلیف کی وجہ سے امام کے حکم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہئے۔ نافرمانی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اس حکم سے خدا کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ لہذا وہی لفظ ہیں۔ حاکم خواہ عہد شکن بھی ہو اس کی بات ماننے کا حکم ہے۔ لہذا لفظ ۸۱-۸۰ کے ہیں۔ لہذا یہاں لفظ یوں ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السمع والطاعة علی اللہ کو اتان پسند کرتا ہو یا نہ کر تا ہو اطاعت لازمی ہے۔ ہاں اگر خدا کے حکم کی نافرمانی کا حکم ہو تو ایسا حکم ماننے سے انکار کر دو۔ لہذا قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ اس کے آخری الفاظ میں۔ انما الطاعة فی المعروف۔ یعنی جسے حکومت کا کوئی کام اس کے طلب کئے بغیر نہ دیا جائے۔ لہذا انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ حکومت کا کام ماننے سے آپ نے منع فرمایا۔ یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملتی۔ لہذا وہی لفظ ہیں۔ لہذا جو دودھ پلانے کی وہ چھڑانے کی بھی۔ ابتدا میں اس کی کشش اور لذت ہوتی ہے مگر بالآخر یہ ساتھ چھڑاتی بھی ہے۔ آج ایک شخص حاکم ہے تو کل نہیں۔ اسلامی سلطنت کی طرز یہی تھی۔ بعض نے دودھ چھڑانے کی تشبیہ آخرت کے محاسبہ سے سمجھی ہے۔

(م- ۲۱۵۰) عَنْ أَبِي مُوسَى (مترکہ- ۱۱۰۰) (۸) بَابُ مِنْ اسْتِزْرَعِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَصْحَحْ

دیکھو حدیث ۱۱۰۰... باب جو کسی رعیت کا نگہبان بنے اور انکی خیر خواہی نہ کرے

(۲۲۲۱) عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدًا عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي

حسن سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زید اور معقل بن یسار کے مابین اس بیماری میں گئے جس سے

مَاتَ فِيهِ وَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي عُذْتُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

انورح وفات پائی تو معقل نے ان سے کہا میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاكَ اللَّهُ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ کوئی شخص نہیں جسے اللہ کسی رعیت کا حاکم بنا دے

رَعِيَّةً فَلَمْ يَطِّبْهَا بِصَيْحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ (م- ۲۱۵۱) عَنْ الْحَسَنِ (مترکہ)

اور وہ خیر خواہی کے ساتھ کسی نگہبانی نہ کرے مگر وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گا... دیکھو حدیث

(۲۲۲۱) بَابُ مَنْ شَاقَّ شَيْئًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (م- ۲۱۵۲) عَنْ خُرَيْبِ بْنِ تَيْمَةَ

باب جو کس کو مشقت میں ڈالے اس کا اللہ پر مشقت ڈالے گا

(مترکہ- ۲۳۱) بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفِتْيَانِ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى حَتْمِي بَنُ

دیکھو حدیث ۲۳۱... باب راستہ میں رہتی چلتے چلتے فیصلہ کرنا اور فتنہ کی دینا اور حتمی بن میر نے

يَعْمُرُ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى لِلشَّعْبِيِّ عَلِيٌّ بَابُ دَارِهِ (م- ۲۱۵۳) عَنْ أَنَسِ

راستے میں فیصلہ دینا اور شعبی نے اپنے مکان کے دروازہ پر نصب دیا

ابْنِ مَالِكٍ (مترکہ- ۱۱۶۴) (۱۱) بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۱۶۴... باب بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

لَمْ يَكُنْ لَهُ بُوَابٌ (م- ۲۱۵۴) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مترکہ- ۶۷۸)

کاروبار کوئی نہ تھا... دیکھو حدیث ۶۷۸

(۱۲) بَابُ الْحَاكِمِ يَكْفُرُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ ذُؤُنُ الْأَمَامِ الَّذِي قُوَّةُهُ

بازاں حاکم ہر اس شخص کے لئے قتل کا حکم ہے مگر جس پر قتل واجب ہو یعنی اس نام کی اجازت کے جو اس سے اوپر ہو

یہاں لفظ میں... ہیں، قال دخلت... النبی صلعم ان ابو... رجلان من قوی... فقال احدا الرجلین... انظرنا یا رسول الله... وقال الاخر فضله... فقال انانا لولی... هذا من ساله کما... من حرص علیہ... بل پس حکومت... رعایا کی نگہبانی کے... لئے اور ان کی... خیر خواہی کیلئے ہے... مکر روایت... اختلاف نقل سے... آئی ہے۔ قال... اتینا معقل بن... یسار نعودہ فدخل... عبید اللہ فقال... له معقل احدک... حدیث سماعہ... من رسول الله... صلعم فقال ما... من وال یلی... رعیة من المسلمین

فی موت وهو غاشم ریدخواہ۔ غشش نوع کی ضد ہے، لهم الاحترام اللہ علیہ الجنۃ... مکر روایت کا مضمون بہت زیادہ ہے۔ ۲۳۱ میں صرف اس کا پہلا جملہ ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال شہدت صفوان وجندب اور اصحابہ وهو وصیہم فقالوا اهل سمعت من رسول اللہ صلعم شیئا قال سمعته یقول من ستم سمعت اللہ بہ یوم القیامۃ اس کے بعد فقرہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ چھڑوایا ہے، قال ومن یشاقق رعیتہم علی ما یشاقق من الامرا یا یوجھ ان پر ڈالنے کے لئے تعلیف کا موجب ہیں یشاقق اللہ علیہ راشر اس پر سختی کرے گا، یوم القیامۃ فقالوا او صننا فقال ان اول ما ینق (مترقی ہے) من الانسان بلطہ نحن استطاع ان لا یاکل الا طیباً فلیفعل ومن استطاع ان لا یحالی رکونی چیز حاصل نہ ہیں) بینہ وبين الجنة بمل کفہ من دم (ایک چلو بھرنوں سے مطلب کسی کا خون کرنا ہے) اھراقہ فلیفعل قلت لابی عبد اللہ من یقول سمعت رسول اللہ صلعم جناب قال نعم جندب... مکر روایت کئی بیشی سے آئی ہے۔ قال بینما انا والنبی صلعم خارجان من المسجد فلقینا رجل عند سدة المسجد (مجدک دروازہ۔ عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے) فقال یارسول اللہ متی الساعة قال النبی صلعم ما اعدت لها فکان الرجل استکان راجزہم یگیا یا شرسا رہو گیا، ثم قال یارسول اللہ ما اعدت لها سردت لها کبیر صیام وکلا صلاة وکلا صدقة وکتی احب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت... ہاں یہاں ۶۷۸ اور ۶۷۹ دونوں سے زیادہ تفصیل ہے۔ یقول لامرأۃ ترفین فلامۃ قالت نعم قال فان النبی صلعم مر بها وھی تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری، فقالت الیک عنی فانک خلون من مصیبتی قال فاجزها ومضی خبرہا رجل فقال ما قال لک رسول اللہ صلعم قالت ما عرفته قال انه لرسول اللہ صلعم قال فجاءت الی بابہ فلم تجع علیہ وہا بار عزوان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے، فقالت یارسول اللہ واللہ ما عرفتك فقال النبی صلعم ان المصدع عند اول صدمۃ... مک یعنی یہ ضرور ہی نہیں کہ جس حاکم کو مزارعہ قتل کا اختیار دیا گیا ہے وہ امام سے اجازت بیکر قتل کا حکم ہے۔

(۲۲۲۲) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انس سے روایت ہے کہ قیس بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھے

وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرْطِ مِنْ الْأَمِيرِ رَمَاهُ - (۲۱۵۵) عَنْ أَبِي مُوسَى رَمْتَكُرٍ -

جیسے امیر کے سامنے کو توال ملے

(۱۸۴۳) (۲۱۵۶) عَنْ أَبِي مُوسَى رَمْتَكُرٍ (۱۸۴۳) (۱۱۳) بَابُ هَلْ يَقْضَى الْحَاكِمُ

دیکھو حدیث ۱۸۴۳ باب کیا حکم فیصلہ یا فتویٰ ہی جسے کہتے

أَوْ يَفْتِي وَهُوَ غَضَبَانُ (۲۲۲۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ

دراغما یکدوہ غصے میں ہوں عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہا ابو بکر نے اپنے بیٹے

إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ سَبِيحِ سَتَانَ بَانَ لَا تَقْضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَرَأَى

کہ لکھا اور وہ سستان میں تھا کہ جب تم غصے میں ہو تو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ دو

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضَى حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کوئی حکم دو آدمیوں میں فیصلہ نہ دے جبکہ وہ غصے میں ہو

(۲۱۵۷) عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ رَمْتَكُرٍ (۲۱۵۸) (۲۱۵۹) عَنْ عَبْدِ

دیکھو حدیث ۲۱۵۸

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَمْتَكُرٍ (۲۱۶۰) (۱۱۴) بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَعْدَهُ

دیکھو حدیث ۲۱۶۰ باب جو قاضی کے لئے جائز سمجھتا ہے کہ لوگوں کے معاملے میں اپنے

فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخِفِ الظُّنُونَ وَالثَّمَّةُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا

علم کی بنا پر فیصلہ دے جبکہ بزرگی نبوی اور محبت سے ڈرے مگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو فرمایا

ملاحظہ فرمائیے
گو یا یہ سمجھا جائے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کو توال کے انتظام سے ملتا تھا، انتظام تھا۔ مگر جہاں تک روایات سے پتہ چلتا ہے قتل کا حکم دینے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیتے تھے البتہ دینے سے باہر کے حکام کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم حاصل کر کے قتل کریں جیسا کہ اگلی حدیث سے ظاہر ہے۔
نکد کر روایت کا صرف ایک فقرہ ہے ان النبی صلعم

بعثہ وابتغہ بمحاذہ ملے یاں مکر روایت اختصار سے آئی ہے، یعنی ابی موسیٰ ان رجلاً اسلم ثم ہود فاتی معاذ بن جبل وهو عند ابی موسیٰ فقال ما لهذا قال اسلم ثم ہود قال لا اجلس حتی اقله قضاء الله ورسوله صلعم۔ اس میں ہے کہ ابو موسیٰ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں کے ایک حصے کے حاکم تھے ایک شخص کے قتل کا حکم دیا اور رسول اللہ صلعم سے اجازت نہیں مانگی، بلکہ مکرر روایت تخفیف اختلاف الفاظ سے آئی ہے، قال جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله انى والله لا تاخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يخييل بنا فيها قال فساريت النبي صلعم فظا انشد غضباً في موعظة منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم متفرقين فايحكم ما صلح بالناس فليجز فان فهمم الكبير والضعيف وذا الحاجة۔ اس میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں تھے جب آپ نے یہ فرمایا کہ نماز کو بہت لمبا کر کے لوگوں کو دین سے نہ بھگاؤ، مگر ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، ایک یہ کہ وہ آدمیوں میں فیصلہ کرنا ہوا اور ان میں سے ایک کے خلاف انسان غصے کی حالت میں ہوا اور دوسرے یہ کہ ایک شخص کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے یا شریعت کی ہتک ہوتی ہے تو اس پر ناراض ہونے کا باوجود اسے سمجھا نام، ۱۵۷ اور م ۱۵۸ دونوں میں ایسے ہی واقعات کا ذکر ہے۔ ایک شخص شکایت کرتا ہے کہ فلاں امام نماز کو بہت لمبا کرتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو دین سے بھگاؤ نہیں۔ دوسرا حالت حیض میں طلاق دینا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باوجود اسے سمجھا نام، ۱۵۷ اور م ۱۵۸ دونوں میں ایسے ہی واقعات اور شہادتوں پر غور اور بحث کی ضرورت ہے کسی ایک فریق پر ناراضگی یہ نتیجہ صحیح نتیجہ پر پہنچنے سے روک کا موجب ہوگی یہ ٹھنڈے دل سے کرنے کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ کی حدیث میں گذرا کہ لا يقضى حكم بين اثنين وهو غضبان ان احاديث کے خلاف نہیں، بلکہ مکرر روایت کو ۱۹۴۳ کے الفاظ میں ضبط کیا گیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اس کو درست سمجھتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ شرط رکھی ہے کہ بزرگائی اور محبت کا خوف نہ ہو یعنی فیصلہ کرنے والا اپنی پریسب گاری صدق صلاحیت وغیرہ کی وجہ سے مشہور ہو اور دوسرے وہ امر مشہور ہو۔ بعض نے قضا سے پہلے اور قضا کے بعد کے علم میں فرق کیا ہے۔ اور پہلے علم کی بنا پر فیصلے کو جائز رکھا ہے، مگر امام مالک اور احمد اور ابودریس سے اور فقہار ذاتی علم کی بنا پر فیصلے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اصولاً یہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں جو ہند والی حدیث پیش کی گئی ہے اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں جس کا اثر حقوق پر پڑتا ہو یا بیکدوہ ایک مسئلے کا ایک کے رہا باقی ہوا ۱۵۷

رقبہ صفحہ ۱۵۴۹

خُدَيْمِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ (۳۱۵۹-۴)

جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نبوی اپنے اور اولاد کے گزارہ کے لئے

جو ماہی لئے اور مکالمے بچوں کے لئے دستور کے مطابق کافی ہو وہ لے لو اور یہ تب ہے جب ایک بات مشہور ہو

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متکرم - ۱۰۸۲) (۱۵) بَابُ شَهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمُخْتَوِّمِ وَمَا يَجُوزُ

مِنْ ذَلِكَ وَمَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى نَقِضِ

خا زندگ مال میں تصرف کر سکتی ہے یہ دیکھو جھگڑا کرنے والے فرقیوں میں کسی سے ملد کا فیصد نہیں بلکہ ایک رنگ کا فتویٰ ہے کہ عورت کے لئے اس حد تک اپنے خاوند کے مال میں تصرف جائز ہے

دیکھو حدیث ۱۰۸۲-۱۵۱۱ بابل نمبر کے ہونے خط پر شہادت دینا اور جو اس میں سے اور قاضی کا قاضی کو خط لکھنا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِذَا فِي الْحَدِّ وَدِدْتُمْ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ

خَطًّا فَهُوَ جَائِزٌ لَأَنَّ هَذَا أَمَلٌ يَزَعُمُهُ وَإِنَّمَا صَارَ مَا لَا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ

اور جس نے کہا کہ سولہ ممدود کے حاکم کا خط لکھنا جائز ہے پھر کہا کہ قتل خطا ہو تو جائز ہے

فَالْخَطُّ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحَدِّ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ فِي بَنِي كَيْسَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَيْمٍ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا

کیونکہ یہ ان کے خیال میں مال ہے حالانکہ قتل کے ثابت ہونے کے بعد مال ہوتا ہے اس لئے قتل خطا اور اور حضرت عمر نے اپنے عامل کو حدود کے بارہ میں لکھا اور عمر بن عبدالعزیز نے ایک

عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْحَاكِمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُحْيِي الْكِتَابَ الْمُخْتَوِّمَ بِمَدِينَةِ الْقَاضِي

نَظَرَ أَوْ مَرَّ بِهِ جَائِزٌ

لئے اس حد تک اپنے خاوند کے مال میں تصرف جائز ہے

وَبِرَوَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَقِيهُ شَهِدْتُ عَبْدَ

الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى الْقَاضِي الْبَصْرِيَّ وَإِيَّاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَشَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

خط اور مرقوم بچانے اور شعبی قاضی کی طرف سے ہر گز ہونے حکم کو اس کے ساتھ جو اس میں ہو جائز بھرتے تھے

بَصْرٍ

ابن انس اور بلال بن ابی بردہ اور عبداللہ بن بريدہ الہمی اور عامر بن عبدیہ

وَعَمَادُ بْنُ مَنْصُورٍ يُحْيِيُونَ كِتَابَ الْقَضَاةِ بَعْدَ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ فَإِنْ قَالَ

الَّذِي جُئِيَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قَبِلَ لَهُ أَذْهَبَ فَالتَّمْسِلُ لِحُجْرٍ مِنْ ذَلِكَ وَ

مکرر روایت کچھ کسی بیشی کے ساتھ آئی ہے۔ قالت حذرت ہدایت عتبہ بن زبیر فعات یارسول اللہ واللہ ما کان علی ظہر الاوض اهل خیار احب الی ان یذوا من اهل خیارک وما اصبر الیوم علی ظہر الاوض اهل خیار احب الی ان یذوا من اهل خیارک ثم قالت ان

اور عباد بن منصور سے ملا ہوں وہ قاضیوں کے خطوط کو گواہوں کے حاضر ہونے کے بغیر جائز رکھتے تھے پھر اگر وہ شخص جس کے

خلاف خط لایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو اس سے کہا جائے کہ گواہ اور اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو اور

أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لُبَيْبَةُ ابْنِ أَبِي كَيْسَانَ وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ

قَالَ لَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بِدَائِبُ بْنُ مَوْسَى بْنِ أَبِي قَاضِي الْبَصْرَةِ

ابن انس اور بلال بن ابی بردہ اور عبداللہ بن بريدہ الہمی اور عامر بن عبدیہ

قاضی کے خط پر سے پہلے ابن ابی بکر (قاضی کو فرما) اور سوار بن عبداللہ بن بريدہ قاضی بصرہ سے لوہی اور ہم سے

ابو نعیم نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن حرب نے بیان کیا کہ ابن موسی بن ابی قاضی بصرہ سے خط لایا

ابا سفیان رحل متیک فهل علی من حرج ان اطعم الذی له عیاننا قال لها لا حرج علیک ان تطعمینہم من معروفیت۔ اصل روایت میں جو سوا کا لفظ ہے وہ یہاں نہیں۔ اغلب ہے کہ یہ لفظ کسی غلط فہمی سے کسی راوی سے داخل ہو گیا ہے۔ اس میں اشارہ فقہ حنفی کے پیرووں کی طرف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں قتل خطا اور عمد میں ثابت ہونے سے پہلے کوئی فرق نہیں۔

وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيْتَةَ أَنْ لِي عِنْدَ فَلَانٍ كَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ بِالْقَائِمِ

اور میں نے اس کے پاس گواہ لکڑے کے میرا قتل پر اس قدر مال ہے اور وہ کوفہ میں ہے اور میں اسے قائم بن

ابن عبد الرحمن فَأَجَازَهُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قَلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَّ وَصِيَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ

عبدالرحمن کو روک دے قاضی کے پاس لایا تو انہوں نے اسے جائز رکھا اور حسن اور ابوقلابہ نے تاہم نہ کیا ہے کہ وصیت پر گواہی دے میں تک کہ جو اس

مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يُدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جُورٌ أَوْ قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں لکھا ہے اسے جانے کیونکہ وہ نہیں جانتا شاید اس میں حق تلفی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ مَا أَنْ تَدْرَأُ صَاحِبَكُمْ وَرَأْمًا أَنْ تُوذَّ نُوَارِجُكُمْ قَالَ لَرُبِّي

خبر والوں کو لکھا کہ یا اپنے ساتھی کی رضی اس شخص کی جو تمہاری سہمی میں مارا گیا ہے، دیت دو وہ نہ جنگ کیلئے تیار ہو جاؤ اور نہ ہری

فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ ذُرَاةِ السَّيْطَانِ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدُوا لَهَا فَلَا تَشْهَدُ

عورت پر گواہی کے تعین جو مردہ کے بچھے ہو گیا کہ اگر تم اسے پہچانتے ہو تو گواہی دو اور نہ گواہی نہ دو

(م- ۱۶۰) عَنْ أَسْرِ بْنِ مَالِكٍ (مكرر: ۶۰، ۱۶۱) بَابُ كَيْفَ يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ

دیکھو حدیث ۶۰ مل باب بیٹے انسان کی قضا کا این ہوتا ہے

الْقَضَاءُ وَقَالَ الْحَسَنُ اخْذُوا اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الرَّهْوَى وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ

اور حسن نے کہا اللہ نے حکام سے عہد لیا ہے کہ خواہش کی پیروی نہ کریں اور نہ لوگوں سے ڈریں

وَلَا يَشْتَرُوا بِأَيَاتِي شَيْئًا قَلِيلًا لَمْ قَرَأَ يَا أَوْدُ رَأَانَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

اور میری آیتوں کے بدلے تجھ کو شئی قیمت نہ لیں پھر یہ ٹھہرایا داود الخ لے داود ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنا یا ہے

فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالسُّبْحِ وَلَا تَتَّبِعِ الرَّهْوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ

سو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ

يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَقَرَأْنَا

سے بھٹک جاتے ہیں تو ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کا دن بھلا دیا (۲۶۰) اور پڑھا آنا

أَنْزَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُنِيرُ كَيْفَ يُهَدَى الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

انزول کیا ہم نے تورات کو ان میں رہایت اور نور ہے اس کے مطابق نبی جو فرما رہے دار تھے یہودیوں کے لئے فیصلہ کرتے تھے

هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَابُ رِيَمَا اسْتُحْفَظُوا اسْتَوْذِعُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ

اور شاخ اور علماء بھی اس کے مطابق جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے کیلئے انہیں لکھا گیا تھا اور

كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَاتِي شَيْئًا

وہ اس پر گواہ تھے سو لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تجھ کو شئی قیمت نہ لو

قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَرَأُ وَاذْوَدُ

اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے انہیں لکھا تو وہ کافر ہیں (۲۶۰) اور پڑھا داود اور داؤد اور

سُلَيْمَانَ إِذْ يُخْتَلَمَانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ وَكَانَ مِنْهُمْ

سلیمان جب وہ کہیں کے پاس میں فیصلہ کرتے تھے جب اس میں رات کو لوگوں کی بکریاں چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ

شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا إِنَّا حُكْمًا وَعِلْمًا فَخَمِدْ سُلَيْمَانَ وَكَمْ

تھے سو ہم نے اسے سلیمان کو بھادیا اور ہر ایک کو ہم نے ہم اور عود یا فقہار الانبارہ (۲۶۰) میں سلیمان کی تعریف کی اور

يَلْمُ دَاوُدَ وَلَوْ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقَضَاةَ هَلَكُوا فَارْتَهَ

حضرت داؤد کو ملامت نہیں کی اور اگر اللہ نے ان دونوں کی حالت کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھٹکا قاضی ہلاک ہو گئے کیونکہ

۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

أَشْنَىٰ عَلَىٰ هَذَا بَعْلِيَّةٌ وَعَدَّ رَهْذًا بِأَجْتِهَادِهِ وَقَالَ مُرَّاسِمٌ بْنُ زُرْقٍ قَالَ لَنَا مَرْ

اشنئے ان رسیمان کی ان کے علم کی وجہ سے تعریف کی اور ان رکوع کو ان کے اجتہاد کی وجہ سے مؤذر قرار دیا اور مراسم بن زرق نے کہا کہ

ابن عبد العزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهم خصلة كانت فيه وهمة ان

سے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پانچ صفیں ہیں جب قاضی میں ان میں سے ایک صفت بھی کم ہو تو یہ اس میں عیب ہوگا

يَكُونُ فَمَا حَلِمًا عَقِيفًا صَالِحًا عَالِمًا سَوَاحِبًا عَنِ الْعِلْمِ (۱۷۱) بَابُ ذَرْقٍ الْحَاكِمِ

یعنی مجھدار ہو بردبار ہو پرمیزگار ہو متقی اور انصاف پر مضمون ہو عالم اور علم کے بارہ میں کثرت سے سوال کرتا ہو باقی حاکموں اور کارکنوں کی

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شَرِيحَ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَقَالَ التَّ

بیت اہمال سے مشاہرولینا اور قاضی شریح فقہاء پر اجرت لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ

عَائِشَةُ يَا كُلُّ الْوَصِيِّ يَقْدِرُ عَمَلَيْتِهِ وَآكُلُ الْأَبْرِكِ وَعُمَرُ (۱۷۱) عَنْ عَبْدِ

نے فرمایا کہ وہی اپنے کام اور شفقت کے انراٹھے سے کھائے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہا

اللَّهُ بَرُّ السَّعْدِيِّ (متکرر ۴۹۲) (۱۸) بَابُ مَنْ قَضَىٰ لِأَخِي فِي الْمَسْجِدِ وَلَا عَنِّي

دیکھو حدیث ۱۱۹۲ بابت جو مسجد میں فیصلہ دے اور اہل خانہ نہ کرے اور حضرت عمر نے

عِنْدَ مَنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَىٰ شَرِيحًا وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَرٍ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیان کروایا اور شریح اور شعبی اور یحییٰ بن یعمر نے

فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَىٰ مِرْوَانَ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ الْحَسَنُ وَ

مسجد میں فیصلہ کیا اور مروان نے قس سے زید بن ثابت کے خلاف منبر کے پاس فیصلہ دیا اور حسن اور زرارہ

زَرَّارَةُ بْنُ أَدْنَىٰ يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ (۱۷۲) عَنْ

بن ادنیٰ مسجد کے باہر کے احاطے میں فیصلہ دیتے تھے

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (متکرر ۲۹۹) (۲۰) بَابُ

دیکھو حدیث ۲۹۹ بابت دیکھو حدیث ۲۹۹ بابت

مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَلَىٰ عَلَىٰ حِدِّ امْرَأَةٍ مَخْرُجَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَامُ وَقَالَ عُمَرُ

جو مسجد میں فیصلہ دے یہاں تک کہ جب حاکم کرنے پر آئے تو حکم دے کہ مسجد سے نکل جائے پھر عدالت کی جائے اور حضرت عمر نے کہا

أَخْرَجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَذَرُ عَنِّي خَوْفًا (۱۷۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکرر ۲۰۴)

اسے مسجد سے نکال دو اور حضرت علی سے بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے دیکھو حدیث ۲۰۴

(۲۰) بَابُ مَوْعِظَةِ الْأَمَامِ لِلْخُصُومِ (۱۷۴) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (متکرر ۱۱۷۲)

بابت حاکم کا جھگڑا کرنے والوں کو نصیحت کرنا دیکھو حدیث ۱۱۷۲

لا کر روایت
بیش کے ساتھ آئی
ہے عن عبد
اللہ بن السعدی
انہ ترم علی عمرو
فی خلافہ فقال
لہ عمر الم احدث
ان تکلی جرائع
المناس اعمالا
رگوں کے کچھ
کا میں پر والی ہے
یعنی تحصیلداری
یا قضا وغیرہ کے
کام کرتے ہو
فان اعطيت
العماله راکم کی
اجرت، کہتھا
تقلت بلی فقال
عموما ترید الی
ذک رتبار اس
سے کیا مطلب ہے
قلت ان فی الخراج
واعبداد انا بخیر
میں اچھی حالت
میں ہوں واریہ
ان تکون حما لقی
صدقہ علی المسلمین
قال عمر لا تقبل
فانی کنت اردت
الذی اردت نکاح
رسول اللہ صلعم

يعطيني العطاء فاقول اعطه افراليه متى حتى اعطاني مرة ما الاقلت اعطه افراليه متى فقال النبي صلعم خذ فتموله راسه اپنا مال بنا وصدق
به فاجارك من هذا المال وانت غير مشورت (جس کے لئے انسان اپنے آپ کو پیش نہ کرے) ولا سائل فخذها والا فلا تتبعه نفسك وعن الزهري قال
حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلعم يعطيني العطاء فاقول اعطه افراليه متى حتى اعطاني مرة
ما الاقلت اعطه من هو افراليه متى فقال النبي صلعم خذ فتموله وصدق به فاجارك من هذا المال وانت غير مشورت ولا سائل فخذها
وما لا فلا تتبعه نفسك بصل اس کے نظریوں ہیں :- قال شهدت المتلاعنين وانا ابن خمس عشرة ففرق بينهما بصل اس کے لفظ بصل کے ہیں۔
مسجد کے اندر ملا عتہ کا ذکر ہے، بلکہ یعنی نماز مسجد کے باہر لے جا کر دی جائے، یہاں روایت کو اختصار سے بیان کیا ہے۔ قال ابی رجل رسول الله
صلعم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابك جنون قال لا قال اذ هو ابه فارجموه روفی رواية
قال كنت فيمن رجوه بالمصله يهصد للقيح کے نزدیک ہے، ملا تخفيف افتخار لفظاً سے، وراہ ہے۔ ان رسول الله صلعم قال انا انا ابو واذو تقصموني الی اول بعقرب

ان يكون الحن بوجته من بعض فاقضى غوما اسمهم فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا ياخذها فانما اقطع له قطعة من النار

۲۱) بَابُ الشَّهَادَةِ كَتُوبٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصِمِ

بَابُ اس شہادت کا حکم جو فریق مقدم کے لئے ہو جاوے اور اسے قاضی مقرر کیا جائے تو اس میں مال ہو یا نہ ہو اس سے

وَقَالَ شَرِيحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَا مِدْحَتِي أَشْهَدُكَ

کی ہو اور شرح قاضی سے جبکہ ایک شخص نے شہادت دینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا میرے پاس جاؤ تاکہ میں تمہارے لئے شہادت دے

وَقَالَ عَلِيٌّ قَالَ حَمْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدِّ زَنَا أَوْ

اور عمر نے کہا حضرت عمر نے عبدالرحمن بن عون سے کہا اگر تم ایک شخص کو کوئی بڑھ کر دیکھو زنا یا

سِرْقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقَتْ

بجوری اور تم امیر ہو تو انہوں نے کہا آپ کی شہادت مسلمانوں میں سے ایک شخص کی شہادت کی طرح ہے حضرت عمر نے کہا آپ نے

قَالَ حَمْرُ لَوْ لَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ أَدْعُرُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُنْتُ أَيْةَ الرَّسْمِ بِيَدِي وَ

کہا حضرت عمر نے کہا اگر اس بات کا ثبوت ہو تو ان لوگوں کے کہنے کے کتاب اللہ میں زیادتی کی تو میں ہر کی آیت سے ہاتھ سے لکھتا ہوں

أَقْرَأَ مَا عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزَّانِ أَوْ بَعَا فَا مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ

اور ما عز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ زنا کا اقرار کیا تب آپ نے اس کے منکر کر کے کہا حکم دیا اور اس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ مِنْ حَضْرَةٍ وَقَالَ حَمَادٌ إِذَا أَقْرَأَ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ

بات کا ذکر نہیں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو کو گواہ ٹھہرایا جو اس وقت موجود تھے اور جو ان کے کما جب حاکم کے پاس ایک مرتبہ اقرار کرے تو

رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَبُو بَعْرَةَ - ۲۱۶۶ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَهْ (مُتَكَرِّرٌ - ۲۲۵) أَلَمْ

رجم کیا جائے گا اور حکم نے کہا چار مرتبہ دیکھو حدیث ۲۲۵ اور

وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بَعْلِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ

اور اہل حجاز کہتے ہیں کہ حاکم اپنے حکم کی بنا پر فیصلہ نہ کرے خواہ اس کا علم اس کو اپنے زمانہ فقہانوں میں ہو یا ہو یا اس سے پہلے اور اگر ایک

أَقْرَضَهُمْ عِنْدَهُ لِأَخْرَجَتْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ

فریق حاکم کے پاس مجلس فقہانوں میں دوسرے کے حق کا اقرار کرے تو اس کے خلاف بعض کے نزدیک فیصلہ نہ کرے

حَتَّى يَذْخُبُوا بِشَاهِدَيْنِ فِي حَضْرَتِهِمْ أَقْرَأَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعْتُ أَوْ

یہاں تک کہ دو گواہ بلائے اور ان دونوں کو اس کے اقرار کے گواہ ٹھہرائے اور بعض اہل عراق کہتے ہیں کہ حاکم جو کچھ مجلس فقہانوں

رَأَاهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَ

میں سے یاد کیجئے تو اس کے ساتھ فیصلہ کرنے اور جو اس کے عدو ہو تو فیصلہ نہ کرے یہاں تک کہ دو گواہ بلائے اور

قَالَ الْخَرُوفِيُّ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمِنٌ وَإِنَّمَا إِدْمِنْ الشَّهَادَةَ مَعْرُوفَةُ الْخَرُوفِيِّ

اوروں نے کہا بلکہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے اس لئے کہ وہ امانت دار ہے اور شہادت سے مقصد وہی کا علم ہے

بِعَوْلَمَةِ الْكُوفِيِّينَ الشَّهَادَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بَعْلِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي

اور اس کا علم شہادت سے بڑھ کر ہے اور بعض نے کہا اپنے علم سے اموال کا فیصلہ کرے اور دوسرے امور میں فیصلہ

غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يَنْبَغُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَمْضِيَ قَضَاءً بَعْلِهِ دُونَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ مِمَّا أَدْرَكَ

نہ کرے اور قاسم نے کہا حاکم کو نہیں چاہئے کہ دوسرے کے علم کو چھوڑ کر اپنے علم سے فیصلہ نافذ کرے یا جو جو اس کے کس کا علم

عِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتَهْمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ السَّيِّئِينَ وَإِنَّمَا

دوسرے کی شہادت سے بڑھ کر ہے لیکن اس میں ایسے آپ کو مسلمانوں کے نزدیک ہمت کیسے نہیں کرنا ہے اور ان کو

لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنُّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ صِفِيَّةٌ

بڑگانوں میں ڈانٹا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں کو تا یہ حد کہا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا یہ صفیہ ہے

اس پر بحث
نوٹ
میں لکھ چکی
مکرر روایت
اخصار اور کسی
قدرا اختلاف اتفاق
سے آئی ہے
قال قال رسول
الله صلى الله عليه
وسلم يوم حنين
من له بيعة علي
قتيل قتله فله
سدية فقتل لا يفر
بيته على قتيل
فلم وانحرار شهيد
لى فجلست شتم
بدالى فذكريت
امره الى رسول
الله صلى الله عليه
وسلم فقال
رجل من جلسائه
سلا من هذا القليل
الذي يذكر عندنا
قال فارضه منه
راس من متعيق
اسه راضى لولا
فقال ابوبكر كلا
لا يبطه اصبيبة
من قريش وقريش
كى ايك رجل يعنى
سمرى اوى كى و
يرجع اسد امه اسد
الله يقابل عن الله
در سوله قال فامر
رسول الله صلى الله عليه
الى فاشترت منه
خوافار باغ فذكات
اول مال تانفته
قال لى عبد الله
عن الليث فقام

الغيبه صلح فاذا اذ لى صلح عني فيضركم فيا كوست انصياه جايه كوروا كور كمانى كار فو ذشمه به عفيفه اس كذا كذا حدیث باب اس ہے +

<p>(۴۱۶) عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۰۱) بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ</p>	<p>۱۰۱ مکرر روایت</p>
<p>بَابُ بَاوِشَاهِ كَادُوا فَرَسُونَ وَكُلُّ عِلْمٍ دَرِيءٌ جَابٍ</p>	<p>کسی قدر احتیاط سے آئی ہے۔ ان سے</p>
<p>أَمَّا زَيْنٌ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصِيَا (۴۱۷) عَنْ سَعِيدِ بْنِ</p>	<p>النبی صلعم انتہا صغیرہ بنت حیثی فلما رجعت انظرت معها خدیجہ</p>
<p>أَبِي بَرْدَةَ (مُتَكَوِّرٌ - ۱۳۸) بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ وَقَدْ آجَبَ</p>	<p>فلما رجعت انظرت معها خدیجہ رجلا من</p>
<p>بَابُ حَاكِمِ كَادُوا بِعَوْتِ كَوْتِ كَرَانَا</p>	<p>الانصار وعلیها فقال انما هی صغیرة قال سبحان الله قال ان</p>
<p>عَثْمَانَ عِدَّةَ الْمَغِيرَةِ بِنِ شُعْبَةَ (۴۱۹) عَنْ أَبِي مُوسَى (مُتَكَوِّرٌ - ۱۳۸)</p>	<p>من ابن آدم - بحوری الدم - مکرر روایت میں ضعف سی</p>
<p>بَابُ هَدْيِ أَيْ الْعُمَّالِ (۴۲۰) عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ السَّاعِدِيِّ (مُتَكَوِّرٌ)</p>	<p>کئی اور کچھ پیش ہے۔ قال بعث النبی صلعم ابی و معاذ بن جبل</p>
<p>بَابُ غَلَامِيں كَو قاضی اور حاکم بنا نام</p>	<p>الی الیمن فقال</p>
<p>بَابُ اسْتِقْضَاءِ الْوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ (۴۲۱) عَنْ</p>	<p>یضی و لا یعتبر و بشری و لا تنفر او تطوا و ان قال له ابو موسی انه یصنع با رضنا البتحر رشد کی شراب) فقال کل مسکوح حرام</p>
<p>بَابُ الْعُرْفَاءِ لِلنَّاسِ (۴۲۲) عَنْ</p>	<p>فریق مقدم کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے صرف اس سے کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلعم نے دعوت کو قبول کرنے کی تاکید فرمائی ہے بعض فقہار نے عام دعوت سے</p>
<p>بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَنَاءِ الشَّيْطَانِ</p>	<p>و لیسوا و رفاص دعوت میں فرق کیا ہے۔ اور صحیح ہی ہے کہ خاص دعوت میں بدگمانی کا موقع ہے۔ لہذا یہاں لفظ یوں ہیں: عن النبی صلعم قال فکفر العافی و اجنبوا الداعی</p>
<p>بَابُ غُرُورِ الْمُتَكَبِّرِ (۴۲۳) عَنْ</p>	<p>۱۳۸ میں اجنبوا الداعی کے بجائے ہے و اطعموا الحیاء و عودوا المریض و ۱۳۸ کی تفصیل م ۱۱۵ میں ہے مکرر روایت اس سے بھی زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ قال استعمل النبی صلعم رجلا من بنی اسد یقال له ابن الکتبۃ علی صدقہ قلیما قائم قال هذا کم و هذا الهدی</p>
<p>بَابُ غُرُورِ الْمُتَكَبِّرِ (۴۲۳) عَنْ</p>	<p>لی نقام النبی صلعم علی المنیر قال سفیان ایضا فصعد المنیر فحمد الله و اشفی علیہ ثم قال ما بال العالم تبعته فانی یقول هذا الذک و هذا الی قولنا</p>
<p>بَابُ غُرُورِ الْمُتَكَبِّرِ (۴۲۳) عَنْ</p>	<p>جلس فی بیت ابیہ و امہ فینظر اھذی لہام لاد الذی نفسی بید کلا یا بنی بشیء الا اجابہ یوم القیامۃ یجملہ علیا و قبضتہ ان کان بعد الیہ و غلاما و یقولوا لخوا و اشرافہ شیخ ثم رفع یدہ حترہ و انا عفرنی الطیبہ الا ھل بلغت ثلاثا قال سفیان قصہ علینا الزھری و زاد ہشام عن ابیہ عن ابی حمید قال سمع اذ نای و ابیہ و عتیفہ عنینہ و سلوا زید بن ثابت فانتہی سمعہ معی و لم یقل الزھری سمع اذنی۔ خوارصوت و الجواد</p>

من تھاجرون کعبوت البقرۃ۔ ملا یہ امر اسلام کی تعمیر سے خاص ہے کہ غلاموں کو جو ذلیل ترین مخلوق سمجھے جاتے تھے اور ان کا مرتبہ سوسائٹی میں ہندستان کے اچھوتوں کی طرح تھا ہند سے بلند مقامات تک پہنچایا۔ انیس ج بھی بنایا اور حاکم بھی بلکہ بادشاہ بھی۔ یہاں لفظ یوں ہیں: قال کان سالم مولی الی حد یقہ یوم المنہاجین الاولین و اصحاب النبی صلعم فی مسجد قباء فیہم ابو بکر و عمر و ابوسلمہ و زید و دعاء مرین ربیعۃ۔ ایک غلام امامت کراتا تھا اور مقتدی میں ابو بکر و عمر جیسے لوگ بھی تھے یعنی جب وہ قبا تشریف لے جاتے تو سالم کے پیچھے ہی نماز ادا کرتے کیونکہ وہاں کے مقرر امام وہی تھے۔ یہاں ۱۱۹ کا صرف آخری حصہ بیان کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم علیہ وسلم قال حین اذن لھم المسلمون فی عتق سبی ہوا ذن ابی لادری عن اذن منکر ممن لم یاذن فارحوا حتی یرفع الینا عرفا و ذکرہ و عریب کی جمع ہے یعنی عارف یعنی لوگوں کے حالات کو پہچاننے والا یا سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے ذریعے سے اہل حالات کو در یافت کیا۔ اس سے تعقیب یا سردار مقرر کرنے کا جزا نکلا ہے) امر کم فرجعہم الناس فکلہم عرفا و اذ ہم فرجعوا الی رسول اللہ صلعم علیہ وسلم فاختبرہ ان الناس قد خیبوا و اذ نوا

اِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا اَخْرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ
ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سامنے ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جب

قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هَا نِفَاقًا (م-۳۷) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ كُرْد - ۱۵۶۵
ہم ان کے پاس سے نکل آتے ہیں کہ ہم بے نفاق تھا کرتے تھے

بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَارِبِ (م-۳۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا (م-۱۰۸۲)
باب غیر حاضر کے خلاف فیصلہ دینا

بَابُ مَنْ قَضَى لِرَجُلٍ اَخِيَهٗ فَلَا يَأْخُذُهَا فَانَ قَضَاءُ الْحَاكِمِ لَا يَجِلُّ حَرَامًا
باب جس شخص نے اپنے بھائی کے حق کا فیصلہ دیدیا جائے تو اسے نہ لے کیونکہ حاکم کا فیصلہ حرام کو

وَلَا يَجِيءُ حَرَامًا (م-۳۷) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ عَنْهَا (م-۱۱۷۲) ر-۶۶
اور نہ حلال کو حرام کرنا ہے

بَابُ الْحَكْمِ فِي لُبِّ الْوَجُوهِ (م-۳۷) عَنْ اَبِي وَاثِيلَةَ رَضِيَ عَنْهَا
باب کونہ برا اور اس میں جیڑوں کے بارہ میں فیصلہ کرنا

بَابُ الْقَضَاءِ فِي كَيْدِ الْمَالِ وَقَلْبِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ
باب مال سے زیادہ مال اور تھوڑے مال کے بارہ میں فیصلہ دینا اور ابن عیینہ نے ابن شمر سے روایت کر کے

شَبْرَةَ الْقَضَاءِ فِي قَلْبِ الْمَالِ وَكَيْدِهِ سَوَاءٌ (م-۳۷) ر-۶۸
کہ تھوڑے مال اور زیادہ مال میں فیصلہ کرنا برابر ہے

بَابُ بَيْعِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ اَمْوَالَهُمْ وَصِيَا عَمَّهُمْ وَقَدْ بَاعَ
باب بادشاہ کے لوگوں کے اموال اور ان کی زمینیں فروخت کرنا

الْبَيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعِيمِ بْنِ النَّخَعِ (م-۳۷) ر-۶۹
عید پر صلے نے نعم بن نعیم کا مرد پر سلام

بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتُمْ بَطْنًا مِنْ لَمْ يَكْتُمْ فِي الْاَمْرِ اَوْ حَدِيثًا
باب جس شخص امر اور کے تفرق کرے میں ایسے لوگوں کی باتوں کی پروا نہ کرے جو خدا وان میں ملا

ملا یعنی صحابہ
نفاق قرار دیتے
تھے کہ ایک شخص
سامنے اسکی ہیبت
یا رعب کی وجہ سے
اس کی تعریف
کی جائے اور بیعت
کے سمجھے اس کی
عیب جونی کی جائے
عرف چھپا حشہ
بیان کیا ہے۔ انہ
سمع رسول الله
صلی الله علیه وسلم
يقول ان شر
الناس ذوالهم
الذی یا قہو کلام
بوجہ وھو کلام
بوجہ
میں ان ہند
قالت للنبی صلے
الله علیه وسلم
ان ارا سفیان
وجل شحیح
فاحتاج ان اخذ
من ماله قتال

خذی ہا بکھینک دولہک بالمعوت۔ نبی کریم صلعم نے ابو سفیان کو بلانے کی ضرورت نہ سمجھی کیونکہ یہ کوئی مقدمہ نہ تھا بلکہ ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تھا۔ اس سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص کو بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو اس کے خلاف اس کی غیر حاضری میں فیصلہ دیا جاسکتا ہے۔ ملا یعنی شخص حاکم کے فیصلہ کو آڑ بنا کر ایسا مال لے لینا جسے لینے والا جانتا ہے کہ اس کا حق نہیں مال کو حلال نہیں کر دیتا بلکہ وہ پھر بھی حرام ہی ہے۔ گاہ کہ انہی الفاظ میں دوہرا ہوا ہے۔ ملا انہی الفاظ میں دوہرا ہوا ہے۔ ملا یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال النبی صلعم لا یجعت علی یمین صبر یقطع ما لا یدوھو فیھا فاجر الا لقی اللہ وھو علیہ غضبان فانزل اللہ ان الذین یشترون بھد اللہ الایۃ فجا ما لا اشعث وعبدا اللہ ید شہم فقال فی نزلت و فی رجل خاصمتمہ فی یشتر فقال النبی صلعم انک ینتہ قلت لا قال فلیجعت قلت اذا یجعت فنزلت ان الذین یشترون بھد اللہ الایۃ ہا ہا قرینا انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرا ہوا ہے اس میں جو لفظ آتے ہیں فمن قضیت لہ بحق مسلم اس سے استدلال کیا ہے کہ کثیر قبیل میں فیصلہ دینا برابر ہے کیونکہ حق مسلم بہت بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بھی۔ ملا یعنی ان پر کوئی حق ثابت ہو تو اس کے دلانے کے لئے ان کے اموال یا زمینیں کا بیع دینا جائز ہے۔ ملا اس کے لفظ یوں ہیں۔ قال بلغ النبی صلعم ان رجلا من اصحابہ اعشق غلاما من دوہرلم لیکن لہ مال غریب (م-۱۱۷۲) میں ہے کہ وہ محتاج ہو گیا، فباعہ بثمان مائۃ دوہم ثم اودس بثمانۃ الیہ۔ اس غلام کی آزادی کو یا ایک وصیت کے رنگ میں تھی یعنی آزاد کرنے والے کی وفات کے بعد اس نے آزاد ہونا تھا۔ تو اس کے محتاج ہونے کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت کر کے قیمت اسے دلا دی۔ ملا یعنی اگر لوگ محض نادانی سے کسی افسر کے تفرق کے متعلق احترام کریں تو ان کے اعزاز کی پروا کرنے کی ضرورت نہیں لایکتوش لایابیالی +

(۴۸۰-۴۸۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۶۵) (۳۴) بَابُ الْأَكْثَرِ الْخَصْمِ وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ	دیکھو حدیث ۱۶۶۵	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ فِي خِصْمِهِ وَذَلِكَ عَجُوزًا (۴۸۱-۴۸۲) عَنْ عَائِشَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۶۶) (۳۵) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۶۶	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ رَأَى أَقْرَبِي لِحَاكِمٍ يَجُودُ أَوْ خَلِيفٍ أَهْلٍ لَعَلَّ فَيُؤَدُّ (۴۸۲-۴۸۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۶۷) (۳۶) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۶۷	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةٍ فَجَاءَهُ نَسْوَةٌ أَوْ بَنَاتٌ فَصَلَّى بِهِنَّ (۴۸۳-۴۸۴) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۶۸) (۳۷) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۶۸	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةٍ فَجَاءَهُ نَسْوَةٌ أَوْ بَنَاتٌ فَصَلَّى بِهِنَّ (۴۸۴-۴۸۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۶۹) (۳۸) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۶۹	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةٍ فَجَاءَهُ نَسْوَةٌ أَوْ بَنَاتٌ فَصَلَّى بِهِنَّ (۴۸۵-۴۸۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۷۰) (۳۹) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۷۰	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے
بَابُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةٍ فَجَاءَهُ نَسْوَةٌ أَوْ بَنَاتٌ فَصَلَّى بِهِنَّ (۴۸۶-۴۸۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (مُتَكَرِّرًا) (۱۶۷۱) (۴۰) بَابُ	دیکھو حدیث ۱۶۷۱	باب اکثر الخصم	اور وہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے

میں حدیث کو دیکھتا ہے، حضرت سائہ کی امارت پر اعتراضات کا ذکر ہے۔ حدیث میں اللہ کی جمع ہے۔ اور غرض عجز کی بعض نے اس کے معنی کا تعلق میں سے جھگڑنے والا ہے۔ حدیث میں لفظی معنی پر تفسیر کے رو کر کے اختیار اس سے اور زیادہ

اس سے اور زیادہ
 حاکم کو ہے۔ لیکن بعض وقت ماتحت بھی حاکم کے فیصلے کو رو کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہر جگہ ٹالنا اور خدا اور اس کے رسول کے فرمودہ کے خلاف ہو۔ مثلاً
 افسر یا بیوی کو حکم ہے کہ بے گناہ لوگوں پر گولی چلاؤ تو وہ انکار کر سکتے ہیں جیسا خالد بن ولید کے حکم کو ان کے ماتحت نے اور دیا اور اپنے قیدی کو قتل کرنے سے
 انکار کیا جس کا ذکر حدیث الباب میں ہے۔ حدیث میں الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ مثلاً ابتدائی حصہ میں کچھ بڑھایا ہے۔ اور اورایت کو حنیف
 اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ - قال کان قتال بین بنی عمرو وبنی تغلبہ ذلک النبی صلعم فصل الطہور ثم انا ہم یصلم بہنہم وعنوان باب تعلق النبی فی
 سے ہے، فلما حضرت صلاۃ العصر فاذا نزل لابل واقام و امرایا بکر فقد تم وجاء النبی صلعم و ابوبکر فی الصلاۃ فشق الناس حتی قام خلف ابی
 بکر یقدم فی الصف الذی یلیہ قال وصمغ الغوم وکان ابوبکر اذا دخل فی الصلاۃ لم یلتفت حتی یرفع فلما رای التصریحہ لا یسکت علی اللقت
 قرای النبی صلعم خلفہ فاما الیہ النبی صلعم ان امضہ واما بیدہ ہلک اولبت ابوبکر ہذینہ یحیی اللہ علی قول النبی صلعم تم مضی القہقرنی فلما رای
 النبی صلعم ذلک تقدم فی الصلاۃ بالناس فلما فی صلاۃ قال یا ابا بکر ما عنک اذا امرت الیک ان لا تكون مضیت قال لم یکن لابن ابی حنفیۃ
 ان یوم النبی صلعم وقال القوم اذا ناکر امر فلیسبح الرجال و لیصمغ النساء۔ آخری الفاظہ لیصمغ النساء کے لئے دیکھو نہایت صاف مطلب صرف
 تالی جانے سے روکا ہے کہ یہ کام عورتیں خوشی کے وقت میں کرتی ہیں۔ یہاں لفظوں میں لیکن ہے کچھ تہمت کسی راوی سے ہو گیا ہو۔ حدیث ۱۶۶۵ کو قرینا انہی
 الفاظ میں وہاں ہے سوائے اس کے کہ ایک دو غیر ضروری فقرے کم یا زیادہ ہیں۔ البتہ وہاں قرآن کے جن چیزوں سے جمع کرنے کا ذکر ہے ان میں الکتات
 رشتہ کی پٹیاں، کی بجائے یہاں اللغات ہے اور لغات کے لئے آخر میں خنزف ٹھیکریاں کے ہیں۔ عنوان باب کا تعلق اس حصے سے ہے جس میں زید کا تب
 وحی کے متعلق ہے۔ انک رجل شاب عاقل لا یفتنہ شیء عامل وہ لوگ ہیں جن کو کسی حصہ ملک یا کسی شہر میں جمع خراج۔ وصولی زکوٰۃ وغیرہ کاموں
 کے لئے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور ابن وہ جن کو قاضی شریک اموال کے لئے مقرر کرتا تھا جیسے امین ناظر تنظیم وغیرہ۔ حدیث مکرر روایت کچھ زیادہ تفصیل سے آئی ہے
 انہ اخیرہ ہورجال من کبرای قومہ ان عبد اللہ بن سہل وحصیصہ خرجا الی خیبر من جمہ اصحابہم وبعیتہ کی تنگی کی وجہ سے جو انہیں پہنچتی تھی،
 فاخر حصیصہ ان عبد اللہ قتل و طرح فی فقیر فقیر سے پانی کا کنواں یا گڑھا اور عین فانی یہود فقال لہم اللہ قتلتموہ قالوا ما قتلناہ واللہ ثم اقبل
 حتی قدم علی قومہ فذکر لہم و اقبل ہوا خیر حویصہ وھو اکبر منہ و عبد الرحمن بن سہل فذہب لہم تکلم وھو الذی کان یخیرہ فقال النبی صلعم
 لخصیصہ کذکر لہم ربکم کو بولنے اور برید السن راب کا مطلب عمر میں بڑا تھا۔ تکلم حویصہ ثم تکلم حویصہ فقال رسول اللہ صلعم اما ان ینزل الخن
 میں صاحب کراماتان یؤذوا بحوب کتب رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم الہم بہ وکتب ما قتلناہ فقال رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم
 حویصہ وخصیصہ و عبد الرحمن اٹھلکون و تستحقون دم صاحبک قالوا الی قال اختلفت لکم یہود قالوا لیسوا بمسلمین فواد رسول
 اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم من عندہ ما ناء ناعہ حیث ادخلت الذرا قال سہل فرکضتی متھا ناعہ +

(م-۲۱۹۰) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ (متكرر-۲۱۳۴) بَابُ كَيْفَ يَبْرَأُ	بکھو حدیث ۲۱۳۴	بَابُ كَيْفَ يَبْرَأُ
(۲۱۹۱) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (متكرر-۲۲۰۲) (م-۲۱۹۳)	بکھو حدیث ۲۲۰۲	
(م-۲۲۲۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا	بکھو حدیث ۲۲۰۲	
رَأَى أَبَا بَعْنَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا	بکھو حدیث ۲۲۰۲	
اسْتَطَعْتُ (م-۲۲۲۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَقْرَبُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَرَأَيْتُ بَنِي قَدَافٍ وَمِثْلَ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
ذَلِكَ (م-۲۱۹۳) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر-۵۲) (م-۲۱۹۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ	بکھو حدیث ۵۲	
دِينَارٍ (متكرر-۲۲۲۶) (م-۲۱۹۵) عَنْ يَزِيدَ (متكرر-۱۳۵۹) (م-۲۲۲۶) عَنْ	بکھو حدیث ۱۳۵۹	
الْمَسُورِ بْنِ مَعْرُومَةَ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَا هُمْ عَمْرُؤُا اجْتَمَعُوا فَاسْتَأْذَنُوا قَالَ لَهُمْ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَسْتُمْ بِالَّذِي أَنْتُمْ كُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُمْ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ قَالَ النَّاسُ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَبِيعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَاعِقِبَهُ	بکھو حدیث ۲۲۲۶	

ملکہ ابتدا میں کچھ فرمایا ہے۔
 عن النبي صلعم قال ما بعث الله نبيًا من نبي ولا استخلف من خلفه الا كان له بطانتان بطانة تامة بالمدح وخصه عليه و بطانة تامة بالشتم وخصه عليه فالعصوم من عصم الله تعالى - ابتدائي لفظ ما بعث الله من نبي ۲۲۲۶ میں نہیں ہیں لیکن ہے یہ کسی راوی نے بڑھا دیئے ہوں۔ لیکن انبار کے معصوم ہونے کی طرف حدیث کے آخری الفاظ میں اشارہ ہے فالعصوم من عصم الله تعالى اور جب نبی صلعم نے فرمایا الشيطان يجرى من جحر ادم يجرى اذم

توصیہ کرنے دریافت کیا آپ بھی تو فرمایا لیکن اللہ اعانتی علیہ فاسلم۔ نبی کا شیطان بھی فرمایا اور بتا ہے۔ مہلا حصہ چھوڑا ہے۔ اور اہل حدیث کو کسی قدر اختلاف لفظی سے وہ فرمایا ہے۔ قال ابو بکر رسول اللہ صلعم علیہ السلام علی السمع والطاعة في المشط والمكروء وان لا تنازع الامر اهلہ وان تقوم اذ نقول بالحق حیثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ گویا بیعت اس بات پر ہونی چاہئے کہ خوشی اور ناخوشی میں تنگی اور آسانی میں امام کے احکام کو بجا لانا ہوگا۔ مگر روایت کسی قدر اختصار سے آئی ہے۔ خیر النبی صلعم فی عداة ابا دارة والمهاجرین والاضمار محفرون الخندق فقال اللهم ان الخیر خیر الاخرة فاغفر للاضمار والمهاجرین فاجابوا: نحن الذين بايعوا واحمد بن عبد الله ما بقينا ابنه الا كس قدر اقتيا ہے کہ اپنی طرف سے یہ لفظ بڑھا دیا ہے کہ فرمانبرداری انہی باتوں میں ہوگی جو انسان کی طاقت میں ہوں۔ یہاں لفظ اور ہیں۔ قال ابو بکر النبی صلعم علی السمع والطاعة فلقد نفي فيما استطعت والنهض كل مسلم۔ مگر قریباً انہی الفاظ میں عربیت کو دہرایا ہے۔ ہک قلت لسلمة علة ابي شعیب ما بعثتم النبي صلعم يوم الحديبية قال على الموت۔ یہ ہے یہ اصحاب فقہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن

وَمَا لَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَارُونَ وَنَهَتْكَ النَّبِيُّ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ
اور لوگ عبدالرحمن کی طرف تھکے ان راتوں میں ان سے مشورہ کرتے تھے یہاں تک کہ وہ رات آئی

الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمَسُورُ طَرَفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْرِهِ مِنْ
جس کی صبح کو ہم نے حضرت عثمان کی بیعت کی سورۃ کہ اگر رات کو کچھ حصہ گزارا تھا کہ عبدالرحمن میرے پاس آئے

اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّىٰ اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ آذَانَكَ نَائِبًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ
اور دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میں جاگ اٹھا تو فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم سو رہے ہو لیکن اللہ کی قسم مجھے تو اس رات

هَذِهِ اللَّيْلَةُ يَكْبُرُ نَوْمُهُ انْطَلِقُ فَادْعُ الزَّيْدَ وَسَعْدًا فَدَعَوْهُمَا لَمْ يَفْتَاوْهُمَا فَمَ
کچھ زیادہ نیند نہیں آئی مگر جاؤ اور میرا اور سعد کو بلاؤ میں دونوں کو ان کے لئے بلا یا انہوں نے ان دونوں سے

دَعَانِي فَقَالَ دَعْنِي عَلَيَا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّىٰ اِنْتَهَىٰ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
مشورہ کی پھر مجھے بلایا اور کہا کہ علی کو بلاؤ سو میں انہیں بلا یا میں ان سے کہہ دیتی ہوں کہ رات گزر چکی پھر حضرت علی ان

وَهُوَ عَلَىٰ طَبِيعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَحْتَشِي مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ دَعْنِي عُثْمَانَ
کے پاس سے اٹھے اور انہیں پھر امیر بھی اور عبدالرحمن حضرت علی سے کچھ ڈرتے تھے پھر کہا کہ میرے لئے عثمان کو بلاؤ

فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّىٰ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْدُونَ بِالصَّبْرِ فَلَمَّا صَلَّىٰ لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَ
سو میں ان کو بلا یا میں انہوں نے ان سے سرگوشی کی یہاں تک کہ مودون نے صبح کی اذان سے دونوں کو جدا کیا جیسا انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز

اجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمُنِيرِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
برطھانی اور یہ گروہ منبر کے پاس جمع ہو گیا تو مہاجرین اور انصار میں سے جو حاضر تھے ان کو بلا بھیجا

وَالْأَنْصَارَ وَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا أَوْ أَوْلَادَ أَوْ أَهْلًا مَعَهُ عَمْرٌو فَلَمَّا
اور فوجوں کے امراء کو بلا بھیجا اور وہ اس رات میں حضرت عمر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جب

اجْتَمَعُوا أَتَىٰ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لِيُشِيرَ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ قَدْ نَطَرْتُ فِي أَعْرَابِ النَّاسِ
سب جمع ہو گئے تو عبدالرحمن نے نشہ بڑھا پھر کہا اے ابوبکر! میں نے لوگوں کے خیالات کے بارے میں غور کیا ہے

فَلَمَّا آرَهُمْ يَعْزِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا يَجْعَلُونَ عَلَىٰ نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أَيَايُكَ عَلَىٰ سُنَّةِ
تو میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ عثمان کے ساتھ کسی کی راہ کرتے ہیں سو آپ براہ منائیں پھر کہا عثمان! میں اللہ اور اس کے رسول کی

اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَخْلِيهِ فَيَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِبَايَعَةِ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ
سنت پر اور ان دونوں خلیفوں کی سنت پر جو آنحضرت صوم کے بعد تھے آپ بیعت کرتا ہوں سو عبدالرحمن نے انکی بیعت کی اور لوگوں نے ان کی

وَالْأَنْصَارَ وَأَمْرَاءَ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمِينَ (۲۴) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۶)
بیعت کی مہاجرین اور انصار کے اور لوگوں نے اور مہاجرین نے اور مہاجرین کے

عَنْ سَلَةَ (م- ۱۳۵) (۲۵) بَابٌ بِيَعَةِ الْأَعْرَابِ (م- ۱۹۷) عَنْ جَابِرِ بْنِ
دیکھو حدیث ۱۳۵۹ باب بیعت مہاجرین کا بیعت کرنا

عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۵) (۲۶) بَابٌ بِيَعَةِ الصُّغَرِ (م- ۱۹۸) عَنْ أَبِي حَقِيْبٍ (م- ۱۹۷)
دیکھو حدیث ۱۹۵ باب بیعت مہاجرین کا بیعت کرنا

(۱۹۳) (۲۷) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

(۱۹۳) بَابٌ مِّنْ بَايَعَةِ مَرْتَبِينَ (م- ۱۹۹) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۱۹۷)
باب بیعت کر کے پھر بیعت واپس لے

۱۔ نقلی ترجمہ میں ہے میں نے نیند کا کچھ زیادہ سرمہ نہیں ڈالا ۲۔ اس کا ذکر روایت مختصر سے آئی ہے۔ ۳۔ قال بائعنا النبي صلعم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة الاتباع قلت يا رسول الله قد بايعت في الاول قال وفي الثاني ۴۔ یہاں نقلی میں ہے۔ ان اعلیٰ باع رسول الله صلعم الله علیه وسلم علی الاسلام۔ فاصابه وعلک فقال اقلنی بیعتے فابی ثم جاهد فقال اقلنی بیعتے فابی فخرج فقال رسول الله صلعم ان مدینة کاکبیر تنفع خبیثھا وینفع طیبھا ۵۔ اس کا ذکر روایت کچھ کی پیش سے آئی ہے۔ ۶۔ دکان عبداللہ بن ہشام، قد ادرك النبي صلعم وذهبت به امه زينب ابنة حميد الى رسول الله صلعم

نقلت يا رسول الله يا سلمة فقال لي صلعم صديق ففسخ رأسه ودعا له وكان يضفي بالمشاة الواحدة عن جميع اهله - چھوٹا بونکی رہے آپ نے عبدالرحمن بن ہشام سے بیعت نہیں لی مگر میں نے کہا دعا کے برکت کی بیعت بھی دراصل ایک عہد ہے اور منکر نیوے کے مالغ بون ضروری ہے۔ صلعم اس کے خلفاء ۴۰۸ میں سے ہیں سوائے ۴۰۸ میں سے کہ یہ فرقہ جارہ فقال اقلنی بیعتے فابی دو دفعہ کی بنا

۱۵۶۰ آخری فقرہ میں
ثم قرأ هذه الآية
الحق كوجه كبريا
كوقربيا منى الفاظ
میں دوہرایا ہے
۱۵۶۱ قرین انی الفاظ
میں حدیث کو ذکر کیا گیا ہے
۱۵۶۲ ہے اس حدیث
میں عورتوں کی بیعت
کا ذکر نہیں کیا گیا
مردوں سے ان
الفاظ میں بیعت
لینے کا ذکر ہے جو
الفاظ قرآن کریم
میں عورتوں کی
بیعت کے سلسلے
میں آتے ہیں
۱۵۶۳ م ۱۲۴
آخر جو حضرت
عائشہ کی روایت
سے اس کے ایک
حصہ کو یہاں الفاظ
ذیل دوہرایا ہے۔
قالت كان النبي
صلعم يبايع النساء
بالكلام بيمينتهن

(۲۸) بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يَبِيعُهُ إِلَّا لِلَّهِ نِيًّا ر- ۲۲۰۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يَبِيعُهُ إِلَّا لِلَّهِ نِيًّا ر- ۲۲۰۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۲۹) بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ذَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ذَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۰) بَابُ بَيْعَةِ ابْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَرِّرٌ) ر- ۲۲۰۲ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

بَابُ بَيْعَةِ ابْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَرِّرٌ) ر- ۲۲۰۲ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

م ۱۲۴ ر- ۲۲۰۳ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

م ۱۲۴ ر- ۲۲۰۳ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ بِمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ ر- ۲۲۰۴ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَبِيعُونَكَ بِمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ ر- ۲۲۰۴ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۳۱) بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ ر- ۲۲۰۵ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَرِّرٌ) ۲۱۲۶

بَابُ الْإِسْتِخْلَافِ ر- ۲۲۰۵ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُتَكَرِّرٌ) ۲۱۲۶

(۳۲) بَابُ بَيْعَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

بَابُ بَيْعَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

إِنْ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكْتُ فَقَدْ تَرَكْتُ مَنْ هُوَ

إِنْ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكْتُ فَقَدْ تَرَكْتُ مَنْ هُوَ

خَيْرٌ مِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلْبِسُوا

خَيْرٌ مِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلْبِسُوا

أَنْ تَجُوتَ مِنْهَا كَافًا لِأَنَّيْ دَوْلَةً لَا تَحْتَمِلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا ۲۲۲۹ عَنْ أَبِي

أَنْ تَجُوتَ مِنْهَا كَافًا لِأَنَّيْ دَوْلَةً لَا تَحْتَمِلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا ۲۲۲۹ عَنْ أَبِي

ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمَدِينَةِ

ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمَدِينَةِ

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

اس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا دوں خطبہ سنا

وَذَلِكَ الْغَدَمِنْ يَوْمِ تُوِفِّي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشْهَدُوا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبًا

اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اگلے دن تھا انہوں نے تشہد پڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق

لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعْثُبَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدِينَنَا

تھے بولتے تھے کہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے

يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُكُونَ آخِرَهُمْ ذَنْبُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَإِنْ

اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ سب کے آخر فوت ہوں گے سو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے

اللَّهُ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان نور رکھا ہے جس سے تم راہ پاؤ گے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ہدایت کی

وَسَلَّمَ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمُ ثَلَاثِينَ فَارْتَدَى

اور حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں دو تین سے دوسرے وہ تمہارے معاملات کو

الْمُسْلِمِينَ يَا هُوَ رَكْبَةٌ فَقَوْمُوا فَبَايَعُوا وَكَانَتْ طَارِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوا قَبْلَ ذَلِكَ

نبی نے کہیں مسلمانوں میں سے زیادہ اہل ہیں پس انھوں اور انکی بیعت کرو اور ان میں سے ایک گروہ نے اس سے پہلے

فِي سَقِيْقَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى لِمَنْ بَرَّ قَالَ الرَّهْمِيُّ عَنْ أَبِي

سقیقہ بنی ساعدہ میں کی تھی اور عام لوگوں کی بیعت منبر پر تھی زہری نے اس نے ابوبکر سے روایت

ابْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ مُمَرَّ يَقُولُ لَأَنْ يَكُونَ يَوْمَئِذٍ أَصْعَدُ الْمَنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ

کہتے ہوئے لگا میں نے حضرت عمر کو اس دن حضرت ابو بکر سے کہتے ہوئے تاکہ منبر پر چڑھیں سو وہ برابر ان سے کہتے رہے یہاں تک کہ

الْمَنْبَرِ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَةً ر- ۲۲۰۶ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (متكرر) ۱۶۳۷

وہ منبر پر چڑھے اور تمام لوگوں نے ان کی بیعت کی دیکھو حدیث ۱۶۳۷

ر- ۲۲۰۶ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ قَدْ بُزَاخَةٌ تَتَّبِعُونَ أَذْكَابًا لَا رَيْبَ

حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے بزاف کے وفد کو کہا کہ تم اور انہوں کے پیچھے پیچھے چھو

حَتَّى يُرِيَّيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يُعَدُّ وَكَذَلِكَ رآه

یہاں تک کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور ہاجرین کو اس کی وجہ سے اٹھو جس طرح

ر- ۲۲۰۶ يَابُ أَيُّهَا مَنْ جَاءَ مِنْ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باتیں جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

يَقُولُ يَكُونُ أُمَّتًا حَشَرًا أَوْ بَرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ ابْنُ أَبِي قَالٍ كَلِمَةً مِنْ قُرَيْشٍ

فرماتے تھے کہ بارہ امیر ہوں گے پھر ایک جملہ فرمایا کہ جسے میں نے نہ سنا تو میرے باپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ قریش میں سے ہونگے

یعنی قرآن کریم پر ایمان
زبردست ایمان
تھا جس نے صحابہ
سے سب فرمایا
کہ میں
یہاں قریش ہی
ہیں۔ صرف اسی
میں یہ لفظ نکلیں
نکلے گی۔ قریش
آپ نے فرمایا
میں نے انہوں کو
ابوبکر کے پاس
آنا کہا کہ حضرت
ابوبکر کی خلافت
کا آپ نے صلہ فرمایا
تھے اور لوگوں
راستہ نظر بھی
کر کے تھے
یہاں ایک دفعہ
نام ہے۔ یہاں
لوگ مرتد ہو گئے
اور تجارت کی
تائید ہوئے اور
اپنا صلہ علیہ کے
حضرت ابو بکر کے
پاس بھیجا جس کہ
یہ جواب حضرت
ابوبکر نے فرمایا
یہ دیکھنا چاہیے

تھے کہ فی الواقع یہ صلح کے طالب ہیں یا یوں ہی دھوکا دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس کی محنت تو جہیں کی گئی ہے۔ خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ
سب کو ملا کر جو وہ ہوتے ہیں جن میں سے دو کا زمانہ خلافت است تو حوالہ تھا۔ اس کے بعد سلطنت اسلام میں ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ اہل تشیع نے مراد
بارہ امام لئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے فقہوں کی طرف اشارہ بکھلے کہ ایک ہی وقت میں بارہ امیر ہونے کے مدعی ہوں گے۔ انہ قال کلہم من
قریش کے فقہ کو علیحدہ کر کے بیان کیا ہے۔ اور درمیان میں سے ایک جملہ راوی نے سنا بھی نہیں۔ اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بارہ
جملہ ہوں۔ کیونکہ حدیث کی رو سے ہر عدی کے سر بر جملہ آتا ہے اور بارہ کا ذکر اس لئے کیا کہ ان کے بعد سیح اور ہندی آنے والا تھا۔ اور
کلہم من قریش والا فقرہ کسی اور امر کے متعلق تھا جو راوی اسی ہے جس میں نہیں رکھا۔

(۵۳) بَابُ إِخْرَاجِ الْأَخْصَامِ وَأَهْلِ الرِّيبِ مِنَ الْبَيْتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أُخْرِجَ	باب بیٹ جھگڑنے والوں اور شہر توڑوں کو جان لینے کے بعد اہل گھروں سے نکلان اور حضرت عمر نے حضرت ابوبکر بن کو نکالایا
عُمَرُ أَخْتِ أَبِي بَكْرٍ نَاحَتْ (م-۲۲۰۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متحدہ-۲۱۹)	تھا جب اس نے نہر کیا دیکھو حدیث ۲۱۹
(۵۴) بَابُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْعَصِيَّةِ مِنَ الْكَلْبِ	باب یہ کیا بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ مجرموں اور گنہگاروں کو
مَعَهُ وَالزِّيَادَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ (م-۲۲۰۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متحدہ-۱۸۵۹)	اور ملاقات وغیرہ سے روک دے دیکھو حدیث ۱۸۵۹
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۹۵- کتاب الثمینی	
۹۵- آرزوؤں کی کتاب	
(۱) بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّمَنِيِّ وَمِنْ ثَمَنِيِّ الشَّهَادَةِ (م-۲۲۰۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	باب جو آرزو کرنے کے بارے میں آیا ہے اور جو شہادت کی آرزو کرے دیکھو حدیث
(م-۲۲۱۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (متحدہ-۳۳) بَابُ ثَمَنِيِّ الْخَيْرِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ	دیکھو حدیث ۳۳ باب ثمنی بخیر کی آرزو کرنا اور نبی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أَحَدٌ ذَهَبًا (م-۲۲۱۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہوتا
مَنْ كَرِهَ (م-۲۲۱۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ	دیکھو حدیث م-۲۲۱۲ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر اپنے معاملہ کے متعلق
مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (م-۲۲۱۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (متحدہ-۸۴۵)	وہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی جو پیچھے معلوم ہوتی دیکھو حدیث ۸۴۵

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۲۲۱۳	(۴۱۳-۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مَتَكَوْنُ ۸۷۵) (۴) بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
۲۲۱۴	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا أَوْ كَذَا (م-۲۲۱۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م-۱۳۲۸)
۲۲۱۵	(۵) بَابُ تَمَيُّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ (۲۲۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
۲۲۱۶	اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخَاسِرُوا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا أَمَّا اللَّهُ الْقُرْآنُ يَهْوِي بِلَوْحَةٍ
۲۲۱۷	الْبَرَاءِ النَّبِيلِ النَّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُوذِيَتْ مِثْلُ أُوذِي هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ وَرَجُلٌ أَتَاهُ
۲۲۱۸	اللَّهُ مَا لَا يَرْفَعُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوذِيَتْ مِثْلُ مَا أُوذِي لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ (۶)
۲۲۱۹	بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَيُّيِّ وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى
۲۲۲۰	قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (م-۲۲۲۰) عَنْ أَبِي سُرَيْبَةَ (م-۲۲۱۷)
۲۲۲۱	(م-۲۲۱۷) عَنْ قَيْسِ بْنِ رَمِيحَةَ (م-۲۲۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م-۱۳۲۹)
۲۲۲۲	(۶) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ كَوْلَا اللَّهُ مَا أَهْتَدَيْتُمْ (م-۲۲۱۹) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ
۲۲۲۳	(م-۱۳۰۹) (م-۸) بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّمَيُّيِّ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

۲۲۱۳
۲۲۱۴
۲۲۱۵
۲۲۱۶
۲۲۱۷
۲۲۱۸
۲۲۱۹
۲۲۲۰
۲۲۲۱
۲۲۲۲
۲۲۲۳

یہاں کسی قدر
اختصار سے آیا
ہے اور درمیان
میں کچھ بڑھایا ہے
قال کنا مع رسول
اللہ صلعم فلینا
بالحج وقد مناکتہ
لأربع خلون من
ذی الحجۃ فلما
لینے صلعم ابن
نطوف بالبيت
وبالصفا والمروة
وان فجعلها عمرة
ولخل الامن
کان معہ حد
قال ولم یکن مع
احیا مناہدی
غدا انبی صلعم
وطیحة وجامد
علی من الیمن
معہ اللہ فقال
ما اهلک بما اهلک
به رسول اللہ
صلعم فقالوا
ننطق الی می

وذكرنا حدثنا يقطر قال رسول الله صلعم اني لو استقبلت من امري ما استدرت ما اهديت ولو لان معي الهدى لحملت راسي من ابي بل لا اهدى
ميك ۱۳۵۷ من نبي، قال ولقيه سواقة وهدي جمره العقبة فقال يا رسول الله اننا هذه خاصة قال لا بل لا بل قال وكات عائشة قدمت
ملكة وهي حائض فامرها النبي صلعم ان تنسك الناسك كلها غير انها لا تطوف ولا تقبل حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول
الله انتطلقون بالحجة وعمرة وانطلق بحجة قال ثم امر عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان يطلق معها الى التنعيم فاعتمرت عمرة في
ذی الحجۃ بعد ايام الحج اس سے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ کہنے میں کوئی ہرج نہیں ہے بل یہاں لفظ ہیں ہیں اور ہی صلعم ذات لیلۃ رتبت
میں ہے کہ آپ کہیں باہر سے آئے تھے اور رات بھر جاگتے رہے تھے فقال لیت رجلاً صالحاً من اصحابی یجوسنی اللیلۃ اذ سمعت صوت السلاح
قال من هذا قبل سعد یا رسول اللہ جئت احرمک فنام النبي صلعم حتى سمعنا غطيطة - اس کے بعد بخاری نے روایت حضرت عائشہ حضرت
بلال کا ایک شعر نقل کیا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے۔ الالیت شعری هل ابیت لیلۃ - یواؤ وحولی اذ خرو جلیل - اور اس پر بڑھا ہوا ہے
فاحدوت النبي صلعم ۱۳۱۶ جن جنوں کے حضرت عمر اللہ عنہ کی حدیث کہ ہے۔ ملا کمر روایت بہت مختصر ہے۔ لولا انی سمعت النبي صلعم یقول
تمتموا الموت لتمتیت ۱۳۱۶ میں ہے کہ اگر دعا کرے بھی تو یوں کرے کہسے اللہ صہبتک ندی میرے لئے بہتر ہے مجھے زندہ رکھا اور جب تم میرے لئے بہتر
مجھے وقت تھے۔ یہ یہ مکرر روایت بھی بہت مختصر ہے۔ قال اتینا خیاب بن الاریت فعودہ وقد اکتوی سبکاً فقال لولا ان رسول اللہ صلعم نہا ان اتینا
بالعموت لدعوت یہ ۱۳۱۶ میں ۲۲۱۹ کا صرف آخری جملہ اور ہر ایک ہے ان رسول اللہ صلعم قال لا یتمی احدکم الموت اما محسناً فلعلة یزدادوا اسمیاً
فلعله یستعجب ہمکے یہ کوئی تمہی نہیں کہہ رہے تھے حقیقتاً تمہارے کہدایت نہیں اللہ کی طرف سے ہی ہے بل یہ یوں کہتا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو تمہارے کہدایت نہ ہوتے۔

۱۳۱۶ میں حدیث کو دوہرایا ہے مگر ترجمہ کہ ایک شعر و ثبت الاقدام ان لا یقینا یہاں کچھ بڑھایا ہے اور اس کے بعد بھی یوں ہی فرج بھلا صوبہ

رجلان دخل في معنى الأية وقوله تعالى إن جاء كذفا من بيننا فمتباينوا وكتبوا	اور اللہ تعالیٰ کا قول اگر ایک فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو اور حجرات۔ ۶
بعث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة واحدة بعد ارجح فان سماها احد فممنها	اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسروں کو ایک کے بعد ایک کو بھیجتے تھے اگر ان میں سے کوئی بھول گیا سنت کی
رد إلى السنة رم- ۲۲۲۹ عن مالك بن الحويرث (متكرر) رم- ۲۲۳۰	دیکھو حدیث ۲۲۲۹ طرف لوٹنا یا جائے گا ۳
عن ابن مسعود (متكرر) رم- ۲۲۳۰ عن عبد الله بن عمر (متكرر) رم-	دیکھو حدیث ۲۲۳۰ دیکھو حدیث ۲۲۳۰
رم- ۲۲۳۱ عن عبد الله بن عمر (متكرر) رم- ۲۲۳۲ عن ابن عمر (متكرر)	دیکھو حدیث ۲۲۳۱ دیکھو حدیث ۲۲۳۲
رم- ۲۲۳۳ عن عبد الله بن عمر (متكرر) رم- ۲۲۳۴ عن ابن عمر (متكرر)	دیکھو حدیث ۲۲۳۳ دیکھو حدیث ۲۲۳۴
رم- ۲۲۳۵ عن ابن عمر (متكرر) رم- ۲۲۳۶ عن ابن عمر (متكرر)	دیکھو حدیث ۲۲۳۵ دیکھو حدیث ۲۲۳۶
رم- ۲۲۳۷ عن ابن عمر (متكرر) رم- ۲۲۳۸ عن ابن عمر (متكرر)	دیکھو حدیث ۲۲۳۷ دیکھو حدیث ۲۲۳۸
رم- ۲۲۳۹ عن ابن عمر (متكرر) رم- ۲۲۴۰ عن ابن عمر (متكرر)	دیکھو حدیث ۲۲۳۹ دیکھو حدیث ۲۲۴۰

۱۔ طائفة صل
 میں ایک حصہ کو
 کہا جاتا ہے اور اس
 نے آدمیوں کے
 ایک گروہ کو جو تم
 سے کم تین پر مشتمل
 ہو مگر نعت میں
 اس کا استعمال
 طوفیا ایک آدمی پر
 بھی جائز رکھا گیا
 اس سے
 تیسرا نکالنا ہے اگر
 ایک آدمی خبر لائے
 والا فاسق نہ ہو تو
 پھر تحقیقات کی
 ضرورت نہیں۔
 یعنی وہ خبر تنبیہ
 کی جا سکتی ہے۔

دیکھو حدیث ۲۲۲۹
 دیکھو حدیث ۲۲۳۰
 دیکھو حدیث ۲۲۳۱
 دیکھو حدیث ۲۲۳۲
 دیکھو حدیث ۲۲۳۳
 دیکھو حدیث ۲۲۳۴
 دیکھو حدیث ۲۲۳۵
 دیکھو حدیث ۲۲۳۶
 دیکھو حدیث ۲۲۳۷
 دیکھو حدیث ۲۲۳۸
 دیکھو حدیث ۲۲۳۹
 دیکھو حدیث ۲۲۴۰

۳۔ ایک کو امیر مقرر کر کے بھیجنے سے ایک کی خبر پر اعتماد کا استلال کیا ہے سنت کی طرف لوٹانے سے مراد حق و صواب کی طرف لوٹانا ہے یعنی اگر ایک سے
 سمجھ جائے تو دوسرا اس کو حق و صواب کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ مگر یہاں کچھ تفصیل زیادہ ہے۔ قال اتينا النبي صلعم ونحن شبهة متقاربون فاقنا
 عنده عشى من ليلة وكان رسول الله صلعم رضيعا فلما ظن اننا ذنا اشتهدنا اهلنا او قد اشتقتنا سائنا ممن تركنا بعدنا فاختارنا وقال ارجعوا الى
 اهليكم فاقتموا بهم وعلوهم ومروهم وذكروا شيئا احفظها ولا احفظها وصلوا كما رايتوني اصلا فاذا حضوه الصلاة فليؤذن لذكر احدكم
 وعنوان باب كالتعقن انى الفالما سے ہے ایک اذان دے گا تو اس کی خبر پر اعتماد کر کے لوگ آئیں گے، ویلو فلو فلو کہ ایک رکعت، پھر پچھلے حصہ کے الفاظ
 میں کچھ اختلاف ہے۔ قال رسول الله صلعم لا يسنعن احدكم اذان بلال من سجوده فانه يؤذن اذ قال ينادى ليرجع قائمكم ودينه قائمكم
 وليس لفرجان يقول هكذا رماں تک لفظ قریبا ایک ہی ہیں، وجمع یعنی کعبہ حتی يقول هكذا اذ اذ من یحیی اصبعیه السبا بتین، مگر وہی لفظ ہیں
 مگر آخری حصہ قال وكان رجلا اعنى سے لیکر آخر تک پھیر دیا ہے مضمون م۔ ۲۲۳۳ کا ہے، مگر روایت مختصر ہے۔ قال صل بنا النبي صلعم الطرخمسا
 فقيل اذین فی الصلاة قال هذا ذك قالوا اصليت نحمسا فسجد احدین بعد ما سلم۔ یہاں ذکر جمع کے صغیر میں ہے قالوا یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ
 نے پانچ رکعت پڑھی ہیں مگر روایت م۔ ۲۲۳۸ میں قالوا کے بجائے قال ہے جس سے معلوم ہوا کہ کہنے والا فی الحقیقت ایک ہی تھا اسی سے عنوان باب کا تعقن
 ہے۔ مگر روایت اختصار سے آئی ہے۔ ان رسول الله صلعم انصرت من اثنتین فقال له ذوالیدین انقص الصلاة يا رسول الله ام نبيت فقال صرت
 ذوالیدین فقال الناس نعم فقال رسول الله صلعم فصلت ركعتین اخریہن ثم سلم ثم لبت ثم صحت مثل سجوده او اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل
 سجوده ثم رفع، اس میں ایک ہی آدمی کی خبر پر اعتبار کر کے نماز دوہرائی گئی گو دو سروسوں سے بھی آپ نے دریافت کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہی بھول گیا ہو، مگر وہی
 لفظ ہیں۔ ایک آدمی کے کہنے پر نمازیوں نے اپنے منہ بیت المقدس کی بجائے کسی کی طرف کر دیے، مگر اخصیفت کی عیسیٰ سے دوہرایا ہے۔ قال لما قدم رسول
 الله صلعم المدينة صلح تحویبت المقدس ستة عشى اوسبعة عشر شهرا وكان يجب ان يؤخه الى الكعبة فانزل الله تعالى قد خزي قلبك وملك في
 السماء فلو انك قبلت رضاهما توجه نحو الكعبة وصلی موه رجل العصى ثم خرج فخرج على قوم من الانصار فقال هو يشهد انه صل مع النبي صلعم واند قد
 وجه الى الكعبة فاخبروا وهم ركوع في صلاة العصى وعنوان باب كالتعقن اسی حصہ سے ہے، مگر روایت مختصر ہے اور اس میں برتن توڑنے کا ذکر رکھا گیا
 ہے۔ قال كنت اسق ابا طلحة الانصاري وابا عبيدة بن الجراح وابي بن كعب ثوبا من فضيخ وهو ثيابهم اذ فقال ان الحمر قد حومت
 فقال ابو طلحة يا اشقم الى هذه الجراد فكسها قال اش فقمت الى مهراس لنا فضو ثيابا سفاه حتى انكوت م۔ ۲۲۴۱ میں بھی یہ روایت قریبا انہی
 الفاظ میں آئی ہے مگر وہاں یہ کہ نہیں کہ برتن توڑے گئے بلکہ اس کی بجائے ہے کہ مرثاب گرا دی گئی، مگر وہی لفظ ہیں۔ ابو عبیدہ کو ایسا نہ ہو کہ حوسل م

(م-۲۲۳۸) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا - ۷۹) (م-۲۲۳۹) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا - ۱۸۲۲)	دیکھو حدیث ۷۹	دیکھو حدیث ۱۸۲۲
(م-۲۲۴۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا - ۱۱۲۶) (۲) بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	دیکھو حدیث ۱۱۲۶	باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
(م-۲۲۴۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرًا - ۱۳۱۵)	ایک زبیر کو تحقیق حالات کے لئے بھیجنا	دیکھو حدیث ۱۳۱۵
(۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَاذَا	باب اللہ تعالیٰ کا قول	نبی کے گھر میں نہ جاؤ
أُذِنَ لَكُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا (م-۲۲۴۲) (م-۲۲۴۳) (م-۲۲۴۴)	جب ایک آدمی بھی اجازت دیکر تو یہ جائز ہے	دیکھو حدیث ۲۲۴۳
(م-۲۲۴۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا - ۱۱۰۷) (۴) بَابُ مَا كَانَ يُبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	دیکھو حدیث ۱۱۰۷	باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
وَأَنَّ مِنْ الْأَمْرَاءِ وَالرِّسَالِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	افسوس اور قاصدوں کو	ایک کے بعد ایک کو بھیجنا اور ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ	دیحہ کلبی کو اپنا خط دے کر بصرہ کے حکم کے پاس بھیجا	کہ اسے قیصر کو دے
(م-۲۲۴۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا - ۵۹) (م-۲۲۴۷) عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ	دیکھو حدیث ۵۹	
الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مُتَكَوِّرًا - ۹۷۹) (۵) بَابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَوْدِ الْعَدَبِ	دیکھو حدیث ۹۷۹	باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
أَنْ يُلْبِغُوا مِنْ ذُرَائِهِمْ قَالَ هَذَا مَوْلَانِ بْنِ الْحَارِثِ (م-۲۲۴۸) (م-۲۲۴۹)	حکم دینا کہ ان کو تبلیغ کریں جو ان کے بچے ہیں اسکا ملک بصرہ میں روایت کیا ہے	دیکھو حدیث ۲۲۴۸
(۶) بَابُ خَيْرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ (م-۲۲۵۰) عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	باب ایک عورت کا خیر دینا	توبہ عنبری سے روایت ہے

ما مکرر روایت
مختصر ہے۔ قال
وكان رجلا من
الانصار اذا
غاب عن رسول
الله صلعم و
شهدته اتينته
بغا يكون من
رسول الله صلعم
واذا غابت عن
رسول الله صلعم
وشهدت اتاني بما
يكون من رسول
الله صلعم -
اي آدمي خبرني
لا تود سرا من
پراعتنا وكرنا
مکرر روایت
قد مختصر ہے
ان النبي صلعم
بعث جيشا وافر
عليهم رجلا
رعوان باب کا
تعلق اسی سے
ہے، فاقولنا ان
وقال ادخلوها
فاردوا ان
يدخلوها وقال
الخوین استما

فردنا منها فذكر ان النبي صلعم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لودخلوها لم يزلوا فيها الى يوم القيامة وقال للاخرين لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف و ما قريبا اني الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔ ایک شخص واحد انیس کو بھیجا کہ تحقیقات کر کے سزا دے۔ ۱۱۱۱ حدیث کو قریباً انی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ البتہ اس میں آخر پر جم ہے کہ یہ سخت دق کے دن کا واقعہ ہے اور بعض لوگوں نے جو اسے یوم قریظ کہا ہے تو راوی کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ مکرر روایت بہت اختصار سے آئی ہے۔ ۱۔ ان النبي صلعم دخل حائطاً و امرني بحفظ الباب فجاد رجل يتأذن فقال اذن له وبشوة بالجنة فاذا ابو بكر ثم جاد عمر فقال اذن له وبشوة بالجنة ثم جاد عثمان فقال اذن له وبشوة بالجنة و ما مکرر روایت ۱۱۱۱ کا صرف ایک مکرر ہے۔ عن عمر رضي الله عنهم قال جئت فاذا رسول الله صلعم في مشيئة له وغلام رسول الله صلعم اسود على رأس الدرجة فقلت قل لهذا عمر بن الخطاب فاذا ن لي. صرف ایک لڑکے کی زبان سے رسول اللہ صلعم کی طرف سے اجازت مل گئی و حضرت عمر اندر چلے گئے۔ ۱۱۱۱ مکرر روایت قریباً انی الفاظ میں آئی ہے۔ ۱۱۱۱ یہاں لفظیوں میں ۱۔ ان رسول الله صلعم قال لرجل من اسلم اذن في قريمت اذني الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم - لفظ ۸۶۵ سے ملے ہیں۔ ۱۱۱۱ کہیں کہیں کسی فقرہ کو آگے پیچھے کر دیا ہے۔ لفظ قریباً وہی ہیں +

أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدَتْ ابْنُ مَرْزُوقٍ مِّنْ

کتاب آپ نے حسن زہری کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنا دیکھا ہے حالانکہ میں ابن عمر کے پاس قریب دو

سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنَصَرْتِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَخْدُثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ

سال یا دو سال بیٹھا ہوں تو میں نے انکو نہیں سنا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہو یا صحیح

هَذَا إِقَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ هُبَابٍ

اس کے کہ کافی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے ان میں سعد بنی تھے سو وہ گوشت

يَأْكُلُونَ مِنْ حَيْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کھاتے تھے تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک نے ان کو بیکار

وَسَلَّمَ إِلَيْهِ كَحَمِ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلُوا

کہ گوہ کا گوشت ہے تو وہ رک گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَقِيذَةٌ وَلَيْسَ مِنْ طَعَامِي

کھاؤ یہ حلال ہے یا فرمایا اس کے کھانے میں کوئی ہرج نہیں ہے راوی نے اس میں شک کیا لیکن یہ میرے کھانے میں سے نہیں ہے بلکہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہائی نام والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۹۷- كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ السُّنَّةِ

کتاب اور سنت کو مضبوط پکڑنے کی کتاب

(۹۷-۲۲۷۷) عَنْ طَارِقِ بْنِ شَيْبَةَ (مُتَكَرِّرًا) (۹۷-۲۲۷۸) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَرِّرًا)

دیکھو حدیث ۲۲۷۸ دیکھو حدیث ۲۲۷۷

(۹۷-۲۲۷۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَرِّرًا) (۹۷-۲۲۸۰) عَنْ أَبِي لَيْسَانَ (مُتَكَرِّرًا) (۲۲۸۰)

دیکھو حدیث ۲۲۷۹ دیکھو حدیث ۲۲۸۰

(۹۷-۲۲۸۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (مُتَكَرِّرًا) (۲۲۸۱)

دیکھو حدیث ۲۲۸۱

علاحد حسن زہری
تا بعین میں سے
ہیں یعنی میں ہے
کہ حسن باوجود
تا جہی ہونے کے
بنی صلعم سے بہت
حدیثیں روایت
کرتے تھے اور یہ
ایک قسم کی جرات
تھی۔ اور اس کے
بالمقابل ابن عمر
باوجود صحابی ہونے
کے حدیث کی
روایت میں بہت
محتاج تھے۔
علاحد بنی صلعم کی
کسی بیوی کے
کھانے سے وہ ترک
کئے گا یا ایک عورت
کی خبر کی صحبت کو
سزیدیم کیا اس بیوی
نے چونکہ بنی کریم
صلعم کو دیکھا تھا
کہ آپ گوہ کا
گوشت نہیں کھاتے
تو اس نے انہیں
نے ایسا مانگنا
صلعم نے پوری
وضاحت کر دی

کہ یہ حلال ہے صرف کچھ پند نہیں اور میں اس کا گوشت نہیں کھاتا۔ اس میں عورت کی خبر کی تردید نہیں بلکہ وضاحت ہے کہ اسے مکرر روایت میں کسی قدر
اختصار ہے۔ قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين لو ان علينا نزلت هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم وانتم عليكم نعمتي و
رضيت لكم الاسلام ديناً لا تخفون ذلك اليوم عبيداً فقال عمر اني لا علم اى يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة اس میں یہ بتایا
کہ قرآن شریف کے ذریعے سے کامل ہو چکا یہ گویا کتاب کے لئے بطور تشبیہ ہے بلکہ مکرر روایت اختصار سے آئی ہے۔ انہ سمع عمر الفاضلین بايع
المسلمون ابا بكر واستوى على منبر رسول الله صلعم تشهد قبل ابي بكر فقال اما بعد فاختر الله لرسوله صلعم الذي عنده على الذي عنده السلام
وهذا الكتاب الذي هب الله به رسوله كفن ذابيه تهتروا دانما هدى الله به رسوله في ليله وفي لفظ ہیں۔ ابن عباس کے لئے دعا ہے۔ اللهم علم
الكتاب علمك مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ انہ سمع ابا برفة قال ان الله يغذيكم او لغضكم رنما رادرجہ بلند کر دیا یا تمہارے حالات کو درست
کر دیا، بالاسلام وبعثت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اور آنحضرت صلعم سے ہی مسلمانوں کا درجہ بلند ہوا۔ انہی کو مضبوط پکڑنے سے پھر درجہ بلند
ہو سکتا ہے۔ علم لفظ یوں ہیں بیان عبداللہ بن عمر کتب الی عبد الملک بن مروان یا بیعہ واقربیلک بالسبح والطاعة على سنة الله وسنة
رسوله فيما استطعت۔ سنت اللہ اور سنت رسول ہیں کتاب و سنت کا ذکر ہے۔

<p>۱۱) بَابُ قَوْلِ لَيْسَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَبَرُ بِجَمَاعِ الْكَلْبِ (م- ۲۲۵۲) عَنْ</p>
<p>باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول</p>
<p>کہ مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے</p>
<p>۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۲۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۹۹۰) رَوَى</p>
<p>دیکھو حدیث ۱۳۶۶</p>
<p>دیکھو حدیث ۱۹۹۰</p>
<p>۱۳) بَابُ الْإِفْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاجْعَلْنَا</p>
<p>باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا</p>
<p>اور اللہ تعالیٰ کا قول</p>
<p>اور ہم کو متقیوں</p>
<p>لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قَالَ أُمَّةٌ نَقِيذِي بَيْنَ قَبْلِنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مِنْ بَعْدِنَا وَقَالَ ابْنُ</p>
<p>کا امام بنانا اور فرقہ۔ ہم فرمایا ایسے امام کہ ہم ان کی پیروی کریں جو ہم سے پہلے تھے اور جو ہم سے بعد آئیں وہ ہماری پیروی کریں اور</p>
<p>عَوْنِ ثَلَاثَاتٍ أَحْبَبْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَلَا تَخَوُّوا لِي هَذِهِ السَّنَةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوا هَذَا وَيَسْأَلُوا عَمَلَهُ</p>
<p>ابن عون نے کہا میں باتیں ہیں جنہیں میں اپنے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے پسند کرتا ہوں (۱) یہ سنت ہے کہ اسے یہ میں اور اس کے</p>
<p>التَّوَّابِينَ أَنْ يَتَفَهَمُوا وَيَسْأَلُوا عَمَلَهُ وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ (م- ۲۲۵۴)</p>
<p>متعلق ہو جائیں (۲) اور قرآن کہ اسے سمجھیں اور اس کے متعلق پوچھیں (۳) اور یہ کہ لوگوں کو (۴) پھیریں اور لوگوں کے لئے کہیں پسند کریں</p>
<p>عَنْ أَبِي وَائِلٍ (م- ۸۵۰) (م- ۲۲۵۵) عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَرْثَدَةَ (م- ۲۲۵۶)</p>
<p>دیکھو حدیث ۸۵۰</p>
<p>دیکھو حدیث ۲۳۱۵</p>
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (م- ۲۲۳۳) (م- ۲۲۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۱۹۹۰) رَوَى</p>
<p>دیکھو حدیث ۲۲۳۳</p>
<p>دیکھو حدیث ۱۹۹۰</p>
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ</p>
<p>ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا</p>
<p>کہ ہریری ساری امت جنت میں جائے گی</p>
<p>إِلَّا مَنْ أَلِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْتِي قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ</p>
<p>سوائے اس کے جس نے انکار کیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرتا ہے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا</p>
<p>عَصَانِي فَقَدْ أَلِي (م- ۲۲۳۳) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ</p>
<p>اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے نکار کیا</p>
<p>جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک شخص نے میری اطاعت کی اور اس نے میری نافرمانی کی تو اس نے نکار کیا</p>

مترجمی انہی الفاظ میں اور فرمایا ہے دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔

آخری لفظ تشبیہاً کی بجائے ہمارے تلخونہا اور ترغونہا اور تشبیہاً تلخون لغت سے ہے الطعام الخلوہ بالشعیر۔ اس لئے تلخون کے معنی ہیں کھلتے ہوئے ترغشون رغش سے ہے جس کے معنی ہیں ہیں اور مطلب یہ ہے تقریباً یہ ہے تقریباً اس مال کو ادھر ادھر پھیلاتے ہو مترجمی انہی لفظ ہیں دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک معجزہ کی شہادت ایک

زمانہ کے بعد جاتی رہی لیکن قرآن کریم چونکہ تاقیامت معجزہ ہے اس لئے اس کی شہادت بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ اور لوگ اس پر قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ اس لئے آپ نے پیروہیت زیادہ بھی ہوں گے۔ قرآنی معجزہ ایسا زبردست ہے کہ اس زمانہ میں بھی دنیا اس کی قائل ہے اس لئے کہ اس میں دنیا کی مشکلات اور اس کے پیش آمدہ مسائل کا حل ہے۔ اور ابن عون کی تینوں باتیں نہایت ہی ذہنی ہیں۔ آج مسلمانوں کو انہی کی ضرورت جو مسندت رسول کی واقفیت حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں تدبیر اور دوسروں سے اگر نیکی نہ کر سکیں تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اکثر لوگ اپنے نفس کی طرف تو جھرتیں کرتے۔ دوسروں کی عیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک قریبی انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ علیہ الکرمی کے لفظ یہاں نہیں۔ دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ عنوان باب کا تعلق اس حصہ سے ہے ہمداراً حضرت اور ابو کثیر (م) المزان یقندی ہما۔ ۱۵ ۷۳۱۵ کا صرف ابتدائی حصہ

یہاں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامامة امانت سے مراد ایمان اور اس کے شرائع یا رستے ہیں نزول عن السماء فی جنود قلب الرجال یعنی اصل ایمان فطرت انسان میں موجود ہے۔ دیکھو نوٹ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ ونزل القرآن فقلوا لعلموا من السنة۔ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ یہاں آخری کچھ مضمون پڑھا یا ہے۔ روایت کے لفظ یہ ہیں۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشی الامر بعدنا وان ما وعدنا ون کات دھانہ بعد معجزین۔ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ یہاں صرف ایک جملہ دہرایا ہے اور اس کا تعلق عنوان باب سے ہے۔ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا قضین بینکما بکتاب اللہ۔ ۱۱ صفحہ ۶۷۱۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جبرئیل اور میکائیل تھے

وَاللّٰمِيَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ

اور آپ سو رہے تھے تو بعض نے کہا یہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا

لَأَنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا لَنْ لِمَا جِئْتُمْ هَذَا أَمْثَلًا فَاصْبِرُوا

کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل جاگتا ہے انہوں نے کہا تمہارے اس سامعہ کے لئے ایک مثال ہے تو اس کی مثال

لَهُ أَمْثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ

بیان کریں تو بعض نے کہا یہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے اور دل جاگتا ہے

فَقَالُوا أَمْثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِيَةً وَبَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَجْلَابِ

وہ لوگوں نے کہا ان کی مثال ایسے شخص کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور بلا تیرے کو بھیجا تو جس نے بلا تیرے کا

الذَّاعِي دَخَلَ لَهَا وَوَأَكَلَ مِنَ الْمَادِيَةِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْ لِلذَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ

کہانا وہ مکان میں داخل ہوا اور کھانے میں سے کچھ کھایا اور جس نے بلا تیرے کا کھانا وہ مکان میں داخل ہوا

وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِيَةِ فَقَالُوا أَوْ لَوْ هَالَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ

اور نہ کھانے میں سے کچھ کھایا انہوں نے کہا ان کے لئے اس کی تاویل بیان کر دو کہ اسے سمجھیں تو بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں اور

بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ فَقَالُوا أَفَالَّذِي أَرِ الْجَنَّةَ وَالذَّاعِي مُحَمَّدًا

بعض نے کہا آنکھ سو رہی ہے اور دل جاگتا ہے تو انہوں نے کہا وہ گھر جنت ہی کا بلا تیرا ہے حضرت محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَطَاعِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى

صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے

مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم (اچھے اور برسوں کو) کو

بَيْنَ النَّاسِ رُوِيَ رَوَايَتِي خَرَجَ حَلِيبًا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ مَسْرُومًا

جس کے نبیوں نے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یا ہرگز تشریف لائے

حَدِيثُهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرْأَةِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبِقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ بَعْدِي

روایت ہے انہوں نے کہا نہ علماء کے گروہ سے میں تو تم سبقت میں بہت آگے نکل جاؤ گے اور اگر تم دائیں اور بائیں گئے

وَسِمَاكِ لَقَدْ ضَلَّكُمْ ضَلَاكَ بَعِيدًا ر-م- ۲۲۵۸-م- ۲۲۵۸-م- ۲۲۵۸-م-

تو تم گمراہی میں دوڑ نکل جاؤ گے دیکھو حدیث ۲۲۵۸-م

(م- ۲۲۵۹-م) كُنْ كُنْ هُوَ يَرْتَدُّ (م- ۲۲۵۹-م) ر-م- ۲۲۶۰-م- كُنْ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبِيدِ

دیکھو حدیث ۲۲۵۹-م

ر-م- ۱۹۱۸-م) كُنْ أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرَةَ (م- ۱۹۱۸-م) ر-م- ۲۲۵۸-م- كُنْ كُنْ

دیکھو حدیث ۱۹۱۸-م

هَرِيرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُكَ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آئیے فریاد جب تک میں تم سے کسی بات کا ذکر نہ چھوڑوں تم مجھے چھوڑو

الحمد لله على هذا
قرآن سے مراد
قرآن و سنت
علمائے جہالت
تھے
۲۲ مکرر روایت
قدر سے زیادہ
تفصیل سے آئی
ہے یعنی الجیسے
صلی اللہ علیہ وسلم
قال انما نظلت
مثل ما بعثني
الله به كمثل
رجل اتي قوما
فقال يا قوم ان
رايت الجحش
بيني وان انا
الذئب والعريان
فان انا فاطمة
طائفة من قومه
فادعوا فانظروا
علاء هل لهم فنجوا
وكذا طائفة
منهم فاصبوا
مكائهم فضمهم
الجحش فاكلهم
واجتاحهم فذان
مثل من انا عن
فاتيهم ما جنت
به ومثل من
عصاتي وكذب
ببياحيت بهن
الحق
مما قربت الي
الفاظ من حديثك
وهو رايك - مع

ذکر حضرت ابو بکر کی جگ کرنے کا ذکر ہے۔ آخری فقرہ میں یوں ہے۔ فقال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شوه صدره الى بكونه لا تقال لفضول
انذ الحق۔ مگر قریش انہی الفاظ میں حدیث کو دہرایا ہے۔ حضرت عمر کے دفاع عند کتاب اللہ ہونے کا ذکر ہے۔ مگر قریش انہی الفاظ میں دہرایا
ہے۔ البتہ یہ فقرہ بیان چھوڑ دیا ہے۔ فقمت حتى علاني الغشي فجعلت اصب على راسي الماء +

مَبْلُوكٌ يُسْئِرُ اِلَيْهِمْ وَ اخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اُنْهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاَجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا

وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اپنے زہت، سواہوں کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہٹا کر جو کچھ تم کو کسی چیز سے

اَمْرٌ مِّمَّا يَمْرُقَاتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۲۳) يَا بَعْثُ مَا يَكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَ

روک دوں تو تم اس سے بچتے رہو اور جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اور تمہاری طاقت ہو اسے کرنا یا اسے گنتی سے سوال کرنا اور ان باتوں

تَكْلِفُ مَا لَا يُغْنِيْهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءٍ اِنْ تَبَدَّلَتْ لَكُمْ تَسْؤَالُكُمْ (۲۴) (۲۳۳۷)

میں اپنے آپ کو وہاں جو اہمیت نہیں رکھیں نہ پانچ سو بار اللہ تعالیٰ کا قول بہت باتوں کے متعلق سوال نہ کرو اگر تمہارے لئے ظاہر ہو جائے تو

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمَسْئَلِ

سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسالوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے

جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَخْرِجْهُ مِنْ جُزْمٍ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (۲۴) (۲۳۳۸) عَنْ زَيْدِ بْنِ

جو ایسی بات کے متعلق پوچھے جو جرم نہ ہو اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے جرم ہو جائے۔

ثَابِتٌ (۲۵) (۲۳۳۹) عَنْ اَبِي مُوسَى لَا شَعْرِيْ وَ (۲۶) (۲۳۴۰) (۲۳۳۷) وَ (۲۳۳۸) وَ (۲۳۳۹) وَ (۲۳۴۰)

وکیجو حدیث ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْحَدٍ وَ (۲۷) (۲۳۴۱) (۲۳۴۲) (۲۳۴۳) (۲۳۴۴) (۲۳۴۵) (۲۳۴۶) (۲۳۴۷) (۲۳۴۸) (۲۳۴۹) (۲۳۵۰)

وکیجو حدیث ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا اصل منشاء نبیین کریمت سے ہو اور میں انسان کو عقیدہ کی باتوں سے بعض لوگوں کے لئے وہ مسائل تکلیف کا موجب ہو جاتے ہیں۔ فقہاء نے بھی بہت سی فرضی صورتیں پیدا کر کے اسلامی شریعت کی سادگی کو باقی نہیں رہنے دیا۔ بلکہ اس کے فقط یوں ہی ان ایسے صلح اہل حقن حجرتی فی المسجد من حصصہ فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیلیا حتی اجتمع الیہ الناس ثم فداوا صوتہ لیلۃ فظنوا انہ قد نام فجعل بعضهم یندفعون لیخرجوا الیہم فقال ما دال بکم الذی راہت من صدیکم حتی تحشیت ان یتب علیکم ولو کتب علیکم ما قدمت بہ فصلوا انہا الناس فی بیوتکم فان افضل صلاۃ المرء فی بیئہ الا الصلاۃ المکتوبۃ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عنوان باب کا منشاء یہی ہے کہ بعض لوگ تو ایک امر کو شرح صدر سے کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لئے وہ مشقت کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس لئے شریعت نہیں چاہتی کہ زیادہ پابندیاں اور قیود عائد کی جائیں۔ بلکہ مکرر روایت قریباً انہی الفاظ میں ہے کہ کثرت سوال کو آپ نے پسند فرمایا۔ ۵۰۰ کے قریب انہی الفاظ میں دوہرا کر بڑھایا ہے وکتب الیہ انہ کان یبغی عن قیل وقال وکثرة السوال وادخالہ المال رہاں تک ۵۰۰ کے الفاظ میں اور عنوان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے (۱) وکان یبغی عن عقوق الاہمات واد البنات وفتح وہات ۵۰۰ حدیث کو قریباً انہی الفاظ میں دوہرایا ہے مگر حذافہ کے سوال سے پہلے اور اکثر ان یقول سلونی کے بعد بڑھایا ہے۔ فقال انس فقام الیہ رجل فقال ابن مردخلی یا رسول اللہ قال لنا وہ ۵۰۰ مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ قال قال رجل یا نبی اللہ من ابی قال ابون فلان وفزت یا یا اللہ من لا تسالوا عن اشیاء الا یہ ۵۰۰ کے یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حوث رکبیت میں۔ ۵۰۰ میں خرب ہے یعنی بے آباد یا ویران حصہ میں) بالمدینۃ وهو یترک علی عسیب فترتہ من الیہود فقال بعضهم سلوہ عن الروح وقال بعضهم لا تسالوا لہ ما تکفرون فقاموا الیہ فقالوا یا یا القاسم حدیثنا عن الروح فقام ساعة ینظر فترت انہ یبغی الیہ فآخرت عنہ حتی صدق الوحی ثم قال ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی ۵۰۰ مکرر روایت ہے

۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰

(۴) بَابُ الْأَقْوَامِ أَوْ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (م- ۲۲۶) عَنْ ابْنِ

بابی نبی صلی اللہ علیہ کے افعال کی پسندیدگی کرنا

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (م- ۲۱۸) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعْبِثِ وَالْتِزَارِ وَالْعُلُوفِ

دیکھو حدیث ۲۱۸۴ باب میں تشریح اور بھگڑنے اور علواندہ تعزیر کا ناما جانتا ہوتا ہے کہ ممکن ہے

الدِّينِ الْمَدِينَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاَلَا

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے یا اہل کتاب والنتار (۱) نے اہل کتاب اپنے دین میں غلویت کرو اور اللہ پر بھڑکتے

الْحَسَنَ (م- ۲۲۶) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

دیکھو حدیث ۲۲۶۱

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

(م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ فِي هَتْمِكُمْ (م- ۲۲۷) عَنْ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ

عنه
کے افعال کی پسندیدگی
کے متعلق خفیت
ساختلاف ہوتا
ہے کہ ممکن ہے
کہ وہ فعل آپ
کی خصوصیات
میں سے ہونے
کا حکم روایت
کے کچھ کئی پیشی
آئی ہے۔
آئندہ الیہ صلعم
خاندان من ذہب
تاجن المساس
خواہیہ من ذہب
فقالت الیہ صلعم
اللہ علیہ وسلم

انی اخذت خاصاً من ذہب فمیدہ وقال انی لئن الیسیہ ایداً اقتبذ الناس خواریہم .
ابوان یلتہوا ایماں نہیں ہیں .
علیہ سیف (آپ نے تلوار باندھی ہوئی تھی) فیہ صحیفة معلقة فقال واللہ ما عندنا من کتاب یقر الا کتاب اللہ وما فی ہذہ الصحیفة فقتلوا
فاذا فیہا اسنان الابل راونوں کی عمریں یعنی کس کس عمر کے اونٹ ، زکوٰۃ میں دے جائیں ، واذا فیہا المدينة حرم من غیر نفاق لئلا فتن احدک
فیہا حدیثا فقلیہ لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صوماً ولا عداً واذا فیہا ۵۰۰ مسلمین (مسلمانوں کا عہد یا کسی فر
کو پناہ دینا) واحدة یسبحها او ناہدہ را یک اونی مسلمان بھی ایسا حمد سے سکتا ہے) فمن اخفوا مسلماً فقلیہ لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین لا
یقبل اللہ منہ صوماً ولا عداً واذا فیہا من اللہ ما لا یقر والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صوماً ولا عداً .
الفاظ میں حدیث کو وہ ہر پائی ہوئی معلوم کیا ، اسکا حکم کیا ، اسکا بیان کیا ، اسکا بیان کیا ، اسکا بیان کیا ، اسکا بیان کیا .
اسکی مثالیں بعض حالات میں دے کے کافور وغیرہ سے لیتی ہیں اور بعض القلیل الصالح کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور کفار کے یا کفر کے بیچیں اسکا خیال کرنا وہ انکا لئے ایسے
فعل سے پچنا بہتر ہے . گویا اپنے آپ کو آنحضرت سے زیادہ متقی قرار دیتے ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں قوت علی اور علی دونوں میں سے ان سے بڑھ کر
ہوں .
اخی بنی جاشع وانشارا لاخو بنیہ فقال ابو بکر لعمر انما اردت خلافتی فقال عمر ما اردت خلافتی فارتفعت اصواتهم اعدا الیہ صلعم فنزلت یا ایہا
الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم الی قولہ عظیم گویا ، اس تنازع کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا . قال ابن ابی ہلکة قال لئن لم یرض عن عمر لفتنوا لہ
ذلک عن اویہ یعنی ابا بکر اور احداث الیہ صلعم مجددیث حدیثہ کا شی السور الیہ صلعم حقیقی دستغیبہ .
ان رسول اللہ صلعم علیہ وسلم قال فی مرضہ ہذا ابابکر یصل باناس ثالت عائشة قلت ان ابابکر اذا اقام فی مقامک لم یسمع من الناس عن ابابکر فصر
عمر فیلصل فقال من ابابکر فیصل باناس فالث عائشة فقلت لخصصة قولى ان ابابکر اذا اقام فی مقامک لم یسمع من الناس عن ابابکر فصر عمر
فیصل باناس ففعلت حفصة فقال رسول اللہ صلعم انکر لا تلت صواحب یوسف مروا یا بکر فیصل باناس فالث حفصة لئلا تفتت ما کنت
لا صیب منک شیء لہ .
انقولوہ یہ سل لی یا صاحب رسول اللہ صلعم نسأله تکرم الیہ صلعم المسائل وعاب قرحم حاکم واثیریہ ان النبی صلعم کرم المسائل فقال عویس
واللہ لا تین النبی صلعم فیاہود قول اللہ تعالیٰ العز ان خلعت عامم فقال لہ قد انزل اللہ فیکفرنا قال فان عابها فقتلها ثم قال جوہر
کنذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتہا فقارقتہا ولم یا مرہ الیہ صلعم بقرا فقہرت السنہ فی المتلذذین وقال الیہ صلعم انظروها فان سارت
بہ اصمر قصیدہ امثل ورحمة فلا اراه الا قد لرت ان جاءت بہ اصحابہ اعین ذالذین فلا اصحب الا قد صدق علیہا فاجرت بہ علی کاحمر المکروہ .

ط ۲۲۷ اسکا
ابتدائی حصہ چھوڑ
دیا ہے اور یہاں
سے ابتدا کی ہے
انطلقت حتی
ادخل علی عمر
انما حاجتہ
یعنی اس کے بعد
قریباً ایک سے ہی
لفظ چلتے ہیں۔
مگر ان الفاظ کی
جائے اقتض
بدنی وہ یہاں
وہاں اختصار
فیما ظاہر اللہ علی
رسولہ صلعم
من بقی النصیح
یہاں ہے اقتض
بدنی وہ بیت
القائم استنبات

۲۲۷۵ عن مالك بن اوس بن رستم (۱۱۳۰) باب ایشم من اوی محمد واک

باب اس کا کہ جس نے بڑی کرناہ دی اسے

۲۲۷۶ عن عاصم بن رستم (۹۲۲) باب ما

حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے

۲۲۷۷ عن عمرو بن رستم (۸۷۸) باب ما

دیکھو حدیث ۱۲۲۰

۲۲۷۸ عن ابی وائل (۱۲۲۱) باب ما

دیکھو حدیث ۱۲۲۰

۲۲۷۹ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۰ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۱ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۲ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۳ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۴ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۵ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۶ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۷ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۸ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

۲۲۸۹ عن جابر بن عبد اللہ (۱۵۸۰) باب ما

دیکھو حدیث ۱۵۸۰

یعنی حضرت عباس نے حضرت علی کو ظالم کہا اور دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے۔ پچھلے حصہ میں جہاں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے۔ فعمل فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلعم وہاں پر بڑھایا ہے۔ و انتما حدیثنا و اقبل علی علی و عبا من بعدنا ان ابابکر فیہا کذا۔ اس کے بعد ایک دو فقرے چھوڑ بھی دیئے ہیں۔ یعنی جہاں حضرت عمر کی خدمت کے ذکر میں ہے واللہ یعلم انی فیہا لاصولنا بآراء اشدنا تاہم الحق اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور جہاں حضرت علی اور عباس کے حضرت عمر سے مطالبے کا ذکر ہے وہاں یہ فقرہ چھوڑ دیا ہے فقط لکھا ان رسول اللہ صلعم قال لا نورث ما ترکنا صدقة فلما بنی ابی ان لوفدہ الیکما۔ مگر حضرت علی کی حدیث میں پر گزری ہے جس میں یہ لفظ آئے ہیں من احداث فیہا مدینہ میں، اداوی محمد ثنا علیہ لودتہ اللہ والملائکة والناس اجمعین۔ اس کے فقرے میں ہے۔ قلت لانس احوم رسول اللہ صلعم المدینة قال نعم ما بین کنا الی کنا الا یقطع شجرها من احداث فیہا حد تا علیہ لودتہ اللہ والملائکة والناس اجمعین قال عامرہ و انضری موسیٰ ابن انس انہ قال اداوی محمد ثنا علیہ لودتہ اللہ والملائکة والناس اجمعین۔ اور کبھی وہ غلط ہونے لگے اور کبھی صحیح مگر غلط اجتناب کی مجتہد قابل ملامت نہیں۔ بلکہ اس کے لئے اس کے اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ہے۔ پس ایسی رائے جو قرآن و حدیث کی جابر قائم کی گئی ہے خواہ اس میں غلطی بھی لگی ہو وہ قابل ذمت نہیں بلکہ قابل تعریف محض ہے۔ یہاں جس رائے کی ذمت کا ذکر ہے اس سے مراد وہاں کے معاملات میں ایسی رائے ہے جس میں قرآن و حدیث کی پر دہاشی جائے یا قرآن و حدیث کے خلاف وہ رائے قائم کی جائے اور قیاس سے بھی مراد ایسی ہی قیاس ہے۔ آگے امام بخاری نے خود قیاس کے جو اثر باب بانرھا ہے۔ مگر کہ روایت میں آخر کچھ مضمون بڑھایا ہے۔ قال سحر علینا عبد اللہ بن عمر و فسمتہ یقول سمعت النبی صلعم یقول بان اللہ لا یزیر العلم بعد ان اعطاہم و اقتوا علی و لکن یترکہ منہم مع قبض العلماء یعلمہم فیہمے فانیس جہاں یستغفون فیفتون بلہم فیصلون ویصلون حتی یقت عاشرۃ و یرحم اللہ صلعم ثم ان عبد اللہ بن عمر و سحر بعد فقالت یا ابن اخی اطلق الی عبد اللہ فاستثبت لی منہ الذی حدثنی عنہ فحدثتہ فقال لہ قد شنی بہ کفوما حدثنی فانیت عاشرۃ فاخبرتها فحجبت فقالت واللہ لقد حفظ عبد اللہ بن عمرو ہذا کما روایت تفسر ہے۔ اور اس کے لفظ قریباً ۳۸۳ کے ہیں و کثیر نوٹ ۱ ص ۳۳۳ مگر آخر پر بڑھایا ہے۔ وقال ابو وائل سئل عن صفین و بشت صفین یعنی میں صفین کے جنگ میں موجود تھا اور وہ اسی وقت بڑی تھی جو صفین میں ہوتی۔ دیکھو نوٹ ۱ ص ۳۳۳۔

بشیر بن عثمان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے جس میں حدیثی نزول آیت العزیزان

يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَا يَسْكُفُ مِنْ قَبْلِهِ وَمَشَاوِرَةَ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ

وہ اس کے ساتھ فیصلہ دیتا ہے اور اسکی تعلیم دیتا ہے اپنی طرف سے تکلف نہیں کرتا اور خلفاء اہل علم سے مشورہ کرتا اور ان سے پوچھتا

(م- ۲۲۸۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۲۸۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۳۹۰) (۱۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۲۳۹۰ باب ۱۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۳۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

کہہ دوں گا کہ تم اپنی ساری باتوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ

کہ آپ نے فرمایا جو مجھ کی امت نے نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ اس سے پہلے

الْقُرُونِ قَبْلَهَا بِشَرِّ إِشْبَاقٍ ذَرَأَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ

لوگوں جیسے کام کریں وہ لوگ، بالاشت پر بالاشت اور ہر قوم پر ہر قوم کے لوگ، چل نہیں آئے گی، لکن یا رسول اللہ جیسے فارسی اور رومی لوگ

الرُّومِ فَقَالَ دَرَمِنَ النَّاسِ إِلَّا كَأَوْلِيكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۲۸۸) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

فرمایا ان کے سوا اور کون لوگ ہیں

الْحَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۵۳۷) (۱۵) بَابُ إِشْمِ مِنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ لَوْ أَدْرَسَتْ سُنَّةَ

دیکھو حدیث ۱۵۳۷ باب ۱۵ اے ایس کا کہہ جو گمراہی کی طرف بلانے یا کوئی باطل چیز کا

سَيِّئَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أُوذِيَ مِنَ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ إِلَّا بِرَأْيِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۲۸۹) عَنْ

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اور ان کے پوچھوں سے جو انہیں گمراہ کرتے ہیں داخل ۲۵۰

عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۵۰۵) (۱۶) بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَضَرَ

دیکھو حدیث ۱۵۰۵ باب ۱۶ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور

عَلَى رِفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَحْرَمَانِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا كَانَ مِنْهَا

اہل علم کے اتفاق پر رغبت و ملائی اور وہ باتیں جن پر عزم نہ کر اور دیکھنے والوں نے اجماع کیا اور وہ جو وہاں

مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهَا جُزَيْنٌ دَالٌ أَنْصَارٌ وَمُضَلٌّ النَّبِيِّ صَلَّى

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ما جزم اور انصار کے شاہد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَدِينَةُ وَالْقَابِلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۲۲۹۰) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۹۵۳)

کی نماز گاہ اور مگر اور قبر ہے

دیکھو حدیث ۹۵۳

علا قریناً انما افلا
میں دو پر ایک ہے
عنوان باب سے
ان الفاظ کا تعلق
ہے۔ واخر انما افلا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
دیکھو حدیث
علا مکرر روایت
زیادہ تفصیل سے
آئی ہے۔ قال
سال عمر بن الخطاب
رعنوان باب کا
تعلق انی الفاظ
سے ہے۔ عن
املا صلی اللہ علیہ وسلم
ہی لقی بوضوح
بطرفا فتلقى
جیناً فقال لیک
سم من النبی
صلعم فیہ شیئاً
نقلت انا فقال
ما هو قلت سمعت
النبی صلعم یقول
فیہ غرقہ عبد
ادامہ فقال لا
تدرج حتی یخینف
بالخروج فیما قلت
رحمادو مرگواہ
ہے۔ فخرجت
فوجدت محمد بن
مسئلۃ فخبث بہ

فخبت معی اذ سمعت صلعم یقول فیہ غرقہ عبد او امة۔ مثل یہاں فارس اور روم کا ذکر ہے اور اگلی حدیث میں بیرو اور نصاریٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں میں زردشت کے پیروں کو بھی ان لوگوں میں سے سمجھا جاتا تھا جن کے پاس کوئی کتاب تھی اور اس کتاب کی پیروی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہلکے لفظ قریناً وہی ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ مسلمان بیرو اور نصاریٰ کی پیروی کریں گے دیکھو نوٹ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ قریناً وہی لفظ ہیں۔ مسلمان باتوں کے ذکر سے حدیث کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں نبی صلعم اور ما جزم اور انصار رہتے تھے۔ مشاہد مشہد کی جمع ہے۔ حاضر ہونے کا مقام اور وہیں آنحضرت صلعم کی نماز گاہ اور قبر اور قبر میں اس باب میں اجماع کی طرف توجہ دلائی ہے مگر احادیث باب میں اجماع کا کوئی ذکر نہیں بلکہ زیادہ تر حدیث کی کیفیت کا ذکر ہے۔ ہلکے مکرر روایت میں کسی قدر تفصیل زیادہ ہے۔ ان اعراب یا ایچ رسول اللہ صلعم علیہ السلام فاصاب الکافر علی وعلی بالعدیۃ فی اہل صحرا علی رسول اللہ صلعم فقال یا رسول اللہ اقلنی بیعتی فابی رسول اللہ صلعم ثم جاءہ فقال اقلنی بیعتی فابی ثم جاءہ فقال اقلنی بیعتی فابی فخرج الکافر علی فقال رسول اللہ صلعم انما اللہ یدہ کا لکھو تینے خبثاً ویدصح طیباً رعنوان باب سے

(۴۳۰۰) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلٍ (مُتَكَوِّرٌ) رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۴۵۶) وَكَيْفَ حَدِيثُ ۲۲۰

(۴۳۰۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرٌ) (۲۹۶) رَوَى عَنْ ابْنِ حُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۱۹) وَكَيْفَ حَدِيثُ ۲۹۶

(۴۳۰۴) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ سَمِعَ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطْبًا عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى سَائِبُ بْنُ يَزِيدٍ رَوَى عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا سَمِعَهُ فِي يَوْمِ أُشْرُوقِ عَلِيٍّ وَرَأَى

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴۳۰۲) رَوَى عَنْ حَارِثَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۲۰) رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَرْكَزٍ نَبْرَ خَطْبِهِ وَيَوْمَ كَيْفَ حَدِيثُ ۲۰

(۱۱۱۱) (۴۳۰۶) عَنْ ابْنِ بَرْدَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۱۶۹۶) رَوَى عَنْ حُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۸۱۸) وَكَيْفَ حَدِيثُ ۱۶۹۶

(۴۳۰۸) عَنْ ابْنِ حُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۱۱) رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرٌ) (۸۱۹) وَكَيْفَ حَدِيثُ ۱۱

(۱۷) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ رَوَى عَنْ ابْنِ حُرَيْرَةَ بَابُ اشْرَعْنَا كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَتَقَرَّرْنَا فِي الْأَمْرِ (۱۷۷۰) كَيْفَ

(مُتَكَوِّرٌ) (۱۷۸۰) (۱۸) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَلْفًا شَرِيًّا جَدًّا لِقَ وَكَيْفَ حَدِيثُ ۱۷۸۰ بَابُ اشْرَعْنَا كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَتَقَرَّرْنَا فِي الْأَمْرِ (۱۷۷۰) كَيْفَ

قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجَادُوا لَوَآهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَرِّ هِيَ أَحْسَنُ رَوَى عَنْ اشْرَعْنَا كَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى وَتَقَرَّرْنَا فِي الْأَمْرِ (۱۷۷۰) كَيْفَ

عَلِيٍّ (مُتَكَوِّرٌ) (۶۱۸) مَا أَتَاكَ كَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ وَيُقَالُ الطَّارِقُ التَّجَسُّمُ وَكَيْفَ حَدِيثُ ۶۱۸ جَوْشَنُ كَيْسَ رَأَى كَوْنَهُ قَدْ طَارِقَ هُوَ كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِ طَارِقِ (مُتَكَوِّرٌ) (۶) كَيْفَ

وَالثَّائِبُ الْمُضِيُّ يُقَالُ أَنْقَبَ نَارَكَ لِلْمَوْقِدِ اِدْتَأَقَبَ رَوَى كَيْفَ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ طَارِقِ (مُتَكَوِّرٌ) (۶) كَيْفَ

ملک وہی نقد میں
رسول اللہ صلی
کے حصے کو ذکر ہے
ملک وہی نقد میں
منبر اور روش کا
ذکر ہے
ملک قریش وہی
نقد میں مسجد
بنی زین کا عرض
دیگر شاہ کا ذکر
ہے
ملک صرف یہ نقد
ہیں سمعت صحیح
علا منبر النبی
صلعم
یہ بیاں نقد
اور ہیں۔ قالت
کان یوضعی لی
ولرسول اللہ
صلعم هذا المذبح
رگن - وہاں
فرق ہے فقہ
فیہ جمیعاً کہا
گیا ہے کہ برتن
درکن، مدینہ میں
ہی پایا جاتا ہے
ملک مکر روایت

کسی قدر کی بیش سے آئی ہے۔ حالالت النبی صلعم بین الانصار وقریش فی وادی زمعان باب کا تعلق اسی سے ہے انقی بالمدینة وقت شہرا
یہ عواظ احمیاء من بنی سلیم ملک یہ مکر روایت بھی کی بیش سے آئی ہے۔ قال قدمت المدینة فلقی عی عبد اللہ بن سلام فقال لی انطلق الی
المنزل واستقیق فی قعر شرب فیہ رسول اللہ صلعم ففصل فی مسجدی فیہ النبی صلعم فانطلقت معه فسقانی سورقاً واطعنی تمراً واصلیت فی
مسجدہ عشت نظریوں میں ہے۔ حدیثی النبی صلعم قال اتالی اللیلۃ انت من ربی وهو بالعقیق ان صل فی هذا الوادی المیارک وقل عمرة وجمعة
رحقی درواية عمرة فی حجة - وادی عقیق کے لئے جس کا ذکر یہاں مشاہد النبی صلعم میں کیا ہے۔ وکیف یوثق علی صفحہ ۳۵۵ ملک خفیف انحدت علی
اور تھوڑی کمی بیشی سے دوہرایا ہے۔ وقت النبی صلعم قرنا لاهل عینہ والحجفة لاهل الشام وذا الحلیفة لاهل المدینة قال سمعت هذا من
النبی صلعم یلقین ان النبی صلعم قال ولاهل الیمن یلعلم و ذکر العراق فقال لم یکن عراقی یومئذ ملک مکر روایت فقہ ہے۔ عن النبی صلعم انه
ادی دھونی معر سہ بنی الحلیفة فقیل له انک بیطحاء مبارکة ملک اس باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلعم کو بعض لوگوں پر بدعہ کرنے
سے روک گیا تو یہ بھی اعتصام بالکتاب والسنۃ میں داخل ہے کسی کے لئے بدعہ کرنے والے یا اس پر لعنت دینی جائے ملک مکر روایت کے نظریوں میں ہے۔
انہ سمع النبی صلعم یقول فی صلوات الفیروزم رأسه من الرکوع قال اللهم ربنا وک الحمد فی الاخرة ثم قال اللهم العن خلافاً وولاها فانزل
اللہ عزوجل لیس لک من الامم شیء اویتوب علیہم اویتوبہم فانہم ظالمون ملک قریشی انہی الفاطمیں حدیث کو دوہرایا ہے ملک طریق کا
نقد جو آنحضرت صلعم کے رات کے وقت حضرت علی اور فاطمہ کے گھر جانے کے متعلق آیا ہے اسکی مناسبت قرآن کریم کے الفاظ الطارق اور التجم الخاق کی تفسیر ہے

(م-۳۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکررہ ۱۰۳) (۲۳۳) بَابُ مَنْ ذَايُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ

دیکھو حدیث ۱۰۳ ج ۱ بَابُ مَنْ ذَايُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَاسْمُ التَّكْبِيرِ التَّكْبِيرُ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْزُوعًا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ (۲۳۳) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ذَقِيقِ الرَّسُولِ كَيْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ عَطَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ رَوَاهُ

الْمُتَكَدِّرُ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخَلِّفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِلِ الدَّجَالِ قُلْتُ

عَلَيْهِ كَمَا سَمِعْتُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ التَّكْبِيرَ بِمَا كَرِهَ التَّكْبِيرَ عَطَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

مُخَلِّفُ بِاللَّهِ قَالَ لِي سَمِعْتُ حُمَرَ بْنَ جَعْفَرٍ يُخَلِّفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

أَبَى التَّكْبِيرَ قَمَّ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنْ حَمْرَةَ عَمْرُو بْنِ صَالِيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَمِعْتُمْ كَمَا سَمِعْتُمْ

يُذَكِّرُكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۲۳۴) بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِاللَّذَائِلِ وَ

كَيْفَ مَعْقُولِ الذَّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّسَ الْخَيْلِ

كَيْفَ مَعْقُولِ الذَّلَالَةِ وَتَفْسِيرِهَا وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّسَ الْخَيْلِ

وَعَلَى مَا تَمَّ سَبِيلُ عَنِ الْحَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

خَلِيفَةَ الْأَيُّرُكَ وَسَبِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

أَحْرَمًا وَأَجَلَ عَلَى مَا بَدَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَّ فَاسْتَدَلَّ

ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ (م-۳۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکررہ ۱۱۴۹)

دیکھو حدیث ۱۱۴۹ ج ۱

(م-۳۱۸) عَنْ عَائِشَةَ (متکررہ ۲۳۴)

دیکھو حدیث ۲۳۴ ج ۱

عطا توڑی سی
کی مٹی سے ڈیرا
ہے۔ قال انک
تہ صحت اہ
ابا ہریرہ یکڈ
الحمد یشعلہ رسول
اللہ صلعم واللہ
الموعدا اللہ موعدا
ہے یعنی وعدے
کا مقام مطلب یہ
ہے کہ قیامت کے
دن جیسا اللہ تعالیٰ
کے سامنے ہمز
ہونگے تو یہ گنا
کہ کیا میں نے برا
کیا ہے یا اچھا
انہی نکتہ امر
مسکینا الزم رسول
اللہ صلعم علی
من بطنی وکان
المہاجر و
یشغلہم الصغیر
بالاسواق و
کانت الامتصام
یشغلہم القيام
عنی امور الہم
فتشہدت من

رسول اللہ صلعم ذات یوم وقال من یبسط رداءه حتى اقصی مقالع ثم یقضه فلی یسلی شیئا سمعہ متقی فیسقط بروقہ کانت علی
فوالذی بعثتہ بالحق ما نیت شیئا سمعتہ منہ + ملکہ ترک انکار سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایک کام کرے یا بات کے تو دوسرا اس کو اس سے منع
نہ کرے۔ گو یا وہ اس فعل یا قول کو برا نہیں سمجھتا۔ عند ان باب کا یہ منشاء ہے کہ نبی صلعم کے ترک انکار کو حجت نہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ واقعی وہ فعل جو رسول
اللہ صلعم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا وہ ہرگز تھا لیکن غیر کے ترک انکار کو حجت نہیں سمجھا جاسکتا + ملکہ دلیل وہ چیز ہے جو مطلوب
کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور ولادت یہ ہے کہ مثلاً خاص معاملہ کا قیاس عام پر کیا جائے جیسے یہاں آگے مثال دی ہے + ملکہ یعنی آپ نے بیان
کیا کہ گھوڑوں کا خدا کی راہ میں رکھنا تو اب ہے جیسا کہ آگے حدیث باب میں آگے ہے۔ تو گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ
ذره بھر بھی کوئی عمل کرنے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا خدا کی راہ میں یا نیکی کا کام ہو تو اس کا اجر ہے۔ گناہی کو چھوٹے سے
چھوٹے کام کا بھی اس کے مطابق اجر ملے گا۔ مگر قریباً انہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے سوائے اس کے کہ آخر میں جہاں اس آدمی کا ذکر آتا ہے
جو فجر اور رات کے لئے گھوڑے رکھتا ہے تو اس میں جو لفظ و فواد اھل لاسلام میں وہ مکرر روایت میں نہیں ہیں + ملکہ خیف اختلاف لفظی
سے دوہرایا ہے۔ ان امراتہ سألت النبی صلعم عن الحیض کیف تغتسل منه قال تاخذین فوصۃ مسکۃ فوضئین بہا قالت کیفین عوضاً
بہا یا رسول اللہ قال النبی صلعم توضئین قالت کیف عوضاً بہا یا رسول اللہ قال النبی صلعم توضئین بہا قالت ما نیتہ تعرفت الذی یریدہ
رسول اللہ صلعم فجزبتہا الی فحلتمہا۔ یہاں نبی صلعم نے اس عورت کو صاف الفاظ میں نہیں بتایا بلکہ ایسی بات سے سمجھا یا جو اس کی کیفیت پر دلالت کرتی تھی +

(م-۲۳۱۹) عن ابن عباس بن مکتوب (۱۲۱۳) (م-۲۳۲۰) عن جابر بن عبد اللہ

وکیچو حدیث ۱۲۱۳

(مکتوب-۵۱۳) (م-۲۳۲۱) عن جابر بن مطعم (مکتوب-۱۶۳۷) (۲۵) باب

وکیچو حدیث ۵۱۳

قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ (۲۲۲۲)

بنی سنی اشتر علیہ وسلم کا قول

کہ اہل کتاب سے کوئی بات نہ پوچھو

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مَعَاذِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْبَدِينَةِ

محمد بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ بن عمرو سے

وَذَكَرَ كُتُبَ الْأَحْبَادِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدِقِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ

باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کتب الاحباد کا ذکر کیا تو کہا وہ تمام ان محدثین سے زیادہ سچے ہیں

يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كُنْ مَعَهُ ذَلِكَ لَيَبْلُو عَلَيْهِ الْكُذِبَ

اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں

(م-۲۳۲۲) عن ابی ہریرۃ (مکتوب-۱۸۷۶) (م-۲۳۲۳) عن ابن عباس بن

وکیچو حدیث ۱۸۷۶

(مکتوب-۱۲۵۲) (۲۶) باب كُرَاهِيَةِ الْخِلَافِ (م-۲۲۲۵) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وکیچو حدیث ۱۲۵۲

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّكَلَفْتُمْ قُلُوبَكُمْ

کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَمَوْعِدُهُ (م-۲۳۲۴) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (مکتوب-۲۲۲۵)

اور صحابہ اختلاف کرو تو اظہار کوشش ہو

علا خفیف اختلاف
لفظی سے و ہر یا
ہے۔ ان ام
حقیقت ہفت الحاد
بن حزن اہدیت
الی النبی صلعم
سمتا واقظنا و
اضیا فدعا بن
النبی صلعم فاکل
علا ما نہ تہ
ذکر کن انبی
صلعم کا معتقد
لہ و ذکر حراما
ما اکل ہلا ما نہ
ولا امر پاکھن
اس میں ولالت
سے کام لیا گیا کہ
چونکہ آپ کے
و مترخوان برگوہ
کھائی گویا اس نے
وام نہیں ہو سکتی یہ
مکر روایت
خفیف اختلاف
انفا سے آتی ہے

قال النبی صلعم من اکل ثمأا وبعلا فلیعزلنا اولیعتزل معیننا ولیقد فی بیته واته اتی بینا قال ابن وہب یعنی طیفانہ حضرات من بقول وجودہا ریحانہا فانہم یمنانہا من القول فقال قویہا فقویہا الی بعض اصحابہ کان معہ فلما رآہ کرہ اکلہا قال کل فانی انا سچی من کتابی۔ ۱۲۵۲ میں طیف کی بجائے قدر کا لفظ ہے۔ صحابی نے اس وجہ پر ان سبزیوں کا کھانا مانا پسند کیا۔ کہ رسول اللہ صلعم نے نہ پسند کیا تھا۔ تو آپ نے بھائی و بھو نوٹ ۱۲۵۲ صفحہ ۲۱۱ پر روایت خفیف کی مثنی سے آئی ہے۔ ان امراتہ ات رسول اللہ صلعم فکلمتہ فی شئی فامرہا بانہا فقالت انایت یا رسول اللہ ان لم اجعلک قال ان لم تجن بی فی خلقی ابانکت زاد المحیبت کا تھا یعنی الموت۔ اس سے حضرت ابو بکر کی خلافت پر استدلال ہو سکتا ہے۔ مگر مراد ان باتوں سے ہے جو شریعت کے متعلق ہیں اس لئے کہ اسلام کی شریعت بجائے خود کمال ہے اور پھر وہ پیل شرایع کی تاریخ بھی ہے۔ یعنی میں سبے کہ جو خیریں ایسی ہوں جن سے ہماری شریعت کی تصدیق ہوتی ہے وہ اس ہی میں داخل نہیں۔ مگر کعب ایلا صاحب یا کعب المحابر جو اپنے علم کے کلمتہ تھے بڑے بھاری بیودی عالم تھے اور اغلباً وہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حضرت عثمان کی خلافت میں مسلمانہ ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ اہل کتاب کی بہت سی روایتیں بیان کرتے تھے و حضرت معاذ بن عمرو نے کہا کہ کعب اہل کتاب کی روایتیں بیان کرنے والوں میں سب سے سچے ہیں لیکن ان کی باتوں کو بھی پرکھا جاتا تھا کہ کوئی بات خلاف واقعہ تو نہیں اس لئے کہ اہل کتاب کی اپنی روایتوں میں بہت جھوٹ ہوتا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی روایت کی تحقیق اس کے مضمون کے لحاظ سے کی جاتی تھی۔ مگر غلام ہی لفظیں۔ دیکھو نوٹ ۱۲۵۵ صفحہ ۱۰۱۔ اہل کتاب کی تصدیق کرو تو تکذیب ایک طرف ان کی کتابوں کی عزت کا سوال تھا و دوسری طرف ان کے جھوٹ کا تو بتا یا کہ تکذیب تو اس لئے ذکر و ذکر شدہ بات کتاب میں سے ہوا و تصدیق اس لئے نہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بہت مالتے تھے۔ مگر فریاد ہی لفظ ہیں۔ مگر غیروا یا بادیہم الکتاب کی جاگتے غیر وہ وکتب را بادیہم الکتاب اس میں حضرت ابن عباس نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ جس صورت میں ان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جو شریعت سے پاک ہے اور اہل کتاب نے

۴ اپنی کتاب میں تحریرت و تبدیل کر دی ہے تو پھر ان سے کیوں پوچھتے ہو مگر وہی لفظ ہیں +

۱۱۴
 میں کسی قدر تفسیل
 زیادہ ہے بقال
 لما حضرو النبی
 صلعم قال وفي
 البيت رجال
 فيهم عمر بن
 الخطاب قال
 لهم اكتب لكم
 كتابا لن تضلوا
 بعده قال عمر
 ان النبي صلعم
 عليه الوحي
 وعندك القرآن
 فحسبنا كتابا لله
 ما خلفت اهل
 البيت واخصموا
 فنهى من يقول
 قسوا ليتنا نكم
 رسول الله صلعم
 كتابا لن تضلوا
 بعده ومنهم
 من يقول ما قال
 عمر فلما اختلفوا
 اختلفوا لا اختلاف
 عند النبي صلعم
 قال قوما عتبي
 قال عبد ربه
 فكانت ابنت

(۴۵) ۲۳۲۵ عن ابن عباس (متكرد ۹۹) بابك نهي النبي صلى الله عليه وسلم
 دیکھو حدیث ۹۹

وسلم عن التجریم الا ما تعرفت باحتته وكذلك امره مخوف لهم حين اخلوا
 حوام کہنے کے لئے ہے سوائے اس کے جس کی اباحت معلوم ہوئے اور اسی طرح آپ کا امر ہے جیسے آپ کا یہ قول جس وقت

اوصیوا من النساء وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن اخلهن لهم وقالت
 مہتمتے احرام کھولا جوڑوں کے پاس جاتا اور جابر نے کہا ان پر واجب نہیں کیا البتہ ان کے لئے عورتوں کے پاس جانا ہمارا کون سا عہد

ام عوطية نهينا عن اتيان الجنازة ولم يعزم علينا (۲۳۲۶) عن جابر بن
 اور ام عطیہ نے کہا ہمیں جنازہ کے پیچھے جائیسے منع کیا گیا کیونکہ آپ نے ہم پر واجب نہیں کیا یعنی جنازہ کے پیچھے جانا حرام نہیں ٹھہرایا

عبد الله (متكرد ۸۵) (۲۳۲۷) عن عبد الله المزني (موت كرت ۶۵)
 دیکھو حدیث ۸۵

(۲۸) باب قول الله تعالى و امرهم شورى بينهم و شاورهم في الامر و ان
 باب شاورهم شورى بينهم و شاورهم في الامر و ان

المشاوره قبل العزم والتبين لقوله فاذا عزم
 کرو آل عمران (۱۵۸۰) اور مشورہ عزم اور بات کے عاف ہونے سے پہلے ہے اللہ کے اس قول کی وجہ سے جب عزم کرو تو اظہر قول

الن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لشورى التقدم على الله و سواره النبي
 کرو آل عمران (۱۵۸۰) میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو کسی انسان کو اظہر اور اس کے رسول سے آگے براہے لاحق نہیں

صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم اجد في مقام والخروج فراو الله الخروج
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اُحد کے دن (دیکھیے کہ) اُحدہ کو اور باہر نکل کر اُحد کے مقام میں مشورہ کیا تو انہوں نے

فلما لبس لاهنه وعزم قالوا اقمن فلم يبدل اليهم بعد العزم وقال لا ينبغي
 آپ کو باہر نکلنے کی رائے ویں جس جب آپ نے تورہ پہنچی اور عزم کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ روہیے ہیں) قیام فرمائیے تو عزم کے بعد ان کی

النبي يلبس لاهنه فيضعها حتى يحكم الله و شاور عليا واسامة و يمارى اهل
 بات نہ مانی اور فرمایا کہ نبی کو یہ شایاں نہیں کہ وہ اپنی تورہ پہنے پھر اسے اتارے ہاں تک کہ اللہ فیصلہ نہ کرے پھر اور آپ نے حضرت

الارفاك عائشة فسرر منها حتى نزل القرآن فحكوا الرابين ولم يلقه من الرابين
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور وہ رسول آپ کے شایاں تک کہ قرآن اتارے آپ نے الزام کو قبول کر لیا اور اسے گولہ لگا دیا اور اس کے من ماری اور اللہ تعالیٰ

عبارس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلعم وبين ان يكتب لهم فلك ان كتاب من اختلفوا فيهم واظنهم . دیکھو نوٹ
 ۲۵ صفحہ ۲۵ مطبوعہ میں جس طرح آپ کی نبی کیلئے حرمت کے لئے ہے سوائے اس کے کہ اس کی اباحت ثابت ہو اسی طرح آپ کا امر اس کے جواز کے
 لئے ہے جیسے اصیوا من النساء میں جس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ عورتوں کے پاس جانا جائز ہے . مطبوعہ مکرر روایت کی جی بیشی سے
 آئی ہے . قال اهلنا اصحاب رسول الله صلعم في الحجر قالوا ليس معه عورة قال عطاء قال جابر تقدم النبي صلعم صبح و اربعة مضت
 من ذي الحجة فلما قدمنا امرنا النبي صلعم ان نكحل وقال اصحابنا و اصحابنا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن
 اخلين لهم فبقية انا نقول لما لم يكن بيننا وبين عورة الا خمس اموان نكحل الى ثائنا فتأني عورة تقطرها اكون المذرى
 قال ويقول جابر صبيده فلما نكحها رسول الله صلعم فقال من علمتم اني اتعاقم الله واصداقكم اذ كنتم لولا اهدى صلحت كما تقولون فخلوا فلو
 استقبلت من امرى ما استبروت ما اهديت فخلنا و سمعنا و اطعنا ما كنا نلفظ بلسانك من . مطبوعہ جنگ اھد میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو پیشے
 کے اندر کھڑے نہ تھے لیکن کثرت انھی نبی کو باہر نکلنے کے حق میں تھے تو آپ نے کثرت کی روئے کو مان لیا حالانکہ آپ کو تو یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ
 لہذا یہ مخوف مقام ہے ہاں جب مشورہ کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکل کر جنگ کرنا ہے تو یقیناً لاکر میں سے کچھ لوگ معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس گئے کہ انھوں نے

۱۱۴
 میں کسی قدر تفسیل
 زیادہ ہے بقال
 لما حضرو النبی
 صلعم قال وفي
 البيت رجال
 فيهم عمر بن
 الخطاب قال
 لهم اكتب لكم
 كتابا لن تضلوا
 بعده قال عمر
 ان النبي صلعم
 عليه الوحي
 وعندك القرآن
 فحسبنا كتابا لله
 ما خلفت اهل
 البيت واخصموا
 فنهى من يقول
 قسوا ليتنا نكم
 رسول الله صلعم
 كتابا لن تضلوا
 بعده ومنهم
 من يقول ما قال
 عمر فلما اختلفوا
 اختلفوا لا اختلاف
 عند النبي صلعم
 قال قوما عتبي
 قال عبد ربه
 فكانت ابنت

وَلَكِنْ حُكْمُهَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَتْ الْأُمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لیکن اس کے مطابق فیصلہ دیا جواسلئے آپ کو حکم دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا

بادشاہ اہل علم میں سے امانت داروں سے مساجح کاموں میں مشورہ لیتے تھے تاکہ ان میں سے جو آسان ہر اس پر عمل کریں۔

يَأْسَهُلَهَا فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ الشَّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِقْدَاءُ بِالنَّبِيِّ

اگر جب کتاب اللہ اور سنت در رسول کا حکم صاف ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اس سے کسی دوسری

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ سَمِعْتُكَ

فرط دجانتے تھے اور حضرت ابو بکر کی رائے نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑنے کی تھی تو حضرت عمر نے کہا آپ ابو بکر

تَقَاتِلُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

ان سے لڑتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حکم دہاں ہے کہ لوگوں سے لڑوں

حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَخَصَّوْا إِيَّايَ وَمَاءَهُمْ

یاں تک کہ وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں جب وہ لالہ لہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو میرے مدینے ان کے خون اور ان کے مال

وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا قَاتِلَ مِنْ فِرْقٍ بَيْنَ مَا جَعَلَهُ

مخالفہوں کے سوائے اس کے کہ ان پر کوئی حق ثابت ہو تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں فروری ان سے لڑوں گا جو ان چیزوں

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عَمْرٍو فَكَيْفَ يَلْتَفِتُ أَبُو بَكْرٍ

میں فرقی کریں گے جنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا رکھا ہے علیہم اس کے بعد حضرت عمر ان کے ہم خیال ہو گئے ہیں حضرت

إِلَى مَشُورَةٍ رَأَى أَنَّ عِنْدَكَ حُكْمٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ابو بکر نے مشورہ کی فرط التفات دیکھا جب ان کے پاس ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا

الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا التَّبْدِيلَ الَّذِينَ وَأَحْكَامُهُ

جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے تھے اور دین اور اس کے احکام بدلنے کا ارادہ کرتے تھے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرْآنُ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین تبدیل کرے تو اسے قتل کرو اور قرآن کا حکم رکھو

أَصْحَابُ مَشُورَةٍ مَوْكُوفًا كَانُوا أَفْ شَيْبَانًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وہ حضرت عمر کے اہل مشورہ تھے خواہ اور حیلہ مروا لے ہوں خواہ جو ان اور حضرت عمر کتاب اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہرتے تھے

(م-۳۲۸) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۲۹) (م-۳۳۰) عَنْ عَائِشَةَ (م-۳۳۱) (م-۳۳۲)

دیکھو حدیث ۳۲۸ م ۳۲۹ م ۳۳۰ م ۳۳۱ م ۳۳۲ م

ہے۔ قالت ودعا رسول الله صلعم بطل بن ابي طالب واسامة بن زيد حين استلبث النبي يسألهم ما هو يستشيرهم في فراق أهله فأمأ اسامة فالتفاز

بالذي يعلم من راءة أهله وما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرا ووسل الجارية تصدقات فقال هل رأيت من شيء يريد فأت

ما رأيت أمر الذين انما جارية حدیثہ السن تمام عن عیین اهلها فأتی الذابین فتاکله فقام علی المنبر فقال یا معشر المسلمین من

یعذر فی من رجیل بلغنی اذا فی اهلی والله ما علمت علی اهل الا حیلہ فذکر رابعه عائشه عسکریا علی ۳۳۱ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے اور پھر اس پر کچھ لڑھاکا بھی ہے نظر میں ہے ان رسول اللہ صلعم منضب الناس محمد الله وانفی علیہ وقال ما تشبهون علی قوم یستون

اهل ما علمت علیهم من سوء تط وحق عروہ قال لما اخبرت عائشه بالامر قالت یا رسول الله اتأذن لی ان اطلق الی اهلی فاذن لها فارسل معها الغلام وقال رجیل من الانصاء وسبها نك ما یكون انان ان تکلم بهذا اسبأ نك هذا اجمتان عظیم

کتاب السنۃ کے بارے میں
پڑھنے والوں کے
خلاف کبھی جگ
نہیں کیا گیا نہ رسول
اللہ صلعم نے ان
کے خلاف ارطانی
کی نہ کسی ضلیف نے
اور یہ لوگ زکوٰۃ
کے منکر بھی نہ تھے
بلکہ اپنی جگہ زکوٰۃ
کو خرچ کرنا چاہتے
تھے تو معلوم ہوتا
ہے روایت میں
کچھ غلطی ہوئی جو
اصل و درجہ جنگ کی
یہ تھی کہ زکوٰۃ اسلامی
حکومت کا ٹیکس
بھی تھا اور ٹیکس
کی ادائیگی کے انکار
کی وجہ سے حضرت
ابو بکر کو ان کے
ساتھ لڑانی کرنی
پڑی ہے
اس پر مفصل
بحث گذر چکی -
دیکھو نوٹ ۱۷
صفحہ ۱۲۸۲
۳۳۱ م روایت ہے
یہاں صرف اس کا
ایک حصہ بیان کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتابوں کے نام سے

پارہ بارہم

اشرفیے شمارہ والے

۹۸۔ کتاب التَّوْحِيدِ

توحید کی کتاب

(۱) بَابٌ مَّا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ

باب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت

تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَمَدَانِ ۲۳۳۰ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۳۳۱) رَمَدَانِ ۲۳۳۱ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ

ہجرت کے پہلے میں آیا ہے دیکھو حدیث ۶۲۷۷

مُحَاذِبِ بْنِ جَبَلٍ (مَرْتَبَةً ۱۳۲۰) رَمَدَانِ ۲۳۳۲ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۱۹۹۷)

دیکھو حدیث ۱۳۲۰ دیکھو حدیث ۱۹۹۷

(۲) ۲۲۷۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَوْتِيَّةَ وَكَانَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستہ کے ساتھ بنا کر بھیجا

يَقْرَأُ لَا ضَعْفًا فِي صَلَاتِهِ فَيُخْتَمُ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ

اور وہ اپنے ساتھیوں کے لئے اپنی نماز میں قرأت پڑھتا تھا تو اسے حواشیا احد سے نعم کرتا تھا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لَا تِي شَيْءٌ يُصْنَعُ ذَلِكَ فَمَا لَوْهَ فَقَالَ لَا تِي

اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ سے فرمایا اس سے پوچھو کہ اس سے کیا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے

صِفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِجُوهُ

کہ اس کے کہ رحمن کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس سے پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکل دو

أَنَّ اللَّهَ يُحْيِيهِ (۳) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَ الرَّحْمَنِ

کہ اللہ اسے جنت میں لے گا باب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول

آيَاتُهُمْ تَتَوَفَّوْنَ أَهْلَ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنِ رَمَدَانِ ۲۳۳۳ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۳۳۷)

جس کو پکارو تو اسے توحید پر نام دینے میں امر میں آئی دیکھو حدیث ۶۲۷۷

(۴) رَمَدَانِ ۲۳۳۲ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۷۸۹) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۷۸۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول

يَعْلَمُ قُلُوبَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَمَدَانِ ۲۳۳۳ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۷۸۹) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۲۷۸۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول

يَعْلَمُ قُلُوبَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَمَدَانِ ۲۳۳۳ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۷۸۹) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۲۷۸۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول

يَعْلَمُ قُلُوبَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَمَدَانِ ۲۳۳۳ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۷۸۹) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۲۷۸۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول

يَعْلَمُ قُلُوبَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَمَدَانِ ۲۳۳۳ حَیْرِ بْنِ عَبَّاسٍ (مَرْتَبَةً ۲۷۸۹) بَابٌ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۲۷۸۹ باب اللہ تعالیٰ کا قول

ہلکے مکر روایت
کچھ زیادت سے
آورد خفیف اختلاف
نقلی سے آئی ہے
لم یثبت التبع
صلح معاذ الخو
الیمین قال له
انك تقدم على
قوم من اهل
الکتاب فلیکن
اول ما تدعوهم
الی ان یوحوا
اللہ تعالیٰ فاذا
عرفوا ذلك
فاخبرهم ان
اللہ فرض علیهم
تسع صلوات
فی يومهم و
لیلتهم فاذا صلوا
فاخبرهم ان
اللہ افترض علیهم
زکاة فی الاموال
تؤخذ من غنمهم
فتدعوا علی
تقدیرهم فاذا
اقرؤوا بذلك
فخاضعوا لذلک
کراکم اموال
الناس
ہلکے مکر روایت
اختصار سے آئی

بے۔ قال قال النبی صلعم یا معاذ ان تدری ما حق اللہ علی العباد قال قال اللہ ورسوله اعلم قال ان یعباده ولا یشکوا به شینا ان تدری ما حقہم علیہ قال اللہ ورسوله اعلم قال ان لا یؤمن بہم + قبل ۱۹۹۷ کی پہلی روایت کو رکعت القرآن تک، انہی الفاظ میں دوہرایا ہے + ۱۹۹۷ میں ایک انصاری کا ذکر ہے جو اپنی قرأت کو قائل ہوا اللہ احد سے شروع کرتا تھا۔ اور دریافت کیا گیا تو کہا میں اس میں توحید رکھتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات آ یا خدا و دخل الجنة ہدیہ میں انھوں نے کہا میں رسول اللہ صلعم اللہ علیہ وسلم کا ایڑیاں رکھتا ہوں من کلایرجم الناس + حضرت نے اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔ قال کننا عند النبی صلعم اللہ علیہ وسلم اذ جماد رسول اکرم نبیہ یبعث الی بنی اقلس قال النبی صلعم ارجعوا بنی اقلس ان اللہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باطل من یمضی عنہا فلتنصروا لحنسب قلم اراہت الرسول انہا اقسام ثانیہا اقسام النبی صلعم و قام معہ سعد بن عبادہ و وہ یجادین حیل فذم الصبی الیہ ونفسہ تدعقہم کما تھا فی شت فغاضت عینا فقال لہ رسول اللہ قال حقہم جعلہا اللہ فی قلوب عبادہ وانہا ایرجم اللہ من عبادہ العجماء +

لَكَ ذِيكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالَهُ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَزَّيْكَ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ

تیرے لئے یہ ہے اور اس کا دس گنا اور بھی اور ایوب علیہ السلام نے کہا تیری عورت کی قسم میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں

(۲۴۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعَرْشِكَ

ابن عباس سے روایت ہے کہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں تیری عورت کی پناہ مانگتا ہوں

الَّذِي كَلَّمَكَ الرَّالَا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْأَنْسُ يَمُوتُونَ (م- ۲۴۴)

وہ کہتے ہوئے کوئی موجود نہیں وہ کہ اس پر موت بھی نہیں آسکتی اور جن اور انسان مر جائیں گے

أَيْتُهُ (ممتکون- ۱۹۶۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

دیکھو حدیث ۱۹۶۲ باب اللہ تعالیٰ کا قول اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو

وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ (م- ۲۳۴۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ممتکون- ۲۱۳) بَابُ

حق کے ساتھ پیدا کیا دیکھو حدیث ۲۱۳ باب

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ سنیے والا دیکھنے والا ہے زانسا- ۱۳۴ اور عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْإِصْمَاتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

انہوں نے کہا اس اللہ کی حمد ہے جس کا سننا سب کی آوازوں کو شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّبِيِّ تَحْدَاكَ فِي زَوْجِهِ (م- ۲۳۴۲) عَنْ أَبِي مَرْثَمَةَ

اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے غاڈ کے بارے میں جھگڑتی تھی (والجملہ- ۱)

(ممتکون- ۱۳۶۹) (م- ۲۳۴۳) عَنْ ابْنِ بَكْرٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ (ممتکون- ۵۰۳) (م- ۲۳۴۴)

دیکھو حدیث ۱۳۶۹ دیکھو حدیث ۵۰۳

عَنْ عَائِشَةَ (ممتکون- ۱۲۶۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

دیکھو حدیث ۱۲۶۲ باب اللہ تعالیٰ کا قول کہ تو کو وہ قدرت والا ہے (الانعام- ۶۵)

(م- ۲۳۴۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ (ممتکون- ۶۴۴)

دیکھو حدیث ۶۴۴

لها خلقا فليسكتمهم فمن الجنة رحمتك التي رطحي بوني بكر من... كذا خيفت اخذت من دوہرایا ہے۔ قال كان النبي صلعم يدعون من الليل... ومن فيهن لك الحمد انت ذوالا ارض لك الحمد انت رب السموات والارض... اسلمت ذيك انت وعديك توكلت واليك انت وبك خاصمت واليك حاكت فاخف لي ما قدمت وما اخوت واسبرت واعلنت... كود وبرا كچه مضمون رطحا ہے قال كناعم النبي صلعم في سفر قنتا اذا اخونا كبرنا فقال اربوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا عافيا تدعون... قوماك وما ردتوا عليك... هذا الا من اتاه من اس کے بعد بڑھا یا ہے۔ ثم تسميه بعينه

۱۲۴۴ مکرر روایت
کچھ اختلاف
الفاتحے اور کچھ
زیادت کے ساتھ
آئی ہے عن النبي
صلعم قال لا
يزال يلقى فيها
وتقول هل من
مزيد حتى يضع
فيها رب العالمين
دوب العالمين کا
لفظ ۱۹۶۲ میں
نہیں ہے اقدمہ
اس کے لئے کچھ
قرط یا صلی اللہ
فی زوی رمت
جائے گی بعضہا
لی بعض شتم
تقول قد قد
اس کے بعد کے
لفظ اور رحمت والا
حدیث ۱۹۶۲ میں
نہیں ہیں بلونک
تو رکھ دکاتنے
لجنة بفضل
پر رطھی ہے گی
حتی یشتقی الله

رقبہ صفحہ ۵۸۸
 ارسل کلابی
 ارسلت کلابا
 المعلمة و ذکرہ
 اسم اللہ نامسک
 نقل و اذاعت
 بالمعانی فخر
 نقل - آخری فقرہ
 و اذاعت سے
 مہر میں تیس
 علیاں لفظوں
 ہیں - قالت
 قالوا یا رسول اللہ
 ان ہذا اقوام
 حدیثا عبدہم
 یشک یا توفا
 بلجان کا ذکر
 بیادوں اسم
 اللہ علیہا
 لا قال اذ کو
 انتم اسم اللہ
 و کلاب

(م- ۳۳۵۶) ابن عمر (ممتکرم ۱۲۵۰) (۱۲) باب ما یدکر فی ذات التوحید
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰

وَأَسْرَحِي لِلَّهِ وَقَالَ خَبِيبٌ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلوهِ قَدْ كَرَّ الذَّاتِ بِاسْمِهِ تَعَالَى
 میں بیان کیا جاتا ہے اور خبیب نے کہا اور یہ اشترکی ذات کے بارہ میں آیا ہے تو انہوں نے ذات کا ذکر کیا

(م- ۳۳۵۷) ابن عمر (ممتکرم ۱۲۵۰) (۱۵) باب قول الله تعالى و
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰

يُحَدِّثُكَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ تَعَالَى مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
 اللہ کو کہنے آئے ہیں اور اسے (آل عمران - ۲۸) اور اللہ جل ذکرہ کا قول تو جانتا ہے جو میری دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تو مخفی رکھتا ہے

(م- ۳۳۵۸) ابن عمر (ممتکرم ۱۲۵۰) (۱۹) باب قول الله تعالى
 دیکھو حدیث ۱۲۵۰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عَبْدُ طَيْنٍ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعْرُوفٌ إِذَا ذَكَرْتَنِي فَإِنَّ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِهِ
 فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس میں خود مجھ پر رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جسے مجھے یاد کرنا ہی گروہ چھو لینے دل میں

ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأَ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ
 یاد کرے تو میری کوئی شے نہیں ہے تو میں بھی لیے مخفی رنگ میں یاد کرتا ہوں اور گروہ چھو جا عمت میں یاد کرے تو میں اس کا ذکر ایسی صورت میں کرتا ہوں

بِشَأْنٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِأَعَادَارِ أَنْ تَأْتِي
 بالشت تھر قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ کے برابر اس طرف قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ہاتھ کے برابر میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں وہاں اس کے قریب

بخط ۳۳۵۷ کا صرف آخری حصہ دوہرایا ہے۔ ضحیٰ النبی صلعم بکبشیں، سستی و یکدیگر، قرینا انی الفاظ میں: وہر ایسا ہے (صفحہ ۵۸۸) لفظ
 یوں ہیں: قال قال النبی صلعم لا تخلعوا بائناک و من کان حالفا فلیحلف باللہ - اس میں اسم کا لفظ نہیں ہے لفظ ۳۳۵۷ لمی حدیث ہے۔

اس کے کچھ حصوں سے یہاں کچھ دوہرایا ہے: قال بعث رسول الله صلعم عشرة منهم خبيبة الانصاري فاخبرني عبيد الله بن عياض
 ان ابنة الحارث استقرت عليهم حين اجتمعوا استعان منها موسى يستحقها قلت اخبروا من اللحم ليقولوا قال خبيبة الانصاري
 ابالي حين اقبلت علينا على اى شق كان الله مصححي و ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو منزع و
 کے لئے نفس کا استعمال یہاں اور دوسرے موقعوں پر بھی ہوتا ہے جیسے کتب علی نفسه الرحمة والا نعام ۱۲۰ واصطنعتك لنفسی
 (ط- ۱۴) اور اشترک نفس سے مراد اشترکی ذات ہے تو یا اس کا نفس وہ خود ہی ہے۔ مفردات راغب میں بھی ہے نفسه ذاتہ و علم یہاں
 لفظ یوں ہیں: عن النبی صلعم قال ما من احد اظلم من الله من اجل ذلك حرم الفواض وما احدا حب اليه المدح من الله اشترکی
 غیرت اور اس کی پسندیدگی محمد کے متعلق و یکھو نوٹ ص ۱۰۸۶ اس کے لفظ یہ ہیں: عن النبی صلعم قال لما خلق الله الخلق كتب
 فی کتابہ ہو یکتب علی نفسه وهو وضع عنده على العرش ان وصحتی تغلب غضبی و ملا انا عبد طین عبدی بی - یعنی جیسا میرا بندہ مجھ پر گمان رکھتا ہے
 ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اس چھوٹے سے فقرہ میں انسانوں کیلئے اپنی رحمت کا نہایت وسیع دروازہ کھولا ہے۔ جو انسان خدا کے متعلق
 یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ نے انتہا رحم کا مالک ہے اور اسے بخش دے گا۔ یہی وہ گمان ہے جو ایک مسلمان کے دل میں خدا کی ذات کے متعلق پیدا کیا گیا ہے
 لا تقنطوا من رحمة الله - کالتیسوا من ریحہم اللہ - مگر جن مذاہب نے خدا کے متعلق غن پیدا کیا ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا ان کے ساتھ معاملہ
 بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لئے کہ اولی الذکر ایک نیک رستہ پر پڑ گئے اور خدا کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ اور مؤخر الذکر ایک قطار سے پڑ گئے اور خدا کے غضب
 مستحق ہو گئے۔ پس اس چھوٹے سے فقرہ میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی وسعت مغفرت کے متعلق نہایت اچھا گمان رکھیں۔ یہ
 صحیح ہے کہ ایمان کے لئے سیم و درجاء و دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ مگر یہاں سمجھایا ہے کہ درجاء کا پیدا غالب رہنا چاہئے جس طرح اوپر کی حدیث میں گذرا
 وصحتی تغلب غضبی - سو جس طرح خدا کی ذات میں رحمت غضب پر غالب ہے بندے میں رحاء و سیم پر غالب رہنی چاہئے

اور اس سے پہلے اور اس کے بعد

(۴۳۰۰-۴۳۰۱) بَابُ قَوْلِ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ شَهَادَةً

دیکھو حدیث ۲۳۴۹ ۲۳۴۹ باب کہ کونسی چیز شہادت کے لحاظ سے زیادہ ہے

وَسَمِعَ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا قَوْلَ اللَّهِ وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ شَيْئًا

پس اللہ نے اپنی ذات کو کچھ سے سوسوم کیا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کچھ سے سوسوم کیا

وَهُوَ صِفَةٌ مِّنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ مَوْلَى هَٰذَا كِرَامًا دَجْرَةً (۴۳۰۱-۴۳۰۲)

اور وہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور فرمایا ہر ایک چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲) بَابُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ رَبُّ

دیکھو حدیث ۱۱۹ ۱۱۹ باب اور اس کا عرش پانی پر ہے (ص ۱۱۰) اور وہ بڑے عرش

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ أَرْتَفَعُ فَسَوَّاهُنَّ

والا رب ہے والنہ متر ۱۲۷ اسے ابوالعالیہ نے کہا استوی الی السماویر البقرة ۲۹ بند ہوا ملے فسواہن ان کو پیدا کیا

خَلَقْنَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَجِيدُ الْكَرِيمُ

اور مجاہد نے کہا استوی علی العرش والاعراف ۵۸ علا یعنی غالب ہوا اور ابن عباس نے کہا المجید بڑے کریم

وَالْوُدُودُ الْحَبِيبُ يُقَالُ حَمِيدٌ حَمِيدٌ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِّنْ مَا جَرَدَ مُحَمَّدٌ مِّنْ حَمْدٍ

والا اور دودو محبوب کہا جاتا ہے حمید مجید گو یا کہ وہ ماجد سے فعیل کے وزن پر ہے اور محمود حمد سے ہے

(۴۳۰۲-۴۳۰۳) عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۲۳۳) (۴۳۰۳-۴۳۰۴)

دیکھو حدیث ۴۱۱ ۴۱۱

أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۹۲۸) (۲۲۲۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ

دیکھو حدیث ۱۹۲۸ ۱۹۲۸ اس سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ شکایت کرتے ہوئے

يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ لَقِيَ اللَّهُ وَأَمْسَكَ عَلَيْكَ رُوحَكَ

اللہ کا تقوی کرو اور اپنی نبی کو اپنے پاس روک رکھو یعنی طلاق نہ دو

۲۳۴۹ کو
انہی الفاظ میں ہے
کراس پر کچھ مفروض
بڑھا یا ہے جس کا
کچھ حصہ ہے
۱۹۱
میں گذر چکا پوری
روایت یہاں یوں
ہے:- قال سعد
بن عبادۃ لیس
رایت رسولہام
امرانی لقصوتہ
بالسبع غیث
مصقم فیلئم
ذک رسول اللہ
صلعم فقال
تعجبین من
غیرۃ سعد اللہ
الا ناغیر منہ
واللہ اغیر منی
راس کے بعد کا
مضمون یہ ہے
ومن اجل غیث
اللہ حرم الفواحش
ما ظہر منہا وہا

وما بطن ولا احب اليه العز من الله ومن اجل ذلك بعث المبعوثين ولذئذ من ولا احد احب اليه المرص من الله ومن اجل ذلك دعا الله الخفة
ملے یہاں لفظ یوں ہیں:- قال النبی صلعم لوجہ امونک من القرآن شیء قال نعم سورة کذا وسورة کذا وسورة کذا السور معماها ما معافوات راغب میں ہے کہ عرش میں
مسقت چیز کو کہا جاتا ہے اور تخت یعنی بادشاہ کے بیٹھے کی جگہ کو عرش اس کے ہو کے کی جگہ سے کہا جاتا ہے اور اس کو غلبہ اور سلطان اور مملکت بھی کہا جاتا ہے اور پھر لکھتے
ہیں کہ اللہ کا عرش ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو کوئی بشر نہیں جانتا اور جو ہر امان اس کو ہم ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عرش میں اللہ تعالیٰ کو اٹھا نیوالا
ہوتا حالانکہ وہ اس سے پاک ہے اور پھر لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک ذوالعرش وغیرہ میں عرش سے مراد اس کی مملکت اور اس کا غلبہ ہے
اس کے ٹھرنے کی جگہ۔ پس عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے پانی پر ہونے کی تشریح خود قرآن کریم کے ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ جعلنا
من العاء کل شیء منی۔ اس پر فصل بحث نوٹ ۳۲ صفحہ ۳۳ و ۳۳ میں گذر چکی ہے۔ ملکہ استوی کے معنی یہاں ارتفع کئے ہیں مگر اس سے مراد
بھی یہی لی جا سکتی ہے کہ بندی کی طرف متوجہ ہونا۔ ملکہ خفیف اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے:- قال انی عند النبی صلعم اذ جاءہ قوم منی
تیم فقال اقبلوا البشیری یا بنی تیم قالوا ایشرتنا فاعطنا فاحل ناس من اهل الیمن فقال اقبلوا البشیری یا اهل الیمن اذ لم یقبلها منو تبیم
قالوا قبلنا جئناک لتنتفخ فی الدین ولینا انک عن اول هذا الامرا کان قال کان الله ولم یکن شیء قبله وكان عرشه علی العاء ثم خلق
السموات والارض وکتب فی الذکر کل شیء ثم اتانی وحیل فقال یا عمر ان ادرک نافتک فقد ذهبت فانطلقت اطلبها فاذا السواب ينقطع
دونها وایم الله لو درت انها قد ذهبت ولم اقمہ ملک پہلا جملہ چھوڑ کر خفیف اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے:- عن النبی صلعم قال ان یمن
دوایا یہ ہے) اللہ ملائی لا یعیضها لغوۃ سماء اللیل والنهار اریقہا النفق من خلق السموات والارض فانہ لم ینقض ما فی
یمنینہ وعرشہ علی العاء وسیدۃ الاخری ویاں نہیں ہے) النقیض او القیض (اس کی بجائے وہاں المیزان ہے) یرفع ویخفض
لکے یہ شکایت ان کی سخت کلامی کی تھی۔ ملکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت تک رسول اللہ صلعم زید کو طلاق سے روکتے رہے۔

قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُمَا شَيْئًا لَكُمْ هَذَا
 حضرت عائشہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپا تو اسے ہوسے تو فرسوا سے چھپتے۔
 قَالَ فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخِرُ عَلَىٰ آذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوْجِي كُن
 کہا حضرت زینب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کرتی تھیں۔
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَزَوْجِي لِلَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ (۵۲-۴۷) عَنِ زَيْنَبِ ر
 تمہارے گھر والوں نے فرمایا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے فرمایا۔
 (متکو: ۱۵۵۱) (۵۵-۴۷) عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ (متکو: ۱۹۵۳) (۵۲-۴۷) عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي
 دیکھو حدیث ۱۹۵۳-۱۹۵۴ دیکھو حدیث ۱۹۵۳-۱۹۵۴
 هُرَيْرَةَ (متکو: ۱۲۴۵) (۵۵-۴۷) عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکو: ۱۲۸۷) (۵۲-۴۸) (۴۳-۴۸)
 دیکھو حدیث ۱۲۴۵ دیکھو حدیث ۱۲۸۷
 عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متکو: ۱۲۴۷) (۵۹-۴۹) عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي ذَرٍّ (متکو: ۱۹۲۵) (۵۲-۴۸)
 دیکھو حدیث ۱۲۴۷ دیکھو حدیث ۱۹۲۵
 عَنْ أَبِي رَثِيمٍ (متکو: ۲۲۸۰) (۵۱-۴۸) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ (متکو: ۱۰۷۹) (۵۲-۴۸)
 دیکھو حدیث ۲۲۸۰ دیکھو حدیث ۱۰۷۹
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متکو: ۱۱۵۶) (۵۲-۴۸) بَابُ وَقِيلَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ
 دیکھو حدیث ۱۱۵۶ بَابُ وَقِيلَ لِلَّهِ تَعَالَىٰ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

۱۔ کیونکہ اس میں یہ ذکر ہے تھنشی الناس آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ مگر لوگوں سے ڈرنے کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اس کا وجہ سے لوگ انتہا میں نہ پڑیں۔ کیونکہ زید کو لوگ آپ کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے حالانکہ نبوت اسلام نہ سوائے سہیل بنے کے دوسرے کو نہیں کہا گیا۔

۱۔ اللہ کے نکاح کرانے سے مراد ہے کہ اس میں کوئی انسانی تحریک نہ تھی بلکہ منشاء آئی ایسا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے اس میں تقریباً وہی لفظ ہے۔ ۱۹۵۳-۴۷ کی روایت اختصار سے یہاں ایک دو فقروں میں دوہرا لکھ دیا گیا ہے۔ لفظ یوں ہیں: یقول نزلت آية الحجاب فی زینب بنت جحش واطعم علیہا وامنہا خبزاً ولحمًا واداس کے بعد کا حصہ ۱۹۵۴ میں نہیں ہے۔ دو کانت تفخر علی آذانہ علیٰ سائر النبی صلعم وکانت تقول ان اللہ انکحنی فی السماء۔ یہاں لفظ یہ ہیں: عن النبی صلعم قال ان اللہ لما خلق الخلق کتب عندہ فرق عرشہ ان رھقی سبقت غضبی۔ لفظ قال محمد سے پہلے یہ حدیث کو انہی الفاظ میں دوہرایا ہے سوائے اس کے کہ جابھدا فی سبیل اللہ کی جگہ جابھدا فی سبیل اللہ ہے اور نبی الناس کی جگہ نبی الناس ہے اس کے آخر پر اعلیٰ الجنت کے بعد آتا ہے و فوقہ عرش الرحمن۔ رحمان کا عرش اس سے بھی اوپر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکومت وہاں بھی نافذ ہے لہذا خفیت اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ قتال دخلت المسجد ورسول اللہ صلعم جالس فلما غربت الشمس قال یا ابا ذر هل تدری آیت تنہب ہذا قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فانهما تنہب تستاذن فی السجود فیؤذن لہما وکانہما قیل لہما ارحمی من حیث جنت فقط من مغربہا ثم قرأ ذلک مستقر لہانی قرآءة عبد اللہ ما اس میں عرش کا ذکر نہیں مگر ۱۲۴۵ میں ہے تنہب حتی تسجد تحت العرش۔ سوچ کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت جلتا ہے۔ اور مسخر ہے۔ لہذا مکرر روایت بہت مختصر ہے قال ورسول اللہ او یکر فتبعت القرآن حتی وجدت احدہما و التویة معی الا انضاری لم اجدا ہما مع احد غیرہ لعد جا ذکر رسول من انفسک حتی انا خاتمة براءة۔ آیت کے آخری الفاظ رب العرش العظیم ہیں اور یہی مناسبت باب سے ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال کان النبی صلعم یقول عند الکرب لا اللہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الا اللہ رب العرش العظیم لا الا اللہ رب السموات ورب الارض رب العرش الکربیم۔ لہذا مکرر روایت مختصر ہے عن النبی صلعم قال النبی صلعم یصعقون یوم القیامۃ فاذا انا بعموسی اخذ بقائمة من قوائم العرش۔ یہاں عرش کے قائم رہنے کے لئے ہے کہ وہی سبب نہیں اسلئے اسکی طرف چڑھنے کی اعانت تشریف ہے اور یہاں تو ذکر بھی ملا لکن اور شرح کے چڑھنے کا ہے جو ہم نہیں اسلئے ان کا شرح بھی جسمانی نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے وہی اللہ الیدیں لوگوں کو کیوں ٹھکر گئی ہے۔ خدا کی طرف رفیع یا خدا کی طرف پر ہٹنا بھی جسمانی رنگ میں نہیں ہو سکتا۔ خدا کسی اونچے مقام پر بیٹھا ہوا نہیں جس لوگوں کا رفیع ہو جاتا ہے۔ یا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے انی ذابہم

۱۔ اللہ کے نکاح کرانے سے مراد ہے کہ اس میں کوئی انسانی تحریک نہ تھی بلکہ منشاء آئی ایسا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے اس میں تقریباً وہی لفظ ہے۔ ۱۹۵۳-۴۷ کی روایت اختصار سے یہاں ایک دو فقروں میں دوہرا لکھ دیا گیا ہے۔ لفظ یوں ہیں: یقول نزلت آية الحجاب فی زینب بنت جحش واطعم علیہا وامنہا خبزاً ولحمًا واداس کے بعد کا حصہ ۱۹۵۴ میں نہیں ہے۔ دو کانت تفخر علی آذانہ علیٰ سائر النبی صلعم وکانت تقول ان اللہ انکحنی فی السماء۔ یہاں لفظ یہ ہیں: عن النبی صلعم قال ان اللہ لما خلق الخلق کتب عندہ فرق عرشہ ان رھقی سبقت غضبی۔ لفظ قال محمد سے پہلے یہ حدیث کو انہی الفاظ میں دوہرایا ہے سوائے اس کے کہ جابھدا فی سبیل اللہ کی جگہ جابھدا فی سبیل اللہ ہے اور نبی الناس کی جگہ نبی الناس ہے اس کے آخر پر اعلیٰ الجنت کے بعد آتا ہے و فوقہ عرش الرحمن۔ رحمان کا عرش اس سے بھی اوپر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکومت وہاں بھی نافذ ہے لہذا خفیت اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔ قتال دخلت المسجد ورسول اللہ صلعم جالس فلما غربت الشمس قال یا ابا ذر هل تدری آیت تنہب ہذا قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فانهما تنہب تستاذن فی السجود فیؤذن لہما وکانہما قیل لہما ارحمی من حیث جنت فقط من مغربہا ثم قرأ ذلک مستقر لہانی قرآءة عبد اللہ ما اس میں عرش کا ذکر نہیں مگر ۱۲۴۵ میں ہے تنہب حتی تسجد تحت العرش۔ سوچ کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت جلتا ہے۔ اور مسخر ہے۔ لہذا مکرر روایت بہت مختصر ہے قال ورسول اللہ او یکر فتبعت القرآن حتی وجدت احدہما و التویة معی الا انضاری لم اجدا ہما مع احد غیرہ لعد جا ذکر رسول من انفسک حتی انا خاتمة براءة۔ آیت کے آخری الفاظ رب العرش العظیم ہیں اور یہی مناسبت باب سے ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال کان النبی صلعم یقول عند الکرب لا اللہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الا اللہ رب العرش العظیم لا الا اللہ رب السموات ورب الارض رب العرش الکربیم۔ لہذا مکرر روایت مختصر ہے عن النبی صلعم قال النبی صلعم یصعقون یوم القیامۃ فاذا انا بعموسی اخذ بقائمة من قوائم العرش۔ یہاں عرش کے قائم رہنے کے لئے ہے کہ وہی سبب نہیں اسلئے اسکی طرف چڑھنے کی اعانت تشریف ہے اور یہاں تو ذکر بھی ملا لکن اور شرح کے چڑھنے کا ہے جو ہم نہیں اسلئے ان کا شرح بھی جسمانی نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے وہی اللہ الیدیں لوگوں کو کیوں ٹھکر گئی ہے۔ خدا کی طرف رفیع یا خدا کی طرف پر ہٹنا بھی جسمانی رنگ میں نہیں ہو سکتا۔ خدا کسی اونچے مقام پر بیٹھا ہوا نہیں جس لوگوں کا رفیع ہو جاتا ہے۔ یا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے انی ذابہم

اس کا بھی رنگ بھی ہے یعنی وہ ایک روحانی کیفیت ہے یہ مطلب نہیں کہ اوپر سے نیچے کوئی آواز آتی ہے۔

دَقَوْلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ يُصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَقَالَ أَبُو جَرْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلَغَ	اور اللہ جل ذکرہ کا قول اسی کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں (بخاری ۱۰) اور ابو جرمہ نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا
أَبَا ذَرٍّ مَبْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا ضِيَاءَ إِلَّا عَلَى عِلْمِ هَذَا الرَّجُلِ لَدُنِّي	ابو ذر گویا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اپنے بھائی سے کہا میرے لئے اس شخص کی بچان کا علم حاصل کر
يُرْسِمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلِمَ	جو کتاب ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اور جی ہدے لگا نیک عمل پاک کلموں کو بلند کرتا ہے۔
الطَّيِّبِ يُقَالُ ذِي الْمَعَارِجِ الْمَلَائِكَةُ تَعْرِجُ إِلَى اللَّهِ رَمَ - (۲۳۸۳) عَنْ أَبِي	کہا جاتا ہے کہ ذی المعارج سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں
هَرِيرَةَ رَمَ (متكرد - ۲۳۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَ (متكرد - ۲۳۸۵) (م - ۲۳۸۵)	دیکھو حدیث ۲۳۸۴ دیکھو حدیث ۲۳۸۵
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (متكرد - ۲۳۸۲) (م - ۲۳۸۴) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَمَ (متكرد - ۱۵۱۱)	دیکھو حدیث ۲۳۸۲ دیکھو حدیث ۱۵۱۱
(م - ۲۳۸۴) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (متكرد - ۱۲۲۷) (م - ۲۳۸۴) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَعَلَ يُؤْمِنُ	دیکھو حدیث ۱۲۲۷ باب اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے اس میں ترو تازہ
تَأْخُذُ إِلَى رَبِّهَا نَازِطَةٌ (م - ۲۳۸۸) عَنْ جَرِيرَةَ (متكرد - ۳۶۹) (م - ۲۳۸۹)	ہونگے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں ان کے رافضیہ ۲۳۸۸ دیکھو حدیث ۳۶۹
عَنْ جَرِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَمَ (متكرد - ۳۶۹) (م - ۲۳۸۹) عَنْ جَرِيرَةَ (متكرد - ۳۶۹)	دیکھو حدیث ۳۶۹ دیکھو حدیث ۳۶۹

ملق قریباً انھی الفاظ میں حدیث کو روایت کیا ہے۔ ملائکہ اللیل والنہار کے خدا کی طرف چڑھتے کہا ذکر ہے۔ ملق قریباً انھی الفاظ میں دوہرایا ہے ولا یقیل اللہ الا الطیب کی جگہ ہے دیکھو حدیث ۱۵۱۱ دیکھو حدیث ۲۳۸۲ دیکھو حدیث ۲۳۸۴ دیکھو حدیث ۲۳۸۵ دیکھو حدیث ۱۲۲۷ دیکھو حدیث ۳۶۹

ہوتا ہے کہ دعائیں بھی خدا کی طرف چڑھتی ہیں اور وہ انہیں سنتا اور ان کے دکھوں کو دور کرتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا عنوان باب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں لفظ یوں ہیں: ان نبی اللہ صلعم کان بدعوہن عند الکوب لا الہ الا اللہ العظیم الخلیفہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات و رب العرش لکوسیم۔ ملق حدیث کو قریباً انھی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ شارحین نے کہا ہے کہ اس حدیث کا بھی عنوان باب سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ اس حدیث میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے۔ یقرؤن القرآن کا لہا و نضاحہم۔ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ اترا بھی عنوان باب کے عروج کی طرح ایک روحانی امر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ الفاظ قرآنی بعض لوگوں کے گلوں کے نیچے اتر جاتے ہیں اور بعض کے نہیں اترتے بلکہ مراد یہ ہے کہ بعض جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے اور بعض پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ان کے دلوں پر کچھ نہیں ہوتا گویا لفظ گلے سے نیچے نہیں اترتے۔ مگر روایت مختصر ہے: یقال سالت النبی صلعم عن قوله والشمس تجری لمدقر لہا قال مستقر ہا تحت العرش۔ باب عروج الملائکہ والروح کا اصل منشا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجسم اور جہت سے پاک ہے اس لئے اس کی طرف عروج سے مراد کوئی جہت لین درست نہیں۔ اور اس حدیث کو کہ عروج کا مستقر تحت العرش ہے۔ اس باب میں لاکر یہ بتایا ہے کہ خدا کا عرش بھی کسی خاص جہت میں نہیں۔ اور عام خیال کی کہ عرش سات آسمانوں کے اوپر کی باندی پر کوئی چیز ہے تردید کی ہے اور حقیقت وہی ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا کہ عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے جو زمین پر اور آسمان پر ہر جگہ حاوی ہے جس طرح اس کا علم سب پر حاوی ہے و سحر کہ علیہ السموات والارض اور عرش کے نیچے آفاک فروب ہوتا ہی ہے کہ اسی کے مقررہ قانون کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ملا اس باب میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا ذکر ہے اور عنوان باب ہی اس آیت کو رکھا ہے کہ اس دوسری زندگی میں جس کا ظہور کامل قیامت کے دن ہو گا۔ کچھ لوگ یعنی یومینی جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے روحانی صفائی حاصل کر چکے ہیں اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وہ تپیں پیدا کرنے کا جن سے وہ چیزیں جو ان جہانی آنکھوں کے ساتھ نہیں بھیجی جاسکتیں نظر آنے لگیں گی۔ مگر روایت میں پچھلا حصہ جو ضم قدر سے شروع ہوتا ہے چھوڑ دیا ہے اور پچھلے حصے میں یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ لیلیۃ البدنی دیکھو نوٹ ملکتا ہے۔ مگر روایت بہت مختصر ہے۔ وقال النبی صلعم انکم سترون ربکم عیاناً یعنی اپنے رب کو کھل کھلا دیکھو گے۔ مگر یہاں بھی اختصار سے کام لیا ہے، وخرج علینا رسول اللہ صلعم لیلیۃ اللیل وقال انکم سترون

(۳۹۱) عن ابی ہریرۃ (۳۹۳) (۳۹۲) عن ابی سعید الخدری (۳۹۴) متکرم

دیجھو حدیث ۳۹۳

دیجھو حدیث ۳۹۴

کے مکمل روایت کے ساتھ
کو ضعیف اختلاف ہے
لفظی اور تخفیف کے ساتھ

کئی پیشی سے اور اس کے پچھلے حصہ کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نری دنیا یوم القیامۃ رعونان باب کا تعلق
اسی حصہ سے ہے۔ فقال رسول اللہ صلعم هل تضارون فی القمور لیلۃ البدن لیس دونہ صحابہ جھوڑو یا سہما قالوا لا یا رسول اللہ قال نھل
تضارون فی الشمس لیس دونہا صحابہ قالوا لا یا رسول اللہ قال فانکر ترونہ کذا لک یجمع اللہ الناس یوم القیامۃ فیقول من کان یعبدا
سینا فلیتبعہ فیتبع من کان یعبدا الشمس الشمس یتبع من کان یعبدا القمور یتبع من کان یعبدا انطاغیت الطواغیت وبقی ہزہ
الا مۃ فیہا سنا فعوہا روہ بلند مرتبہ لوگ جو عام بوسین کی شفا عت کریں گے اور منافقوہا روہاں یہ شک نہیں اور منافقوہا ہے) شک ابراہیم
فیاتہم اللہ فیقول اناریکہ فیقولون ہذا امکا ناحتی یا تینارینا فاذا حیاہ نارینا عرفناہ فیاتہم اللہ فی صورہ اللہ یتعرفون ریر لفظ فی
صورہ اللہ یتعرفون وہاں نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف رنگوں میں ظاہر ہوں گی، فیقول
اناریکہ فیقولون انت ربنا فیتبعوہ ویضرب الصراط بین ظہری جہنم فاکون انا وامتی اقل من یحیزہا ولا ینکلمہ یومئذ الا الارسل و
دعوی الرسل یومئذ اللہم سلم سلم و فی جہنم کلاب مثل شوك السعدان هل رأیتہم السعدان قالوا نعم یا رسول اللہ قال فانہما مثل
شوك السعدان غیرانہ لا یعلم ما قدر عظمہا الا اللہ تحطت الناس باعمالہم فمنہم المومنین بجلد المومنین بجلد المومنین بجلد و منہم المخزول
او المجازی او غوغہ ثم یتبع علی الحق اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد (یہ جملہ یہاں زائد ہے اس کا اصل مقام آگے ہے) وازاد ان یخرج
برحمۃ من اراد من اهل النار لامل لملکة ان یخرجوا من النار من کان لا یشک باللہ شیئا من اراد اللہ ان یرحمہ من یشہد ان لا اللہ
الا اللہ فیخرجہم فی النار یا اثر السجود تاكل النار من ادم الا اثر السجود حرم اللہ علی النار ان تاكل اثر السجود فیخرجون من النار و
امت حشوا فیصیب علیہم ماء الحیاة فینبتون تحتہ کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد ویتقی رجل عقول
بوجہہ علی النار ہوا اخر اهل النار و دخلا الجنة فیقول ای رب اسوف و صبی عن النار فانه قد قضی فی ریحہا و احرق فی ذکا و ہا فیدعو اللہ
بما شاء ان یرعوہ ثم یقول اللہ هل عسیت ان اعطیت ذلک ان تسالی غیرہ فیقول لا و عزتک لا اسالك غیرہ ویطربہ من عہود و
مواتیق ما شاء فیصون اللہ و وجہہ عن النار فاذا اقبل علی الجنة وراہا سکت ما شاء اللہ ان ینسکت ثم یقول ای رب قد مضی الی باب
الجنة راس کے بعد کے حصہ میں یہاں تفصیل زیادہ ہے) فیقول اللہ لہ الست قد اعطیت عہودک و مواتیق ان لا تسالی غیر الذی اعطیت ابرا
ویک یا ابن ادم ما اعذرک فیقول ای رب ویدعوا حتی یقول هل عسیت ان اعطیت ذلک ان تسال غیرہ فیقول لا و عزتک لا اسالك
غیرہ ویعطی ما شاء من عہود و مواتیق فیقصد الی باب الجنة فاذا قام الی باب الجنة انقہت و کھل جائے گی اور پھیل جائے گی لہ الجنة
فرای ما فیہا من الحبۃ و السی و فیسکت ما شاء اللہ ان ینسکت ثم یقول ای رب او دخلت الجنة فیقول اللہ الست قد اعطیت عہودک و
مواتیق ان لا تسال غیرہ اعطیت فیقول ویک یا ابن ادم ما اعذرک فیقول ای رب ویک اكون اشقی خنقک فلا يزال یرعوت حتى یصلک
اللہ منہ فاذا ضحك منہ قال لہ ادخل الجنة فاذا دخلها قال اللہ لہ تنفہ فسال ربہ و تمنی حتی ان اللہ لیدکرہ یقول کذا و کذا حق
انقطعت بہ الا ما فی قال اللہ ذلک لک و مثله معہ قال عطاء بن یزید و ابوسعید الخدری مع ابی ہریرۃ لا یرد علیہ من حدیثہ شیئا
حتى اذا حدث ابو ہریرۃ ان اللہ تبارک و تعالیٰ قال ذلک لک و مثله معہ قال ابوسعید الخدری و عشقوا امثالہ معہ یا ہریرۃ قال ہریرۃ ما حفظت
الا قولہ ذلک لک و مثله معہ قال ابوسعید الخدری نے شہد انی حفظت من رسول اللہ صلعم قولہ ذلک لک و عشقوا امثالہ قال ابو ہریرۃ ذلک لک لعل
اخر اهل الجنة و دخلا الجنة * * * * * مکمل روایت بہت اختصار سے آئی ہے۔

سمعا مناد یا ینادی الیہ کل قوم بما کانوا یعبدون و انما ننظر ربنا قال فیاتہم الجبار فیقول اناریکہ فیقولون انت ربانی و ربنا

(۴۳۹۶-۴۳۹۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَمَتَكَ

وَكَيْفَ حَدِيثٌ ۴۳۹۶

(۴۳۹۸-۴۳۹۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمَتَكَ

وَكَيْفَ حَدِيثٌ ۴۳۹۸

(۴۳۹۹-۴۴۰۰) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَمَتَكَ (۲۵) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

وَكَيْفَ حَدِيثٌ ۴۳۹۹

تَعَالَى إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ہیں آیا ہے بیگناہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے (الاعراف - ۵۶)

رقبہ صفحہ ۱۵۹۳
فاذا رايته وقعت
ساجد اقيده عني
ما اشار الله ان
يدعني ثم يقول
ارفع محمد وقل
يسمع واشفع
تشفع وقل
تعط قال فارفع
راسي فاشفي

عَلَى رُبِّ بَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يَعْلَمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ اشْفَعُ فِيهِ حَتَّى يَحْدَا فَاخْرُجُ فَاَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَاخْرُجُ فَاخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اعْوَدُ النَّاسُ ثَلَاثَةً فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رُبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَاذْأَرِيهِ وَقَعْتُ سَاجِدًا أَيْدِي عَنِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرِي عَنِّي ثُمَّ يَقُولُ ارْضِعْ مَعْدًا وَقُلْ يَسْمَعُ وَاشْفَعُ تَشْفَعُ وَرَسُولٌ قَالُ فَاخْرُجُ فَاخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَادْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَوْ دَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ إِنْ كَانَتْ كَرِيحِي حَدِيثٌ فِي كَذْرِبِكَ كَمَا كَرِهَ الْأَنْبِيَاءُ وَأَرْمَنُونَ كَيْ شَفَاعَتِكَ بَعْدَ بُلُوغِكَ رَهْ جَائِزٌ كَيْ اسْتَدْعَى تَعَالَى الْخُودِ انْتِنِ نِكَالٌ وَيَكُنْ قَالُ ثُمَّ تَلَاهُهَا الْأَيَّةُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ وَبِكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالُ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ بِنَيْتِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَرَّرُوا بِتِ نَمِيْتٍ مَحْمُودٍ - إِنْ رَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَدَّعَهُمْ فِي قَبْرِهِ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْخَوْضِ وَالْمَلَأُ خَفِيفٌ كَمَا بَشَّرْتَنِي بِهِ - قَالَ كَانَتْ لِي صَلَاحَةٌ إِذَا تَجَمَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ تَقِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَرَبُّكَ الْحَمْدُ أَنْتَ تَقِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَرَبُّكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ اسْمُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاعْقِلْ مَا قَدْ هَمَّتُ وَمَا خَرْتُ وَاسْتَوَيْتُ وَاعْلَمْتُ وَمَا أَنْتَ بِمَنْفِي كَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ طَاوُسٍ قِيَامُ وَقَالَ لِي بِهَذَا الْقِيَمِ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدْ أَمَرَ الْقِيَامُ وَكُلَاهُمَا مَدْحٌ - يَعْنِي قِيَامُ أَوْ قِيَمٌ وَدُونَ ذَلِكَ لَفْظٌ فِيهِ - (صَحِيحٌ هَذَا) ۴۳۹۶ كَمَا هَمَّتُ أَيْ كَمَا هَمَّتُ وَوَهْرِيَابِي قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَكُرُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدْعُوهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ - ۴۳۹۷ إِنِّي الْفَاطِمِيَّةُ وَوَهْرِيَابِي - اس میں بھی اپنے رب کی طرف دیکھنے کا ذکر ہے۔ البتہ اس میں ہے کہ رواد الکبر ورمیان میں جوگی سواں کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے لحاظ سے اے ایسے طور سے کوئی نہیں دیکھ سکتا جس طرح نظر ایک چیز کا احاطہ کرتی ہے، ۴۳۹۸ خفیف اختلاف لفظی سے وہر یا ہے ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقطم مال امرئ مسلم بيمينه كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره ان الذين يشتركون بهدي الله وايما هم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الاية - عنوان باب كالتعلق بقاء الله سے ہے، ۴۳۹۹ خفیف اختلاف سے وہر یا ہے، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم دعوانا بائس اعتراف اسی سے ہی، رجل حلف على سبعة اقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطم بها مال امرئ مسلم ورجل مع فضله ما يقول الله يوم القيامة اليوم امتعتك فضلا كما منعت فضلا ما لم تعمل بينك وبينك - اس پر بڑھا ہے، جو ۲۶ کے قریب قریب ہے۔ لفظ یوں میں، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة من يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات نحو الفعدة رذ والحجة والحرم ورجب مضمون الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسئله بغير اسمه قال اليس البسلة قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسئله بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم قال محمد احسبه قال و اعراضكم عليكم حرام كومة يوم كرهذا في بلادكم هذا في شهر كرهذا او ستلقون ربكم فيسألونكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعن ضللا لا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليلغة الشاهد الغائب فلعل بعض من يبذلها ان يكون او عني من بعض من سمعه وكان محمدا اذا ذكروه قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الاهل بلغت الاهل بلغت +

(۴۷-۱-۲۷۷۰) عَنْ أُسَامَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۴۸۹-۲۷۷۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۹۴۵)

دیکھو حدیث ۶۸۹ ص ۱۷۹
دیکھو حدیث ۱۹۴۵ ص ۱۷۹
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ

دیکھو حدیث ۲۳۵ ص ۱۷۹
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ
يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا (۲۷۷۰-۲۷۷۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (مُتَكَوِّرًا) (۱۹۵۵)

دیکھو حدیث ۱۹۵۵ ص ۱۷۹
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَهَا مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ
بَابُ جَوَاسِمِ نَوَافِسِ دَعْوَاهُ فِي تَخْلِيْقِهَا وَغَيْرِهَا مِنْهَا فِي آيَاتِهِ

فَعَلَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرًا فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلُهُ وَأَمْرٌ وَكَلَامٌ هُوَ
الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا فَعَلَ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ وَأَمْرٌ هُوَ كَمَا فَعَلَ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ

الْخَالِقِ هُوَ الْمُمْكِنُ غَيْرُ الْمَخْلُوقِ وَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ وَأَمْرٌ وَتَخْلِيْقُهُ وَتَكْوِينُهُ
بِوَجْهِهِ كَمَا فَعَلَ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ وَأَمْرٌ هُوَ كَمَا فَعَلَ فِي سَائِرِ آيَاتِهِ

هُوَ مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكُونٌ (۲۷۷۰-۲۷۷۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۰۲)
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْرَهَا مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ

نہایت خفیف اختلاف
لفظی سے دوہرا یا
ہے۔ قال کان
ابن بعض
نبات النبیہ صلعم
یقضہ در رہا تھا
یا نزع کی حالت
میں تھا، فارسلت
الیہ ان یا تہا
فارسل ان للہ
ما اخذ ولہ ما
اعطی وکل الی
اجل مستغنی
ولتحتسب قارلت
الیہ فاضمت
لا علیہ فقام
رسول اللہ صلعم

وقت معہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و عبادۃ بن الصامت فلما دخلنا نادوا رسول اللہ صلعم الصبیہ و نفسه تعقل فی صدرہ
حبیبہ قال کانہا شنبہ فیکے رسول اللہ صلعم فقال سعد بن عبادۃ اتبکی فقال انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء عنون باب کان تعقل
آخری الفاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور جس دہی میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے لیے حصہ قریباً
انہی الفاظ میں دوہرا ہے مگر پچھلے حصہ میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے۔ عن النبیہ صلعم قال اختمت الجنة و النار الی رہا فقالت الجنة یا
رب مالہا لا یدخلہا الا نساء و قالت النار یعنی او ثرت یا تکبرین فقال اللہ تعالیٰ للجنة انت رحمتی راس کے بعد کا
فقہہ ارحم بک من انما من عبادی چھوڑ دیا ہے) و قال للنار انت عذابی اصیب بک من اشد و لکی و احدۃ منکما منکما ملوہا قال فاما
الجنة فان اللہ لا یظلم من خلقہ احداً و ہاں یہ فقرہ نازکے ذکر میں آخری ہے اور جنت کے متعلق وہاں ہے فان اللہ یشئ لہا خلقاً و انہ یشئ
للنار من یشئ فیلقون فیہا فقول هل من مزید ثلاثاً حتی یضع فیہا قدمہ فتمتلی و یردہ بعضہا الی بعض و تقول قط قط قطہا ملک ہاں
لفظ یوں ہیں۔ عن النبیہ صلعم قال لیصیبن اقواماً سفح من النار ین ذاب اصابہا عقوبۃ ثم یدخلہم اللہ الجنة بفضل رحمہ یقال
لہم الجہنمیون۔ یہاں اللہ کی اپنی رحمت کے فضل سے دوزخیوں کے و ذرخ سے نکال دینے کا ذکر ہے تو اس کا تعلق عنون باب سے صرف اس
قدر ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہاں ذکر ہے، لکن خفیف اختلاف لفظی سے دوہرا ہے البتہ یہاں تصدیقاً بقول الحدیث والحمد للہ جوڑ دیا ہے۔ اس
بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض راوی کا خیال ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔ قال جاء سعید الی رسول اللہ صلعم فقال یا محمد ان اللہ یضع السماء علی
اصبع و الارض علی اصبع و الجبال علی اصبع و الشجر و الاثمار علی اصبع و سائر الخلق علی اصبع ثم یقول بیئہ انا الملک فضیک رسول
اللہ صلعم و قال و ما قدر و اللہ حق قدرہ ۱۷۹ عنون باب اس زمانہ کے خاص علی جملوں کے متعلق ہے یا خصوص اس امر کے کہ کلام مخلوق ہے
یا غیر مخلوق۔ آسمان اور زمین وغیرہ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے فعل اور اس کے حکم اور اس کے کلام سے ہے۔ فاعل یا فاعل اللہ ہے اور فعل یا کلام
اس کی صفت ہے اور مخلوق مفعول ہے۔ امام بخاری نے فعل میں اور اس نصل سے جو بنے اس میں فرق کیا ہے فعل فاعل کی صفت ہے اور جس طرح فاعل
غیر مخلوق ہے اس کی صفت بھی غیر مخلوق ہے۔ اور مفعول ہاں یعنی الفاعل مخلوق ہے۔ کلام کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے میں تین گروہ ہیں۔ یعنی معتزلہ
خوارج و جمعیہ بخاریہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ فاعل کلام ہے اس کے کلام مخلوق ہے۔ عامہ علماء کا یہ قول ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت
ہے اور غیر مخلوق ہے اور تیسرے گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس بات سے تو قن کرتے ہیں اور نہ اسے مخلوق کہتے ہیں نہ غیر مخلوق یعنی۔ باب قول اللہ
تعالیٰ و ما تنفعہ الشفاعۃ ۱۷۹ لکن قن اختلاف الفاظ سے دوہرا ہے۔ قال بت فی بیت مہینۃ لیلۃ و النبیہ صلعم عذہا لانا نظر کیف
صلوات رسول اللہ صلعم باللیل فقن رسول اللہ صلعم مع اہلہ ساعة ثم ورن فلما کان ثلث اللیل الاخر و بعضہ قن فنظر الی اللہ
فقن ان فی خلق السموات و الارض الی قولہ لاولی الالباب (عنون باب سے تعلق اسی آیت کا ہے) ثم قام متوضاً و استن ثم

صلیٰ احدى عشرة ركعة ثم اذن بلال بالصلوة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى لنا الصبح

(م- ۲۲۱۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۶۲۱) (م- ۲۲۱۵) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مُتَكَوِّرًا)

۱۰۹ (۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلَّمْتُ بِهِ رَبِّي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدًّا لَكَلَّمْتُ بِهِ رَبِّي

۱۰۹ باب قول الله تعالی کا قول کہہ اگر سمندر میرے رکے کلمات کہنے سیاہی بن جائے آخر آیت تک

۱۰۹ (۱۰۹) اور اللہ کا قول اور اگر جو درخت زمین میں ہیں سب قوم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو اس کے بعد

بعده سبعة اجرام انفدت كلمات الله ان الله عز وجل حكيم وقوله ان ربكم الله

سات سمندر اس کی سیاہی بڑھا تو یہ ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوئے اللہ عزوجل حکیم اور اللہ کا قول ہے شک تھا

الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش الى قوله رب ان الله

تبارك الله رب العالمين سحر ذليل (م- ۲۲۱۶) عن ابي هريرة (م- ۲۲۱۷) (۳۳) باب

تبارك اللہ رب العالمین تک راعراعت (۳۳) سحر ذلیل اور اللہ کا قول ہے

في المشيئة والارادة وقول الله تعالى تو تولى الملك من تشاء وطاعة لمن تشاء الله

مشیت اور ارادہ (الہی) کے ہائے میں ملکہ اور اللہ تعالیٰ کا قول تو حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تم نہیں چاہتے

وقول الله ولا تقولن لشيء ائني فاعل ذلك خدا الا ان يشاء الله انك لا تهدي من

اس کے کہ اللہ چاہے (الہ) اور اللہ کا قول اور کسی چیز کے متعلق ہرگز نہ کہو اس سے کہی کہ نرانا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ چاہے

احببت ولكن الله يهدي من يشاء قال سعيد بن المسيب عن ابيه نزلت في اوطار

(۲۴) تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہے تو پندرہ برس تک اللہ چاہتا ہے ہدایت دے (واقفص ۲۸) سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت

يؤيد الله يكرم اليسر ولا يزيد يكرم العسر (م- ۲۲۱۷) عن ابن مسعود (م- ۲۲۱۸)

اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا (البقرہ ۱۸۵) دیکھو حدیث ۲۲۱۷

(م- ۲۲۱۸) عن علي بن ابي طالب (م- ۲۲۱۹) (۶۱۸) (م- ۲۲۲۰) عن عبد الله بن مسعود (م- ۲۲۲۱)

دیکھو حدیث ۲۲۱۸ دیکھو حدیث ۲۲۲۰ دیکھو حدیث ۲۲۲۱

عبارت میں صرف ایک کلمہ دوہرایا ہے۔۔۔ قال قلت للنبی صلعم علی مسیلمة فی اصحابہ فقال لوسالنتی ہذا القطعة ما اعطیتکمھا ولان قد و امر اللہ فیک رعونان باب کا تعلق اسی سے ہے ولان ادبرت لبعقرتک اللہ علی قریب النی الفاظ میں دوہرایا ہے البتہ آخر میں یہ لفظ چھوڑ دیے ہیں۔ فقمت خلفا اخی حنہ۔ اور آخر پر بڑھایا ہے۔۔۔ قال الا عشی لھنکا فی قرآنا۔ اشارہ دھا تو امر اللہ کی طرف سے ہے لفظ ظلم ۲۲۱۰ کے قریب قریب ہیں + اللہ ہشینیۃ اللہ کی طرف منسوب

دیکھو حدیث ۲۲۱۴ دیکھو حدیث ۲۲۱۵ دیکھو حدیث ۲۲۱۶ دیکھو حدیث ۲۲۱۷ دیکھو حدیث ۲۲۱۸ دیکھو حدیث ۲۲۱۹ دیکھو حدیث ۲۲۲۰ دیکھو حدیث ۲۲۲۱

ہو تو کسی چیز کو جو وہ میں لانے کا نام ہے اور انسان کی مشیت ارادہ ہی ہے۔۔۔ یہ قریب ہی لفظ ہیں۔ فلیرجم المسئلۃ کی جگہ ہے فاعرضوا فی الدعاء یوں دعا کرنے سے منع کیا ہے اللہم ان شئت اعطنی اس لئے کہ خدا چاہے گا یہی تو دے گا۔۔۔ قریب ہی الفاظ میں حدیث کو دوہرایا ہے۔۔۔ عنوان باب سے تعلق حضرت علی کے اس جواب کا ہے فاذا اشار ان بیعتنا بعثنا اسے آپ نے ناپسند کیا کیونکہ انسان اس طرح اپنی سستی اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں جگانے وہ تو چاہتا ہے کہ انسان اٹھے اور اسے پکائے۔۔۔ یہ کم خفیف اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔۔۔ ان رسول اللہ صلعم قال مثل المؤمن کمثل حمامة الزبور یعنی ورقہ من حیرت اتھا الریح ذکرتھا فاذا سکت اعتدات وکانک المؤمن یکنھا بالبلاد ومثل الکافر کمثل الارذفۃ صماء معتدۃ حتی یقصھا اللہ اذا اشار رعونان باب کا تعلق اسی سے ہے۔۔۔ یہ کم خفیف اختلاف نقلی سے دوہرایا ہے۔۔۔ سمعت رسول اللہ صلعم یقول علی المنبر انما یقول کفر فیما سکت قبلكم من الامم کما بین صلاۃ العصور الی غروب الشمس اعطی اهل التوراة التوراة فعملوا بها حتی انتصفت النہار ثم حزنوا فاعطوا قیرا طاقا قیرا طاقا ثم اعطی اهل الانجیل الانجیل فعملوا بہ حیث صلاۃ العصور ثم حزنوا فاعطوا قیرا طاقا قیرا طاقا ثم اعطی اهل التوراة التوراة فعملوا بہ حتی غروب الشمس فاعطیت قیرا طاقا قیرا طاقا قال اهل التوراة دناھا کلا اقل عملا واکثر حجرا قال اهل ظلمتکم من اجرکم من شیء قالوا لا فذک قال غنا اللہ فضلہ اذ ینہ من اشاء

(م-۲۲۲۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (مُتَكَوِّرًا) (م-۲۲۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	دیکھو حدیث ۱۷۱۱
(مُتَكَوِّرًا) (۱۲۹۷) (م-۲۲۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۶۱۹) (م-۲۲۲۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	دیکھو حدیث ۱۲۹۷
تَبَادُؤُهُ (مُتَكَوِّرًا) (۳۹۱) (م-۲۲۲۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۱۵۶) (م-۲۲۲۶)	دیکھو حدیث ۳۹۱
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۱۹) (م-۲۲۲۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۷۱)	دیکھو حدیث ۲۲۱۹
(م-۲۲۲۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۱۶۳۷) (م-۲۲۲۹) عَنْ أَبِي مُوسَى (مُتَكَوِّرًا) (۷۶۷)	دیکھو حدیث ۱۶۳۷
(م-۲۲۳۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوِّرًا) (۲۲۸۰) (م-۲۲۳۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (مُتَكَوِّرًا) (۱۰۷)	دیکھو حدیث ۲۲۸۰

بے ضعف نہ تھا
 غفلت سے پہلے
 ہے۔ یہ کہنا باہت
 رسول اللہ صلعم
 فی رھط فقال
 ابابکر علی ان
 لا تشوکوا باللہ
 شیئا ولا تشرفوا
 ولا تزفوا ولا
 تعقدوا اولادکم
 ولا تاتوا بیہتان
 تغارتونہ بین
 ایدی یکمہ ارجلکم
 ولا تعصونی فی
 ما امرتکم بہ

معدود قسم

وفی متکثر فاجر علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فاحذر بہ فی الدنیا فاقولہ کفارۃ و طہور ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ ان شاء عد بہ وان شاء غفر لہ (عنوان باب کا تعلق انہی الفاظ سے ہے)۔ ۱۷۱۱ میں لفظ یوں ہیں :- ان بنی اللہ سلیمان علیہ السلام کان لہ ستون امراتہ (۱۲۹۷) میں تم تسعون ہے) فقال لا طوفن اللیلة علی سائی فلتحملن کل امراتہ وتکدن فارسا یقاتل فی سبیل اللہ ریحہ فقہرہ وقال لہ صاحبہ قبل ان قال اللہ ندم یقل یمان چھوڑ دی ہے، فطاف علی سائہ فنادت منہن الا امراتہ وکدت شق غلام قال نبی اللہ صلعم لو کان سلیمان استثنیٰ راشارا لکن کنتے۔ اسی سے عنوان باب کا تعلق ہے) لحدلت کل امراتہ منہن فوکدت فارسا یقاتل فی سبیل اللہ۔ نوٹ ۱۷۱۱ صفحہ ۶۸۸ اشارت الی کتبہ کی ہے کرتا انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احساس پڑا میں ہے اس کا مطلب میں کہ جو انسان انشاء اللہ کرتا ہے وہ جو کچھ کہے ہو بھی جاتا ہے اس بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کی طرف توجہ دلائے کے لئے انسان کے بڑے بڑے جرائم کو بے نتیجہ کر دیتا ہے اور جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا احساس ہے اس کے لئے بعض ناممکن کاموں کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ۱۷۱۱ میں کسی قدر اختصار کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلعم فعل علی اعرابی یعودہ فقال لا یاس علیک طہور ان شاء اللہ (عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے) قال قال الاعرابی طہور بل ہی صحی تغور علی شیئہ کبیر تویرہ القہور قال النبی صلعم فنعلم اذ ۱۷۱۱ کہ روایت مختصر ہے۔ حین نامر عن الصلاة قال النبی صلعم ان اللہ قبض ارواحکم حین شاور و ذہا حین شاور (عنوان باب کا تعلق اسی سے ہے) فقضوا حواضہم وتوضوا الی ان طلعت الشمس و ابيضت فقام فصلی ۱۷۱۱ بضعین فی سبیل اللہ وہم یابا ہے۔ قال استب رجل من المسلمین و رجل من الیہود فقال المسلم والذی اصطفیٰ محمد علی العالمین فی قمہ یقسم بہ فقال الیہودی والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین فرجع المسلم ین کا عند ذلک فلفظ الیہودی فیہا الیہودی الی رسول اللہ صلعم تاخبر بالذکر کان من امرہ و امر المسلم فقال النبی صلعم لا تخیرونی علی موسیٰ فان الناس یصعقون یوم القیامۃ و اکون اول من یبقی فاذا موسیٰ باطش بجانہ العرش فلا ادری اکان فہم صعق فاقان قبلی او کان من استثنیٰ اللہ ۱۷۱۱ آخری الفاظ میں استثنیٰ اللہ میں اشارہ آیت قرآنی کی طرف ہے فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ والزمہ۔ ۱۷۱۱ انہی آخری الفاظ کا تعلق عنوان باب سے ہے ۱۷۱۱ وہی لفظ میں ۱۷۱۱ کے قرینا وہی لفظ میں گر ان شاء اللہ کا جملہ بڑھایا ہے۔ قال رسول اللہ صلعم لكل نبی دعوة فارید ان شاء اللہ ان احدثی دعوتی شفاعۃ لا ہتی یوم القیامۃ ۱۷۱۱ بضعین اختلفت الفاظ سے وہاں ہے۔ قال رسول اللہ صلعم بینا انا نائم و ایتی علی قلبی فذعت ما شاء اللہ ان اذع ثم اخذها بن ابی قحافة فذبح ذنوبا اود ذوبان وفی نزاعہ صنعت واللہ یقر لہ ثم اخذها محررا ستیالت فرکنا فلم اوعیقرتا ما انا فی یفری قرینہ حتی ضوی الناس حوله بعضن ۱۷۱۱ وہی لفظ میں ۱۷۱۱ میں لفظ یوں ہیں۔ عن النبی صلعم قال لا یقول احدکم اللهم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارحم فی ان شئت و لیعزم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء لا مکور لہ ۱۷۱۱ کہ روایت بہت مختصر ہے۔ انہ بخاری ہو الخوین قیس بن حصن القزاز فی صاحب موسیٰ اهو خضو نمزہما ابی بن کعب الانصاری فرماہ ابن عباس فقال انی شاریت انا وصاحبی فذا فی صاحب موسیٰ الذی سال لیبیل الی لقیہ هل سمعت رسول اللہ صلعم ینکر شاتہ قال نعم انی سمعت رسول اللہ صلعم یقول بینا موسیٰ فی ملاء بنی اسرائیل اذ جادہ رجل فقال هل تعلم احد الا علم منک فقال موسیٰ لا فافوج الی موسیٰ بل عبدنا خضو فال موسیٰ السبیل الی لقیہ فوجہ اللہ لہ الحوت آیۃ وقیل لہ اذا عقدت الحوت

(۴۲۳۲-۴۲۳۳) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۸۴۶) عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ

أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ لَمْ يَقُلْ مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ

شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

مَنْ قَرِيبٌ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ (۴۲۳۴-۴۲۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما (متکو-۱۹۳۱)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعِ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْحَقُّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا اخْلُقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ إِذَا أَنْكَمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا قَالُوا أَفَرَضَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَيَذُكْرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَشْهَدُ اللَّهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُونَهُ مِنْ بَعْدِ كَمَا يَسْمَعُونَ

اس قدر ہے۔۔۔ عن رسول اللہ صلعم قال نزل غذا ان شاء اللہ خبیث بنی کناہ خبیث تقاسموا علی الکفر برید المصعب علی اس وایت کو عبد اللہ بن عمر کی روایت بھی کہا گیا ہے۔ اور بعض نے عبد اللہ بن عمرو کی روایت کہا ہے یعنی میں ہے کہ صحیح عبد اللہ بن عمر نے عبد اللہ بن عمرو سے۔۔۔ گروہاں بھی بعض نسخوں میں عبد اللہ بن عمر ہی ہے۔ سو صحیح دونوں جگہ عبد اللہ بن عمر ہی ہے۔ یہاں لفظ یوں ہیں۔۔۔ قال صاحب النبی صلعم اهل الطائف فلم یفتحها فقال ان شاء اللہ فانما صابوہم جراحات قال النبی صلعم انما قالوا ان شاء اللہ فان ذلك اعجبهم فتبسم رسول اللہ صلعم۔۔۔ مطلب یہ کہ کلام کے خلق کا ذکر نہیں اسلئے اسے مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ اور عنوان باب کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلام انہی میں صوت ہے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ صوت ان کا نول سے تعلق نہیں رکھتی۔۔۔ اور العلیٰ لیکبجو تک قریباً انہی الفاظ میں دوہرا کر باقی حدیث چھوڑ دیا ہے۔ مگر آخری قرات قوت کے متعلق وہی لفظ دوہرائے ہیں جن پر ۱۹۳۱ ختم ہوتی ہے۔۔۔ لفظ قریباً انہی الفاظ میں دوہرایا ہے۔ اس میں ذکر نبی صلعم کی تفسیر یا فقر ان کا ہے جس کی تشریح بلند آواز سے پڑھنے سے کی گئی ہے شاید اس مناسبت سے اس حدیث کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلعم کے اسکو بلند آواز سے پڑھنے میں عنوان باب کی طرف اشارہ ہے۔۔۔ یہاں مرتب ابتدائی حصہ ہے۔۔۔ قال النبی صلعم یقول اللہ یا ادم فیقول لیلید وسعد لیلید فینادی بصوت ان اللہ یا مرک ان تخرج من ذوق ابتالی لنادی عنوان باب تعلق یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم کو صوت سے لگانے کا ذکر ہے۔۔۔ مگر روایت مختصر ہے۔۔۔ قالت ما عرفت علیٰ امرأۃ ما عرفت علیٰ خدیجۃ ولق امرأۃ ربه ان یشیہا بیبت فی الجنة۔۔۔ اسناد لال یہ معلوم ہوتا ہے کہ امرأۃ سے ہی ہو سکتا ہے

فَتَلَقَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (م-۲۲۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۱۲۵۱)	فَتَلَقَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (م-۲۲۳۸) (۳۷۷)
(م-۲۲۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م-۲۲۴۰) (۳۷۸) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (م-۲۲۴۱) (۲۶۸)	دیکھو حدیث ۳۷۸ دیکھو حدیث ۲۶۸
(۳۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ قَالَ مُجَاهِدٌ	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ قَالَ مُجَاهِدٌ
يُنزَلُ الْأَكْمَرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ (م-۲۲۴۱) عَنْ	بُنَزَلَ الْأَكْمَرُ بَيْنَهُنَّ (الطائفة ۱۲) سَائِقِينَ آسْمَانَ أَوْ سَائِقِينَ زَمِينَ كَمَا وَرَمِيَان
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (م-۲۲۴۲) (م-۱۹۸) (م-۲۲۴۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	دیکھو حدیث ۱۹۸ دیکھو حدیث ۲۲۴۳
(۳۲۹) (م-۲۲۴۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م-۲۱۹۳۶) (م-۳۵۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ	دیکھو حدیث ۲۱۹۳۶ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَوْلُ
تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ لَقَوْلِ اللَّهِ فَصَلِّ حَتَّىٰ تَمُوءَ بِرِجْلَيْكَ	بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَقَوْلِ اللَّهِ لَقَوْلِ اللَّهِ فَصَلِّ حَتَّىٰ تَمُوءَ بِرِجْلَيْكَ
(م-۲۲۴۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م-۱۹۵۹) (م-۲۲۴۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	دیکھو حدیث ۱۹۵۹ دیکھو حدیث ۲۲۴۵
(م-۲۲۴۶) (م-۲۲۴۷) (م-۲۱۴) (م-۲۲۴۸) (م-۲۲۴۹) (م-۲۲۵۰)	دیکھو حدیث ۲۱۴ دیکھو حدیث ۲۲۴۸ دیکھو حدیث ۲۲۴۹ دیکھو حدیث ۲۲۵۰
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م-۲۳۱)	دیکھو حدیث ۲۳۱

عَلَّقَ قُرَيْبًا فِي لَفْظِهِ
بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى جِبْرِيلُ
كُونَا دِيْنًا
عَلَّقَ قُرَيْبًا فِي لَفْظِهِ
بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى جِبْرِيلُ
مِنْ بَرِيءٍ بِرِجْلِ اللَّهِ
تَعَالَى فِي مَا كَرِهَ
سَوَالُ وَرَأْيِ
جَوَابُ مَا كَرِهَ
عَلَّقَ قُرَيْبًا جِبْرِيلُ
تَفْرِيحٌ هِيَ مِنْ لَفْظِهِ
صَلَّمَ قَالَ ثَانِي جِبْرِيلُ
ذُنُوبِي آدَمَ مَاتَ
لَا يَشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
دَخَلَ الْجَنَّةَ قَلْبًا
أَنْ سَوَّقَ وَانْزَلَهُ
قَالَ إِنَّ سَوَّقَ وَانْزَلَهُ
ذُنُوبِي آدَمَ مَاتَ
بُنَا بِهِيَ كَرِيْمًا كَبِيْرًا
وَيَا سَائِقِيْنَ هَوْرِيْتِيْنَ
هِيَ كَمَا هِيَ وَاللَّهُ تَعَالَى
عَلَّمَ اَلْحَقَّ بِمَعْنَى
مَنْ سَوَّقَ يَطْلُبُ
هِيَ تَعَالَى كَمَا قَوْلُ اللَّهِ
كَرِيْمًا كَمَا تَارَا عِلْمًا

کے ساتھ ہے یعنی اجسام کفر کی چیز اور پر سے پھینکی جینی میں ہے۔ سو قال ابن بطال المراد بالانزال افهام العباد معاني الفروض التي في القرآن وليس انزاله كما نزل الاله اجسام المخلوقة لان القرآن ليس جسم ولا مخلوق بل هي من لفظ يرون في قوله قال رسول الله صلعم يا خلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ورجعت ورجعت اليك وفوضت امرى اليك والحيات ظهري اليك ورغبة ورهبة اليك لا ملجاء ولا منجى منك الا اليك انت بكتابتك الذي انزلت وعنوان باب كالتعلق التي الفاظ سے ہے) وبتبديك الذي ارسلت فانك ان هت في ليلتك مت على الفطرق وان اصبحت اصبت امرا ولا تقربا انى الفاظ میں دوہرایا ہے عنوان باب منزل الكتاب سے ہے بلک تخفيف اختلاف لفظی سے دوہرایا ہے۔۔۔ ولا تجهر بصلواتك ولا تقافت بها قال انزلت وعنوان باب كالتعلق اسی سے ہے) ورسول الله صلعم متوار بملكة فكان اذا قرع صوته سمع المشركون قسيوا القرآن ومن انزله ومن جابره وقال الله تعالى ولا تجهر بصلواتك ولا تقافت بها لا تجهر بصلواتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها حتى اصبحك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى ياخذوا عنك القرآن ولا تغرض يعلم يوتى ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کلام اور قول دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے۔ وہ حدیث جس میں قال اللہ کا لفظ آتا ہے اور وہ صحیح قرآنی میں اصطلاح میں حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ وہی متلو نہیں بلکہ وہی لفظ میں۔ یہ فریضوں ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یؤذینی ابن آدم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیکن یہ قرآن کریم میں نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قول بغیر وہی متلو یعنی قرآن شریف کے بھی ہو سکتا ہے یہ حدیث قدسی ہے غلط مکرر روایت کئی بیشی سے آتی ہے م ۸۱۳ سے زیادہ مٹی ہے۔ عن ابنیہ صلعم قال یقول اللہ عزوجل وعنوان باب كالتعلق اسی سے ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ دا کلمہ وقتیہ من اصحط والصوم حنة والصلوات فرحان فرحة حين يفطرو فرحة حين يلقى ربه ولخولت فسم الصائم اطيب عند الله من ریح المسک۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ انی الفاظ میں دوہرایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ایوب کو ندا دینے کا ذکر ہے۔ علا ہی لفظ میں۔ حدیث قدسی ہے۔

أَصَبْتُ فَأَعْفِرُنِي فَقَالَ رَبِّي أَعْلِمُ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَقْرَتُ

از کتاب کیا تو مجھ کو بخش دے تو اس کے رب نے فرمایا کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اسکی وہر سے گرفت کرتا ہے

لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَدْنِبْتُ

میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر جس قدر اشد گناہ یا باظہار گناہ کا ارتکاب کیا یا گناہ کیا تو کیا میرے رب میں نے دوسرا گناہ کیا

أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَأَعْفِرُهُ فَقَالَ أَعْلِمُ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ عَقْرَتُ لِعَبْدِي

یا دوسرے گناہ کا ارتکاب کیا تو مجھ کو بخش دے تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اسکی وہر سے

ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنِبُ ذَنْبًا وَرَبِّي قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ

مرا تھو بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر شتائا اشد گناہ یا باظہار گناہ کیا اور کبھی فرمایا گناہ کا ارتکاب کیا

أَصَبْتُ أَوْ أَذْنِبْتُ آخَرَ فَأَعْفِرُنِي فَقَالَ أَعْلِمُ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ

اس نے کہا کیا میرے رب میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور گناہ کیا تو اسے میرے لئے بخش دے تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے

وَيَأْخُذُ بِهِ عَقْرَتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ (م- ۲۷۵۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جو گناہ بخشا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے تین مرتبہ تو جس طرح چاہتا ہے کرے

(۱۶۳۹) بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

پارہ ۱۶۳۹ پر در دگاز عزوجل کا قیامت کے دن انبیاء و غیرہ سے کلام کرنا

(م- ۲۷۶۰) عَنْ أَبِي شَرِيحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (م- ۱۸۷۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ سے کلام کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ سے کلام کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ سے کلام کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ سے کلام کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دیکھو حدیث ۱۸۷۲ سے کلام کرنا

(تقریباً صفحہ ۱۶۰۱)
واقرءوا نصغفنی
البرور نصفی فی
الجبر فواللہ لئن
قدر اللہ علیہ
لیعذبہ عن ابا
لا یعذبہ احداً
من العالمین فامر
اللہ الجبر فجمہ ما
فیہ واعر البر
فجمہ ما فیہ ثم
قال راہی کتاب
سے اس باب میں
ذکر کیا، ہم دخلت
قال من خشیتک
وانت اعلم بغفرلہ
صفحہ ۱۶۰۱
عنوان باب
سے تعلق تو لفظ

قال کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے حالانکہ یہاں بھی کوئی وحی متلو نہیں۔ آخری الفاظ فیصل حاصل ما شاء بعض نسخوں میں نہیں اور ان کا مطلب صرف
اس قدر ہے کہ جب تک انسان کے دل پر یہ احساس ہے کہ خدا ہے جو گناہوں پر مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہ بخشا بھی ہے تو سچے دل سے جو انسان توبہ کرے
وہ توبہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ خدا اور ان کے درمیان ہے جب تک انسان کے دل پر خدا کا خوف ہے اور بائیں اس سے تعزیر ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے۔ علی گھر روایت زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔ وعن النبی صلعم انه ذکر وصلا فبین صلعم او فبین کان قبلكہ قال کلمتہ
یعنی اعطاه اللہ مالاً وولداً فلما حضوت الوفاة قال لبنتہ ای اب کنت لکھو قالوا اخیر اب قال فانه لم ینتھرو لکونی یکی آگے نہیں بھیجی اولم بیت نزل
رؤیہ نہیں کیا) عند اللہ خیر وان بقدر اللہ علیہ یعنی بہ فانتظرو اذا مات فاحرقونی حتی اذا صوت فمما فاصحقتی او قال فاصحکتونی فانا کان
یوم رجب عاصفت فاذرتنی فیها فقال نبی اللہ صلعم فاخذ من اوتیہم علی ذنوبہم ففعلوا ثم اذروه فی یوم عاصفت فقال اللہ عزوجل
کن فاذا هو رجل قائم قال اللہ ای عبدی ما صحمک علی ان فعلت ما فعلت قال تحافتک اذ فرق منک قال فما تلافاه رتد اذک ان رحمہ عندہا
وقال مرۃ اخرى فما تلافاه غیرہا ثم شہد بہ ابا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان عن ابيه زاد ذیہ اذ روتنی فی الجہاد کما حدث روتنی
روایۃ وقال لم یتنفسیہ قنادۃ لم یتنفسیہ علی ما لیاں علی ما لیاں کما لیاں بیان کیا ہے۔ قال سمعت النبی صلعم یقول اذا کان
یوم القیامۃ شفعت فقلت یارب اذ خل الجنة من کان فی قلبہ خردۃ فیدخلون ثم اقول ادخل الجنة من کان فی قلبہ ادنی شیئ فقال
انس کانی انظر الی اصابع رسول اللہ صلعم علی ما لیاں کما لیاں روایت بہت کئی پیشی اور اختلاف سے آئی ہے۔ ابتدا میں حضرت انس کے پاس جانے کا ذکر
ہے۔ قال رمع بن ہلال العزیمی اجتمعنا فاس من اهل البصرۃ فذہبنا الی انس بن مالک و ذہبنا معنا اثنا عشر سالیہ لانا عن
حدیث الشفاعة فاذا هو فی قصوہ فوافقتہا لیصلہ الضحی فاستاذنا فاذن لنا ذہو قاعد علی فراشہ فقلنا لانا بیت لا تسالہ عن شیئ اول من
حدیث الشفاعة فقال یا ایا حمزہ لہو لاد اخوانک من اهل البصرۃ جاؤک یسالونک عن حدیث الشفاعة فقال حدیثنا محمد صلعم قال اذا کان
یوم القیامۃ ما جہ الناس بعضہم فی بعض فیا قون اوم فیقولون اشفع لنا الی ربک فیقول لست لها ولكن علیک یا ابرہیم فانه خلیل النور من
فیاقون ابرہیم فیقول لست لها ولكن علیک بسوسلی فانه کلیم اللہ فیاقون موسی فیقول لست لها ولكن علیک بعیسی فانه روح اللہ وکلمتہ فیاقون
علیہ فیقول لست لها ولكن علیک ب محمد صلعم فیا قونی فاقول انالہا فاستاذن علی و فی یقون لی ویلہ منی عما مد اصبرہا لک تحضونی الا ان
یعنی اس وقت وہ میرے ذہن میں نہیں کرتی مت میں آپ کا علم بھی ترقی کرے گا) فاصحبتہ بک اللہ و آخر لہ صاحبہ اقیقال یا محمد اذ تم و اسک
وقل یسمرک وسل توطوا واشفع شفعت فاول یاب اعمتی اعمتی (اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شفاعت صرف آپ کی امت کیسے ہوگی (ماقی برکت ۱۶۰۳)

۲۴۳۸ (م-)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر) ۲۴۳۸ (م-)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (متكرر)
۲۴۳۸	دیکھو حدیث ۲۴۳۸	دیکھو حدیث
۲۴۴۲ (م-)	عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (متكرر) ۱۹۵۵ (م-)	عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
۲۴۴۲	دیکھو حدیث ۱۹۵۵	دیکھو حدیث
۱۱۶۲ (م-)	عَنْ صَفْوَانَ (متكرر) ۱۱۶۲ (م-)	بَاب
۱۱۶۲	دیکھو حدیث ۱۱۶۲	دیکھو حدیث ۱۱۶۲
۲۴۴۴ (م-)	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (متكرر) ۱۵۳۳ (م-)	قَوْلِهِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (م-)
۲۴۴۴	دیکھو حدیث ۱۵۳۳	دیکھو حدیث ۱۵۳۳
۲۴۴۶ (م-)	عَنْ آسِنٍ (متكرر) ۸۶۲ (م-)	
۲۴۴۶	دیکھو حدیث ۸۶۲	دیکھو حدیث ۸۶۲

رقبہ صفحہ ۱۶۰۲
فیقال انطلق
فاخرج منها من
كان في قلبه
مثقال شعيرة
من ايمان
فانطق فافعل
ثم اعودنا حمده
بذلك الحماد
ثم اخرله ساجدا
فیقال يا محمد
ارفع رأسك

وقل يسمعك وسل تعطى واشفعم تشفع فاقول يارب امتي امتي فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او ذرولة من ايمان فانطلق فافعل ثم اعودنا حمده بتلك الحماد ثم اخرله ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقول يسمعك وسل تعطى واشفعم تشفع فاقول يارب امتي امتي فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبة خردل من ايمان رس جس کے دل میں کم سے کم بیان بھی ہے وہ بھی آپ کی شفاعت سے نکال لیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث کے آخری حصے سے ظاہر ہے مراد ايمان سے اچھے اعمال ہیں) فاخرج من التار فانطلق فافعل فلما خرجنا من عند ابي قتلت لبعض اصحابنا لومورنا بالحن والبصرى وهو متوارد حجاج کے خوف سے چھپے ہوئے تھے) فی منزل ابی خلیفة بياض ثنا اش بن مالك فأتينا فسلمنا عليه فاذا نحن نناقلنا له يا ابا سعيد جندناك من عند اخيك اش بن مالك فلم نر مشا ما حدا ثنا في الشفاعة فقال هيه راسه بيان كرو فخذ ثنا ه بالحدیث فانتهى الى هذا الموضع فقال هيه راسه من هذا الحدیث راس کے اٹل یعنی یہی ہیں) فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو صبي وهو اس وقت جوان تھے۔ مجمع منذ عشو بن سنة فلا ادري انى ام كره ان تكلموا (یعنی ایسا نہ ہو کہ تم شفاعت پر بھر و سر کے عمل چھوڑ دو) قلنا يا ابا سعيد نحن ثنا فضحك وقال خلق الانسان سجودا ما ذكره الا اذا تاريد ان احد فكم حدثني كما حدتني تكلم به قال ثم اعود الوردية فاحمد بتلك ثم اخرله ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقول يسمعك وسل تعطى واشفعم تشفع فاقول يارب ائمن لي فيمن قال لا اله الا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا اخرجن منها من قال لا اله الا الله (یعنی خواہ کوئی نیک کون کیا ہو یا نہ)۔ (صہیفہ جلد ۱)۔ ملایا بیان روایت کو بت اختصار سے بیان کیا ہے۔ قال رسول الله صلعم آدم اخر اهل الجنة دخول الجنة واخر اهل النار خروجها من النار رجل يخرج جوارا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول رب الجنة ملائ فيقول له ذلك ثلاث مرات نكل ذلك بعد عليه الجنة ملائ فيقول ان لك مثل الد نيا عشو مراراً۔ ملایا بیان ۵۷۰ کا ایک حصہ کسی قدر اختلاف سے دہرایا ہے قال رسول الله صلعم ما منكم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر امين منه فلا يرى الا ما هم من عمله وينظر امام منه فلا يرى الا ما هم ردوا من وايس بايس بھی تاز کا ذکر ہے) وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقا وجهه فانظر النار ووبشق تمرة روي روايت زاد فيه ولو بكلمة طيبة۔ صہیفہ خفيف اختلاف لفظی سے دہرایا ہے۔ جبار و جبر من اليهود فقال انه اذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على اصبع والا رضين على اصبع والهدا والثرى على اصبع والخلالق على اصبع ثم يهزهن ثم يقول انا الملك انا الملك انا الملك فقلق رابت النبي صلعم يضبط حتى بدت نواصدها تعجباً وتصديقا لقوله (صہیفہ ۱۱۶۲) میں صرف تصدیق ہے جس کے لئے دیکھو نوٹ صہیفہ ۱۱۶۲۔ میں تعجب کا لفظ بڑھایا ہے گری بھی راوی کا خیال ہے) ثم قال النبي صلعم وما تدروا الله حتى تدروا الى قوله يشكون۔ صہیفہ اختصار سے بیان کیا ہے۔ ان رجلو سال ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلعم يقول في النبوي قال بي نواصدها من ربه حتى يرضع كنفه عليه فيقول اعلمت كذا وكذا فيقول نعم ويقول اعلمت كذا وكذا فيقول نعم فيقول نعم فيقول اني سارت عليك في اني انا وانا اغفرها لك اليوم۔ صہیفہ اس میں صرف یہ لفظ ہیں عن ابن عمر سمعت النبي صلعم۔ صہیفہ خفيف اختلاف لفظی سے دہرایا ہے۔ ان النبي صلعم الله عليه وسلم قال احبب ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنة (روايل فوريت کا ذکر نہیں بلکہ اخر جنتك من الجنة ہے) قال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالكه۔ وكلامه ثم تدمنى على امر قد تدنى على قبل ان اخلق فحجج ادم موسى۔ دیکھو نوٹ صہیفہ ۵۷۰ کے یکے پر مکرر روایت بہت مختصر ہے۔ قال قال رسول الله صلعم يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فغير يحسن من مكاننا هنا فيا قون ايم فيقولون لا انت ادم ابو البشر خلقك الله۔ صہیفہ راسينك الملائكة وملكك اسماء كل شئ فاشفعم لنا الى ربنا حتى يرخصنا فيقول لهم است هذا كفنك كرم

من لعم خطيبه الله التي اصابت اصل حدیث میں حضرت موسیٰ سے فرم کرنے کا ذکر ہے۔

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

(م- ۲۷۶) عَنْ أَبِي بَرْزَاءٍ (متکون- ۲۵۲) (۳۸) بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ مَعَهُ

وکیچو حدیث ۲۷۶۲

پابشاپ پروردگار کا جنت والوں سے

(م- ۲۷۶) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (متکون- ۲۳۳) كَلَامُ رَبِّهَا

وکیچو حدیث ۲۳۳۱

ابو ذر سے روایت کرتے ہیں۔

یقول لیلۃ اسوی رسول اللہ صلعم من مسجد الکعبۃ انہ جاءہ ثلاثۃ نفوس

قبل ان یوحی الیہ وھن انکم فی المسجد الحرام فقال اولھن اہم ھم ففقال او سطھم ھم خیرھم فقال اخرھن خذوا خیرھم فکانت تک اللیلۃ فلم

یرھم حتی اتوہ لیلۃ اخری فیما بزی قلبہ وتمام عینہ راس سے معلوم ہوا کہ آپ اس وقت سویلے تھے البتہ سوتے میں بھی آپ کا قلب بیدار ہوتا

تھا، ولا ینام قلبہ وکذلک الامانیاء تمام اعینھم ولا تمام قلوبھم فلم یکلموہ حتی احتلموا فوضوہ عند یثزمزم وہاں سے صرف حضرت

جبریل کا ساتھ ہونا بیان کیا گیا ہے، فتلاہ عنھم جبریل فشق جبریل ما بین فرجہ الی لبتہ حتی فرغ من صدرہ وجوفہ فضلہ من ماء زمزم

بینہ حتی اتقی جوفہ ثم اتی بطست من ذھب فیہ توکون من ذھب عسوار بھرا ہوا، ایما نا وحکمتہ فحفظنا بہ صدورہ ولفظا دیدہ (لفظ کی جمع ہے

معنی آگے حدیث میں ہی لئیے ہیں) یعنی عروق حلقہ ثم اطبقہ ثم عرج بہ الی السماء الدانیاء ضروب بابا من ابراہم فنادا اهل السماء من

ھذا فقال جبریل قالوا ومن معک قال معی محمد قال وقد بعثت قال نعم قالوا فمرحبا بہ واهلا فستبشر بہ اهل السماء لا یعلم اهل السماء بما

یرید اللہ فی الارض حتی یعلمھم فوجد فی السماء الدانیاء آدم فقال لہ جبریل ھذا ابوک فسلم علیہ فسلم علیہ وودع علیہ ادم وقال مرحبا واهلا

بابنی نعم الابن انت فاذا هو فی السماء الدانیاء بنھرمین یطردان رحیمان۔ ایک اور حدیث م ۱۸۲۲ میں سدرة المنتھی کے ذکر کے بعد چار

نروں کا ذکر ہے جن میں سے دو کو یاطنی نرس کہا ہے جو جنت میں ہیں اور دو کو ظاہری جن میں سے ایک ہیں اور ایک فرات ہے) فقال ماھذا ان

النھران یا جبریل قال ھذا النیل والفرات عنصو ھما ریر فرات اور نیل کا صل ہے چونکہ عالم کشف کا نظارہ ہے اس لئے مراد یہ نہیں کہ یہ نرس

سچ کچھ کسی آسمان سے نکل کر آئی ہیں بلکہ میام ۱۸۲۲ پر نوٹس میں بتایا گیا ہے اشارہ اس نرس میں کے سماؤں کو دیا جانے کی طرف تھا جس میں نیل اور

فرات تھے ہیں، ثم مضی بہ فی السماء فاذا اھو بنھرا اخر علیہ فوضو من لولؤ ووز بحد فوضو ید لا فاذا اھو مسک قال ماھذا انا جبریل

قال ھذا الکثر الذی خیالک ربک ثم عرج الی السماء الثانیۃ فقالت الملائکۃ لہ مثل ما قال اولی من ھذا اقال جبریل قالوا

ومن معک قال محمد صلعم قالوا وقد بعثت الیہ قال نعم قالوا مرحبا بہ واهلا ثم عرج بہ الی السماء الثالثۃ وقالوا المثل ما قال اولی

والثانیۃ ثم عرج بہ الی الرابعۃ فقالوا لہ مثل ذلک ثم عرج بہ الی السماء الخامسۃ فقالوا المثل ذلک ثم عرج بہ الی السادسۃ فقالوا لہ مثل ذلک

ثم عرج بہ الی السابعۃ فقالوا لہ مثل ذلک کل سماء فیھا البیاء قد سماھم فادعیت منھم ادریس فی الثانیۃ وھا دون فی الرابعۃ واخر

فی الخامسۃ ثم احفظ اسمہ وابراہیم فی السادسۃ و موسیٰ فی السابعۃ بتفضیل کلام اللہ (م ۲۵۲) میں یہ ذکر نہیں کہ کس آسمان پر کس نبی کو

دیکھا سولے اس کے کہ حضرت آدم کسما الدانیاء اور حضرت ابراہیم کو چھپے آسمان پر دیکھا م ۱۸۲۲ میں ہے کہ آدم کو پہلے آسمان پر، کچھ اور موسیٰ کو دوسرے

پر۔ یوسف کو تیسرے پر۔ ادریس کو چوتھے پر۔ پانچویں پر ہارون کو چھٹے پر موسیٰ کو اور ساتویں پر ابراہیم کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی

احادیث میں راویوں سے بعض فرنگہ آشتیں برکٹی ہیں، فقال موسیٰ رب لم اظن ان یرفع علی احد ثم علا بہ فوق ذلک بما لا یعلمہ الا اللہ حتی

جاء سدرة المنتھی وانا الجبار رب العزۃ فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی فادعی اللہ فیما ادعی الیہ خمسین صلاۃ علی امتک

کل یوم ولیلۃ ثم ہبط حتی بلنہ موسیٰ فاحتبسہ موسیٰ فقال یا محمد ماذا اعهد الیک ربک قال عہد الی خمسین صلاۃ کل یوم ولیلۃ قال ان

امتک لا استطیع ذلک فارجع فلیخفف عنک ربک وعنھم فالتقت النبی صلعم الی جبریل کا کہ یہ مستثیرہ فی ذلک ان اشار الیہ جبریل ان تم ان

شئت فعلا بہ الی الجبار فقال وهو مکانہ یارب خفف عنا فان امتی لا استطیع ھذا اوضع عنہ عشو صلوات ثم رجع الی موسیٰ فاحتبسہ فلم یزل

یرددہ موسیٰ الی ربہ حتی صارت الی خمس صلوات ثم احتبسہ موسیٰ عند الخمس فقال یا محمد واللہ لقد اودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من

ھذا افضعوا فنزکوہ نامتک اضعفت اجسادا وقلوبا وابدانا وابداننا واما عا فارجع فلیخفف عنک ربک کل ذلک یلتفت النبی صلعم الی جبریل

لینشیر علیہ ولا یکوہ ذلک جبریل فرجعہ عند الخامسۃ فقال یارب ان امتی ضعفاء اجسادھم وقلوبھم واما ساجدھم وابدانھم فخفف عنا فقال

الجبار یا محمد قال لیبک وسعدیک قال انہ لا یدل القول لہی کما فرضت علیک فی ام الکتاب قال نکل حسنتہ بعشو امثالھا فھن خمسون فی ام الکتاب۔

رحم خمس علیک فرجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت فقال خفف عنا اعطانا کل حسنتہ عشی امثالھا قال موسیٰ قد واللہ اودت بنی اسرائیل علی ادنی من

ذلک فنزکوہ ارجع الی ربک فلیخفف عنک ایضا قال رسول اللہ صلعم یا موسیٰ قد واللہ استجبت من ربی مما اختلفت الیہ قال فابھط یا سم اللہ قال اعطی

دھونی من الحرام اس روایت کے شروع میں واضح کر دیا ہے کہ آپ سرت جبریل ہوا سوتے ہوئے تھے اور آپ کا قلب بیدار تھا یعنی جو کچھ آپ نے نظر دیکھا وہ دل کی آنکھ سے دیکھا

بالفاظ ونبھل کشفہ من دیکھا اور یہاں آخر پر تو بت ہی صاف کر دیا واستیقظ دھونی مسجد الحرام۔ یعنی اس نظر ان کو دیکھنے کے بعد آپ جاگ اٹھے

لِحَافِطُونَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ الْقَرَّانِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ

خافت کر نزلے ہیں راہِ محمد (یعنی) اپنے پاس اور وہ جو چھائی کو لایا اور (۳۳) (یعنی) قرآن اور اسکی تصدیق کی (یعنی) مومن قیامت دن

الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِي أُعْطِيَتْهُ نَعَلْتُ بِمَذْقِيهِ (م-۱۲۴۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

کے گایہ جو تو نے مجھ کو دیا تھا میں نے اس پر عمل کیا جو اس میں ہے

۱۸۴۳ (۴۱۱) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرِئُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ

۱۸۴۳ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرِئُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ

وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ كُنْتُمْ أَنْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

اور تمہارے جسم تمہارے غلاف کو گواہی دیں گے لیکن تم نے خیال کیا کہ تمہاری سماعت سے وہ باتیں نہیں جانتا جو تم کرتے ہو درجہ السیرہ ۲۲۰

۱۲۴۲ (۴۱۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي

شَأْنٍ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنَزِلٍ مُخْتَلِفٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَعَلَّ اللَّهُ يَخْذُلُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْراً أَنْ حَدَّثَهُ لَا يَشْبِيهِ حَدَثُ الْخَلْقِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اور اسکی خبر اسکی پیدا کرنا مخلوق کی پیدا کرنے سے شائبہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے اسکی مانند کوئی چیز نہیں

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ بِنُ مَسْعُومٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَخْرُجُ

مِنْ أَمْرٍ مَا يَشَاءُ وَرَأَى مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكْفُرُوا فِي لَصْرَةِ (م-۱۲۴۳)

جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے جو پیدا کیا ہے کہ تم نمازیں پڑھیں نہ کرو گے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م-۱۲۵۲) (م-۱۲۴۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

۱۲۵۲ (۴۱۳) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَحْرُكُ بِهِ لِسَانُكَ وَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَى وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَبْدِ مَنَظَرِي حَيْثُ مَا ذَكَرْتَنِي وَتَحْرُكُ لِسَانِي

کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور میرے زبانی

شَفَقَاةٌ (م-۱۲۴۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م-۱۲۴۵)

کیا تھا اسکا دُور ہونٹ پٹنے میں

یعنی الفاظ میں
دوہرا یا ہے یہ
بڑا لگا ہوا ہے ان
تخلل اللہ ندادہ
مکرر روایت
کسی قدر کسی بیشی
سے آئی ہے۔
قال اجتمع عند
البيت ثقفين
وقرشي وقرشي
وثقفي كثيرة شتم
بطونهم قليلة
فقه قديمهم فقال
احدهم اترون
ان الله يسمع ما
نقول قال لاخر
يسمع ان جهرنا
ولا يسمع ان
اخفينا وقال
الآخر ان كان
يسمع اذا جهرنا
فانه يسمع اذا
اخفينا فانزل
الله تعالى وما
كنتم تستترون
ان يشهد عليكم
سمعكم ولا ابصاركم
ولا جلودكم
الاية
یعنی امام بخاری نے
میں قرآن کا جو
ہونا بیان کیا ہے
اور وہ ساری جگہ
اسے غیر مخلوق کہا ہے اور اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احداث مخلوق کے احداث کی طرح نہیں۔ اسلئے یہ غیر مخلوق بھی ہے اور محدث بھی غیر مخلوق اس
نحیاً سے کہ کلام اس کی صفت قدیم ہے اور محدث انسانوں کی نسبت سے کہ وہ واقعات جن سے انسانوں کا تعلق ہے ایک محدث چیز ہیں۔ لہذا کیا میں بھی
احداث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اس لئے کہ وہ انسانوں کو حکم دیتا رہتا ہے اور یہ اس لحاظ سے احداث ہے کہ جب انسان پیدا ہوتے تو ان احکام
کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہاں اختصار ہے۔ قال کیبت تسألون اهل الكتاب عن كتبهم وهدى لهم كتاب الله اتوب انكتب عهدا باله تعرفونك
محدثاً لم يشبه مکرر روایت کو قریباً انہی الفاظ میں وہ ہر ایک ہے جسکے قریباً انہی الفاظ میں وہ ہر ایک ہے +

(۳۴) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَوْذَقْتُمْ أَدْجَاهُمْ وَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِنَاتٍ الصُّدُورَ أَلَا

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ يَتَخَفَتُونَ يَتَسَاءَلُونَ (۳۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَبِّي مَا نَأْتِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَهِيَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

(مُتَكْرَّمٌ ۱۹۳۷) (م-۳۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِتْنَةٌ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَتْنَةٌ لَكُمْ فِي سَائِرِ مَا فِيهَا

وَهُوَ فِيهَا مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَا وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

النَّهَارُ رَجُلٌ يَقُولُ لَوْ أَدْبَيْتُ مِثْلَ مَا أَوْتِيَتْ هَذَا أَفْعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ تَبَاهَهُ

أَوْ رَأَى مَا شَفَى يَكُونُ تَابِعًا لَكُمْ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ الْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اخْتِلَافَ السَّمَكِ وَالْوَادِي

كُفْرًا وَكَرْهًا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

وَقَالَ جَلَّ جَلَّتْ وَوَأَعْلَى الْخَيْرِ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ (م-۳۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكْرَّمٌ ۲۰۰۱) (م-۳۸)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَالَ لَوْ هَرَيْتُ مِنْ اللَّهِ الرَّسَالَةَ وَعَلَى

سَمْعِي طَرَفَاتٍ رَأَيْتُ أَنْ يَأْتِيَ قَوْلُ رَبِّي وَنَبِيِّنَا فِي الْأَيَّامِ وَالْأَيَّامِ وَالْأَيَّامِ وَالْأَيَّامِ وَالْأَيَّامِ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِلَاءُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ لَيْعَلَّكُمْ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ

رَبِّهِمْ وَقَالَ بَلِّغْكُمْ رِسَالَتِي وَقَالَ كَبُورُ الْمَلِكِ حِينَ تَخْلَفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

رَبِّكُمْ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ وَالْبِلَاءُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَائِرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَحْبَبْتُ حَسَنًا

عَمِلْتُ قَرِيئًا فَقَالَ عَمَلًا أَسْبَغْتُ فِي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَسْتَعْفِفُونَ

أَحَدٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ ذَلِكَ الْكِتَابُ هَذَا الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

كَقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا رَبَّ إِلَّا اللَّهُ شَكَّ تِلْكَ آيَاتٌ يَعْنِي

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

هَذِهِ أَحْلَامٌ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ حَقِّي إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَقْلِ وَجَرَيْنَ مَعَكُمْ يَعْنِي بَكْرٌ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

بَابُ مَا أَشْرَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلَ آدِرَ بِنَاتٍ بَابٌ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ وَهُوَ كَمَا فِي حَقِّهِ

وَقَالَ أَنَسُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَه حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ أَوْ هَمُونِي أَيْبَلِغْ
 اور انس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے کو ان سے کہو کہ
 رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَجَلَ بِحَدِيثِهِمْ (م- ۴۷۸) عَنْ عَبْدِ بْنِ حَبِيبَةَ
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھ کر ہی پہنچاؤں پس گئے ان سے باتیں کرنے لگا
 (متکثر- ۱۴۳۵) (م- ۴۷۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (م- ۱۹۰۹) (ب- ۴۷۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 دیکھو حدیث ۱۴۳۵ اور دیکھو حدیث ۱۹۰۹ ب ۴۷۸
 (متکثر- ۱۸۴۳) (م- ۴۷۸) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ فَأَتُوا يَا التَّوْرَةَ فَاتْلُوهَا وَقُلْ إِنِّي
 دیکھو حدیث ۱۸۴۳ باب کا قول کہ تورات لے آؤ اور اسے پڑھو (آل عمران- ۹۲) اور نبی صلی اللہ علیہ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَهْلَ التَّوْرَةِ فَعَمِلُوا بِهَا وَأَعْطَى أَهْلَ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ
 تورات والوں کو تورت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور انجیل والوں کو انجیل دی گئی انہوں نے اس
 فَعَمِلُوا بِهَا وَأَعْطِيَهُمُ الْقُرْآنَ فَعَلِمْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ يَتْلُونَهُ يَتَّبِعُونَهُ وَيَتَّبِعُونَ
 پر عمل کیا اور تم کو قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا اور ابو زید نے کہا بتلو نہ رکھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے
 بِهِ حَقٌّ عَلَيْهِ يُقَالُ يَتْلُو يَتْلُو حَسَنًا التَّلَاوَةَ حَسَنًا أَيْ قَرَأَهُ لِلْقُرْآنِ لَا يَسْتَهْ كَالْحَجَلِ
 اس پر عمل کرتے ہیں جیسے اس پر عمل کرنا کہ اس سے کہتا ہے بتلوا جاتا ہے حَسَنًا التَّلَاوَةَ قرآن کو خوبصورت پڑھنے والا اسے اللہ تعالیٰ
 طَعْمَهُ وَتَفْعُهُ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ إِلَّا الْمُؤَقِنُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
 اس کی لذت اور اس کا نفع نہیں پاتا مگر جو قرآن پر ایمان لایا اور اسے جیسا اس کا حق ہے بتلے گا مگر جو یقین کر لیا ہوا اللہ تعالیٰ کے قول کے لیے
 مَثَلُ الَّذِينَ سَمِعُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ابْنُ سَمِيلٍ
 سے ان کی مثال ہے جو تورات کو بوجھ ڈالا مگر پھر انہوں نے اسے اٹھا یا گھسیٹا کی طرح ہے جو کہ میں اٹھاتا ہوں ان لوگوں کی بری مثال ہے
 الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَسَمِعِي لَيْثَةَ صَدِ
 جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا (سجده- ۵) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَيْثَةُ صَلَّى اللَّهُ
 اسلام اور ایمان اور نماز کا نام عمل رکھا ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِكْرٍ أَخْبَرَنِي بِأَرْبَعٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْتَجِي
 بیکر سے فرمایا مجھ کو سے زیادہ امید والا عمل بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہے عرض کیا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے
 عِنْدِي أَيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ إِلَّا صَلَّيْتُ وَسَمِعْتُ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلَ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ
 نزدیکی ماہ امید دلانے والا ہو سوائے اس کے کہ میں نے سمجھی دھرتی میں کیا مگر نماز پڑھنے سے اور اس سے بوجھ گیا کہ کون عمل زیادہ فضیلت
 وَسَمِعْتُهُ قَالَ حَجْرٌ مَدْرُورٌ (م- ۴۷۸) عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ (متکثر- ۱۳۷۲)
 والا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پھر تمہارا مقبول ہو دیکھو حدیث ۱۳۷۲
 (۴۷۸) بَابُ وَسَمِعِي لَيْثَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَمَلًا وَقَالَ لِاصْلَاةٍ لِمَنْ
 باب کا دیکھو حدیث ۱۳۷۲ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا نام عمل رکھا اور فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو

۱۔ ان کا ذکر
 مغازی میں گذر
 جیکو دیکھو ۱۹۲۲
 خط یہاں ۱۳۳۵
 کا حدیث ایک
 جملہ دوہرا ہے
 اخبارنا نبینا
 صلعم عن رسالته
 دینا انہ من قتل
 مناصد الی
 الجنة +
 یہاں لفظ
 یوں ہیں :-
 قالت مر حذیثا
 ان محمد صلعم
 کتم شیئا وقال
 محمد حدیثا ابو
 عامر الحدیثی
 حدیثا شعبہ
 عن اسمعیل بن
 ابی خالد عن
 الشعبي عن
 مسروق عن عائشه
 قالت من حدیثک
 ان النبی صلعم
 کتم شیئا من
 الومی فلا تصدق
 روایا ہے نقد
 کتاب ان اللہ
 تعالیٰ یقول یا
 ایھا الرسول
 بلغ ما انزل
 الیک من ربک
 وان لم تعلم
 فداعلجت رسالته
 لک مکرروا بیت

کی ابتدا میں ہوتی ہے۔ قال وجعل یارسول الله ای الذی تب الیک بعدہ اللہ۔ اور آخر پر زیادہ کیا ہے۔ فانزل الله تصدیقہا والذین لایعین مع الله الہا اخر الا یہ والفرقان۔ ۴۷۸۔ عتق قریبا انہی الفاظ دوہرا ہے۔ اس فقرہ کی بجائے فقال اهل الکتابین سخن کتنا اکثر عمل کی بجائے یہاں یوں ہے۔ فقال اهل الکتاب هو لا اقل مناعملکوا اکثر اجراء

۲۲۸۷	<p>لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (م- ۲۲۸۷) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (م- ۳۵۴) هَتَكَرَد (۳۵۴)</p>
۲۲۸۸	<p>بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الْأِنْسَانَ خَلِقًا هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا</p>
۲۲۸۹	<p>وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا هَلُوعًا خَلِقًا هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا (م- ۲۲۸۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ</p>
۲۲۹۰	<p>ثَعْلَبٍ (م- ۵۲۵) (م- ۵۰) بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِوَايَتِهِ</p>
۲۲۹۱	<p>عَنْ زَيْنَةَ (م- ۲۲۵۳) عَنْ أَبِي زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِي وَيُؤَيِّدُ عَنْ زَيْنَةَ</p>
۲۲۹۲	<p>قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ ذُرَاةً وَإِذَا تَقَرَّبَتْ مِنْهُ</p>
۲۲۹۳	<p>بِأَعْرَافٍ إِذَا تَأْتَى مَشِيًّا آتَيْتَهُ هَرُولًا (م- ۲۲۸۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۲۸۸)</p>
۲۲۹۴	<p>(م- ۲۲۸۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۹۶) (م- ۲۲۸۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۱۵۳۵)</p>
۲۲۹۵	<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ الْكُرَيْبِيِّ (م- ۱۸۳۲) (م- ۱۵) بَابُ مَا يُجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ</p>
۲۲۹۶	<p>التَّوْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا الْقَوْلُ لِلَّهِ تَعَالَى فَأَتَى يَا تَوْرَةَ فَانْتَهَى</p>
۲۲۹۷	<p>كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ بَرَزِيُّ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجَمَانَهُ</p>

۲۲۸۷ اس کے لفظ یوں ہیں ان رجلا سال النبی صلعم ای الامثال افضل قال الصلاة لوقتها ووالوالذین ثم الجهاد فی سبیلہ اللہ

۲۲۸۸ میں دوہرایا ہے لفظ ہلوع ہریرہ کی حدیث ۲۲۸۸ کے میں دیکھو ٹوٹ ملکہ ۵۵

۲۲۸۹ مکرر روایت محقر ہے۔ قال ربنا وکذا السببی صلعم قال اذا تقرب العبد منی شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقربت منی ذراعا تقربت منه ذراعا وبقا۔ اس کے بعد اس کی روایت کے الفاظ یروہ عن زینہ کا

ذکر کیا ہے جن کا تعلق عنوان باب ہے، ۱۵ مکرر روایت محقر ہے۔ عن النبی صلعم یروہ عن ربحر (عنوان باب کا تعلق انی الفاظ سے ہے) قال کل عمل کفارة والصلوم لی وانا اجزی بہ ولخوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح البسک، ۱۵ اس کے لفظوں میں: عن النبی صلعم فیما یروہ عن رتبہ (عنوان باب کا تعلق انی الفاظ سے ہے) قال کا یلیغ لجد ان یعول انه شیء من یونس بن مثنی واسبہ الی اذہ، ۱۵ مکرر روایت زیاوہ تفصیل سے آئی ہے۔ قال رایت رسول الله صل الله علیه وسلم یوم الفتح علی ناقۃ له یقرأ سورۃ الفتح او من سورۃ الفتح قال فرجع فیها قال ثم قرأ معاویۃ یحکی قرأۃ بن مغفل وقال لولا ان یجتمع الناس علیک لرجع کما رجع ابن مغفل النبی صلعم الله علیه وسلم فقلت لعداویۃ کیف کان ترجیعہ قال ۳۳ ثلاث مرات. عنوان باب کا تعلق ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہی کہ عربی خط کا جس میں آیت قرآنی بھی عبرانی میں ترجمہ کر کے ہر قلم کو سنایا اور یہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ خط لکھتے تھے تو آپ جانتے تھے کہ انہیں ترجمہ کر کے ہی غیر زبان کے لوگوں کو سمجھایا جاسکتا ہے۔ یہ حدیث کے پر تفصیل گذر چکی۔ تعجب ہے کہ ایسی صحیح سند کے ہونے کے علمائے اسلام کا ایک بڑا گروہ دوسری زبان میں قرآن کرم کے ترجمے کو ناجائز سمجھتا ہے حالانکہ اگر قرآن کل قوموں کے لئے ہے تو اس کے سوائے چارہ نہیں کہ اسے دوسری قوموں کے سامنے ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی بنا پر یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن کرم کا فارسی زبان میں ترجمہ کر کے پڑھنا جائز ہے بلکہ نماز کو بھی جائز قرار دیا ہے جب وہ دوسری زبان میں ہو لیکن اس سے امام صاحب کا منشا یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز بجاہت میں تلاوت دوسری زبانوں میں ہو کیونکہ اس طرح نماز کے ذریعے سے جو وحدت پیدا کرتا مقصود ہے وہ

لفظ ۱۸۶۷

کے ہیں +

مکرر روایت

کسی قدر اشد

الفاظ سے آئی

ہے۔ قال اتی

النبی صلعم جب

وامواہ من الیہ

قد زینا فقال

للہود ما صنعوا

بہما قالوا نعم

وجوہہما ان

کامنہ کالکرتی

ہیں، وغیرہما

قال فاقرابا للوہ

فانکہا ان کنتم

صادقین فیاؤ

فقالا للرجل

راسک نام غیر

ابن صغیر یا تھا

یرضون یا اخور

اقرأ ذقرا حق

النبی الی موضع

منہا فوضع یرہ

علیہ قال رب

کنتہ ولست عبد

بن سلام تھے۔

صی ۱۶۲۵ اور

میں لڈر چکا ہے

اور وہ یدک فر

فیعہ یرہ فاذا

فہ اعمیۃ الرج

ظاہر ہے کہ

کتاب کو عربی

میں ترجمہ

کے سنایا گیا

ہوگا / تلوح در

وشن تھی یا

صاف اور ذ

ضع تھی فقال

یا محمد

ان علیہما الرج

ولکن انکاتمہ

بیننا فامر بہما

فوجہا فراسی

ثُمَّ دَعَا بِلِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ لِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ حَيْثُ عَجِبَ اللَّهُ

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا

وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ دِيَّا أَهْلَ كِتَابِ تَعَاوَلَى كَلِمَةً سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا آيَةً

ہند کے اور اس کے رسول کی طرف سے ہر قیل کو اور لے اس کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے

(۵۰) (۲۷۹۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوَّرٌ - ۱۸۶۷) (۲۷۹۲) عَنْ ابْنِ جُمَيْرٍ (مُتَكَوَّرٌ - ۱۶۲۵)

(۵۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرِّقَةِ وَتَنَزَّاهَا

بانیہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول

الْقُرْآنُ بِأَصْوَاتِكُمْ (م - ۲۷۹۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مُتَكَوَّرٌ - ۲۰۰۰) (۲۷۹۴) عَنْ

قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو

عَلِيشَةَ (مُتَكَوَّرٌ - ۱۲۲۷) (۲۷۹۵) عَنِ الْبَرَاءِ (مُتَكَوَّرٌ - ۲۷۴۳) (۲۷۹۶) عَنِ

ابن عباس (مُتَكَوَّرٌ - ۱۹۳۷) (۲۷۹۷) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ (مُتَكَوَّرٌ - ۳۹۹)

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاقرؤْ مَا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (م - ۲۷۹۹) عَنْ جُمَيْرٍ (مُتَكَوَّرٌ - ۱۱۵۸)

(۵۴) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَيْسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ يُقَالُ مَيْسِرٌ مِهْمًا وَقَالَ مَطَرٌ أَوْ رَاقٍ وَ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

لَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ طَالِبٍ عَلِمَ فَيَعَانِ عَلَيْهِ

(۲۵۰۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (مَتَكُوْر - ۲۳۴۶) (۲۵۰۱) عَنْ عَلِيٍّ (مَتَكُوْر - ۲۲۰)

دیکھو حدیث ۲۳۴۶ م
دیکھو حدیث ۲۲۰ م

(۵۵) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ

مَسْطُورٍ قَالَ قَتَادَةُ مَكْتُوبٌ يَسْطُرُونَ يَحِطُّونَ فِي أَمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةُ الْكِتَابِ

والطور (۲۰) قتاؤدے کے کہ مسطور یعنی لکھی ہوئی لیسطرون لکھتے ہیں

وَأَصْلُهُ مَا يَلْفُظُ مَا يَلْتَكُمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ

کا اصل ما لفظ لفظ سے ہے اور اس کے لکھی جاتی ہے اور ابن عباس نے کہا

وَالشَّيْءُ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ وَكَيْسٌ أَحَدٌ يَحِطُّ بِشَيْءٍ لَفْظُ كِتَابٍ مِنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

کو لکھا جاتا ہے

جَلَّ وَكَيْسٌ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ يَحِطُّونَ

لیکن وہ اس کی تخریج کرتے ہیں (یعنی) اس کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرتے ہیں

حَافِظَةٌ وَتَعْبَهُهَا تَحْفَظُهَا وَأَوْجِي إِلَى هَذَا الْقُرْآنِ لَا نَذِرُكُمْ بِهِ يَعْني أَهْلَ

الحفاظۃ (۱۲) حفاظت کرنے والے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو اس کے ذریعہ سے خبر دے

مَكَّةَ وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْقُرْآنَ فَهُوَ لَكَ نَذِيرٌ (۲۵۰۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اگر وہ اس کو پہنچے تو اس کو اور انکو بھی یہی یہ قرآن پہنچے گا اس کو اس کے ذریعہ سے

(مَتَكُوْر - ۱۲۲۵) (۲۵۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ (مَتَكُوْر - ۱۲۲۵) (۵۶) بَابُ

دیکھو حدیث ۱۲۲۵ م

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَقَالَ

اللَّهُ تَعَالَى كَقَوْلِهِ وَأَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ مِزَانًا (۹۶) مَلَأَ هِرَقِيذُ بْنُ يَمِينٍ

اور تصور بنائے گا اور تم نے کیا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

فِي سِتَّةِ آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْنَى لِلشَّيْءِ لِكُلِّ شَيْءٍ مِزَانًا وَحَدِيثًا وَالشَّمْسُ

پھر وہ عرش پر غالب ہوا

وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ مَسْحَرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے کام میں لگائے گئے ہیں دیکھو پیدا کرنا بھی اسی کیلئے ہے اور حکم بھی اللہ جانو کہ رب کیلئے آلا ہے اور انعام (۵۶)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَيْنَ اللَّهِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

ابن عباس نے کہا اللہ نے خلق کو اس سے الگ کر دیا ہے جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے دیکھو پیدا کرنا بھی اسی کیلئے ہے اور حکم بھی اسی کا ہے

یہ مطلب لیا جائے کہ کتب سابقہ میں تخریج لفظی نہیں ہوتی تو یہ صحیح نہیں واقعات بھی اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن کریم میں صراحت سے

فرمایا یکتوبون الكتاب یا بدینہم ثم یقولون هذا من عندنا اللہ والقرۃ ۹۶ موجودہ تو ریت و انجیل کے متعلق خود عیسائی محققین اس نتیجہ پہنچے

ہیں کہ ان میں بہت کچھ لوجکا دخل کیا ہوا ہے ہرگز لفظیوں میں: عن النبی صلعم قال لما قضی اللہ الخلق کتب کتابا عندہ غلبت اوقال سبقت

وتمتی غضبی فهو عندہ فوق العرش ۶ مٹا اس کے لفظیوں میں: یقول سمعت رسولی اللہ صلعم یقول ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق لغت

وتمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عندہ فوق العرش ۶ مٹا اس باب میں امام بخاری نے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال اور اوقال بھی اللہ تعالیٰ

کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر ایت میں ما تعلمون سے مراد وہ بت میں جنکو وہ بناتے تھے یا پھر وہ جنہیں وہ پوجتے تھے اور بعض نے ما تعلمون میں لوجکا دخل کیا

یہ طور تو بیخ لیا ہے اللہ نے لکھو پیدا کیا اور تم کیا کرتے ہو افعال اور اوقال انسانی کی نسبت اللہ کی مخلوق ہونے کی طرف صرف علت العمل ہونے کے معنی میں لکھی ہے

۱۲۵۰۰
۱۲۵۰۱
۱۲۵۰۲
۱۲۵۰۳
۱۲۵۰۴
۱۲۵۰۵
۱۲۵۰۶
۱۲۵۰۷
۱۲۵۰۸
۱۲۵۰۹
۱۲۵۱۰
۱۲۵۱۱
۱۲۵۱۲
۱۲۵۱۳
۱۲۵۱۴
۱۲۵۱۵
۱۲۵۱۶
۱۲۵۱۷
۱۲۵۱۸
۱۲۵۱۹
۱۲۵۲۰
۱۲۵۲۱
۱۲۵۲۲
۱۲۵۲۳
۱۲۵۲۴
۱۲۵۲۵
۱۲۵۲۶
۱۲۵۲۷
۱۲۵۲۸
۱۲۵۲۹
۱۲۵۳۰
۱۲۵۳۱
۱۲۵۳۲
۱۲۵۳۳
۱۲۵۳۴
۱۲۵۳۵
۱۲۵۳۶
۱۲۵۳۷
۱۲۵۳۸
۱۲۵۳۹
۱۲۵۴۰
۱۲۵۴۱
۱۲۵۴۲
۱۲۵۴۳
۱۲۵۴۴
۱۲۵۴۵
۱۲۵۴۶
۱۲۵۴۷
۱۲۵۴۸
۱۲۵۴۹
۱۲۵۵۰
۱۲۵۵۱
۱۲۵۵۲
۱۲۵۵۳
۱۲۵۵۴
۱۲۵۵۵
۱۲۵۵۶
۱۲۵۵۷
۱۲۵۵۸
۱۲۵۵۹
۱۲۵۶۰
۱۲۵۶۱
۱۲۵۶۲
۱۲۵۶۳
۱۲۵۶۴
۱۲۵۶۵
۱۲۵۶۶
۱۲۵۶۷
۱۲۵۶۸
۱۲۵۶۹
۱۲۵۷۰
۱۲۵۷۱
۱۲۵۷۲
۱۲۵۷۳
۱۲۵۷۴
۱۲۵۷۵
۱۲۵۷۶
۱۲۵۷۷
۱۲۵۷۸
۱۲۵۷۹
۱۲۵۸۰
۱۲۵۸۱
۱۲۵۸۲
۱۲۵۸۳
۱۲۵۸۴
۱۲۵۸۵
۱۲۵۸۶
۱۲۵۸۷
۱۲۵۸۸
۱۲۵۸۹
۱۲۵۹۰
۱۲۵۹۱
۱۲۵۹۲
۱۲۵۹۳
۱۲۵۹۴
۱۲۵۹۵
۱۲۵۹۶
۱۲۵۹۷
۱۲۵۹۸
۱۲۵۹۹
۱۲۶۰۰

وَسَعَى لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ حَمَلًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ	اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام عمل رکھا ابو ذر اور ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَقَالَ	پوچھا ایک عمل میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے تو فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد تھا اور اللہ کے
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ	فرمایا اس کا بدلہ جو وہ کرتے تھے (اصح: ۱۱) اور عبد القیس کے وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تم کو دین
مَنْ لَا مِرَانَ عَمَلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالشَّهَادَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآدَابَ	کے جہاد کا حکم بتایا کہ اگر تم ان کو کریں تو ہم جنت میں داخل ہوں تو آجے انکو ایمان اور شہادت اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم
الرَّكَاتِ فَجَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً عَمَلًا (م- ۲۷۵۰) عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَتَا (م- ۱۱۲۱۸) (م- ۲۷۵۰۵)	دیا تو آپ نے ان کو عمل قرار دیا دیکھو حدیث ۱۱۲۱۸ (م- ۲۷۵۰۵)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (م- ۲۷۵۰۶) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۰۵۰) (م- ۲۷۵۰۷)	دیکھو حدیث ۱۰۵۰ (م- ۲۷۵۰۷)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ (م- ۲۲۰۰) (م- ۲۷۵۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۲۰۲) (م- ۲۷۵۰۹) بَابُ	دیکھو حدیث ۲۲۰۰ (م- ۲۷۵۰۸) دیکھو حدیث ۲۲۰۲ (م- ۲۷۵۰۹)
قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمَنَافِقِ وَأَصْوَابِهِمْ وَبِلَاؤِهِمْ لَا تَجَارُ وَجَنَاتِهِمْ (م- ۲۷۵۰۹) عَنْ	بلکہ حار اور منافق کا قرآن پڑھنا اور ان کی آوازیں اور انکی تکاوت ان کے گھوڑوں سے آگے نہیں بڑھتی
أَبِي مُوسَى (م- ۱۹۹۹) (م- ۲۷۵۱۰) عَنْ عَائِشَةَ (م- ۱۱۲۵۲) (م- ۲۷۵۱۱) عَنْ	دیکھو حدیث ۱۹۹۹ (م- ۲۷۵۱۰) دیکھو حدیث ۱۱۲۵۲ (م- ۲۷۵۱۱)
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (م- ۱۱۶۱۲) (م- ۲۷۵۱۲) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ	دیکھو حدیث ۱۱۶۱۲ (م- ۲۷۵۱۲) باب اللہ تعالیٰ کا قول اور ہم قیامت کے نصاب کی میزانیں
الْقِسْطِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطُ أَسُّ الْعَدْلِ	رکھیں گے (الانبیاء - ۲۷) اور نبی آدم کے عمل اور ان کی بائیں و وزن کی جائیں گی اور جہاد ہے کہما روی زبان میں قسط اس انصاف کو کہتے ہیں
بِالرُّؤْيَا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرٌ الْمَقْسُوطُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَائِسُ فَهُوَ الْحَاكِمُ	اور کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے اور مقسطہ انصاف کو کہتے ہیں اور قاسم قسط کرنے والے کو
(م- ۲۷۵۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (م- ۲۲۸۸) (م- ۲۲۸۸)	دیکھو حدیث ۲۲۸۸ (م- ۲۲۸۸)

۱۲۱۲
 القرآن
 الفنا میں وہی ہوا
 ہے شروع میں
 ایک جملہ بڑھا یا
 ہے۔ قال کانت
 بین هذا الخی
 من حرم و بین
 الا شترتین
 وقہوا خیار اور
 ما صنعنا کے
 بعد لا یبارک
 لہنکون کجربان
 حلفت رسول
 اللہ صلعم لا
 ملنا وما عننا
 المناشم
 تغفلنا
 رسول اللہ صلعم
 یعبئہ واللہ لا
 نغفل ابدا +
 لا تخفین کمی
 بیشی سے وہی ہوا
 ہے۔ قال قدم
 وفدا عبد القیس
 علی رسول اللہ
 صلعم فقالوا ان
 بینا و بینک
 المشوکین من
 مغفوان لا لا
 نصل انیک الا
 اشہر حرم مننا
 جیل من الامور ہاں ہے ہاں مفضل ان عملنا بہ دخلنا الجنة وندخول الیہا من ودا ونا قال امرکم باربع وانہا کون عن ادبہ امرکم بالایمان
 باللہ وهل تدارون ما لا ایمان باللہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ (رواہ) وان محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہے) واقام الصلاۃ وایتام الزکاۃ (رواہ) اس
 کے بعد وصیام رمضان ہے) وتعدوا من المغنم الخمس وانہا کون عن ادبہ لا تنسوا ربکم وادبہم وادبہم فی الذباہ والنقیہ والظروف انوفۃ و
 الحدیثۃ (آخری جملہ وقال احفظہم انہا کون عن ادبہ لا تنسوا ربکم وادبہم وادبہم فی الذباہ والنقیہ والظروف انوفۃ و
 اصحاب ہذا الصورین یون یوم القیامۃ ویقال لہم احووا ما خلقتمہم دیکھو ث ۳ صفحہ ۲۷۲۲ م ۱۱۲۱۸ (م- ۲۷۵۰۵) الذین یصدون علیہم الصوکی جگہ اصحاب ہذا الصوہ ہے
 ۱۱۲۱۸ مکرر روایت متفق ہے۔ قال سمعت النبی صلعم یقول قال اللہ عزوجل ومن اعظم من ذہب یخلق یخلق فلیخلق اذرقہ او لیخلق احبہ او شیء یوق
 لا یعنی دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ شروع میں مثل الذی کی جگہ ہے مثل نمونہ الذی باقی لفظ وہی ہے + مکرر روایت کے لفظ قرآن ۳۰۸۲ کے ہیں
 فی اذن لیک یوق لقرآنۃ الدجاجۃ زیادہ ہے + مکرر روایت ایک مکرر ہے بیان وہی ہاں ہے۔ عن النبی صلعم قال یخیر الناس من قبل المشوق ویقولنا

کیران + مثل لفظ وہی میں صرف ایک دو جگہ آگے بیچھے ہیں +

۱۲۱۲